

صدر نظر خان شاہ کیونولائیہ

مَا آتَكُمْ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
رسول خدا جو کچھ تم کو دیں اس کو لے لو اور جس سے منع فرمائیں اس سے باز آ جاؤ

جَامِعِ تَرْمِذِي

مترجم مع مختصر شرح

جلد اول

از تالیف

امام محمد بن عیسیٰ ترمذی
رحمۃ اللہ علیہ

مترجم: مولانا فضل احمد صاحب مدظلہ



اڈوٹا بازار، ایسے جناح روڈ
کراچی پاکستان 2213768

دارالاشاعت

کمپیوٹر کتابت و ترجمہ کے جملہ حقوق ملکیت بحق دارالاشاعت کراچی محفوظ ہیں

باہتمام : خلیل اشرف عثمانی
طباعت : جنوری ۲۰۰۰ء علمی پرائنٹرز
صفحہ امت : ۸۴۸ صفحات

قارئین سے گزارش

اپنی حق الوصغ کوشش کی جاتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔ الحمد للہ اس بات کی نگرانی کے لئے ادارہ میں مستقل ایک عالم موجود رہتے ہیں۔ پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو ازراہ کرم مطلع فرما کر ممنون فرمائیں تاکہ آئندہ اشاعت میں درست ہو سکے۔ جزاک اللہ

..... ملنے کے پتے

ادارہ اسلامیات ۱۹۰۔ انارکلی لاہور
بیت العلوم 20 ناچھ روڈ لاہور
مکتبہ سید احمد شہید اردو بازار لاہور
یونیورسٹی بک انجمنی خیبر بازار پشاور
مکتبہ اسلامیہ گامی اڈا۔ بیت آباد
کتبہ خاندانہ رشید یہ۔ مدینہ مارکیٹ راجہ بازار راولپنڈی

ادارۃ المعارف جامعہ دارالعلوم کراچی
بیت القرآن اردو بازار کراچی
بیت القلم مقابل اشرف المدارس گلشن اقبال بلاک ۲ کراچی
بیت الکتب بالمقابل اشرف المدارس گلشن اقبال کراچی
مکتبہ اسلامیہ امین پور بازار فیصل آباد
مکتبہ المعارف محلہ جمنی۔ پشاور

انگلینڈ میں ملنے کے پتے

ISLAMIC BOOKS CENTRE
119-121, HAI ELI WELL ROAD
BOLTON, BL 3NE, U.K.

AZHAR ACADEMY LTD.
54-68, 111 FLELF ILFORD LANE
MANOR PARK, LONDON E12 5QA

امریکہ میں ملنے کے پتے

DARUL-ULOOM AL-MADANIA
182 SOBIESKI STREET,
BUFALO, NY 11212, U.S.A

MADRASAH ISLAMIAH BOOK STORE
6665 BINTLIFE, HOUSTON,
TX-77074, U.S.A.

بسم اللہ الرحمن الرحیم عرض ناشر

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔

اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے ادارے کے ذریعہ دین اسلام کی نہایت اہم اور مفید کتب کو شائع کرنے کا موقع عطا فرمایا اور تبلیغ و اشاعت کا یہ کام الحمد للہ مسلسل جاری ہے۔

اس ادارے کو اب تک تفسیر، فقہ، سیرت نبوی ﷺ، تصوف، تاریخ جیسے موضوعات پر کتب شائع کرنے کے علاوہ حدیث کی کئی بڑی مستند و مشہور کتب شائع کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ جن میں اب تک اس کتاب سے قبل درج ذیل کتب شائع ہو کر مقبول ہو چکی ہیں۔

۱۔ تفہیم البخاری ترجمہ و شرح صحیح بخاری شریف، ۳ جلد کامل۔

۲۔ تجرید بخاری شریف عربی مع اردو ترجمہ۔

۳۔ تقریر بخاری اردو۔

۴۔ ریاض الصالحین عربی مع اردو ترجمہ۔

۵۔ مظاہر حق جدید شرح مشکوٰۃ شریف، ۵ جلد۔

۶۔ تنظیم الاشارات اردو شرح مشکوٰۃ، ۲ حصے کامل۔

۳۔ معارف الحدیث ترجمہ و شرح، حصے کامل۔

زیر نظر کتاب جامع ترذی مع ترجمہ و حواشی پیش خدمت ہے۔ پہلے بھی اس کا اردو ترجمہ شائع ہو چکا ہے۔ فی زمانہ ترجمہ قدیم ہونے کی وجہ سے اس کی زبان سمجھ میں آنا مشکل ہوتا تھا۔ اس لئے ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ کوئی مستند صاحب علم اس کا اردو ترجمہ دور حاضر کے لئے آسان زبان میں کر دے اور جا بجا مشکل مقامات پر تشریحی نوٹ کا بھی اضافہ کر کے اس کی افادیت عام آدمی تک بخوبی پہنچا سکے۔ اس مقصد کے لئے کافی انتظار و جستجو کے بعد کئی صاحب علم حضرات کے مشورے سے جناب مولانا فضل احمد صاحب (تعارف علیحدہ تحریر ہے) سے درخواست کی گئی۔ کافی پس و پیش اور ادارے کی طرف سے مسلسل

اصرار کے بعد احقر کی فرمائش پر انہوں نے اس کام کا بیڑہ اٹھالیا اور تقریباً ۲ سال کے عرصہ میں یہ کام مکمل ہو سکا ہے۔ اس نسخہ میں ایک تبدیلی یہ بھی کردی ہے کہ پوری کتاب میں باب نمبر اور حدیث نمبر ڈال دیئے ہیں تاکہ حوالہ دینا اور اسے تلاش کرنا آسان ہو جائے۔ اس سے کتاب کی افادیت میں کافی اضافہ ہو گیا ہے جو پہلے سے طبع شدہ نسخوں میں نہیں ہے۔

حدیث کے کام کی اہمیت اور احتیاط کو پیش نظر رکھتے ہوئے ترجمہ و حواشی کا مسودہ دارالعلوم کراچی کے استاد حدیث جناب محمود اشرف صاحب کو دکھایا گیا۔ انہوں نے اس کے مختلف مقامات دیکھ کر پسندیدگی کا اظہار کیا اور ایک مضمون تحریر فرمایا جو سند کے طور پر کتاب کا حصہ ہے۔

اس کے علاوہ ہمیں کتاب میں شامل کرنے کے لئے ”امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ“ کے مستند و مفصل حالات کی تلاش تھی جو ہمیں جامع ترمذی کی مشہور اردو شرح درس ترمذی میں شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب مدظلہم کے تحریر کئے ہوئے مل گئے، وہ بھی بصد شکر یہ یہاں شامل کئے جا رہے ہیں۔

تصحیح کے لئے بھی حتی الامکان کوشش کی ہے کہ بہتر سے بہتر ہو سکے اور انشاء اللہ توقع یہی ہے کہ اس میں قارئین کو شکایت نہ ہوگی۔ لیکن پھر بھی کوئی غلطی یا خامی محسوس ہو تو ادارے کو مطلع فرمائیں۔ انشاء اللہ فوری دور کیا جائے گا۔

احقر کے والد ماجد محمد رضی عثمانی صاحب مرحوم کی یہ بڑی خواہش تھی کہ صحاح ستہ کی کتب کو جدید ترجمہ و حواشی کے ساتھ شائع کیا جائے اور یہ کام انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں شروع کر دیا تھا۔ اس کا بنیادی خاکہ اور اس کام کا طریقہ بھی انہوں نے ہی بتایا تھا۔ اسی کے مطابق یہ کام اب بحسن و خوبی تیار ہو کر ہاتھوں میں ہے۔ اس وقت ان کی شدید کمی محسوس ہو رہی ہے۔ آپ سب حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ والد صاحب مرحوم کے لئے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما کر درجات عالیہ پر فائز فرمائے۔ آمین۔

آخر میں یہ بھی دعا فرمائیں کہ ہماری اس کوشش کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اپنی زندگی کے تمام کاموں میں اخلاص عطا فرمائے۔ آمین۔

والسلام

ناکارہ خلیل اشرف عثمانی

تعارف مترجم

جناب مولانا فضل احمد صاحب مدظلہ

میرے استاد محترم مولانا فضل احمد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف دینی علوم سے بخوبی آراستہ کیا بلکہ علوم جدیدہ پر بھی گہری نظر عطا فرمائی ہے۔ آپ تقریباً چوبیس سال سے درس و تدریس سے وابستہ ہیں اور اسکول و کالج سے لے کر یونیورسٹی تک تعلیم و تدریس کی خدمات انجام دیتے رہے ہیں اور طلباء میں آپ کو اپنے علمی مقام اور تدریسی اسلوب کی وجہ سے ایک خاص مقبولیت حاصل رہی ہے۔

آپ نے درس نظامی کی تکمیل مخزن العلوم عید گاہ خانپور اور جامع العلوم بہاولنگر میں کی۔ فاضل عربی کی سند بھی آپ کے پاس ہے اور ترجمہ قرآن کی سند فضیلت بھی مولانا عبداللہ درخواسی صاحب کے مدرسہ سے حاصل کی۔ اس کے علاوہ علوم جدیدہ میں بھی مختلف اسناد حاصل کی ہیں۔ علوم اسلامیہ میں ایم۔ اے کیا۔ دوسرا ایم۔ اے آپ نے تاریخ اسلام میں کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے قانون میں ایل ایل بی اور تعلیم میں بی ایڈ کی ڈگری بھی حاصل کی۔ ابھی حال ہی میں آپ نے ایک علمی مقالہ ”مسئلہ انکار حدیث کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ“ پر ڈاکٹریٹ کی سند حاصل کی ہے۔

آج کل آپ جامعہ کراچی میں شعبہ علوم اسلامی میں استاد ہیں اور ایم اے کی جماعتوں کو پڑھا رہے ہیں۔ تدریس کے علاوہ تحریر کے میدان میں بھی مولانا محترم ایک خاص مقام رکھتے ہیں اور مختلف علمی و ذہنی رسائل میں آپ کے علمی، دینی اور تاریخی مضامین شائع ہوتے رہتے ہیں۔

ناشر

خلیل اشرف عثمانی

عرض مترجم

احمد اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیٰ عظیم فضله و اشکرہ علیٰ جزیل
احسانہ و اصلی و أسلم علیٰ اشرف رسلہ و أفضل انبیائہ

خدائے بزرگ و برتر کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ رسول اکرم ﷺ کی احادیث مبارکہ کا گراں مایہ نسخہ، کتب صحاح ستہ کی مشہور و معروف کتاب ”جامع ترمذی“ کا آسان، عام فہم اردو زبان میں ترجمہ کرنے اور اس کے اہم و مشکل مقامات و موضوعات کی مستند، جامع و مختصر تشریح کے جس اہم کام کا آغاز اس کی توفیق و عنایت سے کیا تھا، بحمد اللہ اسی کی خصوصی عنایت کی بدولت آج یہ کام پایہ تکمیل کو پہنچا۔ اس انعام خداوندی پر میں اس کا جتنا بھی شکر ادا کروں، کم ہے۔ میں یہاں پر اپنے استاد و محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر امتیاز صاحب کا شکر یہ ادا کرنا بھی اپنا فریضہ سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے اس اہم کام کی تکمیل میں قدم قدم پر میری نہ صرف رہنمائی فرمائی بلکہ اپنے قیمتی مشوروں سے بھی نوازا۔ اگر میں اپنے عزیز ترین دوست جناب زاہد عبداللہ صاحب کا شکر یہ ادا نہ کروں تو یہ بڑی زیادتی ہوگی کہ جنہوں نے اس کام کی تکمیل میں میرے ساتھ مثالی تعاون فرمایا۔

نفل اس کے کہ میں اس کے ناشر کا عیق قلب سے شکر ادا کروں اس حقیقت کا اظہار کر دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ اس اہم ترین کام کی انجام دہی کے لئے مجھے ان کے اس والہانہ لگاؤ، مسلسل اصرار اور تقاضائے پیہم نے ہی آمادہ کیا ورنہ میں تو ہر دفعہ ان کی خواہش کو اپنی بے پناہ مصروفیات اور گھریلو حالات کی بناء پر نالتا ہی رہا۔ بہر حال میں اس کتاب کے ناشر میرے عزیز ترین تلمیذ رشید جناب ظلیل اشرف صاحب کا سپاس گزار ہوں کہ جن کی خصوصی توجہ اور جہد مسلسل کی بدولت یہ کتاب زیور طباعت سے آراستہ و پیراستہ ہو کر آپ کے مطالعہ کی زینت بنی۔

میں اپنے محترم برادر م معزز رفیق کار و مصنف ہادی عالم ﷺ (غیر منقوٹ سیرت) جناب ولی رازی صاحب کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں کہ جن کی تحریک اور دلچسپی سے اس نیک کام کی ابتداء ہوئی۔ آخر میں ان تمام احباب کا بھی شکر یہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس کام کی تکمیل اور اس کتاب کی طباعت میں مجھے کسی نہ کسی صورت میں ان کا تعاون حاصل رہا۔

ترجمہ و تشریح کے لئے جن امور کا خاص خیال رکھا اس کی تفصیل اس طرح ہے۔

۱۔ ترجمہ نہایت سادہ، آسان، عام فہم اور با محاورہ کرنے کا التزام کیا گیا۔

۲۔ تحت اللفظ ترجمہ سے اجتناب کیا گیا تاکہ مفہوم واضح اور ذہن نشین ہو جائے۔

۳۔ ترجمہ میں صحت کا خاص خیال رکھا گیا۔

۴۔ زبان و بیان میں معیار کے ساتھ ساتھ ادب و احترام کو بھی ملحوظ خاطر رکھا گیا۔

۵۔ جدید تعلیم یافتہ احباب کی نفسیاتی ضرورتوں کو پیش نظر رکھا گیا۔

۶۔ قرآن کریم کی آیات مذکورہ کے ترجمہ میں بھی متعدد تراجم کو سامنے رکھ کر معیار صحت اور اعلیٰ ادبی مقام کی رعایت کے ساتھ ساتھ انہیں سلیس اور عام فہم اور بامحاورہ انداز میں پیش کرنے کی پوری پوری کوشش کی گئی۔

۷۔ حدیث کے بعض اہم اور مشکل الفاظ کی تشریح بھی حاشیہ میں کر دی گئی۔

۸۔ تشریحات کے لئے مختلف اہم مصادر اور مراجع جیسے جامع البیان، الجامع الاحکام القرآن، معارف القرآن، اعلاء السنن، معارف السنن، اوجز المسالک، فتح الباری، فضل الباری، ارشاد الساری، انوار الباری، عمدۃ القاری، تحفۃ الاحوذی، العرف البندی، فتح الہلیم، تقریر بخاری، درس ترمذی، مظاہر حق، عون المعبود، ہدایہ، امداد الفتاویٰ، فتاویٰ دارالعلوم، امداد الاحکام، جواہر الفقہ، کتاب الفقہ، فتاویٰ عالمگیری اور فتاویٰ رشیدیہ وغیرہ وغیرہ سے خصوصی استفادہ کیا گیا ہے۔

۹۔ مسائل کی توضیحات میں قرآن و سنت کو بنیاد بناتے ہوئے مسلک امام ابوحنیفہؒ کا خصوصی لحاظ رکھا گیا۔ سابقہ ترجمہ میں یہ بات نہیں ہے۔

۱۰۔ تشریحی نوٹ میں معیار اور اختصار کے اصول کو اپنایا گیا ہے۔

۱۱۔ چونکہ یہ جامع ترمذی کی کوئی مبسوط و مفصل اردو شرح نہیں ہے۔ اسی لئے تشریحات کے لئے مشکل اور اہم

موضوعات و مقامات کا انتخاب کیا گیا ہے۔

واجب الاحترام قارئین کرام و علماء عظام سے درخواست ہے کہ دوران مطالعہ اس کتاب میں جو خامیاں اور غلطیاں نظر آئیں ازراہ کرم بمعرفت ناشران سے ہمیں مطلع فرمائیں تاکہ نئے ایڈیشن میں ان کی اصلاح و تلافی کی جاسکے۔ میں اس کے لئے تمام اہل علم حضرات کا احسان مند و شکر گزار ہوں گا کیونکہ مجھے اپنے علمی بے بائگی کا اعتراف کرتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ویسے بھی انسان خطا کا پتلا ہے۔

”الانسان مرکب من الخطا والنسیان“

قارئین کرام سے مزید التماس ہے کہ اپنی خصوصی دعاؤں میں مجھے، میرے اہل خانہ، ناشر اور ان کے اہل خانہ کو خصوصیت کے ساتھ یاد فرمائیں۔ خالق دو جہاں سے دل سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ناچیز کی اس کاوش کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اسے میرے لئے ذخیرہ آخرت، نجات اخروی، وسیلہ کامرانی و شادمانی اور ذریعہ فلاح دارين بنائے۔ آمین۔

طالب رحمت خداوندی

فضل احمد

شعبہ علوم اسلامی، کلیہ معارف اسلامیہ، جامعہ کراچی، کراچی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیش لفظ

جناب مولانا محمود اشرف صاحب مدظلہم

قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ازلی ہے اور احادیث طیبہ رسول اللہ ﷺ کے وہ کلمات مبارکہ ہیں جن میں آپ ﷺ کے قول و فعل کے ذریعہ قرآن مجید کے متن کے تشریح کی گئی ہے۔ جس طرح قرآن مجید رہتی دنیا تک راہ ہدایت ہے، اسی طرح رسول اللہ ﷺ کی تعلیمات بھی قیامت تک کے لئے مشعل راہ ہیں۔ جو شخص ختم نبوت کے عقیدہ پر ایمان رکھتا ہوگا اور رسول اللہ ﷺ کو خاتم النبیین تسلیم کرتا ہوگا وہ خود بخود اس بات کا قائل ہوگا کہ جب تک خاتم الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت باقی ہے اس وقت تک آپ کی تعلیمات بھی باقی رہیں گی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن مجید کا صحیح مطلب و مفہوم سمجھنا اور اس پر عمل کرنا احادیث طیبہ کے بغیر ناممکن و محال ہے۔ اس لئے امت محمدیہ نے جس طرح قرآن مجید کے ایک ایک نقطے کی پوری پوری حفاظت کی ہے اسی طرح احادیث کو محفوظ کرنے کے لئے بھی امت نے اپنی طرف سے کوئی کسر اٹھانہیں رکھی۔ محدثین نے احادیث کو جمع کرنے، صحیح کو ضعیف سے ممتاز کرنے اور ان کے راویوں کی چھان پھنک کے لئے جو حیرت انگیز اور مجیر العقول محنتیں برداشت کی ہیں ان کا اندازہ ہر اس شخص کو ہو سکتا ہے جس نے تاریخ حدیث اور محدثین کی سیر و سوانح کا ذرا بھی خدا خونی کے ساتھ مطالعہ کیا ہو۔ محدثین کی انہیں عظیم المرتبت خدمات مقبولہ کا ثمرہ ہے کہ آج احادیث کا مستند ذخیرہ نکھری ہوئی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔

وہ احادیث جن میں سے ایک ایک حدیث کے جمع کرنے کے لئے محدثین نے اپنا خون پسینہ ایک کیا تھا۔ دور دراز کے سفر کئے تھے۔ بھوک، پیاس اور فقر و فاقہ کی اذیتیں بڑی خندہ پیشانی سے برداشت کی تھیں، وہ سب احادیث آج ہمارے سامنے مدون کتابوں کی شکل میں اس طرح موجود ہیں کہ ان کے حصول کے لئے صفحات پلٹنے کے سوا اور کوئی تکلیف اٹھانی نہیں پڑتی۔ اللہ تعالیٰ ان جلیل القدر محدثین کو ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ اس لئے احادیث کی صحیح قدر و منزلت کا اندازہ یا تو وہ محدثین عظام کر سکتے تھے جنہوں نے اس کی حفاظت کے لئے اپنی جانیں وقف کیں یا پھر وہ فقہاء

کرام جنہوں نے ان احادیث سے مسائل کے استنباط کے لئے اپنی زندگیاں خرچ کیں۔ ہم جیسوں کے لئے تو یہی بڑی دولت ہے کہ دین کے وہ مسلمہ عقائد اور فقہی مسائل جو مستند علماء کرام رحمہم اللہ نے مرتب اور منجھ شکل میں ہمارے سامنے پیش کر دیے ہیں، ان پر مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا ہو جائیں تاکہ آخرت کی نجات کا سامان ہو جائے جو مقصود اصلی ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ بہت سے صاحب جذبہ، دیدار حضرات کی خواہش ہوتی ہے کہ احادیث طیبہ کے مطالعہ سے اپنی زندگی کو منور اور اپنے ایمان کو تازگی عطا کریں۔ چونکہ یہ حضرات عربی سے نابلد ہوتے ہیں اس لئے حدیث کی اہم اور معروف کتابوں کے ترجمے شائع کئے جاتے ہیں۔ تاکہ یہ لوگ بھی اس ذخیرہ سے مستفید ہو سکیں۔ اس سلسلہ کی ایک کڑی سماج ستہ میں شامل مشہور کتاب "جامع ترمذی" کا یہ ترجمہ بھی ہے۔ جو اس وقت دارالاشاعت کی طرف سے شائع کیا جا رہا ہے۔ برادر عزیز غلیل اشرف عثمانی صاحب کی خواہش پر احقر نے اس ترجمہ کا چند جگہ سے مطالعہ و استفادہ کیا۔ نیز سابقہ ترجمہ سے سواز نہ بھی کیا تو اندازہ ہوا کہ محترم و مکرم جناب مولانا فضل احمد صاحب کا کیا ہوا یہ ترجمہ پہلے ترجموں کے مقابلے میں زیادہ سلیس، عام فہم اور آسان ہے۔ اور انہوں نے اہم مقامات پر مفید حواشی کا اضافہ کر کے ایک اچھی خدمت انجام دی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مصنف، مترجم، ناشر اور ان تمام لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائیں جنہوں نے اس مجموعہ کی ترتیب و اشاعت میں کسی بھی طور پر حصہ لیا ہے۔

اس سے قبل کہ آپ حدیث شریف کی اس اہم کتاب کے مطالعہ کا شرف حاصل کریں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایک اصولی بات ذہن نشین کر لی جائے تاکہ احادیث طیبہ کے مطالعہ سے کسی غلط نتیجہ پر نہ پہنچیں۔ وہ اصولی بات یہ کہ عام قاری کے لئے حدیث کی کسی بھی کتاب میں کوئی حدیث پڑھ کر اس سے کسی فقہی مسئلہ کے بارے میں حتمی رائے قائم کرنا ہرگز صحیح نہیں۔ جس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اصول حدیث اور اصول فقہ سے قطع نظر وہ عام وجوہات جن کے لئے کسی زیادہ علم و تدبر کی ضرورت نہیں درج ذیل ہیں:

۱۔ ایک حدیث شریف جو کتاب کے کسی ایک باب میں کسی مناسبت سے ذکر کی گئی ہے اور جس میں ایک واقعہ یا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے اکثر متعدد راویوں سے مروی ہوتی ہے۔ ایک ہی کتاب کی مصنف اس حدیث کی ایک روایت جس میں اختصار ہوتا ہے باب کی مناسبت سے ایک جگہ پر ذکر کرتے ہیں۔ مگر وہی حدیث دوسرے راویوں کی روایت سے نسبتاً مفصل طریقہ سے دوسرے ابواب میں مذکور ہوتی ہے۔ جب تک حدیث کے وہ سب طرق روایت سامنے نہ ہوں، آخری فیصلہ ممکن نہیں ہے۔

۲۔ بسا اوقات ایک حدیث، حدیث کی کسی کتاب میں مروی ہوتی ہے۔ مگر اس میں اختصار ہوتا ہے۔ وہی حدیث دوسری مستند کتابوں میں نسبتاً زیادہ تفصیل سے موجود ہوتی ہے۔ جس سے مسئلہ اور واقعہ کی صحیح اور پوری تفصیل سامنے آتی ہے۔ اس کے بغیر حتمی نتیجہ پر پہنچنا درست نہیں۔

۳۔ ہو سکتا ہے کہ جو حدیث آپ پڑھ رہے ہیں وہ سند کے اعتبار سے اتنی قوی نہ ہو اور اس کے مقابلہ میں دوسری احادیث نسبتاً زیادہ قوی سند کے ساتھ مروی ہوں۔

۴۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو حدیث آپ کے سامنے ہے وہ سند کے اعتبار سے اگرچہ عمدہ درجہ کی ہو مگر کسی آیت یا دوسری حدیث سے منسوخ یا مخصوص ہو چکی ہو۔ جب تک قرآن مجید اور تمام احادیث کا مکمل علم حاصل نہ ہو، نسخ، منسوخ اور ترجیح کا

اندازہ نہیں ہو سکتا اور اس کے بغیر فیصلہ کرنا جہالت کے سوا کچھ نہیں۔

۵۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حدیث شریف کا جو مطلب آپ سمجھ رہے ہیں یا اسے پڑھ کر آپ فوراً ایک نتیجہ پر پہنچ گئے ہیں، وہ اس حدیث کا سرے سے مطلب و مفہوم ہی نہ ہو۔ اس کی مثالیں نہ صرف قرآن مجید اور احادیث طیبہ میں اکثر سامنے آتی رہتی ہیں بلکہ یہ معاملہ ہر ذمعی اہم تصنیف کی تشریح اور قانون کی تعبیر کے سلسلہ میں آئے دن سامنے آتا رہتا ہے۔

۶۔ کئی مرتبہ حدیث کا ایک خاص شان و رود ہوتا ہے اور اس حدیث پر عمل کرنے میں بھی عامل، ماحول، عوامل اور وقت کی خصوصیت کو دخل ہوتا ہے۔ جس کا فیصلہ فقہاء، مجتہدین اور صوفیائے محققین ہی کر سکتے ہیں۔ نخض مطالعہ کے زور پر ہر فیصلہ کرنا اپنے آپ کو رسوائی میں مبتلا کرنا ہے۔

۷۔ آخری بات یہ کہ احادیث طیبہ کے اس عظیم ذخیرہ کی عام فہم مثال ایسی ہے جیسے جان بچانے والی نادر اور قیمتی دواؤں کا عظیم ذخیرہ ہو جو انسانی زندگی کی بقاء اور صحت کا ضامن ہوتا ہے۔ مگر ہر دوا ہر شخص کے لئے ہر موقع پر مفید نہیں ہوتی۔ نہ ان دواؤں سے ہر شخص کو خود اپنا علاج کرنے کی اجازت دی جاسکتی ہے۔ ورنہ ایسی اجازت خود اس کے حق میں مہلک ثابت ہوگی۔ بلکہ اس کے لئے ایسے طبیب حاذق کی ضرورت ہے جس کا علم و تجربہ اور فہم واضح دلائل سے ثابت ہو چکا ہے۔ اسی طرح دین و دنیا کی صلاح و فلاح کے احادیث طیبہ کے اس عظیم اور انمول ذخیرہ سے استنباط کے لئے وسیع علم، عمیق تفقہ، مثالی تقویٰ و طہارت اور خداداد نور بصیرت درکار ہے۔ اس کے بغیر استنباط کی اس وادی میں قدم رکھنا گمراہی کو دعوت دینا ہے۔ اس اصولی بات کو کہ احادیث کے مطالعہ کے دوران اپنی رائے اور فہم کو حرف آخر نہ سمجھا جائے، اگر احادیث کے مطالعہ میں پیش نظر رکھا جائے تو انشاء اللہ غلط فہمیوں اور الجھنوں سے نجات رہے گی اور اس کے نتیجہ میں احادیث طیبہ میں سے ہر حدیث ایمان کی قوت و حلاوت، روح کی پاکیزگی اور عمل میں خیر و برکت کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر ٹھیک ٹھیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

محمود اشرف عثمانی

عفا اللہ عنہ

مدرس دارالعلوم کورنگی کراچی نمبر ۱۴

ربیع الاول ۱۴۱۲ھ

امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ

امام ترمذیؒ کا پورا نام محمد بن عیسیٰ بن سورۃ بن موسیٰ ہے۔ کنیت ابو عیسیٰ اور وطن کی نسبت ”بوغی“ اور ”ترمذی“ ہے۔ علامہ بقاعیؒ فرماتے ہیں کہ آپ کے آباء و اجداد شہر ”مرد“ کے باشندے تھے۔ پھر خراسان کے شہر ”ترمذ“ میں منتقل ہو گئے، جو دریائے جیحون کے کنارے ایک مشہور شہر تھا۔ اس شہر سے بڑے بڑے علماء و محدثین پیدا ہوئے۔ اس لئے اس کو ”مدینۃ الرجال“ کہا جاتا ہے۔ اس شہر سے چند فرسخ کے فاصلہ پر ”بوغ“ نامی قصبہ آباد تھا۔ امام ترمذیؒ اسی قصبہ میں پیدا ہوئے۔ اس لئے ان کو ”بوغی“ بھی کہتے ہیں اور ”ترمذی“ بھی۔ لیکن چونکہ بوغ، ترمذ کے مضافات میں واقع تھا اس لئے ترمذی کی نسبت زیادہ مشہور ہوئی۔

لفظ ”ترمذ“ کے ضبط میں کئی اقوال ہیں۔

۱۔ ضم الاول والثالث یعنی تَرْمِذٌ۔

۲۔ فتح الاول وکسر الثالث یعنی تَرْمِذٌ۔

۳۔ فتحہما یعنی تَرْمِذٌ۔

۴۔ کسر ہما یعنی تَرْمِذٌ اور یہ آخری قول زیادہ معروف و مقبول ہے۔

امام ترمذیؒ کا سن پیدائش ۲۰۹ ہجری اور بعض حضرات نے فرمایا کہ ۲۰۰ھ ہے۔ لیکن پہلا قول زیادہ راجح ہے۔ آپ کی وفات بالتفاق ۲۷۹ ہجری میں ہوئی۔ حضرت شاہ صاحبؒ نے ایک مصرعہ میں ان کی تاریخ وفات جمع کی ہے:

عطر مداہ و عمرہ فی عین (ع)

۷۰

۲۷۹

اس میں عطر کے اعداد دو سو اسی ہوتے ہیں، جو ان کی تاریخ وفات ہے اور ۷۰ کا عدد ۷۰ ہے، جو ان کی کل مدت

عمر ہے۔

امام ترمذیؒ نے پہلے اپنے وطن میں رہ کر علم حاصل کیا۔ اس کے بعد طلب علم کے لئے حجاز، مصر، شام، کوفہ، خراسان اور بغداد وغیرہ کے سفر بھی کئے اور اپنے وقت کے بڑے بڑے شیوخ حدیث سے علم حاصل کیا۔ جن میں امام بخاری،

امام مسلم، امام ابوداؤد بحستانی، احمد بن منیع، محمد بن المثنیٰ، محمد بن بشار، ہناد بن السری، قتیبہ بن سعید، محمود بن غیلان، اسحاق بن موی الا نصاریٰ جیسے جلیل القدر محدثین شامل ہیں اور ان کے علاوہ بھی سینکڑوں محدثین سے امام ترمذی نے علم حاصل کیا۔

تمام اساتذہ امام ترمذی کی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ امام بخاری کو تو آپ سے بہت ہی تعلق تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ ایک موقع پر امام بخاری نے امام ترمذی سے فرمایا ”ما انتفعت بک اکثر مما انتفعت بی“..... حضرت شاہ صاحب نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر شاگرد ذہین اور ذی استعداد ہو تو استاذ اسے پڑھانے میں زیادہ محنت کرتا ہے۔ جس سے خود استاد کو فائدہ پہنچتے ہیں۔

اس کے علاوہ امام ترمذی کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ وہ بعض احادیث میں اپنے استاذ امام بخاری کے بھی استاذ ہیں۔ یعنی چند حدیثیں خود امام بخاری نے ان سے سنی ہیں۔ چنانچہ امام ترمذی نے اپنی جامع میں ایسی دو حدیثوں کے بارے میں تصریح کی ہے کہ یہ امام بخاری نے مجھ سے سنی تھیں۔ ایک حدیث یہ کہ حضور ﷺ نے حضرت علیؑ سے فرمایا ”لا یحل (۱) لاحد ان یجنب فی هذا المسجد غیری وغیرک“ امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرمایا ”وقد سمع محمد بن اسمعیل منی هذا الحدیث واستغربه“۔ اس طرح کتاب التفسیر میں سورہ حشر کی تفسیر کے تحت ایک حدیث آئی ہے۔ وہاں بھی امام ترمذی نے اسی قسم کی تشریح فرمائی ہے۔

امام ترمذی غیر معمولی حافظہ کے مالک تھے، اور اس سلسلہ میں آپ کے کئی واقعات مشہور ہیں۔ چنانچہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے ”بستان المحدثین“ میں ان کا یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ان کو کسی شیخ سے احادیث کے دو صحیفے اجازت پہنچے تھے۔ ایک مرتبہ وہ سفر میں تھے کہ راستہ میں کسی منزل پر ان شیخ سے ملاقات ہوئی۔ امام ترمذی نے چاہا کہ جو صحیفے ان کے پاس اجازت پہنچے ہیں، ان کو قرأت شیخ سے حاصل کر لیں۔ چنانچہ شیخ سے ان اجزاء کی قرأت کی درخواست کی۔ شیخ نے درخواست منظور فرمائی اور کہا وہ اجزاء لے آؤ۔ امام ترمذی نے اپنے مہمل جا کر ان اجزاء کو اپنے سامان میں تلاش کیا تو وہ نہ مل سکے اور پتہ چلا کہ وہ جزو تو گھر پر رہ گئے ہیں اور ان کی جگہ سادے کاغذ رکھے ہوئے ہیں۔ بڑے پریشان ہوئے، پھر یہ ترکیب کی کہ وہی سادہ کاغذ لے کر شیخ کی خدمت میں پہنچ گئے۔ شیخ نے احادیث پڑھنا شروع کر دیں اور امام ترمذی سادہ کاغذ پر نظر جمائے یہ ظاہر کرتے رہے کہ لکھے ہوئے اجزاء کا شیخ کی قرأت سے موازنہ کر رہے ہیں۔ اچانک شیخ کی نظر سادہ کاغذ پر پڑی تو شیخ نے ناراض ہو کر فرمایا ”اما تستحی منی؟“ اس موقع پر امام ترمذی نے پورا واقعہ سناتے ہوئے کہا کہ آپ نے جتنی احادیث سنائی ہیں وہ سب کی سب مجھے یاد ہو گئی ہیں۔ شیخ نے سنانے کا مطالبہ کیا تو امام ترمذی نے من، عن تمام احادیث سنادیں۔ شیخ نے فرمایا ”لعلک استظہر تھا من قبل“ امام ترمذی نے فرمایا کہ آپ مجھے ان کے علاوہ کچھ احادیث سنائیں۔ چنانچہ شیخ نے مزید چالیس احادیث سنائیں اور امام ترمذی نے فوراً وہ من و عن دہرا دیں۔ شیخ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور فرمایا ”ما رأیت مثلك“۔

امام ترمذی کا ایک اور واقعہ مشہور ہے جو اب تک کسی کتاب میں نظر سے نہیں گذرا، لیکن اپنے متعدد مشائخ سے سنا ہے، اور وہ یہ کہ امام ترمذی نابینا ہونے کے بعد ایک مرتبہ اونٹ پر سوار ہو کر حج کو تشریف لے جا رہے تھے۔ راستہ میں ایک مقام پر

(۱) اخرج الترمذی ۱۲ ابواب المناقب، مناقب علی بن ابی طالب۔

انہوں نے چلتے چلتے اپنا سر جھکا لیا اور دیگر رفقاء کو بھی ایسا کرنے کی ہدایت دی۔ رفقاء نے حیران ہو کر اس کی وجہ پوچھی تو امام ترمذی نے فرمایا کہ یہاں کوئی درخت نہیں ہے؟ ساتھیوں نے انکار کیا۔ تو امام ترمذی نے گھبرا کر قافلہ کو روکنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اس کی تحقیق کرو، مجھے یاد ہے کہ عرصہ دراز پہلے جب میں یہاں سے گزرا تھا اس جگہ ایک درخت تھا۔ جس کی شاخیں بہت چھکی ہوئی تھیں اور جو مسافروں کے لئے بڑی پریشانی کا باعث تھا اور سر جھکانے بغیر اس کے نیچے سے گزرنا ممکن نہ تھا۔ شاید اب وہ درخت کسی نے کاٹ دیا ہے۔ اگر واقعہ ایسا نہیں ہے اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہاں درخت نہیں تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا حافظہ کمزور ہو چکا ہے۔ لہذا میں روایت حدیث کو ترک کر دوں گا۔ لوگوں نے اتر کر آس پاس کے لوگوں سے تحقیق کی تو لوگوں نے بتایا کہ واقعہ یہاں ایک درخت تھا، چونکہ وہ مسافروں کی پریشانی کا باعث تھا اس لئے اب اسے کٹا دیا گیا ہے۔

حضرت گنگوہی نے فرمایا کہ امام ترمذی ”اکمہ“ یعنی مادرزاد نابینا تھے۔ لیکن حضرت شاہ صاحب وغیرہ نے فرمایا کہ یہ قول درست نہیں، بلکہ وہ شروع میں نابینا نہ تھے، جیسا کہ ان کے بعض واقعات سے معلوم ہوتا ہے۔ ہاں آخری عمر میں خیریت الہی کے غلبہ کی وجہ سے بہت روتے تھے، جس کی وجہ سے بینائی جاتی رہی۔

امام ترمذی کی کنیت ”ابوعیسیٰ“ ہے اور وہ اسی کنیت سے ”جامع ترمذی“ میں اپنے اقوال ذکر کرتے ہیں، لیکن اس میں کلام ہوا ہے کہ یہ کنیت رکھنا کہاں تک جائز ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت ہے، جس میں آنحضرت ﷺ سے منقول ہے کہ آپ نے ابوعیسیٰ کنیت رکھنے سے منع فرمایا، جس کی وجہ آپ ﷺ نے یہ بیان فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں تھا اور اس کنیت سے فساد عقیدہ کا شبہ ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام ترمذی نے یہ کنیت کیوں اختیار کی؟ اس کے مختلف جوابات دیئے گئے ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ امام ترمذی کو ممانعت والی حدیث پہنچی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ بات بہت مستبعد ہے کہ امام ترمذی جیسے حافظ حدیث سے ایسی معروف حدیث پوشیدہ رہ گئی ہو۔ اس لئے بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ ممانعت خلاف اولیٰ پر محمول ہے نہ کہ تحریم پر۔ لیکن اس پر بھی شبہ ہوتا ہے کہ اہل تقویٰ کے نزدیک ناجائز اور خلاف اولیٰ دونوں قسم کے افعال متروک ہونے میں برابر ہوتے ہیں اور امام ترمذی ورع و تقویٰ کے جس مقام پر تھے، اس سے یہ بعید ہے کہ انہوں نے بلا وجہ اس خلاف اولیٰ کا ارتکاب کیا ہو، بعض لوگوں نے یہ بھی جواب دیا ہے کہ نبی تنزیہی ہے، اس لئے امام ترمذی نے اس میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔ لیکن یہ بات بھی امام ترمذی کے ورع و تقویٰ سے بعید ہے۔ اس لئے سب سے بہتر جواب یہ ہے کہ اس مسئلہ پر امام ابوداؤد نے اپنی سنن میں ایک مستقل باب قائم کیا ہے اور اس میں حضرت مغیرہ بن شعبہ کی روایت ذکر کی ہے کہ انہوں نے اپنی کنیت ابوعیسیٰ رکھی تھی۔ حضرت عمرؓ نے اس پر اعتراض کیا تو حضرت مغیرہ نے فرمایا کہ میں نے یہ کنیت حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں اختیار کی تھی۔ آپ ﷺ کو اس کا علم تھا، لیکن آپ ﷺ نے اس پر کوئی نکیر نہیں فرمائی۔

اس حدیث کی بناء پر امام ترمذی کا مسلک یہ ہوگا کہ یہ کنیت رکھنا ابتدائے اسلام میں فساد عقیدہ سے بچنے کے لئے ممنوع تھا، گویا کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی ممانعت والی حدیث اسلام کے ابتدائی دور پر محمول ہے۔ پھر اسلامی عقائد کے راسخ ہو جانے کے بعد یہ ممانعت بھی ختم ہوگئی۔ چنانچہ جواز کا حکم حضرت شعبہ کی حدیث سے معلوم ہوا۔

امام ترمذی کے بارے میں ان کے معاصرین اور بعد کے علماء نے زبردست توصیفی کلمات ارشاد فرمائے ہیں، جو

صاحب ”تحفۃ الاحوذی“ نے اپنی کتاب کے مقدمہ میں ذکر کئے ہیں۔

امام ترمذیؒ کی تین کتب آج تک ان کی یادگار چلی آرہی ہیں۔ ایک ”جامع ترمذی“ دوسری کتاب کتاب ”الشمائل“ اور تیسری کتاب ”العلل“۔ اس کے علاوہ ابن ندیمؒ نے ”فہرست“ میں نقل کیا ہے کہ انہوں نے ایک کتاب ”تاریخ“ بھی لکھی تھی اور حافظ ابن کثیرؒ نے ”البدایہ والنہایہ“ میں امام ترمذیؒ کے ترجمہ کے تحت ان کی ایک تفسیر کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن ان کی یہ تفسیر اور تاریخ اب نایاب ہیں۔

یہاں یہ بھی واضح رہنا چاہئے کہ ”ترمذی“ کے نام سے تین بزرگ معروف ہیں۔ ایک ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی صاحب الجامع میں جہنم کا تذکرہ اوپر کیا گیا۔ دوسرے ابو الحسین محمد بن الحسین الترمذی، یہ بھی جلیل القدر محدثین میں سے ہیں اور بخاری میں ان کی ایک روایت موجود ہے۔ تیسرے امام حکیم ترمذیؒ جو صوفی اور مؤذن تھے۔ اور جن کی کتاب ”نوادرا الاصول“ کا تذکرہ پیچھے گذرا کہ وہ زیادہ تر احادیث ضعیفہ پر مشتمل ہے۔ واللہ اعلم۔

جامع ترمذی اور اس کی خصوصیات

امام ترمذیؒ کی جامع ترمذی معروف اور غیر مختلف فیہ کتاب ہے۔ اسے پوری امت نے با اتفاق صحاح ستہ میں شامل سمجھا ہے۔ حافظ شمس الدین ذہبیؒ نے لکھا ہے کہ امام ترمذیؒ نے ”جامع ترمذی“ تالیف کرنے کے بعد اسے خراسان، حجاز، مصر اور شام کے علماء کے پاس پیش کیا، جب ان تمام علماء نے اسے پسند کیا اور اس کی تحسین کی، تب ان کی عمومی اشاعت فرمائی اور خود امام ترمذیؒ کا قول ہے:

”من كان عنده هذا الكتاب الجامع فكان عنده نبيا يتكلم“

اس کتاب میں بعض ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو کسی اور کتاب کو حاصل نہیں۔

۱۔ یہ کتاب بیک وقت جامع بھی ہے اور سنن بھی، اس لئے کہ اسے فقہی ترتیب پر مرتب کیا گیا ہے۔

۲۔ اس کتاب میں احادیث کا تکرار نہیں۔

۳۔ اس میں امام ترمذیؒ نے تمام فقہاء کے بنیادی مستدلات کو جمع کیا ہے اور ہر ایک کے لئے جدا باب قائم کیا ہے۔

۴۔ ہر باب میں امام ترمذیؒ نے فقہاء کے مذاہب بالالتزام بیان کئے ہیں، جن کی وجہ سے یہ کتاب حدیث کے ساتھ

فقہ کا بھی قابل قدر ذخیرہ بن گئی ہے۔

۵۔ امام ترمذیؒ ہر حدیث کے بارے میں اس کا درجہ استناد بھی بناتے ہیں اور سند کی کمزوریوں کی تفصیل کے ساتھ

نشاندہی کرتے ہیں۔

۶۔ ہر باب میں امام ترمذیؒ ایک یا دو تین احادیث بیان کرتے ہیں اور ان احادیث کا انتخاب کرتے ہیں جو عموماً

دوسرے ائمہ نے نہیں نکالیں، لیکن ساتھ ہی ”وفی الباب عن فلان وفلان“ کہہ کر ان احادیث کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں

جو اس باب میں آسکتی ہیں۔ چنانچہ بہت سے علماء نے صرف امام ترمذیؒ کی ”وفی الباب“ کی تخریج پر مستقل کتابیں لکھی ہیں۔

۷۔ اگر حدیث طویل ہو تو امام ترمذی عموماً اس میں سے صرف وہ حصہ ذکر کرتے ہیں جو باب سے متعلق ہو، اسی لئے ترمذی کی احادیث مختصر اور چھوٹی ہیں اور انہیں یاد رکھنا آسان ہے۔

۸۔ اگر کسی حدیث کی سند میں کوئی علت یا اضطراب ہو تو امام ترمذی اس کی مفصل تشریح فرماتے ہیں۔

۹۔ امام ترمذی کا معمول ہے کہ وہ مشتبہ راویوں کا تعارف بھی کراتے ہیں، بالخصوص جو راوی نام سے مشہور ہیں، ان کی کنیت اور جو کنیت سے مشہور ہیں ان کا نام بیان فرماتے ہیں تاکہ اشتباہ باقی نہ رہے اور بعض اوقات اس پر بھی بحث کرتے ہیں کہ راوی کا مروی عنہ سے سماع ثابت ہے یا نہیں۔

۱۰۔ جامع ترمذی کی ترتیب بہت آسان ہے اور اس کے تراجم ابواب نہایت سہل ہیں اور اس سے حدیث کا تلاش کرنا بہت آسان ہے۔

۱۱۔ اس کتاب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کی تمام احادیث کسی نہ کسی فقیہ کے ہاں معمول بہ ہیں۔ صرف دو حدیثوں کے بارے میں امام ترمذی نے فرمایا ہے کہ وہ کسی کے نزدیک بھی معمول بہ نہیں۔ ایک بغیر عذر کے جمع بین الصلوٰتین (۱) کے سلسلہ میں اور دوسری شاربِ خمر (۲) کے قتل کے سلسلہ میں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ حنفیہ کے ہاں یہ دونوں حدیثیں بھی معمول بہ ہیں۔ کیونکہ احناف پہلی حدیث کو جمع صوری پر اور دوسری حدیث کو سیاست پر محمول کرتے ہیں۔

۱۲۔ اگرچہ عام طور سے جامع ترمذی کو صحت کے اعتبار سے نسائی اور ابوداؤد کے بعد سمجھا جاتا ہے، لیکن حاجی خلیفہ نے ”کشف الظنون“ میں اس کو صحاح ستہ میں صحیحین کے بعد سب سے اعلیٰ مقام دیا ہے۔ نیز حافظ ابن حجر نے ”تقریب التہذیب“ میں صحاح ستہ کے جو رموز مقرر کئے ہیں ان میں ابوداؤد اور نسائی کے درمیان رکھا ہے۔ حافظ ذہبی نے لکھا ہے کہ جامع ترمذی کو صحیحین کے بعد سب سے اعلیٰ مقام ملنا چاہئے تھا۔ لیکن اس کا رتبہ اس لئے گھٹ گیا کہ اس میں مصلوب اور کلبی جیسے راویوں کی روایات آگئیں، لیکن اگر امام ترمذی کے طرز عمل کو دیکھا جائے تو صاحب ”کشف الظنون“ ہی کی رائے زیادہ راجح معلوم ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جامع ترمذی میں ضعیف راویوں کی روایات بھی اگرچہ آئی ہیں، لیکن ایسے مقامات پر امام ترمذی نے ان روایات کے ضعف پر تنبیہ بھی فرمادی ہے۔ اس لئے ترمذی میں آنے والی روایات ضعیفہ بے خطر طریقہ پر آئی ہیں، اس لئے یہ ایک بے خطر کتاب ہے، چنانچہ ابوبکر حازمی نے ”شروط الائمة النخسة“ میں لکھا ہے کہ ترمذی کی شرط امام ابوداؤد کے مقابلہ میں ابلغ ہے، کیونکہ وہ حدیث کے ضعف پر تنبیہ کر دیتے ہیں۔ ”فیصیر الحدیث عنده من باب الشواهد والمتابعات“ اور ابوداؤد وغیرہ میں اس درجہ کا التزام نہیں۔ (۳)

(۱) ترمذی ص ۴۷ ج ۱ باب ماجاء فی الجمع بین الصلوٰتین، ۱۲۔ (۲) ترمذی ص ۲۰۹ ج ۱، ابواب الحدود باب ماجاء من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فی الرابعة فاقتلوه ۱۲۔ (۳) وقال العلامة الكوثري في تعليقه على شروط الحازمي ”قد اعترض على الترمذی بانہ فی غالب الابواب يبدأ بالاحادیث الغریبة الاسناد غالباً وليس ذلك بعیب فانه رحمه الله یبین ما فیها من العلیل ولهذا تجد النسانی اذا استوعب طرق الحدیث بدأ بما هو غلط ثم يذكر بعد ذلك الصواب المخالف له واما ابوداؤد فكانت عنایة بالمتون اكثر ولهذا يذكر الطرق واختلاف الفاظها والزیادات المذكورة فی بعضها دون بعض فكانت عنایة بفقہ الحدیث اكثر فللهذا يبدأ بالصحيح من الاسانید وربما يذكر الاسناد المعلل بالكلية (تعليق شروط الائمة الخمسة فی ۴۴) ۱۲۔

۱۳۔ صحاح ستہ کی تدریس میں اس کتاب کو اس لحاظ سے سب سے زیادہ نمایاں مقام حاصل ہے کہ اکابر علماء خاص طور سے علماء دیوبند فقہ اور حدیث کے جملہ تفصیلی مباحث سب سے زیادہ اس کتاب میں بیان کرتے ہیں، یہ کتاب صحیح بخاری کے ہمسر اور بعض شیوخ حدیث کے طریقہ تدریس میں اس سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل رہی ہے۔ بلاشبہ ان خصوصیات میں مروجہ کتب حدیث میں کوئی کتاب جامع ترمذی کے برابر نہیں۔

امام ترمذی کی تصحیح و تحسین:

بعض حضرات نے امام ترمذی کو تصحیح و تحسین کے معاملہ میں حاکم کی طرح متساہل قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس درجہ سے ان کی تصحیح اور تحسین کا کوئی اعتبار نہیں، اس کی وجہ حافظ ذہبی نے یہ بیان کی ہے کہ امام ترمذی نے ایسی بعض احادیث کو تصحیح قرار دیا ہے جن کے راوی ضعیف ہیں اور بعض ایسی روایتوں کو حسن قرار دیا ہے جن کے راوی مجہول ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے مقامات بہت کم ہیں۔ احقر نے جستجو کی تو پوری جامع میں بمشکل دس یا بارہ مقامات ایسے ہیں جہاں امام ترمذی نے حدیث کو تصحیح قرار دیا ہے۔ جبکہ دوسرے حضرات کے نزدیک وہ ضعیف ہیں، جہاں تک مجاہیل کی روایات کو حسن قرار دینے کا تعلق ہے تو عین ممکن ہے کہ وہ امام ترمذی کے نزدیک مجہول نہ ہوں، اور انہیں ان راویوں کے بارے میں تحقیق ہو گئی ہو۔ نیز امام ترمذی کی یہ عادت ہے کہ وہ ایسی حدیث کو جس میں کوئی راوی ضعیف ہو یا اس حدیث میں انقطاع پایا جا رہا ہو اسے تعدد طرق کی بناء پر حسن قرار دیتے ہیں اور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ تعدد طرق کی بناء پر حدیث ضعیف حسن لغیرہ بن جاتی ہے۔ لہذا امام ترمذی کی تحسین کے قابل اعتراض مقامات معدودے چند ہیں۔ ان کی بناء پر امام ترمذی کو علی الاطلاق متساہل قرار دینا اور حاکم کی صف میں لاکھڑا کرنا انصاف سے بعید ہے۔ بالخصوص جبکہ ان مقامات پر بھی تاویل ممکن ہے اور جبکہ یہ بات طے ہو چکی ہے کہ تصحیح یا تضعیف ایک امر اجتہادی ہے، جس میں محدثین کی آراء مختلف ہو سکتی ہیں۔ ہاں یہ درست ہے کہ اگر کسی حدیث کی تصحیح کے بارے میں امام ترمذی متفرد ہوں اور دوسرے تمام ائمہ سے ان کی تضعیف منقول ہو تو اس صورت میں جمہور کے قول کا اعتبار کرنا چاہئے۔

جامع ترمذی اور موضوع احادیث:

اس میں کلام ہوا ہے کہ جامع ترمذی میں کوئی حدیث موضوع بھی ہے یا نہیں؟ علامہ ابن الجوزی نے ”موضوعات کبریٰ“ میں ترمذی کی تیئیس (۲۳) احادیث کو موضوع بتلایا ہے۔ لیکن پیچھے معلوم ہو چکا ہے کہ ابن الجوزی اس معاملہ میں ضرورت سے زیادہ متشدد ہیں اور انہوں نے صحیح مسلم اور صحیح بخاری بروایت حماد شاکر کی ایک ایک حدیث کو بھی موضوع کہہ دیا ہے۔ لہذا تحقیقی بات یہ ہے کہ جامع ترمذی کی کوئی حدیث موضوع نہیں ہے۔

علامہ جلال الدین سیوطی نے القول الحسن فی الذب عن السنن، میں ان تمام روایات کی تحقیق کی ہے جو صحاح ستہ میں موجود ہیں اور ابن الجوزی نے انہیں موضوع قرار دیا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے ترمذی کی ان تیئیس (۲۳) احادیث پر بھی کلام کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی موضوع قرار دینا درست نہیں۔ (مخلص من مقدمہ تحفۃ الاحوزی ص ۱۸۰ و ۱۸۱)

جامع ترمذی کی شروح:

جامع ترمذی کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی مقبولیت بخشی، چنانچہ اس کی متعدد تجریدات، مستخرجات، اور حواشی لکھے گئے، جن میں سے چند کا مختصر تعارف درج ذیل ہے:

۱۔ ”عارضۃ الاحوذی بشرح جامع الترمذی“ یہ قاضی ابوبکر ابن العربی کی تصنیف ہے، جو مالکیہ کے حلیل القدر فقہاء محدثین میں سے ہیں اور جو ”احکام القرآن“ اور ”العواصم من القواصم“ وغیرہ کے مصنف ہیں۔ یہ شرح متقدمین کے طریقہ پر مختصر ہے، لیکن بہت سے علمی فوائد پر مشتمل ہے، بعد کی شروح ترمذی کے لئے مآخذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ حافظ ابن حجر وغیرہ بھی اس کا بکثرت حوالہ دیتے ہیں۔

۲۔ ”شرح ابن سید الناس“ علامہ ابن سید الناس آٹھویں نویں صدی ہجری کے مصنف ہیں، جن کی کتاب ”عیون الاثر“ سیرت طیبہ کے موضوع پر مآخذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کے بارے میں قاضی شوکانی نے ”البدرا الطالع فی اعیان القرن التاسع“ میں اور حافظ ابن حجر نے ”الدرر الکامد فی رجال المئۃ الثامنة“ میں نیز حاجی خلیفہ نے ”کشف الظنون“ میں نقل کیا ہے کہ انہوں نے ترمذی کی ایک مفصل شرح لکھنی شروع کی تھی۔ لیکن ابھی تقریباً دس جلدیں لکھ پائے تھے اور ایک ثلث کتاب باقی تھی کہ وفات ہو گئی۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اگر یہ اپنی شرح کو علوم حدیث تک محدود رکھتے تو یہ مکمل ہو جاتی، لیکن اس میں انہوں نے بہت سے علوم و فنون کو جمع کرنا شروع کیا۔ اس لئے عمر ساتھ نہ دے سکی، پھر بعد میں حافظ زین الدین عراقی نے جو حافظ ابن حجر کے استاذ ہیں، اس شرح کو مکمل کرنا شروع کیا، لیکن علامہ سیوطی کے قول کے مطابق وہ بھی تکمیل نہ کر سکے۔ لہذا یہ مفصل شرح کبھی طبع اور شائع نہ ہو سکی۔

۳۔ ”شرح ابن الملقن“ یہ علامہ سراج الدین ابن الملقن کی تصنیف ہے، جو علماء شافعیہ میں سے ہیں اور ساتویں صدی کے بزرگ ہیں۔ اس شرح کا تذکرہ بھی قاضی شوکانی نے ”البدرا الطالع فی اعیان القرن السابع“ میں کیا ہے۔ اس شرح کا اصل نام ”فتح الشذی علی جامع الترمذی“ ہے اور اس میں صرف ان احادیث کی شرح کی گئی ہے جو ترمذی میں صحیحین اور ابوداؤد سے زائد ہیں۔

۴۔ ”شرح الحافظ ابن حجر“ حافظ ابن حجر نے بھی ترمذی کی ایک شرح لکھی تھی۔ چنانچہ ”فتح الباری“ میں حضرت مغیرہ بن شعبہ کی معروف حدیث ”اتمی النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباطة قوم“ الخ کی شرح کرتے ہوئے ذکر کیا ہے کہ میں نے جامع ترمذی پر ایک شرح لکھی ہے۔ جس میں ثابت کیا ہے کہ بول قائم کے بارے میں کوئی حدیث صحیح نہیں، لیکن حافظ ابن حجر کی یہ شرح نایاب ہے۔

۵۔ ”شرح البلقینی“ جس کا نام ”العرف الشذی علی جامع الترمذی“ ہے۔ یہ علامہ عمر بن رسلان البلقینی کی تصنیف ہے جو مشہور فقہاء شافعیہ میں سے ہیں اور حافظ ابن حجر کے استاذ ہیں۔

۶۔ ”شرح الحافظ ابن رجب البغدادی الجسلی“ یہ مشہور حنبلی محدث اور فقیہ ہیں اور ”طبقات الحنابلة“ کے مصنف ہیں۔

۷۔ ”قوت المعتمدی“ یہ علامہ جلال الدین سیوطی کی نہایت مختصر شرح ہے اور ہندوستان کے متعدد نسخ ترمذی کے حاشیہ پر چڑھی ہوئی ہے۔

۸۔ ”شرح العلامة طاہر پٹی لکھنوی“ انہوں نے ”مجمع بحار الانوار“ (۱) میں حدیث ”اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث“ کی شرح کے تحت تذکرہ کیا ہے کہ میں نے ترمذی کا ایک حاشیہ لکھا ہے۔

۹۔ ”شرح السدھی“۔ یہ علامہ ابو طیب سدھی کی تصنیف ہے اور مصر سے شائع ہو چکی ہے۔

۱۰۔ ”شرح العلامة سراج الدین السربندی“ ان کی شرح بھی مصر ہی سے شائع ہو چکی ہے۔

۱۱۔ ”تحفۃ الاحوذی“۔ یہ قاری عبدالرحمن مبارک پوری کی تصنیف ہے جو اہل حدیث کے بلند پایہ عالم ہیں۔ انہوں نے ایک ضخیم جلد میں اس شرح کا مقدمہ بھی لکھا ہے، جو علم حدیث سے متعلقہ عمدہ مباحث پر مشتمل ہے۔ اس شرح میں انہوں نے حنفیہ کی خوب تردید کی ہے اور بسا اوقات حدود انصاف سے تجاوز کیا ہے۔ ان کا ماخذ زیادہ تر شوکانی کی ”نیل الاوطار“ ہے۔ اگر اس شرح میں سے حنفیہ کے خلاف تعصب کو نکال دیا جائے تو حلق کتاب کے نقطہ نظر سے یہ بہت اچھی شرح ہے۔

۱۲۔ ”الکوکب الدرئی علی جامع الترمذی“۔ یہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کی تقریر ترمذی ہے، جسے ان کے شاگرد رشید حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب کاندھلوی نے ضبط کیا ہے اور ان کے صاحبزادے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب مدظلہم نے اس پر مفید حواشی لکھے ہیں۔ بلاشبہ حل ترمذی کے نقطہ نظر سے یہ کتاب دریا بکوزہ کا مصداق ہے، اس میں مختصر جامع اور تشفی بخش تشریحات بھی ہیں اور علم و معرفت، تحقیق و تدقیق کے نژانے بھی، یہ ترمذی کی انتہائی بہترین اور مختصر شرح ہے، اس کا صحیح اندازہ جب ہوتا ہے جب انسان مطولات کے مطالعہ کے بعد اس کا مطالعہ کرے۔ خاص طور سے حضرت مولانا محمد زکریا صاحب مدظلہم کے حواشی نے اس کے منافع کو دو چند کر دیا ہے۔

۱۳۔ ”الورد الشذی“۔ یہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب کی تقریر ترمذی ہے۔ لیکن بغایت مختصر ہے۔

۱۴۔ ”اللباب فی شرح قول الترمذی فی الباب“۔ یہ حافظ ابن حجر کی تالیف ہے اور اس میں انہوں نے ان احادیث کی تخریج کی ہے جن کی طرف امام ترمذی..... ”وفی الباب“ کہہ کر اشارہ فرماتے ہیں۔

۱۵۔ ”العرف الشذی تقریر جامع الترمذی“۔ یہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کی تقریر ترمذی ہے۔ جسے مولانا چراغ محمد صاحب نے درس میں ضبط کیا ہے۔ اگرچہ یہ خاصی جامع تقریر ہے، لیکن اس میں ضبط کی غلطیاں رہ گئی ہیں۔ کیونکہ حضرت شاہ صاحب اس پر نظر نہ فرما سکے۔ اسی لئے اس میں حضرت شاہ صاحب کے علوم کا احاطہ نہیں ہو سکا۔

۱۶۔ ”معارف السنن“۔ یہ حضرت کشمیری کے شاگرد خاص مولانا محمد یوسف بنوری صاحب کی تالیف ہے۔ اصل میں انہوں نے ”العرف الشذی“ کو درست کرنے اور اس کا تذکرہ کرنے کے لئے یہ کتاب لکھنی شروع کی تھی۔ لیکن رفتہ رفتہ اس نے ایک مستقل تصنیف اور شرح کی حیثیت اختیار کر لی۔ اس میں انہوں نے حضرت شاہ صاحب کی تقریر کو بنیاد بنایا ہے، لیکن اس کے ساتھ اپنی تحقیق اور مطالعہ سے بے شمار مباحث کا اضافہ کیا ہے۔ ان کی عبارت انتہائی شگفتہ اور کلام بڑی حد تک منضبط ہے، جو

دوسری شروح حدیث میں بہت کمیاب ہے۔ آج کل ترمذی کی جتنی شروح دستیاب ہیں ان میں سب سے زیادہ مفصل اور جامع شرح ہے۔ لیکن یہ چھ جلدوں میں صرف کتاب الحج تک پہنچ سکی ہے، ان شروح کے علاوہ ترمذی پر تجریدیں اور مستخرجات بھی لکھی گئی ہیں۔ جن کی تفصیل مولانا مبارک پوریؒ نے ”مقدمہ تحفة الاحوذی“ میں بیان کی ہے۔ (۱) واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم بالصواب۔

عہد حاضر میں اسناد حدیث:

جب سے صحاح ستہ اور احادیث کے دوسرے مجموعے مدون ہو کر دنیا میں پھیلے ہیں اور ان کے مصنفین کی طرف نسبت تو اتر کی حد تک پہنچ گئی ہے۔ اس وقت سے روایت حدیث کا یہ طریقہ کہ حدیث بیان کرنے والا اپنے آپ سے رسول کریم ﷺ تک تمام واسطوں کو بیان کرے متروک ہو چکا ہے اور اب اس کی زیادہ ضرورت بھی نہیں رہی۔ صرف حدیث کی کتاب کا حوالہ دے دینا کافی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کتابیں تو اتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں، لیکن سلسلہ اسناد کو باقی رکھنے اور تبرک کی خاطر اکابر میں یہ معمول چلا آتا ہے کہ وہ ان کتب حدیث کی اسناد بھی محفوظ رکھتے ہیں، یہ طریقہ زیادہ قابل اعتماد بھی ہے اور باعث برکت بھی۔ چنانچہ ہر دور کے مشائخ حدیث ان کتابوں کے مصنفین تک اپنے سلسلہ سند کو محفوظ بھی رکھتے ہیں اور ساتھ ہی اس بات کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان مصنفین تک واسطوں کی تعداد کم سے کم ہوتا کہ اپنی سند زیادہ سے زیادہ عالی ہو سکے، پھر بڑے مشائخ کے یہاں یہ بھی معلوم رہا ہے کہ وہ مصنفین کتب حدیث تک اپنی اسناد کے متعدد طرق کو ایک رسالہ کی صورت میں مرتب کر دیتے ہیں، جسے اصطلاح میں ”ثبت“ کہا جاتا ہے۔ پھر اختصار کی خاطر شیخ تلمیذ کو صرف ثبت کی اجازت دے دے، تو تمام کتب حدیث کی اجازت حاصل ہو جاتی ہے۔ ہمارے زمانہ میں صحاح ستہ کے مؤلفین تک ہماری سندوں کا مدار حضرت شاہ عبدالغنی صاحب مجددیؒ پر ہے، اور انہوں نے مصنفین کتب حدیث تک اپنی اسناد کے تمام طرق ایک رسالہ میں جمع کر دیئے ہیں جو ”الیانح الجنی“ کے نام سے چھپا ہوا ہے۔ پھر حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ میں تمام اکابر دیوبند کی اسناد حضرت شاہ عبدالغنیؒ تک پہنچا کر جمع کر دی ہیں۔ جن کا نام ”الازدیاد السننی علی الیانح الجنی“ ہے، جو مکتبہ دارالعلوم کراچی سے چھپ چکا ہے۔

ہماری اسانید:

احقر کو جامع ترمذی اور دوسری کتب حدیث کی اجازت کئی شیوخ سے حاصل ہے۔ ان طرق کا بالآخر مدار حضرت شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے آگے کی سند خود کتاب میں موجود ہے، اس لئے صرف حضرت شاہ اسحاق صاحبؒ تک اپنی سند کے چند طریقے درج ذیل ہیں:-

۱۔ احقر کا سب سے عالی طریق یہ ہے: اجازت فی الشیخ محمد حسن محمد المشاط بالاجازة العامة

(۱) ذکر صاحب کشف الظنون ثلاث مختصرات الجامع الترمذی منها مختصر الجامع نجم الدین محمد بن عقیل الباسی الشافعی المتوفی ۷۲۹ھ و منها مختصر نجم الدین سلیمان بن عبدالقوی الطوفی الحنبلی المستوفی ۱۰۷۰ھ و منها حدیث منتقاة منه عوالی للحافظ صلاح الدین خلیل بن کیکلائی العلائی، و ذکر السیوطی فی التدریب انه لایختص المستخرج بالصحیحین فقد استخرج محمد بن عبدالملک بن ایمن علی سنن ابی داؤد ابو علی الطوسی علی الترمذی ۱۲ (مقدمہ تحفة الاحوذی، ص ۱۹۰)

عن السيد محمد بن جعفر القطناني عن الاستاذ ابي العباس احمد بن احمد البنانى الفاسى والشيخ ابو جيدة ابن الكبير بن المجذوب الفاسى الفهروى والشيخ حبيب الرحمن الكاظمى الهندى نزىل المدينة المنورة والشيخ عبدالحق بن الشاه محمد الهندى نزىل مكة والشيخ ابي الحسن على بن ظاهر الوترى كلهم يروون عن الشيخ عبدالغنى المجددى الدهلوى صاحب البيانع الجنى"۔ سند سے ظاہر ہے کہ شیخ محمد حسن المشاط الممالکی مدظلہ حضرت شاہ عبدالغنی کے صرف دو واسطوں سے شاگرد ہیں۔ احقر نے باقی کتب حدیث کی اجازت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ان سے حرم مکہ میں سنن نسائی کا کچھ حصہ درساً پڑھا، شیخ مشاط کی اسناد ان کے مطبوعہ "ثبت" الارشاد الی معرفۃ الثبت میں موجود ہیں۔

۲۔ احقر نے جامع ترمذی درساً حضرت مولانا سلیم اللہ صاحب مدظلہم سے پڑھی، اور انہوں نے حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی سے اور انہوں نے حضرت شیخ الہند سے اور ان کو عام کتب حدیث کی اجازت حضرت شاہ عبدالغنی مجددی سے براہ راست بھی حاصل ہے اور حضرت مولانا گنگوہی اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی کے واسطے سے بھی، نیز حضرت شیخ الہند کو حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری، حضرت مولانا محمد مظہر نانوتوی اور حضرت مولانا قاری عبدالرحمن رحمہم اللہ سے بھی اجازت ہے اور یہ تینوں حضرت شاہ محمد اسحق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں۔

۳۔ میں نے شاکل ترمذی، موطا امام مالک کا کچھ حصہ قرآن اور باقی کتب حدیث اجازت اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہم اللہ سے حاصل کیں اور انہوں نے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری سے جامع ترمذی اور شاکل ترمذی کا درس لیا اور وہ حضرت شیخ الہند کے شاگرد ہیں، نیز حضرت شاہ صاحب کو علامہ حسین الجسر الطرابلسی مصنف "حصون حمیدیہ" سے بھی اجازت حاصل ہے اور امام ابو جعفر الطحاوی تک ان کی اسناد ان کے "ثبت" میں موجود ہے۔

۴۔ احقر کو تمام کتب کی اجازت عامہ حضرت مولانا محمد ظفر احمد صاحب عثمانی سے براہ راست بھی حاصل ہے، جن کی اسناد ان کے "ثبت" میں موجود ہیں۔

۵۔ احقر کو تمام کتب حدیث کی اجازت عامہ حلب کے علامہ شیخ عبدالفتاح ابونعدہ حلبی سے بھی حاصل ہے۔ وہ شام کے مشہور محدث شیخ الاسلام علامہ محمد زاہد الکوثری کے شاگرد ہیں۔ علامہ کوثری کی اسناد ان کے "ثبت" میں موجود ہیں۔

۶۔ احقر کو تمام کتب حدیث کی اجازت عامہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب مدظلہم سے بھی حاصل ہے، جو مولانا ظلیل احمد صاحب سہارنپوری کے شاگرد ہیں۔

حدیث مسلسل بالاولیۃ:

متقدمین کے یہاں یہ معمول تھا اور بلا وعر بیہ میں اب تک ہے کہ اساتذہ حدیث شاگرد کو حدیث کا درس شروع کراتے وقت سب سے پہلے ایک خاص حدیث پڑھاتے ہیں، جس کو "حدیث مسلسل بالاولیۃ" کہا جاتا ہے۔ کیونکہ ہم سے لے کر امام زہری تک ہر شیخ نے یہ حدیث اپنے شاگرد کو سب سے پہلے پڑھائی ہے۔ اگرچہ یہ حدیث متعدد کتب میں موجود ہے اور ان کتب

کی اسناد کے ساتھ اس حدیث کی اسناد بھی وابستہ ہے۔ لیکن تبرکاً اس کو الگ سند متصل سے پڑھا جاتا ہے۔ یہ حدیث میں نے شیخ حسن المشاط مالکی مدظلہم سے حرم مکہ مکرمہ میں اولیت کے التزام کے ساتھ حاصل کی۔ چنانچہ تبرکاً میں بھی اپنے درس کا آغاز اسی حدیث سے کرتا ہوں۔

اس حدیث سے متعلق میری سند یہ ہے:

اخبرنی به الشيخ محمد حسن المشاط مالکی عن الشيخ حمدان وعن الشيخ محمد هاشم وغير واحد قال هو اول حديث سمعته منهم عن الشيخ محمد فالح المهنوي وهو اول قال المهنوي، ابناً به السيد محمد علي ابناً به ابو حفص العطار وهو اول، انا ابو الحسن علي بن عبد البر الوثاني الشافعي وهو اول، انا البرهان ابراهيم بن محمد النمروسي وهو اول، عن الامام عید بن علي النمرسي وهو اول عن الامام عبدالله بن سالم البصري وهو اول عن الشمس البابلي وهو اول عن الشهاب احمد بن محمد الشلوي وهو اول، انا الجمال يوسف بن زكريا وهو اول، انا البرهان ابراهيم القلقشندی وهو اول، انا العباس احمد بن محمد المقدسي الشهير بالواسطي وهو اول انا الخطيب صدر الدين محمد بن محمد الميذومي وهو اول، انا النجيب عبداللطيف بن عبدالمنعم الحراني وهو اول قال اخبرنا الحافظ ابو الفرج عبدالرحمن بن علي الجوزي وهو اول انا ابو سعيد اسماعيل بن ابي صالح وهو اول، انا والدي ابو صالح احمد بن عبدالملك المؤذن وهو اول، ثنا محمد بن زيان بن محمش وهو اول، انا ابو حامد احمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزاز وهو اول عن عبدالرحمن بن بشر وهو اول، انا سفيان بن عيينه وهو اول واليه انتهى التسلسل عن عمرو بن دينار بن ابي قاموس مولى عبدالله بن عمرو بن العاص عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء

اسی حدیث پاک پر ہم اس مقدمہ کو ختم کرتے ہیں۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين،

ضبطها ورتبها احقر تلامذه الشيخ ادام الله اقباله رشيد اشرف عفى عنه، ٧ من شعبان المعظم

٥١٣٩٨ يوم الجمعة المبارك۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فہرست عنوانات ترمذی شریف جلد اول

صفحہ	ابواب و مضامین	صفحہ	ابواب و مضامین
۶۵	نیند سے بیداری کے وقت ہاتھ دھونے کا حکم		ابواب الطہارۃ
۶۵	مسئلہ: تفصیل مذہب حنفیہ	۵۷	کوئی نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں
۶۵	وضو کے وقت بسم اللہ پڑھنا	۵۷	وضو کی فضیلت
۶۶	مسئلہ: مذہب احناف	۵۸	طہارت نماز کی کجی ہے
۶۶	کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کا حکم	۵۸	قضائے حاجت کے لئے جاتے ہوئے کی دعا
۶۷	مسئلہ: امام شافعی کا مسلک	۵۹	بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا
۶۷	داڑھی کے خلال کا حکم	۵۹	قضائے حاجت کے وقت قبلہ رخ ہونے کی ممانعت
۶۷	سر کے مسح کو آگے سے کرنے کا حکم	۵۹	قبلہ رو ہونے اور پشت کرنے کا جواز
۶۸	پچھلے سے سر کا مسح کرنا	۶۰	مسئلہ: حنفیہ کا مذہب
۶۸	مسئلہ: مذہب احناف	۶۰	کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا جواز
۶۸	سر کا مسح ایک مرتبہ کرنا	۶۱	مسئلہ: بیان تعارض
۶۸	سر کے مسح کے لئے نیا پانی لینا	۶۱	قضائے حاجت کے وقت پردہ
۶۹	کانوں کا اندرونی و بیرونی مسح	۶۱	داہنے ہاتھ سے استنجاء مکروہ ہے
۶۹	دونوں کان سر کے حکم میں داخل ہیں	۶۲	پتھروں سے استنجاء کا بیان
۶۹	مسئلہ: مذہب احناف	۶۲	دو پتھروں سے استنجاء کرنا
۶۹	انگلیوں کے خلال کا حکم	۶۳	جن چیزوں سے استنجاء کرنا مکروہ ہے
۷۰	مسئلہ: مذہب احناف	۶۳	پانی سے استنجاء کرنا
۷۰	ہلاکت ہے ان ایزویوں کے لئے جو سوکھی رہ جائیں	۶۳	نبی کریم ﷺ کا قضائے حاجت کے لئے دور جانا
۷۰	وضو میں ایک ایک مرتبہ اعضاء کا دھونا	۶۴	غسل خانے میں پیشاب کرنا مکروہ ہے
۷۱	وضو میں دو دو مرتبہ اعضاء کا دھونا	۶۴	مسواک کا حکم

صفحہ	ابواب ومضامین	صفحہ	ابواب ومضامین
۸۳	پیشاب سے شدت سے احتیاط کا حکم	۷۱	وضو میں تین تین مرتبہ اعضاء کا دھونا
۸۳	بول غلام کا نضح کرنا	۷۲	اعضاء وضو ایک ایک، دودو، تین تین مرتبہ دھونا
۸۳	مسئلہ: مسلک احناف	۷۲	بعض اعضاء دو مرتبہ، بعض تین مرتبہ دھونا
۷۴	”نضح“، اور ”رش“ کے معنی	۷۲	توضیح
۸۴	بول مایوکل کا بیان	۷۲	نبی کریم ﷺ کے وضو کے متعلق
۸۵	مسائل متعلقہ بالجہدیت	۷۳	وضو کے بعد پانی چھڑ کرنا
۸۵	مسئلہ: حرام چیز کا بطور دو استعمال	۷۳	توضیح
۸۶	خروج ریح سے وضو کا ٹوٹنا اور اس سے متعلقہ مسائل	۷۴	تکمیل وضو کے بیان میں
۸۷	نیند سے وضو ٹوٹنے کا حکم	۷۴	وضو کے بعد رومال استعمال کرنا
۸۷	مذہب و مسائل متعلقہ بالجہدیت	۷۵	وہ دعائیں جو وضو کے بعد پڑھی جاتی ہیں
۸۸	آگ سے پکی ہوئی چیز کھا کر وضو کا حکم	۷۵	ایک مد سے وضو کرنا
۸۸	آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا	۷۵	وضو میں پانی زیادہ بہانا مکروہ ہے
۸۸	تفصیل و توضیح حدیث باب	۷۶	ہر نماز کے لئے وضو کرنا
۸۹	اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کا حکم	۷۶	مسئلہ: حضور ﷺ ایک وضو سے کتنی نمازیں پڑھتے تھے
۸۹	مسئلہ کی تفصیل	۷۷	مرد عورت کا ایک برتن سے وضو کرنا
۸۹	مسن ڈ کر سے وضو ٹوٹنے کا بیان	۷۷	عورت کے وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کی کراہت
۸۹	مسن ڈ کر سے وضو نہ ٹوٹنے کا بیان	۷۸	عورت کے بچے ہوئے سے وضو کا جواز
۹۰	مسئلہ اور مسلک احناف کی توضیح	۷۸	پانی کسی چیز سے ناپاک نہیں ہوتا
۹۰	بوسہ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا	۷۹	پانی سے متعلق احکام
۹۰	حدیث عروہ اور مسلک احناف	۷۹	مسئلہ: مذہب احناف
۹۱	تے اور نکیر سے وضو کا حکم	۸۰	دلائل حنفیہ
۹۲	نبیذ سے وضو کا حکم اور اس کی توضیح	۸۰	توجیہ حدیث قلین
۹۳	دودھ کے بعد کلی کرنا	۸۲	رکے ہوئے پانی سے پیشاب کی کراہت
۹۳	بے وضو کو سلام کا جواب دینا مکروہ ہے	۸۲	سمندر کا پانی پاک ہے
۹۳	کتے کے جوٹھے کا حکم	۸۲	مسائل متعلقہ بالجہدیت
۹۳	مسئلہ: مذہب احناف	۸۳	مذہب احناف اور ان کے دلائل
۹۴	بلی کے جوٹھے کا حکم	۸۳	مسئلہ طانی کا مسئلہ

صفحہ	ابواب و مضامین	صفحہ	ابواب و مضامین
۱۰۵	مستحاضہ کے متعلق	۹۲	مسح علی الخفین کا حکم
۱۰۵	مستحاضہ ہر نماز کے لئے وضو کرے	۹۵	مسافر اور مقیم کے لئے مسح علی الخفین کا بیان
۱۰۶	مستحاضہ دو نمازیں ایک غسل سے پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟	۹۶	موزوں کے اوپر اور نیچے مسح کا بیان
۱۰۶	تحقیق مسئلہ ابواب اور حدیث حمنہ بنت جحش	۹۶	ظاہر خفین پر مسح کرنا
۱۰۷	مستحاضہ ہر نماز کے لئے غسل کرے	۹۷	جورین اور نعلین پر مسح کا بیان
۱۰۷	حائضہ کی نمازوں کی قضاء کا مسئلہ	۹۷	توضیح اور تشریح حدیث
۱۰۸	جنسی اور حائضہ تلاوت قرآن کر سکتے ہیں یا نہیں؟	۹۷	جورین اور عمامہ پر مسح کرنا
۱۰۸	حائضہ سے مباشرت کے متعلق	۹۸	حدیث بلال اور مذہب احناف
۱۰۹	جنسی اور حائضہ کے ساتھ کھانا اور ان کا جوٹھا	۹۸	غسل جنابت کا بیان
۱۰۹	حائضہ مسجد سے کچھ اٹھا سکتی ہے یا نہیں؟	۹۸	حدیث عائشہ اور غسل جنابت کا طریقہ
۱۰۹	حدیث باب میں امام ابوحنیفہ کا مسلک اور دین	۹۹	غسل کے وقت عورت کا چوٹی کھولنا
۱۰۹	حائضہ سے صحبت کی حرمت	۹۹	ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے
۱۱۰	حائضہ سے صحبت کا کفارہ	۹۹	غسل کے بعد وضو کا حکم
۱۱۰	کپڑے سے حیض کا خون دھونے کا بیان	۱۰۰	وجوب غسل بالقاء ختائین
۱۱۱	عورتوں کے نفاس کی مدت کا بیان	۱۰۰	وجوب غسل بخرج منی
۱۱۱	کئی بیویوں سے صحبت کے بعد ایک ہی غسل کرنا	۱۰۱	کسی نے اپنے کپڑوں پر تری دیکھی اور احتلام یاد نہ ہو
۱۱۲	دوبارہ صحبت سے قبل وضو کرنا		اس کا کیا حکم ہے؟
۱۱۲	اقامت صلوٰۃ کے وقت تقاضائے حاجت کی صورت میں	۱۰۱	منی اور ندی کے بیان میں
	کیا کرے؟	۱۰۱	ندی کا کپڑوں پر لگنے کا بیان
۱۱۲	مسئلہ الباب کی تحقیق	۱۰۱	ائمہ ثلاثہ اور جمہور کا مذہب
۱۱۲	گردراہ دھونے سے متعلق	۱۰۲	کپڑوں پر منی لگ جائے تو کیا حکم ہے؟
۱۱۳	تیمم کا بیان	۱۰۳	جنسی کا بغیر غسل کے سونا
۱۱۳	تیمم کا طریقہ اور توضیح و تشریح حدیث	۱۰۳	جنسی سوتے وقت وضو کر لے
۱۱۳	غیر جنسی کے لئے ہر حالت میں تلاوت قرآن جائز ہے	۱۰۳	جنسی سے مصافحہ کا بیان
۱۱۳	جس زمین پر پیشاب کیا گیا ہو اس کا حکم	۱۰۳	عورت اگر خواب میں مرد کو دیکھے تو کیا حکم ہے؟
		۱۰۴	غسل کے بعد عورت سے گرمی حاصل کرنا
		۱۰۴	پانی کی عدم موجودگی میں جنسی تیمم کرے

صفحہ	ابواب و مضامین	صفحہ	ابواب و مضامین
۱۲۶	جس شخص کی کئی نمازیں قضا ہوں وہ کس نماز سے شروع کرے؟	۱۱۵	ابواب الصلوٰۃ
۱۲۷	نماز عصر کا وسطی ہونے کا بیان	۱۱۵	عن رسول اللہ ﷺ
۱۲۸	عصر اور فجر کے بعد نماز پڑھنا مکروہ ہے	۱۱۵	اوقات صلوٰۃ کا بیان
۱۲۸	عصر کے بعد نماز پڑھنے کا حکم	۱۱۶	اوقات صلوٰۃ سے متعلق تفصیل
۱۲۸	توضیح مذہب احناف	۱۱۸	فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھنے کا بیان
۱۲۹	قبل مغرب نماز کا حکم	۱۱۸	نماز فجر میں اسفار کرنے کا حکم
۱۲۹	مسئلہ: تفصیل مذاہب	۱۱۸	توضیح مسئلہ الباب
۱۲۹	جو شخص غروب آفتاب سے قبل عصر کی ایک رکعت پڑھ سکتا ہو اس کا حکم	۱۱۸	تجلیل ظہر کا مسئلہ
۱۳۰	جمع بیان الصلوٰۃ تین کا حکم	۱۱۹	مسئلہ مذہب احناف اور ان کی دلیل
۱۳۱	مسئلہ احناف در مسئلہ الباب	۱۱۹	گرمی کی شدت میں تاخیر ظہر کا بیان
۱۳۱	بدء الاذان کا بیان	۱۲۰	تجلیل عصر کا بیان
۱۳۲	ترجیح الاذان کا مسئلہ	۱۲۱	تاخیر عصر کا بیان
۱۳۳	اقامت ایک ایک مرتبہ کہنے کا بیان	۱۲۱	مذہب ائمہ در مسئلہ الباب
۱۳۳	اقامت دو دو مرتبہ کہنے کا بیان	۱۲۱	وقت مغرب کا بیان
۱۳۳	ترسیل اذان کا حکم	۱۲۲	عشاء کا وقت
۱۳۴	اذان کے دوران انگلی کان میں ڈالنے کا بیان	۱۲۲	عشاء کی نماز میں تاخیر کا حکم
۱۳۴	تعمیر الاذان فی الفجر کا بیان	۱۲۲	قبل عشاء کراہت نوم اور بعد عشاء گفتگو کا بیان
۱۳۵	جو اذان کہے وہ تکبیر بھی کہے	۱۲۲	عشاء کے بعد قصہ گوئی کا جواز
۱۳۵	بلا وضو اذان دینا مکروہ ہے	۱۲۳	اول وقت کی فضیلت کا بیان
۱۳۶	اقامت کہلوانے کا حق امام کو ہے	۱۲۳	حدیث ابن عمرؓ
۱۳۶	اذان باللیل کا مسئلہ	۱۲۴	حدیث علی بن ابی طالب
۱۳۷	اذان کے بعد خروج عن المسجد کی کراہت	۱۲۴	حدیث ابن مسعودؓ
۱۳۷	سفر میں اذان کا بیان	۱۲۴	حضرت عائشہؓ، ام المؤمنین اور توضیح حدیث
۱۳۷	فضیلت اذان کا بیان	۱۲۵	عصر کی نماز بھول جانے کا بیان
۱۳۸	امام مقتدیوں کا ضامن اور مؤذن امانتدار	۱۲۵	اگر حاکم نماز میں تاخیر کرے تو نماز میں جلدی کرنے کا حکم
۱۳۸	جب اذان ہو تو سامع کیا کہے؟	۱۲۵	بسبب نیند نماز نکل جانے کا حکم
۱۳۸		۱۲۶	نماز بھول جانے کا حکم

صفحہ	ابواب ومضامین	صفحہ	ابواب ومضامین
۱۵۱	بسم اللہ کو زور سے نہ پڑھنا	۱۳۸	اجرت اذان کی کراہت
۱۵۳	تسمیہ کو جہرا پڑھنا	۱۳۹	سامع اذان کے لئے مسنون دعا
۱۵۳	افتتاح قرأت فاتحہ سے کرنا	۱۳۹	دعا سے متعلق دوسرا باب
۱۵۳	بدون فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی	۱۴۰	اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی
۱۵۳	آمین کا بیان	۱۴۰	فرض نمازوں کی تعداد کا مسئلہ
۱۵۳	تحقیق مسئلہ ”آمین بالجہر“ اور مذاہب ائمہ	۱۴۰	نماز پنجگانہ کی فضیلت کا بیان
۱۵۴	آمین کہنے کی فضیلت	۱۴۱	جماعت کی فضیلت کا بیان
۱۵۵	نماز میں دو مرتبہ کہہ سکتے کا بیان	۱۴۱	جو شخص اذان سنے اور نماز میں نہ پہنچے
۱۵۵	نماز میں دایاں ہاتھ بائیں پر رکھنے کا بیان	۱۴۲	جو شخص تنہا نماز پڑھے اور پھر جماعت پائے تو کیا حکم ہے؟
۱۵۶	تکبیر عند الرکوع والسجود	۱۴۲	جماعت ثانیہ کا مسئلہ
۱۵۶	رفع یدین رکوع سے اٹھتے وقت	۱۴۳	عشاء اور فجر کی جماعت کی فضیلت
۱۵۷	تحقیق مسئلہ رفع الیدین	۱۴۳	صف اول کی فضیلت
۱۵۷	مذاہب ائمہ اور ان کے دلائل	۱۴۳	صفیں سیدھی کرنے سے متعلق
۱۵۷	مذاہب احناف اور ان کے دلائل	۱۴۳	حضور ﷺ کا ارشاد گرامی، توضیح
۱۵۷	مذاہب احناف اور ان کے دلائل کے جوابات	۱۴۵	ستونوں کے درمیان صف بنانا
۱۵۷	وجوہات ترجیح عدم رفع یدین	۱۴۵	صف کے پیچھے کیلے کھڑا ہونا
۱۵۸	رکوع میں ہاتھوں کا گھٹنوں پر رکھنا	۱۴۵	مسئلہ الباب کی تحقیق اور مذاہب احناف
۱۵۸	حالات رکوع میں ہاتھوں کا پسلیوں سے دور رکھنا	۱۴۵	دو افراد کی جماعت کا مسئلہ
۱۵۹	تسبیح رکوع وجود کا بیان	۱۴۶	اس شخص کی نماز کا بیان جس کے ساتھ صرف دو افراد ہوں
۱۵۹	رکوع وجود میں امتناع قرأت	۱۴۷	مردوں اور عورتوں کی جماعت
۱۶۰	رکوع اور وجود میں کمر سیدھی نہ کرنے کا بیان	۱۴۸	مستحق امامت کا بیان
۱۶۰	رکوع سے اٹھتے وقت کی دعا	۱۴۸	امام کے لئے تخفیف قرأت کا حکم
۱۶۱	متعلق مسئلہ بالہ	۱۴۹	توضیح و تشریح حدیث
۱۶۱	خجہے میں گھٹنے ہاتھوں سے پہلے رکھے جائیں	۱۴۹	نماز کی تحریک و تحلیل کا حکم
۱۶۲	متعلق مسئلہ بالہ	۱۵۰	تکبیر کے وقت انگلیاں کھلی رکھنا
۱۶۲	سجدہ پیشانی اور ناک پر ہوتا ہے	۱۵۰	تکبیر اولیٰ کی فضیلت
۱۶۲	دوران سجدہ چہرہ کہاں رکھا جائے؟	۱۵۱	افتتاح صلوٰۃ کے متعلق دعا

صفحہ	ابواب ومضامین	صفحہ	ابواب ومضامین
۱۷۶	عشاء میں قرأت کا بیان	۱۶۳	تحریر مساجد کے اعضاء پر ہوتا ہے
۱۷۷	قرأت خلف الامام کا مسئلہ	۱۶۳	سجدہ میں اعضاء کو الگ الگ رکھنا
۱۷۷	جبری نمازوں میں ترک قرأت خلف الامام	۱۶۴	استدلال فی السجدہ کا بیان
۱۷۹	تحقیق مسئلہ اور مذاہب ائمہ	۱۶۴	سجدہ میں دونوں ہاتھ زمین پر رکھنا اور پاؤں کھڑے رکھنا
۱۷۹	مذہب امام ابوحنیفہ اور ان کے دلائل	۱۶۵	رکوع و سجود سے اٹھتے وقت کمر سیدھی کرنا
۱۷۹	استدلال شوافع کا جواب	۱۶۵	تقدیم علی الامام فی الركوع والسجود مکروہ ہے
۱۸۰	مسجد میں داخل ہونے کی دعا	۱۶۵	سجدتیں کے درمیان اقعاء مکروہ ہے
۱۸۱	تحیۃ المسجد کا بیان	۱۶۶	اقعاء کی اجازت کا بیان
۱۸۱	مقابر اور حجام کے علاوہ کل زمین کا مسجد ہونا	۱۶۶	سجدتیں کے درمیان کی دعا
۱۸۲	مسجد بنانے کی فضیلت	۱۶۷	سجدہ میں سہارا لینا
۱۸۲	قبر کے قریب مسجد بنانے کی کراہت	۱۶۷	سجدے سے کیسے اٹھا جائے؟
۱۸۲	مسجد میں سونا	۱۶۷	متعلق مسئلہ بالا
۱۸۳	مسجد میں خرید و فروخت، شعر گوئی وغیرہ کا حکم	۱۶۷	تشبیہ کا بیان
۱۸۳	وہ مسجد تقویٰ جس کی بنیاد ہے	۱۶۸	متعلق مسئلہ بالا
۱۸۳	مسجد قبائلی نماز کی فضیلت	۱۶۸	تشہید خفیہ پڑھنا
۱۸۴	مساجد کے درمیان فضیلت	۱۶۹	تشہید میں بیٹھنے کا طریقہ
۱۸۴	منشی الی المسجد کا بیان	۱۶۹	متعلق مسئلہ بالا
۱۸۵	انتظار صلوة میں مسجد میں بیٹھنے کی فضیلت	۱۶۹	تشہید میں اشارہ کرنا
۱۸۵	چٹائی پر نماز پڑھنا	۱۷۰	نماز میں سلام پھیرنا
۱۸۶	الصلوة علی الحصر	۱۷۰	متعلق مسئلہ بالا
۱۸۶	بساط پر نماز پڑھنا	۱۷۱	حد تک سلام کا مسئلہ
۱۸۶	باغوں میں نماز کا بیان	۱۷۱	سلام کے بعد کی دعا
۱۸۷	نمازی کے سترہ کا بیان	۱۷۲	نماز کے بعد امام کا دونوں جانب گھومنا
۱۸۷	نمازی کے آگے سے گزرنے کا بیان	۱۷۲	مشیت صلوة کا بیان
۱۸۷	نماز کسی چیز کے گزرنے سے نہیں ٹوٹی	۱۷۵	غیر کی نماز میں قرأت کا بیان
۱۸۸	نماز مرد و کلب، حمار اور عورت کے علاوہ کسی سے نہیں ٹوٹی	۱۷۵	غیر اور حصر میں قرأت کا بیان
۱۸۸	ایک کپڑے میں نماز پڑھنا	۱۷۶	غیر میں قرأت کرنا

صفحہ نمبر	ابواب و مضامین	صفحہ	ابواب و مضامین
۲۰۰	نماز میں کوکھ پر ہاتھ رکھنا	۱۸۹	قبلہ کی ابتداء کا بیان
۲۰۱	بالوں کو باندھ کر نماز پڑھنا	۱۸۹	مشرق و مغرب کے درمیان قبلہ
۲۰۳	نماز میں خشوع کا بیان	۱۹۰	اندھیرے میں بغیر استقبال قبلہ کے نماز پڑھنا
۲۰۴	پنجہ میں پنجہ ڈالنا نماز میں	۱۹۱	جس چیز میں یا جس کی طرف نماز پڑھنا مکروہ ہے اس کا بیان
۲۰۴	نماز میں دیر تک قیام کرنا	۱۹۱	بکریوں اور اونٹوں کے باڑے میں نماز کا حکم
۲۰۴	کثرت رکوع و سجود کا بیان	۱۹۱	سواری پر نماز پڑھنے کا بیان
۲۰۵	سانپ اور بچھو کا نماز میں قتل کرنا	۱۹۲	سواری کی طرف نماز پڑھنا
۲۰۵	قبلہ السلام سجدہ سہواً کرنا	۱۹۲	اقامت صلوٰۃ کے وقت کھانا حاضر ہو تو کھانا پہلے کھایا جائے
۲۰۵	تفصیل مسئلہ اور اختلاف ائمہ	۱۹۳	اوجھتے ہوئے نماز پڑھنا
۲۰۶	سلام و کلام کے بعد سجدہ سہواً کرنا	۱۹۳	جو کسی کی ملاقات کے لئے جائے تو ان کی امامت نہ کرے
۲۰۷	سجدہ سہواً میں تشہد پڑھنا	۱۹۳	امام کا دعا کے لئے اپنے کو مخصوص کرنا
۲۰۷	نماز میں کمی یا زیادتی کا شک ہونا	۱۹۴	خواہش مقتدیوں کے برخلاف امامت کرنا
۲۰۸	ظہر و عصر میں دو رکعتوں کے بعد سلام پھیرنے کا حکم	۱۹۵	اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھے
۲۰۸	مسئلہ بالا میں اختلاف ائمہ	۱۹۵	مسئلہ متعلق بالا
۲۰۹	جو تے بہن کر نماز پڑھنا	۱۹۶	دو رکعتوں کے بعد امام کا بھول کر کھڑے ہونا
۲۰۹	فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا	۱۹۶	تفصیل مسئلہ بالا
۲۱۰	ترک قنوت کا بیان	۱۹۷	قعدہ اولیٰ کی مقدار کا بیان
۲۱۰	نماز میں چھینکنا	۱۹۷	نماز میں اشارہ کرنا
۲۱۱	نماز میں کلام (بات کرنا) منسوخ ہونا	۱۹۸	مردوں کے لئے تسبیح اور عورتوں کے لئے تصفیق
۲۱۱	صلوٰۃ التوبہ	۱۹۸	نماز میں جمائی لینے کی کراہت
۲۱۲	بچے کو نماز کا حکم کب دیا جائے؟	۱۹۸	بیٹھ کر نماز پڑھنے کا ثواب کھڑے ہو کر پڑھنے سے آدھا ہے
۲۱۲	تشہد کے بعد اگر حدیث لاحق ہو جائے	۱۹۹	نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا
۲۱۳	بارش کے وقت گھروں میں نماز پڑھنا	۲۰۰	بچوں کا روٹنا سن کر نماز میں تخفیف کرنا
۲۱۳	نماز کے بعد تسبیح کا بیان	۲۰۰	جوان لڑکی کی نماز بغیر چادر کے نہیں ہوتی
۲۱۴	بارش اور کچھڑ میں سواری پر نماز پڑھنا	۲۰۱	نماز میں سدل مکروہ ہے
۲۱۴	اجتہاد فی الصلوٰۃ کا بیان	۲۰۱	نماز میں کتکریاں ہٹانا
۲۱۴	قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا	۲۰۲	نماز میں پھونکیں مارنا

صفحہ	ابواب ومضامین	صفحہ	ابواب ومضامین
۲۲۶	حدیث ابن عمرؓ	۲۱۶	دن رات میں بارہ رکعت سنت پڑھنے کی فضیلت
۲۲۶	ابواب الوتر	۲۱۶	فجر کی دو سنتوں کی فضیلت
۲۲۶	عن رسول اللہ ﷺ	۲۱۶	فجر کی سنتوں میں تخفیف اور قرأت کا بیان
۲۲۶	فضیلت وتر کا بیان	۲۱۶	فجر کی سنتوں کے بعد باتیں کرنا
۲۲۶	وتر کی عدم فرضیت کا بیان	۲۱۷	طلوع فجر کے بعد فجر کی سنتوں کے علاوہ کوئی نماز نہیں
۲۲۷	وتر پڑھے بغیر سونے کی کراہیت	۲۱۷	فجر کی سنتوں کے بعد لیٹنا
۲۲۷	وتر کرات کے شروع و آخر دونوں میں جواز	۲۱۷	جب جماعت کھڑی ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں
۲۲۸	رکعات وتر کی تعداد، وتر کی سات رکعات	۲۱۸	مسئلہ کی توضیح و تشریح
۲۲۸	وتر کی پانچ رکعات کا بیان	۲۱۸	فجر کی سنتوں کی قضاء کا مسئلہ
۲۲۸	وتر میں تین رکعات کا بیان	۲۱۸	فجر کی سنتوں کی قضاء، طلوع آفتاب کے بعد
۲۲۹	تفصیل و تحقیق مسئلہ الباب	۲۱۹	ظہر سے پہلے کی چار سنتوں کا بیان
۲۲۹	مذہب ائمہ و مذہب احناف	۲۱۹	بعد ظہر دو رکعات پڑھنا
۲۲۹	وتر میں ایک رکعت کا بیان	۲۱۹	اسی سے متعلق دوسرا باب
۲۳۰	وتر میں قرأت قرآن کا بیان	۲۲۰	عصر سے قبل چار رکعات پڑھنا
۲۳۰	قنوت وتر کا بیان	۲۲۱	مغرب کے بعد کی سنتیں اور ان کی قرأت
۲۳۱	مسئلہ مذہب احناف	۲۲۱	مغرب کی سنتیں گھر پر پڑھنا
۲۳۱	جو شخص وتر پڑھے بغیر سو جائے یا بھول جائے	۲۲۲	مغرب کے بعد کی چھ رکعات (اواہین)
۲۳۲	مسئلہ مذہب ائمہ و وتر کی حیثیت کے بارے میں	۲۲۲	عشاء کے بعد دو رکعت سنت پڑھنا
۲۳۲	دلائل احناف رحمہم اللہ	۲۲۲	رات کی نماز (تہجد) دو دو رکعات ہیں
۲۳۲	صبح سے پہلے وتر پڑھنا	۲۲۳	تہجد کی فضیلت
۲۳۳	ایک رات میں دو وتر نہیں	۲۲۳	آنحضرت ﷺ کی صلوٰۃ اللیل کی صفت
۲۳۳	سواری پر وتر پڑھنا	۲۲۴	اسی سے متعلق دوسرا باب
۲۳۴	چاشت کی نماز کا بیان	۲۲۴	اسی سے متعلق تیسرا باب
۲۳۵	صلوٰۃ عند الزوال کا بیان	۲۲۴	ہر رات آسمان دنیا پر باری تعالیٰ کا نزول
۲۳۶	صلوٰۃ الحاجت کا بیان	۲۲۵	رات کو تلاوت قرآن کریم کا بیان
۲۳۶	صلوٰۃ الاستخارہ و دعائے استخارہ	۲۲۶	نفل نماز گھر میں پڑھنے کی فضیلت

صفحہ	ابواب ومضامین	صفحہ	ابواب ومضامین
۲۵۰	منبر پر دعا کے لئے ہاتھ اٹھانا مکروہ ہے	۲۳۷	صلوٰۃ التیسح کا بیان
۲۵۰	جمعہ کی اذان	۲۳۸	تفصیل صلوٰۃ التیسح
۲۵۰	امام کے منبر سے اترنے کے بعد کلام کرنا	۲۳۸	نبی کریم ﷺ پر درود بھیجنے کا طریقہ
۲۵۱	جمعہ کی نماز میں قرأت	۲۳۹	فضیلت درود شریف
۲۵۱	جمعہ کے روز فجر کی نماز کی قرأت کا بیان	۲۳۹	اسی سلسلہ کی دوسری احادیث
۲۵۲	جمعہ سے پہلے اور بعد کی نماز	۲۴۰	ابواب الجمعة
۲۵۳	جو شخص جمعہ کی ایک رکعت پاسکے	۲۴۰	یوم الجمعہ کی فضیلت
۲۵۳	مسئلہ مذہب حنفیہ	۲۴۰	جمعہ کے دن قبولیت کی ساعت
۲۵۳	جمعہ کے دن قیلولہ	۲۴۱	ساعت قبولیت کے بارے میں دوسری روایات
۲۵۳	جمعہ کے دن اونگھنے والا شخص کیا کرے	۲۴۲	جمعہ کے دن غسل کا بیان
۲۵۴	جمعہ کے دن سفر کرنا	۲۴۲	جمعہ کے دن غسل کی فضیلت
۲۵۴	جمعہ کو مسواک کرنا اور خوشبو لگانا	۲۴۲	جمعہ کے روز وضو کرنے کا بیان
۲۵۵	ابواب العیدین	۲۴۳	جمعہ کے لئے جلدی کرنا
۲۵۵	عیدین کے لئے پیدل جانا	۲۴۳	بغیر عذر کے ترک جمعہ کا بیان
۲۵۵	عیدین میں خطبے سے قبل نماز پڑھنا	۲۴۳	کتنی دور سے جمعہ میں شریک ہونا واجب ہے؟
۲۵۵	عیدین کی نماز میں اذان و اقامت کا نہ ہونا	۲۴۵	تفصیل مسئلہ
۲۵۵	عیدین کی نماز میں قرأت	۲۴۵	وقت جمعہ کا بیان
۲۵۶	عیدین کی تکبیرات کا بیان	۲۴۵	منبر پر خطبہ پڑھنا
۲۵۷	تفصیل مسئلہ اور احناف کا مذہب	۲۴۶	دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھنا
۲۵۷	عیدین سے قبل اور بعد کوئی نماز نہیں	۲۴۶	خطبہ مختصر پڑھنا
۲۵۷	عیدین کے لئے عورتوں کا نکلنا	۲۴۶	منبر پر قرآن پڑھنا
۲۵۸	عیدین کے لئے ایک راستہ سے جانا اور دوسرے سے واپسی	۲۴۷	خطبہ دیتے وقت امام کی طرف چہرہ رکھنا
۲۵۸	نماز عید الفطر سے قبل کچھ کھانا	۲۴۸	امام کے خطبہ کے دوران آنے والا شخص دو رکعت پڑھے
۲۵۹	ابواب السفر	۲۴۸	دوران خطبہ بات چیت کی کراہیت
۲۵۹	سفر میں قصر نماز پڑھنا	۲۴۹	تفصیل اور مسئلۃ الباب و مذاہب ائمہ
۲۶۰	اس بارے میں دوسری احادیث	۲۴۹	جمعہ کے دن لوگوں کو پھلانگ کر آگے جانا
		۲۴۹	دوران خطبہ احتیاء مکروہ ہے

صفحہ	ابواب ومضامین	صفحہ	ابواب ومضامین
۲۷۵	دن رات کی نماز دو دو رکعت ہے	۲۶۰	مدت قصر کا بیان
۲۷۵	آنحضرت ﷺ دن میں کس طرح نوافل پڑھتے تھے؟	۲۶۱	سفر میں نوافل پڑھنا
۲۷۶	عورتوں کی چادروں میں نماز پڑھنا	۲۶۲	جمع بین الصلاتین فی السفر
۲۷۶	نفل نمازوں میں چلنا اور عمل کا بیان	۲۶۳	نماز استسقاء کا بیان
۲۷۷	ایک رکعت میں دو سورتیں پڑھنا	۲۶۴	صلوۃ الکسوف کا بیان
۲۷۷	مسجد کی طرف چلنا اور قدم اٹھانے کی فضیلت	۲۶۵	نماز کسوف میں قرأت کی کیفیت کا بیان
۲۷۷	مغرب کے بعد گھر میں نماز پڑھنا	۲۶۵	صلوۃ الخوف کا بیان
۲۷۸	اسلام قبول کرتے وقت غسل کرنا	۲۶۶	تفصیل صلوۃ الخوف
۲۷۸	بیت الخلاء جاتے وقت بسم اللہ کہنا	۲۶۷	سجود القرآن کا بیان
۲۷۹	قیامت کے دن وضو اور سجدوں کی وجہ سے اس امت کی نشانی	۲۶۷	عورتوں کا مسجد جانا
۲۷۹	وضو میں ابتداء بالیمین کرنا	۲۶۸	مسجد میں تھوکنے کی کراہت
۲۷۹	وضو کے لئے کتنا پانی کافی ہے؟	۲۶۸	سورۃ الشقاق و سورۃ علق کا سجدہ
۲۷۹	دودھ پیتے بچہ کے پیشاب پر پانی بہانا	۲۶۹	سورۃ نجم کا سجدہ
۲۸۰	جنسی کے لئے بعد وضو کھانے اور سونے کی اجازت	۲۶۹	سورۃ نجم میں سجدہ نہ کرنا
۲۸۰	نماز کی فضیلت	۲۷۰	سورۃ "ص" کا سجدہ
۲۸۱	نماز کی فضیلت کے بارے میں دوسرا باب	۲۷۰	سورۃ "حج" میں سجدہ
۲۸۱	ابواب الزکاة	۲۷۰	سجدہ تلاوت میں کیا پڑھے؟
۲۸۱	عن رسول اللہ ﷺ	۲۷۱	جس کا وظیفہ رات کو چھوٹ جائے اسی دن میں مکمل کرے
۲۸۱	زکوٰۃ نہ دینے پر آنحضرت ﷺ سے منقول وعید	۲۷۱	فرض نماز ادا کرنے کے بعد لوگوں کی امامت کرنا
۲۸۲	زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد واجب ادا ہو گیا	۲۷۲	گرمی یا سردی کی وجہ سے کپڑے پر سجدہ کرنا
۲۸۳	سونے اور چاندی کی زکوٰۃ	۲۷۲	رکوع و سجود میں امام سے پہلے اٹھنے کی ممانعت
۲۸۳	اونٹ اور بکریوں کی زکوٰۃ	۲۷۲	فجر کی نماز سے طلوع شمس تک مسجد میں بیٹھنا
۲۸۳	گائے، بیل کی زکوٰۃ کا بیان	۲۷۳	نماز میں کن آنکھوں سے دیکھنا
۲۸۵	زکوٰۃ میں بہترین مال لینے کی کراہت	۲۷۳	اگر امام کو سجدہ میں پائے تو کیا کرے
۲۸۵	بھیتی، پھلوں اور غلے کی زکوٰۃ	۲۷۴	نماز کے وقت لوگوں کا کھڑے ہو کر امام کا انتظار کرنا
۲۸۶	گھوڑوں اور غلاموں پر زکوٰۃ نہیں	۲۷۴	دعا سے قبل اللہ کی حمد و ثناء اور درود علی النبی ﷺ
۲۸۶		۲۷۵	مسجدوں میں خوشبو کرنے کا بیان

صفحہ	ابواب ومضامین	صفحہ	ابواب ومضامین
۳۰۰	بیوی کا شوہر کے مال میں سے خرچ کرنا	۲۸۷	شہد کی زکوٰۃ
۳۰۱	صدقۃ الفطر کا بیان		مال مستفاد پر جب تک سال نہ گزر جائے اس وقت تک
۳۰۲	صدقۃ الفطر نماز سے قبل ادا کرنا	۲۸۷	زکوٰۃ نہیں
۳۰۲	وقت سے قبل زکوٰۃ ادا کرنا	۲۸۸	مسلمانوں پر جزیہ نہیں
۳۰۳	حدیث علیؓ بن ابی طالب	۲۸۸	زیورات کی زکوٰۃ کا بیان
۳۰۳	تفصیل مسئلۃ الباب	۲۸۹	سبزیوں کی زکوٰۃ کا بیان
۳۰۳	روایت ابو ہریرہؓ	۲۸۹	نہری زمین کی بھیتی کی زکوٰۃ
۳۰۳	روایت سمرہ بن جندبؓ	۲۹۰	یتیم کے مال کی زکوٰۃ
۲۰۴	ابواب الصوم	۲۹۰	حیوان کے زخمی کرنے کی دیت کا بیان، دفن شدہ خزانہ کا حکم
۳۰۴	ماہ رمضان المبارک کی فضیلت	۲۹۱	غلے وغیرہ میں اندازہ کرنا
۳۰۴	استقبال رمضان کے لئے روزہ نہ رکھنا	۲۹۱	عالمین زکوٰۃ کی فضیلت
۳۰۵	یوم الشک میں روزہ رکھنا	۲۹۲	زکوٰۃ وصول کرنے میں زیادتی کرنے والے پر وعید
۳۰۵	رمضان کے لئے شعبان کے چاند کا خیال رکھنا	۲۹۲	عالمین زکوٰۃ کو خوش کرنا
۳۰۶	روزہ رکھنا اور چھوڑنا چاند دیکھنے پر موقوف ہے	۲۹۲	مصارف زکوٰۃ، مالداروں سے لے کر فقراء میں تقسیم کرنا
۳۰۶	مہینہ اتیس (۲۹) کا بھی ہونا	۲۹۳	جس کے لئے زکوٰۃ لینا جائز ہے
۳۰۶	شہادت رویت ہلال پر روزہ رکھنا	۲۹۴	غیر مستحقین زکوٰۃ، جن کے لئے زکوٰۃ جائز نہیں
۳۰۷	عید کے دونوں مہینے ایک ساتھ نہیں گھنٹے	۲۹۴	مقروض وغیرہ کا زکوٰۃ لینا
۳۰۷	ہر شہر کے لئے انہی کی رویت معتبر ہے	۲۹۵	اہل بیت رسول (ﷺ) اور ان کے غلاموں کا زکوٰۃ لینا
۳۰۸	کس چیز سے روزہ افطار کرنا مستحب ہے	۲۹۵	عزیز واقرباء کو زکوٰۃ دینا
۳۰۹	عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن	۲۹۶	مال میں زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے حقوق
۳۰۹	افطار دن کے اختتام اور شب کے شروع میں کیا جائے	۲۹۷	ادا ہنگی زکوٰۃ کی فضیلت
۳۰۹	تعیل افطار کا بیان	۲۹۷	قول "یاخذھا بیمنہ" میں علماء کے اقوال
۳۱۰	سحری میں تاخیر کرنا	۲۹۸	سائل کے حق کا بیان
۳۱۱	صح صادق کی تحقیق	۲۹۸	مؤلفہ قلوب کو دینا
۳۱۲	سفر کے دوران روزہ رکھنے کی کراہیت	۲۹۹	زکوٰۃ میں دیا ہوا مال اگر وراثت میں ملے تو اس کا حکم
۳۱۲	سفر کے دوران روزہ رکھنے کی اجازت	۲۹۹	صدقہ کرنے کے بعد واپس لینا
		۳۰۰	میت کی طرف سے صدقہ کرنا

صفحہ	ابواب ومضامین	صفحہ	ابواب ومضامین
۳۲۵	توضیح مسئلہ الباب	۳۱۳	حجائین کے لئے روزہ نہ رکھنے کی اجازت
۳۲۵	یوم عرفہ میں روزہ کی فضیلت	۳۱۳	حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو افطار کی اجازت
۳۲۵	توضیح مسئلہ الباب	۳۱۴	میت کی طرف سے روزہ رکھنا
۳۲۵	عرفات میں یوم العرفہ کا روزہ رکھنا مکروہ ہے	۳۱۵	روزے نہ رکھنے کا کفارہ
۳۲۶	عاشورہ محرم کے روزہ کے لئے ترغیب	۳۱۵	روزہ میں قے ہو جانا
۳۲۷	توضیح مسئلہ الباب	۳۱۵	روزہ میں عمد اُتے کرنا
۳۲۷	عاشورہ کا روزہ ترک کرنے کی اجازت	۳۱۶	حالت صوم میں بھول کر کھانا پینا
۳۲۷	یوم عاشورہ کی تعیین کا بیان	۳۱۶	قصد آرزو توڑنا
۳۲۷	عشرہ ذی الحجہ میں روزے رکھنا	۳۱۶	رمضان میں روزہ توڑنے کا کفارہ
۳۲۸	عشرہ ذی الحجہ میں اعمال صالحہ کی فضیلت	۳۱۷	روزہ کی حالت میں مسواک کرنا
۳۲۹	شوال کے چھ روزوں کا بیان	۳۱۷	روزہ میں سرمہ لگانا
۳۲۹	ہر ماہ تین روزے رکھنا	۳۱۸	روزہ میں بوسہ لینا
۳۲۹	فضیلت صوم کا بیان	۳۱۸	حالت صوم میں بوس و کنار کرنا
۳۳۱	صوم الدہر (ہمیشہ روزہ رکھنا) کا بیان	۳۱۸	روزہ کی رات سے نیت کرنا
۳۳۱	پے در پے روزے رکھنا	۳۱۹	نفل روزہ توڑنا
۳۳۲	عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روزہ کی ممانعت	۳۲۰	نفل روزہ توڑ کر اس کی قضاء واجب ہے
۳۳۳	ایام تشریق میں روزہ رکھنا	۳۲۱	شعبان اور رمضان کے روزے ملانا
۳۳۳	صائم کے لئے حجامت (چھپنے) لگوانا	۳۲۱	تعظیم رمضان کے لئے شعبان کے آخری پندرہ دنوں
۳۳۳	تفصیل مسئلہ الباب اور مذاہب ائمہ		میں روزہ رکھنے کی کراہیت
۳۳۴	حالت صوم میں چھپنے لگانے کی اجازت کا بیان	۳۲۲	توضیح وتفصیل مسئلہ
۳۳۴	صوم وصال کی کراہیت	۳۲۲	شب برأت کا بیان
۳۳۵	صبح تک حالت جنابت میں رہتے ہوئے روزہ کی نیت کرنا	۳۲۲	عاشورہ محرم کا روزہ
۳۳۵	بغیر اجازت شوہر کے بیوی کا نفل روزے رکھنا	۳۲۳	جمعہ کے دن روزہ رکھنا
۳۳۵	روزہ دار کا دعوت قبول کرنا	۳۲۳	صرف یوم الجمعہ کا روزہ رکھنا
۳۳۶	قضاء رمضان کی تاخیر کا بیان	۳۲۴	ہفتہ کے دن روزہ رکھنا
۳۳۶	روزہ دار کے سامنے کھانے پر صائم کی فضیلت	۳۲۴	پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنا
		۳۲۵	بدھ اور جمعرات کو روزہ رکھنا

صفحہ	ابواب ومضامین	صفحہ	ابواب ومضامین
۳۳۷	نبی کریم ﷺ نے کتنے حج کئے؟	۳۳۷	حائضہ روزوں کی قضاء کرے، نماز کی نہیں
۳۳۷	آنحضرت ﷺ کے عمروں کی تفصیل	۳۳۷	صائم کے لئے ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا
۳۳۸	آنحضرت ﷺ کے احرام باندھنے کی جگہ	۳۳۷	مہمان کے لئے بدون اجازت میزبان کے روزہ رکھنا
۳۳۸	آپ ﷺ نے احرام کب باندھا؟	۳۳۸	اعتکاف کا بیان
۳۳۹	حج افراد کا بیان	۳۳۸	شب قدر کا بیان
۳۳۹	توضیح زواہد اور حج کی تین قسمیں	۳۳۸	شب قدر سے متعلق دوسری روایات
۳۳۹	جمع بین الحج والعمرة کا بیان (قرآن)	۳۳۹	سردیوں کے روزوں کا بیان
۳۳۹	توضیح مسئلہ الباب اور افضل قسم کی تعیین	۳۳۹	اہل طاقت کے لئے روزہ رکھنا
۳۵۰	تمتع کا بیان	۳۳۹	رمضان میں کھانا کھا کر سفر کرنا
۳۵۱	حدیث الباب کی احناف کی طرف سے توضیح	۳۴۱	روزہ دار کو تھکھ دینا
۳۵۱	تلبیہ پڑھنے کا بیان	۳۴۱	عید الفطر اور عید الاضحیٰ کب ہوتی ہے؟
۳۵۱	تلبیہ اور قربانی کی فضیلت	۳۴۲	اعتکاف میں بیٹھنے کی نیت ہو اور دن گذر جائیں
۳۵۲	تلبیہ یا از بلند پڑھنا	۳۴۲	تفصیل مسئلہ الباب اور اقوال ائمہ
۳۵۳	احرام باندھتے وقت غسل کرنا	۳۴۲	مختلف کا اپنی ضرورت کے لئے مسجد سے نکلنا
۳۵۳	آفاقی کے لئے میقات کا بیان	۳۴۲	تشریح حدیث باب
۳۵۳	محرم کے لئے جو چیزیں پہننا ناجائز ہیں	۳۴۳	رمضان کی راتوں میں قیام کرنا
۳۵۴	لنگی اور جوتوں کی عدم موجودگی میں شلوار اور موزوں کا استعمال کرنا	۳۴۳	روزہ دار کو افطار کرانے کی فضیلت
۳۵۴	قیص یا جبہ پہن کر احرام باندھنا	۳۴۴	رمضان میں قیام شب کی ترغیب اور فضیلت
۳۵۴	ان جانوروں کا بیان جن کا مارنا محرم کے لئے جائز ہے	۳۴۴	روایت حضرت ابو ہریرہؓ
۳۵۵	حالت احرام میں چھپنے لگوانا	۳۴۴	ابواب الحج
۳۵۵	حالت احرام میں نکاح کی کراہیت	۳۴۴	حرمت مکہ مکرمہ کا بیان
۳۵۶	محرم کے لئے نکاح کی اجازت کا بیان	۳۴۴	حدیث باب اور اس کی ضروری توضیح
۳۵۷	محرم کا شکار کا گوشت کھانا	۳۴۵	حج اور عمرہ کا ثواب
۳۵۷	حالت احرام میں شکار کا گوشت کھانے کی کراہت	۳۴۶	ترک حج پر عید
۳۵۸	محرم کے لئے سمندری جانوروں کا شکار کرنا	۳۴۶	”زاد“ اور ”راحلہ“ کی ملکیت سے حج کا فرض ہونا
۳۵۸	محرم کے لئے بچو کھانا	۳۴۶	کتنے حج فرض ہیں؟

صفحہ	ابواب ومضامین	صفحہ	ابواب ومضامین
۳۶۹	مسئلہ وتشریح حدیث الباب	۳۵۹	دخول مکہ مکرمہ کے لئے غسل کرنا
۳۷۰	عرفات سے واپسی کا بیان	۳۵۹	آنحضرت ﷺ مکہ مکرمہ میں بلندی کی طرف سے داخل اور پستی کی طرف سے نکلے
۳۷۰	جو شخص مزدلفہ میں امام کے ساتھ شریک ہو جائے اس کا حج ہو گیا	۳۵۹	نبی کریم ﷺ مکہ میں دن کے وقت داخل ہوئے
۳۷۲	ضعیف لوگوں کو مزدلفہ سے جلدی روانہ کرنا	۳۵۹	بیت اللہ پر نظر پڑتے ہاتھ اٹھانے کی کراہت
۳۷۲	باب بلا عنوان	۳۶۰	کیفیت طواف کا بیان
۳۷۲	مزدلفہ سے طلوع آفتاب سے قبل نکلنا	۳۶۰	حجر اسود سے رمل شروع اور اس پر ختم کرنا
۳۷۳	چھوٹی کنکریاں مارنا	۳۶۰	حجر اسود اور رکن یمانی کے علاوہ کسی چیز کو بوسہ دینا
۳۷۳	زوال آفتاب کے بعد کنکریاں مارنا	۳۶۱	آنحضرت ﷺ نے اضطباع کی حالت میں طواف کیا
۳۷۳	سوار ہو کر کنکریاں مارنا	۳۶۱	حجر اسود کو بوسہ دینا
۳۷۴	رمی کیسے کی جائے؟	۳۶۱	سعی صفا سے شروع کرنا
۳۷۵	رمی کے وقت لوگوں کو دھکیلنے کی کراہت	۳۶۲	صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا
۳۷۵	اونٹ اور گائے میں شراکت کا بیان	۳۶۲	سواری پر طواف کرنا
۳۷۶	قربانی کے اونٹ کا اشعار کرنا	۳۶۳	فضیلت طواف کا بیان
۳۷۶	مسئلہ اور مذہب احناف اور حدیث باب	۳۶۳	عصر اور فجر کے بعد دو گانہ طواف ادا کرنا
۳۷۶	باب بلا عنوان	۳۶۴	دو گانہ طواف میں قرأت کا بیان
۳۷۷	مقیم کا ہدی کی تقلید کرنا	۳۶۴	ننگے ہو کر طواف کرنا حرام ہے
۳۷۷	بکریوں کی تقلید (قلاوہ ڈالنا)	۳۶۴	کعبہ کے اندر جانے کا بیان
۳۷۷	قریب المرگ ہدی کا حکم	۳۶۴	بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا
۳۷۸	قربانی کے اونٹ پر سواری کا حکم	۳۶۵	خانہ کعبہ کو توڑنا
۳۷۸	حلق کے وقت سر کے کس جانب سے ابتداء کریں	۳۶۵	حطیم میں نماز پڑھنا
۳۷۸	”حلق“ اور ”قصر“ کا بیان	۳۶۵	مقام ابراہیم، حجر اسود اور رکن یمانی کی فضیلت
۳۷۹	عورت کے لئے حلق کا حرام ہونا	۳۶۶	منیٰ کی طرف جانا اور وہاں قیام کرنا
۳۷۹	قبیل ذبح حلق کر لے یا قبل رمی قربانی تو کیا حکم ہے؟	۳۶۶	منیٰ میں پہلے پہنچنے والا قیام کا زیادہ حقدار ہے
۳۷۹	احرام کھولنے کے بعد طواف زیارت سے قبل خوشبو کا استعمال	۳۶۷	منیٰ میں قصر نماز پڑھنا
۳۸۰	دوران حج ”تلبیہ“ کب ترک کیا جائے؟	۳۶۷	عرفات میں کھڑے ہونا اور دعا کرنا
۳۸۰	عمرہ میں تلبیہ کے ترک کا وقت	۳۶۸	عرفات پورا ٹھہرنے کی جگہ ہے

صفحہ	ابواب ومضامین	صفحہ	ابواب ومضامین
۳۹۱	چرواہوں کے لئے ایک دن کی رمی چھوڑنے کا بیان	۳۸۰	طواف زیارت رات کو کرنا
۳۹۲	باب بلا عنوان	۳۸۰	”ابطح“ کے مقام پر ٹھہرنا
۳۹۳	باب بلا عنوان	۳۸۱	جو شخص ”ابطح“ میں نزول کرے
۳۹۳	باب بلا عنوان	۳۸۱	”صسی“ (بیچ) کا حج
۳۹۳	باب بلا عنوان	۳۸۲	میت اور بوڑھی کی طرف سے حج بدل
۳۹۴	ابواب الجنائز	۳۸۳	مندرجہ بالا مسئلہ سے متعلق دوسرا باب
۳۹۴	یاری پر اجر و ثواب کے متعلق	۳۸۳	وجوب عمرہ کا بیان
۳۹۴	عیادت مریض کا بیان	۳۸۳	متعلق مسئلہ بالا
۳۹۵	موت کی تمنا کرنے کی ممانعت	۳۸۴	عمرے کی فضیلت
۳۹۶	مریض کے لئے دعا و دم کرنا	۳۸۴	”تعمیم“ سے عمرہ کے لئے جانا
۳۹۶	وصیت کی ترغیب کے بیان میں	۳۸۴	”بھرانہ“ سے عمرہ کرنا
۳۹۶	”ملکٹ“ یا ”ربیع“ مال کی وصیت کرنا	۳۸۵	رجب میں عمرہ کرنا
۳۹۶	حالت نزع میں مریض کو تلقین اور اس کے لئے دعا کرنا	۳۸۵	ذی القعدہ میں عمرہ کی ادائیگی
۳۹۸	موت کی سختی کا بیان	۳۸۵	رمضان المبارک میں عمرہ کرنا
۳۹۸	باب بلا عنوان	۳۸۶	تلبیہ حج کے بعد معذور ہو جانے والے کا حکم
۳۹۹	باب بلا عنوان	۳۸۶	اشتراط فی الحج کا بیان
۳۹۹	کسی کی موت کی خبر سن کر اعلان کرنا	۳۸۶	متعلق مسئلہ بالا
۴۰۰	پہلے صدمہ کے وقت صبر کرنا	۳۸۷	طواف افاضہ کے بعد عورت کو حیض آنا
۴۰۰	میت کو بوسہ دینا	۳۸۷	حائضہ کے لئے دوران حج کے جائز افعال
۴۰۰	میت کو غسل دینا	۳۸۸	جو شخص حج اور عمرہ کے لئے جائے اس کو چاہئے کہ آخر
۴۰۱	میت کو مشک لگانا	۳۸۸	میں بیت اللہ سے ہو کر لوٹے
۴۰۱	میت کو نہلانے کے بعد خود غسل کرنا	۳۸۸	قارن ایک ہی طواف کرے
۴۰۲	کفن کس طرح دینا مستحب ہے؟	۳۸۹	مہاجر مناسب حج کی ادائیگی کے بعد مکہ مکرمہ میں کتنے
۴۰۲	باب بلا عنوان		دن رہے؟
۴۰۲	آنحضرت ﷺ کے کفن کا بیان	۳۸۹	حالت احرام میں وفات پانے والے کا بیان
۴۰۳	اہل میت کا کھانا پکانا	۳۹۰	محرم آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا ہو تو کیا کرے؟
		۳۹۰	حالت احرام میں سر منڈانے کا حکم

صفحہ	ابواب و مضامین	صفحہ	ابواب و مضامین
۴۱۶	شہید کی نماز جنازہ نہ پڑھنا	۴۰۳	مصیبت کے وقت چہرہ پینٹا اور گریبان پھاڑنا
۴۱۶	قبر پر نماز جنازہ پڑھنا	۴۰۴	نوحہ کی حرمت کا بیان
۴۱۷	آنحضرت ﷺ کا نجاشی کی نماز جنازہ پڑھنا	۴۰۴	میت پر بلند آواز سے رونا
۴۱۷	مسئلہ: مذہب احناف اور ان کی دلیل	۴۰۵	میت پر بغیر آواز سے رونا جائز ہے
۴۱۸	نماز جنازہ کی فضیلت کا بیان	۴۰۶	جنازے کے آگے چلنا
۴۱۸	دوسرا باب	۴۰۷	جنازہ کے پیچھے چلنا
۴۱۸	جنازہ دیکھ کر کھڑا ہونا	۴۰۷	جنازہ کے پیچھے سوار ہو کر چلنا مکروہ ہے
۴۱۹	جنازہ دیکھ کر کھڑا نہ ہونے کا بیان	۴۰۸	سواری پر سوار ہونے کا جواز
۴۱۹	”خدا“ اور ”شق“ کے بارے میں حضور ﷺ کی حدیث	۴۰۸	جنازہ کو جلدی لے کر جانا
۴۲۰	توضیح حدیث الباب	۴۰۸	شہدائے اُحد اور سیدنا حمزہ کا ذکر
۴۲۰	تدفین میت کے وقت کی دعا	۴۰۹	باب آخر
۴۲۰	قبر میں میت کے نیچے کپڑا بچھانا	۴۰۹	بلا عنوان
۴۲۱	قبروں کو زمین کے برابر کرنا	۴۱۰	دوسرا باب
۴۲۱	قبروں پر چلنے اور بیٹھنے کی ممانعت	۴۱۰	جنازہ رکھنے سے پہلے بیٹھنا
۴۲۲	قبروں کو پختہ کرنا اور ان پر لکھنا حرام ہے	۴۱۰	مصیبت پر صبر کی فضیلت
۴۲۲	قبرستان جانے کی دعا	۴۱۱	نماز جنازہ میں تکبیر کہنا
۴۲۲	زیارت قبور کی اجازت	۴۱۱	نماز جنازہ کی دعا
۴۲۳	عورتوں کے لئے زیارت قبور کی کراہت	۴۱۲	نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا
۴۲۳	عورتوں کا قبروں کی زیارت کرنا	۴۱۳	تشریح و توضیح حدیث الباب
۴۲۳	رات کو دفن کرنا	۴۱۳	نماز جنازہ کی کیفیت اور میت کے لئے شفاعت
۴۲۴	میت کو اچھے الفاظ میں یاد کرنا	۴۱۳	طلوع و غروب آفتاب کے وقت نماز جنازہ کی کراہت
۴۲۴	بیٹے کی وفات پر باپ کے لئے اجر و ثواب	۴۱۴	بچوں کی نماز جنازہ
۴۲۶	شہداء کون ہیں؟	۴۱۴	پیدائش کے بعد بغیر روئے مرنے والے بچے کی نماز جنازہ
۴۲۶	طاغیوں سے فرار ہونے کی کراہت	۴۱۵	مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا
۴۲۶	اللہ سے ملاقات کی محبت کرنے والے کا بیان	۴۱۵	مسئلہ اور مذہب ائمہ
۴۲۷	خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ	۴۱۵	مرد و عورت کی نماز جنازہ میں امام کہاں کھڑا ہو؟
۴۲۷	مقروض کی نماز جنازہ	۴۱۶	مسئلہ اور مذہب احناف اور حدیث باب

صفحہ	ابواب و مضامین	صفحہ	ابواب و مضامین
۴۳۹	مسک احتاف اور ان کے دلائل	۴۲۸	عذاب قبر کا بیان
۴۴۰	بغیر گواہوں کے نکاح کا بیان	۴۲۹	مصیبت زدہ کو تسلی دینے کا اجر و ثواب
۴۴۰	اقوال علماء اور اس کی تفصیل	۴۲۹	جمعہ کے دن فوت ہونے والے کا بیان
۴۴۰	خطبہ نکاح کا بیان	۴۳۰	جنازہ میں جلدی کرنا
۴۴۱	کنواری اور بیوہ سے اجازت لینا	۴۳۰	تعزیت کی فضیلت
۴۴۲	یتیم لڑکی پر نکاح کے لئے زبردستی کرنا	۴۳۰	نماز جنازہ میں رفع الیدین کرنا
۴۴۳	اگر دو ولی دو مختلف جگہوں پر نکاح کر دیں تو	۴۳۱	مومن کا دل قرض سے متعلق ہونے کا بیان
۴۴۳	غلام کا آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا	۴۳۱	ابواب النکاح
۴۴۳	عورتوں کے مہر سے متعلق روایات	۴۳۱	نکاح کا انبیاء کی سنت ہونا
۴۴۵	لوٹنی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کرنا	۴۳۱	نکاح کا شرمگاہ کا محافظ ہونے کا بیان
۴۴۵	مندرجہ بالا عنوان کی فضیلت	۴۳۲	ترک نکاح کی ممانعت
۴۴۶	جو کسی عورت سے نکاح کرے اور صحبت کئے بغیر طلاق دے دے تو وہ اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں؟	۴۳۲	دینی اعتبار سے بہترین آدمی کے ساتھ نکاح کرنا
۴۴۶	خلالہ سے متعلق روایت	۴۳۳	تین خصلتیں دیکھ کر نکاح کرنے والے کا بیان
۴۴۷	خلالہ کرنے اور کرانے والے کا بیان	۴۳۳	منسوبہ (منگیتیر) کو دیکھنا
۴۴۷	مسئلہ اور مذہب احناف	۴۳۴	نکاح کا اعلان کرنا
۴۴۷	نکاح متعہ کا بیان	۴۳۴	دولہا کو کیا دعا دی جائے
۴۴۸	نکاح شغار کی ممانعت	۴۳۵	صحبت کا ارادہ کرنے تو کیا پڑھے؟
۴۴۸	شغار کے معنی اور تشریح	۴۳۵	جن اوقات میں نکاح مستحب ہے
۴۴۹	خالہ، بھانجی اور پھوپھی، بیٹی کو ایک نکاح میں نہیں رکھا جاسکتا	۴۳۵	ولیمہ کا بیان
۴۴۹	انعتاد نکاح کے وقت شرط لگانا	۴۳۶	توضیح و تشریح حدیث الباب
۴۵۰	جو شخص دس نکاح کئے ہوئے ہو اور مسلمان ہو جائے	۴۳۶	داعی کی دعوت قبول کرنے کا بیان
۴۵۰	جس کے نکاح میں دو بہنیں ہوں اور وہ مسلمان ہو جائے	۴۳۶	بغیر دعوت کے ولیمہ میں جانا
۴۵۰	اس شخص کا بیان جو حاملہ باندی خریدے	۴۳۷	کنواری لڑکی سے شادی کرنا
۴۵۱	اگر کسی باندی کا شوہر ہو تو اس سے صحبت کا حکم	۴۳۷	بغیر اذن ولی کے نکاح کرنا
۴۵۱	زنا کی اجرت کا حرام ہونا	۴۳۸	روایت باب کی سند سے متعلق بحث
۴۵۱	کسی کے پیغام پر پیغام نکاح بھیجنا	۴۳۹	مسئلہ اور مذہب ائمہ

صفحہ	ابواب ومضامین	صفحہ	ابواب ومضامین
۴۶۵	باب بلا عنوان	۴۵۳	عزل کا بیان
۴۶۶	ابواب الطلاق	۴۵۳	کراہیت عزل کا بیان
۴۶۶	طلاق سنت کا بیان	۴۵۳	بیوہ اور کنواری کے لئے راتوں کی تقسیم کا معاملہ
۴۶۶	توضیح حدیث، اقسام طلاق کا بیان	۴۵۴	سوکوں کے درمیان انصاف کرنا
۴۶۶	تشبیہ طلاق دینے کی تین قسمیں	۴۵۵	نکاح کے بعد مہر مقرر کرنے سے قبل مرنے والا شخص
۴۶۷	طلاق احسن	۴۵۵	مسئلہ اور مذاہب ائمہ
۴۶۷	طلاق حسن	۴۵۶	ابواب الرضاع
۴۶۷	طلاق بدی	۴۵۶	جورثتے نسب سے حرام ہیں وہی رضاعت سے بھی حرام ہیں
۴۶۷	ملاحظہ	۴۵۷	دودھ مرد کی طرف منسوب ہونے کا بیان
۴۶۷	غیر مدخولہ کے لئے صریح اور کنایہ الفاظ	۴۵۷	ایک دو گھونٹ پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی
۴۶۸	جو شخص اپنی بیوی کو لفظ "البتہ" سے طلاق دے	۴۵۷	تشریح حدیث الباب
۴۶۹	عورت سے کہنا کہ تمہارا معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے	۴۵۸	رضاعت میں ایک عورت کی گواہی
۴۷۰	بیوی کو اختیار طلاق دینا	۴۵۸	حرم رضاعت صرف دو سال کی عمر تک ثابت ہے
۴۷۰	مطلقہ بٹلا تطلقات کے لئے سکھانی اور نفقہ	۴۵۹	دودھ پلانے والی کے حق کی ادائیگی
۴۷۰	مذاہب ائمہ	۴۵۹	شادی شدہ باندی کو آزاد کرنا
۴۷۰	نکاح سے قبل طلاق دینا	۴۶۰	اولاد ہم بستر ہی کی ہوتی ہے
۴۷۲	باندی کے لئے دو ہی طلاقیں ہیں	۴۶۰	جو شخص کسی عورت کو دیکھے اور اچھی لگے تو کیا کرے؟
۴۷۲	دل میں اپنی بیوی کو طلاق دینا	۴۶۰	بیوی پر خاوند کا حق
۴۷۲	بہنی مذاق میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے	۴۶۱	خاوند پر بیوی کا حق
۴۷۲	خلع کے متعلق	۴۶۲	عورتوں کے ساتھ بد فعلی حرام ہے
۴۷۳	خلع لینے والی عورتوں کا بیان	۴۶۳	عورتوں کا بناؤ سنگھار کر کے باہر نکلنا
۴۷۴	عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا	۴۶۳	غیرت کا بیان
۴۷۴	جس شخص کے والد بیوی کو طلاق دینے کا حکم دیں	۴۶۴	عورت کا اکیلے سفر کرنا
۴۷۴	عورت اپنی سوکن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے	۴۶۴	غیر محرم عورتوں سے خلوت کی ممانعت
۴۷۴	مجنون اور پاگل کی طلاق کا بیان	۴۶۵	باب بلا عنوان
۴۷۵	باب بلا عنوان	۴۶۵	باب بلا عنوان

صفحہ	ابواب ومضامین	صفحہ	ابواب ومضامین
۴۸۸	شہری آدمی، دیہاتی کی اشیاء فروخت نہ کرے	۴۷۵	وہ عورت جو خاوند کی وفات کے بعد وضع حمل کرے
۴۸۸	توضیح حدیث ووجہ ممانعت	۴۷۵	بیوہ کی عدت کا مسئلہ
۴۸۹	مخالف اور مزاجہ کی ممانعت	۴۷۸	ظہار کرنے والے نے قبل ادا ہوگی کفارہ کے جماع کر لیا
۴۸۹	پھلوں کی پکائی سے قبل فروخت جائز نہیں	۴۷۸	توضیح، ظہار کے معنی اور تشریح
۴۹۰	اونٹنی کے حمل کے بچہ کی فروخت کی ممانعت	۴۷۸	کفارہ ظہار کا بیان
۴۹۰	دھوکے کی بیع کی کراہیت	۴۷۹	ایلاء کا بیان
۴۹۱	ایک بیع میں دو بیع کرنے کی کراہت	۴۷۹	توضیح، ایلاء کے لغوی اور اصطلاحی معنی
۴۹۱	جوشے پاس نہ ہو اس کی فروخت ممنوع ہے	۴۷۹	ایلاء کی اقسام کا بیان
۴۹۲	ولاء کے فروخت کرنے یا ہبہ کی ممانعت	۴۸۰	لعان کا بیان
۴۹۳	جانور کی عوض جانور کا بطور قرض بیچنا	۴۸۱	توضیح، لعان کے معنی، تشریح اور شرائط
۴۹۳	ایک غلام کو دو غلاموں کے بدلہ خریدنا	۴۸۱	بیوہ عدت کہاں گزارے؟
۴۹۳	گیہوں کے بدلہ گیہوں برابر بیچنا اور کمی بیشی کا عدم جواز	۴۸۲	مسئلہ مذہب امام ابوحنیفہؒ
۴۹۴	توضیح حدیث، تعریف ربوا، اس کی اقسام	۴۸۲	ابواب البیوع
۴۹۴	رباء فضل اور رباہ سبیہ	۴۸۲	شبہات کو ترک کرنے کا بیان
۴۹۴	قدر اور جنس کا بیان	۴۸۲	اکل ربوا کا بیان
۴۹۴	قیمت کی ادائیگی میں سکہ کی تبدیلی	۴۸۳	جھوٹ اور جھوٹی گواہی پر وعید
۴۹۵	مالدار غلاموں اور کچھوڑ کی پیوند کاری کے بعد فروخت	۴۸۳	تاجروں اور ان کے اسم کے بارے میں روایت
۴۹۵	بیع میں افتراق فریقین کے اختیار کا بیان	۴۸۴	جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے پر وعید
۴۹۶	باب بلا عنوان	۴۸۵	تجارت کے لئے صحیح جلدی نکلنا
۴۹۷	مسئلہ اختیار مجلس اور مذہب ائمہؒ	۴۸۵	معینہ مدت تک ادھار کرنے کے جواز کا بیان
۴۹۷	جو شخص بیع میں دھوکہ کھا جائے	۴۸۶	شروط بیع کی کتابت کا بیان
۴۹۷	مسئلہ اور مذہب احنافؒ	۴۸۷	ناپ اور قول کا بیان
۴۹۸	بیع المصراۃ کا بیان	۴۸۷	نیلام کے ذریعہ خرید و فروخت کا بیان
۵۰۰	بیع کے وقت جانور پر سواری کی شرط لگانا	۴۸۷	مدبر کی بیع کا بیان
۵۰۰	گروی رکھی ہوئی چیز سے فائدہ حاصل کرنا	۴۸۸	تاجروں کے استقبال کی ممانعت
۵۰۱	جس ہار میں ہیرے اور سونا ہو اس کا خریدنا	۴۸۸	توضیح حدیث ووجہ ممانعت
۵۰۱	مسئلہ مذہب احنافؒ		

صفحہ	ابواب ومضامین	صفحہ	ابواب ومضامین
۵۱۵	بیع عرایا اور اس کی اجازت	۵۰۱	غلام یا باندی آزاد کرتے وقت ولاء کی شرط کا بیان
۵۱۷	بخش کی کراہیت اور اس کی تشریح	۵۰۱	باب بلا عنوان
۵۱۷	ناپ تول کے وقت جھکاؤ رکھنا	۵۰۲	سکاتب اور بدل کتابت ادا کرے تو اس کا بیان
۵۱۷	تنگ دست کے لئے قرضہ کی ادائیگی میں مہلت اور نرم روی	۵۰۲	دیوالیہ، مقروض کا مفلس ہو جانا اور اس کی ادائیگی
۵۱۸	تشریح حدیث اور مذہب احناف	۵۰۲	مسلمان کے لئے ذمی کے ذریعہ شراب بیچنے کی ممانعت
۵۱۸	بیع ”منابذہ“ اور ”ملاستہ“ کا بیان	۵۰۳	عاریت پر لی ہوئی چیز کی واپسی ضروری ہے
۵۱۹	غلہ وغیرہ کی قیمت کی پیشگی ادائیگی	۵۰۵	غلہ کی ذخیرہ اندوزی کرنا
۵۱۹	مشترک زمین میں سے حصہ دار حصہ کا بیچنا	۵۰۵	تخلفات کی بیع کا بیان
۵۲۰	بیع ”خابره“ اور ”معاومہ“ کا بیان	۵۰۶	جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا مال غصب کرنا
۵۲۰	بیوع میں ملاوٹ کرنا حرام ہے	۵۰۷	بائع اور مشتری میں اختلاف کا بیان
۵۲۱	اونٹ یا کسی دوسرے جانور کو قرض لینا	۵۰۷	ضرورت سے زائد پانی کی فروخت
۵۲۲	مسجد میں خرید و فروخت کی ممانعت	۵۰۸	زکوٰۃ پر چھوڑنے کی اجرت کی ممانعت
۵۲۲	اقوال اہل علم	۵۰۸	کتے کی قیمت لینے کا بیان
۵۲۳	ابواب الاحکام	۵۰۸	حجام کی اجرت کے جواز کا بیان
۵۲۳	قاضی کے متعلق آنحضرت ﷺ کی احادیث	۵۰۹	کتے اور بلی کی قیمت حرام ہے
۵۲۳	اجتہاد قاضی کا بیان جو خطا اور صواب دونوں ہوتا ہے	۵۰۹	مغنیات (گانے والیوں) کی بیع حرام ہے
۵۲۳	قاضی کس طرح فیصلہ کرے	۵۱۰	مال اور اولاد یا بھائیوں کو الگ لگ بیچنا ممنوع ہے
۵۲۵	عادل امام کے متعلق	۵۱۱	غلام خریدنے کے بعد عیب نظر آئے اور اس سے فائدہ
۵۲۵	رعایا کے حاکم کے بارے میں	۵۱۱	حاصل کر چکا ہو تو کیا حکم ہے؟
۵۲۶	غصہ کی حالت میں قاضی فیصلہ نہ کرے	۵۱۱	راد گیر کیلئے راستہ کے گرے ہوئے پھل کھانے کی اجازت
۵۲۶	امراء کو تحفے تحائف دینا	۵۱۲	بیع میں استثناء کرنے کی ممانعت
۵۲۷	مقدمات میں رشوت لینے اور دینے کا بیان	۵۱۲	غلے کو ملکیت میں لینے سے قبل فروخت کی ممانعت
۵۲۷	دعوت اور ہدیہ قبول کرنا	۵۱۳	کسی مسلمان کی بیع پر بیع کرنے کی ممانعت
۵۲۷	حاکم کا فیصلہ کسی غیر مستحق کے لئے ہو تو غیر مستحق کا لینا	۵۱۳	شراب کی خرید و فروخت کی ممانعت
۵۲۷	مدعی کے لئے گواہ اور مدعا علیہ کے لئے قسم	۵۱۳	مالکوں کی اجازت کے بغیر جانوروں کا دودھ نکالنا
۵۲۸	اگر گواہ ہو تو مدعی قسم کھائے گا	۵۱۳	مردار جانوروں کی کھال اور بتوں کی فروخت
		۵۱۵	ہبہ کے بعد اس کو واپس لینا

صفحہ	ابواب ومضامین	صفحہ	ابواب ومضامین
۵۴۱	اس سلسلہ کی دوسری احادیث اور لفظ کا حکم	۵۲۸	نبی کریم ﷺ نے ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ فرمایا
۵۴۲	وقف سے متعلق احادیث	۵۲۹	توضیح حدیث اور مذاہب ائمہ
۵۴۲	حیوان اگر کسی کو زخمی کر دے تو اس کا قصاص نہیں		ایک غلام دو آدمیوں کے درمیان مشترک ہو اور ایک
۵۴۳	خمر زمین کو آباد کرنے کا بیان	۵۲۹	شریک اپنا حصہ آزاد کر دے
۵۴۳	موات کی توضیح و تشریح	۵۳۱	عمری کا بیان
۵۴۳	جاگیر دینے کا بیان	۵۳۱	عمری کی تشریح اور اس کی صورتیں
۵۴۴	درخت لگانے کی فضیلت کا بیان	۵۳۱	رقعی کا بیان اور اس کی تشریح
۵۴۴	مزارعت کا بیان	۵۳۲	لوگوں کے درمیان صلح سے متعلق احادیث
۵۴۵	مزارعت کی تشریح اور اقوال علماء	۵۳۲	ہمسائے کی دیوار پر لکڑی رکھنا
۵۴۶	ابواب الادیات	۵۳۳	قسم دلانے والے کی تصدیق پر ہی قسم صحیح ہوتی ہے
۵۴۶	دیت میں اونٹوں کی مقدار کا بیان	۵۳۳	طریق میں اختلاف کی صورت میں کتنی چوڑائی رکھی جائے؟
۵۴۶	توضیح مسئلہ، دیت کی اقسام، اونٹ کی اقسام	۵۳۳	والدین کی جدائی کی صورت میں بچہ کو اختیار ہے
۵۴۷	دیت میں دراہم کی مقدار کا بیان	۵۳۳	باپ بیٹے کے مال میں سے لے سکتا ہے
۵۴۷	ایسے زخم جن میں ہڈی ظاہر ہو جائے ان کی دیت	۵۳۴	کسی سے کوئی چیز ٹوٹ جائے تو واپسی کا بیان
۵۴۸	انگلیوں کی دیت	۵۳۵	مرد و عورت کی بلوغت کا بیان
۵۴۸	معاف کر دینے کا بیان	۵۳۵	والد کی بیوی سے نکاح کرنا
۵۴۹	جس کا سر پتھر سے پھل دیا گیا ہو	۵۳۵	کھیتوں کو پانی دینے کا بیان
۵۴۹	تفصیل مسئلہ مسلک احتلاف	۵۳۶	توضیح حدیث
۵۴۹	اقسام قتل کا بیان	۵۳۶	جس شخص کے پاس غلام اور لونڈیوں کے علاوہ مال نہ ہو
۵۵۰	مؤمن کے قتل پر عذاب کی شدت کا بیان		اور وہ موت کے وقت انہیں آزاد کر دے
۵۵۰	قیامت کے دن خون کے فیصلہ کا بیان	۵۳۷	رشتہ دار کا مالک ہو جانے سے وہ آزاد ہو جاتا ہے
۵۵۱	باپ اگر بیٹے کو قتل کر دے تو قصاص لیا جائے گا یا نہیں؟	۵۳۷	کسی کی زمین میں بغیر اجازت زراعت کرنا
۵۵۲	مسلمانوں کا خون صرف تین چیزوں سے حلال ہوتا ہے	۵۳۷	ہبہ اور اولاد کے درمیان مساوات رکھنا
۵۵۲	معاهد قتل کرنے کی ممانعت	۵۳۸	شفعہ کا بیان
۵۵۲	ولی مقتول کو قصاص اور معاف کرنے میں اختیار ہے	۵۳۸	شفعہ کا حکم
۵۵۲	مشکہ کی ممانعت	۵۳۹	جب حدود اور راستے متعین ہو جائیں تو شفہہ نہیں
		۵۳۹	لفظ اور گمشدہ اونٹ اور بکری کا بیان

صفحہ	ابواب ومضامین	صفحہ	ابواب ومضامین
۵۶۸	نشہ کرنے پر حد جاری کرنا	۵۵۴	حاصل ضائع کرنے کی دیت
۵۶۸	شرابی کو کوڑے مارنے اور چار مرتبہ پینے پر قتل کا بیان	۵۵۵	مسلمان کو کافر کے بدلہ میں قتل نہ کیا جائے
۵۶۹	کتنی قیمت کی چیز چوری کرنے پر ہاتھ کاٹا جائے گا	۵۵۶	مسئلہ اور توضیح حدیث الباب
۵۶۹	چور کا ہاتھ کاٹ کر گلے میں ڈالنے کا بیان	۵۵۶	کوئی شخص اپنے غلام کو قتل کر دے
۵۷۰	خائن، اچکے اور ڈاکہ کا بیان	۵۵۶	بیوی کو شوہر کی دیت میں سے ترکہ ملے گا
۵۷۰	پھلوں اور کھجور کے خوشوں کی وجہ سے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا	۵۵۷	قصاص کا بیان
۵۷۰	جہاد کے دوران چور کا ہاتھ نہ کاٹا جائے	۵۵۷	مذموم کو قید کرنے کا بیان
۵۷۰	بیوی کی باندی سے زنا کا حکم	۵۵۷	مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جانے والا شخص شہید ہے
۵۷۱	اگر کسی عورت سے زنا بالجبر کیا جائے	۵۵۸	قسامت کا بیان
۴۷۲	جانور سے بدکاری کرنے والے کا بیان	۵۵۸	تفصیل قسامت
۵۷۲	لواطت کرنے والے کی سزا	۵۵۹	ابواب الحدود
۵۷۳	مرتد کی سزا کا بیان	۵۵۹	جن لوگوں پر حد واجب نہیں ہوتی ان کا بیان
۵۷۳	جو شخص مسلمانوں پر ہتھیار نکالے اس کی سزا	۵۶۰	حد و کفر منع کرنے کا بیان
۵۷۴	جادوگر کی سزا	۵۶۰	مسلمان کے عیوب کی پردہ پوشی
۵۷۴	غنیمت کا مال چرانے والے کی سزا کا بیان	۵۶۱	تلقین فی الحدود کا بیان
۵۷۴	مخنت کہہ کر پکارنے والے کی سزا	۵۶۱	معترف کے اقرار سے رجوع کرنے سے حد ساقط
۵۷۵	تعزیر کا بیان		ہو جاتی ہے
۵۷۵	تعزیر کی تشریح و توضیح	۵۶۲	توضیح و تشریح حدیث الباب
۵۷۵	ابواب الصید	۵۶۳	حدود میں سفارش کی ممانعت
۵۷۵	کتے کے شکار میں سے کیا کھانا جائز ہے اور کیا ناجائز	۵۶۳	رجم کی تحقیق
۵۷۶	مجوی کے کتے سے شکار کرنا	۵۶۴	رجم صرف شادی شدہ کے لئے ہے
۵۷۷	باز کے شکار کا بیان	۵۶۵	مندرجہ بالا مسئلہ سے متعلق
۵۷۷	شکار پر تیر چلانے کے بعد شکار غائب ہو جائے اور بعد میں ملے	۵۶۶	اہل کتاب کے رجم کا بیان
۵۷۷	تیر لگنے کے بعد شکار کو پانی میں پانے کا بیان	۵۶۶	زانی کی جلا وطنی کا بیان
۵۷۸	معراض سے شکار کا حکم	۵۶۷	حدود گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں
			باندیوں پر حد و قائم کرنا

صفحہ	ابواب ومضامین	صفحہ	ابواب ومضامین
۵۹۱	فرع اور عمیرہ کا بیان	۵۷۸	پتھر سے ذبح کرنے کا حکم
۵۹۱	عقیقہ کا بیان	۵۷۹	بندھے ہوئے جانور پر تیر چلا کر شکار کر کے کھانے کا حکم
۵۹۲	بچے کے کان میں اذان دینا	۵۸۰	جنین کو ذبح کرنے کا بیان
۵۹۲	عقیقہ کے بارے میں مختلف احادیث	۵۸۰	ذی ناب اور ذی خلب کی حرمت
۵۹۲	عشرہ ذی الحجہ میں ناخن وغیرہ کٹوانے کا بیان	۵۸۱	زندہ جانور کا عضو کاٹنے کا بیان
۵۹۵	ابواب النذور والایمان	۵۸۱	حلق اور لبہ سے ذبح کا بیان
۵۹۵	اللہ کی نافرمانی میں نذر ماننا صحیح نہیں	۵۸۱	چھپکلی کو مارنے کا حکم
۵۹۶	جو چیز ملکیت میں نہیں اس کی نذر ماننا صحیح نہیں	۵۸۲	سانپ کو مارنے کا حکم
۵۹۶	غیر معین نذر کا کفارہ	۵۸۲	کتوں کو مارنے کا بیان
۵۹۶	اگر کوئی شخص کسی کام کے کرنے پر قسم کھائے اور اس کام کے کرنے میں خرید کیجھے تو قسم توڑ دے	۵۸۳	کتا پالنے والے کی نیکیاں کم ہوتی ہیں
۵۹۶	کفارہ قسم توڑنے سے پہلے ادا کرے	۵۸۳	بانس وغیرہ سے ذبح کرنے کا حکم
۵۹۶	قسم میں انشاء اللہ کہنا	۵۸۳	ناخن اور دانت وغیرہ سے مذبح جانور کا حکم
۵۹۶	غیر اللہ کی قسم کھانا حرام ہے	۵۸۳	علماء احناف کا مذہب
۵۹۸	چلنے کی استطاعت نہ ہونے کی باوجود نہ چلنے کی قسم کھانا	۵۸۳	باب بلا عنوان
۵۹۹	نذر کی ممانعت	۵۸۵	ابواب الاضاحی
۵۹۹	نذر کو پورا کرنا	۵۸۵	قربانی کی فضیلت کے بیان میں
۶۰۰	آنحضرت ﷺ کی قسم کا بیان	۵۸۶	دو مینڈھوں کی قربانی
۶۰۰	غلام آزاد کرنے کا ثواب	۵۸۶	جس جانور کی قربانی مستحب ہے
۶۰۰	اپنے خادم کو طمانچہ مارنے کا حکم	۵۸۶	جس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے
۶۰۱	میت کی طرف سے نذر پورا کرنے کا بیان	۵۸۶	جن جانوروں کی قربانی مکروہ ہے
۶۰۲	آزاد کرنے کی فضیلت	۵۸۷	چھ ماہ کی بھیڑ کی قربانی
۶۰۲	ابواب السیر	۵۸۸	قربانی میں شراکت کا بیان
۶۰۲	جنگ سے قبل اسلام کی دعوت دینا	۵۸۹	ایک بکری ایک گھر کے لئے کافی ہے
۶۰۳	شب خون مارنے اور حملہ کرنے کا بیان	۵۹۰	نماز کے بعد قربانی کرنا
۶۰۳	کفار کے گھروں کو آگ لگانا اور برباد کرنا	۵۹۰	تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانا مکروہ ہے
		۵۹۰	تین دن سے زیادہ کھانے کی اجازت

صفحہ	ابواب و مضامین	صفحہ	ابواب و مضامین
۶۱۷	ہجرت کا بیان	۶۰۴	مال غنیمت کا بیان
۶۱۷	رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کرنا	۶۰۵	گھوڑے کے لئے مال غنیمت میں حصہ
۶۱۸	بیعت توڑنے کا بیان	۶۰۵	لشکروں کا بیان
۶۱۹	غلام کی بیعت	۶۰۵	مال فی کسے دیا جائے
۶۱۹	عورتوں کی بیعت	۶۰۶	کیا غلام کو بھی حصہ دیا جائے گا؟
۶۱۹	بدر میں لڑنے والوں کی تعداد کا بیان	۶۰۶	ذمی، مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شریک ہو تو کیا حکم ہے؟
۶۲۰	نخس کا بیان	۶۰۷	مشرکین کے برتن استعمال کرنا
۶۲۰	تقسیم سے قبل مال غنیمت میں سے کچھ لینا	۶۰۸	نفل کا بیان
۶۲۰	اہل کتاب کو سلام کرنا	۶۰۸	توضیح و تشریح حدیث
۶۲۱	مشرکین میں رہائش پذیر ہونے کی کراہت	۶۰۹	کافر کو قتل کرنے والے کیلئے مقتول کا سلب اور سامان ہونا
۶۲۱	یہود و نصاریٰ کو جزیرہ عرب سے نکال دینے کا بیان	۶۰۹	تقسیم سے قبل مال غنیمت کی فروخت کرنا
۶۲۲	آنحضرت ﷺ کے ترکہ کا بیان	۶۰۹	قیدی، حاملہ عورتوں سے پیدائش سے قبل صحبت کی ممانعت
۶۲۳	فتح مکہ کے وقت نبی کریم ﷺ کا فرمان	۶۱۰	مشرکین کے کھانے کا حکم
۶۲۳	قتال کا مستحب وقت	۶۱۰	قیدیوں کے درمیان تفریق کرنا
۶۲۴	طیرہ کا بیان	۶۱۰	قیدیوں کو قتل کرنا اور فدیہ لینا
۶۲۵	جنگ کے متعلق آنحضرت ﷺ کی وصیت	۶۱۱	عورتوں اور بچوں کے قتل کی ممانعت
۶۲۵	اس سلسلہ کی طویل حدیث	۶۱۲	غلوں کا بیان
۶۲۶	ابواب فضائل الجہاد۔ فضائل جہاد	۶۱۳	عورتوں کا جنگ میں شریک ہونا
۶۲۶	جہاد کی فضیلت	۶۱۳	مشرکین کے ہدایا قبول کرنا
۶۲۷	جہاد میں چوکیداری کرتے ہوئے موت آنے کی فضیلت	۶۱۴	سجدہ شکر کا بیان
۶۲۷	دوران جہاد روزہ کی فضیلت	۶۱۴	عورت اور غلام کا امان دینا
۶۲۸	جہاد میں مالی معاونت کی فضیلت	۶۱۵	ہو کہ وہی کا بیان
۶۲۸	مجاہدین کی خدمت کی فضیلت	۶۱۵	قیامت کے دن ہر عہد شکن کے لئے ایک جھنڈا ہوگا
۶۲۹	غازی کی تیاری اور تجہیز کی فضیلت	۶۱۶	کسی حکم کو پورا کرنا
۶۲۹	جہاد میں قدموں کے گرد آلود ہونے کی فضیلت	۶۱۶	حلف کا بیان
۶۲۹	جہاد کے غبار کی فضیلت	۶۱۷	مجوسیوں سے جزیہ لینا
			ذمیوں کے مال میں سے کیا حلال ہے؟

صفحہ	ابواب و مضامین	صفحہ	ابواب و مضامین
۶۳۰	جھنڈوں کا بیان (راۓ)	۶۳۰	جہاد کرتے ہوئے بوڑھے ہو جانے کی فضیلت
۶۳۵	شعار کا بیان	۶۳۰	جہاد کی نیت سے گھوڑا رکھنے کی فضیلت
۶۳۵	آنحضرت ﷺ کی تلوار کا بیان	۶۳۱	جہاد میں تیر اندازی کی فضیلت
۶۳۶	جنگ کے وقت افطار کرنا (روزہ رکھنا)	۶۳۱	جہاد میں پہرہ دینے کی فضیلت
۶۳۶	گھبراہٹ کے وقت نکلنا	۶۳۲	شہید کے ثواب کا بیان
۶۳۶	جنگ کے وقت ثابت قدم رہنا	۶۳۳	شہداء کی فضیلت اللہ کے نزدیک
۶۳۷	توضیح حدیث الباب	۶۳۳	سمندر میں جہاد کی فضیلت
۶۳۷	تلواریں اور ان کی زینت	۶۳۴	ریا کاری یا دنیا کے لئے جہاد کرنا
۶۳۷	زرہ کا بیان	۶۳۵	جہاد میں صبح و شام چلنے کی ہدایت
۶۳۸	خود کا بیان	۶۳۶	بہترین لوگ کون ہیں؟
۶۳۸	گھوڑوں کی فضیلت	۶۳۷	شہادت کی دعا کرنا
۶۳۸	خاص رنگ کے گھوڑوں کا بیان	۶۳۷	مجاہد، مکاتب اور نکاح کرنے والوں پر اللہ کی مدد
۶۳۹	ناپسندیدہ گھوڑوں کا بیان	۶۳۸	جہاد میں زخمی ہو جانے کی فضیلت
۶۳۹	گھڑ دوڑ کا بیان	۶۳۸	کونسا عمل افضل ہے؟
۶۵۰	گھوڑی پر گدھا چھوڑنے کی کراہت	۶۳۹	کونسا آدمی افضل ہے؟
۶۵۰	فقراء مسلمین سے دعائے خیر کرانا	۶۳۹	فضائل جہاد میں دوسری احادیث
۶۵۰	گھوڑوں کے گلوں میں گھنٹیاں لٹکانا	۶۴۱	ابواب الجہاد
۶۵۱	جنگ کا امیر مقرر کرنا	۶۴۱	اہل عذر کو جہاد میں عدم شرکت کی اجازت
۶۵۱	امام کا بیان	۶۴۲	والدین کو چھوڑ کر جہاد میں جانا
۶۵۲	امام کی اطاعت کا بیان	۶۴۲	ایک شخص کو بطور لشکر بھیجنا
۶۵۲	اللہ کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں	۶۴۲	اکیلے سفر کی کراہت
۶۵۲	جانوروں کو لڑانا اور چہرہ داغنا	۶۴۳	جنگ میں جھوٹ اور فریب کی اجازت
۶۵۳	بلوغ کی حد اور مال غنیمت میں حصہ دینا	۶۴۳	آنحضرت ﷺ کے غزوات کی تعداد
۶۵۳	شہید کے قرضہ کا بیان	۶۴۳	جنگ میں صف بندی اور ترتیب کا بیان
۶۵۳	شہداء کی تدفین کا بیان	۶۴۴	جنگ کے وقت دعا کرنا
۶۵۳	مشورہ کا بیان	۶۴۴	جھنڈوں کا بیان (لواء)
۶۵۴	کافر قیدی کی لاش فدیہ لے کر نہ دی جائے		

صفحہ	ابواب و مضامین	صفحہ	ابواب و مضامین
۲۶۲	سرمہ لگانے کا بیان	۲۵۵	جہاد سے فرار ہونا
۲۶۲	صماء اور ایک کپڑے میں احتباء کی ممانعت	۲۵۵	سفر سے واپس آنے والے کا استقبال کرنا
۲۶۲	مصنوعی بال جوڑنا	۲۵۶	مال فی کا بیان
۲۶۷	ریشمی زین پوشی کی ممانعت	۲۵۶	ابواب اللباس
۲۶۷	آنحضرت ﷺ کے بستر مبارک کی تفصیل	۲۵۶	عن رسول اللہ ﷺ
۲۶۸	نئے کپڑے پہننے کی دعا	۲۵۶	ریشم اور سونے کا بیان
۲۶۸	جب پہننے کا بیان	۲۵۷	جنگ میں ریشمی کپڑا پہننا
۲۶۹	دانت پر سونا چڑھانے کا حکم	۲۵۷	باب بلا عنوان
۲۶۹	درندوں کی کھال کے استعمال کی ممانعت	۲۵۷	سرخ کپڑے پہننے کی اجازت
۲۶۹	آنحضرت ﷺ کی چپل کا بیان	۲۵۸	کسم کے رنگے ہوئے کپڑے کی مرد کے لئے کراہت
۲۶۹	ایک چپل پہن کر چلنے کی کراہت	۲۵۸	پوشٹین پہننے کا بیان
۲۷۰	مسئلہ بالا کی اجازت	۲۵۸	دباغت کے بعد مردار جانور کی کھال کا حکم
۲۷۰	چپل کو نئے پاؤں میں پہنی جائے	۲۵۹	کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھنے کی ممانعت
۲۷۱	کپڑوں میں پیوند لگانا	۲۶۰	عورتوں کے دامن کی لمبائی
۲۷۲	لوہے کی انگٹھی کا بیان	۲۶۰	اون کے کپڑے پہننا
۲۷۳	باب بلا عنوان	۲۶۱	سیاہ عمامہ کا بیان
۲۷۳	ابواب الأطعمة	۲۶۱	سونے کی انگٹھی کی ممانعت
۲۷۳	آنحضرت ﷺ کس چیز پر کھانا کھاتے تھے	۲۶۲	چاندی کی انگٹھی کا بیان
۲۷۳	خرگوش کھانے کا بیان	۲۶۲	چاندی کا گنبد پہننا
۲۷۳	گوہ کے کھانے کا بیان	۲۶۲	دامیں ہاتھ میں انگٹھی پہننا
۲۷۳	بجوکھانے کا بیان	۲۶۳	انگٹھی پر کچھ نقش کرانا
۲۷۵	گھوڑوں کا گوشت کھانا	۲۶۳	تصویر کا بیان
۲۷۵	پالتو گدھوں کے گوشت کا حکم	۲۶۳	مصوروں کے متعلق نبی اکرم ﷺ کا فرمان
۲۷۶	کفار کے برتنوں میں کھانے کا بیان	۲۶۳	خضاب لگانے کا بیان
۲۷۶	جو ہاگھی میں گر کر مر جائے تو اس کا حکم	۲۶۵	لبے بال رکھنا
۲۷۷	بائیں ہاتھ سے کھانا پینا	۲۶۵	روزانہ کنگھی کرنے کی ممانعت

صفحہ	ابواب ومضامین	صفحہ	ابواب ومضامین
۶۸۸	اونٹوں کا پیشاب پینے کا بیان	۶۷۷	انگلیاں چاٹنا
۶۸۸	کھانا کھانے سے قبل اور بعد وضو کرنا	۶۷۷	گر جانے والے لقمہ کا بیان
۶۸۹	کھانے سے قبل وضو نہ کرنا	۶۷۸	کھانے کے درمیان سے کھانے کی کراہت
۶۸۹	کدو کھانے کا بیان	۶۷۹	لہسن اور پیاز کھانے کی اجازت
۶۸۹	تیل کا استعمال کرنا کھانے میں	۶۸۰	سوتے وقت برتنوں کو ڈھکنا اور چراغ وغیرہ بجھانا
۶۹۰	باندی یا غلام کے ساتھ کھانا کھانا	۶۸۰	دودھ کھجوریں ایک ساتھ کھانے کی کراہت
۶۹۰	کھانا کھلانے کی فضیلت	۶۸۰	کھجور کی فضیلت
۶۹۱	رات کے کھانے کی فضیلت	۶۸۱	کھانے کے بعد اللہ کی تعریف بیان کرنا
۶۹۱	کھانے کے وقت بسم اللہ کہنا	۶۸۱	کوڑھی کے ساتھ کھانا کھانا
۶۹۲	ہاتھوں میں چکنائی کی بو ہونے کی حالت میں سونا	۶۸۱	مؤمن ایک آنت میں کھانا کھاتا ہے
۶۹۲	ایک دوسری حدیث	۶۸۲	ایک شخص کا کھانا دو کے لئے کافی ہونے کا بیان
۶۹۳	ابواب الاشربة	۶۸۲	ٹڈی کھانے کا بیان
۶۹۳	شراب پینے والے کا بیان	۶۸۳	جلالہ کے گوشت اور دودھ کا حکم
۶۹۳	ہرنشہ آور چیز حرام ہے	۶۸۳	مرغی کھانے کا بیان
۶۹۳	جس شے کی بہت سی مقدار نشہ آور ہو اس کی قلیل بھی حرام ہے	۶۸۴	سرخاب کا گوشت کھانے کا حکم
۶۹۵	منکوں میں نبیذ بنانے کا بیان	۶۸۴	بھنا ہوا گوشت کھانا
۶۹۵	کدو کے توبنے، سبز گھڑے اور لکڑی کے برتن میں نبیذ بنانا	۶۸۴	تکیہ لگا کر کھانے کی کراہت
۶۹۶	توضیح حدیث الباب	۶۸۵	آنحضرت ﷺ کا میٹھی چیز اور شہد کو پسند کرنا
۶۹۶	مذکورہ برتنوں میں نبیذ بنانے کی اجازت	۶۸۵	شور باز یادہ کرنا
۶۹۶	توضیح حدیث الباب	۶۸۵	ثرید کی فضیلت کا بیان
۶۹۶	مشک میں نبیذ بنانا	۶۸۶	گوشت نوج کر کھانا
۶۹۷	جن اشیاء سے نبیذ بنتی تھی ان کا بیان	۶۸۶	چھری سے گوشت کاٹ کر کھانے کی اجازت
۶۹۷	گدراور تر کھجور کو ملا کر نبیذ بنانا	۶۸۶	توضیح مسئلہ
۶۹۸	سونے، چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے کی ممانعت	۶۸۶	آنحضرت ﷺ کا پسندیدہ گوشت
۶۹۸	کھڑے ہو کر پانی پینے کی ممانعت	۶۸۷	سرکہ کا بیان
۶۹۹	کھڑے ہو کر پینے کی اجازت	۶۸۸	تربوز کے ساتھ تر کھجور کھانا
		۶۸۸	گلڑی تر کھجور کے ساتھ کھانا

صفحہ	ابواب ومضامین	صفحہ	ابواب ومضامین
۷۱۲	مسلمانوں کی پردہ پوشی کرنا	۶۹۹	توضیح مسئلۃ الباب
۷۱۲	مسلمانوں سے عیب دور کرنا	۶۹۹	برتن میں پانی پیتے وقت سانس لینا
۷۱۳	ترک ملاقات کی ممانعت	۷۰۰	دوسانس میں پانی پینا
۷۱۳	بھائی کے ساتھ مروت کے ساتھ پیش آنا	۷۰۰	پینے کی چیز میں پھونک مارنا
۷۱۳	غیبت کے متعلق	۷۰۱	برتن میں سانس لینے کی کراہت
۷۱۳	حسد کے متعلق	۷۰۱	مشک کے منہ سے پانی پینا
۶۱۳	آپس میں بغض رکھنے کی برائی	۷۰۱	اس کی اجازت
۷۱۳	آپس میں صلح کا بیان	۷۰۱	دائیں ہاتھ والے پہلے پینے کے مستحق ہیں
۷۱۵	خیانت اور دھوکہ دہی کا بیان	۷۰۲	ساقی خود آخر میں پئے
۷۱۶	پڑوسی کے حقوق کا بیان	۷۰۲	آنحضرت ﷺ کا پسندیدہ مشروب
۷۱۶	خادم پر احسان کرنے کا بیان	۷۰۳	ابواب البر والصلۃ
۷۱۷	خادموں کو مارنے اور گالی دینے کی ممانعت	۷۰۳	والدین کے ساتھ حسن سلوک
۷۱۷	خادم کو ادب سکھانا	۷۰۳	والدین کے راضی کرنے کی فضیلت
۷۱۷	خادم کو معاف کرنے کا بیان	۷۰۴	والدین کی نافرمانی اور ناراضگی کا بیان
۷۱۸	اولاد کو ادب سکھانا	۷۰۴	والد کے دوست کا اکرام کرنا
۷۱۸	ہدیہ قبول کر کے بدلہ میں کچھ دینا	۷۰۵	خالہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا
۷۱۹	احسان کرنے والے کا شکریہ ادا کرنا	۷۰۵	حق الوالدین
۷۱۹	نیک کاموں کے کرنے کا بیان	۷۰۶	قطع رحمی کا بیان
۷۲۰	میتھو کا بیان	۷۰۶	صلہ رحمی کرنے کا بیان
۷۲۰	راستہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا	۷۰۷	بیٹے کی محبت کا بیان
۷۲۰	مجالس میں امانت کی اہمیت	۷۰۷	بچوں پر شفقت کرنے کا بیان
۷۲۰	سختاوت کے متعلق روایت	۷۰۷	لڑکیوں کی پرورش کی فضیلت
۷۲۱	نجس کا بیان	۷۰۹	یتیم پر رحم کرنا
۷۲۲	گھر والوں پر خرچ کرنا	۷۰۹	بچوں پر رحم کرنا
۷۲۲	مہمان کا اکرام کرنا	۷۱۱	نصیحت کے متعلق
۷۲۳	بیواؤں اور یتیموں کے لئے کوشش کرنا	۷۱۱	مسلمان کا مسلمان پر شفقت کرنا
۷۲۳	کشادہ پیشانی اور بٹاس چہرہ کے ساتھ ملاقات کرنا		

صفحہ	ابواب ومضامین	صفحہ	ابواب ومضامین
۷۳۷	بڑوں کی تعظیم کرنا	۷۲۲	سچ اور جھوٹ کا بیان
۷۳۷	آپس کی ملاقات ترک کرنے والوں کا بیان	۷۲۲	فحش گوئی کے بیان میں حدیث رسول ﷺ
۷۳۷	صبر کرنے کا بیان	۷۲۵	لعنت بھیجنے کا بیان
۷۳۸	ذی الوجہین (منہ پر پرداری کرنے) کا بیان	۷۲۵	نسب کی تعلیم و تعلم کا بیان
۷۳۸	چغل خوری کرنے کا گناہ	۷۲۶	کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لئے دعا کرنا
۷۳۸	تامل اور کم گوئی کا بیان	۷۲۶	گالی گلوچ کا بیان
۷۳۹	ان من البیان لسحراً۔ فرمان رسول اللہ ﷺ	۷۲۶	قول معروف کا بیان
۷۳۹	تواضع کا بیان	۷۲۷	نیک مملوک (غلام) کی فضیلت
۷۳۹	ظلم کا بیان	۷۲۷	معاشرت کا بیان
۷۳۹	نعمت میں عیب جوئی ترک کرنا	۷۲۸	بدگمانی کا بیان
۷۴۰	مؤمن کی تعظیم کرنا	۷۲۸	خوش مذاقی اور خوش طبعی کا بیان
۷۴۰	تجربہ کا بیان	۷۲۹	جھگڑے اور تکرار کا بیان
۷۴۰	جو شے اپنے پاس نہ ہو اس پر فخر کرنا	۷۳۰	حسن سلوک کا بیان
۷۴۱	احسان کے بدلہ تعریف کرنا	۷۳۰	محبت اور بغض میں میانہ روی اختیار کرنا
۷۴۱	ابواب الطب	۷۳۰	تکبر اور کبر کا بیان
۷۴۱	پرہیز کا بیان	۷۳۱	حسن اخلاق سے متعلق احادیث
۷۴۲	دوا اور اس کی فضیلت	۷۳۲	احسان اور غفودر گزر کا بیان
۷۴۲	مریض کو کیا کھلایا جائے؟	۷۳۳	مسلمان بھائیوں سے میل ملاقات کرنا
۷۴۳	مریض کو کھانے پینے پر مجبور نہ کیا جائے	۷۳۳	حیاء کا بیان
۷۴۳	کلونجی کا بیان۔ حیتہ السوداء	۷۳۴	آہستگی اور عجلت کا بیان
۷۴۳	اونٹوں کا پیشاب پینے کا بیان	۷۳۴	نرم دلی کا بیان
۷۴۳	زہر خورانی وغیرہ سے خودکشی کرنے کا بیان	۷۳۴	مظلوم کی دعا کا بیان
۷۴۴	نشہ آور چیز سے علاج کرنا	۷۳۵	آنحضرت ﷺ کے اخلاق کا بیان
۷۴۵	تاک میں دوا ڈالنا	۷۳۵	حسن عہد کا بیان
۷۴۵	داغنے کی کراہیت کا بیان	۷۳۶	اخلاق عالیہ کے بارے میں احادیث
۷۴۶	داغنے کے جواز کا بیان	۷۳۶	لعن و طعن کا بیان
		۷۳۶	غصہ کی زیادتی سے متعلق حدیث

صفحہ	ابواب و مضامین	صفحہ	ابواب و مضامین
۷۶۰	ذوی الأرحام	۷۴۶	توضیح حدیث الباب
۷۶۰	یعنی بھائی بہن	۷۴۶	حجامت (پچھنے) لگانے کا بیان
۷۶۰	علاقائی بھائی بہن	۷۴۷	مہندی سے دوا علاج کرنا
۷۶۰	اخینائی بھائی بہن	۷۴۸	جھاڑ پھونک اور دم کرنے کی کراہیت
۷۶۰	جد صحیح	۷۴۸	جھاڑ پھونک وغیرہ کرنے کی اجازت کا بیان
۷۶۰	جد فاسد	۷۴۹	توضیح مسئلہ الباب
۷۶۰	جدہ صحیحہ	۷۴۹	معوذتین پڑھ کر پھونکنا
۷۶۰	جدہ فاسدہ	۷۴۹	نظر لگ جانے پر دم کرنے کا حکم
۷۶۰	ترکہ	۷۵۰	نظر لگنا حق ہے
۷۶۰	عول	۷۵۰	مسئلہ الباب کی وضاحت
۷۶۰	رد	۷۵۰	تعویذ، دم وغیرہ کر کے اجرت لینا
۷۶۰	مناسخہ	۷۵۱	دم اور ادویات کا بیان
۷۶۰	اولاد	۷۵۲	عجہ اور کماۃ کا بیان
۷۶۰	جدول سمجھنے کا طریقہ	۷۵۳	کاہن کی اجرت کا بیان
۷۶۱	ذوی الأرحام کی اقسام اور ان کا حکم	۷۵۳	گلے میں تعویذ وغیرہ ڈالنے کا بیان
۷۶۱	باب: مال وراثت کے حقدار وارث ہیں	۷۵۴	مسئلہ الباب کی مزید تحقیق
۷۶۱	فرائض کی تعلیم کا بیان	۷۵۴	پانی سے بخار کم اور ہلکا کرنا
۷۶۱	لڑکیوں کی میراث کا بیان	۷۵۵	بچے کو دودھ پلانے کی حالت میں بیوی سے جماع کرنا
۷۶۲	بیٹیوں کے ساتھ پوتیوں کی میراث	۷۵۵	ذات الحجب کے علاج کا بیان
۷۶۲	سگے بھائیوں کی میراث	۷۵۶	سنا کے بیان میں
۷۶۳	بیٹیوں اور بیٹوں کی میراث	۷۵۶	شہد کا بیان
۷۶۳	بہنوں کی میراث	۷۵۷	رماد سے علاج کا بیان
۷۶۳	عصبات کی میراث	۷۵۸	ابواب الفرائض
۷۶۳	دادا کی میراث	۷۵۸	میراث کی اصطلاحات
۷۶۵	دادی، نانی کی میراث	۷۵۹	ذوی الفروض
۷۶۵	باپ کی موجودگی میں دادی کی میراث	۷۶۰	عصبات
۷۶۶	ماموں کی میراث		

صفحہ	ابواب ومضامین	صفحہ	ابواب ومضامین
۴۴۴	ابواب القدر	۴۶۶	جس کی اس حالت میں موت آئے کہ وارث کوئی نہ ہو
۴۴۴	توضیح مسئلہ تقدیر	۴۶۷	مسلمان اور کافر کے درمیان کوئی میراث نہیں
۴۴۸	تقدیر کے مسئلہ میں بحث سے ممانعت	۴۶۸	قاتل کو میراث سے محروم کرنا
۴۴۸	توضیح اشکال	۴۶۸	شوہر کی دیت میں سے بیوی کا حصہ دینا
۴۴۸	بدبختی اور نیک بختی کے متعلق	۴۶۸	میراث و رثاء کی اور دیت عصبہ پر واجب الادا ہے
۴۴۹	اعمال کی مقبولیت کا مدار خاتمہ پر ہے	۴۶۹	جو شخص کسی مسلمان کے ہاتھ پر مسلمان ہو
۴۸۰	ہر مولود فطرت پر پیدا ہوتا ہے	۴۶۹	جو شخص ولاء کا وارث نہیں ہوتا
۴۸۰	توضیح حدیث الباب	۴۶۹	حدیث ثانی متعلقہ مسئلہ بالا
۴۸۱	تقدیر کو صرف دعا ہی لوٹا سکتی ہے	۴۷۰	ابواب الوصایا
۴۸۱	توضیح مسئلہ الباب	۴۷۰	ثلث ۳/۱ مال کی وصیت
۴۸۱	لوگوں کے قلوب اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں	۴۷۱	وصیت کی ترغیب کا بیان
۴۸۱	اللہ نے جنتیوں اور دوزخیوں کے متعلق کتاب لکھی ہوئی ہے	۴۷۱	آنحضرت ﷺ نے وصیت نہیں کی
۴۸۳	عدوی، صفر اور ہامہ کی نفی	۴۷۲	وارث کے لئے کوئی وصیت نہیں
۴۸۳	تقدیر خیر و شر پر ایمان لانا	۴۷۳	قرض وصیت پر مقدم ہوگا
۴۸۴	ہر شخص کی موت اس کی مقررہ جگہ پر آتی ہے	۴۷۳	موت کے وقت صدقہ کرنا یا غلام آزاد کرنا
۴۸۴	رقیہ اور دو تقدیر کو رد نہیں کر سکتے	۴۷۳	باب بلا عنوان
۴۸۴	فرقہ قدریہ کا بیان	۴۷۴	ابواب الولاء والہبۃ
۴۸۵	رضاء بالقضاء کا بیان	۴۷۴	ولاء آزاد کرنے والے کا حق ہے
۴۸۵	باب بلا عنوان	۴۷۴	ولاء بیچنے یا ہبہ کرنے کی ممانعت
۴۸۷	ابواب الفتن	۴۷۵	باپ اور آزاد کرنے والے کے علاوہ کسی کو باپ یا معتق کہنا
۴۸۷	تین جرموں کے علاوہ خون مسلم حرام ہے	۴۷۵	جو شخص اپنے بیٹے کی نسبت کا انکار کر دے
۴۸۸	جان و مال کی حرمت	۴۷۶	قیافہ شناس کا بیان
۴۸۸	کسی مسلمان کو گھبراہٹ میں بتلا کرنے کی ممانعت	۴۷۶	آنحضرت ﷺ کا ہدیہ کی ترغیب دلانا
۴۸۹	مسلمان کی طرف ہتھیار سے اشارہ کرنے کی ممانعت	۴۷۶	ہدیہ دینے یا ہبہ کے بعد واپس لینا
۴۸۹	نگلی تلوار لینے دینے کی ممانعت	۴۷۷	حدیث ثانی متعلقہ مسئلہ بالا
۴۸۹	جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی پناہ میں ہے		

صفحہ	ابواب و مضامین	صفحہ	ابواب و مضامین
۸۰۳	اہل شام کی فضیلت	۷۹۰	جماعت کی پابندی کرنا
۸۰۳	حضور ﷺ کی حدیث باہمی قتل سے متعلق	۷۹۱	منکرات کو نہ روکنے پر اللہ کا عذاب نازل ہونا
۸۰۴	ایک فتنہ جو اندھیری راتوں کی طرح ہوگا	۷۹۱	توضیح حدیث الباب
۸۰۵	قتل کا بیان	۷۹۲	امر بالمعروف نہی عن المنکر
۸۰۶	لکڑی کی تلوار بنانے کا حکم	۷۹۲	برائی ختم کرنے کے درجے
۸۰۷	قیامت کی علامات	۷۹۳	باب متعلقہ مسئلہ بالا
۸۰۹	آنحضرت ﷺ کی بعثت قرب قیامت کی نشانی ہے	۷۹۳	ظالم سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے افضل جہاد ہے
۸۱۰	ترکوں سے جنگ کا بیان	۷۹۴	نبی کریم ﷺ کا امت کے لئے تین دعائیں مانگنا
۸۱۰	کسریٰ کی ہلاکت کے بعد کوئی کسریٰ نہ ہوگا	۷۹۵	جو شخص زمانہ فتنہ میں موجود ہو اس کے لئے کیا حکم ہے
۸۱۱	حجاز سے آگ نکلنے سے قبل قیامت قائم نہیں ہوگی	۷۹۵	امانت داری کا اٹھ جانا
۸۱۱	تیس کذاب ظاہر ہونے سے قبل قیامت کا نہ آنا	۷۹۶	امم سابقہ کی عادت کا اس امت میں ہونا
۸۱۱	بنو ثقیف کے کذاب اور میر کا بیان	۷۹۶	درندوں کے کلام کا بیان
۸۱۲	تیسری صدی کے متعلق حدیث	۷۹۷	چاند کے پھٹنے کا بیان
۸۱۲	خلفاء کا بیان	۷۹۷	زمین میں دھسنے کا بیان
۸۱۳	خلافت کا بیان	۷۹۸	توضیح - علامات قیامت کا بیان
۸۱۳	خلفاء قیامت تک قریش ہی میں سے ہوں گے	۷۹۸	دابۃ الارض کا خروج
۸۱۳	گمراہ حکمرانوں کا بیان	۷۹۸	یا جوج و ماجوج کا خروج
۸۱۵	مہدی کا بیان	۷۹۸	آگ کا خروج
۸۱۶	عیسیٰ بن مریم کے نزول کا بیان	۷۹۸	دھوکیں کا چھانا
۸۱۶	دجال کے بیان سے متعلق احادیث	۷۹۸	تیز ہوا کا چلنا
۸۱۷	دجال کا خروج کہاں سے ہوگا	۷۹۸	دھسنے کا عذاب
۸۱۸	دجال کے نکلنے کی نشانیاں	۷۹۹	سورج کا مغرب سے طلوع ہونا
۸۱۸	فتنہ دجال کا بیان	۷۹۹	خروج یا جوج و ماجوج
۸۲۱	صفات دجال کا بیان	۸۰۰	خوارج کا بیان
۸۲۲	دجال مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوگا	۸۰۰	ارشہ کا بیان
۸۲۲	حضرت عیسیٰ بن مریم دجال کو قتل کریں گے	۸۰۰	آپ ﷺ کا صحابہ کو قیامت تک کی خبریں دینا اور اس
۸۲۳	ابن صیاد کا بیان	۸۰۲	سلسلہ کی طویل حدیث

صفحہ	ابواب ومضامین	صفحہ	ابواب ومضامین
۸۳۸	توضیح مسئلہ الباب	۸۲۳	توضیح احادیث باب
۸۳۸	خواب بیان کرنے میں جھوٹ بولنے والا شخص	۸۲۶	باب بلا عنوان
۸۳۸	باب بلا عنوان	۸۲۷	ہوا کو برا بھلا کہنے کی ممانعت
۸۳۸	باب بلا عنوان	۸۲۸	فتن سے متعلق دوسری احادیث
۸۳۹	تراز و اور ڈول کا بیان	۸۳۰	توضیح حدیث حدیفہ
۸۴۰	توضیح حدیث الباب	۸۳۱	فتنوں کے بارے میں مختلف احادیث
۸۴۰	حدیث عبداللہ بن عمر	۸۳۳	ابواب الرؤیا
۸۴۰	توضیح حدیث بالا	۸۳۳	مؤمن کا خواب نبوت کا ۳۶ واں حصہ ہے
۸۴۱	تعبیر الرؤیا سے متعلق مختلف احادیث اور ان کی توضیح	۸۳۴	نبوت کے ختم اور بمشرات کے باقی رہنے کا بیان
۸۴۳	ابواب الشهادات	۸۳۵	توضیح حدیث الباب
۸۴۳	توضیح برائے ضابطہ شہادت	۸۳۶	آنحضرت ﷺ کا فرمان اپنی رویت سے متعلق
۸۴۳	گواہی اور شہادت کے بارے میں قرآن حکیم کی ہدایت	۸۳۶	خواب میں ناپسندیدہ چیز دیکھنے والے کے لئے حکم
۸۴۴	جھوٹی شہادت کا بیان	۸۳۶	توضیح حدیث الباب
۸۴۴	شہادت اور گواہی کے متعلق آنحضرت ﷺ کے مختلف ارشادات	۸۳۸	خواب کی تعبیر کا بیان

جامع ترمذی شریف

جلد اول

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب ۱۔ مَا جَاءَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهْوَرٍ

۱۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ اَنَا اَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَمَارِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ وَنَاهِنَادُ نَا وَكَيْعٌ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ سَمَاكٍ عَنْ مِصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِي عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهْوَرٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُوْلٍ وَقَالَ هُنَادٌ فِي حَدِيْثِهِ اِلَّا بِطَهْوَرٍ

ابو عیسیٰ ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث اس باب میں اصح اور احسن ہے۔ اس باب میں ابوالخلیج بن اسامہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ ابوالخلیج اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ ابو ہریرہ اور انس سے بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ ابوالخلیج اسامہ کا نام عامر ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا نام زید بن اسامہ بن عمیر الہمدی ہے۔

باب ۲۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الطَّهْوَرِ

۲۔ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْاَنْصَارِيُّ نَا مَعْنِ بْنِ عِيْسَى نَا مَالِكُ بْنُ اَنْسَ حٍ وَحَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَهِيْلِ بْنِ اَبِي صَالِحٍ عَنْ اَبِيهِ وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ اَوْ الْمُؤْمِنُ فَعَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتْ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ اِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ اَوْ مَعَ اِخْرِقَطْرِ الْمَاءِ اَوْ نَحْوِ هَذَا وَاِذَا عَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ اَوْ مَعَ اِخْرِقَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَفِيًّا مِنَ الذُّنُوْبِ۔

ابواب طہارت سے متعلق آنحضرت ﷺ

سے مروی احادیث

باب ۱۔ کوئی نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں ہوتی۔

۱۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: کوئی نماز بغیر طہارت کے اور کوئی صدقہ خیانت کے مال سے قبول نہیں ہوتا۔ نیز ہناد اپنی روایت میں بغیر طہور کی جگہ الا بطہور نقل کرتے ہیں۔

ابو عیسیٰ ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث اس باب میں اصح اور احسن ہے۔ اس باب میں ابوالخلیج بن اسامہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ ابوالخلیج اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ ابو ہریرہ اور انس سے بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ ابوالخلیج اسامہ کا نام عامر ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا نام زید بن اسامہ بن عمیر الہمدی ہے۔

باب ۲۔ وضو کی فضیلت

۲۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جب مسلمان یا فرمایا مومن بندہ وضو کرتے ہوئے اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے وہ تمام گناہ پانی یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ (یا اس طرح فرمایا) دھل جاتے ہیں جو اس کی آنکھوں سے سرزد ہوئے ہوتے ہیں اور جب دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو ان سے سرزد ہونے والی تمام خطائیں پانی یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتی ہیں یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر نکلتا ہے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسے مالک بھی سمیل سے، وہ اپنے والد سے اور وہ ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں۔ سمیل کے والد ابوصالح کا نام ذکوان اور کنیت ابوصالح اسمان (گھی بیچنے والا) ہے۔ ابو ہریرہ کے نام میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ عبد شمس اور بعض جن میں بخاری بھی شامل ہیں، کہتے ہیں کہ ان کا نام عبد اللہ بن عمرو ہے اور یہی صحیح ہے۔ اس باب میں عثمان، ثوبان، صناع، عمرو بن عبسہ، سلیمان اور عبد اللہ بن عمرو سے بھی احادیث منقول ہیں۔ صنابجی جو کہ حضرت صدیق سے روایت کرتے ہیں انہیں حضور ﷺ

سے سماع نہیں۔ کیوں کہ یہ شرف ملاقات کی غرض سے سفر ہی میں تھے کہ حضور ﷺ کی وفات ہو گئی۔ ان کا نام عبدالرحمن بن عسیلہ اور کنیت ابو عبداللہ ہے۔ دوسرے صنائحی صنّاح بن اعمر اجمسی ہیں یہ صحابی ہیں ان سے صرف ایک حدیث مروی ہے۔ کہ آپ فرماتے تھے کہ میں قیامت کے دن اور امتوں پر تمہاری کثرت کی وجہ سے فخر کرنے والا ہوں لہذا میرے بعد آپس میں نہ لڑنا۔

باب ۳۔ مَا جَاءَ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ

باب ۳۔ طہارت نماز کی کنجی ہے۔

۳۔ حدثنا هناد بن غيلان ومحمود بن غيلان قالوا نا وكيع عن سفيان وثنا محمد بن بشارنا عبدالرحمن نا سفيان عن عبدالله بن محمد بن عقيل بن محمد ابن الحنفية عن علي بن النسي صلي الله عليه وسلم قال مفتاح الصلوة الطهور وتحريرها التكبير وتخليتها التسليم۔

۳۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: طہارت نماز کی کنجی ہے اس کی تحریم تکبیر اور تخلیل سلام ہے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ اس باب کی اصح اور احسن حدیث ہے عبداللہ بن محمد بن عقیل صدوق (سچے) ہیں بعض محدثین نے ان کے حافظے پر اعتراض کیا ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ امام احمد، اسحاق اور حمیدی، عبداللہ بن محمد بن عقیل کو حجت تسلیم کرتے ہیں۔ بخاری کہتے ہیں ان کی حدیث صحت کے قریب ہے۔ اس باب میں جابر اور ابو سعید سے بھی حدیثیں منقول ہیں۔

باب ۴۔ مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ

باب ۴۔ قضائے حاجت کے لئے جاتے ہوئے پڑھنے کی دعا۔

۵۔ حدثنا قتيبة وهناد قالنا وكيع عن شعبة عن عبدالعزیز بن صهيب عن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك (اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں) شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک اور مرتبہ فرمایا: اعوذ باللہ من الخبث والخبثت او الخبث والخبائث (میں شر سے اور اہل شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں یا فرمایا ناپاک مذکر جنوں اور ناپاک مؤنث جنوں سے۔)

۵۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے فرماتے: ”اللهم اني اعوذ بك“ (اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں) شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک اور مرتبہ فرمایا: اعوذ باللہ من الخبث والخبثت او الخبث والخبائث (میں شر سے اور اہل شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں یا فرمایا ناپاک مذکر جنوں اور ناپاک مؤنث جنوں سے۔)

اس باب میں علیؓ، زید بن ارقمؓ، جابر اور ابن مسعودؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث انسؓ اس باب میں اصح اور احسن ہے جب کہ زید بن ارقمؓ کی روایت میں اضطراب ہے۔ ہشام دستوائی اور سعید بن ابی عروہ، قتادہ سے روایت کرتے ہیں۔ پھر سعید، قاسم بن عوف شیبانی سے اور وہ زید بن ارقمؓ سے روایت کرتے ہیں۔ ہشام، قتادہ سے اور وہ بھی زید بن ارقمؓ سے روایت کرتے ہیں۔ شعبہ اور معمر نے اسے قتادہ سے اور انہوں نے نصر بن انسؓ سے نقل کیا ہے۔ شعبہ کہتے ہیں میں نے امام بخاری سے اس کے متعلق سوال کیا تو کہنے لگے کہ احتمال ہے کہ قتادہ نے دونوں سے نقل کیا ہو۔

۵۔ حدثنا احمد بن عبدة الضبي نا حماد بن زيد عن عبدالعزیز بن صهيب عن أنس بن مالك أَلَّ

۵۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ بیت الخلاء جاتے تو فرماتے: اللهم اني اعوذ بك من الخبث

وَالْحَبَائِثِ۔ (اے اللہ میں ناپاکی اور بُرے کاموں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔

امام ترمذی اس حدیث کو حسن صحیح کہتے ہیں۔

باب ۵۔ بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد کی دُعا

۶۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب بیت

الخلاء سے نکلتے تو فرماتے ”غفرانک“ (اے اللہ میں تیری بخشش کا

طلبگار ہوں۔

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخَبْثِ وَالْحَبَائِثِ۔

باب ۵۔ مَا يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ۔

۶۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمِيدٍ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَالِكِ بْنِ

إِسْمَاعِيلَ عَنِ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ بْنِ أَبِي بَرْدَةَ عَنِ أَبِيهِ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا

خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ غُفْرَانُكَ۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے اس لیے کہ ہم اسے اسرائیل کی روایت کے علاوہ کسی روایت سے نہیں جانتے اور

اسرائیل، یوسف بن ابوربدہ سے روایت کرتے ہیں۔ ابوربدہ بن ابوموسیٰ کا نام عامر بن عبداللہ بن قیس الأشعری ہے۔ اس باب میں حضرت عائشہ کی حدیث کے سوا کسی اور حدیث کا مجھے علم نہیں۔

باب ۶۔ قضاے حاجت کے وقت قبلہ رخ ہونے کی ممانعت

۷۔ حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا: جب تم قضاے حاجت کے لئے جاؤ تو قبلہ کی طرف رخ نہ

کرو اور نہ پشت بلکہ مغرب یا مشرق کی طرف رخ کیا کرو۔ ابویوب

رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ جب ہم شام گئے تو دیکھا کہ بیت الخلاء قبلہ رخ

بنے ہوئے تھے لہذا ہم رخ پھیر لیتے اور استغفار کرتے۔

باب ۶۔ فِي النَّهْيِ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ

۷۔ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُخْزُومِيُّ نَاسِيفَانَ

ابن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي

أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم إذا أتيتُم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا

ببول ولا تستدبروها ولكن شرفوا أو عرّبوا قال أبو

أيوب فقد منّا الشام فوجدنا مراً حيض قد بُيئت

مُستقبل القبلة فنحرف عنها ونستغفر الله۔

اس باب میں عبداللہ بن حارث اور معقل بن ابی یسلم (جنہیں معقل بن ابی معقل بھی کہتے ہیں) ابویوب، ابوامامہ اور سہل بن حنفی

سے بھی احادیث نقل کی گئی ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث ابویوب اس باب میں احسن واضح ہے۔ ابویوب کا نام خالد بن زید اور

زہری کا نام محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن شہاب الزہری ہے ان کی کتیب ابوبکر ہے۔ ابولید کی کہنا ہے کہ شافعی نے حضور ﷺ کے اسی قول

کے متعلق فرمایا کہ یہ حکم جنگل کا ہے جب کہ اسی مقصد کیلئے بنے ہوئے بیت الخلاء میں قبلہ رخ ہونے کی اجازت ہے، اسحاق کا بھی یہی قول

ہے۔ احمد بن حنبل کے نزدیک قبلہ کی طرف پشت کرنا جائز اور رخ کرنا منع ہے خواہ بیت الخلاء، نلھو حراء۔

توضیح: یہ حکم مدینہ منورہ کا ہے اس لئے کہ وہاں سے قبلہ جنوب کی طرف ہے۔ (مترجم)

باب ۷۔ قبلہ رو ہونے اور پشت کرنے کا جواز

باب ۷۔ مَا جَاءَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

۸۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے

قضاے حاجت کے وقت قبلہ رخ ہونے سے منع فرمایا۔ پھر میں نے

۸۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا

وَهَبُ بْنُ جَرِيرٍ نَا ابِي عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ اسْحَقَ عَنِ ابَانَ

باب ۱۲۔ الْأَسْتِنْجَاءُ بِالْحِجَارَةِ۔

باب ۱۲۔ پتھروں سے استنجاء کرنا چھونے سے منع فرمایا۔

۱۳۔ حَدَّثَنَا هِنَادٌ نا ابومعاوية عن الاعمش من

۱۳۔ عبدالرحمن بن یزید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سلمان رضی اللہ عنہ فارسی

إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قِيلَ لِسَلْمَانَ

سے کہا گیا تمہارے نبی ﷺ نے تو تمہیں ہر چیز سکھائی یہاں تک کہ

قَدْ عَلَّمَكُمْ نَيْبَكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْحِرَاءَةَ قَالَ

قضائے حاجت کا طریقہ بھی بتایا۔ سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں آپ

سَلْمَانَ أَجَلَ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ يَبُولٍ

نے ہمیں قضائے حاجت کے وقت قبلہ رو ہونے سے منع کیا،

أَوْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ أَحَدَنَا بِأَقْلٍ مِنْ

دائیں ہاتھ سے استنجاء کرنے، تین ڈھیلوں سے کم کے ساتھ استنجاء

ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ يَعْظَمِ۔

کرنے اور گوبر یا لید اور ہڈی سے استنجاء کرنے سے بھی منع فرمایا۔

اس باب میں عائشہؓ، خزیمہ بن ثابت، جابر اور خلد بن سائب سے بھی احادیث منقول ہیں۔ خلد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ابویسیٰ کہتے ہیں: سلمان کی حدیث حسن صحیح ہے۔ یہی قول صحابہ اور اکثر اہل علم کا ہے ان کی رائے میں اگر پیشاب یا پاخانہ کا اثر پانی کے بغیر ختم ہو جائے تو پتھروں سے ہی استنجاء کافی ہے۔ ثوری، ابن مبارک شافعی، احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں۔

باب ۱۳۔ الْأَسْتِنْجَاءُ بِالْحَجَرَيْنِ

باب ۱۳۔ دو پتھروں سے استنجاء کرنا۔

۱۴۔ حَدَّثَنَا هِنَادٌ وَقَتِيْبَةُ قَالَا نا و كيع عن اسرائيل

۱۴۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ

عن ابى اسحاق عن ابى عبيدة عن عبد الله قال

قضائے حاجت کے لئے نکلے تو فرمایا: میرے لئے تین پتھر تلاش کرو۔

خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ فَقَالَ

عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں دو پتھروں اور ایک گوبر کا ٹکڑا لے کر

الْتَمَسْتُ لِي ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ قَالَ فَاتَيْتُهُ بِحَجَرَيْنِ وَ رَوْثَةٍ

حاضر ہوا۔ آپ ﷺ نے پتھر لے لئے اور گوبر کا ٹکڑا پھینک دیا اور کہا کہ

فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَالْقَى الرِّوْثَةَ وَقَالَ إِنَّهَا الرِّجْسُ۔

یہ ناپاک ہے۔

امام ترمذی کہتے ہیں: قیس بن ربیع ابواسحاق سے وہ ابوعبیدہ سے اور وہ عبداللہ سے اسرائیل کی حدیث کی طرح ہی نقل کرتے ہیں۔ معمر اور عمار بن زریق بھی ابواسحاق سے وہ علقمہ سے اور وہ عبداللہ سے یہی حدیث نقل کرتے ہیں۔ زہیر، ابواسحاق سے وہ عبدالرحمن بن اسود سے وہ اپنے والد اسود بن یزید سے اور وہ عبداللہ سے روایت کرتے ہیں۔ زکریا بن ابی زائدہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عبدالرحمن سے پوچھا کہ ان میں سے کونسی روایت اصح ہے تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے امام بخاری سے پوچھا انہوں نے بھی کوئی فیصلہ نہیں دیا۔ شاید ان کے نزدیک زہیر کی حدیث اصح ہے وہ ابواسحاق سے وہ عبدالرحمن بن اسود سے وہ اپنے والد سے اور وہ عبداللہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں۔ اس حدیث کو بخاری نے اپنی کتاب میں بھی تحریر کیا ہے۔ اس باب میں میرے نزدیک اصح حدیث اسرائیل اور قیس کی ہے۔ وہ ابواسحاق، وہ ابوعبیدہ اور وہ عبداللہ سے نقل کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اسرائیل، ابواسحاق کی روایت میں اور لوگوں کی نسبت اثبت اور احفظ ہیں۔ ان کی روایت کی متابعت قیس بن ربیع نے کی ہے میں نے ابوموسیٰ محمد بن ثنی کو کہتے ہوئے سنا کہ عبدالرحمن بن مہدی کہتے تھے کہ مجھ سے سفیان ثوری کی ابواسحاق سے منقول جو احادیث فوت ہو گئیں اس کا سبب یہ ہے کہ میں نے اسرائیل پر تکیہ کیا اس لیے کہ وہ ان کو پورا پورا بیان کرتے تھے۔ ابواسحاق کہتے ہیں: زہیر کی روایات ابی اسحاق سے زیادہ قوی نہیں کیوں کہ زہیر کا ان سے سماع آخر وقت میں ہوا۔ میں نے احمد بن حسن کو کہتے ہوئے سنا کہ احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جب تم زائدہ اور زہیر کی حدیث سنو تو کسی اور سے سننے کی پرواہ نہ کرو۔ الا یہ کہ وہ ابواسحاق سے مروی ہو۔ ابواسحاق کا نام عمرو بن عبداللہ السیمی الہمدانی ہے۔ ابوعبیدہ بن

عبداللہ بن مسعود نے اپنے والد سے کوئی حدیث نہیں سنی۔ ان کا نام ہمیں معلوم نہیں۔ محمد بن بشار بھی محمد بن جعفر سے وہ شعبہ سے اور وہ عمرو بن مرہ سے نقل کرتے ہیں کہ عمرو نے ابو عبید اللہ بن عبداللہ سے پوچھا کیا تمہیں عبداللہ سے سنی ہوئی کچھ باتیں یاد ہیں تو انہوں نے جواب دیا، نہیں۔

باب ۱۴۔ كَرَاهِيَةَ مَا يُسْتَنْجَى بِهِ

باب ۱۴۔ جن چیزوں سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔

۱۵۔ حدثنا هناد نا حفص بن غياث عن داود بن ابي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالبروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن۔

۱۵۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ گوبر اور ہڈی سے استنجانہ کرو۔ اس لئے کہ یہ تمہارے بھائی جنوں کی غذا ہے۔

اس باب میں ابو ہریرہؓ، سلمانؓ، جابرؓ اور ابن عمرؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں: کہ یہ حدیث اسماعیل بن ابراہیم وغیرہ سے بھی منقول ہے وہ داؤد بن ابی ہند سے وہ شعی سے وہ علقمہ سے اور وہ عبداللہ سے نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود لیلیۃ الجن میں حضور ﷺ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے پوری حدیث کو بیان کیا۔ شعی کہتے ہیں، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ گوبر اور ہڈیوں سے استنجانہ کرو کیوں کہ وہ تمہارے جن بھائیوں کی غذا ہے۔ اسماعیل کی روایت حفص بن غیاث سے صحیح ہے اور اہل علم اسی پر عمل کرتے ہیں پھر اس باب میں جابرؓ اور ابن عمرؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔

باب ۱۵۔ الْأَسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ

باب ۱۵۔ پانی سے استنجا کرنا

۱۶۔ حدثنا قتيبة ومحمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب قال ثنا ابو عوانة عن قتادة عن معاذة عن عائشة قالت مررت مرثا أزوا جكن أن يستطيعوا بالماء فأبى أستحيهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعلہ۔

۱۶۔ حضرت معاذہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے (عورتوں سے) فرمایا: کہ اپنے شوہروں سے کہو کہ وہ پانی سے استنجا کیا کریں۔ کیوں کہ مجھے ان سے شرم آتی ہے اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ ایسا ہی کیا کرتے تھے۔

اس باب میں جریر بن عبداللہ الجلی، انسؓ اور ابو ہریرہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر اہل علم کا عمل ہے کہ وہ پانی سے استنجا کرنے کو اختیار کرتے ہیں گو کہ پتھروں سے استنجا کرنا بھی کافی ہے لیکن پانی کے استعمال کو مستحب اور افضل سمجھتے ہیں۔ سفیان ثوری، ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

باب ۱۶۔ مَا جَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ أَبْعَدَ فِي الْمَذْهَبِ

باب ۱۶۔ رسول اللہ ﷺ کا قضائے حاجت کے لئے دُور جانا۔

۱۷۔ حدثنا محمد بن بشار نا عبد الوهاب الثقفي عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في

۱۷۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حضور ﷺ کے ساتھ تھا۔ آپ ﷺ نے قضائے حاجت کا ارادہ کیا تو بہت دور گئے۔

سَفَرٍ فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَتَهُ فَأَبْعَدَ فِي الْمَذْهَبِ۔

اس باب میں عبدالرحمن بن ابی قراؤ، ابوققادہ، جابر، یحییٰ بن عبید سے بھی روایت ہے۔ یحییٰ اپنے والد، ابوموسیٰ، ابن عباس اور بلال : حارث سے روایت کرتے ہیں۔ ابوعیسیٰ کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضور ﷺ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ پیشاب کرنے کے لیے جگہ تلاش کرنے کا اہتمام اس طرح فرماتے جس طرح کہ آرام کے لیے جگہ ڈھونڈنے کا اہتمام فرماتے۔ ابوسلمہ کا نام عبداللہ بن عبدالرحمن بن عوف الزہری ہے۔

باب ۱۷۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْبَوْلِ فِي الْمَغْتَسِلِ

باب ۱۷۔ غسل خانے میں پیشاب کرنا مکروہ ہے۔

۱۸۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ وَاحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ

۱۸۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ

مُوسَى قَالَا اَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ

اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص غسل خانے میں پیشاب کر

اشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ

اس لئے کہ عموماً و سوسہ اسی سے ہوتا ہے۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي

مُسْتَحَبِّهِ وَقَالَ إِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ۔

اس باب میں ایک اور صحابی بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے اور اشعث بن عبداللہ کے علاوہ کسی اور طریق سے اس کے مرفوع ہونے کا ہمیں علم نہیں۔ انہیں اشعث اعمی کہتے ہیں۔ بعض علماء غسل خانہ میں پیشاب کرنے کو مکروہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اکثر وسوسا اسی سے ہوتے ہیں جب کہ بعض اہل علم جن میں ابن سیرین بھی ہیں اس کی اجازت دیتے ہیں۔ ان سے کہا گیا کہ عموماً و سوسہ اسی سے ہوتا ہے تو فرمایا: ہمارا رب اللہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ ابن مبارک بھی غسل خانے میں پیشاب کرنے جائز قرار دیتے ہیں بشرطیکہ پانی بہا دیا جائے۔ ابوعیسیٰ کہتے ہیں ہم سے یہ حدیث احمد بن عبدہ آملی نے حبان سے اور انہوں نے ابن مبارک کے حوالے سے بیان کی ہے۔

باب ۱۸۔ مَا جَاءَ فِي السَّوَاكِ

باب ۱۸۔ مسواک کا حکم

۱۹۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ ثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ سَلِيمَانَ عَنْ

۱۹۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ضرور انہیں ہر نما

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ أَشَقُّ

عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث محمد بن اسحاق نے محمد بن ابراہیم سے انہوں نے ابوسلمہ سے انہوں نے زید بن خالد سے اور انہوں نے حضور

ﷺ سے نقل کی ہے ابوسلمہ کی ابو ہریرہ سے اور زید بن خالد کی نبی ﷺ سے منقول احادیث دونوں ہی میرے نزدیک صحیح ہیں۔

۲۰۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ عُبَيْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اسْحَقَ عَنْ

۲۰۔ حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ زید بن خالد رضی اللہ

مُحَمَّدُ بْنُ إِبرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ

عنہ رسول کریم ﷺ کا یہ قول نقل کیا کرتے تھے کہ اگر اپنی امت پر مشقت

عَنْ رَسُولِ كَرِيمٍ ﷺ كَأَنَّ قَوْلَهُ نَقَلَ كَمَا كَرِهْتُمْ تَعْلَمُونَ

کہ اگر اپنی امت پر مشقت

کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے اور عشاء کی نماز، رات کے تہائی حصے تک مؤخر کرنے کا ضرور حکم دیتا۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب زید رضی اللہ عنہ نماز کے لئے مسجد میں آتے تو مسواک ان کے کان پر ایسی ہوتی جیسے کاتب کا قلم ہوتا ہے اور اس وقت تک نماز نہ پڑھتے، جب تک مسواک نہ کر لیتے پھر اسے اسی جگہ رکھ لیتے۔

الْجُهَنِّي قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَيَّ أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَلَا خَرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ قَالَ فَكَانَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ يَشْهَدُ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ وَسِوَاكُهُ عَلَى أُذُنِهِ مَوْضِعَ الْقَلَمِ مِنْ أُذُنِ الْكَاتِبِ لَا يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ إِلَّا اسْتَنَّ ثُمَّ رَدَّهُ إِلَى مَوْضِعِهِ۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۹۔ جب کوئی نیند سے بیدار ہو تو اپنا ہاتھ دھونے سے پہلے پانی کے برتن میں نہ ڈالے۔

باب ۱۹۔ مَا جَاءَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يَغْتَمِسُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا

۲۱۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اگر تم میں کوئی رات کی نیند سے جاگے تو اپنے ہاتھ کو دو یا تین مرتبہ دھونے سے پہلے برتن میں نہ ڈالے۔ اس لئے کہ اسے نہیں معلوم کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گذاری۔

۲۱۔ حَدَّثَنَا ابُو الْوَلِيدِ أَحْمَدُ بْنُ بَكَّارٍ الدَّمَشْقِيُّ مِنْ وُلْدِ يَسْرِبْنَ ارطَاةَ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَا الْوَلِيدُ بْنُ مَسْلَمٍ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمَسِيبِ عَنِ ابِي سَلْمَةَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يُفْرَغَ عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ۔

اس باب میں ابن عمر، جابر اور حضرت عائشہ سے احادیث منقول ہیں۔ ابو یسعی کہتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ شافعی کہتے ہیں: میں ہر نیند سے بیدار ہونے والے کے لیے ہاتھ دھونا بہتر سمجھتا ہوں۔ اگر وہ دھونے سے پہلے برتن میں ڈال لے تو مکروہ ہے لیکن اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا الا یہ کہ اس کے ہاتھ پر نجاست لگی ہو۔ احمد بن حنبل کے نزدیک رات کی نیند سے بیدار ہونے والا اگر برتن میں ہاتھ ڈال دے تو پانی بہا دینا بہتر ہے جب کہ اسحاق کہتے ہیں کہ کسی بھی وقت نیند سے بیدار ہو کر ہاتھ دھونے سے پہلے پانی میں نہ ڈالا جائے۔

مسئلہ: حنفیہ کے نزدیک اس مسئلے میں تفصیل ہے۔ اگر ہاتھوں پر نجاست لگنے کا خیال ہو تو اس کے باوجود اس نے ہاتھ پانی میں ڈال دیا تو پانی ناپاک ہو گیا اس سے وضو یا غسل نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر نجاست نہ لگی ہو تو ہاتھ پانی میں ڈالنے سے ناپاک نہ ہوگا۔

باب ۲۰۔ فِي التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْوُضُوءِ

باب ۲۰۔ وضو کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا

۲۲۔ رباح بن عبد الرحمن بن ابی سفیان بن حویطب اپنی دادی سے اور وہ اپنے والد سے نقل کرتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: جو شخص وضو کی ابتداء میں اللہ کا نام نہ لے اس کا وضو ہی نہیں

۲۲۔ حَدَّثَنَا نَصْرَبْنِ عَلِيُّ وَبَشْرَبْنِ مَعَاذُ الْعَقْدِيُّ قَالَا نَابَشْرَبْنِ الْمَفْضَلُ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنِ ابِي ثِقَالِ الْمُرِّي عَنِ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي

سُفْيَانُ ابْنُ حُرَيْطٍ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِيهَا قَالَ هَوَاتَا -
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وُضُوءَ
لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ.

اس باب میں عائشہؓ، ابو ہریرہؓ، ابوسعید الخدریؓ، سہل بن سعدؓ اور انسؓ سے بھی حدیثیں نقل کی گئی ہیں۔ امام احمدؒ کہتے ہیں: میں نے اس باب میں عمدہ سند کی کوئی حدیث نہیں پائی۔ اسحاق کا کہنا یہ ہے کہ اگر قصد التسمیہ چھوڑ دے تو وضو دوبارہ کرنا ہوگا اور اگر بھول کر یا حدیث کی تاویل کر کے چھوڑے تو وضو ہو جائے گا۔ بخاریؒ کہتے ہیں اس باب میں احسن حدیث رباح بن عبد الرحمنؓ کی ہے۔ ابو یعلیٰؒ کہتے ہیں: رباح بن عبد الرحمنؓ اپنی دادی سے اور وہ اپنے والد سے نقل کرتی ہیں ان کے والد سعید بن زید بن عمرو بن نفیلؓ ہیں۔ ابو ثقیال المریؓ کا نام ثمامہ بن حصینؓ اور رباح بن عبد الرحمنؓ ابو بکر بن حویطبؓ ہیں۔ ان میں سے بعض راویوں نے اس حدیث کو ابو بکر بن حویطبؓ سے نقل کر کے اسے ان کے دادا کی طرف منسوب کیا ہے۔

مسئلہ: امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک وضو شروع کرتے وقت تسمیہ فرض نہیں ان کا کہنا ہے کہ جو تسمیہ نہ پڑھے، اس کا وضو مکمل کو نہیں پہنچتا۔ (مترجم)

باب ۲۱۔ گلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا

باب ۲۱۔ مَا جَاءَ فِي الْمَضْمُضَةِ وَالْإِسْتِنْشَاقِ

۲۳۔ سلمہ بن قیسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب وضو کرو تو ناک صاف کرو اور جب استنجاء کے لئے پتھر استعمال کرو تو طاق عدد میں لو۔

۲۳۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ وَحَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هَلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتِثِرْ وَإِذَا اسْتَجْمَمْتَ فَأَوْزِرْ۔

اس باب میں عثمانؓ، لقیط بن صبرہؓ، ابن عباسؓ، مقداد بن معدیکربؓ، وائل بن حجرؓ اور ابو ہریرہؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ ابو یعلیٰؒ کہتے ہیں سلمہ بن قیسؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اور علماء کا کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کے حکم میں اختلاف ہے۔ ابن ابی لیلیٰؒ، عبد اللہ بن مبارکؒ، احمد اور اسحاق کا قول یہ ہے کہ اگر مضمضہ اور استنشاق (کلی، ناک میں پانی ڈالنا) چھوڑ دیا اور نماز پڑھ لی تو نماز کو دہرائے۔ یعنی وضو اور غسل جنابت میں رہ جائے تو دوبارہ کرے اور اگر وضو میں چھوٹے تو نہ کرے۔ یہ قول سفیان ثوریؒ اور بعض (۱) اہل کوفہ کا ہے۔ ایک جماعت کا خیال ہے کہ دونوں میں ہی اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ دونوں ہی سنت ہیں۔ لہذا اعادہ واجب نہیں۔ یہ قول مالکؒ اور شافعیؒ کا ہے۔

باب ۲۲۔ گلی اور ناک میں ایک چٹو سے پانی ڈالنا درست ہے۔

باب ۲۲۔ الْمَضْمُضَةُ وَالْإِسْتِنْشَاقُ مِنْ كَفِّ وَاحِدٍ

۲۳۔ عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم ﷺ کو ایک ہی چٹو سے کلی کرتے اور ناک میں پانی ڈالتے ہوئے دیکھا۔ آپ ﷺ نے ایسا تین مرتبہ کیا۔

۲۴۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى نَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى نَا خَالِدٌ عَنْ عَمْرٍو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَضْمُضًا وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفِّ وَاحِدٍ فَعَلَّ ذَلِكَ ثَلَاثًا۔

(۱) بعض اہل کوفہ سے مراد حنفیہ ہیں۔ (مترجم)

اس باب میں عبداللہ بن عباسؓ بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ ابو عیسیٰ کہتے ہیں عبداللہ بن زیدؓ کی حدیث حسن غریب ہے مالک اور ابن عیینہ وغیرہ نے بھی یہ حدیث عمرو بن یحییٰ سے نقل کی ہے لیکن اس میں یہ ذکر نہیں ہے۔ ”کہ آپ ﷺ نے ایک ہی چلو سے ناک میں بھی پانی ڈالا اور کلی بھی کی۔ اسے صرف خالد بن عبداللہ نے ذکر کیا ہے۔ خالد محدثین کے نزدیک ثقہ اور حافظ ہیں چنانچہ بعض علماء کے نزدیک مضمضہ اور استنشاق کے لئے ایک چلو کافی ہے جبکہ بعض کے نزدیک دونوں کے لئے الگ پانی لینا مستحب ہے۔ امام شافعیؒ کہتے ہیں: اگر دونوں ایک چلو سے کرے تو جائز اور اگر الگ الگ چلو سے کرے تو میرے نزدیک بہتر ہے۔

مسئلہ: امام شافعی کا مسلک بھی بیحد امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے۔

نوٹ: امام ترمذی سے امام شافعی کا مسلک نقل کرنے میں خطا ہوئی ہے ان کا مسلک یہ ہے کہ ایک چلو سے مضمضہ اور استنشاق افضل ہے اور جو مذہب اوپر بیان کیا گیا وہ دراصل حنفیہ کا ہے۔ (مترجم)

باب ۲۳۔ فِی تَخْلِيلِ اللَّحِيَةِ

باب ۲۳۔ داڑھی کے خلال کا حکم

۲۵۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ نَاسِفِيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ حَسَّانِ بْنِ بِلَالٍ قَالَ رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ فَقِيلَ لَهُ أَوْ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَتَخْلِلُ لِحْيَتَكَ قَالَ وَمَا يَمْنَعُنِي وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ۔

۲۵۔ حسان بن بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا انہوں نے داڑھی کا خلال کیا تو ان سے کہا گیا یا حسان نے کہا: کیا آپ داڑھی کا خلال کرتے ہیں؟ عمار کہنے لگے، کیوں نہ کروں جب کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو اپنی داڑھی کا خلال کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

ابن ابی عمر بھی سفیان سے وہ سعید بن ابی عمرو سے وہ قتادہ سے وہ حسان بن بلال سے وہ عمار سے اور عمار حضور ﷺ سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ اس باب میں عائشہؓ، ام سلمہؓ، انسؓ، ابن ابی اوفیٰ اور ابویوبؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ ابو عیسیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے اسحاق بن منصور، احمد بن حنبل کے حوالے سے اور وہ ابن عیینہ کا قول نقل کرتے ہیں۔ عبدالکریم نے حسان بن بلال سے تخلیل کی حدیث نہیں سنی۔ یحییٰ بن موسیٰ نے بھی عبدالرزاق سے انہوں نے اسرائیل سے انہوں نے عامر بن شقیق سے انہوں نے ابوداؤد سے اور انہوں نے عثمان بن عفان سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ نبی ﷺ اپنی داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے۔ ابو عیسیٰ کہتے ہیں شیخیٰ فی ہذا الباب کہتے ہیں۔ صحابہ کرامؓ، اکثر اہل علم اور امام شافعیؒ کا اسی پر عمل ہے۔ احمد کہتے ہیں اگر خلال کرنا بھول جائے تو وضو ہو جاتا ہے جب کہ اسحاق کے نزدیک اگر بھول یا تاویل سے چھوڑے تو جائز ہے وگرنہ دوبارہ وضو کرے۔

باب ۲۴۔ مَا جَاءَ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ أَنَّهُ يُبَدَأُ بِمُقَدَّمِ

باب ۲۴۔ سر کا مسح آگے سے پیچھے کی طرف کرے۔

الرَّأْسِ إِلَى مُؤَخَّرِهِ۔

۲۶۔ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ نَا مَعْنِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بِيَدَيْهِ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى

۲۶۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے اپنے سر کا مسح کیا تو دونوں ہاتھ آگے سے پیچھے لے گئے اور پھر پیچھے سے آگے کی طرف لائے یعنی سر کے شروع سے ابتداء کی پھر اپنی گدی تک لے گئے پھر لوٹا کروں تک لائے جہاں سے شروع کیا تھا۔ پھر دونوں ہاتھ پھیر دئے۔

الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ۔

اس باب میں معاویہؓ، مقداد بن معدیکربؓ اور عائشہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ ابویسٰی کہتے ہیں۔ عبداللہ بن زید کی حدیث اس باب کی اصح و احسن حدیث ہے۔ یہی شافعیؒ، احمدؒ اور اسحاقؒ کا بھی قول ہے۔

باب ۲۵۔ مَا جَاءَ أَنَّهُ يُبَدَأُ بِمُوَخَّرِ الرَّأْسِ

۲۷۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا بَشْرَ بْنَ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُعَوِذِ بْنِ عَفْرَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ بَدَأَ بِمُوَخَّرِ رَأْسِهِ ثُمَّ بِمُقَدَّمِهِ وَبِأُذُنَيْهِ كَلْتَيْهِمَا ظَهْرَهُمَا وَبَطْنَهُمَا۔

۲۵۔ پیچھے سے سر کا مسح کرنا۔

۲۷۔ ربیع بنت معوذ بن عفراء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے سر کا دو مرتبہ مسح کیا ایک مرتبہ پیچھے سے شروع کیا اور دوسری مرتبہ سامنے پھر دونوں کانوں کا اندر اور باہر سے مسح کیا۔

ابویسٰی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے اور عبداللہ بن زید کی حدیث اس سے اصح و اجود ہے۔ بعض اہل کوفہ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں کیونکہ جراح بھی انہی میں سے ہیں۔

مسئلہ: حنفیہ کا عمل بھی عبداللہ بن زید ہی کی حدیث پر ہے اور اس پر فتویٰ ہے جہاں تک ربیع کی حدیث کا تعلق ہے درحقیقت آنحضرت ﷺ نے حضرت ربیع کے سامنے بیان جواز کے لیے مختلف کیفیات سے مسح کیا ہوگا۔ لہذا جمہور بھی تمام صورتوں کے جواز کے قائل ہیں۔ جب کہ عبداللہ بن زید کی حدیث پر عمل افضل ہے۔ (مترجم)

باب ۲۶۔ مَا جَاءَ أَنَّ مَسْحَ الرَّأْسِ مَرَّةً

۲۸۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا بَكْرَ بْنَ مِصْرَ عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُعَوِذِ بْنِ عَفْرَاءَ أَنَّهَا رَأَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ قَالَتْ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ مَسَحَ مَا أَقْبَلَ مِنْهُ وَمَا أَذْبَرَ وَصَبَدُ غَيْهِ وَأُذُنَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً۔

۲۶۔ سر کا مسح ایک مرتبہ کیا جائے۔

۲۸۔ ربیع بنت معوذ بن عفراء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ انہوں نے حضور ﷺ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا چنانچہ آپ ﷺ نے سر کا آگے اور پیچھے سے، دونوں کنپٹیوں کا اور کانوں کا ایک بار مسح کیا۔

اس باب میں علیؓ اور طلحہ بنت مصرف بن عمرو کے دادا سے بھی حدیثیں نقل کی گئی ہیں۔ ابویسٰی کہتے ہیں، ربیع کی حدیث حسن صحیح ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سی سندوں سے منقول ہے کہ آپ ﷺ نے مسح ایک ہی مرتبہ کیا۔ اسی پر اکثر اہل علم کا عمل ہے۔ جن میں صحابہؓ اور دوسرے بعد کے علماء بھی شامل ہیں۔ یہ قول جعفر بن محمدؒ، سفیان ثوریؒ، ابن المبارکؒ، شافعیؒ، احمدؒ اور اسحاقؒ کا ہے ان سب کی رائے یہ ہے کہ مسح راس ایک ہی مرتبہ ہے۔

محمد بن منصور کہتے ہیں کہ سفیان بن عیینہ نے مجھ سے کہا کہ میں نے جعفر بن محمد سے پوچھا: سر کا مسح ایک مرتبہ کافی ہوتا ہے تو کہنے لگے۔ ہاں، اللہ کی قسم کافی ہوتا ہے۔

باب ۲۷۔ مَا جَاءَ أَنَّهُ يَأْخُذُ لِرَأْسِهِ مَاءً جَدِيدًا۔

۲۹۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَشْرَمٍ نَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ نَا

۲۷۔ سر کے مسح کے لئے نیا پانی لینا

۲۹۔ عبداللہ بن زید فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور ﷺ کو وضو کرتے

عمرو بن الحارث عن حبان ابن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ وَأَنَّهُ مَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلٍ يَدِيهِ۔

ہوئے دیکھا۔ آپ ﷺ نے سر کا مسح دونوں ہاتھوں کے بچے ہوئے پانی کے علاوہ سے کیا۔ (اس کے لئے دوسرا پانی لیا)

ف: ابویسلی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابن لہیعہ نے اس حدیث کو حبان بن واسع سے انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے عبداللہ بن زید سے نقل کیا ہے کہ نبی ﷺ نے وضو کرتے ہوئے ہاتھوں کے بچے ہوئے پانی سے مسح فرمایا۔ اور عمرو بن حارث کی حبان سے روایت صحیح ہے اس لیے کہ یہ حدیث اس کے علاوہ اور کئی طرق سے عبداللہ بن زید اور دوسرے راویوں سے منقول ہے کہ نبی ﷺ نے مسح راس کے لیے نیا پانی لیا۔ اکثر اہل علم کا تعامل اسی پر ہے ان سب کی رائے یہ ہے کہ مسح راس کے لیے نیا پانی لیا جائے۔

باب ۲۸۔ مَسْحُ الْأُذُنَيْنِ ظَاهِرِهِمَا وَبِاطْنِهِمَا

باب ۲۸۔ کانوں کا اندرونی و بیرونی مسح

۳۰۔ حَدَّثَنَا هِنَادٌ نَادِرِيٌّ عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبِاطْنِهِمَا۔

۳۰۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے سر اور کانوں کا باہر اور اندر سے مسح کیا۔

اس باب میں ربیع سے بھی حدیث منقول ہے۔ ابویسلی کہتے ہیں ابن عباسؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اہل علم کا عمل اسی پر ہے کہ کانوں کے اندر اور باہر کا مسح کیا جائے۔

باب ۲۹۔ مَا جَاءَ أَنَّ الْأُذُنَيْنِ مِنَ الرَّأْسِ۔

باب ۲۹۔ دونوں کان سر کے حکم میں داخل ہیں۔

۳۱۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَادِرِيَّةٌ عَنْ حَمَادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَنَانَ بْنِ رَيْبَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَقَالَ الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ۔

۳۱۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ نے وضو کیا تو اپنا چہرہ اور دونوں ہاتھ تین تین بار دھوئے، پھر سر کا مسح کیا اور فرمایا: کان سر میں داخل ہیں۔

امام ترمذی کہتے ہیں کہ قتیبہ، حماد کے حوالے سے کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم یہ قول نبی (ﷺ) کا ہے یا ابو امامہ کا۔ اس باب میں انسؓ بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ ابویسلی کہتے ہیں اس حدیث کی سند درست نہیں ہے۔ صحابہؓ و تابعین میں سے اکثر اہل علم کا یہی قول ہے کہ کان سر میں داخل ہیں۔ یہی قول سفیان ثوریؒ، ابن مبارکؒ، احمدؒ اور اسحاقؒ کا بھی ہے جب کہ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ کانوں کا سامنے کا حصہ چہرے میں اور پیچھے کا سر کے ساتھ کرنا پسندیدہ فعل ہے۔

مسئلہ: احناف بھی ابو امامہ کی ہی حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک کانوں کے مسح کے لیے سر کے بچے ہوئے پانی کو استعمال کرنا مستنون ہے۔ (مترجم)

باب ۳۰۔ فِي تَحْلِيلِ الْأَصَابِعِ

باب ۳۰۔ انگلیوں کے خلال کا حکم

۳۲۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ وَهْنَادٌ قَالَا نَا وَكَيْعٌ عَنْ سَفِيَّانَ عَنِ عَاصِمِ بْنِ لَقِيْطِ بْنِ صَبْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلٍ يَدِيهِ۔

۳۲۔ عاصم بن لقیط بن صبرہ رضی اللہ عنہما اپنے والد کے حوالے سے نقل

ابی ہاشم عن عاصم بن لقیط بن صبرۃ عن ابيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأت فخلل الأصابع

کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا جب وضو کرو تو انگلیوں کا خلال کرو۔

اس باب میں ابن عباس، مستورد اور ابویوب سے بھی احادیث منقول ہیں۔ ابویسی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اہل علم کا عمل اسی پر ہے کہ وضو میں پیروں کی انگلیوں کا خلال کیا جائے۔ احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ اسحاق مزید کہتے ہیں کہ ہاتھوں کی انگلیوں کا بھی خلال کرے اور ابویوب ہاشم کا نام اسماعیل بن کثیر ہے۔

مسئلہ: امام ابوحنیفہ کے نزدیک بھی تخلیل اصابع (ہاتھوں اور پیروں کی) مسنون ہے۔ (مترجم)

۳۳۔ حدثنا ابراهيم بن سعيد قال ثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر قال ثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن موسى بن عقبة عن صالح مولى التوامة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأت فخلل اصابع يديك ورجلك

۳۳۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب وضو کرو تو ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کا خلال کر لیا کرو۔

ابویسی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے۔

۳۴۔ حدثنا قتيبة قال ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن ابي عبد الرحمن الحُبلي عن المُستورد بن شداد الفهري قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم اذا توضأ ذلك اصابع رجله بخصره

۳۴۔ مستورد بن شداد فہری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی ﷺ کو دیکھا: آپ ﷺ جب وضو کرتے تو اپنے پیروں کی انگلیوں کا ہاتھ کی چھنگلیا سے خلال کرتے۔

ابویسی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے ابن لہیعہ کے علاوہ کسی اور سند سے نہیں جانتے۔

باب ۳۱۔ ماجاء ويل للأعقاب من النار

۳۱۔ ہلاکت ہے ان ایڑیوں کے لئے جو سوکھی رہ جائیں۔

۳۵۔ حدثنا قتيبة قال ثنا عبد العزيز ابن محمد عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ويل للأعقاب من النار

۳۵۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ نے وضو میں سوکھی رہ جانے والی ایڑیوں کے لئے دوزخ سے ہلاکت کی بددعا کی ہے۔

اس باب میں عبد اللہ بن عمرو، عائشہ، جابر بن عبد اللہ، عبد اللہ بن حارث، معقب، خالد بن ولید، شریحیل بن حسنہ، عمرو بن العاص اور یزید بن ابی سفیان سے بھی احادیث منقول ہیں۔ ابویسی کہتے ہیں: ابو ہریرہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ آپ ﷺ سے یہ بھی منقول ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ہلاکت ہے ایڑیوں اور گلوں کی دوزخ سے۔ اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ پیروں پر اگر جراثیم نہ ہوں تو مسح کرنا جائز نہیں۔

باب ۳۲۔ ماجاء في الوضوء مرة مرة

۳۲۔ وضو میں ایک ایک مرتبہ اعضاء کا دھونا

۳۶۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے ایک ایک بار وضو کیا (یعنی اعضاء ایک ایک مرتبہ دھوئے)

۳۶۔ حدثنا ابو کریب و ہناد و قتیبة قالوا ثنا و کعب عن سفیان ح و ثنا محمد بن بشار قال یحییٰ ابن سعید قال ثنا سفیان عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس انّ النبی صلی اللہ علیہ و آلہ و سلّم توضّأ مرّة مرّة

اس باب میں عمر، جابر، بریدہ ابی رافع اور ابن الفا کہ سے بھی احادیث نقل کی جاتی ہیں۔ ابو عیسیٰ کہتے ہیں: ابن عباس کی حدیث اس باب کی اصح اور احسن حدیث ہے۔ رشد بن بن سعد وغیرہ اس حدیث کو ضحاک بن شریحیل سے وہ زید بن اسلم سے وہ اپنے والد سے اور وہ عمر بن خطاب سے نقل کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے ایک ایک مرتبہ وضو کیا۔ یہ روایت ضعیف ہے اور صحیح روایت ابن عجلان، ہشام بن سعد، سفیان ثوری اور عبدالعزیز بن محمد نے زید بن اسلم سے انہوں نے عطاء بن یسار سے انہوں نے ابن عباس سے اور انہوں نے نبی ﷺ سے نقل کی ہے۔

باب ۳۳۔ وضو میں دو مرتبہ اعضاء دھوئے جائیں۔

باب ۳۳۔ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ

۳۷۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ وضو میں دو مرتبہ اعضاء کو دھوتے تھے۔

۳۷۔ حدثنا ابو کریب و محمد بن رافع قالوا نازید بن حباب عن عبد الرحمن ابن ثابت بن ثوبان قال حدثني عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة أنّ النبی صلی اللہ علیہ و آلہ و سلّم توضّأ مرّتين مرّتين

امام ترمذی کہتے ہیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے ابن ثوبان کے علاوہ کسی اور سند سے نہیں جانتے اور ابن ثوبان اسے عبد اللہ بن فضل سے نقل کرتے ہیں یہ سند حسن صحیح ہے۔ اس باب میں جابر سے بھی روایت ہے۔ ابو ہریرہ سے یہ بھی منقول ہے کہ آپ ﷺ نے تین تین مرتبہ اعضاء کو دھویا۔

باب ۳۴۔ وضو میں اعضاء کو تین تین مرتبہ دھونا

باب ۳۴۔ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا

۳۸۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے اعضاء وضو کو تین تین مرتبہ دھویا۔

۳۸۔ حدثنا محمد بن بشار نا عبد الرحمن بن مهدی عن سفیان عن ابی اسحاق عن ابی حییة عن علی أنّ النبی صلی اللہ علیہ و آلہ و سلّم توضّأ ثلاثا ثلاثا

اس باب میں عثمان، ربیع، ابن عمر، عائشہ، ابو امامہ، ابو رافع، عبد اللہ بن عمرو، معاویہ، ابو ہریرہ، جابر، عبد اللہ بن زید اور ابو ذر سے بھی احادیث منقول ہیں۔ ابو عیسیٰ کہتے ہیں علی کی حدیث اس باب کی احسن و اصح حدیث ہے۔ اور عموماً اہل علم کا عملی رجحان اس طرح ہے کہ اعضاء وضو کا ایک ایک مرتبہ دھونا کافی ہے جب کہ دو دو بار افضل اور تین تین مرتبہ اس سے بھی افضل ہے۔ اس سے زیادہ نہیں یہاں تک کہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ ڈر ہے کہ تین مرتبہ کی حد سے تجاوز کرنے میں گناہ گار ہو جائے، احمد اور اسحاق کا کہنا ہے کہ تین مرتبہ سے زیادہ وہی دھوئے گا جو وہم میں مبتلا ہوگا۔

باب ۳۵۔ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا

باب ۳۵۔ اعضاء وضو کو ایک مرتبہ، دو دو مرتبہ اور تین تین مرتبہ دھونا۔

۳۹۔ حَدَّثَنَا اسْمَعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ نَاشِرُكَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِي صَفِيَّةٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ حَدَّثَكَ جَابِرٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ وَمَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا وَثَلَاثًا قَالَ نَعَمْ

۳۹۔ حضرت ثابت بن ابی صفیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر سے پوچھا کیا جابر رضی اللہ عنہ نے آپ سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک ایک مرتبہ، دو دو مرتبہ اور تین تین مرتبہ اعضاء وضو کو دھویا تو کہا: ہاں۔

ابو عیسیٰ کہتے ہیں: یہ حدیث وکیع نے بھی ثابت بن ابی صفیہ سے نقل کی ہے کہ انہوں نے ابو جعفر سے پوچھا کیا آپ سے جابر نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک ایک مرتبہ اعضاء وضو کو دھویا؟ تو فرمایا: ہاں، ہم سے یہ حدیث قتیبہ اور ہناد نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ حدیث ہم سے وکیع نے ثابت کے حوالے سے بیان کی ہے اور یہ شریک کی حدیث سے اصح ہے اس لیے کہ یہ کئی طرق سے مروی ہے۔ پھر یہ ثابت کی حدیث بھی امام وکیع کی روایت کے مثل ہے شریک کثیر الغلط ہیں اور ثابت بن ابی صفیہ کی کنیت ابو حمزہ ثمالی ہے۔

باب ۳۶۔ فِيمَنْ تَوَضَّأَ بَعْضُ وُضُوءِهِ مَرَّتَيْنِ وَبَعْضُهُ ثَلَاثًا

باب ۳۶۔ وضو میں بعض اعضاء دو مرتبہ اور بعض تین مرتبہ دھونا

۴۰۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے وضو کرتے ہوئے اپنے چہرے کو تین مرتبہ اور ہاتھوں کو دو مرتبہ دھویا۔ پھر سر کا مسح کیا اور دونوں پاؤں دھوئے۔

۴۰۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ نَافِعُ بْنُ سَفِيَانَ بْنِ عِيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَعَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَعَسَلَ رِجْلَيْهِ

ابو عیسیٰ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے اور نبی اکرم ﷺ کا بعض اعضاء کو ایک مرتبہ اور بعض کو تین مرتبہ دھونا کئی احادیث میں مذکور ہے۔ بعض اہل علم نے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی شخص وضو کرتے ہوئے بعض اعضاء کو تین مرتبہ، بعض کو دو مرتبہ دھوئے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

توضیح: امام ترمذی نے یہاں پانچ ابواب مسلسل قائم کیے ہیں جن کا مقصد اعضاء مغسولہ کو دھونے کی تعداد کو بیان کرنا ہے۔ پہلے باب میں ایک مرتبہ دھونے کا، دوسرے میں دو دو مرتبہ، تیسرے میں تین تین مرتبہ، چوتھے میں مجموعی طور پر ان سب کا اور پانچویں میں ایک ہی وضو میں بعض اعضاء کو دو بار اور بعض کو تین بار دھونے کا ذکر ہے۔ یہ تمام صورتیں باتفاق جائز ہیں بشرطیکہ اعضاء اچھی طرح دھل جائیں۔ البتہ چونکہ آپ ﷺ کا معمول تین مرتبہ دھونے کا تھا۔ لہذا تین مرتبہ دھونا مسنون ہے۔ (مترجم)

باب ۳۷۔ فِي وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ كَانَ

باب ۳۷۔ نبی ﷺ کے وضو کے متعلق کہ کیسا تھا؟

۴۱۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ وَهْنَادُ قَالَا نَا ابُو الْاِحْوَصِ عَنْ

۴۱۔ حضرت ابو حییہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ

عنه کو وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ انہوں نے دونوں ہاتھ خوب اچھی طرح دھوئے پھر تین مرتبہ کلی کی پھر تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالا اور تین مرتبہ چہرہ دھویا پھر دونوں ہاتھ کہنیوں تک تین بار دھوئے پھر ایک مرتبہ سر کا مسح کیا اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے۔ اس کے بعد کھڑے ہو گئے اور وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا اور فرمایا: کہ میں تم لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا کہ نبی اکرم ﷺ کیسے وضو کیا کرتے تھے۔

أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي حَيَّةَ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَعَسَلَ كَفَّيْهِ حَتَّى انْفَاهُمَا ثُمَّ مَضَمَّضَ ثَلَاثًا وَأَسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَذَرَاعَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً ثُمَّ قَامَ فَأَخَذَ فَضْلَ طَهْوَرِهِ فَشَرِبَهُ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ أَحَبُّتُ أَنْ أُرِيكُمْ كَيْفَ كَانَ طَهْوَرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

اس باب میں حضرت عثمانؓ، عبداللہ بن زیدؓ، ابن عباسؓ، عبداللہ بن عمروؓ، عائشہؓ، ربیع اور عبداللہ بن انیسؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ قتیبہ اور ہناد نے ہم سے روایت کی انہوں نے ابوالاحوص سے انہوں نے ابواسحاق سے اور انہوں نے عبدخیر سے حضرت علیؓ کے حوالے سے ابو حییہ کی حدیث کے مثل ذکر کیا ہے لیکن عبدخیر نے اس میں کچھ الفاظ زیادہ نقل کیے ہیں۔ کہتے ہیں: ”کان اذا فرغ من طهوره اخذ من فضل طهوره بکفه فشربه“ یعنی جب وہ وضو سے فارغ ہوتے تو بچے ہوئے پانی میں سے تھوڑا سا چلو میں لیتے اور پی لیتے ابو عیسیٰ کہتے ہیں: حضرت علیؓ کی حدیث ابواسحق ہمدانی نے ابو حییہ، عبدخیر اور حارث سے انہوں نے حضرت علیؓ سے نقل کی ہے۔ پھر زائدہ بن قدامہ اور دوسرے کئی حضرات نے بھی خالد بن علقمہ سے انہوں نے عبدخیر سے اور انہوں نے حضرت علیؓ سے وضو کی طویل حدیث نقل کی ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ شعبہ یہی حدیث خالد بن علقمہ سے نقل کرتے ہوئے ان کے اور ان کے والد کے نام میں غلطی کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ مالک بن عرفطہ کہتے ہیں ابوعوانہ سے بھی منقول ہے وہ خالد بن علقمہ سے وہ عبدخیر سے اور وہ حضرت علیؓ سے نقل کرتے ہیں اور ابوعوانہ سے ایک اور طریق سے بھی مالک بن عرفطہ سے، شعبہ کی روایت کے مثل بیان کرتے ہیں جب کہ صحیح خالد بن علقمہ ہے۔

باب ۳۸۔ فی النُّضْحِ بَعْدَ الْوُضُوءِ

باب ۳۸۔ وضو کے بعد پانی چھڑکنا

۴۲۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: میرے پاس جبریل آئے اور کہا: اے محمد (ﷺ) جب وضو کرو تو پانی چھڑک لیا کرو۔

۴۲۔ حدثنا نصر بن علي واحمد بن ابی عبید اللہ السلمی البصری قالنا ابوقتیبة عن الحسن بن علی الهاشمی عن عبد الرحمن عن ابی ہریرة ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال جاء نبي جبريل فقال يا محمد اذا توضأت فانتضح

ابو عیسیٰ کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے۔ میں نے محمد کو کہتے ہوئے سنا کہ: حسن بن علی ہاشمی منکر الحدیث ہیں۔ اس باب میں ابوالحکم بن سفیان، ابن عباسؓ، زید بن حارثہ اور ابوسعید بھی احادیث نقل کرتے ہیں بعض سفیان بن الحکم یا حکم بن سفیان کہتے ہیں اور اس حدیث میں اختلاف کرتے ہیں۔

توضیح: کچھ لوگوں کو پیشاب کے بعد وہم ہوتا ہے کہ استنجاء کے بعد بھی قطرے گر رہے ہیں اس وہم کے ازالہ کے لیے آنحضرت ﷺ نے پاجامے کی رومالی پر پانی کے چھینٹے مارنے کا حکم دیا تاکہ یہ وہم دور ہو جائے اور یہ سمجھے کہ یہ تو پانی کی وجہ سے گیلا ہے نہ کہ قطروں کی وجہ سے۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۳۹۔ فی اِسْبَاغِ الوُضُوءِ

باب ۳۹۔ وضو مکمل کرنا

۴۳۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ نَا سَمْعِيلَ بْنَ جَعْفَرَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ قَالُوا بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اِسْبَاغُ الوُضُوءِ عَلَى الْمَسَاكِينِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَلِكَ الرِّبَاطُ

۴۳۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ عرض کیا: کیوں نہیں یا رسول اللہ! فرمایا وضو کو مشقت آمیز حالت میں پورا کرنا، مسجدوں کی طرف بکثرت جانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ یہی رباط ہے یعنی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے مترادف ہے۔

امام ترمذی فرماتے ہیں: ہم سے قتیبہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عبدالعزیز بن محمد بھی علماء سے اسی کی طرح کی حدیث کرتے ہیں۔ قتیبہ اپنی حدیث میں ”فذلکم الرباط“ کے الفاظ تین مرتبہ کہتے ہیں اس باب میں علیؓ، ابن عباسؓ، عبداللہ بن عمروؓ، عبیدہؓ جنہیں عبیدہ بن عمروؓ کہا جاتا ہے، عائشہؓ، عبدالرحمن بن عائشہؓ اور انس رضوان اللہ علیہم سے بھی احادیث منقول ہیں۔ ابو عیسیٰ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے علاء بن عبدالرحمن، ابن یعقوب الجعفی ہیں اور محدثین کے نزدیک ثقہ ہیں۔

باب ۴۰۔ الْمُنْدِيلُ بَعْدَ الوُضُوءِ

باب ۴۰۔ وضو کے بعد رومال کا استعمال کرنا

۴۴۔ حَدَّثَنَا سَفِيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ نَاعِدَ اللَّهِ بْنِ وَهَبٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ حَبَابٍ عَنْ أَبِي مُعَاذٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خِرْفَةٌ يَنْشِفُ بِهَا بَعْدَ الوُضُوءِ

۴۴۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ کا ایک کپڑا (تولیہ) تھا۔ جس سے وضو کے بعد اعضاء خشک کیا کرتے تھے۔

امام ترمذی کہتے ہیں اس باب میں حضرت معاذ بن جبل بھی حدیث بیان کرتے ہیں۔

۴۵۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اپنا مشاہدہ نقل کرتے ہیں۔ کہ نبی کریم ﷺ جب وضو کرتے تو اپنا چہرہ چادر کے کنارے سے پونچھتے۔

۴۵۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ قَالَ ثنا رَشْدِيْنُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَعَمٍ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ حَمِيْدٍ عَنْ عِبَادَةَ بْنِ نَسِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَنَمٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ مَسَحَ وَجْهَهُ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث غریب ہے اس کی سند ضعیف ہے کیوں کہ رشدین بن سعد اور عبدالرحمن بن زیاد انعم بن عتبہ بن حمید عن عبادہ بن نسی عن عبدالرحمن بن عنم عن معاذ بن جبل قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه

(۱) مکارہ مکرمہ کی جمع ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اس حالت میں وضو کرنا جب کہ وہ مکروہ معلوم ہو جیسے کہ سخت سردی وغیرہ (مترجم)

کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ سلیمان بن ارقم ہیں یہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں۔ صحابہ میں سے بعض اہل علم وضو کے بعد رومال سے اعضاء کو خشک کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ جو اسے مکروہ سمجھتے ہیں وہ اس لیے کہ کہا جاتا ہے وضو کا پانی تو لا جاتا ہے۔ سعید بن مسیب اور زہری سے بھی یہی منقول ہے۔ محمد بن حمید، ہم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم سے جریر نے روایت کرتے ہوئے کہا کہ مجھ سے علی بن مجاہد نے مجھ ہی سے سن کر بیان کیا۔ انہوں نے ثعلبہ سے اور انہوں نے زہری سے کہ زہری نے کہا: میں وضو کے بعد رومال سے اعضاء کو پونچھنا اس لیے مکروہ سمجھتا ہوں کہ وضو زن کیا جاتا ہے۔ (۱)

باب ۴۱۔ مَا يُقَالُ بَعْدَ الْوُضُوءِ

باب ۴۱۔ وہ دعائیں جو وضو کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔

۴۶۔ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الثَّعْلَبِيُّ الْكُوفِيُّ نَازِدُ بْنُ حَبَابٍ عَنْ مَعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ زَيْدِ الدَّمَشَقِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ وَأَبِي عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ فُتِّحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةَ أَبْوَابٍ مِنَ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ

۴۶۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا شخص جو وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر کہے۔ "اشھدان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشھدان محمداً عبده ورسوله اللهم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین" (ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تمہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ! مجھے توبہ کرنے والوں اور طہارت حاصل کرنے والوں میں کر دے) تو اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیئے جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ہو جائے۔

اس باب میں انس اور عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہما سے بھی احادیث نقل کی گئی ہیں۔ ابو یسیٰ کہتے ہیں: عمرؓ کی حدیث میں زید بن حباب کی اس حدیث سے اختلاف کیا گیا ہے۔ عبد اللہ بن صالح وغیرہ یہ حدیث معاویہ بن صالح سے وہ ربیعہ بن یزید سے وہ ابو ادریس سے وہ عقبہ بن عامر سے وہ عمر سے وہ ابو عثمان سے وہ جبیر بن نفیر سے اور وہ عمرؓ سے نقل کرتے ہیں۔ اس حدیث کی اسناد میں اضطراب ہے۔ اس باب میں حضور ﷺ سے کوئی زیادہ روایتیں سند صحیح سے منقول نہیں، بخاری کہتے ہیں ابو ادریس نے عمرؓ سے کوئی حدیث نہیں سنی۔

باب ۴۲۔ الْوُضُوءُ بِالْمُدِّ

باب ۴۲۔ ایک مُد سے وضو کرنا

۴۷۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَعَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ قَالَا نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي رِيْحَانَةَ عَنْ سَفِينَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ

۴۷۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کا معمول یہ تھا کہ وضو ایک مُد (۲) پانی سے اور غسل ایک صاع (۳) پانی سے کرتے تھے۔

(۱) اس سے مراد وہ پانی ہے جو وضو کے بعد جسم پر باقی رہ جاتا ہے اور جذب ہو جاتا ہے۔ (مترجم)

(۲) مُد ایک پیمانے کی مقدار ہے جس کا وزن دو رطل کے برابر ہے جب کہ ایک رطل پانچ سو گرام کے برابر ہے واللہ اعلم (مترجم)

(۳) صاع بھی پیمانے کی مقدار ہے ایک صاع چار مُد کے برابر ہوتا ہے۔ یعنی چار کلو گرام واللہ اعلم (مترجم)

باب ۴۲۔ کَرَاهِيَةِ الْاِسْرَافِ فِي الْوُضُوءِ

۴۸۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارَةَ ابْنُ اَبِي دَاوُدَ نَا خَارِجَةَ بِنَ مَضْبَعٍ عَنِ ابْنِ يُونُسَ بْنِ عَبِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ عَنِي بْنِ ضَمْرَةَ السَّعْدِيِّ عَنِ اَبِي بِنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ لِبَلْوَضُوءِ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ الْوَلِيْهَانُ فَاتَّقُوا وَسْوَاسَ الْمَاءِ

باب ۴۳۔ وضو میں پانی زیادہ بہانا مکروہ ہے۔

۴۸۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: وضو کے لئے ایک شیطان ہے اسے ولہان کہا جاتا ہے۔ لہذا پانی میں وسوسے سے بچو، یعنی پانی زیادہ خرچ کرنے سے بچو۔

اس باب میں عبد اللہ بن عمرو اور عبد اللہ بن مغفل سے بھی روایت ہے۔ ابویسی کہتے ہیں: ابی بن کعب کی حدیث غریب ہے اس کی سند احمد شین کے نزدیک قوی نہیں۔ اس لیے کہ ہم خارجہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں جانتے کہ اس نے اسے سند کے ساتھ نقل کیا ہو۔ یہ حدیث حسن بصری سے بھی کئی سندوں سے ان ہی کا قول منقول ہے۔ اس باب میں حضور ﷺ سے مروی کوئی حدیث صحیح نہیں۔ اور خارجہ ہمارے اصحاب کے نزدیک قوی نہیں۔ انہیں ابن مبارک ضعیف کہتے ہیں۔

باب ۴۴۔ الْوُضُوءُ لِكُلِّ صَلَوَةٍ

۴۹۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمِيدٍ الرَّازِي نَا مُسْلِمَةَ بِنَ الْفَضْلِ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ اسْحَقَ عَنِ حَمِيْدٍ عَنِ اَنَسِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَوَةٍ طَاهِرًا اَوْ غَيْرِ طَاهِرٍ قَالَ قُلْتُ لِاَنَسٍ فَكَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ اَنْتُمْ قَالَ كُنَّا نَتَوَضَّأُ وَضُوءًا وَّاحِدًا

باب ۴۳۔ ہر نماز کے لئے وضو کرنا۔

۴۹۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہر نماز کے لئے وضو کیا کرتے تھے با وضو ہوں یا بے وضو۔ حمید کہتے ہیں میں نے انس رضی اللہ عنہ سے کہا: آپ لوگ کس طرح کرتے تھے؟ فرمایا: ہم ایک ہی وضو کیا کرتے تھے (یعنی ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھتے تھے بشرطیکہ کوئی حدیث نہ ہو۔)

ابویسی کہتے ہیں حضرت انس کی حدیث حسن غریب ہے اور محدثین کے ہاں عمرو بن عامر کی حدیث جو کہ انس سے منقول ہے کہ بعض اہل علم کے نزدیک ہر نماز کے لیے وضو کرنا مستحب ہے واجب نہیں۔

مسئلہ: امام نووی وغیرہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ بغیر حدیث کے وضو واجب نہیں ہوتا۔

۵۰۔ حضرت عمر بن عامر انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ: نبی ﷺ ہر نماز کے لئے وضو کیا کرتے تھے۔ میں نے کہا آپ کا کیا عمل تھا؟ فرمایا: ہم ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھتے تھے بشرطیکہ ناقض پیش نہ آئے۔

۵۰۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارَةَ ابْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا نَا سَفِيَانُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ عَمْرِو بْنِ الْعَامِرِ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَوَةٍ قُلْتُ فَانْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ قَالَ كُنَّا نَصَلِّي النَّصَاوَاتِ كُلِّهَا بِوُضُوءٍ وَّاحِدٍ مَا لَمْ نُحْدِثْ

ابویسی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابن عمر کی ایک حدیث میں منقول ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جس نے با وضو ہوتے ہوئے وضو کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے دس نیکیاں لکھ دیتے ہیں اس حدیث کو افریقی نے ابو عطفیف سے انہوں نے ابن عمر اور انہوں نے حضور ﷺ سے نقل کیا ہے ہم سے اسے حسین بن حریر مروزی نے انہوں نے محمد بن یزید واسطی سے اور انہوں نے افریقی سے روایت

کیا ہے۔ اور یہ اسناد ضعیف ہے علی کہتے ہیں: یحییٰ بن سعید قطان نے کہا کہ ہشام بن عروہ سے اس حدیث کا تذکرہ کیا گیا تو فرمایا: یہ مشرقی اسناد ہے۔

توضیح: یہ حدیث ضعیف ضرور ہے لیکن مشرقی اسناد کی وجہ سے نہیں بلکہ افریقی راوی کے ضعیف ہونے کی وجہ سے ہے اسناد مشرقی سے مراد وہ سند ہے جو اہل کوفہ اور اہل بصرہ پر مشتمل ہو۔ اور اسناد مغربی اس سند کو کہتے ہیں جو اہل حجاز پر مشتمل ہو۔ امام نووی کہتے ہیں حدیث کی قوت و ضعف کا مدار اسناد کی مشرقیت یا مغربیت پر نہیں۔ (مترجم)

باب ۴۵۔ حضور ﷺ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھتے تھے۔

۵۱۔ سلیمان بن برید رضی اللہ عنہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ نبی ﷺ ہر نماز کے لئے وضو کیا کرتے تھے۔ جب مکہ فتح ہوا تو آپ ﷺ نے ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھیں اور موزوں پر مسح کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: آپ نے وہ کام کیا ہے جو پہلے نہیں کرتے تھے حضور ﷺ نے فرمایا: میں نے قصد ایسا کیا۔

باب ۴۵۔ مَا جَاءَ أَنَّهُ يُصَلِّي الصَّلَاةَ لَوْضُوءٍ وَاحِدٍ
۵۱۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ سَفْيَانَ بْنِ عُلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ صَلَّى الصَّلَاةَ كُلَّهَا بِوَضُوءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَيَّ خُفَّيْهِ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّكَ فَعَلْتَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ فَعَلْتَهُ قَالَ عَمَدًا فَعَلْتَهُ

ابویسلی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسے علی بن قادم نے بھی سفیان ثوری سے نقل کیا ہے اور اس میں یہ زیادتی کی ہے کہ آپ ﷺ نے ایک ایک مرتبہ وضو کیا۔ سفیان ثوری نے بھی یہ حدیث محارب بن دثار سے اور انہوں نے سلیمان بن بریدہ سے نقل کی ہے کہ حضور ﷺ ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے اور اسے کعب سفیان سے وہ محارب سے وہ سلیمان بن بریدہ سے اور وہ اپنے والد سے بھی نقل کرتے ہیں۔ عبدالرحمن مہدی وغیرہ سفیان سے وہ محارب بن دثار سے وہ سلیمان بن بریدہ سے اور وہ حضور اکرم ﷺ سے ”مرسلاً“ روایت کرتے ہیں۔ یہ کعب کی حدیث سے صحیح ہے۔ اہل علم کا عمل اسی پر ہے کہ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جاسکتی ہیں جب تک حدیث نہ ہو بعض بر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے اس لیے کہ یہ مستحب ہے ان کی نیت افضلیت کی ہوتی تھی۔ افریقی سے روایت کیا جاتا ہے وہ ابو عطیف سے وہ ابن عمر سے اور وہ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے با وضو ہوتے ہوئے وضو کیا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں دس نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ یہ اسناد ضعیف ہے۔ اس باب میں جابر بن عبد اللہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ظہر اور عصر ایک ہی وضو سے پڑھی۔

باب ۴۶۔ مرد و عورت کا ایک برتن سے وضو کرنا

۵۲۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میمونہ رضی اللہ عنہا نے مجھ سے بیان کیا کہ میں اور رسول اللہ ﷺ غسل جنابت میں ایک ہی برتن سے نہاتے تھے۔

باب ۴۶۔ فِي وَضُوءِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

۵۲۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ نَا سَفْيَانَ بْنِ عَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الشَّعَثَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَيْمُونَةُ قَالَتْ كُنْتُ أَعْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ

ابو عیسیٰ کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور یہی عام فقہاء کا قول ہے کہ مرد و عورت کے ایک ہی برتن سے غسل کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ اس باب میں علیؑ، عائشہؓ، ام ہانیؓ، انسؓ، ام حبیبہؓ، ام سلمہؓ اور ابن عمرؓ سے بھی احادیث منقول ہیں اور ابو الشعثاء کا نام جابر بن زید ہے۔

باب ۴۷۔ كَرَاهِيَةَ فَضْلِ طُهُورِ الْمَرْأَةِ

۵۳۔ حدثنا محمود بن غيلان نا وكيع عن سفيان

عن سليمان التيمي عن ابي حجاب عن رجل من بني غفار قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن فضل طهور المرأة

باب ۴۷۔ عورت کے وضو سے بچے ہوئے پانی کے استعمال کی کراہت
۵۳۔ بنی غفار کے ایک شخص سے منقول ہے کہ: نبی کریم ﷺ نے عورت کی طہارت سے بچے ہوئے پانی کے استعمال سے منع فرمایا۔

اس باب میں عبداللہ بن سر جسؓ سے بھی حدیث نقل کی گئی ہے۔ ابو عیسیٰ کہتے ہیں: بعض فقہاء نے عورت کے بچے ہوئے پانی کے استعمال کو مکروہ کہا ہے۔ ان میں احمد اور اسحاق بھی شامل ہیں ان دونوں کے نزدیک اس کا استعمال مکروہ ہے جب کہ اس کے جوٹھے میں کوئی مضائقہ نہیں۔

۵۴۔ حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان

قالا نا ابوداؤد عن شعبة عن عاصم قال سمعت ابا حجاب يحدث عن الحكم بن عمرو الغفاري ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة او قال بسورها

۵۴۔ حضرت حکم بن عمرو غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ نے مرد کو عورت کے طہارت سے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنے سے منع فرمایا: یا آپ نے فرمایا: اس کے جوٹھے سے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ ابو حجاب کا نام سوادۃ بن عاصم ہے۔ محمد بن بشار اپنی حدیث میں کہتے ہیں حضور ﷺ نے فرمایا کہ کوئی شخص عورت کی طہارت سے بچے ہوئے پانی سے وضو نہ کرے اس میں محمد بن بشار شک نہیں کرتے۔

باب ۴۸۔ الرُّحْصَةُ فِي ذَلِكَ

باب ۴۸۔ اس کے جواز سے متعلق۔

۵۵۔ حدثنا قتيبة نا ابو الاحوص عن سماك بن

حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حَفْنَةٍ فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ حُنْبًا فَقَالَ إِنَّ الْمَاءَ لَا يُحْنَبُ

۵۵۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن میں سے کسی نے ایک بڑے برتن سے غسل کیا۔ پھر حضور ﷺ نے اس سے وضو کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں حالت جنابت میں تھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: پانی پر تو جنابت کا اثر نہیں ہوتا۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سفیان ثوریؒ، مالکؒ اور شافعیؒ کا بھی یہی قول ہے۔

باب ۴۹ پانی کسی چیز سے ناپاک نہیں ہوتا۔

باب ۴۹۔ مَا جَاءَ أَنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ

۵۶۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ! کیا ہم بضعہ کنویں سے وضو کریں؟ وہ ایسا کنواں تھا کہ اس میں کرسف، کتے کا گوشت اور بدبودار چیزیں ڈالی جاتی تھیں۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: پانی پاک ہوتا ہے اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔

۵۶۔ حَدَّثَنَا هِنَادٌ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَلَلِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا أَنَا أَبُو اسَامَةَ عَنِ الْوَلِيِّ بْنِ كَثِيرٍ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اتَّوَضَّأُ مِنْ بَرٍّ بَضَاعَةٌ وَهِيَ بَرٌّ يُلْقَى فِيهَا الْحَيْضُ وَالْحَوْمُ الْكِلَابِ وَالتَّنُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَاءَ إِذَا طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ

امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ ابواسامہ نے اس حدیث کو بہت اچھا کہا ہے۔ ابوسعید کی بضعہ کنویں کی حدیث کسی نے بھی ابواسامہ سے بہتر روایت نہیں کی۔ یہ حدیث حضرت ابوسعیدؓ سے کئی طرق سے منقول ہے اور اس باب میں ابن عباسؓ اور عائشہؓ سے بھی احادیث نقل کی گئی ہیں۔

باب ۵۰۔ اسی سے متعلق۔

۵۷۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ سے جنگلوں کے پانی کا حکم پوچھا گیا۔ جس پر درندے اور چوپائے بار بار آتے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا: اگر پانی دو منگے کی مقدار میں ہو تو ناپاک نہیں ہوتا۔

باب ۵۰۔ مِنْهُ آخِرُ
۵۷۔ حَدَّثَنَا هِنَادٌ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اسْحَقَ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزَّبِيرِ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُسْتَلُّ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ فِي الْفُلَاةِ مِنَ الْأَرْضِ وَمَا يُنُوبُهُ مِنَ السَّبَاعِ وَالذُّوَابِ قَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ

محمد بن اسحاق کہتے ہیں قلمہ منگے کو کہتے ہیں جو پینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے امام ترمذی کہتے ہیں یہ شافعی، احمد اور اسحاق کا قول ہے کہ اگر پانی دو منگلوں کے برابر ہو تو وہ اس وقت تک ناپاک نہیں ہوتا جب تک اس کی بویا ذائقہ تبدیل نہ ہو یہ حضرات کہتے ہیں کہ قلیںس پانچ منگلوں کے برابر ہوتے ہیں۔

مسئلہ: حنفیہ کے نزدیک ماء قلیل وقوع نجاست سے ناپاک ہو جاتا ہے جب کہ ماء کثیر (جس کی مقدار وہ درودہ ہو یا اگر پانی کے ایک کنارے کو حرکت دی جائے تو دوسرے کنارے میں حرکت پیدا نہ ہو) (۱) ناپاک نہیں ہوتا۔ ان کے دلائل مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) عشرینی عشر (وہ درودہ) کی تحدید ائمہ مذہب سے منقول نہیں لیکن متأخرین نے عامۃ الناس کی سہولت کے لیے اس کو اختیار کیا ہے جب کہ دوسرا قول امام قدوری نے ذکر کیا ہے لیکن ماء کثیر میں علماء کا مسلک یہ ہے کہ اس کا مدار معتدلی بہ کی رائے پر ہے۔

(۱)..... حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ”لا یبولن احدکم فی الماء الدائم ثم یتوضأ منه (تم میں سے کوئی رکے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے اور پھر اس سے وضو کرے)۔

(۲)..... حضرت جابرؓ کی روایت ”نہی رسول اللہ ان ینال فی الماء الراکد“ یعنی آپ ﷺ نے جمع شدہ پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔

(۳)..... عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا استیقظ احدکم من منام فلا یغمس یدہ فی الاناء حتی یفرغ علیہا مرتین او ثلاثاً۔

(تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہونے کے بعد اپنا ہاتھ دو یا تین مرتبہ دھونے سے پہلے پانی کے برتن میں نہ ڈالے)۔
ان تینوں حدیثوں میں حضور اکرم ﷺ نے بغیر تحدید قلتین اور بغیر تغیر وصف کے پانی پر نجاست کا حکم لگایا ہے۔ یہ تمام احادیث صحیح ہیں اور پہلی حدیث اصح مانی الباب ہے لہذا نجاست بہر صورت موجب خبث ہے اس میں نہ تغیر اوصاف کی قید ہے اور نہ قلتین سے کم ہونے کی۔ مقدار کثیر اس سے مستثنیٰ ہے۔ جس کی دلیل سمندر کے پانی سے وضو وغیرہ کی احادیث ہیں۔ جن سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ پانی کثیر ہو تو وقوع نجاست سے نجس نہیں ہوتا۔ چونکہ قلیل و کثیر کی کوئی تحدید قابل اطمینان طریقے سے ثابت نہیں لہذا امام ابوحنیفہؒ نے اس تعیین کو رائے مبتنی بہ پر چھوڑا ہے۔

جہاں تک حدیث قلتین کا تعلق ہے حنفیہ کی طرف سے اس کی متعدد توجیہات کی گئی ہیں جن میں سے دو حسب ذیل ہیں۔
۱: حدیث پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں پانی سے مراد ایک مخصوص پانی ہے جو مکہ اور مدینہ کے راستے میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ جو پہاڑی چشموں کا پانی ہوتا ہے اور اپنے معدن سے نکل کر نالیوں سے بہہ کر چھوٹے چھوٹے گڑھوں میں جمع ہو جاتا ہے اس کی مقدار عموماً قلتین سے زائد نہیں ہوتی لیکن یہ پانی جاری ہوتا ہے اسی کے بارے میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ نجس نہیں ہوتا۔ اس کی تائید حدیث کے ابتدائی جملے سے ہوتی ہے کہ آپ ﷺ سے جنگوں کے پانی کا حکم پوچھا گیا، اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہاں گھروں میں پائے جانے والے پانی کے بارے میں سوال نہیں ہو رہا بلکہ صحراؤں کے پانی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ پانی جاری تھا تو قلتین کی تحدید کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تحدید نہیں بلکہ بیان واقعہ ہے اور شاید اس کا منشا یہ بھی ہو کہ قلتین سے کم پانی میں جاری ہونے کے باوجود تغیر پیدا ہونے کا امکان ہے۔

دوسری توجیہ یہ ہے کہ حنفیہ کے نزدیک مدار غلوص اثر نجاست پر ہے۔ اگر کسی مقام پر مبتلی بہ کو یہ یقین حاصل ہو کہ قلتین کی مقدار میں غلوص نجاست نہیں ہوتا تو اس سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔

پھر چند وجوہ کی بنا پر حدیث قلتین کو مقادیر شرعیہ کے باب میں تحدید و تشریح کا مقام نہیں دیا جاسکتا جو مندرجہ ذیل ہیں۔
۱: یہ امر مسلم ہے کہ حجاز میں پانی بہت کم یاب تھا اور وہاں پانی کی نجاست و طہارت کے مسائل بکثرت پیش آتے رہتے تھے۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ اگر آنحضرت ﷺ نے قلت و کثرت کی کوئی حد مقرر فرمائی ہوتی تو صحابہ کرامؓ میں یہ مقدار نہایت معروف مشہور ہونی چاہیے تھی۔ لیکن ایسا نہیں ہے صحابہ کرامؓ کی اتنی بڑی تعداد میں سے اس حدیث کو روایت کرنے والے

سوائے ایک کس صحابی یعنی عبداللہ بن عمرؓ کے اور کوئی نہیں ہے یہ مسئلہ مقادیر شرعی سے متعلق ہے جن کے ثبوت کے لیے انتہائی مضبوط اور غیر محتمل دلائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ حدیث قلتین کو ضعیف نہ بھی کہا جائے تب بھی اس کا درجہ حسن سے اوپر نہیں جاتا جب کہ حنفیہ نے اس سلسلے میں جن احادیث سے استدلال کیا ہے وہ صحت کے اعلیٰ مقام پر ہیں اور حدیث قلتین ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔

۲: دوسرے صحابہ کرامؓ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ انہوں نے قلتین کو قلت و کثرت کا معیار بنایا ہو بلکہ اس ترک تقدیر پر صحابہ کا اجماع معلوم ہوتا ہے جس کی دلیل یہ ہے کہ زمزم کے کنویں میں ایک مرتبہ ایک حبشی گر گیا تو کنویں کا پورا پانی نکالا گیا۔ حالانکہ پانی میں اثر بھی ظاہر نہیں ہوا تھا اور بلاشبہ یہ پانی قلتین سے بہت زیادہ تھا۔ یہ عمل صحابہ کے مجمع میں پیش آیا اور کسی صحابی نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا لہذا یہ اجماع کے مثل ہے لہذا اس مسئلے میں راجح مسلک حنفیہ ہی کا ہے۔ (مترجم)

باب ۵۱۔ رُکے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا مکروہ ہے۔

باب ۵۱۔ كَرَاهِيَةَ الْبُولِ فِي الْمَاءِ الرَّائِدِ

۵۸۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی رُکے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے جس سے اسے وضو کرنا ہو۔

۵۸۔ حدثنا محمود بن غيلان نا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں جابرؓ سے بھی روایت ہے۔

باب ۵۲۔ سمندر کا پانی پاک ہے

باب ۵۲۔ مَا جَاءَ فِي الْمَاءِ الْبَحْرِيَّةِ طَهُورٌ

۵۹۔ صفوان بن سلیم، سعید بن سلمہ (جو ابن ازرق کی اولاد میں سے ہیں) کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ مغیرہ بن ابی بردہ (جو بنی عبدالدار میں سے ہیں) انہوں نے بتایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو رسول اللہ ﷺ سے سوال کرتے ہوئے سنا کہا یا رسول اللہ ﷺ! ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ تھوڑا سا پانی رکھتے ہیں۔ اگر اس سے وضو کر لیں تو پیا سے رہ جائیں۔ کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس کا پانی پاک اور اس کا مُردار حلال ہے۔

۵۹۔ حدثنا قتيبة عن مالك ح وحدثنا الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من ابن ابي ازرع ان المغيرة بن ابي بردة وهو بنو عبد الدار اخبره انه سمع ابا هريرة يقول قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ اِنَّا نَرَكِبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَاِنْ تَوَضَّأْنَا بِهٖ عَطِشْنَا فَاَنْتَوَضَّأْنَا مِنَ الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ هُوَ الطَّهْوَرُ مَاءٌ هٗ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ

اس باب میں جابرؓ اور فراسیؓ سے بھی روایت ہے۔ ابو عیسیٰ کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور یہی اکثر فقہاء صحابہ کا قول ہے کہ سمندر کے پانی سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ان میں ابو بکرؓ، عمرؓ اور ابن عباسؓ شامل ہیں جب کہ بعض صحابہ کے نزدیک مکروہ ہے ان میں ابن عمرؓ اور عبداللہ بن عمروؓ بھی شامل ہیں۔ عبداللہ بن عمروؓ کہتے ہیں وہ آگ ہے۔

مسئلہ: اس حدیث سے کئی مسائل متعلق ہیں جن میں سے ایک سمندری جانوروں کی حلت اور دوسرے مسک طانی (مردہ مچھلی) کا ہے۔ اول الذکر میں احناف کا مسلک یہ ہے کہ مچھلی کے علاوہ تمام جانور حرام ہیں۔ اس کے لیے احناف مندرجہ ذیل دلائل پیش کرتے ہیں۔ ان کی پہلی دلیل قرآن کریم کی آیت ہے۔

۱: ”وَيَحْرَمُ عَلَيْهِمُ الْحَيَاثُ“ یعنی خباث ان پر حرام کیے گئے۔ خباث سے مراد وہ جانور ہیں جن سے طبیعت انسانی گھن کرتی ہے اور مچھلی کے علاوہ تمام پانی کے جانور ایسے ہیں جن سے گھن آتی ہے۔

۲: ارشاد باری تعالیٰ ہے ”حُرْمَتُ عَلَیْکُمُ الْمِیْتَةُ“ یعنی تم پر مردار حرام کیا گیا اس سے وہ مردار مستثنیٰ ہے جس کی تخصیص دلیل شرعی سے ہوتی ہو۔

۳۔ ابوداؤد ابن ماجہ، دارقطنی اور بیہقی وغیرہ میں مشہور حدیث ہے جو مرفوع بھی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا ”احلت لنا میتتان و دمان فاما المیتان فالجراد والحوت“..... الخ یعنی ہمارے لیے دو مردار اور دو خون حلال ہیں۔ مردار مچھلی اور ٹڈی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ وہ جانور جن میں دم سائل نہیں ہوتا ان کی صرف دو قسمیں حلال ہیں اور چونکہ سمندر کے دوسرے جانور ان دو قسموں میں داخل نہیں لہذا وہ حرام ہیں۔

۴۔ حنفیہ کی چوتھی اور اہم ترین دلیل یہ ہے کہ حضور ﷺ کی پوری حیات طیبہ میں آپ ﷺ سے اور آپ ﷺ کے صحابہ کرامؓ سے ایک مرتبہ بھی مچھلی کے علاوہ کسی اور پانی کے جانور کا کھایا جانا ثابت نہیں اگر یہ حلال ہوتے تو کبھی نہ کبھی آپ ﷺ بیان جواز ہی کے لیے سہی ضرورتاً فرماتے یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ حلال نہیں ہیں۔

احناف حدیث باب کے متعلق کہتے ہیں کہ میتہ میں اضافت استغراق کے لیے نہیں بلکہ عہد خارجی کے لیے ہے۔ لہذا اس حدیث کا مقصد یہ ہوا کہ سمندر کے وہ مخصوص مردار حلال ہیں جن کے جواز میں نص موجود ہے اور وہ مچھلی ہے۔ اگر فرض کر لیا جائے کہ اضافت استغراق کے لیے ہی ہے۔ تو اکل سے مراد یہاں حلال ہونا نہیں بلکہ ظاہر ہونا ہے جو کہ کلام عرب میں بکثرت اسی معنی میں استعمال ہوتا جس کی دلیل یہ بھی ہے کہ سلسلہ کلام طہارت ہی سے چلا آ رہا ہے صحابہ کرامؓ کو شبہ تھا کہ سمندر میں مرنے والا جانور ناپاک ہو جاتا ہے اس شبہ کو ختم کرنے کے لیے آپ ﷺ نے فرمایا: سمندر کا میتہ ظاہر ہوتا ہے۔

دوسرا مسئلہ مسک طانی کا ہے اس سے مراد وہ مچھلی ہے جو پانی میں طبعی موت مر کر الٹی ہو گئی ہو۔ حنفیہ اس کی حرمت کے قائل ہیں۔ ان کا استدلال ابوداؤد اور ابن ماجہ میں مذکور حضرت جابرؓ کی روایت سے ہے ”قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما لقی جزء منه فکلوه و ملمات فیہ و طفا فلا تأکلوه“۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جسے سمندر پھینک دے یا چھوڑ کر چلا جائے اسے کھا لو اور جو پانی ہی میں مر کر الٹی ہو جائے اسے مت کھاؤ۔ امام ابوداؤد نے یہ روایت مرفوعاً و موقوفاً

دونوں طرح روایت کی ہے راجح یہی ہے کہ یہ مرفوع ہے۔ امام بیہقی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے اور اس کی وجہ ابن سلیم کا ضعف بیان کیا ہے یہ صحیح نہیں کیونکہ ابن سلیم صحیحین کے راوی ہیں۔

اس کے علاوہ حنفیہ کے مسلک کی تائید آیت قرآنی ”حرمت علیکم المیتہ“ سے بھی ہوتی ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۵۳۔ پیشاب سے شدت احتیاط کا حکم۔

باب ۵۳۔ التَّشْدِيدُ فِي الْبَوْلِ

۶۰۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ دو قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور عذاب کی وجہ کوئی بڑا گناہ نہیں۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے تو یہ پیشاب کرتے وقت چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا جب کہ دوسرا چغلوخوری کرتا پھرتا تھا۔

۶۰۔ حَدَّثَنَا هِنَادٌ وَقَتِيْبَةُ وَأَبُو كَرِيْبٍ قَالُوا نَا وَكَعْبٌ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ مَجَاهِدَ يَحْدُثُ عَنِ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيْرٍ أَمَّا هَذَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيْمَةِ

اس باب میں زید بن ثابتؓ، ابو بکرؓ، ابو ہریرہؓ، ابو موسیٰؓ اور عبدالرحمن بن حسنہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ منصور نے یہ حدیث مجاہد سے اور انہوں نے ابن عباسؓ سے نقل کی ہے۔ لیکن اس میں طاووس کا ذکر نہیں کیا جب کہ اعمش کی روایت صحیح ہے۔ ابو بکر محمد بن ابان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ابراہیم کی اسناد میں اعمش، منصور سے احفظ ہیں۔ (یعنی زیادہ یاد رکھنے والے ہیں)۔

باب ۵۴۔ دودھ پیتا بچہ جب تک کھانا نہ کھائے اس کے پیشاب پر پانی چھڑکنا کافی ہے

باب ۵۴۔ مَا جَاءَ فِي نَضْحِ بَوْلِ الْغُلَامِ قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ

۶۱۔ ام قیس بنت محسن رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں اپنے بیٹے کو لے کر حضور ﷺ کے پاس گئی اس نے ابھی تک کھانا کھانا شروع نہیں کیا تھا تو اس نے آپ ﷺ کے جسم مبارک پر پیشاب کر دیا چنا نچہ آپ ﷺ نے پانی منگوا یا اور اس پر چھڑک دیا۔

۶۱۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ وَاحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَا نَا سَفِيَانُ بْنُ عِيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ قَالَتْ دَخَلْتُ بَابِنِ لِيْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَسَّهُ عَلَيْهِ

اس باب میں علیؓ، عائشہؓ، زینبؓ، لباہہؓ بنت حارثؓ، یہ فضل بن عباسؓ بن عبدالمطلب کی والدہ ہیں۔ ابوالسج، عبداللہ بن عمرو، ابولیلیؓ اور ابن عباسؓ سے بھی حدیثیں نقل کی گئی ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں: کہ لڑکے کے پیشاب پر پانی بہایا جائے اور لڑکی کے پیشاب کو دھویا جائے۔ اور یہ اس صورت میں ہے کہ دونوں ابھی کھانا نہ کھاتے ہوں۔ اگر کھانا کھانے لگیں تو دونوں کا پیشاب دھویا جائے گا۔

مسئلہ: امام ابوحنیفہؒ کا مسلک یہ ہے کہ دونوں کا پیشاب دھویا جائے۔ البتہ دودھ پیتے لڑکے میں زیادہ مبالغہ ضروری نہیں تھوڑا دھونا ہی کافی ہے۔

حنفیہ ان احادیث سے استدلال کرتے ہیں جن میں پیشاب سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے یہ احادیث عام ہیں کسی خاص پیشاب کی تخصیص نہیں کرتیں۔ پھر لڑکے ہی کے پیشاب سے متعلق حدیث میں ”صب علیہ الماء“ یعنی اس پر پانی بہایا اور ”اتبعہ الماء“ کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ ”صب“ کے معنی غسل خفیف کے بھی آتے ہیں۔ اور ”اتبعہ الماء“ (یعنی اس پر پانی بہایا) یہ دونوں لفظ غسل پر صراحت دلالت کرتے ہیں۔ حضرات حنفیہ حضرت عائشہؓ سے منقول حدیث ”فقال صبوا علیہ الماء صبا“ یعنی آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس پر خوب پانی بہاؤ“ سے بھی استدلال کرتے ہیں جو لڑکے کے پیشاب کو دھونے پر صراحت کے ساتھ دلالت کرتی ہے۔

ان وجوہات کی بناء پر امام صاحب فرماتے ہیں کہ احادیث میں مذکور ”نضح“ اور ”رش“ کے الفاظ سے وہ معنی مراد لیے جائیں جو دوسری روایات کے مطابق ہوں اور وہ معنی ہیں غسل خفیف یعنی ہلکا دھونا۔ پھر یہی الفاظ جہاں چھیننے مارنے کے معنی میں آتے ہیں اسی طرح غسل خفیف کے معنی میں بھی آتے ہیں۔ لہذا حنفیہ ان الفاظ کے معنی غسل خفیف کے اس لیے لیتے ہیں کہ مختلف روایات میں تطبیق ہو جائے۔ البتہ یہ مسلم ہے کہ لڑکی کے پیشاب کو اچھی طرح دھویا جائے گا اور لڑکے کے پیشاب میں غسل خفیف ہی کافی ہوگا۔ (مترجم)

باب ۵۵۔ مَا جَاءَ فِي بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ

باب ۵۵۔ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کے پیشاب کا حکم۔

۶۲۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عربینہ کے کچھ لوگ مدینہ منورہ آئے۔ انہیں مدینہ کی آب و ہوا موافق نہیں آئی تو حضور ﷺ نے انہیں زکوٰۃ کے اونٹوں کے باڑے میں بھیج دیا اور فرمایا: ان کا دودھ اور پیشاب پو لیکن انہوں نے حضور ﷺ کے چرواہے کو قتل کر دیا، اونٹوں کو ساتھ لے گئے اور خود اسلام سے مرتد ہو گئے۔ جب انہیں حضور ﷺ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ ﷺ نے ان کے ہاتھ اور پاؤں خلاف سے (یعنی دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں پاؤں اور دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں پاؤں) کاٹنے اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیں پھیرنے کا حکم دیا۔ اور ان کو ”حرۃ“ (۱)

۶۲۔ حدثنا الحسن بن محمد الزعفرانی ناعفان بن مسلم نا حماد بن سلمة انا حميد وقتادة و ثابت عن انس ان نا سا من عربينة قدموا المدينة فاجتووها فبعنهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في ابل الصدقة وقال اشربوا من لبنائها و ابوالها فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واستافوا الابل وارتدوا عن الاسلام فاتي بهم النبي صلى الله عليه واله وسلم فقتلهم وارتجلهم من خلاف وسمر اعينهم والقاهم بالحرۃ

(۱) حرۃ: ایسی پتھر تو میں کو کہتے ہیں جس میں بڑے بڑے سیاہ پتھر زمین پر ابھرے ہوئے ہوں۔ مدینہ میں مشرق اور مغرب میں دو ایسے قطعے تھے۔ جنہیں الحرۃ الشرفیۃ اور الحرۃ الغربیۃ کہا جاتا ہے۔ (مترجم)

قَالَ أَنَسٌ فَكُنْتُ أَرَى أَحَدَهُمْ يَكِدُّ الْأَرْضَ بِفِيهِ
حَتَّى مَاتُوا وَرُبَّمَا قَالَ حَمَادٌ يَكْدُمُ الْأَرْضَ بِفِيهِ
حَتَّى مَاتُوا

میں ڈال دیا گیا حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے
دیکھا کہ ان میں سے ہر ایک خاک چاٹ رہا تھا، یہاں تک کہ
سب مر گئے۔ بعض اوقات حماد ”یکدم الارض بفيہ حتی
ماتوا“ کے الفاظ بیان کرتے تھے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت انسؓ سے یہ کئی سندوں سے منقول ہے۔ اکثر اہل علم کا بھی یہی قول ہے
کہ حلال جانوروں کے پیشاب میں کوئی مضا لفقہ نہیں۔

مسئلہ: حدیث میں دو فقہی مسئلے ہیں: حلال جانوروں کے پیشاب کا حکم اور دوسرا حرام چیز کو بطور دوا استعمال کرنا۔
اول الذکر میں امام ابوحنیفہؒ کا مسلک یہ ہے کہ وہ ناپاک ہے لیکن امام صاحب اسے نجاست خفیفہ قرار دیتے ہیں۔ اس لیے کہ
علماء وفقہاء کا اختلاف احکام میں تخفیف کا باعث ہوتا ہے حنفیہ اپنے مسلک پر حدیث ”استنزهوا من البول فان عامة عذاب
القبور منه“ (یعنی پیشاب سے بچو کیونکہ عموماً قبر کا عذاب اسی وجہ سے ہوتا ہے) سے استدلال کرتے ہیں۔

ان کا دوسرا استدلال ترمذی کی حدیث نمبر ۶۱ سے ہے کہ حضور ﷺ دو قبروں کے پاس سے گزرے..... الخ
یہ دونوں احادیث عام اور شامل ہیں ان میں کسی پیشاب کی تخصیص نہیں مطلقاً پیشاب سے احتیاط کا حکم ہے۔
جب دو روایتیں متعارض ہو جائیں تو قیاس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے تاکہ تعارض دور کیا جاسکے۔ چنانچہ قیاس حنفیہ کے
مسلک کو ترجیح دیتا ہے۔ اس لئے کہ حلال جانور کے پیشاب اور حرام جانور کے پیشاب کوئی فرق نہیں۔ اگر ایک ناپاک ہے تو دوسرا
بھی۔

پھر حدیث ”استنزهوا من البول.....“ قولی اور محرم ہے اور اصول قاعدے کے مطابق محرم کو احتیاط کے طور پر ترجیح دی
جائے گی۔ جب کہ حنفیہ حدیث باب کے متعدد جوابات دیتے ہیں۔

- ۱۔ حضور ﷺ کو وحی کے ذریعے خبر دی گئی ہو کہ ان کی شفاء اسی میں ہے۔
- ۲۔ آنحضرت ﷺ نے انہیں پیشاب پینے کا حکم نہ دیا ہو بلکہ اس کے خارجی استعمال کا حکم دیا ہو۔
- ۳۔ یا آپ ﷺ کو اس کا علم ہو کہ وہ درحقیقت کفار ہیں جیسے کہ بعد میں وہ مرتد ہو گئے۔

دوسرا مسئلہ: حرام چیزوں کا بطور دوا استعمال: اگر اضطراری حالت ہو تو اس کا استعمال جائز ہے اور اگر جان کا خطرہ نہ ہو تو

اختلاف ہے۔ (مترجم)

۶۳۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے
ان کی آنکھیں اس لئے پھوڑیں کہ انہوں نے بھی حضور ﷺ کے
چرواہوں کی آنکھیں پھوڑی تھیں۔

۶۳۔ حدثنا الفضل بن سهل الا عرج نا
يحيى بن غيلان نا يزيد بن زريع نا سليمان
التيمي عن أنس بن مالك قال إنما سَمَل
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَعْيُنَهُمْ لِأَنَّهُمْ

سَمَلُوا أَعْيُنَ الرُّعَاةِ

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث غریب ہے اس لیے کہ ہمارے علم میں نہیں کہ یحییٰ بن غیلان کے علاوہ کسی اور نے یزید بن زریع سے روایت کی ہو۔ اور یہ آنکھوں میں سلاخیں پھروانا قرآنی حکم ”والجروح“ قصاص کے مطابق تھا۔ محمد بن سیرین سے منقول ہے کہ حضور ﷺ کا فعل حدود کے نازل ہونے سے پہلے تھا۔

باب ۵۶۔ ہوا کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔

باب ۵۶۔ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مِنَ الرِّيحِ

۶۴۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وضو کرنے کی اس وقت تک ضرورت نہیں جب تک بونہ آئے یا آواز نہ ہو۔

۶۴۔ حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ وَهْنَادُو نَا وَكَيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَهِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا وَضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتِ أَوْ رِيحٍ

ابویسی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

مسئلہ: خروج ہوا کے تین کی صورت میں باجماع وضو ٹوٹ جاتا ہے (مترجم)

۶۵۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی مسجد میں ہو اور خروج ہوا کا اشتباہ ہو جائے تو اس وقت تک نہ نکلے جب تک آواز نہ سنے یا بونہ نہ آئے۔

۶۵۔ حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ نَا عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ رِيحًا بَيْنَ الْبَيْتَيْنِ فَلَا يَخْرُجُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

۶۶۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تم میں سے کسی کو حدث (نقص وضو) ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کی نماز قبول نہیں فرماتے، جب تک وضو نہ کر لے۔

۶۶۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ نَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ نَا مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اس باب میں عبد اللہ بن زید، علی بن طلق، عائشہ، ابن عباس اور ابو سعید رضی اللہ عنہم سے بھی حدیثیں منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور یہی علماء کا قول ہے کہ وضو اس وقت تک واجب نہیں ہوتا جب تک حدث نہ ہو اور وہ آواز نہ سنے یا بونہ نہ آئے۔ ابن مبارک کہتے ہیں: اگر شک ہو تو وضو واجب نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس حد تک یقین ہو جائے کہ اس پر قسم کھا سکے، اور کہتے ہیں: کہ اگر عورت کی قبل سے ریح نکلے، تو بھی اس پر وضو واجب ہے۔ شافعی اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

مسئلہ: حنفیہ کے نزدیک ریح قبل سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ شیخ ابن الہمام کہتے ہیں یہ درحقیقت ریح ہی نہیں ہوتی بلکہ یہ محض عضلات کا اختلاف ہوتا ہے جو ناقض وضو نہیں۔ (مترجم)

باب ۵۷۔ الْوُضُوءُ مِنَ النَّوْمِ

باب ۵۷۔ نیند سے وضو ٹوٹنے کا حکم۔

۶۷۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کو دیکھا کہ سجدے میں سوئے ہوئے تھے یہاں تک کہ خراٹے لینے لگے یا فرمایا: لبے لبے سانس لینے لگے۔ پھر کھڑے ہوئے اور نماز پڑھنے لگے میں نے کہا: یا رسول اللہ! آپ تو سو گئے تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: وضو لیٹ کر سونے پر واجب ہوتا ہے۔ اس لئے کہ لیٹ جانے جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔

۶۷۔ حدثنا اسمعيل بن موسى وهنادو محمد بن عبیدالمحاربي المعنى واحد قالوا نا عبدالسلام بن حرب عن ابى خالد الدالانى عن قتادة عن ابى العالیة عن ابن عباس انه رأى النبى صلى الله عليه وآله وسلم نام وهو ساجد حتى غط أو نفخ ثم قام يصلى فقلت يا رسول الله صلى إذا وضعت استرحت مفاصله

امام ترمذی کہتے ہیں کہ ابو خالد کا نام یزید بن عبد الرحمن ہے۔ اس باب میں عائشہ، ابن مسعود اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے بھی

احادیث منقول ہیں۔

۶۸۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کے صحابہ کو نیند آ جایا کرتی تھی۔ پھر اٹھ کر نماز پڑھ لیتے اور وضو نہ کرتے۔

۶۸۔ حدثنا محمد بن بشار نا يحيى ابن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون

امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے میں نے صالح بن عبد اللہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے ابن مبارک سے اس شخص کے متعلق پوچھا جو بیٹھے بیٹھے سہارا لے کر سو جائے؟ کہنے لگے: اس پر وضو واجب نہیں۔ کہتے ہیں: ابن عباس کی حدیث، سعید بن ابی عروبہ نے قتادہ سے اور انہوں نے ابن عباس سے انہی کا قول نقل کیا ہے اور اس میں ابو العالیہ کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی اسے مرفوع کیا ہے۔ نیند سے وضو کے واجب ہونے میں علماء کا اختلاف ہے۔ اکثر علماء جن میں ابن مبارک، سفیان ثوری اور امام احمد شامل ہیں، کا قول یہ ہے کہ اگر بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر سوئے تو وضو واجب نہیں یہاں تک کہ لیٹ کر سوئے جب کہ بعض کہتے ہیں اگر اس کی عقل پر نیند غالب ہو جائے تو وضو واجب ہے یہ اسحاق کا قول ہے۔ شافعی کہتے ہیں: اگر کوئی بیٹھ کر سوتے ہوئے خواب دیکھے یا نیند کے غلبے کی وجہ سے مقعد اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو وضو واجب ہے۔

توضیح: ائمہ اربعہ اور جمہور کا مسلک یہ ہے کہ اگر نیند غالب ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے ورنہ نہیں۔ اور نیند سے مراد جوڑوں کا ڈھیلا پڑ جانا ہے۔ پھر جمہور حضرت انس سے مروی حدیث نمبر ۶۸ کے جواب میں کہتے ہیں کہ اگلے مراد وہ نیند ہے جو غالب نہ ہو جس کی دلیل اس روایت کے بعض طرق میں بہ تصریح ملتی ہے کہ یہ نیند عشاء کی نماز کے انتظار میں تھی۔ نیز مسند بزار میں اسی روایت میں یہ الفاظ

مروی ہیں ”فمنہم من یتوضأ ومنہم من لا یتوضأ“ یعنی ان میں کچھ وضو کرتے اور کچھ نہ کرتے تھے۔ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن کی نیند گہری اور غالب ہوتی تھی وہ وضو کرتے تھے۔ بصورت دیگر نہیں۔ (مترجم)

باب ۵۸۔ الوُضوءُ مِمَّا عَيَّرَتِ النَّارُ

باب ۵۸۔ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو کا حکم

۶۹ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: آگ پر پکی ہوئی چیز کے کھانے سے وضو واجب ہو جاتا ہے چاہے وہ قروت (۱) کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا: کیا ہم تیل کھانے اور گرم پانی کے استعمال کے بعد بھی وضو کیا کریں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بھتیجے جب حضور ﷺ سے منقول حدیث سنو تو اس کے لئے مثالیں نہ دو۔

۶۹۔ حدثنا ابن ابی عمر نا سفیان بن عیینة عن محمد بن عمرو عن ابی سلمة عن ابی ہریرة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْوُضوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ وَتَوَمَّنُ تَوْرَ اقْطُ قَالَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ اَنْتَوَضُّا مِنَ الدَّهْنِ اَنْتَوَضُّا مِنَ الْحَمِيمِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَا بَنَ اُحْبِي اِذَا سَمِعْتَ حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَضْرِبْ لَهُ مَثَلًا

اس باب میں ام حبیبہ، ام سلمہ، زید بن ثابت، ابو طلحہ، ابویوب اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہم بھی احادیث بیان کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ بعض علماء کے نزدیک آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جب کہ اکثر علماء صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کا مسلک یہ ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔

باب ۵۹۔ فِی تَرْكِ الْوُضوءِ مِمَّا عَيَّرَتِ النَّارُ

باب ۵۹۔ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔

۷۰۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نکلے اور میں آپ ﷺ کے ساتھ تھا۔ پھر ایک انصاری عورت کے ہاں تشریف لے گئے اس نے آپ ﷺ کے لئے ایک بکری ذبح کی۔ آپ ﷺ نے کھانا کھایا۔ پھر وہ ایک پلیٹ میں کھجیاں لائی۔ آپ ﷺ نے اس سے بھی کھجوریں کھائیں۔ پھر ظہر کے لئے وضو کیا اور نماز پڑھی پھر واپس آئے تو وہ اس میں سے بچا ہوا گوشت لے کر دوبارہ حاضر ہوئی۔ آپ ﷺ نے کھایا پھر عصر کی نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔

۷۰۔ حدثنا ابن ابی عمر نا سفیان بن عیینة نا عبد الله بن محمد بن عقيل سمع جابرا قال سفیان وحدثنا محمد بن المنکدر عن جابر قال خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَذَبَحَتْ لَهُ شَاةً فَأَكَلَ وَأَتَتْهُ بِقِنَاعٍ مِنْ رُطْبٍ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ تَوَضَّأَ لِلظُّهْرِ وَصَلَّى ثُمَّ أَنْصَرَفَ فَأَتَتْهُ بِعَلَالَةٍ مِنْ عُلَالَةِ الشَّاةِ فَأَكَلَ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ وَكَمْ يَتَوَضَّأُ

اس باب میں حضرت ابو بکرؓ سے بھی حدیث منقول ہے۔ لیکن ان کی حدیث اسناد کے اعتبار سے صحیح نہیں۔ اس لیے کہ اسے حسام بن مصک نے ابن سیرین سے انہوں نے ابن عباسؓ سے انہوں نے ابو بکرؓ سے اور انہوں نے نبی ﷺ سے نقل کیا ہے جب کہ صحیح یہ ہے کہ ابن عباسؓ حضور ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ حفاظ حدیث اسی طرح نقل کرتے ہیں اور یہ ابن سیرین سے کئی طرق سے منقول ہے وہ ابن عباسؓ سے اور وہ نبی ﷺ سے نقل کرتے ہیں عطاء بن یسار، عکرمہ، محمد بن عمرو بن عطاء، علی بن عبد اللہ بن عباس اور کئی حضرات ابن عباسؓ

(۱) قروت پخیر کو کہتے ہیں۔ دراصل ”قروت“ ترکی اور فارسی کا لفظ ہے۔ (مترجم)

سے اور وہ حضور ﷺ سے یہ حدیث نقل کرتے ہوئے اس میں ابو بکر کا ذکر نہیں کرتے اور یہی زیادہ صحیح ہے۔ اس باب میں ابو ہریرہؓ، ابن مسعود، البورانی، ام الحکم، عمرو بن امیہ، ام عامر، سوید بن نعمان اور ام سلمہ رضی اللہ عنہم سے بھی حدیثیں نقل کی جاتی ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں: صحابہ، تابعین اور تبع تابعین میں سے اکثر اہل علم اسی پر عمل کرتے ہیں۔ جیسے کہ سفیان، ابن مبارک، شافعی اور اسحاق۔ ان سب کے نزدیک آگ پر پکے ہوئے کھانے سے وضو واجب نہیں ہوتا۔ یہی حضور ﷺ کا آخری عمل ہے۔ چنانچہ یہ حدیث پچھلی حدیث کو منسوخ کرتی ہے جس میں آگ پر پکے ہوئے کے تناول سے وضو کا حکم دیا گیا تھا۔

توضیح: ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث میں مذکور واقعہ میں آپ ﷺ کا ظہر کے لیے وضو فرمانا کسی حدیث کی وجہ سے تھا نہ کہ کھانے کی وجہ سے (مترجم)

باب ۶۰۔ الْوُضُوءُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ

باب ۶۰۔ اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو کا حکم

۷۱۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ أَبِي مَعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ فَقَالَ تَوَضَّأُوا مِنْهَا وَ سَأَلَ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ فَقَالَ لَا تَتَوَضَّأُوا مِنْهَا

۷۱۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کے متعلق دریافت کیا گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس سے وضو کیا کرو۔ پھر بکری کے گوشت کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا: اس سے وضو کی ضرورت نہیں۔

اس باب میں جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ اور اسید بن حنظل سے بھی حدیثیں منقول ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حجاج بن ارطاة نے عبد اللہ سے انہوں نے عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ سے اور انہوں نے اسید بن حنظل سے نقل کی ہے اور عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ کی براء بن عازب سے منقول حدیث صحیح ہے۔ یہی احمد اور اسحاق کا قول ہے۔ عبیدہ الضحیٰ بھی عبد اللہ بن عبد اللہ رازی سے وہ عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ سے اور وہ ذوالقرنہ سے یہی حدیث نقل کرتے ہیں۔ حماد بن سلمہ اس حدیث کو حجاج بن ارطاة کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے غلطی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں: عبد اللہ بن عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ سے روایت ہے وہ اپنے والد سے اور وہ اسید بن حنظل سے نقل کرتے ہیں جب کہ صحیح یہ ہے کہ عبد اللہ بن عبد اللہ، عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ سے اور وہ براء بن عازب سے روایت کرتے ہیں۔ اسحاق کہتے ہیں: اس باب میں آپ ﷺ سے منقول دو حدیثیں زیادہ صحیح ہیں۔ براء بن عازب کی اور جابر بن سمرہ کی۔

مسئلہ: جمہور کا مسلک یہاں بھی یہی ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو واجب نہیں۔ اور حدیث میں وضو سے مراد ہاتھ منہ دھونا ہے اور یہ بھی استحباب کے لیے ہے۔ علامہ عثمانی فتح الملہم میں کہتے ہیں کہ اس معاملے میں بھی احکام بتدریج آئے ہیں پہلے مطلقاً آگ پر پکے ہوئے کے کھانے پر وضو کا حکم دیا پھر اونٹ کے گوشت پر، اس کے بعد یہ تمام احکام منسوخ ہو گئے۔ (مترجم)

باب ۶۱۔ الْوُضُوءُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

باب ۶۱۔ عضو خاص کو چھونے سے وضو واجب ہو جاتا ہے۔

۷۲۔ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ نَا يَحْيَىٰ بْن سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

۷۲۔ حضرت ہشام بن عروہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد بسرہ بنت صفوان سے نقل کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے اپنے عضو خاص کو چھوا وہ وضو کے بغیر نماز نہ پڑھے۔

وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّي حَتَّى يَتَوَضَّأَ

اس باب میں ام حبیبہ، ابو ایوب، ابو ہریرہ، اُردی بنت انیس، عائشہ، زید بن خالد اور عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث منقول ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے، ہشام بن عروہ سے اسی کے مثل کئی حضرات نے روایت کیا ہے۔ وہ اپنے والد سے اور وہ بسرہ سے روایت کرتے ہیں۔ ابواسامہ اور کئی لوگوں نے بھی یہ حدیث ہشام بن عروہ سے انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے مروان سے انہوں نے بسرہ سے اور انہوں نے نبی اکرم ﷺ سے نقل کی ہے۔ ہم سے اسے اسحاق بن منصور نے اور انہوں نے مروان سے انہوں نے بسرہ سے اور انہوں نے نبی اکرم ﷺ سے نقل کی ہے۔ ہم سے اسے اسحاق بن منصور نے اور انہوں نے ابواسامہ کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ ابوالزناد نے بھی یہ حدیث عروہ سے انہوں نے بسرہ سے اور انہوں نے نبی اکرم ﷺ سے روایت کی ہے۔ ہم سے یہ حدیث علی بن حجر نے بھی بیان کی ہے۔ عبدالرحمن بن ابی الزناد بھی اپنے والد سے وہ عروہ سے وہ بسرہ سے اور وہ نبی اکرم ﷺ سے اسی کی طرح نقل کرتے ہیں۔ یہی صحابہ اور تابعین میں سے کافی حضرات کا قول ہے۔ جن میں اوزاعی، شافعی، احمد اور اسحاق شامل ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں اس باب میں ”صحیح“ حدیث بسرہ کی ہے جب کہ ابوزرعہ کا کہنا یہ ہے کہ اس باب کی ”صحیح“ حدیث ام حبیبہ کی حدیث ہے اور یہ علاؤ بن حارث کی نقل کردہ حدیث ہے مکحول سے عنبتہ بن ابی سفیان کے حوالے سے ام حبیبہ سے روایت کرتے ہیں لیکن امام بخاری کہتے ہیں کہ مکحول نے عنبتہ بن ابی سفیان سے کوئی حدیث نہیں سنی۔ مکحول نے کسی شخص کے واسطے سے عنبتہ سے اس حدیث کے علاوہ دوسری احادیث نقل کی ہیں گویا کہ اس حدیث کو صحیح نہیں سمجھتے۔

باب ۶۲۔ تَرَكَ الْوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الذِّكْرِ

باب ۶۲۔ عضو خاص کو چھونے سے وضو نہ کرنے کے بارے میں
۷۳۔ حضرت قیس بن طلق بن علی حنفی اپنے والد سے اور وہ حضور
ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ بھی تو بدن کا ہی ایک ٹکڑا
ہے۔ راوی کا شک ہے کہ ”مضعف“ فرمایا یا ”بضعف“ جب کہ معنی میں کوئی
فرق نہیں۔

۷۳۔ حَدَّثَنَا هِنَادٌ نَا مِلَازِمَ بِنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ
بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَنْفِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهَلْ هُوَ إِلَّا
مُضْعَفَةٌ مِنْهُ أَوْ بُضْعَةٌ مِنْهُ

اس باب میں ابوامامہ سے بھی حدیث منقول ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: کئی صحابہ اور بعض تابعین سے منقول ہے کہ وہ عضو خاص کو چھونے سے وضو کو واجب قرار نہیں دیتے تھے۔ یہ قول اہل کوفہ (احناف) اور ابن مبارک کا ہے اور یہ حدیث اس باب کی احادیث میں سب سے بہتر ہے۔ اسے ایوب بن عتبہ اور محمد بن جابر بھی قیس بن طلق سے اور وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں۔ جب کہ بعض محدثین محمد بن جابر اور ایوب بن عتبہ پر اعتراض کرتے ہیں۔ اور ملازم بن عمرو کی عبد اللہ بن بدر سے منقول حدیث صحیح اور احسن ہے۔
توضیح: مذکورہ بالا احادیث میں اعتراض ہے اور تعارض کے وقت قیاس کی طرف بھی رجوع کیا جاتا ہے اور قیاس حنفیہ کے مسلک ہی کی تائید کرتا ہے اس لیے کہ بول و براز وغیرہ جو بذات خود نجس ہیں ان کا چھونا کسی کے نزدیک بھی ناقض وضو نہیں۔ لہذا اعضاء مخصوصہ جن کا ظاہر ہونا متفق علیہ ہے ان کو چھونا بطریق اولیٰ ناقض نہیں ہونا چاہیے (مترجم)

باب ۶۳۔ تَرَكَ الْوُضُوءَ مِنَ الْقِبْلَةِ

باب ۶۳۔ بوسہ لینے سے وضو نہ کرنے کے بارے میں۔

۷۴۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے اپنی کسی بیوی کا بوسہ لیا اور پھر بغیر وضو

۷۴۔ حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ وَهْنَادٌ أَبُو كَرِيبٍ وَاحْمَدُ بْنُ
مَنْعٍ وَمَحْمُودُ بْنُ غِيْلَانَ وَأَبُو عِمَارٍ قَالُوا نَا وَكَيْع

عن الاعمش عن حبيب بن ابي ثابت عن عروة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قبل بعض نساءه ثم خرج الى الصلوة ولم يتوضأ قال قلت من هي الا انت فصححت

کے نماز کے لئے چلے گئے۔ عروہ کہتے ہیں میں نے کہا: وہ آپ کے سوا کون ہو سکتی ہے تو ہنسنے لگیں۔

امام ترمذی کہتے ہیں اس طرح کی روایات کئی صحابہ اور تابعین سے منقول ہیں۔ سفیان ثوری اور اہل کوفہ (حنفیہ) کا بھی یہی قول ہے کہ بوسے سے وضو واجب نہیں ہوتا۔ جب کہ مالک بن انس، اوزاعی، شافعی، احمد، اسحاق اور کئی اہل علم صحابہ و تابعین کا قول یہ ہے کہ بوسے سے وضو واجب ہو جاتا ہے۔ ہمارے اصحاب نے اس سے متعلق حضور ﷺ سے منقول حضرت عائشہ کی حدیث پر اس لیے عمل نہیں کیا کہ وہ سند میں ضعف کی وجہ سے ان کے نزدیک صحیح نہیں ہے کہتے ہیں: (یعنی امام ترمذی) میں نے ابو بکر عطار بصری کو علی بن مدینی کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا کہ وہ کہتے تھے: یحییٰ بن سعید قطان نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور کہا کہ میں نے محمد بن اسماعیل بخاری کو بھی اس حدیث کو ضعیف کہتے ہوئے سنا۔ ان کا کہنا ہے کہ حبیب بن ابی ثابت نے عروہ سے کوئی حدیث نہیں سنی۔ ابراہیم تیمی حضرت عائشہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ان کا بوسہ لیا اور وضو نہیں کیا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ہمیں ابراہیم تیمی کے حضرت عائشہ سے سماع کا بھی علم نہیں۔ اس باب میں حضور ﷺ سے منقول احادیث میں سے کوئی بھی صحیح نہیں۔

مسئلہ: حنفیہ کا مسلک عدم وجوب کا ہے جیسا کہ گزر چکا یہ اپنے مسلک پر اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں، امام ترمذی نے اسے ضعیف کہا ہے لیکن درحقیقت یہ صحیح علی شرط مسلم ہے (یعنی امام مسلم کی شرط پر) دراصل یہ حدیث دو طریق سے مروی ہے ایک ”عن حبیب بن ابی ثابت عن عروہ عن عائشہ“ اور دوسرا ”ابوروق عن ابراہیم تیمی عن عائشہ“۔

عروہ کی روایت پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ عروہ سے مراد عروہ ابن الزبیر نہیں بلکہ عروہ المزنی ہیں جو مجہول ہیں۔

لیکن فی الواقع ان سے مراد عروہ ابن الزبیر ہی ہیں جس کے دلائل مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ ابن ماجہ میں ابواب الطہارۃ، باب الوضوء من القبلة میں یہ حدیث مروی ہے اس میں عروہ کے ساتھ ابن الزبیر کی صراحت موجود ہے۔

۲۔ سنن دارقطنی، مسند احمد اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی بعض میں ابن الزبیر اور بعض میں ابن اسماء کی تصریح ہے۔

۳۔ اس حدیث کے آخر میں ایک بے تکلفی کا جملہ ہے ”وہ آپ کے سوا کون ہو سکتی ہیں“ جس پر حضرت عائشہ ہنس دیتی ہیں۔ یہ جملہ عروہ ابن الزبیر ہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے بھانجے ہیں۔

دوسرے طریق پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ابراہیم تیمی کا حضرت عائشہ سے سماع نہیں۔ امام دارقطنی اپنی سنن میں اس حدیث کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ”اس حدیث کو معاویہ بن ہشام، ثوری سے وہ ابوروق سے وہ ابراہیم تیمی سے وہ اپنے والد سے اور وہ حضرت عائشہ سے نقل کرتے ہیں“ اس طریق میں ان کے والد کی وجہ سے حدیث متصل ہو گئی۔

لہذا ثابت ہو گیا کہ حدیث باب مسلم کی شرط پر صحیح اور قابل استدلال ہے اس لیے مبارکپوری سمیت بہت سے علماء اہل حدیث نے

اس مسئلہ میں حنفیہ کی تائید کی ہے۔ (مترجم)

تے اور کسیر سے وضو کا حکم

باب ۶۴۔ الوضوء من القیء والرعاۃ

۷۵۔ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے تے کی اور وضو کیا پھر میری جب دمشق کی مسجد میں ثوبان رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی اور میں نے ان سے اس کا تذکرہ کیا تو فرمایا: ابودرداء نے کہا ہے اس لئے کہ آپ کے وضو کے لئے میں نے پانی ڈالا تھا۔

۷۵۔ حدثنا ابو عبیدة بن ابی السفر و اسحق ابن منصور قال ابو عبیدة ثنا وقال اسحق انا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنی ابی عن حسین المعلم عن یحییٰ بن ابی کثیر قال حدثنی عبد الرحمن بن عمرو الازاعی عن یعیش بن الولید المحزومی عن ابیہ عن معدان ابن ابی طلحة عن ابی الدرداء ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق انا صببت له وضوءه

امام ترمذی کہتے ہیں: اکثر صحابہ و تابعین سے تے اور نکیس پر وضو کرنا منقول ہے اور یہی قول سفیان، ابن مبارک، احمد اور اسحاق کا بھی ہے۔ جب کہ بعض جن میں مالک اور شافعی بھی ہیں، کے نزدیک اس سے وضو نہیں فاسد ہوتا۔ حسین بن معلم اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں۔ اور ان کی حدیث اس باب میں ”صح“ ہے۔ عمر نے یہ حدیث یحییٰ بن ابی کثیر سے نقل کرتے ہوئے غلطی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں: یعیش بن ولید سے روایت ہے وہ خالد بن معدان سے اور وہ ابودرداء سے روایت کرتے ہیں۔ اس سند میں انہوں نے اوزاعی کو ذکر نہیں کیا اور کہا: خالد بن معدان سے روایت ہے جب کہ صحیح معدان بن ابوطلمہ ہے۔

باب ۶۵۔ نبیذ سے وضو کرنا (۱)

۷۶۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے پوچھا، تمہاری مشک میں کیا ہے؟ میں نے عرض کیا: نبیذ ہے۔ فرمایا: کھجور پاک اور پانی پاک کرنے والا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ ﷺ نے اسی سے وضو کیا۔

باب ۶۵۔ الوضوء بالنبيذ
۷۶۔ حدثنا هناد نا شريك عن ابی فزارة عن ابی زيد عن عبد الله بن مسعود قال سألني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما في اداوتك فقلت نبذ فقال تمر طيبة وماء طهور قال فتوضأ منه

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث ابوزید، عبداللہ سے اور وہ نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں، ابوزید محدثین کے نزدیک مجہول ہیں۔ اس حدیث کے علاوہ ان کی کسی روایت کا ہمیں علم نہیں۔ بعض اہل علم (سفیان وغیرہ) نبیذ سے وضو کو جائز سمجھتے ہیں جب کہ بعض اسے ناجائز قرار دیتے ہیں۔ جیسے امام شافعی، احمد اور اسحاق۔ اسحاق کہتے ہیں اگر کسی شخص کے پاس اس کے علاوہ پانی نہ ہو تو اس سے وضو کر کے تیمم کرنا میرے نزدیک بہتر ہے۔ جن کے نزدیک نبیذ سے وضو کرنا جائز نہیں ان کا قول قرآن کریم سے اقرب اور اشد ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ”فلم تجدوا ماء افتيمموا صعيدا طيبا“، یعنی پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک زمین سے تیمم کر لیا کرو۔

توضیح: اس مسئلے میں اختلاف اسی نبیذ میں ہے جو حلو (میٹھی) رقیق، غیر مطح اور نشہ نہ دینے والی ہو۔ جمہور حنفیہ متاخرین بھی عدم جواز کی روایت کو ترجیح دیتے ہیں۔ امام طحاوی اور علامہ زلیحی جیسے محدثین نے بھی اس حدیث کے ضعف کو تسلیم کیا ہے۔ (مترجم)

(۱) نبیذ: انگور یا کھجور کی ٹھوس ہوئی شراب کو کہتے ہیں۔ (مترجم)

باب ۶۶۔ الْمَمْضَةُ مِنَ اللَّيْنِ

باب ۶۶۔ باب دودھ پی کر گھٹی کرنا

۷۷۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبِيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا فَدَعَا بِمَاءٍ فَمَضَمَضَ وَقَالَ إِنَّ لَهُ دَسْمًا

۷۷۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے دودھ پیا۔۔۔۔۔ پھر پانی منگوا کر گھٹی کی اور فرمایا: اس میں چکنائی ہوتی ہے۔

اس باب میں سہل بن سعد اور ام سلمہ سے بھی حدیثیں منقول ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض اہل علم کی رائے یہی ہے کہ دودھ پی کر گھٹی کی جائے یعنی یہ ان کے نزدیک مستحب ہے جب کہ بعض حضرات کے نزدیک ایسا نہیں ہے یعنی دودھ کے بعد گھٹی کرنا ضروری نہیں۔

باب ۶۷۔ فِي كَرَاهِيَةِ رَدِّ السَّلَامِ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ

باب ۶۷۔ بے وضو کے لئے سلام کا جواب دینا مکروہ ہے۔

۷۸۔ حَدَّثَنَا نَصْرُ ابْنِ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا أَبُو أَحْمَدَ عَنْ سَفِيَّانَ بْنِ الزُّحَّاكِ بْنِ عَثْمَانَ عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ

۷۸۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ پیشاب کر رہے تھے کہ ایک شخص نے سلام کیا۔ تو آپ ﷺ نے اسے جواب نہیں دیا۔

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ہمارے نزدیک سلام کرنا اس وقت مکروہ ہے جب وہ قضاے حاجت کے لیے بیٹھا ہو اور بعض علماء نے اس کی یہی تفسیر کی ہے۔ یہ اس باب کی ”احسن“ حدیث ہے۔ اس باب میں مہاجر بن قنفذ، عبد اللہ بن حنظلہ، علقمہ بن شقواء، جابر اور براء سے بھی احادیث نقل کی گئی ہیں۔

مسئلہ: خفیہ کے نزدیک قضاے حاجت کے وقت سلام کرنا اور جواب دینا دونوں مکروہ ہیں۔ جب کہ حالتِ حدث میں سلام مکروہ نہیں۔ (مترجم)

باب ۶۸۔ مَا جَاءَ فِي سُورِ الْكَلْبِ

باب ۶۸۔ کتے کے جوٹھے کا حکم

۷۹۔ حَدَّثَنَا سُوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِيُّ نَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سَلِيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَيُّوبَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ سَبْرِيْنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُغَسَّلُ الْإِنَاءُ إِذَا وُلِّغَ فِيهِ الْكَلْبُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ لَا هُنَّ أَوْ أُخْرَاهُنَّ بِالتُّرَابِ وَ إِذَا وُلِّغَتْ فِيهِ الْهَرَّةُ غُسِلَ مَرَّةً

۷۹۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اسے سات مرتبہ دھویا جائے۔ پہلی یا آخری مرتبہ مٹی سے مل کر اور اگر بلی کسی برتن میں منہ ڈالے تو اسے ایک مرتبہ دھویا جائے۔

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے اور یہی شافعی، احمد اور اسحاق کا قول ہے۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے کئی سندوں سے اسی طرح حضور ﷺ سے منقول ہے لیکن اس میں بلی کے جوٹھے سے ایک مرتبہ دھونے کا ذکر نہیں۔ اس باب میں عبد اللہ بن مغفل سے بھی حدیث منقول ہے۔

مسئلہ: امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک کتے کے جوٹھے برتن کو تین مرتبہ دھونا کافی ہے ان کی دلیل حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی حدیث ہے کہ حضور ﷺ نے اسے تین مرتبہ دھونے کا حکم دیا۔ اسی روایت کی صحت کے متعدد قرائن ہیں۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ ابو ہریرہؓ کا ایک فتویٰ سات مرتبہ دھونے کا بھی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تثلیث کے فتویٰ کو وجوب اور تسبیح کو استحباب پر محمول کیا جائے گا تا کہ تعارض نہ ہو۔ قیاس سے بھی تثلیث کے وجوب کی ہی تائید ہوتی ہے اس لیے کہ وہ نجاسات جو غلیظ اور قطعی دلائل سے ثابت ہیں۔ (مثلاً بول و براز) جن میں کتے اور خنزیر کا (بول و براز) بھی شامل ہیں تین مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاتے ہیں اور اس پر علماء متفق ہیں۔ تو کتے کے جوٹھے میں جو غلیظ ہے نہ قطعی اور نہ ہی بول و براز سے زیادہ مستقدر اس میں تسبیح کا حکم معقول کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر مزید یہ کہ سات مرتبہ دھونے والی احادیث میں کافی اختلاف ہے کسی میں پہلی مرتبہ مٹی سے دھونے کسی میں ساتویں مرتبہ اور کسی میں آٹھویں مرتبہ دھونے کے الفاظ ہیں۔ لہذا ظاہر یہ ہے کہ سات مرتبہ کا حکم استحباب ہی کے لیے ہے کیونکہ کتے کے لعاب میں زہر زیادہ ہوتا ہے اس سے یقینی طور پر بچنے کے لیے یہ ہدایت دی گئی اور اسی لیے اسے مٹی سے مانجھنا بھی مستحب ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۶۹۔ مَا جَاءَ فِي سُورِ الْهَرَّةِ

باب ۶۹۔ بلی کے جوٹھے کا حکم

۸۰۔ ابوقادہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے کی منکوحہ کبشہ بنت کعب بن مالک رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ابوقادہ میرے پاس آئے۔ میں نے ان کے لئے وضو کا پانی بھرا۔ تو ایک بلی آئی اور پانی پینے لگی ابوقادہ رضی اللہ عنہ نے برتن کو جھکا دیا۔ یہاں تک کہ اس نے پانی پیا۔ کبشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں۔ انہوں نے مجھے جب اپنی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے۔ اے بھتیجی تمہیں اس پر تعجب ہے؟ میں نے کہا: ہاں پھر کہنے لگے کہ حضور ﷺ نے فرمایا یہ ناپاک نہیں ہے یہ تو تمہارے گرد گھومتی پھرتی ہے۔ راوی کو شک ہے کہ ”طوافین“ فرمایا یا ”طوافات“ طوافات مؤنث کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

۸۰۔ حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري نا معن نا مالك بن انس عن اسحق بن عبدالله بن ابى طلحة عن حميدة ابنة عبيد بن رفاعه عن كَبِشَةَ ابْنَةِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ عِنْدَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ اَنَّ اَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا قَالَتْ فَسَكَبْتُ لَهُ وَضُوءًا قَالَتْ فَجَاءَتْ هَرَّةٌ تَشْرَبُ فَاصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبِشَةُ فَرَأَيْتِ أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ اتَّعَجِبِينَ يَا ابْنَةَ أَحْيَى فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَأِ فَيَنْ عَلَيْكُمْ أَوْ الطَّوَأَاتِ

اس باب میں حضرت عائشہؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یہی صحابہ تابعین اور تبع تابعین جیسے کہ شافعی، احمد اور اسحاق کا قول ہے کہ بلی کے جوٹھے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ اس باب کی احسن حدیث ہے۔ امام مالک نے اسحاق بن عبد اللہ بن ابی طلحہ سے منقول اسی حدیث کو بہت اچھا نقل کیا ہے۔ اور ان کے علاوہ کسی نے بھی اسے مکمل روایت نہیں کیا۔

مسئلہ: حنفیہ کے نزدیک بلی کو جوٹھا مکروہ ہے۔ (مترجم)

باب ۷۰۔ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ

باب ۷۰۔ موزوں پر مسح کرنا

۸۱۔ حضرت ہمام بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے پیشاب کرنے کے بعد وضو کیا اور موزوں پر مسح کیا۔ ان سے کہا گیا کہ آپ ایسا کرتے ہیں؟ فرمایا: کیوں نہ کروں جب میں

۸۱۔ حدثنا هناد نا وكيع عن الاعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال قال جرير بن عبد الله ثم تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقِيلَ لَهُ اتَّفَعَلْ هَذَا قَالَ وَمَا

مَنْعُنِي وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ قَالَ وَكَانَ يُعْجِبُهُمْ حَدِيثُ جَرِيرٍ لِأَنَّ سَلَامَةَ كَانَ بَعْدَ نَزُولِ الْمَائِدَةِ

نے حضور ﷺ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت جریر رضی اللہ عنہ کی حدیث کو اس لئے اہمیت دیتے تھے کہ وہ سورہ مائدہ نازل ہونے کے بعد اسلام لائے۔

اس باب میں عمر، علی، حذیفہ، مغیرہ، سعد، بلال، ابویوب، سلمان، بریدہ، عمرو بن امیہ، انس، اہل بن سعد، یعلیٰ بن مرہ، عبادہ بن صامت، اسامہ بن شریک، ابوامامہ، جابر اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہم بھی احادیث بیان کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں۔ حدیث جریر حسن صحیح ہے۔ شہر بن حوشب کہتے ہیں: میں نے جریر بن عبد اللہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ انہوں نے موزوں پر مسح کیا جس پر میں نے ان سے کہا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے حضور ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ نے وضو کیا اور موزوں پر مسح کیا۔ میں نے ان سے کہا: کیا مائدہ کے نازل ہونے سے پہلے یا بعد؟ جواب دیا: میں نے مائدہ کے نزول کے بعد ہی اسلام قبول کیا ہم سے اسے قتیبہ نے انہوں نے خالد بن زیاد ترمذی سے، انہوں نے مقاتل بن حیان سے انہوں نے شہر بن حوشب سے اور انہوں نے جریر کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ جب کہ باقی حضرات نے اسے ابراہیم بن ادھم سے انہوں نے مقاتل بن حیان سے انہوں نے جریر کے حوالے سے بیان کیا ہے۔

اس حدیث میں تفسیر ہے۔ اس لیے کہ جن لوگوں نے موزوں پر مسح کے جواز سے انکار کیا ہے اس حدیث کی یہ تاویل کی ہے کہ یہ سورہ مائدہ سے پہلے کی ہے لیکن جریر نے اپنی حدیث میں ذکر کیا ہے کہ انہوں نے حضور ﷺ کو سورہ مائدہ کے نزول کے بعد موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔

توضیح: ان کے حضرت جریر کی حدیث کو اہمیت دینے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت جریر سورہ مائدہ کی وضو کی آیت نازل ہونے کے بعد اسلام لائے تھے۔ لہذا اس سے روافض وغیرہ کی تردید ہوتی ہے جو کہ موزوں پر مسح کو وضو کی آیت سے منسوخ قرار دیتے ہیں۔ جب کہ موزوں پر مسح کے جواز پر امت کا اجماع ہے۔ (مترجم)

باب ۷۱۔ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمَسَافِرِ وَالْمُقِيمِ

باب ۷۲۔ حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ بْنُ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ اِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ اِبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحَدَّادِيِّ عَنْ حُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ لِلْمَسَافِرِ ثَلَاثٌ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ

باب ۷۱۔ مسافر اور مقیم کے لئے موزوں پر مسح کرنا

باب ۷۲۔ حضرت خزیمہ بن ثابت، نبی اکرم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ سے موزوں پر مسح سے متعلق سوال کیا گیا آپ ﷺ نے فرمایا مسافر کے لئے تین دن تک اور مقیم کے لئے ایک دن کی مدت ہے۔

ابوعبداللہ جدلی کا نام عبد بن عبد ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں علیؑ، ابوبکرؓ، ابو ہریرہؓ، صفوان بن عسالؓ، عوف بن مالکؓ، ابن عمرؓ اور جریر رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث منقول ہیں۔

۸۳۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ ابْنُ الْاِحْوَصِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ اِبِي النَّجُودِ عَنْ زُرْبَنْ حُبَيْشٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا اِذَا كُنَّا سَفَرًا اَنْ لَا نَبْرُزَ حِجَابَنَا ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَا لِيَهُنَّ اِلَّا

۸۳۔ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ اگر ہم سفر میں ہوں تو تین دن، تین رات تک موزے نہ اتاریں۔ ہاں اگر (غسل) جنابت ہو تو اتاریں۔ لیکن قضاے حاجت یا نیند کے سبب نہیں۔

مِنْ حَنَابِيَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ

امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے اسے حکم بن عتیہ اور حماد، ابراہیم نخعی سے وہ ابو عبد اللہ جدلی سے اور وہ خزیمہ بن ثابت سے نقل کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں۔ علی بن مدینی یحییٰ کے ذریعے شعبہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ ابراہیم نخعی نے مسح کی حدیث ابو عبد اللہ جدلی سے نمبر سنی۔ زائدہ منصور سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم ابراہیم نخعی کے حجرے میں تھے۔ ہمارے ساتھ ابراہیم نخعی بھی تھے۔ ابراہیم نخعی نے ہم سے موزوں پر مسح سے متعلق حدیث بیان کی۔ وہ عمرو بن میمون سے وہ ابو عبد اللہ جدلی سے وہ خزیمہ بن ثابت سے اور وہ حضور ﷺ سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ بخاری کہتے ہیں اس باب میں احسن حدیث صفوان بن عسال کی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ صحابہ، تابعین اور ان کے بعد کے اہل علم جن میں سفیان ثوری، ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق شامل ہیں کا قول ہے۔ یعنی مقیم ایک دن ایک رات اور مسافر تین دن تین رات تک مسح کر سکتا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک مسح کے لئے کوئی مدت مقرر نہیں۔ یہ قول مالک بن انس کا ہے۔ لیکن مدت کا تعین ہی صحیح ہے۔

باب ۷۲۔ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ اَعْلَاهُ وَاَسْفَلَهُ

باب ۷۳۔ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ اَعْلَاهُ وَاَسْفَلَهُ

۸۴۔ حَدَّثَنَا ابُو الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ نَا الْوَلِيدِ ابْنَ مَسْلَمٍ اٰخِرِنِي ثَوْرِبْنَ يَزِيدَ عَنِ رَجَاءِ بِنِ حَيَّوَةَ عَنِ الْكَاتِبِ الْمُغَيَّرَةِ عَنِ الْمُغَيَّرَةِ بِنِ شُعْبَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ اَعْلَى الْخُفِّ وَاَسْفَلَهُ

امام ترمذی کہتے ہیں۔ یہ کئی صحابہ اور تابعین کا قول ہے۔ مالک، شافعی اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں یہ حدیث ”معلول“ ہے۔ اسے ثور بن یزید سے ولید بن مسلم کے علاوہ کسی نے نقل نہیں کیا۔ میں نے ابو زرہ اور امام بخاری سے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو ان دونوں نے جواب دیا۔ یہ صحیح نہیں اس لیے کہ ابن مبارک، ثور سے اور وہ رجاء سے نقل کرتے ہیں کہ رجاء نے کہا مجھے یہ حدیث حضرت مغیرہ کے کاتب سے پہنچی ہے اور یہ مرسل ہے کیوں کہ انہوں نے مغیرہ کا تذکرہ نہیں کیا۔

مسئلہ: حنفیہ اور حنابلہ نزدیک صرف موزوں کے اوپر مسح کرنا ضروری ہے ان کی دلیل حدیث نمبر ۸۵ ہے۔ جو ذیل میں مذکور ہے۔ (مترجم)

باب ۷۴۔ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ظَاهِرِهِمَا

۸۵۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ جَحْرَانَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ ابِيهِ عَنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمُغَيَّرَةِ بِنِ شُعْبَةَ قَالَتْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَمْسُحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ظَاهِرِهِمَا

امام ترمذی کہتے ہیں حدیث مغیرہ حسن ہے۔ اسے عبد الرحمن بن ابی الزناد بھی اپنے والد سے وہ عروہ سے اور وہ مغیرہ سے نقل کرتے ہیں۔ ہمیں علم نہیں کہ کسی اور نے حضور ﷺ کا موزوں کے اوپر مسح کرنا عروہ سے اور انہوں نے مغیرہ سے نقل کیا ہو۔ یہ کئی علماء کا قول ہے سفیان ثوری اور احمد بھی اسی کے قائل ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ مالک عبد الرحمن بن ابی الزناد کو ضعیف سمجھتے تھے۔

توضیح: حنفیہ کا استدلال حدیث باب سے ہے اگرچہ بعض حضرات نے عبد الرحمن بن ابی الزناد کی تضعیف کی ہے۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ ان

کی احادیث مقبول ہیں۔ نیز ابوداؤد میں اسناد حسن کے ساتھ حضرت علی کا ارشاد منقول ہے کہ: اگر دین کا تعلق رائے سے ہوتا تو موزوں کا نیچے سے مسح کرنا اوپر کرنے سے اولیٰ ہوتا جب کہ میں نے حضور ﷺ کو موزوں کے اوپر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ (مترجم)

باب ۷۵۔ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْجُورِيِّينَ وَالنَّعْلَيْنِ

باب ۷۵۔ جورین اور نعلین پر مسح کرنا

۸۶۔ حدثنا هناد و محمود بن غيلان قالا نا و كيع

۸۶۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے

عن سفیان عن ابی قیس عن ہزبل بن شَرْحَبِيلِ عَنِ

وضو کیا اور جورین اور نعلین پر مسح کیا۔

الْمُعْبِرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

وَسَلَّمَ وَمَسَحَ عَلَى الْجُورِيِّينَ وَالنَّعْلَيْنِ

امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور یہی علماء کا قول ہے۔ سفیان ثوری، ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق اس کے قائل ہیں ان کا کہنا ہے کہ جورین پر مسح کرنا جائز ہے اگرچہ ان پر چمڑہ نہ چڑھا ہوا ہو۔ بشرطیکہ وہ نخیلین ہوں۔ اسی باب میں ابوموسیٰ بھی حدیث بیان کرتے ہیں۔

توضیح: جورب، سوت یا اون کے موزوں کو کہتے ہیں اگر ایسے موزوں پر دونوں طرف چمڑا چڑھا ہو تو اسے مجلد کہتے ہیں اگر ان کے نیچے چمڑا چڑھا ہو تو اسے منعل کہتے ہیں۔ اور اگر وہ صرف چمڑے کے ہوں تو انہیں نخیلین کہتے ہیں۔ اور نخیلین سے مراد یہ ہے کہ وہ شفاف نہ ہوں۔ اگر ان پر پانی ڈالا جائے تو پاؤں تک نہ پہنچے۔ بغیر کسی چیز کے چپکے رہیں اور ان کو پہن کر اتنا چلا جا سکے جتنا کہ خف کو پہن کر چلا جا سکتا ہے۔ نخیلین، جورین مجلدا دین، جورین منعلین اور جورین نخیلین پر مسح با اتفاق جائز ہے جب کہ نعلین (جوتوں) پر ائمہ اربعہ میں سے کسی نے بھی مسح کی اجازت نہیں دی۔ لہذا یہ حدیث ضعیف ہے۔ امام ترمذی سے اس کی تصحیح میں تسامح ہوا ہے کیوں کہ محدثین کا اس حدیث کے ضعف پر اتفاق ہے۔ واللہ اعلم۔ (مترجم)

باب ۷۶۔ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْجُورِيِّينَ وَالْعَمَامَةِ

باب ۷۶۔ جورین اور عمامہ پر مسح کرنا۔

۸۷۔ حدثنا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد

۸۷۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں

القطان عن سليمان التيمي عن بكر بن عبدالله

کہ نبی اکرم ﷺ نے وضو کیا اور موزوں اور عمامہ پر مسح کیا۔

المزني عن الحسن بن ابن الْمُعْبِرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ

آبِيهِ قَالَ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ وَالْعَمَامَةِ

بکر کہتے ہیں: میں نے اسے مغیرہ کے بیٹے سے سنا۔ محمد بن بشار ایک اور جگہ اسی حدیث کو ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ نے پیشانی اور عمامے پر مسح کیا۔ یہ حدیث مغیرہ بن شعبہ سے کئی سندوں سے منقول ہے بعض اس میں پیشانی اور عمامے کا ذکر کرتے ہیں۔ جب کہ بعض پیشانی کا ذکر کرتے ہیں جبکہ بعض پیشانی کا ذکر نہیں کرتے، احمد بن حسن کہتے ہیں کہ میں نے احمد بن حنبل سے سنا کہ میں نے یحییٰ بن سعید قطان جیسا شخص نہیں دیکھا۔ اس باب میں عمرو بن امیہ، سلمان، ثوبان اور ابوامامہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں۔ مغیرہ بن شعبہ کی حدیث حسن صحیح ہے اور یہ کئی اہل علم کا قول ہے جن میں صحابہ (ابوبکر، عمر اور انس) بھی شامل ہیں۔ یہی اوزاعی، احمد اور اسحاق کا بھی قول ہے ان حضرات کے نزدیک عمامے پر مسح کرنا جائز ہے ہم سے قتیبہ بن سعید روایت کرتے ہیں ان سے

بشر بن مفضل ان سے عبدالرحمن بن اسحاق ان سے ابو عبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر نقل کرتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ سے خفین پر مسح کے متعلق پوچھا تو جواب دیا: اے بھتیجے یہ سنت ہے پھر میں نے عمائم پر مسح کا پوچھا تو فرمایا: بالوں کا چھونا ضروری ہے۔ کئی علماء جن میں صحابہ و تابعین شامل ہیں کا مسلک یہ ہے کہ عمائم پر مسح کے ساتھ سر کا بھی مسح کرے۔ یہ سفیان ثوری، مالک بن انس، ابن مبارک اور شافعی کا قول ہے۔

۸۸۔ حدثنا هناد نا علي بن مسهر عن الاعمش عن الحكم عن ابى عبدالرحمن بن ابى ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال اَن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ وَالْحِمَارِ

مسئلہ: خفین کے نزدیک عمائم پر مسح کرنے سے فرض ادا نہیں ہوتا اس لیے کہ مسح رأس (سر کے مسح) کا حکم آیت قرآنی سے ثابت ہے اور عمائم پر مسح کرنے سے متعلق کوئی بھی روایت صریح نہیں ہے بلکہ ان میں تاویلات کے احتمالات ہیں لہذا یقین کو احتمال کی وجہ سے چھوڑنا نہیں جاسکتا۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۷۷۔ غسل جنابت کے متعلق۔

۸۹۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کے غسل کے لئے پانی رکھا آپ ﷺ نے غسل جنابت کیا اور برتن کو بائیں ہاتھ میں پکڑ کر دائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور دونوں ہاتھ دھوئے۔ پھر ہاتھ پانی میں ڈالا اور ستر پر پانی بہایا، پھر اپنے ہاتھ کو دیوار یا زمین پر ملا۔ پھر ٹھکی کی، ناک میں پانی ڈالا اور منہ اور دونوں ہاتھ دھوئے۔ پھر سر پر تین مرتبہ پانی بہایا پھر سارے جسم پر پانی بہایا۔ اس کے بعد اس جگہ سے ذرا ہٹ کر پاؤں دھوئے۔

باب ۷۷۔ مَا جَاءَ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ ۸۹۔ حدثنا هناد ثنا وكيع عن الاعمش عن سالم بن ابى الجعد عن كريب عن ابن عباس عن خالته ميمونة قال وضعت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم غسلاً فاعتسل من الجنابة فكفأ الإناء بشماله على يمينه فغسل كفيه ثم أدخل يده في الإناء فافاض على فرجه ثم ذلك بيده الحائط والأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه فافاض على راسه ثلاثاً ثم افاض على سائر جسده ثم تنحى فغسل رجله

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں ام سلمہ، جابر، ابوسعید، جبیر بن مطعم اور ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے۔

۹۰۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب غسل جنابت کا ارادہ فرماتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو برتن میں ڈالنے سے پہلے شروع میں دھویا کرتے تھے، پھر استنجا اور جس طرح نماز کے لئے وضو کرتے ہیں اس طرح وضو کرتے پھر سر کے بالوں میں اچھی طرح پانی ڈالتے اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں سے سر پر تین مرتبہ پانی ڈالتے۔

۹۰۔ حدثنا ابن ابى عمر نا سفیان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ يغسل يديه قبل أن يذخلهما الإناء ثم يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم يشرب شعره الماء ثم يحشى على راسه ثلاث حشيات

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس کو اہل علم نے غسل جنابت کے لیے اختیار کیا ہے کہ پہلے وضو کرے اور پھر تین مرتبہ سر پر پانی بہانے کے بعد اپنے پورے بدن پر پانی بہائے اور آخر میں پاؤں دھوئے۔ اسی پر علماء کا عمل ہے۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ اگر کسی نے وضو نہیں کیا اور پورے بدن پر پانی بہایا تو بھی غسل ہو گیا۔ یہ شافعی، احمد اور اسحاق کا قول ہے۔

باب ۷۸۔ هَلْ تَنْقُضُ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا عِنْدَ الْغُسْلِ

۹۱۔ حدثنا ابن ابی عمر نا سفیان عن ابوب بن موسی المقرببی عن عبد اللہ بن رافع عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله اني امرأة أشد ضفر رأسي أفانقضه لغسل الجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحنني على رأسك تلك حثيات من ماء ثم تفيض على سائر جسديك الماء فتطهرين أو قال فإذا أنت قد تطهرت

۹۱۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں ایسی عورت ہوں کہ اپنی چوٹی کو مضبوط باندھتی ہوں، کیا میں غسل جنابت کے لئے اسے کھولا کروں آپ ﷺ نے فرمایا نہیں، سر پر تین مرتبہ پانی ڈال لینا تمہارے لئے کافی ہے پھر سارے بدن پر پانی بہاؤ۔ پس تم پاک ہو گئیں یا فرمایا اب تم پاک ہو گئیں۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور اس پر علماء کا عمل ہے کہ اگر عورت غسل جنابت کرے تو سر پر پانی بہا دینا کافی ہے چوٹی کو کھولنا ضروری نہیں۔

باب ۷۹۔ مَا جَاءَ أَنْ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ

۹۲۔ حدثنا نصر بن علی نا الحارث بن وجیه نا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَانْفُؤا الْبَشْرَةَ

۹۲۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے۔

اس باب میں حضرت علیؑ اور حضرت انسؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں حارث بن وجیہ کی حدیث غریب ہے ہم اسے ان کی روایت کے علاوہ نہیں جانتے اور حارث قومی نہیں۔ ان سے کئی ائمہ روایت کرتے ہیں۔ یہ حدیث صرف انہوں نے مالک بن دینار سے نقل کی ہے۔ یہ حارث بن وجیہ ہیں جب کہ کبھی انہیں ابن وجیہ بھی کہتے ہیں۔

باب ۸۰۔ فِي الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ

۹۳۔ حدثنا اسمعيل بن موسى ثنا شريك عن اسحاق عن الأسود عن عائشة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ

۹۳۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ نبی اکرم ﷺ غسل کے بعد وضو نہیں کرتے تھے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ صحابہ اور تابعین میں سے کئی علماء کا قول ہے کہ غسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں۔

باب ۸۱۔ مَا جَاءَ إِذَا التَّقَى الْخِثَّانَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ

۸۱۔ اگر خٹانین (۱) مل جائیں تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔

(۱) خٹانین سے مراد مرد اور عورت کی شرمگاہ ہے۔ عورت کے لیے خٹان کا لفظ یہاں تغلیبا استعمال ہوا ہے۔ تجاوز خٹان، شخف کے دخول سے کنایہ ہے۔ (مترجم)

۹۴۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر ختنے کا مقام ختنے کے مقام سے تجاوز کر جائے تو غسل واجب ہو جائے گا۔ میں نے اور رسول اللہ ﷺ نے یہ فعل کیا اور اس کے بعد دونوں نے غسل کیا۔

۹۴۔ حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى ثنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل فعلنه أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعتسلنا

اس باب میں ابو ہریرہؓ، عبداللہ بن عمرؓ اور رافع بن خدیجؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔

۹۵۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جب ختنے کی جگہ ختنے کی جگہ سے تجاوز کر جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔

۹۵۔ حدثنا هناد نا وكيع عن سفيان بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل

امام ترمذی کہتے ہیں: حدیث عائشہؓ حسن صحیح ہے اور حضرت عائشہؓ کے واسطے سے آنحضرت ﷺ سے کئی طرق سے منقول ہے کہ اگر ختنے کی جگہ ختنے کی جگہ سے تجاوز کر جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے اور یہی قول صحابہ کرام (جن میں ابو بکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ، علیؓ اور عائشہؓ شامل ہیں) اور نقاد تابعین اور ان کے بعد کے علماء (سفیان ثوریؓ، شافعیؓ، احمدؓ اور اسحاقؓ) کا ہے کہ ختان سے ختان کے ملنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔

باب ۸۲۔ منی کے خروج سے غسل فرض ہوتا ہے۔

باب ۸۲۔ مَا جَاءَ أَنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ

۹۶۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ابتدائے اسلام میں غسل اسی وقت فرض ہوتا تھا جب منی نکلے یہ رخصت کے طور تھا پھر اس سے منع کر دیا گیا۔ (یعنی یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ غسل کے فرض ہونے کے لئے انزال (منی) ضروری نہیں)۔ (مترجم)

۹۶۔ حدثنا احمد بن منيع نا عبد الله بن المبارك ثنا يونس بن يزيد عن الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب قال إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهى عنها

احمد بن منیع، ابن مبارک سے وہ معمر سے اور وہ زہری سے اسی اسناد سے اسی حدیث کے مثل نقل کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور وجوب غسل کے لیے انزال کا ضروری ہونا ابتدائے اسلام میں تھا پھر منسوخ ہو گیا۔ اسی طرح کئی صحابہ سے منقول ہے جن میں ابی بن کعبؓ اور رافع بن خدیجؓ بھی شامل ہیں۔ اسی پر اہل علم کا عمل ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جماع کرے تو غسل واجب ہو جائے گا اگرچہ انزال نہ ہوا ہو۔ علی بن حجر ابو جحان سے وہ عکرمہ سے اور وہ ابن عباسؓ سے نقل کرتے ہیں کہ ابن عباسؓ نے فرمایا: وجوب غسل کے لیے انزال کا ضروری ہونا احتلام میں ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ جارود، کعب کا یہ قول نقل کرتے تھے کہ ہم نے یہ حدیث شریک کے علاوہ کسی کے پاس نہیں پائی۔ اس باب میں عثمان بن عفانؓ، علی بن ابی طالبؓ، زبیرؓ، طلحہؓ، ابو ایوبؓ اور ابو سعیدؓ بھی آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا وجوب غسل خروج منی سے ہوتا ہے۔ ابو الجحاف کا نام داؤد بن ابو عوف ہے۔ سفیان ثوری سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا: ہمیں ابو الجحاف نے خبر دی اور وہ پسندیدہ آدمی تھے۔

باب ۸۳۔ فِيمَنْ يَسْتَيْقِظُ وَيَرَى بَلَاءً وَلَا يَذْكُرُ
اِحْتِلَامًا

۹۷۔ حدثنا احمد بن منيع نا حماد بن خالد
الخياط عن عبدالله بن عمر عن عبيدالله بن عمر
عن القاسم ابن محمد عن عائشة قالت سئل النبي
صلى الله عليه واله وسلم عن الرجل يجد البلل و
لا يذكُرُ احتِلَامًا قَالَ يَغْتَسِلُ وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ
قَدْ احْتَلَمَ وَلَمْ يَجِدْ بَلَاءً قَالَ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ قَالَتْ أُمُّ
سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ تَرَى ذَلِكَ
غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ

باب ۸۳۔ جو شخص نیند سے بیداری پر کپڑوں میں تڑی دیکھے اور احتلام
کا خیال نہ ہو۔

۹۷۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم ﷺ سے اس
شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو نیند سے بیدار ہونے پر کپڑے گیلے
پائے لیکن اسے احتلام یاد نہ ہو تو فرمایا: غسل کرے اور اس شخص کے
متعلق بھی پوچھا گیا جسے یہ تو یاد ہو کہ اسے احتلام ہوا ہے لیکن کپڑے تر
نہ ہوں تو آپ ﷺ نے جواب دیا: اس پر غسل ضروری نہیں۔ حضرت ام
سلمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا: یا رسول اللہ! اگر عورت ایسا دیکھے تو کیا وہ
بھی غسل کرے۔ فرمایا: ہاں۔ عورتیں مردوں ہی کی طرح ہیں۔ (یعنی
ان پر بھی غسل واجب ہے۔) (مترجم)

امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث عبد اللہ بن عمر نے عبيد اللہ بن عمر سے نقل کی ہے۔ (یعنی حدیث عائشہ! کہ جب کپڑوں میں تڑی
پائے اور خواب یاد نہ ہو) اور عبد اللہ کویچی بن سعید حفظ حدیث میں ضعیف کہتے ہیں اور یہ صحابہ اور تابعین میں سے کئی علماء کا قول ہے کہ اگر
جاگنے پر تڑی دیکھے تو غسل کرے۔ احمد اور سفیان کا بھی یہی قول ہے بعض علماء تابعین کہتے ہیں کہ غسل جب واجب ہوتا ہے جب کہ تڑی
منی کی ہو۔ یہ شافعی اور اسحاق کا قول ہے۔ اور اگر احتلام تو یاد ہے لیکن کپڑے گیلے نہیں تو تمام اہل علم عدم وجوب غسل کے قائل ہیں۔

باب ۸۴۔ منی اور مذی کے متعلق

۹۸۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ سے مذی کے متعلق دریافت
کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: مذی سے وضو اور منی سے غسل واجب ہوتا
ہے۔

باب ۸۴۔ مَا جَاءَ فِي الْمَنِيِّ وَالْمَذِيِّ

۹۸۔ حدثنا محمد بن عمرو السبواقي البلخي نا
هشيم عن يزيد بن ابي زيادح ونا محمود بن
غيلان نا حسين الجعفي عن زائدة عن يزيد ابي
زيد عن عبد الرحمن بن ابي ليلي عن علي قال
سألت النبي صلى الله عليه واله وسلم عن المذوي
فقال من المذوي الوضوء ومن المنوي الغسل

اس باب میں مقدار بن اسود اور ابی بن کعب سے بھی احادیث منقول ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے مذی سے وضو
اور منی سے غسل کا واجب ہونا حضرت علیؑ کے واسطے سے نبی کریم ﷺ سے کئی سندوں سے منقول ہے اور یہی اکثر علماء صحابہ اور تابعین کا
قول ہے جن میں شافعی اور اسحاق بھی شامل ہیں۔

باب ۸۵۔ مذی اگر کپڑے کو لگ جائے۔

باب ۸۵۔ فِي الْمَذِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

۹۹۔ سعید بن عبید سباق کے بیٹے۔ اپنے والد سے اور وہ سہل بن حنیف
سے نقل کرتے ہیں کہ سہل نے کہا: مجھے مذی سے کانی پریشانی ہوتی تھی
اس لئے کہ میں بار بار نہاتا تھا تو میں نے رسول اللہ ﷺ سے اس کا

۹۹۔ حدثنا هناد نا عبدة عن محمد ابن اسحق عن
سعيد بن عبيد هو ابن السباق عن ابيه عن سهل بن
حنيف قال كنت ألقى من المذوي شدة ومناة فكنت

أَكْثَرُ مِنْهُ الْغُسْلُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّمَا يُجْزِئُكَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ بِمَا يُصِيبُ تَوْبِي مِنْهُ قَالَ يَكْفِيكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهِ تَوْبَكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَ مِنْهُ

تذکرہ کیا اور اس کا حکم دریافت کیا آپ ﷺ نے فرمایا: اس سے وضو کرنا ہی کافی ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ! اگر وہ کپڑوں میں لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ فرمایا: پانی کا ایک چٹولے لے کر اس جگہ چھڑک دو جہاں وہ لگی ہو۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ہمیں علم نہیں کہ کسی اور نے اس طرح کی کوئی حدیث محمد بن اسحاق کے علاوہ بھی نقل کی ہو۔ اہل علم کا اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ اگر مذی کپڑوں میں لگ جائے تو بعض کے نزدیک اسے دھونا ضروری ہے جیسے کہ شافعی اور اسحاق، جب کہ بعض کہتے ہیں اس پر پانی کے پھینٹے مار دینا ہی کافی ہے۔ احمد کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ پانی چھڑکنا کافی ہوگا۔ مسئلہ: اس مسئلے میں ائمہ ثلاثہ اور جمہور کا مسلک یہ ہے کہ مذی لگے ہوئے کپڑے کو دھونا پڑے گا اگرچہ وہ غسل خفیف ہی ہو۔ (مترجم)

باب ۸۶۔ فِي الْمَنِيِّ يُصِيبُ التَّوْبُ

باب ۸۶۔ اگر منی کپڑے کو لگ جائے تو اس کا حکم

۱۰۰۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ أَبِي مَعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ ضَافَ عَائِشَةَ ضَيْفًا فَأَمَرَتْ لَهُ بِمِلْحَفَةٍ صَفْرَاءَ فَنَامَ فِيهَا فَاحْتَلَمَ فَاسْتَحْيَى أَنْ يُرْسَلَ إِلَيْهَا وَبِهَا أَثَرُ الْإِحْتِلَامِ فَعَمَسَهَا فِي الْمَاءِ ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِمَ أَفْسَدَ عَلَيْنَا تَوْبَنَا إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَفْرُكَهُ بِأَصَابِعِهِ وَرَبَّمَا فَرَكْتُهُ مِنْ تَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِأَصَابِعِي

۱۰۰۔ حضرت ہمام بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں! حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک مہمان آیا۔ اسے زرد چادر دینے کا حکم دیا۔ وہ سویا اور اسے احتلام ہو گیا۔ اسے شرم محسوس ہوئی کہ چادر کو اس طرح بھیجے کہ اس میں احتلام کا اثر ہو (منی لگی ہو) اس نے اسے پانی میں ڈوب دیا اور پھر بھیج دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: ہماری چادر کیوں خراب کر دی اس کے لئے کافی تھا کہ اپنی انگلیوں سے اسے گھرچ دیتا۔ میں اکثر رسول اللہ ﷺ کے کپڑوں سے اپنی انگلیوں کے ذریعے منی کھرچ کر پاک کرتی تھی۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور یہ کئی فقہاء جیسے کہ سفیان، احمد اور اسحاق کا قول ہے کہ منی جب کپڑے کو لگ جائے تو گھرچ دینا کافی ہے دھونا ضروری نہیں اور اسی طرح منصور سے بھی روایت ہے وہ ابراہیم سے وہ ہمام بن حارث سے اور وہ حضرت عائشہ سے اعمش کی روایت کے مثل جو ابھی گزری، روایت کرتے ہیں۔ ابو معشر یہ حدیث ابراہیم سے وہ اسود سے اور وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں۔ اعمش کی حدیث اصح ہے۔

۱۰۱۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا أَبُو مَعَاوِيَةَ عَنِ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مَهْرَانَ عَنِ سَلِيمَانَ بْنِ يَسَّارٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا غَسَلَتْ مَنِيًّا مِنْ تَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

۱۰۱۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے کپڑوں سے منی دھوئی۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور حضرت عائشہ کی یہ حدیث کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے کپڑوں سے منی دھوئی، گھرچنے والی حدیث کی مخالف نہیں۔ اگرچہ کھرچنا بھی کافی ہے، پسند کیا جاتا ہے کہ منی کا اثر کپڑے پر نہ ہو۔ ابن عباس کہتے ہیں منی تھوک کی طرح ہے اسے اپنے سے دور کرے اگرچہ لکڑی سے ہو۔

باب ۸۷۔ فی الْجُنُبِ یَنَامُ قَبْلَ أَنْ یَغْتَسِلَ

باب ۸۷۔ جنبی کے بغیر غسل کئے، سونے سے متعلق۔

۱۰۲۔ حدثنا هناد نا ابوبکر بن عیاش عن الاعمش عن ابی اسحق عن الآسود عن عائشة قالت كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ وَلَا يَمَسُّ مَاءً

۱۰۲۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی اکرم ﷺ جنابت میں سو جایا کرتے اور پانی کو ہاتھ بھی نہ لگاتے۔

ہناد، کبج سے وہ سفیان سے اور وہ ابواسحاق سے اس کے مثل روایت کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں۔ ابن سیب وغیرہ کا یہی قول ہے اور کئی حضرات نے اسود سے روایت کیا ہے وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ سونے سے پہلے وضو کیا کرتے تھے۔ یہ ابواسحاق کی حدیث سے اصح ہے جو وہ اسود سے روایت کرتے ہیں۔ اور یہ حدیث ابواسحاق سے شعبہ، ثوری اور کئی حضرات نے روایت کی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اس میں ابواسحاق سے غلطی ہوئی ہے۔

باب ۸۸۔ فی الْوُضُوءِ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ

باب ۸۸۔ جنبی جب سونے کا ارادہ کرے تو وضو کر لے

۱۰۳۔ حدثنا محمد بن المثنیٰ نا یحییٰ بن سعید عن عبید اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ

۱۰۳۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم ﷺ سے پوچھا کہ کیا ہم میں سے کوئی جنبی ہوتے ہوئے سو جائے؟ فرمایا: ہاں اگر وضو کر لے۔

اس باب میں عمار، عائشہ، جابر، ابوسعید اور ام سلمہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت عمر کی حدیث اس باب میں اصح اور احسن ہے۔ اور یہ صحابہ و تابعین میں سے کئی حضرات جیسے کہ سفیان ثوری، ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق کا قول ہے۔ ان حضرات کا کہنا ہے کہ اگر حالت جنابت میں کوئی سونے کا ارادہ کرے تو سونے سے پہلے وضو کرے۔

باب ۸۹۔ مَا جَاءَ فِي مُصَافِحَةِ الْجُنُبِ

باب ۸۹۔ جنبی سے مصافحے سے متعلق

۱۰۴۔ حدثنا اسحاق بن منصور نا یحییٰ بن سعید القطان نا حمید الطویل عن بکر بن عبد اللہ المزنی عن أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَقِيَهُ وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ فَأَنْخَسْتُ فَأَغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ فَقَالَ آيِنَ كُنْتُ أَوْ آيِنَ ذَهَبْتَ قُلْتُ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجَسُ

۱۰۴۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا رسول اللہ ﷺ سے اس حالت میں سامنا ہوا کہ میں جنبی تھا چنانچہ میں آنکھ پچا کر نکل گیا۔ پھر غسل کیا اور آیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہاں تھے؟ تم، یا فرمایا کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے کہا میں حالت جنابت میں تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: مؤمن کبھی ناپاک نہیں ہوتا۔

اس باب میں حذیفہ بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث ابو ہریرہ حسن صحیح ہے۔ اور کئی علماء جنبی سے مصافحہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنبی اور خائف کے پسینے میں بھی کوئی مضاقتہ نہیں۔

باب ۹۰۔ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي الْمَنَامِ مِثْلَ مَا

باب ۹۰۔ اس عورت کے متعلق جو خواب میں مرد کی طرح دیکھے۔

يَرَى الرَّجُلَ

۱۰۵۔ حدثنا ابن ابى عمر نا سفیان بن عيينة عن هشام بن عروة عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمة عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم ابنة ملحان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة تغي غسلاً إذا هي رأت في المنام مثل ما يرى الرجل قال نعم إذا هي رأت الماء فلتغسل قالت أم سلمة قلت لها فضحت النساء يا أم سليم

۱۰۵۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ام سلیم بنت ملحان حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ حق سے نہیں شرماتا کیا عورت پر بھی غسل واجب ہے اگر وہ خواب میں اسی طرح دیکھے جس طرح مرد دیکھتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں اگر وہ منی کو دیکھے تو غسل کرے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے کہا اے ام سلیم! تم نے عورتوں کو رسوا کر دیا۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور یہی اکثر فقہاء کا قول ہے کہ اگر عورت خواب میں اسی طرح دیکھے جیسے مرد دیکھتے ہیں اور منی خارج ہو جائے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہی سفیان ثوری اور شافعی بھی کہتے ہیں۔

توضیح: علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ شہوت کے ساتھ منی کے خارج ہونے سے عورت پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ (مترجم)

باب ۹۱۔ فی الرجل یستدی فی المرأة بعد الغسل

باب ۹۱۔ غسل کے بعد عورت کے جسم سے گرمی حاصل کرنا۔

۱۰۶۔ حدثنا هناد نا وكيع عن حريث عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت ربما اغتسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الجنابة ثم جاء فاستد فأبى فضممته إلى ولم اغتسل

۱۰۶۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: آنحضرت ﷺ اکثر غسل جنابت کے بعد آتے اور میرے جسم سے گرمی حاصل کرتے تو میں انہیں اپنے ساتھ چمٹا لیتی جب کہ میں نے غسل نہیں کیا ہوتا۔

امام ترمذی کہتے ہیں اس حدیث کی اسناد میں کوئی مضائقہ نہیں اور یہی کئی علماء صحابہ و تابعین کا قول ہے کہ اگر غسل کر لے تو بیوی کے بدن سے گرمی حاصل کرنے اور اس کے ساتھ سونے میں کوئی مضائقہ نہیں اگرچہ بیوی نے غسل نہ کیا ہو۔ شافعی، احمد، سفیان ثوری اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

باب ۹۲۔ التيمم للجنب إذا لم يجد الماء

باب ۹۲۔ پانی کی عدم موجودگی میں جنبی تیمم کرے۔

۱۰۷۔ حدثنا محمد بن بشارو محمود بن غيلان قالنا ابو احمد الزبيرى ناسفیان عن خالد الحذاء عن ابي قلابة عن عمرو بن بجدان عن ابي ذر ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ان الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسسه بشرته فإن ذلك خير وقال محمود في حديثه ان الصعيد

۱۰۷۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: کہ پاک مٹی مسلمان کا طہور ہے (پاک کرنے والی ہے) اگرچہ دس سال تک پانی نہ ملے۔ پھر اگر پانی مل جائے تو اسے اپنے جسم سے لگائے (یعنی اس سے طہارت حاصل کرے) اور یہ اس کے لئے بہتر ہے۔ محمود نے اپنی روایت میں "ان الصعيد الطيب وضوء المسلم" کے الفاظ بیان کیے ہیں (دونوں کے معنی ایک ہی ہیں)۔

الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ

اس باب میں ابو ہریرہؓ، عبداللہ بن عمرؓ اور عمران بن حصینؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں۔ کئی راویوں نے اسے خالد الخذاء سے انہوں نے عمرو بن بجدان سے اور انہوں نے ابو ذرؓ سے اسی طرح بیان کیا ہے یہ حدیث ایوب نے بھی ابو قلابہ سے انہوں نے بنی عامر کے ایک شخص سے اور انہوں نے ابو ذرؓ سے نقل کی ہے۔ اور اس شخص کا نام نہیں لیا۔ یہ حدیث حسن ہے۔ یہی قول تمام فقہاء کا ہے کہ اگر جنبی اور حائضہ کو پانی میسر نہ ہو تو تیمم کریں اور نماز پڑھیں۔

باب ۹۳۔ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ

اب ۹۳۔ مستحاضہ کے متعلق۔

۱۰۸۔ حَدَّثَنَا هِنَادٌ وَابُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةَ قَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاعْسَلِي عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِي قَالَ مُعَاوِيَةُ فِي حَدِيثِهِ وَقَالَ تَوَضَّعِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ لِكَ الْوَقْتِ

۱۰۸۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حبیش نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں ایسی عورت ہوں کہ جب استحاضہ آتا ہے تو پاک نہیں ہوتی کیا میں نماز چھوڑ دوں۔ فرمایا: نہیں یہ رگ ہوتی ہے (یعنی رگ کے پھٹ جانے کی وجہ سے یہ خون آتا ہے جو رحم سے علیحدہ ہوتی ہے مختصر یہ کہ اس کے اسباب مختلف ہوتے ہیں) حیض نہیں ہوتا۔ جب حیض کے دن آئیں تو نماز چھوڑ دیا کرو اور جب پورے ہو جائیں تو خون کو دھو ڈالو (یعنی غسل کر لو) اور نماز پڑھو۔ ابو معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی حدیث میں فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ہر نماز کے لئے وضو کرو یہاں تک کہ پھر وہی وقت آجائے۔ (یعنی حیض کا وقت۔ مترجم)

اس باب میں ام سلمہؓ بھی حدیث نقل کرتی ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث عائشہؓ حسن صحیح ہے۔ اور یہ کئی علماء صحابہؓ تابعین، سفیان ثوریؒ، ابن مبارکؒ اور شافعی کا قول ہے کہ جب مستحاضہ کے ایام حیض گزر جائیں تو غسل کرے اور ہر نماز کے لیے وضو کرے۔

باب ۹۴۔ مَا جَاءَ أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ

باب ۹۴۔ مستحاضہ ہر نماز کے لئے وضو کرے۔

۱۰۹۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ شَرِيكٍ عَنْ أَبِي الْيَقْظَانَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَدْعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا النَّبِيُّ كَانَتْ تَحِيضُ فِيهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَتَصُومُ وَتُصَلِّي

۱۰۹۔ حضرت عدی بن ثابت رضی اللہ عنہ اپنے والد سے وہ ان کے دادا سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے مستحاضہ کے متعلق فرمایا کہ اپنے حیض کے دنوں میں نماز کو چھوڑ دے (جن دنوں میں اسے حیض آتا تھا) پھر غسل کرے اور ہر نماز کے وقت وضو کرے اور روزے رکھے اور نماز پڑھے۔

علی بن حجر، شریک سے اس کے ہم معنی حدیث نقل کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں۔ شریک اس حدیث کو ابو الیقظان سے بیان کرنے میں منفرد ہیں۔ میں نے امام بخاری سے اس حدیث کے متعلق دریافت کیا اور کہا کہ عدی بن ثابت اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں۔ عدی کے دادا کا کیا نام ہے؟ امام بخاری ان کا نام نہیں جانتے تھے۔ پھر میں نے بخاری سے یحییٰ بن معین کا قول ذکر

کیا کہ ان کا نام دینار ہے تو انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ احمد اور اسحاق مستحاضہ کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر ہر نماز کے لیے غسل کر لے تو بہر اعتباراً افضل ہے اور اگر وضو پر اکتفاء کرے تو بھی کافی ہے اور اگر ایک غسل سے دو نمازیں پڑھ لے تب بھی کافی ہے۔

باب ۹۵۔ فی الْمُسْتَحَاضَةِ اَنَّهَا تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَوَتَيْنِ بِغُسْلِ وَاحِدٍ

۱۱۰۔ حدثنا محمد بن بشار نا ابو عامر العقدي نا

زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيب عن ابراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن امه حممة ابنة جحش قالت كنت استحاض حيصه كبيرة شديدة فأتيت النبي صلى

الله عليه وآله وسلم استفتيته وأخبرته فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله إني استحاض حيصه كبيرة شديدة فما تأمرني فيها

فقد منعتني الصيام والصلوة قال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم قالت هو أكثر من ذلك قال فتجسسي قالت هو أكثر من ذلك إنما أتج نجا فقال

النبي سامرك بأمرين أيهما صنعت اجزأ عنك فإن قويت عليها فانت أعلم فقال إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله

ثم اغتسلي فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي أربعة وعشرين ليلة أو ثلاثة وعشرين ليلة وآيامها وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك

فأفعلتي كما تحيض النساء وكما يطهران لميقات حيضهن وطهرهن فإن قويت على أن تؤخرى الطهر وتعتجلي العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلين الطهر والعصر جميعاً ثم تؤخرين المغرب وتعتجلين

العشاء ثم تغتسلي وتجمعين بين الصلوتين فأفعلتي وتغتسلي مع الصبح وتصلين وكذلك فأفعلتي وصومي إن قويت على ذلك فقال رسول الله صلى

الله عليه وآله وسلم ما رأيت منك شيئاً إلا ما أحببت

۱۱۱۔ حدثنا محمد بن بشار نا ابو عامر العقدي نا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيب عن ابراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن امه حممة ابنة جحش قالت كنت استحاض حيصه كبيرة شديدة فأتيت النبي صلى

الله عليه وآله وسلم استفتيته وأخبرته فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله إني استحاض حيصه كبيرة شديدة فما تأمرني فيها

فقد منعتني الصيام والصلوة قال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم قالت هو أكثر من ذلك قال فتجسسي قالت هو أكثر من ذلك إنما أتج نجا فقال النبي سامرك بأمرين أيهما صنعت اجزأ عنك فإن قويت عليها فانت أعلم فقال إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله

ثم اغتسلي فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي أربعة وعشرين ليلة أو ثلاثة وعشرين ليلة وآيامها وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك فأفعلتي كما تحيض النساء وكما يطهران لميقات حيضهن وطهرهن فإن قويت على أن تؤخرى الطهر وتعتجلي العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلين الطهر والعصر جميعاً ثم تؤخرين المغرب وتعتجلين

العشاء ثم تغتسلي وتجمعين بين الصلوتين فأفعلتي وتغتسلي مع الصبح وتصلين وكذلك فأفعلتي وصومي إن قويت على ذلك فقال رسول الله صلى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْإِسْلَامُ وَهُوَ أَحَبُّ الْأُمَمِينَ إِلَيَّ (دوسری) مجھے زیادہ پسند ہے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسے عبید اللہ بن عمر والرقی، ابن جریج اور شریک نے عبد اللہ بن محمد عقیل سے انہوں نے ابراہیم بن محمد بن طلحہ سے انہوں نے اپنے چچا عمران سے اور انہوں نے اپنی والدہ حمنہ سے نقل کیا ہے۔ لیکن ابن جریج انہیں عمر بن طلحہ کہتے ہیں جب کہ صحیح عمران بن طلحہ ہی ہے۔ میں نے امام بخاری سے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو کہا یہ حدیث حسن ہے احمد بن حنبل بھی اسے حسن صحیح کہتے ہیں۔ احمد اور اسحاق مستحاضہ کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنے حیض کی ابتداء اور انتہاء جان سکتی ہو۔ (اس کی ابتداء خون کے سیاہ ہونے سے اور انتہاء زرد ہونے سے ہوتی ہے) تو اس کا حکم فاطمہ بنت جحش کی حدیث کے مطابق ہوگا۔ اور اگر ایسی مستحاضہ ہے جس کے حیض کے دن معروف ہیں۔ تو وہ اپنے مخصوص دنوں میں نماز چھوڑ دے اور پھر غسل کرے اور ہر نماز کے لیے وضو کرے اور نماز پڑھے۔ اور اگر خون مستقل آنے لگے اور اس کے ایام پہلے سے معروف نہ ہوں اور نہ ہی وہ خون کی رنگت سے فرق کر سکتی ہو تو اس کا حکم بھی حمنہ بنت جحش کی حدیث کے موافق ہوگا۔ امام شافعی کہتے ہیں مستحاضہ کو جب ہمیشہ خون آنے لگے تو خون کے شروع ہی میں پندرہ دن تک نماز چھوڑ دے اگر پندرہ دن یا اس سے پہلے پاک ہوگئی تو وہی اس کے حیض کے دن ہیں۔ اور اگر خون پندرہ دن سے تجاوز کر گیا تو چودہ دن کی نماز قضا کرے اور ایک دن و رات کی نماز چھوڑ دے کیونکہ حیض کی کم سے کم مدت یہی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حیض کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ مدت میں اختلاف ہے بعض علماء کے نزدیک کم سے کم مدت تین دن اور زیادہ سے زیادہ دس دن ہے۔ یہ قول سفیان ثوری اور اہل کوفہ (احناف) کا بھی ہے۔ ابن مبارک بھی اسی پر عمل کرتے ہیں جب کہ ان سے اس کے خلاف بھی منقول ہے۔ بعض اہل علم جن میں عطاء بن ابی رباح بھی ہیں، کہتے ہیں کم سے کم حیض کی مدت ایک دن رات اور زیادہ سے زیادہ پندرہ دن ہے۔ مالک، شافعی، احمد، اسحاق، اوزاعی اور ابو عبیدہ کا بھی یہی قول ہے۔

باب ۹۶۔ مَا جَاءَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ أَنَّهَا تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

۱۱۱۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ اسْتَفْتَيْتُ أُمَّ حَبِيْبَةَ ابْنَةَ جَحْشِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي اسْتَحَاضْتُ فَلَا أَطْهَرُ فَأَدْعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ فَاعْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ

قتیبہ کہتے ہیں لیث نے کہا کہ ابن شہاب نے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ آنحضرت ﷺ نے ام حبیبہ کو ہر نماز کے وقت غسل کرنے کا حکم دیا بلکہ یہ ان کی اپنی طرف سے تھا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث زہری سے بھی منقول ہے۔ وہ عمرہ اور وہ حضرت عائشہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ام حبیبہ نے پوچھا..... الخ بعض علماء کہتے ہیں کہ مستحاضہ ہر نماز کے لیے غسل کر لیا کرے۔ نیز اوزاعی نے بھی یہ حدیث زہری سے انہوں نے عمرہ اور عمرہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ سے نقل کی ہے۔

باب ۹۷۔ مَا جَاءَ فِي الْحَائِضِ أَنَّهَا لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ

باب ۹۷۔ حائضہ عورت نمازوں کی قضا نہ کرے۔

۱۱۲۔ حدثنا قتيبة نا حماد بن زيد عن ايوب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تحيضن الا في ايام منحيضها فقالت احرورية انت قد كانت احلانا تحيض فلا تؤمرن بقضاء

۱۱۲۔ حضرت معاذہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کیا ہم میں سے کوئی حیض کے دنوں نماز کی قضا کرے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے لگیں کیا تم حروریہ (۱) ہم میں سے کسی کو حیض آتا تھا تو اسے قضا کا حکم نہ دیتا تھا۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور حضرت عائشہ سے کئی سندوں سے منقول ہے کہ حائضہ نماز کی قضا نہ کرے۔ تمام فقہاء اس پر متفق ہیں کہ حائضہ روزے کی تو قضا کرے گی لیکن نماز کی نہیں۔

باب ۹۸۔ ماجاء في الجنب والحائض انهما لا يقرآن القرآن

باب ۹۸۔ جنبی اور حائضہ کے قرآن نہ پڑھنے کے متعلق۔

۱۱۳۔ حدثنا علي بن حجر والحسن بن عرفة قالنا اسمعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن

۱۱۳۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ، نبی اکرم ﷺ سے نقل کرتے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا: حائضہ اور جنبی قرآن میں سے کچھ نہ پڑھیں۔

اس باب میں حضرت علیؑ سے بھی حدیث منقول ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ ابن عمر کی حدیث کو ہم اسماعیل بن عیاش کی حدیث کے نہیں جانتے وہ موسیٰ بن عقبہ سے وہ نافع سے وہ ابن عمر سے اور وہ نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جنبی اور حائضہ قرآن نہ پڑھیں یہی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین میں سے اکثر اہل علم کا قول ہے جیسے کہ سفیان ثوری، ابن مبارک، شافعی، اسحاق اور احمد، یہ حضرات کہتے ہیں: حائضہ اور جنبی کے لیے کسی آیت کے ایک کلمے یا حرف وغیرہ سے زیادہ پڑھنے کی ممانعت ہے جب کہ تسبیح و تہلیل کی اجازت دینے میں۔ ترمذی کہتے ہیں میں نے امام محمد بن اسماعیل بخاری سے سنا کہ اسماعیل بن عیاش اہل عراق اور اہل حجاز سے منکر احادیث روایت کرتے ہیں۔ گویا ان کی مقرر روایات کو امام بخاری ضعیف سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسماعیل بن عیاش کی وہی روایات معتبر ہیں جو وہ اہل شام سے نقل کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اسماعیل بن عیاش بقیہ (راوی کا نام) سے بہتر ہیں۔ بقیہ، ثقہ لوگوں سے بہت سی منکر حدیثیں نقل کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں مجھے احمد بن حسن نے یہ باتیں بتائیں اور کہا کہ میں نے احمد بن حنبل سے یہ باتیں سنی تھیں۔

باب ۹۹۔ ماجاء في مباشرة الحائض

باب ۹۹۔ حائضہ سے مباشرت سے متعلق۔

۱۱۴۔ حدثنا بندار ثنا عبدالرحمن بن مهدي عن سفیان عن منصور عن ابراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا حضت يأمرني أن أتزر ثم يباشرني

۱۱۴۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: جب میں حائضہ ہوتی تھی نبی کریم ﷺ مجھے تھپند باندھنے کا حکم دیتے اور پھر میرے ساتھ بوزر و کنار کرتے۔

اس باب میں ام سلمہ اور میمونہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث عائشہ حسن صحیح ہے اور یہ صحابہ اور تابعین میں سے کئی اہل علم کا قول ہے۔ شافعی، احمد اور اسحاق بھی یہی کہتے ہیں۔

(۱) حروویہ: یہ خوارج کا ایک فرقہ ہے۔ (مزہم)

اب ۱۰۰۔ مَا جَاءَ فِي مُوَاَكَلَةِ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ سُورَهُمَا
 باب ۱۰۰۔ جنبی اور حائضہ کے ساتھ کھانے اور ان کے جوٹھے سے متعلق
 ۱۱۴۔ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَلَى قَالَا نَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدَى نَا مِعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَرَامِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ سَعْدٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُوَاَكَلَةِ الْحَائِضِ فَقَالَ وَاتَّكَلَهَا

اس باب میں عائشہ اور انس بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں عبد اللہ بن سعد کی حدیث حسن غریب ہے اور یہ تمام علماء کا قول ہے کہ حائضہ کے ساتھ کھانے پینے میں کوئی مضا لقتہ نہیں۔ جب کہ اس کے وضو سے بچے ہوئے پانی میں اختلاف ہے۔ بعض اس کی اجازت دیتے ہیں اور بعض اسے مکروہ کہتے ہیں۔

باب ۱۰۱۔ مَا جَاءَ فِي الْحَائِضِ تَتَنَوَّلُ الشَّيْءَ مِنَ الْمَسْجِدِ
 باب ۱۰۱۔ حائضہ کوئی چیز مسجد سے لے سکتی ہے۔

۱۱۶۔ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ نَاعِبِيَّةُ نَا عَبِيدَةَ بْنِ حَمِيدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَا وَلِيِّنِي الْحُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَتْ قُلْتُ إِنِّي حَائِضٌ قَالَ إِنْ حِضَّتَكَ لَيْسَتْ فِي يَدِكَ

اس باب میں ابن عمر اور ابو ہریرہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث عائشہ حسن صحیح ہے اور یہی تمام اہل علم کا قول ہے۔ ہمیں ان میں اختلاف کا علم نہیں کہ حائضہ کے مسجد میں سے کوئی چیز لینے میں کوئی مضا لقتہ نہیں۔

مسئلہ: امام ابو حنیفہ، امام مالک، سفیان ثوری اور جمہور اہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ جنبی اور حائضہ کے لیے مسجد میں داخل ہونا اس میں ٹھہرنا یا اس سے گزرنا جائز نہیں۔ ان کی دلیل حضرت عائشہ کی حدیث ہے جو ابو داؤد میں مذکور ہے ”فأني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب“ میں حائضہ اور جنبی کے لیے مسجد کو حلال نہیں کرتا۔ اس باب کی حدیث کے متعلق قاضی عیاض کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت عائشہ کو بوریا لانے کا حکم اس وقت دیا جب وہ خود مسجد میں تھے اور اعراف میں تھے۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۱۰۲۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ إِيْتَانِ الْحَائِضِ
 باب ۱۰۲۔ حائضہ سے صحبت کی حرمت سے متعلق
 ۱۱۷۔ حَدَّثَنَا بِنْدَارُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدَى وَبُهَيْرُ بْنُ أَسَدٍ قَالُوا نَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ

۱۱۷۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جس نے حائضہ سے صحبت کی یا عورت کے پیچھے سے آیا، یا کسی کا ہن (۱)

(۱) کا ہن اس شخص کو کہتے ہیں جو غیب کی باتیں بیان کرے اور معرفت امر اور کون کا مدعی ہو۔ (مترجم)

عن حکیم الاثرم عن ابی تَمِيمَةَ الْهَجَمِيِّ عَنْ
 أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 مَنْ آتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي ذُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ
 كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيَّ مُحَمَّدٌ

امام ترمذی کہتے ہیں ہم اس حدیث کو حکیم الاثرم کی روایت کے علاوہ نہیں جانتے وہ ابو تیمہ الجعفی سے اور وہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، اس حدیث کا اہل علم کے نزدیک معنی سختی اور وعید کا ہے اور حضور اکرم ﷺ سے منقول ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا جو حائض کے ساتھ جماع کرے وہ ایک دینار صدقہ کرے اگر یہ کفر ہوتا تو آپ ﷺ کفارے کا حکم فرماتے۔ بخاری اس حدیث کو سند کی رو سے ضعیف قرار دیتے ہیں ابو تیمہ الجعفی کا نام طریف بن خالد ہے۔

باب ۱۰۳۔ اس کے کفارے سے متعلق۔

باب ۱۰۳۔ مَا جَاءَ فِي الْكُفَّارَةِ فِي ذَلِكَ

۱۱۸۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اس شخص کے متعلق جو اپنی بیوی سے حیض کے دنوں میں جماع کر لے فرمایا کہ آدھا دینار صدقہ کرے۔

۱۱۸۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ نَا شَرِيكَ عَنْ حَصِيفٍ
 عَنِ مِقْسَمِ بْنِ أَبِي عُبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ
 قَالَ يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ

۱۱۹۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضور اکرم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: کہ اگر خون سرخ رنگ کا ہو تو ایک دینار اور اگر زرد رنگ کا ہو تو نصف دینار صدقہ کرے۔

۱۱۹۔ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَرِثِ نَا الْفَضْلُ بْنُ
 مُوسَى عَنْ أَبِي حَمْزَةَ السَّكْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ
 مِقْسَمِ بْنِ أَبِي عُبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
 وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فِدِينَارٌ وَإِنْ كَانَ دَمًا
 أَصْفَرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ

امام ترمذی کہتے ہیں کفارے کی حدیث حضرت ابن عباس سے مرفوع اور مقوف دونوں طرح منقول ہے اور یہ بعض علماء کا قول ہے۔ احمد اور اسحاق بھی یہی کہتے ہیں ابن مبارک کہتے ہیں کہ استغفار کرے اس پر کفارہ نہیں۔ بعض تابعین جیسے کہ سعید بن جبیر اور ابراہیم سے بھی ابن مبارک کے قول کے مثل منقول ہے (جمہور کے نزدیک کفارے کا حکم منسوخ ہے۔ استغفار کرنا چاہیے)

باب ۱۰۴۔ کپڑے سے حیض کا خون دھونے سے متعلق۔

باب ۱۰۴۔ مَا جَاءَ فِي غَسْلِ دَمِ الْحَيْضِ مِنَ
 الثُّوبِ

۱۲۰۔ حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت نے حضور اکرم ﷺ سے اس کپڑے کا حکم دریافت کیا جس میں حیض کا خون لگ گیا ہو! آپ ﷺ نے فرمایا: اس کو کھرچ ڈالو (ہاتھ سے) پھر پانی ڈال کر ملو۔ پھر اس پر پانی بہاؤ اور اسی کپڑے میں نماز پڑھو۔

۱۲۰۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ نَا سَفِيانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ
 عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةَ أَبِي
 بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثُّوبِ يُصِيبُهُ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَقَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خُتِّبِهِ ثُمَّ

أَقْرَصِيهِ بِالْمَاءِ ثُمَّ رُشِيهِ وَصَلِّي فِيهِ

اس باب میں ابو ہریرہؓ اور ام قیس بنت محسنؓ سے بھی احادیث نقل کی جاتی ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں خون کو دھونے کی حضرت اسماءؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور اہل علم کا اس میں اختلاف ہے کہ اگر کپڑے میں خون لگا ہو اور اس کو دھونے سے پہلے اگر کوئی شخص اس کپڑے میں نماز پڑھے۔ تو بعض علماء تابعین کہتے ہیں کہ اگر خون ایک درہم کی مقدار میں تھا اور اسے دھوئے بغیر نماز پڑھی تو نماز لوٹانی پڑے گی۔ یہ سفیان ثوری اور ابن مبارک کا قول ہے جب کہ بعض اہل علم تابعین وغیرہ کا کہنا ہے کہ اس کے لیے نماز لوٹانا ضروری نہیں۔ یہ احمد اور اسحاق کا قول ہے۔ شافعی کہتے ہیں کہ اس کا دھونا واجب ہے اگرچہ وہ ایک درہم سے کم مقدار میں ہی ہو۔

باب ۱۰۵۔ مَا جَاءَ فِي كَمِّ تَمَكُّثِ النِّفْسَاءِ عورتوں کے نفاس کی کئی مدت ہے؟

۱۲۱۔ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ نَاشِحًا بِنَاصِحَةٍ ابْنِ الْوَلِيدِ ابُو بَدْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي سَهْلٍ عَنْ مُسَةَ الْأَزْدِيَّةِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَتْ النَّفْسَاءُ تَجْلِسُ عَلَيَّ عَهْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَكُنَّا نَطْلِي وَجُوهَنَا بِالْوَرَسِ مِنَ الْكَلْفِ

۱۲۱۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نفساء (وہ عورتیں جن کو نفاس کا خون آتا ہو) رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں چالیس روز تک بیٹھی رہتی تھیں اور ہم اپنے چہروں پر جھانسیوں کی وجہ سے بنا (۱) ملتے تھے۔

امام ترمذی کہتے ہیں ہم اس حدیث کو ابو اہل کی روایت کے علاوہ کسی اور کی روایت سے نہیں جانتے وہ مسۃ الازدیہ سے اور وہ ام سلمہؓ سے نقل کرتی ہیں۔ ابو اہل کا نام کثیر بن زیاد ہے بخاری کہتے ہیں علی بن عبد الاعلیٰ اور ابو اہل ثقہ ہیں۔ وہ بھی اس حدیث کو ابو اہل کے علاوہ کسی کی روایت سے نہیں جانتے۔ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین میں سے تمام اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ نفساء چالیس دن تک نماز ترک کر دے۔ الا یہ کہ اس سے پہلے پاک ہو جائے (خون بند ہو جائے) تو غسل کرے اور نماز پڑھے۔ اور اگر چالیس دن کے بعد بھی خون بند نہ ہو تو اکثر علماء کہتے ہیں کہ نماز ترک نہ کرے۔

یہ اکثر فقہاء کا قول ہے جیسے کہ سفیان ثوریؓ، ابن مبارکؓ، شافعیؓ، احمدؓ اور اسحاقؓ، حسن بصریؓ سے منقول ہے کہ: اگر پاک نہ ہو تو پچاس روز تک نماز نہ پڑھے جب کہ عطاء بن ابی رباح اور شعبی سے ساٹھ دن تک نماز کا ترک کرنا منقول ہے۔

باب ۱۰۶۔ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ عَلَيَّ نِسَائِهِ بِغَسَلٍ وَاجِدٍ

باب ۱۰۶۔ کئی بیویوں سے صحبت کرنے کے بعد آخر میں ایک ہی غسل کرنے سے متعلق

۱۲۲۔ حَدَّثَنَا بِنْدَارُ بْنُ أَبِي أَحْمَدَ نَا سَفِيَانَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَيَّ نِسَائِهِ فِي غَسَلٍ وَاجِدٍ

۱۲۲۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اپنی سب بیویوں سے صحبت کرتے اور آخر میں ایک غسل کر لیتے۔

اس باب میں ابورافع سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث انس صحیح ہے اور یہ کئی علماء کا قول ہے جن میں حسن بصریؓ بھی شامل ہیں کہ اگر وضو کیے بغیر دوبارہ صحبت کر لے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ محمد بن یوسف بھی اسے سفیان سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں: ابوعروہ سے روایت ہے وہ ابو خطاب سے اور وہ انس سے روایت کرتے ہیں۔ ابوعروہ کا نام معمر بن راشد اور ابو خطاب کا قتادہ بن دعامہ ہے۔

(۱) یہ ایک خوشبودار مسالہ ہوتا ہے جو جسم کو صاف اور ملائم کرنے کے لیے ملا جاتا ہے۔ (مترجم)

باب ۱۰۷۔ مَا جَاءَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ تَوَضَّأَ

باب ۱۰۷۔ اگر دوبارہ صحبت کا ارادہ کرے تو وضو کرے۔

۱۲۳۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا آتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وَضُوءًا

۱۲۳۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے صحبت کرے اور پھر دوبارہ صحبت کا ارادہ کرے تو دونوں مرتبہ کے درمیان وضو کرے۔

اس باب میں حضرت عمرؓ سے بھی حدیث نقل کی گئی ہے۔ امام ترمذیؒ کہتے ہیں ابوسعیدؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور عمر بن خطابؓ کا بھی یہی قول ہے اور یہی قول کئی علماء نے اختیار کیا ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی سے صحبت کرے اور پھر دوبارہ کرنے کا ارادہ کرے تو اس سے پہلے وضو کرے۔ ابوالتوکل کا نام علی بن داؤد اور ابوسعید خدری کا نام سعد بن مالک بن سنان ہے۔

باب ۱۰۸۔ اِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ تَوَضَّأَ

باب ۱۰۸۔ اگر نماز کی اقامت ہو جائے اور تم میں سے کسی کو تقاضہ حاجت ہو تو پہلے بیت الخلاء جائے۔

باب ۱۰۸۔ مَا جَاءَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَوَجَدَ أَحَدُكُمْ الْحَلَاءَ فَلْيَبْدَأْ بِالْحَلَاءِ

۱۲۴۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ أَبِي مَعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَدَّمَ مَهْ وَكَانَ إِمَامَ الْقَوْمِ وَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَوَجَدَ أَحَدُكُمْ الْحَلَاءَ فَلْيَبْدَأْ بِالْحَلَاءِ

اس باب میں عائشہؓ، ابو ہریرہؓ، ثوبانؓ اور ابوامامہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ امام ترمذیؒ کہتے ہیں عبداللہ بن ارقم کی حدیث حسن صحیح ہے، اسی طرح مالک بن انسؓ، یحییٰ بن سعید قطان اور کئی حفاظ حدیث، ہشام بن عروہ سے وہ اپنے والد سے وہ ایک شخص سے اور وہ عبداللہ بن ارقم سے نقل کرتے ہیں اور یہ کئی علماء صحابہ اور تابعین کا قول ہے۔ احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر پیشاب یا پاخانہ کی حاجت ہو تو نماز کے لیے نہ کھڑا ہو۔ مزید کہتے ہیں کہ اگر نماز شروع کرنے کے بعد تقاضہ حاجت ہو تو نماز نہ توڑے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر تقاضہ حاجت شدید نہ ہو تو نماز پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں۔

مسئلہ: حنفیہ کے ہاں اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر حاجت کا تقاضا شدید تو نہ ہو لیکن نماز سے توجہ ہٹا دے اور خشوع جاتا رہے تو اس حالت میں نماز ادا کرنا مکروہ تزیہی ہے اور اگر تقاضا معمولی ہو تو یہ ترک جماعت کا عذر نہیں۔ (مترجم)

باب ۱۰۹۔ اِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ تَوَضَّأَ

باب ۱۰۹۔ اگر وہ دھونے سے متعلق۔

باب ۱۰۹۔ مَا جَاءَ فِي التَّوَضُّؤِ مِنَ الْمُوَطِئِ

۱۲۵۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أُمِّ وَكَيْدٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَتْ قُلْتُ لِأُمِّ سَلَمَةَ إِنِّي امْرَأَةٌ أَطِيلُ ذَيْلِي وَأَمْسِي فِي الْمَكَانِ الْقَدِيرِ فَقَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

۱۲۵۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی ام ولد سے روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ میں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کہا: میں ایسی عورت ہوں کہ اپنا دامن لمبا رکھتی اور ناپاک جگہوں سے گذرتی ہوں ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس کو اس کے بعد کا راستہ

پاک کر دیتا ہے۔

اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْإِلَهُ وَسَلَّمَ يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ

عبداللہ بن مبارک اس حدیث کو مالک بن انس سے وہ محمد بن عمارہ سے وہ محمد بن ابراہیم سے وہ ابراہیم بن عبدالرحمن بن عوف کی ام ولد سے اور وہ ام سلمہؓ سے نقل کرتی ہیں۔ یہ وہم ہے کیوں کہ وہ ابراہیم بن عبدالرحمن بن عوف کی ام ولد سے اور وہ ام سلمہؓ سے روایت کرتی ہیں اور یہی صحیح ہے۔ اس باب میں عبداللہ بن مسعود سے بھی یہ حدیث منقول ہے کہ ہم حضور اکرم ﷺ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور گدراہ کی وجہ سے وضو نہیں کرتے تھے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ کئی اہل علم کا قول ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر شخص ناپاک جگہ سے گزرے تو اسے پاؤں دھونا ضروری نہیں۔ لیکن اگر نجاست گیلی ہو تو اسے دھوئے۔

باب ۱۱۰۔ تیمم کا بیان۔

باب ۱۱۰۔ مَا جَاءَ فِي التَّيْمُمِ

۱۲۶۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ان کو چہرے اور ہتھیلیوں پر تیمم کا حکم دیا۔

۱۲۶۔ حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلَّاسُ نَا بِيْرِيْعَ بْنَ زُرَيْعٍ نَا سَعِيْدَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْإِلَهُ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ بِالتَّيْمُمِ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ

اس باب میں حضرت عائشہؓ اور ابن عباسؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ ابو یسلیٰ ترمذی کہتے ہیں حدیث عمار حسن صحیح ہے اور ان سے کئی سندوں سے منقول ہے۔ یہ قول کئی اہل علم صحابہ جیسے کہ علیؓ، عمارؓ، ابن عباسؓ اور کئی تابعین جیسے کہ شعی، عطاء اور کجول کا ہے ان حضرات کا کہنا ہے کہ تیمم ایک ہی مرتبہ منہ اور ہتھیلیوں کے لیے ہاتھ مارنا ہے۔ یہی احمد اور اسحاق کا بھی قول ہے۔ جب کہ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ تیمم میں دو مرتبہ ہاتھ مارے جاتے ہیں ایک بار منہ کے لیے اور دوسری بار کہنوں تک دونوں ہاتھوں کے لیے۔ ان علماء میں ابن عمر، جابر، ابراہیم اور حسن شامل ہیں۔ یہی قول سفیان ثوری، مالک، ابن مبارک اور شافعی کا بھی ہے۔ (۱) تیمم کے متعلق یہی بات عمار سے بھی منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا: تیمم منہ اور ہتھیلیوں پر ہے۔ یہ عمار سے کئی سندوں سے منقول ہے ان سے یہ بھی منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا: کہ ہم نے بغلوں اور شانوں تک نبی اکرم ﷺ کے ساتھ تیمم کیا۔ بعض اہل علم نے حضرت عمارؓ کی حضور اکرم ﷺ سے منقول حدیث جس میں منہ اور ہتھیلیوں کا ذکر ہے کو ضعیف کہا ہے اس لیے کہ شانوں اور بغلوں تک والی حدیث بھی انہی سے منقول ہے۔ اسحاق بن ابراہیم کہتے ہیں عمار کی منہ اور ہتھیلیوں پر تیمم والی حدیث صحیح ہے۔ اور ان کی دوسری حدیث کہ ہم نے آنحضرت ﷺ کے ساتھ شانوں اور بغلوں تک تیمم کیا ان سے مروی منہ اور ہتھیلیوں والی حدیث کی مخالف نہیں اس لیے کہ عمار نے یہ ذکر نہیں کیا۔ حضور اکرم ﷺ نے انہیں اس کا حکم دیا تھا بلکہ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے اس طرح کیا پھر جب انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا تو آپ ﷺ نے منہ اور ہتھیلیوں کا حکم دیا۔ اس کی دلیل حضرت عمارؓ کا حضور اکرم ﷺ کے بعد تیمم کے متعلق فتویٰ ہے کہ تیمم منہ اور ہتھیلیوں کا ہے۔ اس میں اس بات پر دلالت ہے کہ انہوں نے اس وقت تک ایسا کیا جب تک آنحضرت ﷺ نے انہیں سکھانہیں دیا۔ ہم سے یحییٰ بن موسیٰ نے انہوں نے سعید بن سلیمان سے انہوں نے محمد بن خالد قرشی سے انہوں نے داؤد بن حصین سے انہوں نے عکرمہ سے اور انہوں نے ابن عباس سے روایت کی کہ ابن عباسؓ سے تیمم کے متعلق پوچھا گیا تو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں وضو کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے

(۱) احناف کا بھی یہی مسلک ہے کہ تیمم میں دو مرتبہ ہاتھ مارے جائیں گے۔ (مترجم)

”فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ“ یعنی اپنے چہرے اور ہاتھ کہنیوں تک دھوؤ اور تیمم کے متعلق فرمایا ”فَامَسْحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ“ یعنی اس سے منہ اور ہاتھوں پر مسح کرو اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا“ یعنی چور مرد اور عورت کا ہاتھ کاٹ دو۔ سنت سے ثابت ہے کہ ہاتھ گٹوں تک کاٹا جاتا ہے لہذا تیمم بھی چہرے اور ہاتھوں کا ہے (یعنی گٹوں تک) امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

توضیح: حضرت ابن عباسؓ کے آیت سرقہ پر قیاس کا مطلب بعض حضرات نے یہ لیا کہ وہ تیمم کو چوری میں ہاتھ کاٹنے جانے کی سزا پر قیاس کر رہے ہیں لیکن یہ صحیح نہیں۔ درحقیقت حضرت ابن عباسؓ آیت تیمم میں لفظ ”ایدی“ کے اطلاق سے استدلال کر رہے ہیں اور اس کی نظیر میں آیت سرقہ کو پیش کرتے ہیں۔ لہذا یہ لفظ کا لفظ پر قیاس ہے۔ جمہور نے حضرت ابن عباسؓ کے اس قیاس کے معارضہ میں تیمم کو وضو پر قیاس کیا ہے اور یہ معنی کا معنی پر قیاس ہے۔ اس کو اس لیے بھی ترجیح حاصل ہے کہ تیمم وضو کا خلیفہ ہے۔ لہذا یہ زیادہ ممکن ہے کہ وضو میں مرفقین کا ذکر کر کے تیمم کو بھی اسی پر محمول کیا گیا ہو۔ لہذا تیمم میں دونوں ہاتھوں کا کہنیوں تک مسح کرنے میں ہی احتیاط ہے۔ واللہ اعلم۔ (مترجم) (۱)

باب ۱۱۱۔ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا

۱۲۷۔ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجِيُّ نَا حَفْصَ بْنَ غِيَاثٍ وَعُقْبَةَ بْنَ خَالِدٍ قَالَا نَا الْأَعْمَشُ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَمْرٍو بْنِ مَرَّةٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا

امام ترمذی کہتے ہیں حدیث علیؓ صحیح ہے اور یہی کئی اہل علم صحابہ اور تابعین کا قول ہے ان حضرات کا کہنا ہے کہ بے وضو شخص کے لیے قرآن پڑھنا جائز ہے لیکن مصحف میں اس وقت تک نہ پڑھے جب تک کہ با وضو نہ ہو۔ شافعی، سفیان ثوری، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

باب ۱۱۲۔ مَا جَاءَ فِي الْبَوْلِ يُصِيبُ الْأَرْضَ

۱۲۸۔ حَدَّثَنَا ابْنُ عَمْرٍو سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَا نَا سَفْيَانُ بْنُ عَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ الْمَسْجِدَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فَصَلَّى فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا

(۱) مرفقین کہنیوں کو کہتے ہیں (مترجم)

(۲) جامع ترمذی کے بعض نسخوں میں اس کا یہ عنوان مذکور ہے۔ (مترجم)

ابھی تھوڑی ہی دیر نہ گزری تھی کہ اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا اور لوگ اس کی طرف دوڑے۔ آپ ﷺ نے فرمایا اس پر پانی کا ایک ڈول بہا دو۔ آپ ﷺ نے ”سجلا“ فرمایا ”دلو“ دونوں کے معنی ایک ہی ہیں پھر فرمایا تم لوگ آسانی کے لئے بیٹھے گئے ہونہ کھتی کے لئے۔

تَرَحَّمْ مَعَنَا أَحَدًا فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدْ تَحَحَّرْتُ وَاسْعَأَ فَلَئِمْتُ أَنْ بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَاسْرَعَ إِلَيْهِ النَّاسُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَهْرَبُوا عَلَيْهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ أَوْ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُبَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ

سعید کہتے ہیں کہ سفیان اور یحییٰ بن سعید بھی حضرت انس بن مالک سے اس کے مثل حدیث نقل کرتے ہیں۔ اس باب میں عبداللہ بن مسعود بن عباس اور واثلہ بن اسقع سے بھی احادیث منقول ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور اس پر بعض اہل علم کا عمل ہے یہی قول احمد اور اسحاق کا بھی ہے۔ یہ حدیث یونس نے زہری سے انہوں نے سعید اللہ بن عبداللہ سے اور انہوں نے ابو ہریرہ سے بھی روایت کی ہے۔

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے رحم والا ابواب نماز سے متعلق آنحضرت ﷺ سے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

منقول احادیث

اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْإِلَهِ وَسَلَّمَ

باب ۱۱۲۔ اوقات نماز جو نبی اکرم ﷺ سے نقل کیے گئے۔

باب ۱۱۲۔ مَا جَاءَ فِي مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

۱۲۹۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جبرئیل نے بیت اللہ کے نزدیک میری دو مرتبہ امامت کی۔ پہلی مرتبہ ظہر کی نماز اس وقت پڑھی جب سایہ بونتی کے تسمے کی طرح تھا۔ پھر عصر اس وقت پڑھی جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر تھا پھر مغرب سورج غروب ہونے کے بعد جب روزہ دار افطار کرتا ہے، پڑھی۔ پھر عشاء شفق کے غائب ہونے پر پڑھی۔ اور فجر کی نماز اس وقت پڑھی جب صبح صادق ظاہر ہوئی اور جس وقت روزہ دار کے لئے کھانا حرام ہوتا ہے اور دوسری مرتبہ ظہر اس وقت پڑھی جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو گیا جس وقت کل عصر پڑھی تھی۔ پھر عصر ہر چیز کا سایہ وگنا ہونے پر، مغرب پہلے دن کے وقت اور پھر عشاء تہائی رات کے گزر جانے پر پڑھیں جب کہ فجر زمین کے روشن ہو جانے پر پڑھی۔ پھر جبرئیل میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا اے محمد (ﷺ) یہ آپ سے

۱۲۹۔ حدثنا هناد بن السرى نا عبدالرحمن بن ابى الزناد عن عبدالرحمن بن الحارث بن عياش بن ابى ربيعة عن حكيم وهو ابن عباد قال احبرنى نافع بن جبير بن مطعم قال اخبرنى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال امي جبرئيل عند البيت مرتين فصلى الظهر في الاولى منهما حين كان الفىء مثل الشراك ثم صلى العصر حين كان كل شىء مثل ظله ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس واقطر الصائم ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل

پہلے انبیاء کا وقت ہے اور ان دونوں کے درمیان وقت ہے۔ (یعنی نماز کا)۔

كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَهُ لَوْ قَتِ الْعَصْرُ بِالْأَمْسِ ثُمَّ صَلَّى
الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلِيهِ ثُمَّ صَلَّى
الْمَغْرِبَ لَوْ قَتِيهِ الْأَوَّلُ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْأَخْرَةَ
حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ
اسْفُرَّتِ الْأَرْضُ ثُمَّ اتَّفَقَتْ إِلَيَّ جَبْرِئِيلُ فَقَالَ يَا
مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ فِيمَا
بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقَّتَيْنِ

اس باب میں ابو ہریرہؓ، ابو موسیٰؓ، ابو سعودؓ، ابوسعیدؓ، جابرؓ، عمرو بن حزم، براءؓ اور انسؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔

۱۳۰۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ، نبی اکرم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جبرئیلؑ نے میری امامت کی پھر حضرت ابن عباسؓ کی حدیث کے مثل (معنی) ذکر کی اور اس میں ’لو وقت العصر بالامس‘، یعنی: کل عصر کے وقت پر ہی (ظہر کی نماز)۔

۱۳۰۔ حدثنا احمد بن محمد بن موسى نا
عبدالله بن المبارك اخبرني حسين بن علي بن
الحسين اخبرني وهب بن كيسان عن جابر بن عبد
الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال
أمنني جبرئيل فذكر نحو حديث ابن عباس بمعناه
ولم يذكر فيه لوقت العصر بالامس

جابرؓ کی حدیث موافقت عطاء بن ابی رباح، عمرو بن دینار اور ابو زبیر نے حضرت جابرؓ سے اور انہوں نے آنحضرت ﷺ سے اس حدیث کے مانند نقل کی ہے جو وہب بن کیسان، جابرؓ سے اور وہ حضور اکرم ﷺ سے نقل کرتے ہیں روایت کی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حسن صحیح غریب ہے اور حدیث ابن عباس حسن صحیح ہے۔ بخاری کہتے ہیں اوقات نماز کی تعیین سے متعلق احادیث میں سے صحیح حدیث جابرؓ کی حدیث ہے۔

باب ۱۱۳۔ اسی سے متعلق۔

باب ۱۱۳۔ بَابُ مِثْنَةٍ

۱۳۱۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: ہر نماز کے لئے اول اور آخر وقت ہے۔ ظہر کی نماز کا اول وقت زوال آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور آخر وقت جب عصر کا وقت شروع ہو۔ اور عصر کا اول وقت اس کا وقت ہونے اور آخر وقت جب سورج زرد ہو جائے۔ مغرب کا سورج غروب ہونے سے شروع اور اس کا آخر وقت شفق کے غائب ہونے تک ہے۔ عشاء کا اول وقت شفق کے غائب ہونے پر اور آخر وقت آدھی رات تک ہے۔ اور فجر کا اول وقت صبح صادق کے طلوع ہونے پر اور آخر وقت سورج کے طلوع ہونے تک ہے۔

۱۳۱۔ حدثنا هناد نا محمد بن فضيل عن
الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن للصلاة
أولاً وإخراً وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول
الشمس وإخراً وقتها حين يدخل وقتها وإن إخر
وقتها حين تصفر الشمس وإن أول وقت المغرب
حين تغرب الشمس وإن إخر وقتها حين يغيب
الشفق وإن أول وقت العشاء الأخره حين يغيب
الأفق وإن إخر وقتها حين ينتصف الليل وإن أول

وَقَتَّ الْفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَإِنْ أَخْرَجَ وَقْتَهَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ

اس باب میں عبد اللہ بن عمر سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں میں نے بخاری کو کہتے ہوئے سنا کہ: اعمش کی مجاہد سے منقول مواقیت کی حدیث محمد بن فضیل کی حدیث سے صحیح ہے۔ محمد بن فضیل کی حدیث میں محمد بن فضیل سے خطا ہوئی ہے۔ ہنادیم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان سے ابو اسامہ نے، ان سے ابو اسحاق فزاری نے ان سے اعمش نے اور ان سے مجاہد نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ نماز کے لیے اول اور آخر ہے اور پھر محمد بن فضیل کی اعمش سے منقول حدیث کے مثل بیان کرتے ہیں یعنی اسی معنی ہیں۔

۱۳۲۔ سلیمان بن بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور نمازوں کے اوقات کے متعلق دریافت کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ہمارے ساتھ رہو انشاء اللہ اور بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا انہوں نے صبح صادق کے طلوع ہونے پر اقامت کہی۔ پھر آپ ﷺ نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے زوال آفتاب کے وقت اقامت کہی اور ظہر کی نماز پڑھی، آپ ﷺ نے پھر انہیں حکم دیا انہوں نے اقامت کہی اور عصر کی نماز پڑھی، اس وقت سورج بلندی پر چمک رہا تھا۔ پھر آپ ﷺ نے جب سورج غروب ہو گیا تو مغرب کا حکم دیا پھر عشاء کا حکم دیا تو انہوں نے شفق کے غائب ہونے پر اقامت کہی پھر دوسرے دن آپ ﷺ نے حکم دیا اور فجر خوب روشنی میں پڑھی پھر ظہر کا حکم دیا تو اسے خوب ٹھنڈا وقت کر کے پڑھا (یعنی تاخیر سے پڑھی) پھر عصر کا حکم دیا تو انہوں نے اقامت کہی جب کہ سورج کا وقت پہلے دن سے زیادہ مؤخر تھا۔ پھر مغرب کا حکم دیا تو اسے شفق کے غائب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے پڑھا۔ پھر عشاء کا حکم دیا تو اس کی اقامت رات کے تیسرے حصے کے گزر جانے پر کہی۔ پھر نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: نمازوں کے اوقات پوچھنے والا کہاں ہے۔ اس شخص نے کہا میں حاضر ہوں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: نمازوں کے اوقات ان دونوں وقتوں کے درمیان ہیں۔

باب ۱۱۳۔ فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھنے سے متعلق۔

۱۳۳۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو عورتیں واپس آتیں۔ (انصاری کہتے ہیں) اور اپنی

۱۳۲۔ حدثنا احمد بن منيع و الحسن بن صباح البزارو احمد بن محمد بن موسى المعنى واحد قالوا ثنا اسحق بن يوسف الازرق عن سفیان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فسأله عن مواقيت الصلوة فقال أقم معنا إن شاء الله فأمر بلالاً فأقام حين طلع الفجر ثم أمره فأقام فصلى الظهر ثم أمره فأقام فصلى العصر والشمس بيضاء مرتفعة ثم أمره بالمغرب حين وقع حاجب الشمس ثم أمره بالعشاء فأقام حين غاب الشفق ثم أمره من الغد فنور بالفجر ثم أمره بالظهر فأبرد أنعم أن يبرد ثم أمره بالعصر فأقام والشمس أخروفتها فوق ما كانت ثم أمره فأخر المغرب إلى قبيل أن يغيب الشفق ثم أمره بالعشاء فأقام حين ذهب ثلث الليل ثم قال آين السائل عن مواقيت الصلوة فقال الرجل أنا فقال مواقيت الصلوة كما بين هذين

باب ۱۱۴۔ ماجاء في التغليس بالفجر

۱۳۳۔ حدثنا قتيبة عن مالك بن انس قال ونا الانصاري نامعن نا مالك عن يحيى بن سعيد عن

عمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ الصُّبْحَ فَيُنْصَرِفُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرِفَنَّ مِنَ الْعَلْسِ وَقَالَ قُتَيْبَةُ مُتَلَفِّعَاتٍ

چادروں میں لپیٹی ہوئی گزرتی تھیں اور اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہ جاتی تھیں۔ قتیبہ "متلفعات" کی جگہ "متلفعات" کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کا معنی بھی لپٹنے ہی کا ہے۔

اس باب میں ابن عمر، انس اور قیلہ بنت مخزمہ سے بھی حدیثیں نقل کی گئی ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث عائشہ حسن صحیح ہے۔ اور اس کو کئی صحابہ نے اختیار کیا ہے جن میں ابو بکر، عمر اور علماء تابعین شامل ہیں، شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ ان کے نزدیک فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھنا مستحب ہے۔

باب ۱۱۵۔ فجر کی نماز روشنی میں پڑھنے سے متعلق

باب ۱۱۵۔ مَا جَاءَ فِي الْإِسْفَارِ بِالْفَجْرِ

۱۳۴۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ فجر کی نماز روشنی میں پڑھو اس میں زیادہ ثواب ہے۔

۱۳۴۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ عَبْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ

اس باب میں ابو بزرہ، جابر، اور بلال سے بھی احادیث منقول ہیں۔ اس حدیث کو شعبہ اور ثوری نے بھی محمد بن اسحاق سے نقل کیا ہے اور محمد بن عجلان بھی اسے عاصم بن عمر بن قتادہ سے نقل کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں رافع بن خدیج کی حدیث حسن صحیح ہے۔ کئی صحابہ تابعین علماء کا مسلک یہی ہے کہ فجر روشنی میں پڑھی جائے اور یہ سفیان ثوری کا قول ہے، شافعی اور احمد کہتے ہیں کہ اسفار کا معنی یہ ہے کہ فجر واضح ہو جائے تا کہ اس میں شک نہ رہے یہ نہیں کہ دیر سے نماز پڑھی جائے۔

توضیح: شافعیہ کی مذکورہ تاویل کہ اسفار کے معنی وضوح فجر کے ہیں خلاف ظاہر ہے۔ پھر اس حدیث کے بعض طرق اس تاویل کی نفی کرتے ہیں چنانچہ نسائی میں اس کے یہ الفاظ مروی ہیں۔ "مَا اسْفَرَتْ بِالصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ بِالْأَجْرِ" یعنی فجر جتنی روشنی میں پڑھو گے اتنا ہی زیادہ اجر کا باعث ہے۔ حافظ ابن حجر نے المطالب العالیہ میں اسے اس طرح نقل کیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: "أَصْبَحُوا الصَّلَاةَ الْفَجْرَ فَإِنَّكُمْ كَلَّا أَصْبَحْتُمْ بِهَا كَانِ أَعْظَمَ لِلْأَجْرِ" کہ فجر کی نماز دیر سے پڑھو جتنی تاخیر کرو گے اتنا ہی زیادہ ثواب ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو بزرہ اسلمی کی ایک طویل روایت ہے جس میں آنحضرت ﷺ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فجر کا اصل حکم تو یہی ہے کہ اسفار افضل ہے لہذا اقوی روایات میں اسی کا حکم دیا گیا ہے لیکن عملاً آپ ﷺ اندھیرے میں بھی بکثرت نماز پڑھتے تھے کیوں کہ اکثر صحابہ تہجد کی نماز پڑھنے کے عادی تھے لہذا ان کی سہولت کی خاطر فجر کا جلدی پڑھنا ہی بہتر تھا۔ جیسا کہ خود حنفیہ کے نزدیک رمضان میں تغلیس (اندھیرے میں پڑھنا) بہتر ہے۔ واللہ اعلم۔ (مترجم)

باب ۱۱۶۔ ظہر میں تعجیل سے متعلق۔

باب ۱۱۶۔ مَا جَاءَ فِي التَّعْجِيلِ بِالظُّهْرِ

۱۳۵۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ظہر کی نماز میں رسول اللہ ﷺ سے زیادہ جلدی کرنے والا نہیں دیکھا۔ اور نہ ہی ابو بکر

۱۳۵۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ أَبِي كَعْبٍ عَنْ سَفْيَانَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ جَبْرِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ

أَحَدًا كَانَ أَشَدَّ تَعْجِيلًا لِلطُّهْرِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَلَا مِنْ أَبِي بَكْرٍ وَلَا مِنْ عُمَرَ
رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ سے۔

اس باب میں جابر بن عبد اللہ، خباب، ابو بزرہ، ابن مسعود، زید بن ثابت، انس اور جابر بن مسعود سے بھی احادیث منقول ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث عائشہ حسن ہے۔ صحابہ اور تابعین میں سے اہل علم نے اس کو اختیار کیا ہے۔ علی یحییٰ بن سعید کے حوالے سے کہتے ہیں کہ: شعبہ نے حکیم بن جبیر کے بارے میں ان کی (ابن مسعود کی) حضور اکرم ﷺ سے منقول حدیث (جس کے الفاظ یہ ہیں ”من سال الناس وله ما يغنيه“ یعنی جس نے لوگوں سے سوال کیا اور اس کے پاس اتنا تھا کہ اس کے لیے کافی تھا کی وجہ سے کلام کیا ہے۔ یحییٰ کا کہنا ہے کہ ان سے سفیان اور زائدہ روایت کرتے ہیں اور یحییٰ کے نزدیک ان کی حدیث میں کوئی مضائقہ نہیں۔ بخاری کہتے ہیں: ظہر کی تعجیل میں حکیم بن جبیر سے بھی حدیث منقول ہے۔ وہ سعید بن جبیر سے وہ حضرت عائشہ سے اور وہ نبی اکرم ﷺ سے نقل کرتی ہیں۔ ہم سے حسن بن علی حلوانی نے روایت کی کہ انہیں عبدالرزاق نے خیر دی انہیں معمر نے اور انہیں زہری نے کہ: مجھے انس بن مالک نے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ظہر کی نماز اس وقت پڑھی جب سورج کے زوال کا وقت ہوا۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

مسئلہ: حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک ظہر میں سردی میں تعجیل اور گرمی میں تاخیر افضل ہے۔ ان کی ایک دلیل آئندہ آنے والی حدیث ہے۔ ”کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتد البرد بکر بالصلوٰۃ و اذا اشتد الحر ابرد بالصلاۃ“ یعنی نبی ﷺ کا معمول تھا کہ اگر سردی زیادہ ہوتی تو نماز میں جلدی کرتے اور اگر گرمی زیادہ ہوتی تو نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھتے (یعنی تاخیر کر کے) یہ روایت صحیح اور صریح ہے جو حنفیہ کے مسلک پر دلالت کرتی ہے۔ (مترجم)۔

باب ۱۱۷۔ مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ الطُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ

۱۳۶۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا لَيْثٍ عَنْ بِنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَسِيْبِ وَ أَبِي سَلْمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

باب ۱۱۷۔ سخت گرمی میں ظہر دیر سے پڑھنے کے متعلق

۱۳۶۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جب گرمی شدت اختیار کر جائے تو نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھو اس لئے کہ گرمی کی شدت جہنم کی تیش کا اثر ہے۔

اس باب میں ابوسعید، ابو بزرہ، ابن عمر، مغیرہ اور قاسم بن صفوان بھی احادیث نقل کرتے ہیں قاسم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ان کے علاوہ ابوموسیٰ، ابن عباس اور انس سے بھی روایت ہے۔ عمر سے بھی اس باب میں حدیث منقول ہے لیکن وہ صحیح نہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث ابو ہریرہ حسن صحیح ہے۔ علماء کی ایک جماعت نے ظہر کی نماز میں شدید گرمی میں تاخیر کا مسلک اختیار کیا ہے۔ یہی قول ابن مبارک، احمد اور اسحاق کا بھی ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں ظہر میں تاخیر اس وقت کی جائے گی جب لوگ نماز کے لیے دور سے آتے ہوں۔ لہذا اکیلا نماز پڑھنے والا یا وہ شخص جو اپنی قوم میں نماز پڑھتا ہو اس کے لیے میں بہتر سمجھتا ہوں کہ شدید گرمی میں بھی نماز میں تاخیر نہ کرے امام ترمذی کہتے ہیں جن حضرات نے شدید گرمی میں ظہر میں تاخیر کا مذہب اختیار کیا ہے وہ اتباع کے لیے بہتر ہے۔ جہاں تک امام شافعی کے اس قول کا تعلق ہے کہ اس کی اجازت اس شخص کے لیے ہے۔

ابو بزرہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سفر میں تھے۔ بلال نے ظہر کی نماز کے لیے اذان دی۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اے بلال ٹھنڈا ہونے دو پھر انہوں نے ٹھنڈا ہونے دیا۔ اگر مطلب وہی ہوتا جو امام شافعی کہتے ہیں تو ایسے وقت میں ٹھنڈا کرنے کا کوئی مطلب نہیں تھا کیونکہ سفر میں سب ساتھ تھے دُور سے نہیں آتے تھے۔

۱۳۷۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک سفر میں تھے بلال رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ نے ظہر کی نماز کی اقامت کا ارادہ کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ٹھنڈا ہونے دو پھر انہوں نے چاہا کہ اقامت کہیں لیکن حضور ﷺ نے فرمایا: یہاں تک کہ ہم نے ٹیلوں کا سایہ دیکھا پھر اقامت کہی اور نماز پڑھی۔ پھر آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: گرمی کی شدت جہنم کی تپش سے ہے۔ (۱) لہذا ظہر کی نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھو۔

۱۳۷۔ حدثنا محمود بن غيلان نا ابو داؤد قال ابانا شعبة عن مها جر ابى الحسن عن زيد بن رهب عن ابي ذر ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في سفر ومعه بلال فاراد ان يقيم فقال ابرد ثم اراد ان يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابرد في الظهر قال حتى رأينا فيء التلول ثم اقام فصلى فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا عن الصلوة

باب ۱۱۸۔ عصر میں تعجيل سے متعلق۔

باب ۱۱۸۔ ماجاء في تعجيل العصر

۳۰۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے عصر کی نماز پڑھی جب کہ سورج (۲) ان کے آگن میں تھا اور سایہ ان کے آگن کے اوپر نہیں چڑھا تھا۔

۱۳۸۔ حدثنا قتيبة بن الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفء من حجرتها

اس باب میں انس، ابوروی، جابر اور رافع بن خدیج سے بھی احادیث منقول ہیں اور رافع سے عصر کی نماز میں تاخیر کی حدیث بھی منقول ہے لیکن وہ صحیح نہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث عائشہ حسن صحیح ہے۔ بعض صحابہ جیسے کہ حضرت عمر، عبداللہ بن مسعود، عائشہ، انس اور کئی تابعین عصر کی نماز تعجيل کا مسلک اختیار کرتے ہیں اور تاخیر کو کراہت پر محمول کرتے ہیں۔ یہ قول عبداللہ بن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی ہے۔

۱۳۹۔ حضرت علاء بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس بصرہ میں ان کے گھر گئے۔ جب کہ انہوں نے (علاء نے) ظہر کی نماز پڑھ لی تھی ان کا گھر مسجد کے ساتھ تھا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کھڑے ہو اور عصر کی نماز پڑھو۔ راوی کہتے ہیں ہم کھڑے ہوئے اور عصر پڑھی جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو کہتے ہوئے سنا کہ یہ تو منافق کی نماز ہے کہ بیٹھا سورج کو دیکھتا رہے یہاں تک کہ جب وہ

۱۳۹۔ حدثنا علي بن حجر نا اسمعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن انه دخل على انس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر وداره بجانب المسجد فقال قوموا فصلوا العصر قال فقمنا فصلينا فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول تلك صلوة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى اذا كانت بين

(۱) بعض حضرات نے اس حدیث میں لفظ ”من“ کا تفسیر قرار دیا ہے۔ یعنی گرمی کی شدت، جہنم کی تپش کے مشابہ ہے۔ یہ حدیث کے لحاظ سے زیادہ قرین قیاس ہے۔ (مترجم)

(۲) سورج سے مراد وہ چمپ ہے۔ (مترجم)

قَوْلِي الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَّارًا بَعَا لَا يَذْكُرُ اللَّهُ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا

شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان ہو جائے تو اٹھے اور چار چوٹیں مار لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کم یاد کرے۔

امام ترمذی اس حدیث کو حسن صحیح کہتے ہیں۔

باب ۱۱۹۔ مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ صَلَاةِ الْعَصْرِ

۱۴۰۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ نَا سَمْعِيلَ بْنَ عَلِيَّةِ

عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي مَلِيكَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَشَدُّ تَعْجِيلًا

لِلظَهْرِ مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ أَشَدُّ تَعْجِيلًا لِلْعَصْرِ مِنْهُ

باب ۱۱۹۔ عصر کی نماز میں تاخیر سے متعلق۔

۱۴۰۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ظہر میں تم

لوگوں سے زیادہ جلدی کرتے اور تم لوگ عصر میں آپ ﷺ سے زیادہ

جلدی کرتے ہو۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث ابن جریج سے بھی منقول ہے وہ ابن ملیکہ سے اور وہ ام سلمہ سے اسی کے مثل حدیث نقل کرتے ہیں۔

مسئلہ: احناف کے نزدیک عصر کو سورج کے زرد ہونے سے پہلے تک مؤخر کرنا افضل ہے۔ ان کی ایک دلیل حدیث باب ہے اور دوسری

حدیث مسند احمد میں حضرت رافع بن خدیج کی حدیث ہے کہ ”ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یا مرتباً بخیر صلوة

العصر“ یعنی آنحضرت ﷺ عصر کی نماز میں تاخیر کا حکم دیا کرتے تھے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث

صحیح ہے کیوں کہ امام صاحب کی تضعیف کی وجہ راوی عبد الواحد ہیں حقیقت یہ ہے کہ ان کے معدلین کی تعداد جارحین سے زیادہ ہے اس لیے

ان کی حدیث درجہ حسن سے کم نہیں۔ احناف کی تیسری دلیل عبد اللہ بن مسعود سے منقول اثر ہے کہ وہ عصر تاخیر سے پڑھا کرتے تھے۔

جہاں تک حدیث ۱۴۰ سے تعجیل عصر پر استدلال کا تعلق ہے تو یہ صحیح نہیں کیوں کہ یہ واقعہ حجاج بن یوسف کے زمانے کا ہے جس کے

بارے میں مشہور ہے کہ وہ نمازیں بہت تاخیر سے پڑھتا تھا اور بعض اوقات وقت بھی نکال دیتا تھا۔ لہذا علاء بن عبد الرحمن کا ظہر پڑھ کر آنا اس

بات کی دلیل نہیں کہ وہ عصر کا بالکل ابتدائی وقت تھا۔ اگر ایسا بھی ہوتا بھی حضرت انسؓ کا نماز پڑھنا تعجیل عصر کی افضلیت کی دلیل نہیں۔ یہ

بھی ممکن ہے کہ حضرت انسؓ استحباب تعجیل کے قائل ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علاء بن عبد الرحمن نے ظہر کی نماز حجاج کے ساتھ ظہر کا وقت ختم

ہونے کے بعد پڑھی ہو۔ اور جب حضرت انسؓ کے پاس آئے ہوں تو تاخیر عصر کا مستحب وقت شروع ہو چکا ہو۔

آپ ﷺ کے قول ”یہ منافع کی نماز ہے“ سے بھی تاخیر عصر کی کراہت پر استدلال درست نہیں اس لیے کہ اس سے مراد سورج کے زرد

ہونے تک تاخیر کرنا ہے جب کہ حنفیہ سورج کے زرد سے پہلے تک تاخیر کو مستحب کہتے ہیں واللہ اعلم (مترجم)

باب ۱۲۰۔ مغرب کے وقت کے متعلق

باب ۱۲۰۔ مَا جَاءَ فِي وَقْتِ الْمَغْرِبِ

۱۴۰۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ ابن الاکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور اکرم ﷺ مغرب کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب سورج ڈوب

کر پردے میں چھپ جاتا۔

۱۴۱۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا حَاتِمَ بْنَ سَمْعِيلَ عَنِ يَزِيدَ

بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلْمَةَ بِنِ الْأَكْوَعِ قَالَ كَانَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذَا

غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَتَوَارَتْ بِالْحِجَابِ

اس باب میں جابر، زید بن خالد، انس، رافع بن خدیج، ابو ایوب، ام حبیبہ اور عباس بن عبد المطلب سے بھی حدیثیں نقل کی گئی ہیں۔

حضرت عباسؓ کی حدیث موقوفہ بھی منقول ہے اور وہ اصح ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں۔ سلمہ ابن الاکوع کی حدیث حسن صحیح ہے اور یہی اکثر اہل علم

کا قول ہے جن میں صحابہ اور تابعین شامل ہیں کہ مغرب کی نماز میں تعمیل کرنی چاہیے۔ اور اس میں تاخیر کو مکروہ کہتے ہیں یہاں تک کہ بعض علماء کہتے ہیں: مغرب کے لیے ایک ہی وقت ہے۔ ان کا استدلال حضور اکرم ﷺ سے منقول حدیث جبریل سے ہے (کہ جبریل نے ایک ہی وقت میں اس نماز کی امامت کی تھی) یہی قول ابن مبارک اور شافعی کا بھی ہے۔

باب ۱۲۱۔ مَا جَاءَ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

باب ۱۲۱۔ عشاء کے وقت سے متعلق

۱۴۲۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس نماز کے وقت کے متعلق سب سے بہتر جانتا ہوں۔ حضور اکرم ﷺ سے تیسری تاریخ کے چاند کے غروب (۱) ہونے کے وقت پڑھتے تھے۔ (یعنی عشاء کی نماز)

۱۴۲۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَّارِبِ نَا ابُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَلَاثَةِ

ابو بکر محمد بن ابان بھی عبد الرحمن بن مہدی سے اور وہ ابو عوانہ سے اسی اسناد سے اسی کے مثل نقل کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث ہشیم نے ابو بشیر سے انہوں نے حبیب بن سالم سے اور انہوں نے نعمان بن بشیر سے نقل کی ہے۔ اس میں ہشیم نے ”بشیر بن ثابت“ کا ذکر نہیں کیا۔ ہمارے نزدیک ابو عوانہ کی حدیث صحیح ہے اس لیے کہ یزید بن ہارون بھی شعبہ سے اور وہ ابو بشیر سے ابو عوانہ کی حدیث کی مانند نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۲۲۔ مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

باب ۱۲۲۔ عشاء کی نماز میں تاخیر سے متعلق

۱۴۳۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر مجھے اپنی امت پر گراں گزرنے کا خیال نہ ہوتا تو میں انہیں عشاء کی نماز کو تہائی رات یا آدھی رات تک مؤخر کرنے کا حکم دیتا۔

۱۴۳۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَوْ لَا أَنِ اشْتَقَّ عَلَيَّ أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخَّرُوا الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَيُصَفِّه

اس باب میں جابر بن سمرہ، جابر بن عبد اللہ، ابو ہریرہ، ابن عباس، ابو سعید خدری، زید بن خالد اور ابن عمر سے بھی احادیث منقول ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث حسن صحیح ہے اور یہی اکثر اہل علم کا قول ہے جن میں صحابہ اور تابعین شامل ہیں ان کا کہنا ہے کہ عشاء کی نماز میں تاخیر کرنی چاہیے۔ احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

باب ۱۲۳۔ عشاء سے پہلے سونا مکروہ ہونے اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کے متعلق

باب ۱۲۳۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالسَّمْرِ بَعْدَهَا

۱۴۴۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ عشاء پڑھنے سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو مکروہ سمجھتے تھے۔

۱۴۴۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا هَشِيمُ بْنُ عَافٍ قَالَ أَحْمَدُ وَنَا عَبَادُ بْنُ عَبَادٍ هُوَ الْمَهْلَبِيُّ وَاسْمَعِيلُ بْنُ عَلِيَّةٍ جَمِيعًا عَنْ عَوْنِ بْنِ سِيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ عَنْ

(۱) تیسری تاریخ کا چاند سورج کے غروب ہونے کے تقریباً ڈھائی یا پونے تین گھنٹے بعد غروب ہوتا ہے۔ (مترجم)

أَبِي بَرَزَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيثُ بَعْدَهَا

اس باب میں عائشہ، عبداللہ بن مسعود اور انسؓ سے بھی احادیث منقول ہیں امام ترمذیؒ کہتے ہیں ابو بزرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اکثر اہل علم عشاء سے پہلے سونے کو مکروہ کہتے ہیں جب کہ بعض اس کی اجازت دیتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ اکثر احادیث کراہت سے متعلق ہیں۔ جب کہ بعض علماء رمضان میں عشاء سے پہلے سونے کی اجازت دیتے ہیں۔

باب ۱۲۴۔ مَا جَاءَ فِي السَّمْرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ
۱۴۵۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا أَبُو مَعَاوِيَةَ عَنِ

الاعمش عن ابراهيم عن علقمة عن عمر بن الخطاب
قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَسْمُرُ
مَعَ أَبِي بَكْرٍ فِي الْأَمْرِ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَا مَعَهُمَا
۱۴۵۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ،
ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسلمانوں کے امور کے متعلق باتیں کیا
کرتے تھے۔ میں ان کے ساتھ ہوتا تھا۔

اس باب میں عبداللہ بن عمرو، اوس بن حذیفہ اور عمران بن حصینؓ سے بھی احادیث نقل کی گئی ہیں۔ امام ترمذیؒ کہتے ہیں حدیث عمرؓ حسن ہے۔ یہ حدیث حسن بن عبید اللہ نے بھی ابراہیم سے انہوں نے علقمہ سے انہوں نے بنو جعفر کے ایک شخص سے جسے قیس یا ابن قیس کہا جاتا ہے انہوں نے عمرؓ سے اور انہوں نے حضور اکرم ﷺ سے نقل کی ہے۔ یہ حدیث ایک طویل قصے میں ہے۔ صحابہ، تابعین، اہل علم کا اس میں اختلاف ہے کہ عشاء کے بعد باتیں کرنے کا کیا حکم ہے؟ علماء کی ایک جماعت نے اسے مکروہ کہا ہے جب کہ بعض اس شرط کے ساتھ اجازت دیتے ہیں کہ باتیں علم یا ضروری حاجتوں سے متعلق ہوں۔ اور اکثر احادیث میں اس کی رخصت ہے۔ نیز نبی کریم ﷺ سے منقول ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: نماز کے منتظر (۱) یا مسافر کے علاوہ کسی کو عشاء کے بعد باتیں نہیں کرنی چاہئیں۔

باب ۱۲۵۔ مَا جَاءَ فِي الْوَقْتِ الْأَوَّلِ مِنَ الْفَضْلِ

۱۴۶۔ حَدَّثَنَا أَبُو عَمَارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَرِيثِ نَا
الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ عَنِ
الْقَاسِمِ بْنِ الْغَنَامِ عَنِ عَمَّتِهِ أُمِّ قُرُوءَةَ وَكَانَتْ مِمَّنْ
بَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ سَأَلْتُ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ
قَالَ الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا

۱۴۶۔ قاسم بن غنام اپنی چچی ام فروہ رضی اللہ عنہا جنہوں نے رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی تھی۔ سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ سے سوال کیا گیا۔ کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا: نماز اول وقت میں پڑھنا۔

۱۴۷۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا يَعْقُوبُ بْنُ الْوَلِيدِ
الْمَدَنِيُّ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

۱۴۷۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نماز اول وقت میں پڑھنے میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور آخر وقت میں اللہ کی طرف سے بخشش ہے۔

(۱) یعنی جس نے ابھی عشاء کی نماز نہ پڑھی ہو۔ (مترجم)

الْوَقْتُ الْأَوَّلُ مِنَ الصَّلَاةِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَالْوَقْتُ
الْآخِرُ عَفْوُ اللَّهِ

اس باب میں علیؑ، ابن عمرؓ، عائشہؓ اور ابن مسعودؓ سے بھی حدیثیں منقول ہیں۔

۱۴۸۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا: اے علی! تین چیزوں میں تاخیر نہ کرو، نماز کا جب وقت ہو جائے۔ جنازہ جب حاضر ہو جائے اور غیر ستادی عورت جب اس کا ہم پلہ رشتہ مل جائے۔

۱۴۸۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَهْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَهْنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ لَا تُؤَخِّرْهَا الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ وَقْتَهَا وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالْآيْمُ إِذَا آتَتْ وَقْتَهَا وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالْآيْمُ إِذَا وَجَدَتْ لَهَا كُفُوًا

امام ترمذی کہتے ہیں کہ ام فروہؓ کی حدیث عبداللہ بن عمر العری کے سوا کسی نے نقل نہیں کی اور وہ محدثین کے نزدیک قوی نہیں۔ محدثین اس حدیث میں اضطراب کرتے ہیں۔ (اسے ضعیف سمجھتے ہیں)

۱۴۹۔ ابو عمرو شیبانی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا: کون سا عمل افضل ہے۔ فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ سے یہی سوال کیا تھا آپ ﷺ نے فرمایا: نماز کو مستحب اوقات میں پڑھنا۔ میں نے کہا: اس کے علاوہ یا رسول اللہ؟ آپ ﷺ نے فرمایا: والدین کی خدمت کرنا۔ میں نے کہا اس کے علاوہ: آپ ﷺ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔

۱۴۹۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا مَرْوَانَ بْنِ مَعَاوِيَةَ الْفَزَارِيَّ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعِزَّارِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ سَأَلْتُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الصَّلَاةُ عَلَى مَوَاقِفِهَا قُلْتُ وَمَاذَا يَأْرَسُولُ اللَّهِ قَالَ وَبِرُّوَالِدَيْنِ قُلْتُ وَمَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ مسعودی، شعبہ، شیبان اور کئی حضرات نے اس حدیث کو ولید بن عیزار سے نقل کیا ہے۔

۱۵۰۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے دو مرتبہ کے علاوہ کبھی نماز آخری وقت میں نہیں پڑھی یہاں تک کہ آپ ﷺ کی وفات ہوئی۔

۱۵۰۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا اللَّيْثِ عَنْ خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هَلَالٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً لَوْ قَفَيْتَهَا الْآخِرُ مَرَّتَيْنِ حَتَّى قَبِضَهُ اللَّهُ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے اس کی سند متصل نہیں۔ امام شافعیؒ کہتے ہیں نماز کے لیے اول وقت افضل ہے۔ جو چیزیں اس پر دلالت کرتی ہیں ان میں سے رسول اللہ ﷺ، ابو بکرؓ اور عمرؓ کا اس عمل کو اختیار کرنا ہے کیونکہ وہ لوگ افضل چیز ہی کو اختیار کرتے اور کبھی نہ ترک کرتے تھے۔ یہ حضرات اول وقت میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ حدیث ہم سے ابو ولید کی نے بحوالہ امام شافعی بیان کی ہے۔ توضیح: یہاں امام ترمذی نے پانچ احادیث ذکر کی ہیں حنفیہ کی طرف سے اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہاں اول وقت سے مراد اول

وقت مستحب ہے اور اس تاویل کی دلیل تاخیر پر دلالت کرنے والی احادیث ہیں جن کا بیان گزر چکا ہے جیسا کہ خود امام شافعیؒ نے بھی عشاء میں یہی تاویل کی ہے۔ جہاں تک امام ترمذیؒ کے اس قول کا تعلق ہے کہ نبی اکرم ﷺ اور ابوبکرؓ و عمرؓ نے یہی اختیار کیا ہے یہ تاخیر والی احادیث کے خلاف ہے جن میں خلفائے راشدین کا تاخیر سے نماز پڑھنا ثابت ہے۔ (مترجم)

باب ۱۲۶۔ مَا جَاءَ فِي السَّهْوِ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ ۱۲۶۔ عصر کی نماز بھول جانے سے متعلق۔

۱۵۱۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وَتَرَ أَهْلَهُ وَمَا لَهُ

۱۲۶۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اگر کسی کی عصر کی نماز فوت ہوگئی گویا اس کا گھر اور مال لٹ گیا۔

اس باب میں بریدہ اور نوفل بن معاویہ سے بھی حدیثیں نقل کی جاتی ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث ابن عمر حسن صحیح ہے۔ اسے زہری نے بھی سالم سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے نقل کیا ہے۔

باب ۱۲۷۔ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الصَّلَاةِ إِذَا أَخْرَهَا الْإِمَامُ ۱۲۷۔ اگر حاکم نماز میں تاخیر کرے تو نماز میں جلدی کرنے کا حکم۔

۱۵۲۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بِالْبَصْرَةِ نَا جَعْفَرُ بْنُ سَلِيْمَانَ الضَّبْعِيُّ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا ذَرٍّ أَمْرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِي يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ لِيُؤْتِيَهَا فَإِنْ صَلَّيْتَ لِيُؤْتِيَهَا كَانَتْ لَكَ نَافِلَةٌ وَإِلَّا كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ

۱۵۲۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: اے ابو ذر میرے بعد ایسے امراء آئیں گے جو نمازوں کو فوت کریں گے تم نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ اگر تم نے وقت پر نماز پڑھ لی تو امام کے ساتھ تمہاری نماز نفل ہو جائے گی ورنہ تم نے اپنی نماز کی تو حفاظت کر لی۔

اس باب میں عبداللہ بن مسعودؓ اور عبادہ بن صامتؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث ابو ذر حسن صحیح ہے اور یہی اکثر اہل علم کا قول ہے کہ اگر امام نماز میں تاخیر کرتا ہو تو وہ اپنی نماز وقت پر پڑھ لے اور پھر امام کے ساتھ نماز پڑھے یہ ان کے نزدیک مستحب ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک پہلی نماز ہی فریضہ ہوگی۔ ابو عمران الجونی کا نام عبدالملک بن حبیب ہے۔

مسئلہ: اس مسئلہ میں حنفیہ کا کہنا ہے کہ فرض کی ادائیگی کے بعد اگر جماعت کھڑی ہو تو صرف ظہر اور عصر میں بنیت نفل شریک ہو سکتے ہیں باقی اوقات میں نہیں۔ (مترجم)

باب ۱۲۸۔ مَا جَاءَ فِي النَّوْمِ عَنِ الصَّلَاةِ ۱۲۸۔ سو جانے کے سبب نماز چھوٹ جانے سے متعلق

۱۵۳۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتِ الْبَنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رِيَّاحِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ ذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَوْمَهُمْ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ

۱۵۳۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے رسول اللہ ﷺ سے نماز کے وقت سوتے رہ جانے کا تذکرہ کیا تو فرمایا: نیند میں قصور وار نہیں۔ قصور تو جاگتے ہوئے (نہ پڑھنے پر ہے) ہے لہذا اگر کوئی شخص نماز کو بھول جائے یا سویا رہ جائے تو یاد آتے ہی نماز پڑھے۔

تَفْرِيطُ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقْظَةِ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ
صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

اس باب میں ابن مسعود، ابومریم، عمران بن حصین، جبیر بن مطعم، ابو جیفہ، عمرو بن امیہ الضمری اور ذومجر جو جاشی کے بھتیجے ہیں، سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں قنادہ کی حدیث حسن صحیح ہے علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ جو شخص نماز کے وقت سویا رہ جائے یا بھول جائے اور جب اسے یاد آئے یا جاگے تو وہ وقت مکروہ ہو جیسے کہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب بعض علماء کہتے ہیں وہ جس وقت اٹھے یا یاد آئے اسی وقت نماز ادا کرے اگرچہ مکروہ اوقات ہی ہوں یہ احمد، اسحاق، شافعی اور مالک کا قول ہے جب کہ بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اس وقت تک نہ پڑھے جب تک سورج طلوع یا غروب نہ ہو جائے۔ (یعنی مکروہ وقت ختم نہ ہو جائے۔)

مسئلہ:- آخر الذکر قول حنفیہ کا ہے۔ وہ ان احادیث سے استدلال کرتے ہیں جو ان اوقات میں نماز پڑھنے کی ممانعت کرتی ہیں۔ (مترجم)

باب ۱۲۹- مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَنْسَى الصَّلَاةَ
باب ۱۲۹- اس شخص کے متعلق جو نماز بھول جائے۔
۱۵۴- حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ وَبِشْرُ بْنُ مَعَاذَةَ قَالَا نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ
۱۵۴- حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا:
قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
اگر کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تو یاد آنے پر پڑھ لے۔
وَسَلَّمَ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

اس باب میں سرہ اور قنادہ بھی حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث انس حسن صحیح ہے۔ حضرت علی سے بھی ایسے شخص کے متعلق جو نماز کو بھول گیا ہو منقول ہے کہ وہ اس وقت پڑھ لے جب اسے یاد آئے خواہ وقت ہو یا نہ ہو۔ یہ احمد اور اسحاق کا بھی قول ہے لیکن ابوبکر سے منقول ہے کہ وہ عصر کی نماز میں سوتے رہ گئے اور سورج غروب ہونے کے وقت آنکھ کھلی تو اس وقت تک نماز نہ پڑھی جب تک سورج غروب نہ ہو گیا۔ اہل کوفہ کی ایک جماعت کا یہی مسلک ہے جب کہ ہمارے اصحاب نے علی بن ابی طالب کا قول اختیار کیا ہے۔

باب ۱۳۰- مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ تَفَوُّتُهُ الصَّلَاةِ
بِأَيِّتِهِنَّ يَبْدَأُ
باب ۱۳۰- اس شخص کے متعلق جس کی بہت سی نمازیں فوت ہو گئی ہوں، کس نماز سے شروع کرے۔

۱۵۵- حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ هَشِيمٍ عَنْ أَبِي الزَّبِيرِ عَنْ نَافِعِ بْنِ
۱۵۵- عبید اللہ بن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عبد اللہ نے
جَبْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
فرمایا: مشرکین نے غزوہ خندق کے روز نبی اکرم ﷺ کو چار نمازوں سے
قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّ الْمَشْرُكِينَ شَغَلُوا رَسُولَ اللَّهِ
روک دیا یہاں تک کہ رات بھی اللہ نے جتنی چاہی گزر گئی۔ پھر آپ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتِ يَوْمِ
نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا۔ انہوں نے اذان دی پھر اقامت
الْحَنْدُقِ حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَأَمَرَ بِأَلَّا
کہی اور ظہر پڑھی پھر اقامت ہوئی اور عصر پڑھی پھر اقامت کے بعد
فَإِذَنْ تَمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ تَمَّ أَقَامَ فَصَلَّى العَصْرَ تَمَّ
مغرب اور پھر اقامت کے بعد عشاء کی نماز پڑھی۔
أَقَامَ فَصَلَّى المَغْرِبَ تَمَّ أَقَامَ فَصَلَّى العِشَاءَ

سَمِعْتُمْ الْبِدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَدِّنُ

اس باب میں ابورافع، ابو ہریرہ، ام حبیبہ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن ربیعہ، عائشہ، معاذ بن انس اور معاویہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابوسعید کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اسی طرح معمر اور کئی راوی زہری سے مالک کی حدیث کی مانند بیان کرتے ہیں۔ عبدالرحمن بن اسحاق نے یہ حدیث زہری سے روایت کی ہے۔ وہ سعید بن مسیب سے وہ ابو ہریرہ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے روایت کرتے ہیں جب کہ مالک کی روایت صحیح ہے۔

باب ۱۵۳۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَأْخُذَ الْمُؤَدِّنُ

عَلَى الْآذَانَ أَجْرًا

۱۸۳۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ أَبِي زَبِيدٍ عَنْ اشْعَثِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ إِنَّ مِنْ أَجْرِمَا عَهْدَ إِلَيَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ آتَيْتُكَ مُؤَدِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَيَّ آذَانَهُ أَجْرًا

۱۸۲۔ حضرت عثمان بن ابوالعاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی مجھے آخری وصیت یہ تھی کہ ایسا مؤذن مقرر کروں جو اپنی اذان پر اجرت نہ لے۔

امام ترمذی کہتے ہیں حدیث عثمان حسن ہے اور اسی پر اہل علم کا عمل ہے کہ مؤذن کے لیے اذان پر اجرت لینا مکروہ ہے اور مؤذن کے لیے مستحب ہے کہ ثواب اخروی کے لیے اذان دے۔

باب ۱۵۴۔ مَا يَقُولُ إِذَا أَدَّنَ الْمُؤَدِّنُ مِنَ الدُّعَاءِ

۱۸۴۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ الْحَكِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَدِّنَ حِينَ يُؤَدِّنُ وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيَتْ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا غُفِرَ اللَّهُ ذُنُوبَهُ

باب ۱۵۳۔ مؤذن جب اذان دے تو سننے والا کیا دعا پڑھے؟

۱۸۳۔ سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص مؤذن کی اذان سننے کے بعد یہ کہے "و انا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربنا وبالإسلام ديننا وبمحمد رسولا" (یعنی میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ کہ محمد ﷺ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ میں اللہ کی ربوبیت، اسلام کے دین ہونے اور محمد ﷺ کے رسول ہونے پر راضی ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرمادیتے ہیں۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے ہم اسے لیث بن سعد کی حکیم بن عبد اللہ بن قیس کی روایت کے علاوہ نہیں جانتے۔

باب ۱۵۵۔ مِنْهُ أَيْضًا

۱۸۵۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ بْنُ عَسْكَرِ الْبَغْدَادِيِّ وَابِرَاهِيمُ يَعْقُوبُ قَالَا نَا عَلِيُّ بْنُ عِيَّاشٍ نَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْرَةَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

۱۸۵۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے اذان سننے کے بعد یہ کہا: "اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلوة القائمة ات محمد بالوسيلة والفضيلة وابعثه مقلدا لمحمد وان الذي وعدته" (ترجمہ: اے اللہ اس کامل دعا کے

مالک اور نماز قائمہ کے پروردگار محمد ﷺ کو وسیلہ اور بزرگی عطا فرما اور ان کو مقام محمود پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے) تو قیامت کے دن اس کے لئے میری شفاعت حلال ہوگی۔

وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اَللّٰهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اِنِّ مُحَمَّدًا نِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَاَبْعَثْهُ مَقَامًا مِّمَّ مُحَمَّدٍ الَّذِي وَعَدْتَهُ اِلَّا حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

امام ترمذی کہتے ہیں جابرؓ کی حدیث محمد بن منکدر کی روایت سے حسن غریبؒ سے ہم نہیں جانتے کہ اسے شعیب بن ابی حمزہ کے علاوہ کسی اور نے روایت کیا ہو۔

باب ۱۵۶۔ اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دُعا رُو نہیں کی جاتی

۱۸۶۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعا کبھی رُو نہیں کی جاتی۔ (یعنی ہمیشہ قبول ہوتی ہے)

باب ۱۵۶۔ مَا جَاءَ اَنَّ الدُّعَاءَ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ

۱۸۶۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ نَا وَكَيْعٌ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابُو اَحْمَدَ وَابُو نَعِيْمٍ قَالُوْا نَا سَفِيَّانُ عَنْ زَيْدِ الْعَمِيِّ عَنْ اَبِيْ اِيَّاسٍ مُّعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ

امام ترمذی کہتے ہیں حدیث انسؓ حسن ہے اور اسے ابن اسحاق ہمدانی نے برید بن ابی مریم سے انہوں نے انسؓ سے اور انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے اسی کے مثل بیان کیا ہے۔

باب ۱۵۷۔ اللہ تعالیٰ بے بندوں پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟

۱۸۷۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ پر شب معراج میں پچاس نمازیں فرض کی گئیں۔ پھر ان میں کمی کی گئی یہاں تک کہ پانچ رہ گئیں۔ پھر آواز دی گئی: اے محمد ﷺ ہمارے قول میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ آپ ﷺ کے لئے ان پانچ کا پچاس کے برابر ثواب ہے۔

باب ۱۵۷۔ مَا جَاءَ كَهَفَرَضَ اللّٰهُ عَلٰى عِبَادِهِ مِنَ الصَّلٰوةِ

۱۸۷۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ فُرِضَتْ عَلٰى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ اُسْرٰى بِه الصَّلٰوةُ خَمْسِيْنَ ثُمَّ نَقِصَتْ حَتّٰى جُعِلَتْ خَمْسًا ثُمَّ نُودِيَ يَا مُحَمَّدُ اِنَّهُ لَا يَبْدُلُ الْقَوْلَ لَدَيَّ وَاِنَّ لَكَ بِهَذَا الْخَمْسِ خَمْسِيْنَ

اس باب میں عبادہ بن صامتؓ، طلحہ بن عبد اللہ، ابو قتادہ، ابو ذر، مالک بن صعصعہ اور ابو سعید خدریؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں انسؓ کی حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۱۵۸۔ بچکانہ نماز کی فضیلت۔

۱۸۸۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: پانچ نمازیں اور ایک جمعہ، آئندہ جمعہ تک گناہوں کا کفارہ ہے

باب ۱۵۸۔ فِى فَضْلِ الصَّلٰوةِ الْخَمْسِ

۱۸۸۔ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حَجْرٍ نَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلَاةُ
الْحَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ
مَا لَمْ يَغْشِ الْكَبَائِرُ

(صغیرہ گناہوں کا) بشرطیکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔

اس باب میں جابرؓ، انسؓ اور حنظلہؓ اسیدی سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۵۹۔ جماعت کی فضیلت۔

باب ۱۵۹۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْجَمَاعَةِ

۱۸۹۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جماعت کے ساتھ نماز اکیلے نماز پڑھنے سے ستائیس درجے افضل ہے۔

۱۸۹۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَيَّ صَلَاةُ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

اس باب میں عبداللہ بن مسعودؓ، ابی بن کعبؓ، معاذ بن جبلؓ، ابوسعیدؓ، ابو ہریرہؓ اور انس بن مالکؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی

کہتے ہیں حدیث ابن عمرؓ صحیح ہے۔ اسی طرح نافع نے بھی ابن عمرؓ سے اور انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے روایت کیا ہے کہ جماعت کی نماز منفرد کی نماز سے ستائیس درجے افضل ہے اکثر راویوں نے نبی اکرم ﷺ سے روایت کیا ہے کہ پچیس درجے، سوائے ابن عمرؓ کے کہ انہوں نے فرمایا ستائیس درجے۔

۱۹۰۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جماعت سے نماز ادا کرنے والے شخص کی نماز اس کے اکیلا پڑھنے سے پچیس درجے افضل ہوتی ہے۔

۱۹۰۔ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْانصَارِيُّ نَا مَعْنِ نَا مَالِكُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَيَّ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۶۰۔ جو شخص اذان سے اور نماز کے لئے نہ پہنچے۔

باب ۱۶۰۔ مَا جَاءَ فِيْمَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَا يُجِيبُ

۱۹۱۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: میں نے ارادہ کیا کہ اپنے جوانوں کو حکم دوں کہ لکڑیوں کا ڈھیر جمع کریں پھر میں نماز کا حکم دوں اور تکبیر کہی جائے پھر ان کے گھروں کو جلا دوں، جو نماز میں حاضر نہیں ہوئے۔

۱۹۱۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ أَبِي كَعْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَرْقَانَ عَنْ يَزِيدِ بْنِ الْأَسَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَّ فِتْيَتِي أَنْ يَجْمَعُوا حَزْمَ الْحَطَبِ ثُمَّ بِالصَّلَاةِ فَتَقَامَ ثُمَّ أَحْرِقَ عَلَى أَقْوَامٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ

اس باب میں ابن مسعودؓ، ابوالدرداءؓ، ابن عباسؓ، معاذ بن انسؓ اور جابرؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث ابو ہریرہؓ

حسن صحیح ہے اور کئی صحابہ سے مروی ہے کہ جو شخص اذان سے اور نماز کے لیے مسجد میں حاضر نہ ہو۔ اس کی نماز نہیں ہوتی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ تغلیظ اور تشدید کے معنی میں ہے اور کسی شخص کے لیے جماعت کو ترک کرنے کی اجازت نہیں الّا یہ کہ کوئی عذر ہو۔ مجاہد کہتے ہیں:

ابن عباسؓ سے ایسے شخص کے متعلق سوال کیا گیا جو دن میں روزے رکھتا ہو اور رات بھر نماز پڑھتا ہو لیکن نہ جمعہ میں حاضر ہوتا ہے اور نہ جماعت میں فرمایا: وہ جہنمی ہے۔ ہم سے اسے ہناد نے روایت کیا ہے وہ بخاری سے وہ لیث سے اور وہ مجاہد سے نقل کرتے ہیں۔ اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ وہ شخص جمعہ اور جماعت میں قصد نہ حاضر ہوتا ہو یا تکبر کی وجہ سے یا جماعت کو حقیر سمجھ کر۔

باب ۱۶۱۔ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَيُحَدِّثُ ثُمَّ يُدْرِكُ الْجَمَاعَةَ
باب ۱۶۱۔ اس شخص کے متعلق جو اکیلا نماز پڑھ چکا ہو پھر جماعت پائے۔

۱۹۲۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا هِشِيمَ نَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ نَا جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَجَّتَهُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ رُحِرَ فَأَذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي أُخْرَى الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيْهُ مَعَهُ فَقَالَ عَلِيٌّ بِهِمَا فَجِئْتُ بِهِمَا تَرَعُدُ فَرَأَيْتُهُمَا فَقَالَ مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا قَالَ فَلَا تَفْعَلَا إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ آتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ

۱۹۲۔ جابر بن یزید الاسود اپنے والد کا قول نقل کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حج میں شریک تھا۔ میں نے آپ ﷺ کے ساتھ فجر کی نماز مسجد خیف میں پڑھی جب نماز ختم ہوئی تو آنحضرت ﷺ ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ اور دو آدمیوں کو دیکھا کہ انہوں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی تھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا انہیں میرے پاس لاؤ پس ان کو لایا گیا ان کی رگیں خوف سے پھڑکنے لگیں۔ آپ ﷺ نے پوچھا تمہیں ہمارے ساتھ نماز پڑھنے سے کس چیز نے روکا؟ انہوں نے عرض کیا ہم نے اپنی منزلوں میں نماز پڑھ لی تھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ایسا نہ کیا کرو اگر تم نے اپنی منزلوں میں نماز پڑھ بھی لی ہو اور پھر تم جماعت والی مسجد میں آؤ تو ان کے ساتھ نماز پڑھو وہ تمہارے لئے نازل ہوگی۔

اس باب میں حُجْنٌ اور یزید بن عامرؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں۔ یزید بن اسود کی حدیث حسن صحیح ہے اور یہ کئی علماء کا قول ہے۔ شافعی، سفیان ثوری، احمد اور اسحاق بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اکیلے نماز پڑھ چکا ہو پھر جماعت پالے تو تمام نمازیں جماعت میں لوٹا سکتا ہے۔ اور اگر مغرب اکیلے پڑھی ہو پھر جماعت مل گئی تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اور اس میں ایک رکعت ملا کر اسے جفت کر دے نیز جو نماز اس نے اکیلے میں پڑھی ہوگی وہی فرض ہوگی۔

باب ۱۶۲۔ مَا جَاءَ فِي الْجَمَاعَةِ فِي مَسْجِدٍ قَدْ صَلَّى فِيهِ مَرَّةً
باب ۱۶۲۔ اس مسجد میں دوسری جماعت سے متعلق جس میں ایک جماعت ہو چکی ہو۔

۱۹۳۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ نَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ سَلِيمَانَ النَّاجِي عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّكُمْ يَتَجَرَّ عَلَيَّ هَذَا فَقَامَ رَجُلٌ وَصَلَّى مَعَهُ

۱۹۳۔ حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کے نماز پڑھ لینے کے بعد آیا آپ ﷺ نے فرمایا: اس شخص کے ساتھ کون تجارت کرے گا۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ نماز پڑھ لی (یعنی اس کے ساتھ شریک ہو جائے تاکہ جماعت کا ثواب دونوں کو مل جائے ورنہ وہ شخص اس سے محروم رہتا)

اس باب میں ابو امامہؓ، ابو موسیٰؓ اور حکم بن عمیرؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت ابوسعیدؓ کی حدیث حسن ہے اور یہی قول صحابہ و تابعین میں سے کئی اہل علم کا ہے کہ جس مسجد میں جماعت ہو چکی ہو۔ اس میں دوبارہ جماعت کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ احمد اور اسحاق بھی یہی کہتے ہیں بعض علماء کا کہنا ہے کہ وہ اپنی اپنی نماز پڑھیں گے (یعنی جماعت نہیں کریں گے) یہ قول سفیان ثوری، ابن مبارک، مالک اور شافعی کا ہے ان کا مسلک یہ ہے کہ وہ الگ الگ نماز پڑھیں۔

باب ۱۶۳۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ

۱۹۴۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اس کے لئے آدھی رات (کی عبادت) کا ثواب ہے اور جس نے عشاء اور فجر دونوں جماعت کے ساتھ پڑھیں گویا کہ ساری رات جاگا۔ (یعنی پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ہے)

۱۹۴۔ حدثنا محمود بن غيلان نا بشر بن السري نا سفیان عن عثمان بن حكيم عن عبدالرحمن بن ابي عمرة عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شهد العشاء في جماعة كان له قيام ليلة والفجر في جماعة كان له قيام ليلة

اس باب میں ابن عمرؓ، ابو ہریرہؓ، انسؓ، عمارہ ابن ابورویہؓ، جنابؓ، ابی بن کعبؓ، ابو موسیٰؓ اور بریدہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔

۱۹۵۔ حضرت جناب بن سفیان رضی اللہ عنہ آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی وہ اللہ کی پناہ میں ہے۔ لہذا اللہ کی پناہ نہ توڑو۔

۱۹۵۔ حدثنا محمود بن بشار نا يزيد بن هارون نا داود بن ابي هند عن الحسن بن جندب بن سفیان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا تخطروا الله في ذمته

امام ترمذی کہتے ہیں حدیث عثمان حسن صحیح ہے یہ حدیث عبدالرحمن بن ابی عمرہ سے بھی بحوالہ عثمان موقوفاً منقول ہے۔ اور کئی سندوں سے حضرت عثمانؓ ہی سے مرفوعاً بھی مروی ہے۔

۱۹۶۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ الاسلمی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چلنے والوں کو قیامت کے دن کامل نور کی بشارت دو۔

۱۹۶۔ حدثنا عباس العنبري نا يحيى بن كثير ابو غسان العنبري عن اسمعيل الكحال عن عبد الله بن اوس الخزاعي عن بريدة الاسلمي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بَشِّرِ الْمَشَائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

یہ حدیث غریب ہے۔

باب ۱۶۴۔ پہلی صف کی فضیلت۔

۱۹۷۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

باب ۱۶۴۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ

۱۹۷۔ حدثنا قتيبة نا عبدالعزيز بن محمد عن

مردوں کی صفوں میں سب سے بہتر پہلی صف اور سب سے بدتر آخر صف ہے جب کہ عورتوں کی صفوں میں سب سے بہتر آخری صف اور سب سے بدتر پہلی صف ہے۔

سهیل بن ابی صالح عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوْلَاهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوْلَاهَا

اس باب میں جابرؓ، ابن عباسؓ، ابوسعیدؓ، ابو عاتشہؓ، عمر باض بن ساریہؓ اور انسؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث ابو ہریرہؓ حسن صحیح ہے۔ حضور اکرم ﷺ سے یہ بھی منقول ہے کہ آپ ﷺ پہلی صف کے لیے تین مرتبہ اور دوسری صف کے لیے ایک مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: اگر لوگوں کو علم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے پر کیا اجر ہے اور پچھلے بغیر قرعہ اندازی کے اسے حاصل نہ کر سکیں تو بے شک قرعہ ڈالنے لگیں۔ اسحاق بن موسیٰ انصاری ہم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے معنی سے اور انہوں نے مالک سے اسے نقل کیا ہے۔ قتیبہ، مالک سے وہ کسی سے وہ ابوصالح سے وہ ابو ہریرہؓ سے اور وہ حضور اکرم ﷺ سے اس کے مثل نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۶۵۔ مَا جَاءَ فِي إِقَامَةِ الصُّفُوفِ

باب ۱۶۵۔ صفیں سیدھی کرنے سے متعلق۔

۱۹۸۔ حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ بْنُ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ سَمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّي صُفُوفَنَا فَخَرَجَ يَوْمًا فَرَأَى رَجُلًا خَارِجًا صَدْرَهُ عَنِ الْقَوْمِ فَقَالَ لَتَسَوِّيَنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لِيَخَالَفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ

۱۹۸۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہماری صفوں کو درست فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ نکلے تو ایک شخص آ کر دیکھا اس کا سینہ صف سے بڑھا ہوا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تم لوگ اپنی صفوں کو سیدھا کرو (برابر کرو) ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں پھوٹ ڈال دے گا۔

اس باب میں جابر بن سمرہؓ، براءؓ، جابر بن عبد اللہؓ، انسؓ، ابو ہریرہؓ اور حضرت عائشہؓ سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں نعمان بن بشیر کی حدیث حسن صحیح ہے نیز حضور اکرم ﷺ سے منقول ہے کہ صفوں کو سیدھا کرنا، نماز کو پورا کرنے میں شامل ہے۔ حضرت عمرؓ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صفیں سیدھی کرنے کے لیے ایک آدمی مقرر کرتے اور اس وقت تک تکبیر نہ کہتے جب تک انہیں بتانہ دیا جاتا کہ صفیں سیدھی ہو گئیں۔

باب ۱۶۶۔ مَا جَاءَ لِيَلْبِنِي مِنْكُمْ أَوْلُوا الْأَحْلَامِ وَالنُّهْيِ

باب ۱۶۶۔ حضور اکرم ﷺ کا ارشاد کہ اہل بصیرت و عقل میرے قریب رہا کریں۔

۱۹۹۔ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ نَا خَالِدَ الْحَدَّادِ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيَلْبِنِي مِنْكُمْ أَوْلُوا الْأَحْلَامِ وَالنُّهْيِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ وَلَا تَخْتَلَفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ وَإِيَاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ

۱۹۸۔ حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے اہل بصیرت و عقل لوگ میرے قریب کھڑے ہوں۔ پھر جو ان کے قریب ہوں (یعنی بصیرت و عقل میں) اور آپس میں اختلاف نہ کرو تا کہ تمہارے دلوں میں پھوٹ نہ پڑ جائے اور بازاروں کے شور و غل سے باز رہو۔

اس باب میں ابی بن کعبؓ، ابن مسعودؓ، ابوسعیدؓ، براءؓ اور انسؓ سے بھی احادیث نقل کی جاتی ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں عبداللہ بن مسعودؓ کی حدیث حسن غریب ہے۔ حضور اکرم ﷺ سے منقول ہے کہ آپ ﷺ کو مہاجرین اور انصار کا ان کے قریب رہنا پسند تھا تا کہ وہ آپ ﷺ سے مسائل سیکھیں اور یاد رکھیں۔ اور خالد الخدء خالد بن مہران ہیں ان کی کنیت ابوالمنازل ہے میں نے بخاری کو کہتے ہوئے سنا کہ خالد الخدء (۱) نے کبھی کوئی جوتا نہیں بنایا وہ ایک جوتے بنانے والے کے پاس بیٹھا کرتے تھے اسی کی طرف منسوب ہو گئے۔ ابو معشر کا نام زیاد بن کلیب ہے۔

توضیح: یہ حکم اس لیے تھا کہ اگر استخلاف (۲) کی ضرورت ہو تو امامت کے لائق کوئی شخص فوراً مل جائے، بھولنے کی صورت میں لقمہ دیا جاسکے اور یہ آنحضرت ﷺ کی نماز کو اچھی طرح دیکھ کر دوسروں تک پہنچا سکیں۔ (مترجم)

باب ۱۶۷۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّفِّ بَيْنَ ۱۶۷۔ ستونوں کے درمیان صف بنانا مکروہ ہے۔

السَّوَارِي

۲۰۰۔ عبد الحمید بن محمود کہتے ہیں ہم نے امراء میں سے ایک امیر کے پیچھے نماز پڑھی ہمیں لوگوں نے مجبور کیا تو ہم نے دو ستونوں کے درمیان نماز پڑھی اور جب فارغ ہوئے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہم رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں اس سے پرہیز کیا کرتے تھے۔

۲۰۰۔ حَدَّثَنَا هِنَادَانَا وَكَيْعٌ عَنْ سَفِيَانَ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ هَانِيٍّ عَنْ عُرْوَةَ الْمُرَادِيِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مَحْمُودٍ قَالَ صَلَّيْنَا خَلْفَ أَمِيرٍ مِنَ الْأُمَرَاءِ فَاضْطَرَّ النَّاسُ فَصَلَّيْنَا بَيْنَ السَّارِيَيْنِ فَلَمَّا صَلَّيْنَا قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

اس باب میں قرہ بن ایاس مزنی بھی حدیث بیان کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت انسؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض علماء ستونوں کے درمیان صف بنانے کو مکروہ سمجھتے ہیں یہ احمد اور اسحاق کا قول ہے جب کہ بعض اہل علم اس کی اجازت دیتے ہیں۔

باب ۱۶۸۔ صَفِّ كَيْلِ نَمَازٍ پڑھنے سے متعلق۔

باب ۱۶۸۔ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحَدَهُ

۲۰۱۔ ہلال بن یساف کہتے ہیں زیاد بن ابی الجعد نے رقد کے مقام پر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ ایک شیخ کے پاس لے گئے۔ انہیں وابصہ بن معبد کہا جاتا ہے وہ قبیلہ بنی اسد سے تھے۔ زیاد نے کہا مجھ سے اس شیخ نے روایت کی کہ ایک شخص نے صف کے پیچھے نماز پڑھی (اور شیخ سن رہے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے اسے دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دیا۔

۲۰۱۔ حَدَّثَنَا هِنَادَانَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ أَخَذَ زَيْدُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ يَدِي وَنَحْنُ بِالرَّقَةِ فَقَامَ بِي عَلَىٰ شَيْخٍ يُقَالُ لَهُ وَابِصَةُ بْنُ مَعْبِدٍ مِنْ بَنِي أَنَسٍ فَقَالَ زَيْدٌ حَدَّثَنِي هَذَا الشَّيْخُ أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحَدَهُ وَالشَّيْخُ يَسْمَعُ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ

(۱) الخدء جوتے بنانے والے کو کہتے ہیں۔ (مترجم)

(۲) استخلاف کے معنی یہ ہیں کہ اگر بوقت ضرورت امام کو نماز ترک کر کے جانا پڑے تو امام کسی شخص کو اپنی جگہ امامت کے لیے آگے کر سکے (مترجم)

اس باب میں علی بن شیبان اور انس سے بھی احادیث منقول ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں واپسہ کی حدیث حسن ہے۔ علماء کی ایک جماعت نے کسی شخص کے صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنے کو مکروہ کہا ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ اگر اس نے اکیلے نماز پڑھی تو اسے لوٹانی ہوگی۔ یہ قول احمد اور اسحاق کانپے بعض اہل علم کے نزدیک اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ سفیان ثوری، ابن مبارک اور امام شافعی کا قول ہے۔ اہل کوفہ میں سے بھی علماء کی ایک جماعت واپسہ کی حدیث پر عمل کرتی ہے ان حضرات کا کہنا بھی یہی ہے کہ جس نے صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھی ہو وہ نماز کو دہرائے ان میں حماد بن ابی سلیمان، ابن ابی لیلیٰ اور کعب شامل ہیں۔ حدیث حمین، ہلال بن یساف سے کئی راویوں نے ابوالاحوص کی زیاد بن ابوالجعد سے اور ان کی واپسہ سے روایت کے مثل بیان کی ہے۔ حمین کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ہلال نے واپسہ کا زمانہ پایا ہے محدثین کا اس بارے میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں عمرو بن مرہ کی ہلال بن یساف سے مروی حدیث اصح ہے ہلال عمرو بن راشد سے اور وہ واپسہ سے روایت کرتے ہیں۔ بعض محدثین کا کہنا ہے کہ حمین کی ہلال بن یساف سے مروی حدیث اصح ہے وہ زیاد بن ابی جعد سے اور وہ واپسہ بن سعید سے روایت کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ حدیث عمرو بن مرہ کی حدیث سے اصح ہے۔ اس لئے کہ ہلال بن یساف سے کئی احادیث اسی سند کے ساتھ مروی ہیں کہ وہ زیاد بن ابی جعد سے اور وہ واپسہ بن معبد سے روایت کرتے ہیں۔ محمد بن بشار، محمد بن جعفر سے وہ شعبہ سے وہ عمرو بن مرہ سے وہ زیاد بن ابی جعد سے اور وہ واپسہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا اور محمد بن بشار، محمد بن جعفر سے وہ شعبہ سے وہ عمرو بن مرہ سے وہ ہلال بن یساف سے وہ عمرو بن راشد سے اور وہ واپسہ بن معبد سے روایت کرتے ہیں کہ ”ایک شخص نے صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھی تو آپ ﷺ نے اسے نماز لوٹانے کا حکم دیا“ امام ترمذی کہتے ہیں جارو کعب کے متعلق کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر کسی شخص نے صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھی تو اسے لوٹائے گا۔

مسئلہ: حنفیہ نے اس میں تفصیل بیان کی ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں ایسے وقت پہنچے جب کہ صف مکمل ہو چکی ہو تو پیچھے اکیلے کھڑے ہونے والے شخص کو چاہیے کہ وہ کسی اور شخص کے آنے کا انتظار کرے۔ اگر رکوع تک کوئی نہ آئے تو اگلی صف سے کسی کو کھینچ کر اس کے ساتھ نماز پڑھے۔ البتہ اگر اس میں ایذا کا اندیشہ ہو یا لوگ جاہل ہوں اور اس عمل سے کسی فتنے کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں تنہا کھڑے ہو کر نماز پڑھ لینا جائز ہے حنفیہ اپنے مسلک پر حضرت ابوبکرؓ کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ انہوں نے تنہا کھڑے ہو کر نبی کریم ﷺ کے ساتھ رکوع کر لیا تھا تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”زادک اللہ حرصا ولا تعد“ یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری حرص کو زیادہ کرے دوبارہ ایسا نہیں کرنا۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ صفوں کے پیچھے اکیلے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ حدیث باب کے متعلق یہ حضرات کہتے ہیں نماز کو لوٹانے کا یہ حکم استحباب پر محمول ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۱۶۹۔ اس شخص کے متعلق جس کے ساتھ نماز پڑھنے والا ایک ہی شخص ہو۔

۲۰۲۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم ﷺ کے ساتھ ایک رات نماز پڑھی۔ میں آپ ﷺ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ آپ ﷺ نے میرا سر پیچھے سے پکڑا اور دہنی طرف کھڑا کر دیا۔

باب ۱۶۹۔ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَمَعَهُ رَجُلٌ

۲۰۲۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارِ

عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ عَنْ كَرِيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي

فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ

اس باب میں انسؓ سے بھی حدیث منقول ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث ابن عباس حسن صحیح ہے۔ اہل علم صحابہ اور بعد کے علماء کا یہی عمل ہے کہ اگر امام کے ساتھ ایک ہی شخص ہو تو امام کے دائیں کھڑا ہوگا۔

باب ۱۷۰۔ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي مَعَ الرَّجُلَيْنِ
باب ۱۷۰۔ اس شخص کے متعلق جس کے ساتھ نماز پڑھنے کے لئے دو آدمی ہوں۔

۲۰۳۔ حَدَّثَنَا بِنْدَارٌ مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدَى قَالَ ابْنَانَا اسْمَعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ أَمَرْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنَّا ثَلَاثَةً أَنْ يَتَّقَدَّ مِنَّا أَحَدُنَا

۲۰۳۔ حضرت سمروہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں حکم دیا کہ اگر ہم تین شخص ہوں تو ہم میں سے ایک آگے بڑھ کر امامت کرے۔

اس باب میں ابن مسعود اور جابرؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ سمروہؓ کی حدیث غریب ہے اور علماء کا اس پر عمل ہے کہ اگر تین آدمی ہوں تو دو امام کے پیچھے کھڑے ہوں۔ حضرت ابن مسعودؓ سے منقول ہے کہ انہوں نے علقمہ اور اسود کی امامت کی تو ایک کو دائیں اور دوسرے کو بائیں کھڑا کیا۔ اور اسے رسول اللہ ﷺ سے نقل کیا۔ اور بعض حضرات اسماعیل بن مسلم کے حافظے پر اعتراض کرتے ہیں کہ ان کا حافظہ اچھا نہیں تھا۔

باب ۱۷۱۔ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي مَعَهُ رَجُلًا وَنِسَاءً

باب ۱۷۱۔ اس شخص کے متعلق جو مردوں اور عورتوں کی امامت کرے۔

۲۰۴۔ حَدَّثَنَا اسْحَقُ الْانصَارِيُّ نَا مَعْنُ نَا مَالِكُ عَنِ اسْحَقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ فَوُومُوا فَلْنُصَلِّ بِكُمْ قَالَ أَنَسُ فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لَيْسَ فَنَضَحْتُهُ (۱) بِالْمَاءِ فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفْتُ عَلَيْهِ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَأَتْهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى بِنَا رُكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ

۲۰۴۔ حضرت انسؓ بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی دادی ملیکہ نے رسول اللہ ﷺ کی اپنے پکائے ہوئے کھانے سے دعوت کی۔ آپ ﷺ نے اس میں سے کھایا اور پھر فرمایا: کھڑے ہو جاؤ۔ ہم تمہارے ساتھ نماز پڑھیں۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں کھڑا ہوا اور اپنی چٹائی اٹھائی جو کافی پرانی ہونے کی وجہ سے کالی ہو گئی تھی میں نے اس پر پانی چھڑکا اور اس پر رسول اللہ ﷺ کھڑے ہوئے۔ میں نے اور یتیم (۲) نے آپ ﷺ کے پیچھے صف بنائی بڑی بی ہمارے پیچھے کھڑی ہو گئیں آپ ﷺ نے دو رکعت نماز پڑھائی اور پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے۔

(۱) نضح کے معنی چھینے مارنے کے ہیں جب کہ اس سے دھونا بھی مراد لیا جاتا ہے احتمال ہے کہ یہاں دھونے کے معنی ہی مراد ہوں کیوں کہ چھیننے مارنے سے تو نہ صرف میل زیادہ ہو جاتی ہے بلکہ کپڑوں کو بھی لگ جاتی ہے۔

(۲) یتیم: ایک صحابی ہیں ان کا نام ضمیرہ بن ضمیرہ ہے۔ (مترجم)

امام ترمذی کہتے ہیں حضرت انسؓ کی حدیث صحیح ہے اور اس پر اہل علم کا عمل ہے کہ اگر امام کے ساتھ ایک ہی آدمی اور عورت ہو تو آدمی امام کے دائیں اور عورت پیچھے کھڑی ہوگی۔ بعض علماء اس حدیث سے صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنے کے جواز پر استدلال کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بچے کی نماز ہی نہیں۔ لہذا انسؓ نے آپ ﷺ کے پیچھے تبا کھڑے ہو کر نماز پڑھی لیکن یہ صحیح نہیں کیوں کہ رسول اللہ ﷺ نے انہیں یتیم کے ساتھ کھڑا کیا تھا۔ اگر آپ ﷺ یتیم کی نماز کو معتبر نہ سمجھتے تو انہیں انسؓ کے ساتھ کھڑا نہ کرتے بلکہ انسؓ کو اپنی دائیں طرف کھڑا کرتے۔ حضرت موسیٰ بن انسؓ حضرت انسؓ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ ﷺ نے انہیں اپنے دائیں کھڑا کیا۔ اس حدیث میں اس بات پر بھی دلالت ہے کہ یہ نقل نماز تھی آپ ﷺ نے برکت کے ارادے سے ایسا کیا تھا۔

باب ۱۷۲۔ مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ

باب ۱۷۳۔ امامت کا کون زیادہ مستحق ہے؟

۲۰۵۔ حدثنا هنادنا ابو معاوية الاعمش ح وثنا محمود بن غيلان نا ابو معاوية وابن نمير عن الاعمش عن اسماعيل بن رحام الزبيدي عن اوس بن زمام قال سمعت ابا مسعود الناصري يقول قال رسول الله ﷺ فرمادیا: قوم کی امامت ان میں سے بہترین قرآن پڑھنے والا کرے۔ اگر قرأت میں برابر ہوں تو وہ جو سنت کے بارے میں زیادہ علم رکھتا ہو اگر اس میں بھی برابر ہوں تو جس نے پہلے ہجرت کی ہو پھر اگر ہجرت میں بھی برابر ہوں تو زیادہ عمر والا امامت کرے۔ نیز کوئی شخص اپنی ملکیت یا غلبے کی جگہ ماموم نہ بنایا جائے اور کوئی شخص گھر والے کی اجازت کے بغیر اس کی مسند پر نہ بیٹھے

۲۰۵۔ حدثنا هنادنا ابو معاوية الاعمش ح وثنا محمود بن غيلان نا ابو معاوية وابن نمير عن الاعمش عن اسماعيل بن رحام الزبيدي عن اوس بن زمام قال سمعت ابا مسعود الناصري يقول قال رسول الله ﷺ فرمادیا: قوم کی امامت ان میں سے بہترین قرآن پڑھنے والا کرے۔ اگر قرأت میں برابر ہوں تو وہ جو سنت کے بارے میں زیادہ علم رکھتا ہو اگر اس میں بھی برابر ہوں تو جس نے پہلے ہجرت کی ہو پھر اگر ہجرت میں بھی برابر ہوں تو زیادہ عمر والا امامت کرے۔ نیز کوئی شخص اپنی ملکیت یا غلبے کی جگہ ماموم نہ بنایا جائے اور کوئی شخص گھر والے کی اجازت کے بغیر اس کی مسند پر نہ بیٹھے

محمود نے اپنی حدیث میں "اکبر ہم سنا" کی جگہ "اقدّمهم سنا" کے الفاظ کہے ہیں۔ اس باب میں ابو سعیدؓ انس بن مالکؓ، مالک بن حویرثؓ اور عمرو بن سلمہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں۔ ابو مسعودؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اس پر اہل علم کا عمل ہے کہ امامت کا زیادہ مستحق وہ ہے جو قرأت میں افضل اور سنت سے زیادہ واقفیت رکھتا ہو۔ یہ حضرات کہتے ہیں گھر کا مالک امامت کا زیادہ مستحق ہے بعض حضرات کہتے ہیں اگر اس نے کسی اور کو امامت کی اجازت دے دی تو اس کے لیے اس میں کوئی مضائقہ نہیں جب کہ بعض اسے مکروہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب خانہ کی امامت سنت ہے۔ احمد بن حنبلؓ کہتے ہیں آپ ﷺ کا فرمان کہ کوئی شخص اپنی ملکیت یا غلبے کی جگہ ماموم نہ بنایا جائے اور نہ کوئی شخص کسی کے گھر میں اس کی مسند پر بغیر اجازت بیٹھے۔ لیکن اگر کوئی اس کی اجازت دے تو مجھے امید ہے کہ دونوں باتوں کی اجازت ہوگی۔ ان کے نزدیک صاحب خانہ کی اجازت سے امامت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

باب ۱۷۳۔ ۱۷۳۔ مَا جَاءَ إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمْ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ

باب ۱۷۳۔ اگر کوئی امامت کرے تو قرأت میں تخفیف کرے۔

۲۰۶۔ حدثنا قتيبة نا المغيرة بن عبد الرحمن عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة أنّ النبي ﷺ قال إذا أمّ

۲۰۶۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تم میں سے کوئی امامت کرے تو (قرأت) تخفیف کرے۔ اس لئے کہ مقتدیوں میں چھوٹے، ضعیف، مریض سب ہی ہیں۔ اور جب اکیلا

أَحَدُكُمْ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ
وَالضَّعِيفَ وَالْمَرِيضَ فَإِذَا صَلَّى وَحَدَّةً فَلْيُصَلِّ
كَيْفَ يَشَاءُ

اس باب میں عدی بن حاتمؓ، انسؓ، جابر بن سمرہؓ، مالک بن عبد اللہؓ، ابو اقدؓ، عثمان بن ابی العاصؓ، ابو مسعودؓ، جابر بن عبد اللہؓ اور ابن عباسؓ سے بھی احادیث نقل کی جاتی ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث ابو ہریرہؓ صحیح ہے اور یہی اکثر اہل علم کا قول ہے کہ امام کو چاہیے کہ نماز کو طویل نہ کرے تاکہ ضعیف، بوڑھے اور مریض لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ ابو زناد کا نام ذکر ان اور اعرج عبد الرحمن بن ہر مزالم مدینی ہیں ان کی کنیت ابو داؤد ہے۔

۲۰۷۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا اَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ
قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْ
اَحْفَ النَّاسِ صَلْوَةً فِيْ تَمَامٍ
۲۰۷۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ تمام لوگوں سے خفیف اور مکمل نماز پڑھانے والے تھے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

توضیح: تخفیف کا مطلب یہ ہے کہ ہر نماز میں قدر مسنون سے آگے نہ بڑھے۔ یعنی قرأت میں تخفیف کرے اس کا دوسرے ارکان کی ادائیگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں لہذا رکوع و سجود میں تین سے زائد تسبیحات پڑھنا بلا کراہت جائز ہے کیوں کہ آنحضرت ﷺ سے رکوع و سجود میں دس تسبیحات پڑھنا ثابت ہے۔ (مترجم)

باب ۱۷۴۔ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ الصَّلَاةِ وَتَحْلِيلِهَا
۲۰۸۔ حَدَّثَنَا سَفِيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ
عَنْ اَبِي سَفِيَانَ طَرِيفِ السَّعْدِيِّ عَنْ اَبِي نَضْرَةَ عَنْ
اَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيْمُ وَلَا صَلْوَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِالْحَمْدِ وَسُورَةٍ فِي فَرِيضَةٍ اَوْ غَيْرِهَا
باب ۱۷۴۔ نماز کی تحریم و تحلیل سے متعلق۔

اس باب میں علیؓ اور عائشہؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب کی حدیث اسناد کے اعتبار سے حضرت ابوسعیدؓ کی حدیث سے بہتر اور اصح ہے۔ حدیث ابوسعیدؓ ہم نے کتاب الوضو میں بیان کی ہے۔ اس پر علماء صحابہ اور ان کے بعد کے علماء کا عمل ہے۔ یہی قول سفیان ثوری،

ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی ہے کہ نماز کی تحریم، تکبیر اور تحلیل سلام سے ہے۔ امام ترمذی، ابو بکر محمد بن ابان سے عبد الرحمن بن مہدی کا قول نقل کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کے نئے ناموں کو ذکر کر کے نماز شروع کرے اور تکبیر نہ کہے تو اس کی نماز جائز نہیں اور

(۱) تحریم سے مراد یہ ہے کہ تکبیر کہتے ہی تمام مفدمات نماز حرام ہو جاتے ہیں۔ (مترجم)

(۱) تحلیل سے مراد یہ ہے کہ سلام کے بعد وہ تمام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں جن کو نماز میں کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔

اگر سلام پھیرنے سے پہلے کسی کا وضو ٹوٹ جائے میں اس کا حکم کروں گا کہ وضو کرے اور واپس آکر سلام پھیرے اس کی نماز اس طرح ہے۔ ابو نضرہ کا نام منذر بن مالک بن قطعہ ہے۔

باب ۱۷۵۔ فِی نَشْرِ الْأَصَابِعِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ

باب ۱۷۵۔ تکبیر کہتے وقت انگلیاں کھلی رکھی جائیں۔

۲۰۹۔ حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِقُ قَالَ نَا يَحْيَىٰ
بْنِ يَمَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَالِهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ نَشَرَ أَصَابِعَهُ

۲۰۹۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب نماز کے لئے تکبیر کہتے تو اپنی انگلیاں سیدھی رکھتے۔ (۱)

امام ترمذی کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث، کئی حضرات ابن ابی ذئب سے وہ سعید بن سمعان سے اور وہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب نماز شروع کرتے تو ہاتھوں کی انگلیوں کو سیدھا کر کے اوپر لے جاتے۔ یہ روایت یحییٰ بن یمان کی روایت سے صحیح ہے۔ ابن یمان نے اس حدیث میں خطا کی ہے۔

۲۱۰۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ
بْنُ عَبْدِ الْمُجِيبِ الْحَنْظَلِيُّ نَا ابْنِ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ
بْنِ سَمْعَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ
رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا

۲۱۰۔ حضرت سعید بن سمعان رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نماز پڑھتے تو انگلیوں کو سیدھا کر کے دونوں ہاتھ اوپر لے جاتے۔

امام ترمذی کہتے ہیں کہ عبد اللہ اس حدیث کو یحییٰ بن یمان کی حدیث سے صحیح سمجھتے تھے ان کا کہنا ہے کہ یحییٰ بن یمان کی حدیث میں خطا ہے۔

باب ۱۷۶۔ تَكْبِيرِ أَوَّلِ الْفَضِيلِ

باب ۱۷۶۔ فِی فَضْلِ التَّكْبِيرِ الْأُولَىٰ

۲۱۱۔ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ مَكْرَمٍ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَا
نَا سَلْمُ بْنُ قَتِيبَةَ عَنْ طَعْمَةَ بِنِ عَمْرٍو عَنْ حَبِيبِ بْنِ
أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا
فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَىٰ كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ تَنْ
بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ

۲۱۱۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے چالیس دن تک تکبیر (۲) اولیٰ کے ساتھ خالص اللہ کے لئے نماز پڑھی اس کی دو چیزوں سے براءت لکھ دی جاتی ہے۔ جہنم سے نجات اور نفاق سے براءت۔

(۱) نشر: دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک انگلیوں کو سیدھا رکھنا اور دوسرے انگلیوں کو پھیلا کر رکھنا۔ یہاں پہلے معنی مراد ہیں (مترجم)

(۲) تکبیر اولیٰ کے متعلق بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ امام کے قرأت شروع کرنے سے پہلے تک کا وقت ہے۔ بعض سے تکبیر تحریرہ میں شریک ہونے پر اور بعض کو تکبیر کے وقت پر محمول کرتے ہیں۔ اکثر فقہاء آخری قول کی طرف مائل ہیں۔ (مترجم)

امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت انسؓ سے مرفوعاً بھی منقول ہے ہم نہیں جانتے کہ اسے مسلم بن قتیبہ کے علاوہ کسی اور نے مرفوع کیا ہو مسلم بن قتیبہ طعمہ بن عمرو سے روایت کرتے ہیں اسے حبیب بن ابی حبیب بجلي نے حضرت انس بن مالکؓ سے انہی کا قول نقل کیا ہے۔ صنادید بھی یہ حدیث کعب سے وہ خالد طہمان سے وہ حبیب بن حبیب بجلي سے اور وہ انسؓ سے انہی کا قول نقل کیا ہے اسے مرفوع نہیں کیا۔ اسماعیل بن عیاش، عمارہ بن غزیہ سے وہ انس بن مالکؓ سے وہ عمر بن خطابؓ سے اور وہ رسول اللہ ﷺ سے اس کے مثل روایت کرتے ہیں۔ یہ حدیث غیر محفوظ اور مرسل ہے۔ کیوں کہ عمارہ بن غزیہ کا حضرت انس بن مالکؓ کو پانا ثابت نہیں۔

باب ۱۷۷۔ مَا يَقُولُ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

باب ۱۷۷۔ نماز شروع کرتے وقت کیا پڑھے۔

۲۱۲۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْبَصْرِيُّ

۲۱۲۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ

نا جعفر بن سليمان الضبعي عن علي بن علي

ﷺ جب رات کو نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے پھر

الرفاعي عن ابي المثنوي كل عن ابي سعيد الخدري

فرماتے۔ سبحانك اللهم وبحمدك... غيرك تک پڑھتے

قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا

(ترجمہ: اے اللہ تیری ذات پاک ہے ہم تیری پاک تعریف کے ساتھ

قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ كَبَّرَ ثُمَّ يَقُولُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ

بیان کرتے ہیں تیرا نام بابرکت ہے تیری شان بلند و برتر ہے اور

وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ

تیرے سوا کوئی معبود نہیں) پھر فرماتے اللہ اکبر کبیرا۔ (اللہ بہت

غَيْرُكَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ثُمَّ يَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ

بڑا اور بزرگی والا ہے) پھر فرماتے ”اعوذ باللہ السميع العليم

السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ حَمْزِهِ

من الشيطان الرجيم و نفخه و نفثه“ (یعنی میں شیطان مردود

وَنَفْثِهِ وَنَفْثِهِ

کے تکبر، وسوسے اور سحر سے، اللہ رب العزت کی پناہ مانگتا ہوں جو سننے

اور جاننے والا ہے۔

اس باب میں علی، عبد اللہ بن مسعود، جابر، عائشہ، جبیر بن مطعم اور حضرت ابن عمرؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث ابوسعید اس باب کی مشہور ترین حدیث ہے علماء کی ایک جماعت اسی حدیث پر عمل پیرا ہے جب کہ اکثر علماء کہتے ہیں نبی کریم ﷺ سے یہ دعا بھی منقول ہے ”سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك“ عمر بن خطاب اور ابن مسعود سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ اکثر تابعین اور ان کے علاوہ علماء کا یہی عمل ہے۔ حضرت ابوسعیدؓ کی حدیث کی سند پر کلام کیا گیا ہے۔ یحییٰ بن سعید علی بن علی پر کلام کرتے ہیں اور امام احمد کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں۔

۲۱۳۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ وَيَحْيَى بْنُ مُوسَى

۲۱۳۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نماز شروع

قَالَانَا أَبُو معاوية عن حارثة بن ابي الرجال عن عمرة

کرتے تو یہ پڑھتے: ”سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

وتعالى جدك ولا اله غيرك“

إِذَا فَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ ”سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ

وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ“

وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ“

امام ترمذی کہتے ہیں اس حدیث کو ہم اس کے علاوہ کسی سے نہیں جانتے۔ اور حارثہ کا حافظ قوی نہیں تھا۔ ابو الرجال کا نام محمد بن عبد الرحمن ہے۔

باب ۱۷۸۔ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الْجَهْرِ بِبِسْمِ اللَّهِ

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۲۱۴۔ حدثنا احمد بن منيع نا اسمعيل بن ابراهيم

نا سعيد الجريري عن قيس بن عباية عن ابن عبد الله

بن مغفل قال سمعتني ابي وانا في الصلوة اقول

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَقَالَ لِي اَيُّ نَبِيٍّ مُّحَدَّثٌ

إِيَّاكَ وَالْحَدِيثُ قَالَ وَلَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَبْغَضَ إِلَيْهِ

الْحَدِيثُ فِي الْإِسْلَامِ يَعْنِي مِنْهُ وَقَالَ قَدْ صَلَّيْتُ مَعَ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ

وَمَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقُولُهَا فَلَا تَقْلُهَا

إِذَا أَنْتَ صَلَّيْتُ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

امام ترمذی کہتے ہیں عبد اللہ بن مغفل کی حدیث حسن ہے اور اس پر اکثر علماء جیسے کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی وغیرہ اور تابعین کا عمل

ہے۔ یہی سفیان ثوری، ابن مبارک، احمد اور اسحاق کا قول ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بغیر آواز کے پڑھے زور سے نہ پڑھے۔

مسئلہ: امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی تسمیہ (بسم اللہ پڑھنا) مسنون ہے اور اسے ہر حال میں یعنی نماز سری ہو یا جہری آہستہ پڑھ

افضل ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۱۷۹۔ مَنْ رَأَى الْجَهْرَ بِبِسْمِ اللَّهِ

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۲۱۵۔ حدثنا احمد بن عبدة نا المعتمر بن

سليمان قال حدثني اسمعيل بن حماد عن ابي

خالد عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى

الله عليه وآله وسلم يفتتح صلواته بيسم الله

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

امام ترمذی کہتے ہیں اس حدیث کی سند قوی نہیں۔ بعض علماء صحابہ کا اسی حدیث پر عمل ہے۔ جن میں ابو ہریرہ، ابن عمر، ابن عباس

ابن زبیر شامل ہیں۔ صحابہ کے بعد تابعین میں سے بھی کچھ حضرات یہی کہتے ہیں کہ تسمیہ زور سے پڑھے۔ یہی شافعی، اسمعیل بن حماد بن

ابو سلیمان اور ابو خالد والہی کوئی (جن کا نام ہر مزہ) کا قول ہے۔

باب ۱۸۰۔ فِي افْتِتَاحِ الْقِرَاءَةِ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ

الْعَالَمِينَ

باب ۱۸۰۔ الحمد لله رب العالمين سے قرأت شروع کی جائے۔

۲۱۶۔ حدثنا قتيبة نا ابو عوانة عن قتادة عن انس قال كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يَفْتَبِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

۲۱۶۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہم قرأت ”الحمد لله رب العالمين“ سے شروع کرتے تھے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اسی پر صحابہ، تابعین اور ان کے بعد اہل علم حضرات کا عمل تھا۔ سب قرأت کو سورہ فاتحہ سے شروع کرتے۔ اس حدیث کے معنی یہ نہیں کہ وہ حضرات سورہ فاتحہ سے پہلے کچھ نہیں پڑھتے تھے بلکہ یہ ہے کہ وہ سورہ سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ ”بسم اللہ“ سے شروع کیا جائے اور جہری نمازوں میں بسم اللہ بھی زور سے پڑھی جائے۔ جب کہ سری نمازوں میں آہستہ پڑھی جائے۔

باب ۱۸۱۔ مَا جَاءَ أَنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

۲۱۷۔ حدثنا ابن ابی عمر وعلی بن حجر قالانا سفیان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصاميت عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَفْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

باب ۱۸۱۔ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی

۲۱۷۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اس کی نماز نہیں ہوئی۔

اس باب میں ابو ہریرہؓ، عائشہؓ، انسؓ، قتادہؓ اور عبد اللہ بن عمروؓ سے روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، عبادہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اور اسی پر اکثر علماء صحابہ جیسے کہ عمر بن خطابؓ، جابر بن عبد اللہ اور عمران بن حصینؓ وغیرہ عمل کرتے ہیں۔ یہ حضرات کہتے ہیں کوئی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر صحیح نہیں ابن مبارک، شافعی احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

باب ۱۸۲۔ مَا جَاءَ فِي التَّامِينَ

باب ۱۸۲۔ آمین کہنے سے متعلق۔

۲۱۸۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا (نماز میں) کہ آپ ﷺ نے ”غیر المغضوب علیہم ولا الضالین“ پڑھا اور فرمایا ”آمین“ اور یہ کہتے ہوئے آپ ﷺ نے آواز کو کھینچا۔

۲۱۷۔ حدثنا ابن ابی عمرو علی بن حجر قالانا سفینا عن سلمة بن كهيل عن حُجْرِ بْنِ عَنَسِ بْنِ عَنْبَسِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ وَقَالَ آمِينَ وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ

اس باب میں علیؓ اور ابو ہریرہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں وائل بن حجر کی حدیث حسن ہے، صحابہ، تابعین اور بعد کے اہل علم میں سے کئی حضرات کا یہ مسلک ہے کہ ”آمین“ کہتے ہوئے آواز کے ساتھ کہا جائے نہ کہ بغیر آواز کے۔ یہ امام شافعی، احمد اور اسحاق کا قول ہے۔ شعبہ، مسلم بن کہیل سے وہ حجر ابو العنابس سے وہ علقمہ بن وائل سے، اور وہ اپنے والد سے اس حدیث کو بھی نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ”غیر المغضوب علیہم ولا الضالین“ پڑھا اور آہستہ سے ”آمین“ کہا۔ امام ترمذی کہتے ہیں میں نے بخاری سے سنا کہ سفیان کی حدیث اس باب میں شعبہ کی حدیث سے صحیح ہے۔ شعبہ نے اس حدیث میں کئی جگہ خطا کی ہے۔ شعبہ نے کہا: حجر ابو العنابس سے روایت ہے جب کہ یہ حجر بن عنابس ہیں اور ان کی کنیت ابو سلکن ہے۔ دوسرے یہ کہ شعبہ نے اس میں علقمہ بن وائل کا ذکر زیادہ کیا

ہے۔ جب کہ اس میں علقمہ نہیں ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ حجر بن عنبس، وائل بن حجر سے روایت کرتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ انہوں نے کہا: آپ ﷺ نے آمین کہتے ہوئے آواز آہستہ کی جب کہ وہاں یہ ہے کہ آپ ﷺ نے آمین زور سے کہا۔ امام ترمذی کہتے ہیں میں نے اس حدیث کے متعلق ابو زرعہ سے دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ سفیان کی حدیث اصح ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں علاء بن صالح اسدی نے مسلم بن کہیل سے سفیان کی حدیث کے مثل روایت کی ہے۔ ہم سے ابو بکر محمد بن ابان نے انہوں نے عبد اللہ بن نمیر سے انہوں نے علاء بن صالح اسدی سے انہوں نے مسلم بن کہیل سے انہوں نے حجر بن عنبس سے انہوں نے وائل بن حجر سے اور انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے سفیان کی حدیث کی مانند حدیث نقل کی ہے جو سفیان بن کہیل سے بیان کرتے ہیں۔

مسئلہ: امام ابو حنیفہ اور ثوری ”آمین“ آہستہ کہنے کو افضل قرار دیتے ہیں۔ ان کا استدلال شعبہ کی مذکورہ حدیث سے ہے جس پر امام ترمذی نے اعتراضات کیے ہیں اور ضعیف قرار دیا ہے۔ ان کا پہلا اعتراض یہ ہے کہ شعبہ نے سلمہ بن کہیل کے استاذ کا نام حجر ابو العنبس ذکر کیا ہے جب کہ صحیح حجر بن عنبس ہے۔ دوسرا یہ کہ شعبہ نے حجر بن عنبس اور وائل بن حجر کے درمیان علقمہ کا واسطہ بڑھا دیا ہے۔ تیسرا یہ کہ انہوں نے حدیث کے متن میں ”مدبہا صوتہ“ کی جگہ ”خفص بھا صوتہ“ روایت کیا ہے۔

ان تمام اعتراضات کے جواب میں علامہ عینی نے ”عمدة القاری“ میں مفصل بحث کی ہے۔ پہلے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ حجر کے والد اور بیٹے دونوں کا نام عنبس تھا لہذا انہیں حجر بن عنبس یا حجر ابو عنبس دونوں ہی طریقوں سے پکارا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر بھی تہذیب تہذیب میں اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ دوسرے اعتراض کا جواب یہ ہے، کئی مرتبہ ایک روایت کو بلا واسطہ اور بالواسطہ سن کر دونوں طرح روایت کیا جاسکتا ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ چنانچہ حجر بن عنبس نے یہ روایت ایک مرتبہ براہ راست وائل بن حجر اور دوسری مرتبہ علقمہ بن وائل کے واسطے سے سنی۔ اس کی دلیل یہ ہے ابو داؤد طیالسی نے بھی اس روایت کی تخریج کی ہے۔ امام ترمذی کے تیسرے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ شعبہ کو محمد شین نے امیر المؤمنین فی الحدیث قرار دیا ہے لہذا ان کی امامت و ثقاہت مسلم ہے۔ ان پر یہ بدگمانی قطعاً بلا دلیل ہے۔ کہ انہوں نے ”مدبہا صوتہ“ کی جگہ ”خفص“ نقل کر دیا ہو۔ مذکورہ بحث سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ شعبہ کی حدیث صحیح اور قابل استدلال ہی نہیں بلکہ راجح ہے۔ اس کی چند وجوہ ہیں۔

(۱) سفیان ثوری اگرچہ زور سے آمین کہنے کی حدیث کے راوی ہیں لیکن ان کا مسلک شعبہ کی روایت کے مطابق ہے۔

(۲) شعبہ کی روایت پر عمل کرنے سے سفیان کی روایت کو بالکل ترک کرنا لازم نہیں آتا مثلاً یہ کہ ”مد“ سے مراد الف اور ”می“ کو بچنا ہے جب کہ سفیان کی روایت پر عمل کرنے سے شعبہ کی روایت کو مطلقاً ترک کرنا پڑتا ہے۔

(۳) اگر بالفرض آنحضرت ﷺ سے زور سے آمین کہنا ثابت ہو تو یہ بھی ممکن ہے کہ لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے ایسا کیا ہو۔ اس وقت کے بعد یہ جانتا بھی ضروری ہے کہ اس مسئلہ میں اختلاف صرف افضلیت کا ہے۔ ورنہ دونوں طریقوں کے جواز پر فریقین کا اتفاق ہے لہذا اس کو وجہ نزاع بنانا کسی طرح درست نہیں۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۱۸۳۔ آمین کی فضیلت

باب ۱۸۳۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ التَّامِينَ

۲۱۹۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب امام (سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد) آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ کیوں کہ فرشتے بھی اس وقت آمین کہتے ہیں اور جس شخص کی آمین

۲۱۹۔ حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء نازيد بن سباب قال حدثني مالك بن انس نا الزهري عن سعيد بن المسيب وَاَبِي سَلْمَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ

فرشتوں کے آمین سے مل جاتی ہے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا آمَنَ الْإِمَامُ فَأَمِنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

امام ترمذی کہتے ہیں ابو ہریرہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۸۴۔ مَا جَاءَ فِي السُّكُوتَيْنِ

باب ۱۸۴۔ نماز میں دو مرتبہ خاموشی اختیار کرنا

۲۲۰۔ حضرت سعید، قتادہ سے اور قتادہ سن سے نقل کرتے ہیں کہ سمرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ سے دو سکتے (۱) یاد کیے ہیں۔ اس پر عمران بن حصین رضی اللہ عنہ نے اعتراض کیا اور کہا کہ ہمیں تو ایک ہی سکتہ یاد ہے۔ چنانچہ ہم نے ابی بن کعب کو مدینہ لکھا تو انہوں نے جواب دیا کہ سمرہ کو صحیح یاد ہے۔ سعید کہتے ہیں ہم نے قتادہ سے کہا وہ سکتے کیا ہیں؟ فرمایا: جب نماز شروع کرتے (تکبیر اولیٰ کے بعد) اور جب قرأت سے فارغ ہوتے۔ پھر بعد میں فرمایا: جب ”ولا الضالین“ پڑھتے۔ راوی کہتے ہیں انہیں ہی قرأت سے فارغ ہونے سے فارغ ہونے کے بعد والا سکتہ بہت پسند آتا تھا یہاں تک کہ سانس ٹھہر جائے۔

۲۲۰۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَاعَبُدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ سَكُوتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ حَفِظْنَا سَكُوتَةَ فَكَتَبْنَا إِلَى أَبِي بِنِ كَعْبٍ بِالْمَدِينَةِ فَكَتَبَ أَبِي أَنْ حَفِظَ سَمُرَةَ قَالَ سَعِيدٌ فَقُلْنَا لِقَتَادَةَ مَا هَاتَانِ السُّكُوتَانِ قَالَ إِذَا دَخَلَ فِي صَلَوَتِهِ وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِذَا قَرَأَ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ وَكَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ أَنْ يَسْكُتَ حَتَّى يَتَرَادَّ إِلَيْهِ نَفْسُهُ

اس باب میں ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث سمرہ حسن ہے۔ اور یہ کئی علماء کا قول ہے کہ نماز شروع کرنے کے بعد تھوڑی دیر خاموش رہنا اور قرأت سے فارغ ہونے کے بعد تھوڑی دیر سکوت کرنا مستحب ہے۔ یہ احمد، اسحاق اور ہمارے اصحاب کا قول ہے۔

باب ۱۸۵۔ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا جائے۔

باب ۱۸۵۔ مَا جَاءَ فِي وَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ

۲۲۱۔ قبصہ بن ہلب اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ ہماری امامت کرتے اور اپنا بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ سے پکڑتے تھے۔

۲۲۱۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا أَبُو الْاِحْوَصِ عَنْ سَمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ هَلْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ

اس باب میں وائل بن حجر، عطف بن حارث، ابن عباس، ابن مسعود اور سہل بن سہل سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ ہلب کی حدیث حسن ہے اسی پر صحابہ تابعین اور ان کے بعد کے اہل علم کا عمل ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا جائے۔ بعض کا کہنا ہے کہ ہاتھوں کو ناف کے اوپر باندھے اور بعض کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے باندھے یہ سب ان حضرات کے نزدیک جائز ہے۔ ہلب کا نام یزید بن قنافة طائی ہے۔

(۱) سکتہ سے مراد خاموش رہنا ہے۔ (مترجم)

باب ۱۸۶۔ رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے تکبیر کہنا

باب ۱۸۶۔ مَا جَاءَ فِي التَّكْبِيرِ عِنْدَ الرَّكُوعِ وَالسُّجُودِ

۲۲۲۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ أَبِي عَمْرٍو عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنْ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَلْقَمَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ

قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي

كُلِّ خَفْضٍ وَرَفَعٍ وَقُعُودٍ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ

۲۲۲۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول

ﷺ (نماز کے دوران) جب بھی جھکتے یا اٹھتے، کھڑے ہوتے یا بیٹھتے

تکبیر کہتے، ابو بکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے

اس باب میں ابو ہریرہ، انس، ابن عمر، ابو مالک اشعری، ابو موسیٰ، عمران بن حصین، وائل بن حجر اور ابن عباس سے بھی روایت ہے

امام ترمذی کہتے ہیں حدیث عبداللہ بن مسعود حسن صحیح ہے۔ اس پر صحابہ کا عمل ہے جیسے کہ ابو بکر، عمر، عثمان اور حضرت علی وغیرہ۔ تابعین

عام فقہاء اور علماء کا بھی یہی قول ہے۔

اس باب میں ابو ہریرہ، انس، ابن عمر، ابو مالک اشعری، ابو موسیٰ، عمران بن حصین، وائل بن حجر اور ابن عباس سے بھی روایت ہے

امام ترمذی کہتے ہیں حدیث عبداللہ بن مسعود حسن صحیح ہے۔ اس پر صحابہ کا عمل ہے جیسے کہ ابو بکر، عمر، عثمان اور حضرت علی وغیرہ۔ تابعین

عام فقہاء اور علماء کا بھی یہی قول ہے۔

۲۲۳۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَنِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ

الْحُسَيْنِ قَالَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي جَرِيحٍ عَنْ

الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ وَهُوَ يَهْوِي

۲۲۳۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ

وقت تکبیر کہتے تھے۔

وقت تکبیر کہتے تھے۔

وقت تکبیر کہتے تھے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، یہی صحابہ، تابعین اور بعد کے علماء کا قول ہے کہ رکوع اور سجدے میں جاتے ہوئے تکبیر کہتے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، یہی صحابہ، تابعین اور بعد کے علماء کا قول ہے کہ رکوع اور سجدے میں جاتے ہوئے تکبیر کہتے۔

باب ۱۸۷۔ رکوع کرتے وقت دونوں ہاتھ اٹھانا

باب ۱۸۷۔ رَفَعَ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرَّكُوعِ

۲۲۴۔ حضرت سالم اپنے والد ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں

کہ جب آنحضرت ﷺ نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کندھوں

پر ابر اٹھاتے پھر رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے

اسی طرح کرتے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی حدیث میں ”وَكَمَا

لَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ“ کے الفاظ زیادہ نقل کیے ہیں۔ (ترجمہ:)

آپ ﷺ دونوں سجدوں کے درمیان ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے)۔

۲۲۴۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا ثنا سَفِيانُ

بْنُ عَيْسَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ

الصَّلَاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ

وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ وَزَادَ ابْنُ أَبِي عَمْرٍو فِي

حَدِيثِهِ وَكَانَ لَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

امام ترمذی کہتے ہیں فضل بن صباح بغدادی، سفیان بن عیینہ سے اور وہ زہری سے اسی سند سے حضرت ابن عمر کی حدیث کے

روایت کرتے ہیں۔ اس باب میں عمر، علی، وائل بن حجر، مالک بن حورث، انس، ابو حمید، ابو اسید، سہل بن سعد، محمد بن مسلم، ابو قتاد،

ابو موسیٰ، جابر، اور عمر لیشی سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث ابن عمر حسن صحیح ہے۔ علماء صحابہ جیسے کہ ابن عمر، جابر،

عبداللہ، ابو ہریرہ، انس، ابن عباس، عبداللہ بن زبیر وغیرہ اور تابعین میں سے حسن بصری، عطاء طاووس، مجاہد، نافع، سالم بن عبداللہ،

سعید بن جبیر وغیرہ اور آئمہ میں سے عبداللہ بن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق کا یہی قول ہے (یعنی رفع یدین کا) عبداللہ بن مبارک کا

ہیں جو شخص ہاتھ اٹھاتا ہے اس کی حدیث ثابت ہے۔ زہری کی سالم سے بحوالہ ان کے والد مروی حدیث ذکر کرتے ہیں۔ ابن مسعود کی

حدیث ثابت نہیں ہے کہ ”آنحضرت ﷺ ہاتھ پہلی بار ہی اٹھاتے تھے“، یعنی تکبیر اولیٰ کے وقت۔ احمد بن عبدہ اطمی نے وہب بن زعمہ

انہوں نے سفیان بن عبد الملک سے اور انہوں نے عبداللہ بن مبارک سے یہ بات روایت کی ہے۔

امام ترمذی کہتے ہیں فضل بن صباح بغدادی، سفیان بن عیینہ سے اور وہ زہری سے اسی سند سے حضرت ابن عمر کی حدیث کے

روایت کرتے ہیں۔ اس باب میں عمر، علی، وائل بن حجر، مالک بن حورث، انس، ابو حمید، ابو اسید، سہل بن سعد، محمد بن مسلم، ابو قتاد،

ابو موسیٰ، جابر، اور عمر لیشی سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث ابن عمر حسن صحیح ہے۔ علماء صحابہ جیسے کہ ابن عمر، جابر،

عبداللہ، ابو ہریرہ، انس، ابن عباس، عبداللہ بن زبیر وغیرہ اور تابعین میں سے حسن بصری، عطاء طاووس، مجاہد، نافع، سالم بن عبداللہ،

سعید بن جبیر وغیرہ اور آئمہ میں سے عبداللہ بن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق کا یہی قول ہے (یعنی رفع یدین کا) عبداللہ بن مبارک کا

ہیں جو شخص ہاتھ اٹھاتا ہے اس کی حدیث ثابت ہے۔ زہری کی سالم سے بحوالہ ان کے والد مروی حدیث ذکر کرتے ہیں۔ ابن مسعود کی

حدیث ثابت نہیں ہے کہ ”آنحضرت ﷺ ہاتھ پہلی بار ہی اٹھاتے تھے“، یعنی تکبیر اولیٰ کے وقت۔ احمد بن عبدہ اطمی نے وہب بن زعمہ

انہوں نے سفیان بن عبد الملک سے اور انہوں نے عبداللہ بن مبارک سے یہ بات روایت کی ہے۔

۲۲۔ حدثنا هنادنا و كيع عن سفيان عن عاصم بن نليب عن عبدالرحمن بن الأسود عن علقمة قال قال بُدِّلَهُ بن مسعود ألا أصلي بكم صلوٰة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ

۲۲۵۔ حضرت علقمہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں تمہارے ساتھ آنحضرت ﷺ کی نماز ادا کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے نماز پڑھی اور تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین نہیں کیا۔ (۱)

اس باب میں براء بن عازب سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث ابن مسعود حسن ہے صحابہ تابعین میں سے اہل علم کا یہی قول ہے سفيان اور اہل کوفہ بھی اسی کے قائل ہیں۔

مسئلہ: امام ابوحنیفہ رفع یدین نہ کرنے کے مسلک کو ترجیح دیتے ہیں اور اسی پر ان کا عمل ہے واضح رہے کہ ائمہ کے درمیان یہ اختلاف صرف افضلیت کا ہے نہ کہ جواز و عدم جواز کا۔ اور دونوں طریقے فریقین کے نزدیک بغیر کسی کراہت کے جائز ہیں۔ جہاں تک روایات کا تعلق ہے تو درحقیقت آنحضرت ﷺ سے دونوں قسم کی روایات ثابت ہیں۔ حنفیہ اس کا انکار نہیں کرتے ہاں جو حضرات رفع یدین کے احادیث سے ثابت ہونے کا انکار کرتے ہیں ان کی تردید ضرور کرتے ہیں۔ یہ بھی مسلم ہے کہ اسناد کے لحاظ سے رفع یدین کے اثبات میں مذکورہ روایات کی تعداد زیادہ ہے جب کہ اس کے ترک کی تصریح کرنے والی روایات تعداد میں کم ہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ احتیاط کے مسلک پر وہ احادیث بھی دلالت کرتی ہیں جو رسول اللہ ﷺ کی نماز کو بیان کرتی ہیں اس لیے کہ اگر رفع یدین متواتر ہوا ہوتا تو ضرور اس کا ذکر ان روایات میں آتا۔ یہاں ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ رفع یدین نہ کرنا بھی احادیث سے ثابت اور یہی طریقہ راجح اور افضل ہے نہ کہ رفع یدین کے متعلق احادیث پر جرح کرنا۔ امام بخاری نے جزء رفع یدین میں یہ دعویٰ کیا ہے ترک رفع پر کوئی حدیث سنداً ثابت نہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں امام بخاری سے تسامح ہوا ہے چنانچہ بہت سے محدثین نے ان کی تردید کی ہے۔ اس لیے کہ ترک رفع یدین پر بہت سی صحیح روایات مذکور ہیں جن میں سے چند یہاں ذکر کی جاتی ہیں۔

(۱) حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنے دوستوں سے فرمایا کہ ”میں تمہارے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی نماز پڑھتا ہوں۔ پھر انہوں نے نماز پڑھی اور تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین نہیں کیا“ امام ترمذی نے ابن مبارک کا قول نقل کیا ہے کہ ابن مسعود کی عدم رفع والی حدیث ثابت نہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود سے عدم رفع کے متعلق دو احادیث مروی ہیں ایک جو اوپر گزری اور دوسری جس میں ابن مسعود نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے پہلی مرتبہ کے بعد ہاتھ نہیں اٹھائے (یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد) حضرت عبداللہ بن مبارک کا یہ قول دوسری روایت کے متعلق ہے۔ اس لیے کہ سنن نسائی میں یہی حدیث خود حضرت عبداللہ بن مبارک سے منقول ہے۔ لہذا ان کے قول کو پہلی روایت پر بھی محمول کرنا صحیح نہیں۔ پھر امام ترمذی نے خود بھی حضرت عبداللہ بن مسعود سے یہی حدیث مستقل سند کے ساتھ نقل کی ہے (یعنی حدیث ۲۲۵) جس کو وہ حسن کہتے ہیں۔ یعنی یہ امام ترمذی کے نزدیک بھی قابل استدلال ہے۔ لہذا یہ ثابت ہو گیا کہ عبداللہ بن مبارک کا مذکورہ بالا قول اس روایت کے متعلق نہیں۔ اس حدیث کو بہت سے محدثین نے صحیح یا حسن قرار دیا ہے جن میں امام ترمذی، ابن عبدالبر، ابن حزم اور حافظ ابن حجر وغیرہ بھی شامل ہیں۔ اس وجہ سے اس کے قابل استدلال ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ (ب) حنفیہ کی دوسری دلیل حضرت براء بن عازب کی حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب نماز پڑھتے تو ہاتھوں کو کانوں کے قریب تک اٹھاتے اور اس کے بعد دوبارہ ایسا نہ کرتے یعنی دوبارہ ہاتھ نہ اٹھاتے۔ (ج) حضرت ابن عباس سے منقول حدیث جسے طبرانی نے مرفوع اور ابن ابی شیبہ نے موقوف روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہاتھ سات جگہوں پر اٹھائے جاتے ہیں۔ اس حدیث میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ کسی اور موقع پر رفع یدین کا ذکر نہیں۔ (د) حضرت عباد بن زبیر کی روایت حافظ ابن حجر نے الدرر البیہ فی تخریج احادیث الہدایہ میں مرفوع نقل کی ہے۔ کہ ”رسول اللہ ﷺ جب نماز شروع کرتے تو نماز کی ابتداء میں ہاتھ اٹھاتے اور پھر فارغ ہونے تک دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھاتے“۔

(۱) رفع یدین کے معنی ہاتھ اٹھانا ہے۔ (مترجم)

(ر) ان مرفوع احادیث کے علاوہ حنفیہ کے مسلک کی تائید میں بے شمار آثار صحابہ و تابعین ملتے ہیں جن میں سے ایک حضرت ابن عمرؓ کے بارے میں ہے کہ مجاہد کہتے ہیں میں نے ابن عمرؓ کے پیچھے نماز پڑھی انہوں نے تکبیر تحریمہ کے علاوہ اپنے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ رفع یدین کی فضیلت کے قائل حضرات کی سب سے اہم دلیل حضرت ابن عمرؓ ہی سے منقول ہے۔ چنانچہ اصول حدیث کا قاعدہ ہے کہ راوی کا عمل اگر اس کی اپنی روایت کردہ حدیث کے خلاف ہو تو روایت پر عمل نہیں کیا جاتا۔

اس مختصر بحث کے بعد رفع یدین کے نہ کرنے کی روایات کو ترجیح دینے کی چند وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔

(۱) حضرت ابن مسعودؓ کی روایت میں کوئی اضطراب نہیں اور نہ ہی ان کا عمل اس کے خلاف منقول ہے جب کہ حضرت ابن عمرؓ کی روایتوں میں اختلاف بھی ہے اور خود ان کا عمل بھی اس کے خلاف ہے۔

(۲) احادیث کے تقاضے کے وقت صحابہ کرام کے تعامل کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ جب ہم اس پہلو سے دیکھتے ہیں تو کئی کبار صحابہ کا تعامل عدم رفع کا پاتے ہیں جب کہ رفع کے اثبات میں منقول روایات زیادہ تر کمسن صحابہ سے مروی ہیں۔

(۳) اہل مدینہ اور اہل کوفہ کا تعامل ترک رفع کا رہا ہے جب کہ دوسرے شہروں میں دونوں ہی موجود رہے ہیں۔

(۴) حضرت ابن مسعودؓ کی روایت کے تمام راوی فقیہ ہیں اور خود ابن مسعودؓ رفع یدین کے تمام راویوں سے بھی افقہ ہیں اور حدیث جو مسلسل فقہاء سے مروی، دوسری احادیث کے مقابلے میں راجح ہوتی ہے۔

ان دلائل سے عدم رفع یدین کی فضیلت واضح ہو جاتی ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۱۸۸۔ مَا جَاءَ فِي وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَيْنِ فِي الرُّكُوعِ

باب ۱۸۸۔ رُكُوعٌ فِي دُونِ هَاتِهِمَا كُفُّونَ بِرُكْحَانِ

۲۲۶۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا أَبُو بَكْرٍ بِنَ عِيَاشَ نَا أَبُو حُصَيْنٍ عَنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ قَالَ لَنَا عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ الرُّكْبَ سُنَّةٌ فَخُذُوا بِالرُّكْبِ

۲۲۔ حضرت ابو عبد الرحمن سلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: گھٹنوں کو پکڑنا تمہارے لئے سنت ہے۔ لہذا (رُكُوعٌ فِي دُونِ هَاتِهِمَا كُفُّونَ بِرُكْحَانِ)

اس باب میں سعدؓ، انسؓ، ابو حمیدؓ، ابواسیدؓ، سہل بن سعدؓ، محمد بن مسلمہؓ اور ابن مسعودؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت عمرؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اسی پر صحابہ، تابعین اور بعد کے اہل علم کا عمل ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں، صرف حضرت ابن مسعودؓ اور ان کے بعض دوستوں سے مروی ہے۔ کہ یہ حضرات تطبیق کرتے تھے (۱)۔ تطبیق اہل علم کے نزدیک منسوخ ہو چکی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ فرماتے ہیں ہم تطبیق کیا کرتے تھے پھر اس سے منع کر دیا گیا اور یہ حکم دیا گیا کہ ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھیں۔

باب ۱۸۹۔ مَا جَاءَ أَنَّهُ يُحَافِي يَدَيْهِ عَنَ جَنْبَيْهِ فِي الرُّكُوعِ

باب ۱۸۹۔ رُكُوعٌ فِي دُونِ هَاتِهِمَا كُفُّونَ بِرُكْحَانِ

۲۲۷۔ حَدَّثَنَا بَنْدَارٌ نَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ نَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ قَالَ اجْتَمَعَ أَبُو حُمَيْدٍ وَأَبُو أُسَيْدٍ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَذَكَرُوا صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

۲۲۷۔ حضرت عباس بن سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابوسعید رضی اللہ عنہ، ابواسید رضی اللہ عنہ، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے جمع ہو کر رسول اللہ ﷺ کی نماز کا تذکرہ شروع کیا۔ ابوسعید نے کہا میں آپ ﷺ کی نماز کے متعلق تم سب سے زیادہ جانتا ہوں بے شک رسول اللہ ﷺ نے رُكُوعٌ فِي دُونِ هَاتِهِمَا كُفُّونَ بِرُكْحَانِ میں اپنے ہاتھوں کو اس طرح گھٹنوں پر رکھا، جیسے کہ انہیں پکڑے ہوں اور انہیں کمان کی تانت کی طرح

(۱) تطبیق: دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر اتجاہ کرنے والے کی کیفیت کو کہتے ہیں۔ واللہ اعلم (مترجم)

وَالِهٖ وَسَلَّم رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَأَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا وَوَتَّرَ يَدَيْهِ فَفَنَحَّاهُمَا عَنْ جَنْبَيْهِ

کس کر رکھتے اور پسلیوں سے علیحدہ رکھتے۔

اس باب میں حضرت انسؓ سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں کہ حدیث انس حسن صحیح ہے اور اس پر اہل علم کا عمل ہے کہ رکوع وجود میں ہاتھوں کو پسلیوں سے علیحدہ رکھا جائے۔

باب ۱۹۰۔ مَا جَاءَ فِي التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

۲۲۸۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ أَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ابْنِ أَبِي ذُئْبٍ عَنْ اسْحَقَ بْنِ يَزِيدَ الْهَدَلِيِّ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْمَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ وَإِذَا سَجَدَ فَقَالَ فِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ

باب ۱۹۰۔ رکوع اور سجود میں تسبیح سے متعلق۔

۲۲۸۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا: اگر تم میں سے کوئی رکوع کرے تو تین مرتبہ ”سبحان ربی العظیم“ پڑھے۔ (اگر پڑھ لیا) تو اس کا رکوع پورا ہو گیا اور یہ اس کی کم سے کم مقدار ہے۔ اور جب سجدہ کرے تو تین مرتبہ ”سبحان ربی الاعلیٰ“ کہے۔ اس پر اس کا سجدہ مکمل ہو گیا اور یہ اس کی کم سے کم تعداد ہے۔

اس باب میں حذیفہ اور عقبہ بن عامرؓ سے روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں ابن مسعود کی حدیث کی سند متصل نہیں اس لیے کہ عوف بن عبد اللہ بن عقبہ کی حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے ملاقات ثابت نہیں اس پر اہل علم کا عمل ہے کہ رکوع اور سجدہ میں کم از کم تین تسبیحات پڑھنا مستحب ہے۔ ابن مبارک سے مروی ہے کہ امام کے لیے کم از کم پانچ مرتبہ تسبیحات پڑھنا مستحب ہے۔ تاکہ نمازی تین تسبیحات پڑھ سکیں اسحق بن ابراہیم بھی اسی کے قائل ہیں۔

۲۲۹۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ ابُو دَاوُدَ قَالَ

۲۲۹۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی آپ ﷺ رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجود میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتے۔ اور جب کسی رحمت کی آیت پر پہنچتے تو اللہ تعالیٰ سے (رحمت) طلب کرتے اور جب کسی عذاب کی آیت پر پہنچتے تو توقف کرتے اور اس عذاب سے پناہ مانگتے۔

۲۲۹۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ ابُو دَاوُدَ قَالَ

انبأنا شعبة عن الاعمش قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن المستورد عن صلة بن زفر عن حذيفة انه صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الاعلى وما آتى على آية رحمة الا وقف وسأل وما آتى على آية عذاب الا وقف وتعوذ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے محمد بن بشار نے عبد الرحمن بن مہدی سے اور انہوں نے شعبہ سے اس کے مثل حدیث نقل کی ہے۔

باب ۱۹۱۔ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي

باب ۱۹۱۔ رکوع اور سجدہ میں قرآن پڑھنا منع ہے۔

الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

۲۳۰۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ریشمی کپڑا پہننے، عصف (۱) کے رنگے ہوئے کپڑے پہننے، سونے کی انگوٹھی (مرد کے لئے) پہننے اور رکوع میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا۔

۲۳۰۔ حدثنا اسحق بن موسى الانصاري نا معن نا مالك ح وثنا قتيبة عن مالك نافع عن ابراهيم بن عبدالله بن حنين عن ابيه عن علي بن ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبس القسي والمعصر وعن تحتم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع

۱ اس باب میں ابن عباس سے بھی روایت ہے امام ترمذی حضرت علیؓ کی حدیث کو حسن کہتے ہیں۔ علماء صحابہ اور تابعین وغیرہ رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے کو مکروہ سمجھتے تھے۔

باب ۱۹۲۔ جو شخص رکوع اور سجدے میں اپنی کمر سیدھی نہ کرے۔

باب ۱۹۲۔ مَا جَاءَ فَيَمْنُ لَا يُقِيمُ صَلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

۲۳۱۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص رکوع اور سجدے میں کمر کو سیدھا نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی (یہ اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز کے ارکان ادا کرنے سے کنایہ ہے) (۲)۔ (مترجم)

۲۳۱۔ حدثنا احمد بن منيع نا ابو معاوية عن الاعمش عن عمارة بن عمير عن ابي معمر عن ابي مسعود بن الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تجزئ صلوة لا يقيم الرجل فيها يعنى صلته في الركوع وفي السجود

اس باب میں علی بن شیمان، انس، ابو ہریرہ اور رفاعہ زرقی سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث ابو مسعود حسن صحیح ہے اور اس پر صحابہ اور بعد کے اہل علم کا عمل ہے کہ انسان رکوع اور سجدے میں اپنی کمر کو سیدھا رکھے۔ شافعی، احمد اور اسحاق کہتے ہیں کہ جو شخص رکوع اور سجدے میں اپنی کمر سیدھی نہیں کرتا اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ جس کی دلیل آنحضرت ﷺ کا یہ قول ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جو شخص نماز میں رکوع اور سجدے کے دوران کمر سیدھی نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ابو معمر کا نام عبداللہ بن سخرہ ہے۔ اور ابو مسعود انصاری بدری کا نام عقبہ بن عمرو ہے۔

باب ۱۹۳۔ جب رکوع سے سر اٹھائے تو کیا پڑھے؟

باب ۱۹۳۔ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ الرُّكُوعِ

۲۳۲۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ رکوع سے اٹھتے ہوئے فرماتے ”سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولك الحمد ملا السماوات والارض وملأما بينهما وملأماشت من شيء بعد“ (ترجمہ: اللہ نے اس کی سن کی جس نے اس کی تعریف بیان کی اے اللہ اس زمین وآسمان اور جو کچھ ان

۲۳۲۔ حدثنا محمود بن غيلان نا ابوداؤد الطيالسي نا عبدالعزيز بن عبدالله بن ابي سلمة الماجشون نا عمى عبدالرحمن الاعرج عن عبيدالله بن ابي رافع عن علي بن ابي طالب قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله

(۱) عصف: نباتات کی ایک قسم ہے جو عرب میں معروف ہے اور محضر اس کپڑے کو کہتے ہیں جسے اس سے رنگ دیا گیا ہو۔ اس کا رنگ زرد ہوتا ہے۔ (مترجم)

(۲) اس کا مقصد یہ ہے کہ نماز کا ہر رکن اتنے اطمینان اور سکون سے ادا کیا جائے کہ تمام اعضاء اپنے اپنے مقام پر استقرار پکڑ جائیں۔ (مترجم)

وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ مِثْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِثْلَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِثْلَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

دونوں کے درمیان ہے۔ اور اس کے بعد جس قدر تو چاہے، تعریفیں تیرے ہی لئے ہیں۔

اس باب میں ابن عمر، ابن عباس، ابن ابی اوفی، حقیقہ اور ابوسعید سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت علی کی حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض علماء کا اسی پر عمل ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ فرض اور نفل تمام نمازوں میں اس دعا کو پڑھے جب کہ اہل کوفہ صرف نوافل میں پڑھنے کے قائل ہیں۔

باب ۱۹۴۔ اسی سے متعلق۔

باب ۱۹۴۔ مِنْهُ آخِرُ

۲۳۳۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب امام "سمع اللہ لمن حمدہ" کہے تو کہو "ربنا ولك الحمد"، جس کا قول ملائکہ کے قول کے موافق ہو گیا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیئے گئے۔

۲۳۳۔ حَدَّثَنَا الْإِنصَارِيُّ نَا مَعْنَا مَالِكُ عَنْ سَمِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلَهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ صحابہ اور تابعین وغیرہ میں سے بعض اہل علم کا اس پر عمل ہے کہ امام "سمع اللہ لمن حمدہ" کہے تو مقتدی "ربنا ولك الحمد" کہیں۔ احمد کا بھی یہی قول ہے۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ مقتدی بھی امام کی طرح ہی کہے۔ "سمع اللہ لمن حمدہ" ربنا ولك الحمد" یہ شافعی اور اسحاق کا بھی قول ہے۔

باب ۱۹۵۔ سجدے میں گھٹنے ہاتھوں سے پہلے رکھے جائیں۔

باب ۱۹۵۔ مَا جَاءَ فِي وَضْعِ الرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ فِي السُّجُودِ

۲۳۴۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو (نماز پڑھتے ہوئے) دیکھا آپ ﷺ سجدے میں جاتے ہوئے گھٹنے ہاتھوں سے پہلے (زمین پر) رکھتے اور اٹھتے ہوئے ہاتھ گھٹنوں سے پہلے اٹھاتے۔

۲۳۴۔ حَدَّثَنَا سَلْمَةُ بْنُ شَيْبٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَنِيرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلْوَانِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ نَا شَرِيكُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ

حسن بن علی نے اپنی حدیث میں کہا کہ یزید بن ہارون کہتے ہیں کہ شریک نے عاصم بن کلیب سے اس کے علاوہ کوئی حدیث روایت نہیں کی۔ یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے شریک کے علاوہ کسی سند سے نہیں جانتے۔ اکثر علماء کا عمل اسی پر ہے کہ گھٹنوں کو

ہاتھوں سے پہلے رکھا جائے اور جب (سجدے سے) اٹھے تو ہاتھ گھٹنوں سے پہلے اٹھائے۔ ہمام نے اس حدیث کو عاصم سے مرسل روایت کیا ہے اور اس میں وائل بن حجر کا ذکر نہیں کیا۔

باب ۱۹۶۔ اِحْرَمْنَه

باب ۱۹۶۔ اسی سے متعلق۔

۲۳۵۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ نَافِعٍ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ ابِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَبْرِكُ فِي صَلَوَتِهِ بَرَكُ الْحَمَلِ

۲۳۵۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ نماز کے دوران اونٹ کی طرح بیٹھے۔ (ہاتھ پہلے رکھنے کو اونٹ کے بیٹھنے سے مشابہت دی ہے اس لئے کہ اونٹ بھی پہلے آگے سے جھلکتا ہے (مترجم)۔

امام ترمذی کہتے ہیں ابو ہریرہ کی حدیث غریب ہے اسے ہم ابو زناد کی سند کے علاوہ نہیں جانتے۔ یہ حدیث عبداللہ بن سعید مقبری سے بھی روایت ہے وہ اپنے والد سے، وہ ابو ہریرہ اور وہ حضور اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ عبداللہ بن سعید مقبری کو یحییٰ بن سعید قطان وغیرہ ضعیف کہتے ہیں۔

باب ۱۹۷۔ مَا جَاءَ فِي السُّجُودِ عَلَى الْجِهَةِ وَالْأَنْفِ

باب ۱۹۷۔ سجدہ، پیشانی اور ناک پر کیا جاتا ہے۔

۲۳۶۔ حَدَّثَنَا بِنْدَارٌ نَا أَبُو عَامِرٍ نَا فُلَيْحِ بْنِ سَلِيمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ نَا السَّاعِدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ أَمَكَّنَ أَنْفَهُ وَجِهَتَهُ الْأَرْضَ وَنَحَا يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَوَضَعَ كَفَيْهِ حَذْوِ مَنْكِبَيْهِ

۲۳۶۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب سجدہ کرتے تو ناک اور پیشانی کو زمین پر جما کر رکھتے۔ بازوؤں کو پسلیوں سے علیحدہ اور ہاتھوں کو کندھوں کے برابر رکھتے تھے۔

اس باب میں ابن عباس، وائل بن حجر اور ابو سعید سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث ابو حمید حسن صحیح ہے اور اسی پر اہل علم کا عمل ہے کہ سجدہ، ناک اور پیشانی پر کیا جائے۔ اگر کوئی صرف پیشانی پر کرے یعنی ناک کو زمین پر نہ رکھے تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے اور بعض دوسرے حضرات کا کہنا ہے کہ ناک زمین پر رکھنا بھی ضروری ہے۔ اور صرف پیشانی پر سجدہ کرنا کافی نہیں۔

باب ۱۹۸۔ مَا جَاءَ آيِنَ يَضَعُ الرَّجُلُ وَجْهَهُ إِذَا سَجَدَ

۲۳۷۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ قُلْتُ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ آيِنَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ وَجْهَهُ إِذَا سَجَدَ فَقَالَ بَيْنَ كَفَيْهِ

۲۳۷۔ ابو اسحاق کہتے ہیں میں نے براء بن عازب سے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ جب سجدہ کرتے تو چہرہ کہاں رکھتے تھے؟ فرمایا: دونوں ہتھیلیوں کے درمیان۔

اس باب میں وائل بن حجر اور ابو حمید سے بھی روایت ہے۔ براء کی حدیث حسن غریب ہے اور اس کو بعض علماء نے اختیار کیا ہے کہ ہاتھ کانوں کے قریب رہیں۔

باب ۱۹۹۔ مَا جَاءَ فِي السُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ
۲۳۸۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا بَكْرُ بْنُ مِصْرٍ عَنِ ابْنِ
الْهَادِي عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ
بْنِ أَبِي وَقَاصٍ الْعَبَّاسِيِّ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا
سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةَ أَرْبَابٍ وَجْهَهُ وَكَفَاهُ
وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ

باب ۱۹۹۔ سجدہ سات اعضا پر ہوتا ہے۔

۲۳۸۔ حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو اس کے سات اعضا بھی سجدہ کرتے ہیں۔ چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں۔

اس باب میں ابن عباس، ابو ہریرہ، جابر اور ابوسعید سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی حدیث عباس کو حسن صحیح کہتے ہیں۔ اہل کوفہ کا اسی پر عمل ہے۔

۲۳۹۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ عَمْرِو
بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَائُوسِ بْنِ أَبِي عَبَّاسٍ قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ
أَعْضَاءٍ وَلَا يَكْفُ شَعْرَهُ وَلَا يَبَايَهُ

۲۳۹۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو سات اعضا پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اور یہ کہ آپ ﷺ کو (سجدے میں) بال اور کپڑے سنبھالنے سے منع کیا گیا۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۲۰۰۔ مَا جَاءَ فِي التَّحَاظُّفِي فِي السُّجُودِ

باب ۲۰۰۔ سجدے میں اعضا کو الگ الگ رکھنا۔

۲۴۰۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيْبٍ نَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِيُّ عَنِ
دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَقْرَمَ
الْحَزْرَاعِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي بِالْقَاعِ مِنْ نَمْرَةَ
فَمَرَّتْ رَكْبَةٌ فَأَدَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
وَسَلَّمَ قَائِمٌ يُصَلِّي قَالَ فَكُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عُمْرَتِي أَنْطِيهِ
إِذَا سَجَدَ وَآرَى بِيَاضَهُ

۲۴۰۔ عبید اللہ بن عبد اللہ بن اقرم خزاعی اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: میں اپنے والد کے ساتھ نمرہ (۱) کے مقام پر قاع (۲) میں تھا کہ کچھ سوار گزرے۔ نبی اکرم ﷺ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ اور جب آپ ﷺ سجدہ کرتے تو میں ان کے بغلوں کی سفیدی کو دیکھتا۔

(۱) نمرہ: عرفات میں ایک جگہ کا نام ہے۔ (مترجم)

(۲) قاع: چھیل میدان کو کہتے ہیں۔ (مترجم)

اس باب میں ابن عباسؓ، ابوسعیدؓ، جابرؓ، احمر بن جزءؓ، میمونؓ، ابو حمیدؓ، ابو سعیدؓ، اسلم بن سعدؓ، محمد بن مسلمہؓ، براء بن عازبؓ، عدی بن عمیرؓ اور عائشہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں عبداللہ بن اقرم کی حدیث حسن ہے ہم اسے داؤد بن قیس کے علاوہ کسی اور روایت سے نہیں جانتے اور نہ ہی عبداللہ بن اقرم سے رسول اللہ ﷺ کی اس کے علاوہ کوئی روایت جانتے ہیں۔ اسی پر اہل علم کا عمل ہے۔ احمر بن جزء صحابی ہیں ان سے ایک حدیث منقول ہے۔ عبداللہ بن اقرم زہری، حضرت ابو بکر صدیقؓ کے کاتب ہیں اور عبداللہ بن اقرم خزاعی اس حدیث کو رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔

باب ۲۰۱۔ سجدے میں اعتدال سے متعلق

باب ۲۰۱۔ مَا جَاءَ فِي الْإِعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ

۲۴۱۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اعتدال کے ساتھ کرے۔ اور بازوؤں کو کتے کی طرح نہ بچھائے۔

۲۴۱۔ حَدَّثَنَا هِنَادٌ ثَنَا أَبُو معاوية عن الأعمش عن أَبِي سَفْيَانَ عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَعْتِدِلْ وَلَا يَفْتَرِشْ ذِرَاعِيهِ أَفْتِرَاشَ الْكَلْبِ

اس باب میں عبدالرحمن بن شبلؓ، براءؓ، انسؓ، ابو حمیدؓ اور حضرت عائشہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی اس حدیث کو حسن صحیح کہتے ہیں اس پر علماء کا عمل ہے کہ سجدے میں اعتدال کرے۔ اور ان حضرات کے نزدیک (بازوؤں کو) بچھانا یا درندوں کی طرح بیٹھنا مکروہ ہے۔

۲۴۲۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سجدے میں اعتدال کرو۔ تم میں سے کوئی بھی نماز کے دوران اپنے بازوؤں کو کتے کی طرح نہ پھیلائے۔

۲۴۲۔ حَدَّثَنَا محمود بن غيلان نا ابو داود نا شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ اغْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَسْطُرْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعِيهِ فِي الصَّلَاةِ بَسَطَ الْكَلْبِ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۲۰۲۔ سجدے میں دونوں ہاتھ زمین پر رکھنا اور پاؤں کھڑے رکھنا۔

باب ۲۰۲۔ مَا جَاءَ فِي وَضْعِ الْيَدَيْنِ وَنَضْبِ الْقَدَمَيْنِ فِي السُّجُودِ

۲۴۳۔ حضرت عامر بن سعد اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہاتھوں کو زمین پر رکھنے اور پیروں کو کھڑا رکھنے کا حکم دیا۔

۲۴۳۔ حَدَّثَنَا عبد الله بن عبد الرحمن نا المعلى بن اسدنا وهيب عن محمد بن عجلان عن محمد بن ابراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِرَضْعِ الْيَدَيْنِ وَنَضْبِ الْقَدَمَيْنِ

عبداللہ کہتے ہیں کہ معلى نے حماد بن معدہ سے، انہوں نے محمد بن عجلان سے انہوں نے محمد بن ابراہیم سے اور انہوں نے عامر بن سعد سے اسی حدیث کے مثل روایت کی ہے کہ ”رسول اللہ ﷺ نے ہمیں دونوں ہاتھ زمین پر رکھنے کا حکم دیا“۔ اس حدیث میں انہوں نے عامر بن سعید کے والد کا ذکر نہیں کیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید قطان اور کئی حضرات محمد بن عجلان سے

وہ محمد بن ابراہیم سے اور وہ عامر بن سعد سے روایت کرتے ہیں کہ ”آنحضرت ﷺ نے ہاتھوں کو زمین پر رکھنے اور پاؤں کو کھڑا رکھنے کا حکم دیا۔“ یہ حدیث مرسل اور وہیب کی حدیث سے اسحٰب ہے۔ اسی پر اہل علم کا اجماع ہے۔

باب ۲۰۳۔ مَا جَاءَ فِي إِقَامَةِ الصَّلَاةِ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ وَالرُّكُوعِ

باب ۲۰۳۔ جب رکوع یا سجدے سے اٹھے تو پیٹھ (کمر) سیدھی کرے۔

۲۴۴۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ مُوسَى نَا ابْنِ الْمُبَارَكِ نَا شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَتْ صَلَوةُ رَسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَإِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ

۲۴۴۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نماز کے دوران جب رکوع کرتے یا رکوع سے سر اٹھاتے اور جب سجدہ کرتے یا سجدے سے سر اٹھاتے تو (یہ تمام افعال) تقریباً ایک دوسرے کے برابر ہوتے۔

اس باب میں حضرت انسؓ سے بھی روایت ہے۔ محمد بن بشار، محمد بن جعفر سے اور شعبہ سے اسی حدیث کے مثل روایت کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں براء کی حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۲۰۴۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يُبَادِرَ الْإِمَامُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

باب ۲۰۴۔ رکوع اور سجدے میں امام سے پہل کرنا مکروہ ہے۔

۲۴۵۔ حَدَّثَنَا بِنْدَارٌ ثَنَا عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنِ مَهْدِي نَا سَفِيَانَ عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَحْنُ رَجُلٌ مِنَّا ظَهَرَ حَتَّى يَسْجُدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَتَسْجُدُ

۲۴۵۔ عبد اللہ بن یزید کہتے ہیں کہ براء نے ہم سے روایت کی (وہ جھوٹے نہیں ہیں) اور کہا کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھتے، جب آپ ﷺ رکوع سے سر اٹھاتے تو ہم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کمر کو نہ جھکا تا جب تک رسول اللہ ﷺ سجدے میں نہ جا چکے پھر ہم سجدہ کرتے۔

اس باب میں انسؓ، معاویہؓ، ابن مسعودؓ صاحب الجیوش اور ابو ہریرہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث براء حسن صحیح ہے۔ اہل علم اسی پر عمل پیرا ہیں کہ مقتدی حضرات امام کی ہر فعل میں تابعداری کریں اور اس وقت تک رکوع میں نہ جائیں جب تک امام نہ چلا جائے۔ اور اس وقت تک رکوع سے سر نہ اٹھائیں جب تک امام نہ کھڑا ہو جائے۔ ہمیں علماء کے درمیان اس مسلک میں اختلاف کا علم نہیں۔

باب ۲۰۵۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْإِقْعَاءِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

باب ۲۰۵۔ دونوں سجدوں کے درمیان اقعاء کرنا مکروہ ہے۔

۲۴۶۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ

۲۴۵۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے

فرمایا: اے علی! میں تمہارے لئے وہ پسند کرتا ہوں جو اپنے لئے پسند کرتا ہوں اور تمہارے لئے اس چیز کو برا سمجھتا ہوں جس کو اپنے لئے برا سمجھتا ہوں۔ تم دونوں سجدوں کے درمیان افتاء نہ کیا کرو۔

بن موسیٰ نا اسرائیل عن ابی اسحاق عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيُّ أَحِبُّ لَكَ مَا أَحْبَبْتُ لِنَفْسِي وَأَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي لَا تَقْعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

امام ترمذی کہتے ہیں اس حدیث کو ہمیں ابو اسحاق کے علاوہ کسی اور کے حضرت علیؑ سے روایت کرنے کا علم نہیں۔ ابو اسحاق، حارث سے اور وہ علیؑ سے روایت کرتے ہیں۔ بعض علماء حارث عمور کو ضعیف کہتے ہیں اور اکثر اہل علم افتاء کو مکروہ سمجھتے ہیں۔ اس باب میں عائشہؓ انسؓ اور ابو ہریرہؓ سے بھی روایت ہے۔

باب ۲۰۶۔ افتاء کی اجازت کے متعلق

باب ۲۰۶۔ فی الرُّحْصَةِ فِي الْإِفْعَاءِ

۲۴۷۔ ابن جریج، ابو زبیر سے اور وہ طاؤس سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے دونوں پاؤں پر افتاء کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا: یہ سنت ہے ہم نے کہا: ہم اسے آدمی پر ظلم سمجھتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: بلکہ یہ تمہارے نبی ﷺ کی سنت ہے۔

۲۴۷۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَوْسَى نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِفْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ قَالَ هِيَ السُّنَّةُ فَقُلْنَا إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ قَالَ بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض صحابہ اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ افتاء میں کوئی مضائقہ نہیں۔ یہ اہل مکہ میں سے بعض علماء و فقہاء کا قول ہے جب کہ اکثر اہل علم سجدوں کے درمیان افتاء کو مکروہ سمجھتے ہیں۔

باب ۲۰۷۔ دونوں سجدوں کے درمیان کیا پڑھے؟

باب ۲۰۷۔ مَا يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

۲۴۸۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ دونوں سجدوں کے درمیان (نماز میں) یہ دعا پڑھتے تھے۔ "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي" (ترجمہ: اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھ پر جبر فرما، میری مصیبت اور نقصان کی تلافی کر، مجھے ہدایت عطا فرما اور مجھے رزق دے۔)

۲۴۸۔ حَدَّثَنَا سَلْمَةُ بْنُ شَيْبَةَ نَا زَيْدُ بْنُ حَبَابٍ عَنِ كَامِلِ ابْنِ الْعَلَاءِ عَنِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي

حسن بن علی خلخال، یزید بن ہارون سے وہ زید بن حباب سے اور وہ کامل ابو العلاء سے اسی کی مثل روایت کرتے ہیں۔ امام ترمذی حضرت ابن عباسؓ کی حدیث کو غریب کہتے ہیں یہ اسی طرح حضرت علیؑ سے بھی منقول ہے۔ شافعی، احمد اور اسحاق کا یہی قول ہے کہ یہ دعا فرائض و نوافل تمام نمازوں میں پڑھنا جائز ہے۔ بعض راوی حضرات یہ حدیث ابو العلاء کامل سے مرسل روایت کرتے ہیں۔

(۱) افتاء کی دو تفسیریں کی گئی ہیں، (۱) آدمی کو لٹھوں پر بیٹھے اور پاؤں اس طرح کھڑے کرے کہ گھٹنے کندھوں کے مقابل آجائیں اور دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک لے۔ یہ صورت باتفاق مکروہ ہے۔ (۲) دونوں پاؤں بچوں کے بل کھڑے کر کے ان پر بیٹھ جائے۔ اس کے بارے میں اختلاف ہے حنفیہ، مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک یہ صورت بھی باتفاق مکروہ ہے۔ (مترجم)

باب ۲۰۸۔ مَا جَاءَ فِي الْإِعْتِمَادِ فِي السُّجُودِ

باب ۲۰۸۔ سجدے میں سہارا لینا۔

۲۴۹۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ مَرْثَدَةَ عَنْ أَبِي عَجْلَانَ عَنْ سَمِيِّ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَشْتَكَيْتُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَشَقَّةَ السُّجُودِ عَلَيْهِمْ إِذَا تَفَرَّجُوا فَقَالَ اسْتَعِينُوا بِالرُّكْبِ

۲۴۹۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے رسول اللہ ﷺ سے شکایت کی کہ سجدے میں اعضاء کو علیحدہ علیحدہ رکھنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: گھٹنوں کا سہارا لے لیا کرو۔ (یعنی کہنیوں کو گھٹنوں کے ساتھ نکال لیا کرو۔ واللہ اعلم مترجم)

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے ہم اسے ابوصالح کی روایت سے اس سند کے علاوہ نہیں جانتے وہ ابو ہریرہ سے اور وہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ لیکن لیث اسے اسی سند سے ابوالعجلان سے روایت کرتے ہیں۔ سفیان بن عیینہ اور کئی حضرات سنی سے وہ نعمان بن ابی عیاش سے اور وہ رسول اللہ ﷺ سے اسی حدیث کے مثل روایت کرتے ہیں اور ان کی روایت لیث کی روایت سے صحیح ہے۔

باب ۲۰۹۔ كَيْفَ النَّهْوُضُ مِنَ السُّجُودِ

باب ۲۰۹۔ سجدے سے کیسے اٹھا جائے؟

۲۵۰۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ نَا هَشِيمَ بْنَ خَالِدٍ الْحِذَاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيِّ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَمَا كَانَ إِذَا كَانَ فِي وَتَرَمِنْ صَلَوَتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا

۲۵۰۔ حضرت مالک بن حویرث لیبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ ﷺ نماز کے دوران طاق رکعات میں اس وقت تک نہ کھڑے ہوتے جب تک اچھی طرح بیٹھ نہ جاتے۔

امام ترمذی کہتے ہیں مالک بن حویرث کی حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر بعض اہل علم کا عمل ہے۔ ہمارے رفقاء بھی اسی کے قائل ہیں۔

باب ۲۱۰۔ مِنْهُ أَيْضًا

باب ۲۱۰۔ اسی سے متعلق

۲۵۱۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى نَا أَبُو معاوية نَا خَالِدُ بْنُ إِيَّاسٍ وَيُقَالُ خَالِدُ بْنُ إِيَّاسٍ عَنْ صَالِحِ مَوْلَى التُّؤَمَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ

۲۵۱۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نماز میں دونوں پیروں کی انگلیوں پر زور دے کر کھڑے ہو جاتے تھے۔

امام ترمذی کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث پر ہی اہل علم کا عمل ہے کہ پیروں کی انگلیوں پر زور دے کر کھڑا ہو جائے (یعنی بیٹھے نہیں) خالد بن ایاس محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں انہیں خالد بن ایاس بھی کہا جاتا ہے صالح مولیٰ تو مہ، صالح بن ابی صالح ہیں اور ابوصالح کا نام بہمان مدنی ہے۔

باب ۲۱۱۔ مَا جَاءَ فِي التَّشَهُدِ

باب ۲۱۱۔ تشہد کے متعلق

۲۵۲۔ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّرَوَيْزِيِّ

۲۵۲۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ

ﷺ نے ہمیں سکھایا کہ جب ہم دوسری رکعت میں بیٹھیں تو یہ پڑھیں
التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ..... حدیث کے آخر تک (ترجمہ: تمام
تعریفیں اور بدنی عبادات (نماز وغیرہ) اور مالی عبادات (زکوٰۃ
وغیرہ) اللہ ہی کے لئے ہیں۔ اے نبی ﷺ آپ پر سلام اور اللہ کی
رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ ہم پر اور اللہ کے سوا کوئی عبادات کے لائق
نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔

ناعبیدالله الاشجعی عن سفیان الشوری عن ابی اسحق
عن الاسود بن یزید عن عبد الله بن مسعود قال
عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا
قَعَدْنَا فِي الرُّكْعَتَيْنِ أَنْ نَقُولَ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ
وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

اس باب میں ابن عمر، جابر، ابو موسیٰ اور عائشہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت ابن مسعود کی حدیث ان سے کئی
اسناد سے مروی ہے۔ یہ حدیث آپ ﷺ سے مروی تمام احادیث میں اصح ہے (یعنی تشہد کے باپ میں اور اسی پر اکثر علماء صحابہ تابعین اور
بعد کے اہل علم کا عمل ہے۔ سفیان ثوری، ابن مبارک احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں۔

باب ۲۱۲۔ مِنْهُ أَيْضًا

باب ۲۱۲۔ اسی سے متعلق

۲۵۳۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ
ﷺ ہمیں تشہد اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن سکھاتے۔ چنانچہ
فرماتے: التحیات المبارکات۔ آخر حدیث تک۔ (ترجمہ: تمام
بابرکت تعریفات اور تمام مالی و بدنی عبادات اللہ ہی کے لئے ہیں۔
اے نبی ﷺ آپ پر سلام اور اللہ کی رحمتیں و برکتیں ہوں۔ ہم پر اور
اللہ کے نیک و صالح بندوں پر بھی سلام ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ
کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔

۲۵۳۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ الزَّبِيْرِ عَنْ
سَعِيْدِ بْنِ جَبْرِ وَ طَاوُسِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُدَ
كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ فَكَانَ يَقُولُ التَّحِيَّاتُ
الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَاةُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا
النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ
اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

امام ترمذی کہتے ہیں حدیث ابن عباس حسن صحیح غریب ہے۔ عبدالرحمن بن حمید روای نے بھی یہ حدیث ابو زبیر سے لیث بن سعد کی
روایت کی مانند بیان کی ہے۔ ایمن بن نائل کی نے بھی یہ حدیث ابو زبیر سے روایت کی ہے لیکن یہ غیر محفوظ ہے۔ امام شافعی تشہد میں اس
حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ (یعنی یہ دعا پڑھتے ہیں)

باب ۲۱۳۔ مَا جَاءَ أَنَّهُ يُخْفِي التَّشَهُدَ

باب ۲۱۳۔ تشہد بغیر آواز کے پڑھنا

۲۵۴۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تشہد (یعنی
التحیات..... الخ) آہستہ (بغیر آواز) پڑھنا سنت ہے۔

۲۵۴۔ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيْدِ الْاَشْجَعِ نَا يُوْنُسُ بْنُ بَكِيْرٍ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اسْحَقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْاَسْوَدِ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُخْفِيَ
التَّشَهُدَ

امام ترمذی کہتے ہیں ابن مسعود کی حدیث حسن غریب ہے اور اسی پر علماء کا عمل ہے۔

باب ۲۱۴۔ كَيْفَ الْجُلُوسُ فِي التَّشَهُدِ

۲۵۵۔ حدثنا ابو كريب نا عبد الله بن ادريس عن عاصم بن كليب عن ابيه عن وايل بن حجر قال قدمت المدينة قلت لا نظرنن الى صلوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما جلس يعنى للتشهد افترس رجله اليسرى ووضع يده اليسرى يعنى على فخذه اليسرى ونصب رجله اليمنى

باب ۲۱۳۔ تشهد میں کیسے بیٹھا جائے۔

۲۵۵۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں مدینہ آیا تو سوچا کہ رسول اللہ ﷺ کی نماز کو ضرور دیکھوں گا۔ چنانچہ آپ ﷺ جب تشهد کے لئے بیٹھے تو اپنا بائیں پاؤں بچھایا اور بائیں ہاتھ بائیں ران پر رکھا اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھا۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر اکثر علماء کا قول ہے۔ سفیان ثوری، ابن مبارک اور اہل کوفہ اسی کے قائل ہیں۔

باب ۲۱۵۔ اسی سے متعلق۔

باب ۲۱۵۔ مِنْهُ أَيْضًا

۲۵۶۔ حدثنا بندار نا ابو عامر العقدي نا فليح بن سليمان المديني نا عباس بن سهل الساعدي قال اجتمع ابو حميد و ابو أسيد و سهل بن سعد و محمد بن مسلمة فذكروا صلوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ابو حميد انا أعلمكم بصلوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يعنى للتشهد فترس رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بأصبعه يعنى السبابة

۲۵۶۔ حضرت عباس بن سہل ساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو حمید، ابو اسید رضی اللہ عنہ، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہم ایک جگہ جمع ہوئے، اور رسول اللہ ﷺ کی نماز کا تذکرہ شروع کر دیا۔ چنانچہ ابو حمید رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں آپ ﷺ کی نماز کے بارے میں تم سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ آپ ﷺ تشهد کے لئے بیٹھے تو بائیں پاؤں بچھایا، اور سیدھے پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ کی طرف کیا۔ پھر سیدھا ہاتھ دائیں گھٹنے پر اور بائیں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھا اور اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور یہ بعض علماء کا قول ہے۔ شافعی، احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں کہ آخری تشهد میں تورک (۱) کرے اس مسلک پر یہ حضرات ابو حمید کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ مزید کہتے ہیں کہ پہلے تشهد میں بائیں پاؤں پر بیٹھے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھا۔

باب ۲۱۶۔ تشهد میں اشارے سے متعلق

باب ۲۱۶۔ مَا جَاءَ فِي الْإِشَارَةِ

۲۵۷۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نماز میں جب بیٹھے تو دایاں ہاتھ گھٹنے پر رکھتے اور انگوٹھے کے ساتھ والی

۲۵۷۔ حدثنا محمود بن غيلان ويحيى بن موسى قالانا نا عبد الرزاق عن معمر عن عبيد الله بن

(۱) تورک: اس کے معنی یہ ہیں کہ کولھے پر بیٹھ کر بائیں پاؤں کو دائیں طرف نکال دے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر دے یا پھر دونوں پاؤں دائیں طرف کر دے۔ (مترجم)

انگی کو اٹھاتے اور دعا کرتے۔ آپ کا بائیاں ہاتھ بھی گھٹنے پر ہوتا اور اس کی انگلیاں پھیلی ہوئی ہوتیں۔

عمر عن نافع عن عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ وَرَفَعَ إصْبَعَهُ الَّتِي تَلِي الْأُيْهَامَ يَدْعُو بِهَا وَيَدُّهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ بِأَسْطِهَا عَلَيْهِ

اس باب میں عبد اللہ زبیر، نمیر خزاعی، ابو ہریرہ، ابو حمید اور وائل بن حجر سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی حدیث ابن عمر کو حسن غریب کہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم اس حدیث کو عبید اللہ بن عمر سے اس سند کے علاوہ نہیں جانتے۔ بعض صحابہ اور تابعین اسی پر عمل کرتے ہیں یعنی یہ حضرات شہد میں اشارے کا مسلک اختیار کرتے ہیں۔ یہی ہمارے اصحاب کا قول ہے۔

باب ۲۱۷۔ نماز میں سلام پھیرنا

باب ۲۱۷۔ مَا جَاءَ فِي التَّسْلِيمِ فِي الصَّلَاةِ

۲۵۸۔ حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ، حضور اکرم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ دائیں اور بائیں سلام پھیرتے اور فرماتے "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ" یعنی تم پر سلام اور اللہ کی رحمت ہو۔

۲۵۸ - حَدَّثَنَا بِنْدَارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ نَا سَفِينٌ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

اس باب میں سعد بن ابی وقاص، ابن عمر، جابر بن سمرہ، براء، عمار، وائل بن حجر، عدی بن عمیرہ اور جابر بن عبد اللہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں عبد اللہ بن مسعود کی حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر صحابہ اور بعد کے اہل علم کی اکثریت کا عمل ہے۔ یہ قول سفیان ثوری، ابن مبارک، احمد اور اسحاق کا بھی ہے۔

باب ۲۱۸۔ اسی سے متعلق

باب ۲۱۸۔ مِنْهُ أَيْضًا

۲۵۹۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نماز میں ایک سلام چہرے کے سامنے کی طرف پھیرتے پھر دہنی طرف تھوڑا سا جھکتے۔

۲۵۹ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النِّيسَابُورِيُّ نَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلْمَةَ عَنْ زَهْرِبْنَ مُحَمَّدَ بْنَ مُحَمَّدَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تَلْقَاءَ وَجْهِهِ ثُمَّ يَمِيلُ إِلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ شَيْئًا

اس باب میں اہل بن سعد سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ہم حضرت عائشہ کی حدیث کو اس سند کے علاوہ مرفوع نہیں جانتے۔ امام بخاری کہتے ہیں: اہل شام، زہیر بن محمد سے مکر احادیث روایت کرتے ہیں۔ اہل عراق کی روایت ان سے اشد بہتر ہے۔ بخاری اور احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ شاید جو زہیر بن محمد شام گئے وہ یہ نہیں ہیں جن سے اہل عراق روایت کرتے ہیں۔ شاید وہ کوئی اور ہیں جن کا نام تبدیل کر دیا گیا ہے۔ بعض علماء نماز میں ایک سلام پھیرنے کے قائل ہیں جب کہ دو سلام پھیرنے والی روایات صحیح ہیں اور اسی پر علماء کی اکثریت عمل پیرا ہے جن میں صحابہ، تابعین اور بعد کے علماء شامل ہیں۔ صحابہ اور تابعین وغیرہ کی ایک جماعت فرض نماز میں ایک سلام کی قائل ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں اگر چاہے تو ایک سلام پھیرے اور اگر چاہے کہ دو سلام پھیرے تو دو سلام پھیرے۔

باب ۲۱۹۔ مَا جَاءَ أَنْ حَذَفَ السَّلَامُ سُنَّةً

باب ۲۱۹۔ سلام کو حذف کرنا سنت ہے۔ (۱)

۲۶۰۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ نَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ وَالْهَقْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنِ قُرَّةِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَذَفَ السَّلَامُ سُنَّةً قَالَ عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ لَا تَمُدَّهُ مَدًّا

۲۶۰۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سلام کو حذف کرنا سنت ہے۔ علی بن حجر فرماتے ہیں کہ ابن مبارک فرماتے تھے اس میں مد نہ کیا کرو۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ علماء اس کو مستحب کہتے ہیں۔ ابراہیم نخعی سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: تکبیر اور سلام دونوں میں وقف کیا جائے۔ ہقل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام اوزاعی کے کاتب تھے۔

باب ۲۲۰۔ مَا يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ

باب ۲۲۰۔ سلام پھیرنے کے بعد کیا کہے؟

۲۶۱۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا أَبُو معاوية عَنِ عاصمِ الْاَحْوَلِ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ لَا يَقْعُدُ إِلَّا مَقْدَارَ مَا يَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

۲۶۱۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب (نماز سے) سلام پھیرتے تو صرف اتنی دیر بیٹھتے جتنی دیر میں یہ دعا پڑھتے ”اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاکرام“ (ترجمہ: یا اللہ تو ہی سلام ہے اور سلامتی تجھ ہی سے ہے تو بڑی برکت والا، عزت والا اور بزرگی والا ہے)۔

ہناؤ، مروان بن معاویہ اور ابو معاویہ سے اور وہ عاصم احوال سے اسی سند سے اسی کے مثل روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں ”تبارک یا ذالجلال والاکرام“ اور اس باب میں ثوبان، ابن عمر، ابن عباس، ابوسعید، ابو ہریرہ اور مغیرہ بن شعبہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت عائشہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ حضور اکرم ﷺ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ سلام پھیرنے کے بعد فرماتے ”لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير۔ اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجدمنك الجدم“ (ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تمہارے اس کا کوئی شریک نہیں بادشاہت تعریف اسی کیلئے ہیں زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یا اللہ جو تو عطا کرے اسے روکنے والا کوئی نہیں۔ اور جو تو نہ دینا چاہے وہ کوئی نہیں دے سکتا۔ کسی کوشش کرنے والے کی کوئی کوشش کام نہیں آتی) اور یہ بھی پڑھتے۔ ”سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين“ (ترجمہ: آپ کا رب بڑی عظمت والا اور ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ اور سلام ہو پیغمبروں پر اور تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔

۲۶۲۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَوْسَى قَالَ

۲۶۲۔ رسول اللہ ﷺ کے مولیٰ ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب

اخیرنی ابن المبارک نا الاوزاعی نا شداد ابو عمار

رسول اللہ ﷺ نماز سے فارغ ہوتے تو تین مرتبہ استغفار کرتے اور پھر

قال حدثني ابوا أسماء الرحيبي قال ثوبان مولی

کہتے ”انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال

(۱) سلام کو حذف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ”درجۃ اللہ“ کی ”ہ“ پر وقف کر دیا جائے۔ یعنی اس کی حرکت ظاہر نہ کی جائے۔ یا پھر یہ کہ اس کے مد والے حروف کو زیادہ نہ کھینچا جائے۔ یہ دونوں تفسیریں صحیح ہیں اور دونوں پر ہی عمل کرنا چاہئے۔ (مترجم)

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُنْصَرِفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَعْفَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابوعمار کا نام شہاد بن عبد اللہ ہے۔

باب ۲۲۱۔ مَا جَاءَ فِي الْإِنْصِرَافِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ

باب ۲۲۱۔ نماز کے بعد (امام کا) دونوں جانب گھومنا۔

۲۶۳۔ حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بْنِ سَمَاعٍ بْنِ حَرْبٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هَلْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَيَنْصَرِفُ عَلَى جَانِبَيْهِ جَمِيعًا عَلَى يَمِينِهِ وَعَلَى شِمَالِهِ

۲۶۳۔ قبیسہ بن ہلب اپنے والد سے نقل کرتے ہیں۔ کہ انہوں نے فرمایا: آقائے نامدار ﷺ ہماری امامت کرتے اور (فراغت کے بعد) دونوں جانب سے گھوم کر بیٹھتے کبھی دائیں طرف سے اور کبھی بائیں

اس باب میں عبد اللہ بن مسعود، انس، عبد اللہ بن عمر و ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ہلب کی حدیث حسن ہے اور اسی پر اہل علم کا عمل ہے کہ جس طرف سے چاہے گھوم کر بیٹھے چاہے تو دائیں جانب سے اور چاہے تو بائیں جانب سے یہ دونوں ہی نبی اکرم ﷺ سے ثابت ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالبؓ سے مروی ہے کہ اگر آپ ﷺ کو دائیں طرف سے کوئی حاجت ہوتی تو دائیں طرف سے گھومتے اور اگر بائیں طرف سے کوئی حاجت ہوتی تو بائیں طرف سے گھوم کر بیٹھتے۔

باب ۲۲۲۔ مَا جَاءَ فِي وَصْفِ الصَّلَاةِ

طرف سے۔

باب ۲۲۲۔ پوری نماز کی صفت

۲۶۴۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ نَا اسْمَعِيلَ بْنَ جَعْفَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَلِيٍّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادِ بْنِ رَافِعِ الزَّرْقِيِّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمًا قَالَ رِفَاعَةُ وَنَحْنُ مَعَهُ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ كَالْبَدَوِيِّ فَصَلَّى فَأَخَفَّ صَلَاتَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ فَارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَارْجِعْ فَصَلِّ ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ..... فَقَالَ عَلَيْكَ فَارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

۲۶۴۔ حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے ہم آپ ﷺ کے ساتھ تھے کہ ایک دیہاتی شخص آیا اور خفیف (۱) سی نماز پڑھ کر فارغ ہوا اور آپ ﷺ کو سلام کیا۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جاؤ اور نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ شخص واپس ہوا اور دوبارہ نماز پڑھ کر پھر حاضر ہوا اور آپ ﷺ کو سلام کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جاؤ اور نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی۔ دویا تین مرتبہ ایسا ہوا۔ ہر مرتبہ وہ آتا اور سلام کرتا اور آپ ﷺ اسے یہی کہتے کہ جاؤ اور نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس پر لوگ گھبرا گئے اور ان پر یہ بات شاق گزری کہ جس نے خفیف نماز پڑھی گویا کہ پڑھی ہی نہیں۔ چنانچہ اس شخص نے آخر میں عرض کیا مجھے

(۱) خفیف سے مراد ارکان و واجبات نماز کو اطمینان کے ساتھ ادا نہ کرنا ہے۔ (مترجم)

ﷺ نے فرمایا: ٹھیک ہے! جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اسی طرح وضو کرو پھر اذان دو اور اقامت کہو پھر اگر تمہیں قرآن میں سے کچھ یاد ہو تو پڑھو۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی بزرگی بیان کرو۔ اور لا الہ الا اللہ پڑھو۔ پھر رکوع کرو۔ اور اطمینان کے ساتھ کرو پھر سیدھے کھڑے ہو جاؤ پھر اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، پھر اطمینان سے بیٹھو پھر کھڑے ہو جاؤ۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہاری نماز مکمل ہوگی اور اگر اس میں کچھ کمی ہوئی تو تمہاری نماز میں کمی ہوگی۔ رفاع کہتے ہیں کہ یہ چیز ہم لوگوں کے لئے پہلی چیز سے آسان تھی کہ جو کمی رہ گئی وہ تمہاری نماز میں کمی ہوئی اور پوری کی پوری نماز بیکار نہیں گئی۔

وَسَلَّمَ فَيَسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ فَارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَعَافَ النَّاسُ وَكَبَّرَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَكُونُ مَنْ أَحْفَ صَلَوَتَهُ لَمْ يُصَلِّ فَقَالَ الرَّجُلُ فِي آخِرِ ذَلِكَ فَأَرِنِي وَعَلِمَنِي فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَصِيبُ وَأُحْطِئُ فَقَالَ أَجَلُ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَتَوَضَّأَ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ بِهِ ثُمَّ تَشَهَّدَ فَأَقِمِ أَيضًا فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَأَقْرَأْ وَإِلَّا فَاحْمَدِ اللَّهَ وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ ثُمَّ ارْكَعْ فَاطْمِئِن رَاكِعًا ثُمَّ اعْتَدِلْ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ فَاعْتَدِلْ سَاجِدًا ثُمَّ اجْلِسْ فَاطْمِئِن جَالِسًا ثُمَّ قُمْ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَوَتُكَ وَإِنْ انْتَقَصَتْ مِنْهُ شَيْئًا انْتَقَصَتْ مِنْ صَلَوَتِكَ قَالَ وَكَانَ هَذَا أَهْوَنَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْأَوْلَى إِنَّهُ مَنْ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا انْتَقَصَ مِنْ صَلَوَتِهِ وَلَمْ تَذْهَبْ كُلُّهَا

اس باب میں ابو ہریرہ اور عمار بن یاسر سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں حضرت رفاع کی حدیث حسن ہے اور انہی سے کئی سندوں سے مروی ہے۔

۲۶۵۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سجدہ میں داخل ہوئے تو ایک شخص اور بھی داخل ہوا۔ اور نماز پڑھی۔ پھر آیا اور رسول اللہ ﷺ کو سلام کیا آپ ﷺ نے جواب دیا اور فرمایا: واپس جاؤ اور نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی وہ شخص واپس گیا اور اسی طرح نماز پڑھی جس طرح پہلے پڑھی تھی پھر آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ آپ ﷺ نے سلام کا جواب دیا اور اس سے فرمایا: جاؤ اور نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ تین مرتبہ ایسا ہی کیا اس شخص نے عرض کیا۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ ﷺ کو سچا دین دے کر بھیجا میں اس سے بہتر نہیں پڑھ سکتا مجھے سکھائیے چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا: جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو تکبیر کہو (تکبیر تحریر) اور پھر قرآن میں سے جو کچھ یاد ہو پڑھو پھر اطمینان کے ساتھ رکوع کرو پھر اٹھو اور

۲۶۵۔ حدثنا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد القطان نا عبيدالله بن عمر قال اخبرني سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلي ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرده عليه السلام فقال ارجع فصلي فانك لم تصل فرجع الرجل فصلي كما كان صلى ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسلم عليه فرده عليه فقال له ارجع فصل فانك لم تصل حتى فعل ذلك ثلث مرات فقال له الرجل والذئب بعنك بالحق ما احسن غير فعلمني فقال اذا قمت

سَمْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَشِبْهَيْهِمَا

اس باب میں خبابؓ، ابوسعیدؓ، ابوقادہؓ، زید بن ثابتؓ اور براءؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ جابر بن سمرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ حضور اکرم ﷺ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے ظہر کی نماز میں سورہ ”المجدہ“ پڑھی۔

ایک اور جگہ مروی ہے کہ ظہر کی پہلی رکعت میں تیس آیتوں کے برابر پڑھتے اور دوسری میں پندرہ آیتوں کے برابر پڑھتے تھے۔ حضرت عمرؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے ابو موسیٰؓ کو خط لکھا کہ ”ظہر کی نماز میں اوساط مفصل پڑھا کرو“۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ عصر کی قرأت مغرب کی قرأت کی طرح ہے۔ اس میں قصار مفصل پڑھے۔ ابراہیم نخعی سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: عصر کی نماز قرأت میں مغرب کے برابر رکھی جائے اور ابراہیم کہتے ہیں کہ ظہر میں عصر سے چار گنا زیادہ قرأت کی جائے۔

باب ۲۲۵۔ ماجاء فی القراءۃ فی المغرب مغرب میں قرأت سے متعلق۔

۲۶۹۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنی والدہ ام فضل رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں انہوں نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ اپنی بیماری میں ہماری طرف تشریف لائے آپ ﷺ سر پر پٹی باندھے ہوئے تھے چنانچہ آپ ﷺ نے مغرب کی نماز میں سورہ مرسلات پڑھی، اور اس کے بعد وفات تک یہ سورت نہ پڑھی (یعنی مغرب میں)

۲۶۹۔ حدثنا هناد عن عبدة عن محمد بن اسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن أم الفضل قالت خرج النبي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَاصِبٌ رَأْسَهُ فِي مَرْضِهِ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ فَقَرَأَ بِالْمُرْسَلَاتِ فَمَا صَلَّاهَا بَعْدَ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ

اس باب میں جبیر بن مطعمؓ، ابن عمرؓ، ابویوبؓ اور زید بن ثابتؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں۔ حدیث ام فضل حسن صحیح ہے۔ آپ ﷺ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے مغرب کی دونوں رکعتوں میں سورہ اعراف پڑھی۔ یہ بھی مروی ہے کہ مغرب میں سورہ طور پڑھی۔ حضرت عمرؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے ابو موسیٰؓ کو لکھا کہ مغرب کی نماز میں قصار مفصل پڑھا کرو۔ حضرت ابوبکرؓ سے بھی مروی ہے کہ انہوں نے مغرب میں قصار مفصل پڑھی۔ امام ترمذی کہتے ہیں اسی پر علماء کا عمل ہے اور یہ ابن مبارکؓ، احمد اور اسحاق کا قول ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں: مالک کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ مغرب میں لمبی سورتوں کو مکروہ سمجھتے تھے جیسے کہ سورہ طور اور مرسلات شافعی کہتے ہیں میں اسے مکروہ نہیں سمجھتا بلکہ مستحب سمجھتا ہوں کہ مغرب میں یہ سورتیں پڑھی جائیں۔

باب ۲۲۶۔ ماجاء فی القراءۃ فی صلوٰۃ العشاء عشاء میں قرأت سے متعلق۔

۲۷۰۔ حضرت عبد اللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہما اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ عشاء کی نماز میں سورہ شمس اور اسی طرح کی سورتیں پڑھا کرتے تھے۔

۲۷۰۔ حدثنا عبدة بن عبد الله الحزاعي نا زيد بن الحباب نا ابن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ الْأَجْرَةَ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَنَحْوَهَا مِنَ السُّورِ

اس باب میں براء بن عازب سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں بریدہ کی حدیث حسن ہے۔ نبی اکرم ﷺ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ ﷺ نے عشاء میں ”واتین والزیتون“ پڑھی۔ حضرت عثمان بن عفان کے بارے میں مروی ہے کہ عشاء میں اوساط مفصل پڑھتے تھے۔ جیسے سورہ منافقون اور اس طرح کی سورتیں۔ صحابہ اور تابعین کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے اس سے کم اور زیادہ دونوں طرح پڑھا ان کے نزدیک اس باب میں وسعت ہے۔ اس میں آپ ﷺ سے مروی احادیث میں سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ ﷺ نے ”والشمس وضحها“ اور ”واتین والزیتون“ پڑھی۔

۲۷۱۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے عشاء کی نماز میں ”واتین والزیتون“ پڑھی۔

۲۷۱ - حدثنا هنادنا ابو معاوية عن يحيى ابن سعيد الانصاري عن عدی بن ثابت عن البراء بن عازب ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قرأ في العشاء الاخرة باليتين والزيتون
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۲۲۷۔ امام کے پیچھے قرآن پڑھنا

باب ۲۲۷۔ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ

۲۷۲۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ نے فجر کی نماز پڑھی۔ اس میں آپ ﷺ کے لئے قرأت میں مشکل پیش آئی۔ جب فارغ ہوئے تو فرمایا: شاید تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو۔ براء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے کہا، ہاں یا رسول اللہ! اللہ کی قسم۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ایسا نہ کیا کرو۔ صرف سورہ فاتحہ پڑھا کرو کیوں کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔

۲۷۲ - حدثنا هنادنا عبدة بن سليمان عن محمد بن اسحق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال صلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الصبح فنقلت عليه القراءة فقلنا انصرف قال اني اراكم تقرؤون وراء امامكم قال قلنا يا رسول الله اى والله قال لا تفعلوا الا بام القرآن فانه لا صلوة لمن لم يقرأ بها

اس باب میں ابو ہریرہ، عائشہ، انس، ابو قتادہ اور عبد اللہ بن عمرؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں عبادہ کی حدیث حسن ہے۔ یہ حدیث زہری، محمود بن ربیع سے اور وہ عبادہ بن صامت سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی اور یہ اصح ہے۔ اکثر صحابہ اور تابعین کا مسئلہ قراءۃ حلف الامام (امام کے پیچھے قرأت کرنا) میں اسی حدیث پر عمل ہے۔ یہ مالک بن انس، ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق کا قول ہے۔ ان کے نزدیک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے قراءت کرنی چاہیے۔

باب ۲۲۸۔ اگر امام زور سے پڑھے تو مقتدی قرأت نہ کرے۔

باب ۲۲۸۔ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ إِذَا جَهَرَ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ

۲۷۳۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک مرتبہ جہری نماز سے فارغ ہوئے اور فرمایا: تم میں سے کسی نے میرے ساتھ پڑھا؟ ایک شخص نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ! آپ ﷺ

۲۷۳ - حدثنا الانصاري نامعن نا مالك عن ابن شهاب ابن اكيمة الليثي عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انصرف من صلوة

حَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ هَلْ قَرَأَ مَعِيَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ
 إِنْفًا فَقَالَ رَجُلٌ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنِّي أَقُولُ مَا لِي
 أَنَا زُعُ الْقُرْآنِ قَالَ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّلَوَاتِ
 بِالْقِرَاءَةِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

نے فرمایا: میں بھی سوچنے لگا کہ قرآن پڑھنے میں مجھے کیوں کش مکش
 ہو رہی ہے۔ راوی کہتے ہیں پھر لوگوں نے حضور اکرم ﷺ کے ساتھ
 پڑھنا چھوڑ دیا۔ یعنی ان نمازوں میں جن میں رسول اللہ ﷺ کو پڑھتے
 ہوئے سنتے تھے۔

اس باب میں ابن مسعود، جابر بن عبد اللہ اور عمران بن حصین سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے
 اور ابن اکیمہ لیثی کا نام عمارہ ہے۔ انہیں عمرو بن اکیمہ بھی کہا جاتا ہے زہری کے بعض اصحاب اس حدیث کو روایت کرتے ہوئے یہ
 الفاظ زیادہ بیان کرتے ہیں کہ زہری نے کہا: اس کے بعد جب لوگ آپ ﷺ کو قرأت کرتے ہوئے سنتے تو قرأت سے باز رہتے۔ اس
 حدیث سے ان حضرات پر اعتراض نہیں کیا جاسکتا جو امام کی اقتداء میں قرآن پڑھنے کے مسلک پر عمل کرتے ہیں اس لیے کہ اس کے
 راوی بھی ابو ہریرہ ہیں اور انہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص نماز پڑھے اور اس میں فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز ناقص
 اور نامکمل ہے۔ ان سے حدیث نقل کرنے والے راوی نے کہا۔ میں کبھی کبھی امام کی اقتداء میں نماز پڑھتا ہوں۔ ابو ہریرہ نے فرمایا: دل
 میں پڑھ لیا کرو۔ ابو عثمان نہدی بھی حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: مجھے رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ میں
 اعلان کروں کہ جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ محدثین حضرات نے یہ مسلک اختیار کیا ہے کہ اگر امام زور سے
 قرأت کرے تو مقتدی نہ پڑھے۔ مزید کہتے ہیں کہ سکتوں کے درمیان پڑھ لے۔ علماء کا امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے قرآن پڑھنے
 میں اختلاف ہے چنانچہ اکثر صحابہ، تابعین اور بعد کے علماء کہتے ہیں کہ مقتدی کو پڑھنا چاہیے۔ یہ قول مالک، ابن مبارک، شافعی اور اسحاق
 کا ہے۔ عبد اللہ بن مبارک سے مروی ہے کہ فرمایا: میں اور کئی لوگ امام کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ سوائے اہل کوفہ کے۔ جو شخص نہ پڑھے میں
 اس کی نماز کو جائز سمجھتا ہوں۔ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کے مسئلے میں بعض علماء نے تشدید کی ہے۔ ان حضرات کا
 کہنا ہے کہ جو شخص سورہ فاتحہ نہ پڑھے خواہ وہ تنہا ہو یا جماعت میں اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ حضرات، حضرت عبادہ بن صامت کی حدیث
 سے استدلال کرتے ہیں۔ پھر عبادہ بن صامت آنحضرت ﷺ کے بعد بھی امام کے پیچھے پڑھتے اور آپ ﷺ کے اس قول سے استدلال
 کرتے تھے کہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ امام شافعی اور اسحاق وغیرہ کا قول ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں: آپ ﷺ کا یہ قول
 کہ ”سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی“ اکیلے نماز پڑھنے والے پر محمول ہے۔ ان کا استدلال جابر کی حدیث سے ہے کہ انہوں نے فرمایا:
 جس شخص نے کسی رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی گویا کہ اس نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ الایہ کہ وہ امام کی اقتداء میں ہو۔ امام احمد کہتے ہیں،
 یہ معنی حضور اکرم ﷺ کے صحابی (جابر) نے بیان کیے ہیں کہ یہ حدیث منفرد کی نماز پر محمول ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ امام احمد یہ
 مسلک اختیار کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے ہوتے ہوئے بھی کوئی شخص سورہ فاتحہ نہ چھوڑے۔ اسحاق بن موسیٰ انصاری، معن سے وہ ابو نعیم
 وہب بن کیسان سے اور وہ جابر بن عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: جس شخص نے ایک رکعت بھی ایسی پڑھی جس میں
 سورہ فاتحہ نہ پڑھی گویا کہ اس نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ لیکن امام کی اقتداء میں نماز پڑھنے والا اس سے مستثنیٰ ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

مسئلہ: قرأت فاتحہ خلف الامام (امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا) کا مسئلہ ابتداء سے ہی معرکہ الآراء رہا ہے اسے نماز کے اختلافی مسائل میں سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اس موضوع پر فریقین کی جانب سے اتنی کتابیں لکھی گئیں جن سے پورا ایک کتب خانہ تیار کیا جاسکتا ہے لیکن یہاں اس مسئلے میں حنفیہ کا مسلک اور ان کے دلائل مختصر طور پر پیش کیے جائیں گے۔

احناف کا قرأت خلف الامام کے متعلق مسلک یہ ہے کہ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے قرأت کرنا مکروہ تحریمی ہے خواہ نماز جہری (بلند آواز سے قرأت والی) ہو یا سری (آہستہ پڑھنے والی نماز) اس مسلک پر استدلال کرتے ہوئے احناف سب سے پہلے قرآن کریم کی سورہ اعراف کی یہ آیت پیش کرتے ہیں ”واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون“ (ترجمہ: جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے)۔ یہ آیت قرأت کے وقت صرف سننے اور خاموش رہنے کے واجب ہونے پر دلالت کرتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سورہ فاتحہ قرآن ہی میں سے ہے لہذا اس سے قرأت فاتحہ خلف الامام کی بھی ممانعت ہوتی ہے۔ امام بیہقی حضرت مجاہد سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے زمانے میں بعض صحابہ امام کے پیچھے پڑھتے تھے۔ اس پر مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی۔ لہذا یہ آیت حنفیہ کے مسلک پر صراحت کے ساتھ دلالت کرتی ہے۔ حنفیہ کے اس استدلال پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ اس میں سننے کا حکم دیا گیا ہے جو جہری نمازوں میں تو ہو سکتا ہے لیکن سری نمازوں میں ممکن نہیں۔ لیکن یہ اعتراض صحیح نہیں اس لیے کہ اس آیت میں دو چیزوں کا حکم دیا گیا ہے ایک سننا اور دوسرا خاموش رہنا۔ لہذا استماع (سننا) جہری نمازوں میں اور انصات (خاموش رہنا) سری نمازوں کے لیے ہے۔ حنفیہ کی دوسری دلیل حضرت ابو موسیٰ اشعری کی طویل روایت (جو امام مسلم نے صحیح مسلم میں ذکر کی ہے) ہے کہ..... فقال: اذا صليتم فاقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم احدكم فاذا كبر فكبروا واذا قرأوا فأنصتوا..... یعنی جب تم نماز پڑھنے لگو تو صفیں درست کرو پھر تم میں سے کوئی امامت کرے۔ جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو۔ اور جب وہ قرأت کرے تو تم خاموش رہو۔ نیز حضرت ابو ہریرہ کی سنن نسائی میں مذکور روایت میں بھی یہی الفاظ ہیں کہ ”جب امام قرأت کرے“ تو خاموش رہو۔ چنانچہ ان دونوں حدیثوں میں مطلقاً خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے جو فاتحہ اور سورت دونوں کے لیے عام ہے۔ لہذا دونوں کے درمیان تفریق کے لیے کسی تیسری دلیل کی ضرورت ہے جو کہ موجود نہیں۔ کیونکہ یہاں آپ ﷺ کے متعلق طریقہ بتا رہے ہیں۔ اگر فاتحہ اور سورت کی قرأت میں کوئی فرق ہوتا تو یہاں ضرور بیان کیا جاتا۔ چونکہ آپ ﷺ نے یہاں ”قرأ“ کا صریح لفظ استعمال کیا ہے لہذا اس کا تقاضا یہی ہے کہ جب امام قرأت کرے تو خاموش رہو۔ لہذا اس حکم کے متعلق یہ کہنا کہ صرف جہری نمازوں کے لیے ہے بعید ہے۔ اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ جب بھی امام پڑھے تم لوگ خاموش رہو۔

احناف اپنے مسلک کے لیے دلیل کے طور پر حضرت ابو ہریرہ کی وہ حدیث بھی پیش کرتے ہیں جو امام ترمذی نے ذکر کی ہے (حدیث ۲۷۳)۔ یہ حدیث حنفیہ کے مسلک پر صریح دلیل ہی نہیں بلکہ یہ بھی واضح کرتی ہے کہ اس واقعے کے بعد صحابہ کرام نے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے قرأت ترک کر دی تھی۔ نیز اس حدیث میں یہ تاویل بھی ممکن نہیں کہ سورت پڑھنے سے منع کیا گیا ہے نہ کہ فاتحہ سے، کیونکہ اس میں امام کے پیچھے نہ پڑھنے کی علت بھی بیان کی گئی ہے کہ اس سے منازعہ ہوتا ہے یعنی امام کش مکش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جس طرح یہ علت سورہ پڑھنے میں پائی جاتی ہے بالکل اسی طرح فاتحہ پڑھنے میں بھی پائی جاتی ہے۔ لہذا دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ لیکن امام ترمذی اس حدیث پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ہی سے مروی ہے کہ انہوں نے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے متعلق فرمایا ”اقرأ بھافی نفسک“ تم اسے دل میں پڑھو۔ جہاں تک اس قول کا تعلق ہے تو یہ حضرت ابو ہریرہ کا اپنا اجتہاد ہے کیونکہ یہ بات

۱..... قراء پڑھنے کے معنی میں آتا ہے۔ (مترجم)

انہوں نے کسی سائل کے جواب میں فرمائی ہے اور صحابہ کا اجتہاد، موضوع احادیث کے مقابلے میں حجت نہیں ہوتا، پھر بعض حضرات اس کی یہ توجیہ کرتے ہیں کہ ”نی نفسہ“ کا محاورہ انفرادیت پر بھی محمول ہوتا ہے۔ لہذا اس توجیہ کے مطابق اس کے معنی یہ ہوئے کہ جب تم اکیلے ہو تو فاتحہ پڑھا کرو۔

حنفیہ کی چوتھی دلیل حضرت جابر بن عبد اللہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہو اس کے لیے امام کی قرأت ہی کافی ہے“۔ یہ حدیث صحیح بھی ہے اور صریح بھی کیوں کہ اس میں یہ قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ امام کی قرأت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ مزید یہ کہ اس میں فاتحہ اور سورت کی قرأت میں کوئی تفریق نہیں کی گئی۔ لہذا جس طرح سورۃ کی قرأت کافی ہے اسی طرح سورۃ فاتحہ کی قرأت بھی کافی ہے۔ حاصل یہ کہ مقتدی کا قرأت کو ترک کرنا اس حدیث کے ضمن میں نہیں آتا کہ جو شخص فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ پھر صحابہ کرام کا مسلک اور معمول بھی حنفیہ ہی کے مسلک کی تائید کرتا ہے۔ چنانچہ علامہ عینی ”عمدہ القاری“ میں تقریباً اسی صحابہ کرام کا امام کی اقتداء میں قرأت نہ کرنے کا مسلک نقل کرتے ہیں جن میں خلفائے اربعہ حضرت عبد اللہ بن مسعود، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زید بن ثابت، حضرت جابر، حضرت عبد اللہ بن عمر اور حضرت عبد اللہ بن عباس بھی شامل ہیں۔ یہ تمام آثار مع اسانید مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ اور الطحاوی میں مذکور ہیں۔ (۱)

جہاں تک امام شافعی اور امام کے پیچھے قرأت کرنے والوں کے استدلال کا تعلق ہے ان کی سب سے قابل اعتماد دلیل حضرت عبادہ بن صامت کی حدیث نمبر ۲۷۲ ہے، یہ حدیث اگرچہ ان حضرات کے مسلک پر صراحت کے ساتھ دلالت کرتی ہے۔ لیکن یہ حدیث صحیح نہیں کیوں کہ امام احمد، حافظ ابن عبد البر اور بعض دوسرے محدثین اسے معلول کہتے ہیں۔ ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ حدیث تین طریقوں سے مروی ہے۔ کسی راوی نے وہم اور غلطی سے پہلی دو روایتوں کو غلط ملط کر کے یہ تیسری روایت بنا دی ہے جو امام ترمذی نے ذکر کی ہے۔ علماء محدثین اس وہم کی ذمہ داری محمول پڑا لیتے ہیں۔ اس وہم کی پوری تفصیل علامہ ابن تیمیہ نے فتاویٰ میں ذکر کی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب (مترجم)

باب ۲۲۹۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا
۲۷۴۔ عبد اللہ بن حسن اپنی والدہ فاطمہ بنت حسین سے اور وہ اپنی دادی فاطمہ کبریٰ رضی اللہ عنہا سے نقل کرتے ہیں کہ فاطمہ کبریٰ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ جب مسجد میں داخل ہوتے تو درود شریف پڑھتے اور یہ دعا پڑھتے ”رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک“ (ترجمہ: اے اللہ میری مغفرت فرما اور میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے) اور جب مسجد سے نکلتے تو بھی درود شریف پڑھتے اور فرماتے ”رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلیک“ (ترجمہ: اے اللہ میری مغفرت فرما اور میرے لئے اپنے

باب ۲۲۹۔ مَا جَاءَ مَا يَقُولُ عِنْدَ دُخُولِهِ الْمَسْجِدِ
۲۷۴۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ نَا اسْمَعِيلَ بْنَ اِبْرَاهِيمَ عَنْ كَيْسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ عَنْ حَدِيثِهَا فَاطِمَةَ الْكُبْرَى قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ صَلَّى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ وَقَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ صَلَّى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ وَقَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ

(۱) یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ احناف کے مسلک پر دلالت کرنے والی احادیث و آثار صحابہ کا احصاء یہاں ممکن نہیں۔ لہذا اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے چند دلائل پیش کیے گئے ہیں۔

فضل کے دروازے کھول دے)۔

علی بن حجر کہتے ہیں کہ اسماعیل بن ابراہیم نے مجھ سے کہا کہ پھر میں نے مکہ میں عبداللہ بن حسن سے ملاقات کی اور اس حدیث کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا: جب آپ داخل ہوتے تو فرماتے ”رب افتح لی ابواب رحمتک“ اور جب نکلے تو فرماتے ”رب افتح لی ابواب فضلك“ اس باب میں ابو حمید، ابواسید اور ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں فاطمہؓ کی حدیث حسن ہے اس کی سند متصل نہیں کیوں کہ فاطمہ بنت حسینؓ، فاطمہؓ کبریٰ کو نہ پاسکیں۔ حضرت فاطمہؓ، نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد صرف چند ماہ زندہ رہیں۔

باب ۲۳۰۔ مَا جَاءَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكِعْ رُكْعَتَيْنِ
باب ۲۳۰۔ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو دو رکعت نماز پڑھے۔

۲۷۵۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ
۲۷۵۔ حضرت ابوقادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھے۔
عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الزَّبِيرِ عَنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ
الزُّرْقِيِّ عَنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكِعْ رُكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ

اس باب میں جابرؓ، ابوامامہؓ، ابو ہریرہؓ، ابو ذرؓ اور کعب بن مالکؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابوقادہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ محمد بن عجلان اور کئی راویوں نے اس حدیث کو عامر بن عبداللہ بن زبیرؓ سے مالک بن انسؓ کی حدیث کے مثل روایت کیا ہے۔ سہیل بن ابی صالحؓ اس حدیث کو عامر بن عبداللہ بن زبیرؓ سے وہ عمرو بن سلیمؓ سے وہ جابر بن عبداللہؓ سے اور وہ نبی اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ حدیث غیر محفوظ ہے صحیح حدیث ابوقادہؓ کی ہے اور اسی پر ہمارے اصحاب کا عمل ہے کہ جو شخص مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھنا اس کے لیے مستحب ہے بشرطیکہ اسے کوئی عذر نہ ہو۔ علی بن مدینی کہتے ہیں سہیل بن ابی صالحؓ کی حدیث غلط ہے۔ مجھے اس کی خبر اسحاق بن ابراہیم نے علی بن مدینی کے حوالے سے دی ہے۔

باب ۲۳۱۔ مَا جَاءَ أَنْ الْأَرْضَ كُلَّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبِرَةَ وَالْحَمَامَ
باب ۲۳۱۔ مقبرے اور حمام کے علاوہ پوری زمین مسجد ہے۔

۲۷۶۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَمْرٍو أَبُو عَمَّارِ الْحُسَيْنِ بْنِ
۲۷۶۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مقبرے اور حمام کے علاوہ پوری زمین مسجد ہے۔
حَرِيثِ قَالَا نَا عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ عَمْرِو بْنِ
يَحْيَى عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبِرَةَ وَالْحَمَامَ

اس باب میں علیؓ، عبداللہ بن عمروؓ، ابو ہریرہؓ، جابرؓ، ابن عباسؓ، ابوامامہؓ اور ابو ذرؓ سے بھی روایت ہے۔ یہ حضرات روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: میرے لیے پوری زمین مسجد اور پاک کرنے والی کردی گئی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: حضرت ابوسعیدؓ کی حدیث عبدالعزیز بن محمد سے دو طریق سے مروی ہے۔ بعض نے اس میں ابوسعیدؓ کا ذکر کیا ہے اور بعض نے نہیں۔ اس حدیث میں اضطراب ہے۔

سفیان ثوری، عمرو بن یحییٰ سے وہ اپنے والد سے وہ ابوسعید سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ محمد بن اسحاق سے عمرو بن یحییٰ سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ جب کہ ان کی اکثر روایات ابوسعید کے واسطے سے منقول ہیں۔ لیکن انہوں نے ابوسعید کا ذکر نہیں کیا گویا کہ ثوری کی عمرو بن یحییٰ سے، ان کی اپنے والد سے اور ان کی آنحضرت ﷺ سے مروی حدیث اُثبت اور اسح ہے۔

باب ۲۳۲۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ بُنَيَانَ الْمَسْجِدِ

باب ۲۳۲۔ مسجد بنانے کی فضیلت۔

۲۷۷ - حَدَّثَنَا بِنْدَارٌ نَا ابُو بَكْرٍ الْحَنْفِيُّ نَا

عبد الحميد بن جعفر عن ابيه عن محمود بن لبيد

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَنَى لِي مَسْجِدًا بَنَى

اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ

۲۷۷۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ

ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اللہ کے لئے مسجد بنائے گا اللہ

تعالیٰ اس کے لئے جنت میں اسی کی مثل گھر بنا میں گے۔

اس باب میں ابو بکر، عمر، علی، عبد اللہ بن عمرو، انس، ابن عباس، عائشہ، ام حبیبہ، ابو ذر، عمرو بن عبسہ، واثلہ بن اسحق، ابو ہریرہ اور جابر بن عبد اللہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث عثمان حسن صحیح ہے۔ آپ ﷺ سے یہ بھی مروی ہے کہ فرمایا: جس نے اللہ کے لیے چھوٹی یا بڑی مسجد بنائی اللہ نے اس کے لیے جنت میں گھر بنایا۔ یہ حدیث حمید بن سعید، نوح بن قیس سے وہ عبد الرحمن مولیٰ قیس سے وہ زیاد نمیری سے وہ انس سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ محمود بن لبيد نے رسول اللہ ﷺ کو پایا اور محمود بن ربيع نے آپ ﷺ کو دیکھا ہے۔ یہ مدینہ کے دو چھوٹے بچے ہیں۔

باب ۲۳۳۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَتَّخِذَ عَلَى الْقَبْرِ

باب ۲۳۳۔ قبر کے پاس مسجد بنانے کی کراہت۔

مَسْجِدًا

۲۷۸ - حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا ابُو الْوَارِثِ بِن سَعِيْدِ عَن

محمد بن حجاج عن ابي صالح عن ابن عباس

قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ

وَالسُّرُجَ

۲۷۸۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے

قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں، قبروں پر مسجدیں بنانے والوں

اور چراغ جلانے والوں پر لعنت بھیجی ہے۔

اس باب میں حضرت عائشہ اور حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی حدیث ابن عباس کو حسن صحیح کہتے ہیں۔

باب ۲۳۴۔ مَا جَاءَ فِي النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ

باب ۲۳۴۔ مسجد میں سونا

۲۷۹ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنِ غِبْلَانَ نَا ابُو الرِّزَاقِ نَا

معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال كنا

ننام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

في المسجد ونحن شباب

۲۷۹۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے

زمانے میں مسجد میں سو جایا کرتے تھے۔ جب کہ ہم جوان تھے۔

امام ترمذی کہتے ہیں حدیث ابن عمرؓ حسن صحیح ہے۔ بعض اہل علم نے مسجد میں سونے کی اجازت دی ہے۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں: مسجدوں کو سونے اور قیلولہ کرنے کی جگہ نہ بناؤ۔ اہل علم کی ایک جماعت ابن عباسؓ کے قول پر عمل پیرا ہے

باب ۲۳۵۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَإِنْشَادِ الصَّلَاةِ وَالتَّعْرِفِي الْمَسْجِدِ

باب ۲۳۵۔ مسجد میں خرید و فروخت کرنا، گم شدہ چیزوں کے متعلق پوچھ گچھ کرنا اور شعر کہنا مکروہ ہے۔

۲۸۰۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَنَاشُدِ الْأَشْعَارِ فِي الْمَسْجِدِ وَعَنِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِيهِ وَ أَنْ يَتَحَلَّقَ النَّاسُ فِيهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ

۲۸۰۔ عمرو بن شعيب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مسجد میں شعر کہنے، خرید و فروخت کرنے اور جمعہ کے دن نماز سے پہلے حلقہ بنا کر بیٹھنے سے منع فرماتے تھے۔

اس باب میں بریدہ، جابرؓ اور انسؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں عبد اللہ بن عمرو بن عاص کی حدیث حسن ہے اور عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد اللہ بن عمرو بن عاصؓ ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں میں نے احمد اور اسحاق وغیرہ کو اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے سنا۔ اور شعيب بن محمد کو عبد اللہ بن عمرو سے سماع ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ جس نے عمرو بن شعيب میں کلام کیا ہے اس نے اس لیے انہیں ضعیف کہا ہے کہ وہ اپنے دادا کی کتاب سے نقل کرتے تھے گویا کہ انہوں نے یہ احادیث اپنے دادا سے نہیں سنیں۔ علی بن عبد اللہ، یحییٰ بن سعید کے حوالے سے کہتے ہیں کہ عمرو بن شعيب کی حدیث ہمارے نزدیک ضعیف ہے۔ علماء کی ایک جماعت مسجد میں خرید و فروخت کرنے کو مکروہ کہتی ہے۔ یہ احمد اور اسحاق کا قول ہے۔ بعض تابعین اس کی اجازت دیتے ہیں حضور اکرم ﷺ سے مروی کئی احادیث سے مسجد میں اشعار کہنے کی اجازت ثابت ہے۔

باب ۲۳۶۔ مَا جَاءَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَيْهِ

باب ۲۳۶۔ وہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی۔

التَّقْوَى

۲۸۱۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا حَاتِمِ بْنِ اسْمَعِيلَ عَنِ ابْنِ بِنِ ابِي يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْخُدْرِيِّ قَالَ امْتَرَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي خُدْرَةَ وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَيْهِ التَّقْوَى فَقَالَ الْخُدْرِيُّ هُوَ مَسْجِدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْآخَرُ هُوَ مَسْجِدُ قَبَا فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ هُوَ هَذَا يَعْنِي مَسْجِدَهُ وَفِي ذَلِكَ خَيْرٌ كَثِيرٌ

۲۸۱۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنو خدرہ، اور بنو عمرو کے دو آدمیوں میں اس بات پر ٹکرا رہو گی کہ وہ کون سی مسجد ہے جو تقویٰ پر بنی ہے۔ خدری نے کہا وہ رسول اللہ ﷺ کی مسجد ہے اور دوسرے نے کہا: وہ مسجد قباء ہے۔ چنانچہ وہ دونوں حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ یہی ہے یعنی آپ ﷺ کی مسجد۔ اور اس میں بہت خیر ہے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو بکر، علی ابن عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: میں نے یحییٰ بن سعید سے محمد بن ابی یحییٰ سلمی کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا: ان میں کوئی حرج نہیں اور ان کے بھائی انیس بن ابی یحییٰ ان سے اثبت ہیں۔

باب ۲۳۷۔ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ

۲۸۲۔ حدثنا محمد بن العلاء ابو كريب وسفيان بن وكيع قالنا نا ابو اسامة عن عبد الحميد بن جعفر نا ابي الأبرد مولى بنى حطمة انه سمع أسيد ابن ظهير الأنصاري وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الصلوة في مسجد قباء كعمره

باب ۲۳۷۔ مسجد قباء میں نماز پڑھنا

۲۸۲۔ ابو ابرد مولیٰ بنی حطمہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسید بن ظہیر انصاری رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مسجد قباء میں نماز پڑھنا اس طرح ہے کہ جیسے کسی نے عمرہ ادا کیا۔

اس باب میں سہیل بن حنیف سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث اسید حسن غریب ہے اور ہمیں علم نہیں کہ اسید بن ظہیر کی اس کے علاوہ کوئی حدیث صحیح ہو اور اسے بھی ابو اسامہ کی عبد الحمید بن جعفر سے روایت کے علاوہ نہیں جانتے۔ ابو ابرد کا نام زیاد مدنی ہے۔

باب ۲۳۸۔ مَا جَاءَ فِي آيِ الْمَسَاجِدِ أَفْضَلُ

۲۸۳۔ حدثنا الانصاري نامعن نامالك ح وثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن رباح عن ابي عبيد الله بن ابي عبد الله الأغر عن ابي عبد الله الأغر عن ابي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال صلوة في مسجدى هذا خير من ألف صلوة سواه إلا المسجد الحرام

باب ۲۳۸۔ مساجد کے درمیان فضیلت۔

۲۸۳۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: میری اس مسجد میں نماز پڑھنا کسی اور مسجد میں نماز پڑھنے سے ایک ہزار درجے بہتر ہے۔ سوائے مسجد حرام کے۔

امام ترمذی کہتے ہیں: تہذیب نے اپنی حدیث میں عبد اللہ کے بجائے زید بن رباح کا ذکر کیا ہے وہ ابو عبد اللہ اغر سے روایت کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابو عبد اللہ اغر کا نام سلمان۔ یہ حدیث نبی کریم ﷺ سے بواسطہ ابو ہریرہ کئی سندوں سے مروی ہے۔ اس باب میں علیؓ، میمونہؓ، ابوسعیدؓ، جبیر بن مطعمؓ، عبد اللہ بن زبیرؓ، ابن عمرؓ اور ابو زررہؓ سے بھی روایت ہے۔

۲۸۴۔ حدثنا ابن ابي عمر نا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن قزعة من ابي سعيد بن الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد الأقصى امام ترمذی اسے حسن صحیح کہتے ہیں۔

۲۸۴۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تین مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کے لئے (زیارت) کی غرض سے) سفر نہ کیا جائے۔ مسجد حرام (بیت اللہ) میری مسجد (مسجد نبوی ﷺ) اور مسجد اقصیٰ۔

باب ۲۳۹۔ مسجد کی طرف جانے سے متعلق

باب ۲۳۹۔ مَا جَاءَ فِي الْمَشْيِ إِلَى الْمَسْجِدِ

۲۸۵۔ حدثنا محمد بن عبد الملك ابن

۲۸۵۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: جب جماعت کھڑی ہو جائے تو (مسجد کی طرف) دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ سکون کے ساتھ آؤ پس (جماعت میں) جو ملے پڑھو۔ اور جو نکل جائے اسے پورا کرو۔

ابی الشوارب نایزید بن زریع نا معمر عن الزهري
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا
تَأْتَوْهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَلَكِنْ اتَّوْهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمْ
السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأْتُوا

اس باب میں ابوقادہؓ، ابی بن کعبؓ ابوسعیدؓ، زید بن ثابتؓ، جابرؓ اور انسؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں مسجد کی طرف جانے میں علماء کا اختلاف ہے بعض حضرات کہتے ہیں کہ اگر تکبیر اولیٰ کے فوت ہو جانے کا خوف ہو تو جلدی چلے بلکہ بعض کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ دوڑتے ہوئے جاتے تھے جب کہ بعض حضرات جلدی کرنے کو مکروہ کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک آہستہ اور وقار کے ساتھ جانا بہتر ہے۔ یہ احمد اور اسحاق کا قول ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس مسئلے میں حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث پر عمل کیا جائے۔ اسحاق کا کہنا ہے کہ اگر تکبیر اولیٰ کے فوت ہو جانے کا خوف ہو تو تیز چلنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ حسن بن علی خلال، عبدالرزاق سے وہ معمر سے وہ زہری سے وہ سعید بن مسیب سے وہ ابو ہریرہؓ سے اور وہ نبی اکرم ﷺ سے ابوسعیدؓ کی حدیث کے ہم معنی حدیث نقل کرتے ہیں۔ اسی طرح عبدالرزاق، سعید بن مسیب سے اور وہ ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں۔ ابن ابی عمر بھی سفیان سے وہ زہری سے وہ سعید بن مسیب سے وہ ابو ہریرہؓ سے اور وہ نبی اکرم ﷺ سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔

باب ۲۴۰۔ نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھنے کی فضیلت۔

باب ۲۴۰۔ مَا جَاءَ فِي الْقُعُودِ فِي الْمَسْجِدِ وَانْتِظَارِ
الصَّلَاةِ مِنَ الْفَضْلِ

۲۸۶۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص جب تک کسی نماز کا انتظار کرتا ہے گویا کہ وہ اس وقت تک نماز ہی میں (مشغول) ہے اور فرشتے اس کے لئے اس وقت تک یہ دعا کرتے رہتے ہیں جب تک اسے حدیث نہیں ہو جاتا ”اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ“ (اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اس پر رحم فرما) اس پر حضرت موت کے ایک شخص نے عرض کیا اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کیا ہے؟ پس انہوں نے فرمایا ہوا کا اخراج ہے خواہ آواز سے ہو یا بغیر آواز۔

۲۸۶۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ نَا
مَعْمَرٍ عَنْ هَمَامِ بْنِ مُنْبِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ
فِي صَلَاةٍ مَا دَامَ يَنْتَظَرُهَا وَلَا تَزَالُ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي
عَلَيْ أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي الْمَسْجِدِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ
ارْحَمْهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضَرَ مَوْتٍ وَمَا
الْحَدِيثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ فَسَاءَ أَوْضُرَاطُ

اس باب میں حضرت علیؓ، ابوسعیدؓ، انسؓ، عبداللہ بن مسعودؓ اور سہل بن سعدؓ سے بھی روایت ہے۔

توضیح: یہ فضیلت ہر قسم کے نماز کے انتظار کے لیے ہے خواہ وہ انتظار مسجد کے اندر ہو یا باہر (مترجم)

باب ۲۴۱۔ چٹائی پر نماز پڑھنا۔ (۱)

باب ۲۴۱۔ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

(۱) یہاں امام ترمذی نے تین باب مسلسل قائم کئے ہیں چنانچہ ”خمرہ“ اس چٹائی کو کہتے ہیں جس کا تانا کھجور کا ہو۔ ”ھیسر“ اس چٹائی کو کہتے ہیں جس کا تانا اور بانا دونوں کھجور کے ہوں۔ جب کہ کچھ حضرات یہ بھی کہتے ہیں ”خمرہ“ چھوٹی چٹائی اور ”ھیسر“ بڑی چٹائی کو کہتے ہیں۔ اور ”بساط“ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو زمین پر بچھائی جائے۔ (مترجم)

۲۸۷ - حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سَمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ

۲۸۷۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ چٹائی پر نماز پڑھا کرتے تھے۔

اس باب میں ام حبیبہ، ابن عمر، ام سلمہ، عائشہ، میمونہ اور ام کلثوم بنت ابوسلمہ بن عبد اللہ اسد سے بھی روایت ہے۔ ان کو نبی کریم ﷺ سے سماع نہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن عباس کی حدیث حسن صحیح ہے۔ یہ بعض اہل علم کا قول ہے۔ احمد اور اسحاق کہتے ہیں: حضور اکرم ﷺ کا چٹائی پر نماز پڑھنا ثابت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ”خمرہ“ چھوٹی چٹائی کو کہتے ہیں۔

باب ۲۴۲۔ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ

۲۸۸ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عِيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِي سَفِيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ اَبِي سَعِيدٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى حَصِيرٍ

باب ۲۴۲۔ بڑی چٹائی پر نماز پڑھنا

۲۸۸۔ حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے بڑی چٹائی پر نماز پڑھی۔

اس باب میں انس اور مغیرہ بن شعبہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابوسعید کی حدیث حسن ہے اور اس پر اکثر اہل علم کا عمل ہے جب کہ علماء کی ایک جماعت زمین پر نماز پڑھنے کو مستحب کہتی ہے۔

باب ۲۴۳۔ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْبَسِطِ

۲۸۹ - حَدَّثَنَا هِنْدَانَا وَكَيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ اَبِي التَّيْحَانِ الضُّبَعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُخَالِطُنَا حَتَّى كَانَ يَقُوْلُ لِاَخِ لِي صَغِيْرًا اَبَا عَمِيْرٍ مَا فَعَلَ النَّعِيْرُ قَالَ وَنُضِحَ بِسَاطٍ لَنَا فَصَلَّى عَلَيْهِ

باب ۲۴۳۔ بساط پر نماز پڑھنا

۲۸۹۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہم سے خوش طبعی کرتے یہاں تک کہ میرے چھوٹے بھائی سے فرماتے: اے ابوعمیر نے کیا کیا؟ (۲) پھر ہمارا بچھونا دھویا گیا اور آپ ﷺ نے اس پر نماز پڑھی۔

اس باب میں ابن عباس سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں انس کی حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر اکثر صحابہ اور بعد کے اہل علم کا عمل ہے کہ قالین یا چٹائی وغیرہ پر نماز پڑھنے میں کوئی مضائقہ نہیں یہ احمد اور اسحاق کا قول ہے۔ ابوتیاح کا نام یزید بن حمید ہے۔

باب ۲۴۴۔ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي الْحَيْطَانِ

۲۹۰ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ ثَنَا اَبُو دَاوُدَ نَا الْحَسَنُ بْنُ اَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَبِي الزَّبِيْرِ عَنِ اَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَحِبُّ الصَّلَاةَ فِي الْحَيْطَانِ قَالَ اَبُو دَاوُدَ يَعْنِي الْبَسَاتِيْنَ

باب ۲۴۴۔ باغوں میں نماز پڑھنا

۲۹۰۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ باغ میں نماز پڑھنا پسند فرماتے تھے۔ ابوداؤد کہتے ہیں: حیطان کے معنی باغ کے ہیں۔

(۱) ”غیر“ تغیر کی تفسیر ہے۔ یہ چڑیا کی طرح چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے اس کی چونچ سرخ ہوتی ہے۔ (مترجم)

امام ترمذی کہتے ہیں معاذ کی حدیث غریب ہے ہم اسے حسن بن ابو جعفر کی روایت کے علاوہ کسی اور روایت سے نہیں جانتے۔ حسن بن ابو جعفر کو یحییٰ بن سعید قطان وغیرہ نے ضعیف کہا ہے۔ ابو زبیر کا نام محمد بن مسلم بن تدرس ہے اور ابو طفیل کا نام عامر بن اثله ہے۔

باب ۲۴۵۔ مَا جَاءَ فِي سُتْرَةِ الْمُصَلِّي

باب ۲۳۵۔ نمازی کے سترے سے متعلق

۲۹۱۔ حضرت موسیٰ بن طلحہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تم میں سے کوئی اپنے سامنے کجاوے کی کھچلی لکڑی کے برابر کوئی چیز رکھ لے تو نماز پڑھے اور کسی کے اس کے آگے سے گزرنے کی پرواہ نہ کرے۔

۲۹۱۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ وَهْنَادٌ قَالَا نَا أَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سَمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مَوْخَرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ وَلَا يُبَالِي مَنْ مَرَّ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ

اس باب میں ابو ہریرہؓ، سہل بن ابی حمزہؓ، ابن عمرؓ، سہرہ بن معبدؓ، ابو جحیفہؓ اور عائشہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث طلحہ حسن صحیح ہے اور اہل علم اسی پر عمل پیرا ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ امام کا سترہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کے لیے کافی ہے۔

باب ۲۴۶۔ مَا جَاءَ فِي كِرَاهِيَةِ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي

باب ۲۳۶۔ نمازی کے آگے سے گزرنے کا مکروہ ہے۔

۲۹۲۔ بسر بن سعید کہتے ہیں کہ زید بن خالد جہنی نے (کسی شخص کو) ابو جہیم کے پاس بھیجا تا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والے کا حکم معلوم کر سکیں۔ ابو جہیم نے کہا: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا یہ جان لے کہ اس فعل پر کیا عذاب ہے تو وہ چالیس سال تک کھڑا رہنے کو نمازی کے سامنے سے گزرنے پر ترجیح دے۔ ابو النضر کہتے ہیں: مجھے معلوم نہیں چالیس دن کہا، مہینہ کہا یا چالیس سال۔

۲۹۲۔ حَدَّثَنَا الْانصَارِيُّ نَا مَعْنَا نَا مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ. اَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ ارْسَلَ اِلَى اَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ اَنْ يَقِفَ اَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ اَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ أَبُو النَّضْرِ لَا اَدْرِي قَالَ اَرْبَعِينَ يَوْمًا اَوْ اَرْبَعِينَ شَهْرًا اَوْ اَرْبَعِينَ سَنَةً

اس باب میں ابو سعید خدریؓ، ابو ہریرہؓ، ابن عمرؓ اور عبد اللہ بن عمروؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو جہیم کی حدیث حسن صحیح ہے۔ آنحضرت ﷺ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: کسی شخص کے لیے سو سال تک کھڑے ہو کر انتظار کرنا اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے بھائی کے نماز پڑھتے ہوئے سامنے سے گزرے۔ اہل علم کا اس پر عمل ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا مکروہ ہے لیکن اس سے نماز نہیں ٹوٹی۔

باب ۲۴۷۔ مَا جَاءَ أَنَّهُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ

باب ۲۳۷۔ نماز کسی چیز کے گزرنے سے نہیں ٹوٹی۔

۲۹۳۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں فضل کے ساتھ گدھی پر سوار تھا، ہم لوگ منیٰ میں پہنچے تو آنحضرت ﷺ اپنے صحابہ رضی

۲۹۳۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِي الشَّوَارِبِ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ نَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ

اللہ عنہم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے ہم اترے اور صف میں مل گئے۔
گدھی ان کے (نمازیوں کے) آگے پھرنے لگی اور اس سے نماز نہیں
ٹوٹی۔

عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
كُنْتُ رَدِيفَ الْفَضْلِ عَلَى اتَانِ فَجِئْنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ يَمْنَى قَالَ
فَتَلْنَا عَنْهَا فَوَصَلْنَا الصَّفَّ فَمَرَّتْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَلَمْ
تَقْطَعْ صَلَوَاتَهُمْ

اس باب میں عائشہؓ، فضل بن عباسؓ اور ابن عمرؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن عباسؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ صحابہ
تابعین اور بعد کے اکثر علماء کا اسی پر عمل ہے یہ حضرات کہتے ہیں کہ نماز کسی چیز سے نہیں ٹوٹی۔ یہ سفیان ثوری اور امام شافعی کا بھی قول
ہے۔

باب ۲۴۸۔ نماز کتے، گدھے اور عورت کے گزرنے کے علاوہ کسی چیز
سے نہیں ٹوٹی۔

باب ۲۴۸۔ مَا جَاءَ أَنَّهُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا الْكَلْبُ
وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ

۲۹۴۔ حضرت عبد اللہ بن صامت کہتے ہیں میں نے ابو ذر سے سنا کہ
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی شخص نماز پڑھے اور اس کے سامنے
کجاوے کی بچھلی لکڑی کے برابر یا فرمایا، درمیانی کے برابر کوئی چیز نہ ہو
تو اس کی نماز کالے کتے، گدھے یا عورت کے گزرنے سے ٹوٹ جائے
گی میں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا: کالے اور سفید یا سرخ کی کیا
قید ہے تو فرمایا: بھائی تم نے مجھ پر ایسا ہی سوال کیا جیسا کہ میں نے
رسول اللہ ﷺ سے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کالا کتا شیطان ہوتا ہے۔

۲۹۴۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنَبَلٍ عَنْ يُونُسَ
وَمَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ حَمِيدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بِْنِ الصَّامِتِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ
وَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ كَأَحْجَرَةِ الرَّحْلِ أَوْ كَوَاسِطَةِ الرَّحْلِ
قَطَعَ صَلَوَاتَهُ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ فَقُلْتُ
لِأَبِي ذَرٍّ فَمَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَحْمَرِ وَمِنَ الْأَبْيَضِ
فَقَالَ يَا أَحِبُّي سَأَلْتَنِي كَمَا سَأَلْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ

اس باب میں ابو سعیدؓ، حکم غفاریؓ، ابو ہریرہؓ اور انسؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو ذرؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض
علماء اسی پر عمل کرتے ہیں ان کا کہنا ہے: عورت، گدھے یا کالے کتے کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ امام احمد کہتے ہیں۔ مجھے اس
میں کوئی شک نہیں کہ کالے کتے کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے جب کہ گدھے اور عورت کے بارے میں میرے ہاں کچھ تفصیل
ہے۔ اسحاق کہتے ہیں کہ سوائے کالے کتے کے کسی چیز سے نماز نہیں ٹوٹی۔

توضیح: جمہور اس مسلک پر عمل پیرا ہیں کہ نماز کسی چیز کے گزرنے سے نہیں ٹوٹی ان کا استدلال حدیث نمبر ۲۹۳ سے ہے۔ ان کا کہنا
ہے کہ حدیث نمبر ۲۹۳ میں قطع سے مراد نماز کا فاسد ہونا نہیں بلکہ خشوع و خضوع کا ختم ہونا ہے۔ کیوں کہ ان تینوں چیزوں میں شیطانی
اثرات کا دخل ہے۔ (مترجم)

باب ۲۴۹۔ ایک کپڑے میں نماز پڑھنا
۲۹۵۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول
ﷺ

باب ۲۴۹۔ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ
۲۹۵۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا اللَّيْثِ عَنْ هِشَامِ هُو ابْنِ عُرْوَةَ

عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ مُشْتَمِلًا فِي تَوْبٍ وَوَاجِدٍ

ﷺ کو ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔

اس باب میں ابو ہریرہؓ، جابرؓ، سلمہ بن اکوعؓ، انسؓ، عمرو بن اسیدؓ، ابوسعیدؓ، کیسانؓ، ابن عباسؓ، عائشہؓ، ام ہانیؓ، عمار بن یاسرؓ، طلق بن علیؓ، اور عبادہ بن صامتؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں عمر بن سلمہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر صحابہ، تابعین اور ان کے بعد کے اکثر علماء کا عمل ہے کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ جب کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ دو کپڑوں میں نماز پڑھے۔

باب ۲۵۰۔ فِي ابْتِدَاءِ الْقِبْلَةِ

باب ۲۵۰۔ قبلے کی ابتداء کے متعلق

۲۹۶۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ نَا وَكَيْعُ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبُرَّاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ سِتَّةَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ أَنْ يُوجَّهَ إِلَى الْكُعْبَةِ فَاتَّزَلَ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّينَكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَوَجَّهَ إِلَى الْكُعْبَةِ وَكَانَ يُحِبُّ ذَلِكَ فَصَلَّى رَجُلٌ مَعَهُ الْعَصْرُ ثُمَّ مَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ نَحْوَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ فَقَالَ هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَآلِهِ قَدْ وَجَّهَ إِلَى الْكُعْبَةِ قَالَ فَانْحَرِفُوا وَهُمْ رُكُوعٌ

۲۹۶۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ جب مدینہ تشریف لائے تو سولہ یا سترہ مہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے، ان کی چاہت یہ تھی کہ کعبہ کی طرف پڑھیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ”قد نولمے تعلق سے شطر المسجد الحرام“ تک۔ لہذا آپ ﷺ نے کعبہ کی طرف رخ کر لیا جسے وہ پسند کرتے تھے۔ ایک شخص نے آپ ﷺ کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی اور پھر انصاری ایک جماعت کے پاس سے گزارا جو رکوع میں تھے، ان کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا تو اس نے کہا: کہ وہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی اور آپ ﷺ نے کعبہ کی طرف منہ پھیر لیا۔ راوی کہتے ہیں اس پر ان لوگوں نے رکوع ہی میں اپنے رخ پھیر لئے۔

آیت کے معنی یہ ہیں (ہم آپ ﷺ کے منہ کا آسمان کی طرف بار بار اٹھتا دیکھ رہے ہیں اس لیے ہم آپ ﷺ کو اسی قبلے کی طرف متوجہ کر دیں گے جس میں آپ کی مرضی ہے۔ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔

اس باب میں ابن عمرؓ، ابن عباسؓ، عمارہ بن اوسؓ، عمرو بن عوفؓ، حزقی اور انسؓ سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں براءؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اسے سفیان ثوریؓ بھی ابواسحاقؓ سے روایت کرتے ہیں، ہناد، وکیعؓ سے وہ سفیان سے اور وہ عبداللہ بن دینار سے نقل کرتے ہیں کہ ابن عمرؓ نے فرمایا: وہ لوگ فجر کی نماز کے رکوع میں تھے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔

باب ۲۵۱۔ مَا جَاءَ أَنْ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةً

باب ۲۵۱۔ مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے۔

۲۹۷۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مَعْشَرَ نَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

۲۹۷۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مشرق اور مغرب کے درمیان کا پورا حصہ قبلہ ہے۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ

یعنی بن موسیٰ بھی محمد بن ابو معشر سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث انہی سے کئی طرق سے مروی ہے۔ بعض علماء ابو معشر کے حافظے میں کلام کرتے ہیں۔ ان کا نام کحج مولیٰ بنی ہاشم ہے۔ امام بخاری ان سے روایت نہیں کرتے جب کہ کچھ حضرات روایت کرتے ہیں۔ بخاری کے نزدیک عبد اللہ بن جعفر مخزومی کی عثمان بن محمد احنسی سے مروی حدیث ابو معشر کی حدیث سے اقدس اور اصح ہے۔ عثمان سعید مقبری سے اور وہ ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں۔ حسن بن بکر مروزی، معلیٰ بن منصور سے وہ عبد اللہ بن جعفر مخزومی سے وہ عثمان بن محمد احنسی سے وہ سعید مقبری سے اور وہ ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے۔ عبد اللہ بن جعفر مخزومی اس لیے کہا گیا کہ یہ مسور بن مخرمہ کی اولاد میں سے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور کئی صحابہ سے مروی ہے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے۔ ان میں عمر بن خطابؓ، علی بن ابی طالبؓ اور ابن عباسؓ شامل ہیں۔ ابن عمر فرماتے ہیں اگر مغرب تمہارے دائیں ہاتھ اور مشرق بائیں ہاتھ کی طرف ہو تو اگر تم قبلہ کی طرف منہ کرو تو درمیان میں قبلہ ہے۔ ابن مبارک کہتے ہیں۔ مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ کا حکم اہل مشرق کے لیے ہے۔ ان کے نزدیک اہل مرو کو بائیں طرف جھکتا چاہیے۔

توضیح: یہ حکم اہل مدینہ کے لیے ہے کیوں کہ وہاں سے قبلہ جنوب کی طرف ہے۔ (مترجم)

باب ۲۵۲۔ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ
فِي الْعَيْمِ
باب ۲۵۲۔ جو شخص اندھیرے میں قبلہ کی طرف منہ کیے بغیر نماز پڑھ لے۔

۲۹۸۔ حدثنا محمود بن غيلان نا وكيع نا اشعث بن سعيد السَّمَانِ عن عاصم بن عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فِي لَيْلَةٍ مُظْلَمَةٍ فَلَمْ نَدْرِ أَيْنَ الْقِبْلَةَ فَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ مِمَّا عَلَى حَيْالِهِ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَ فَأَيُّنَا تَوَلَّوْا فَنَّمَّ وَجْهَ اللَّهِ ط

۲۹۸۔ حضرت عبد اللہ بن عامر بن ربیعہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: ہم ایک مرتبہ حضور اکرم ﷺ کے ساتھ اندھیری رات میں سفر کر رہے تھے اور قبلہ کا رخ نہیں جانتے تھے چنانچہ ہر شخص نے اپنے سامنے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ جب صبح ہوئی تو ہم نے اس واقعے کا تذکرہ رسول اللہ ﷺ سے کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی "فاینما تولوا فثم وجه الله" (ترجمہ: تم جس طرف بھی منہ کرو اسی طرف اللہ کا چہرہ ہے)۔

امام ترمذی کہتے ہیں اس حدیث کی اسناد قوی نہیں کیوں کہ اسے ہم اشعث سمان کی روایت کے علاوہ نہیں جانتے۔ اور اشعث بن سعید البوریج سمان حدیث میں ضعیف ہیں۔ اکثر اہل علم کا یہی مسلک ہے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اندھیرے میں قبلہ رخ ہوئے بغیر نماز پڑھ لے، پھر نماز پڑھ لینے کے بعد اسے معلوم ہو کہ اس نے قبلہ رخ ہوئے بغیر نماز پڑھی ہے تو اس کی نماز جائز ہے یعنی ہو گئی یہ سفیان ثوری، ابن مبارک، احمد اور اسحاق کا قول ہے۔

(۱) یہ ایک شہر کا نام ہے۔ (مترجم)

باب ۲۵۳۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ مَا يُصَلِّي إِلَيْهِ وَفِيهِ

۲۹۹۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ حَدَّثَنَا الْمُقْرِيُّ قَالَ نَا يَحْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ عَنْ زَيْدِ بْنِ حَبِيبَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ فِي الْمَزْبَلَةِ وَالْمَجْزَرَةِ وَالْمَقْبَرَةِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَفِي الْحَمَامِ وَمَعَاظِنِ الْإِبِلِ وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ

باب ۲۵۳۔ جس چیز میں یا جس کی طرف نماز پڑھنا مکروہ ہے۔

۲۹۹۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے سات جگہوں پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا: بیت الخلاء میں، مذبح خانے میں، قبر پر، راستے میں، حمام میں، اونٹ باندھنے کی جگہ میں اور بیت اللہ کی چھت پر۔

علی بن حجر، سوید بن عبدالعزیز سے وہ زید بن جبیر سے وہ داؤد بن حصین سے وہ نافع سے اور وہ ابن عمر سے اسی حدیث کے مثل نقل کرتے ہیں اس باب میں ابو مرثد، جابر اور انس سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن عمر کی حدیث کی اسناد قوی نہیں۔ زید بن جبیر کے حفظ میں کلام ہے۔ لیث بن سعد بھی اس حدیث کو عبداللہ بن عمر عمری سے روایت کرتے ہیں، وہ نافع سے وہ ابن عمر سے اور وہ نبی اکرم ﷺ سے (اسی کے مثل) روایت کرتے ہیں۔

ابن عمر کی حدیث لیث بن سعد کی حدیث سے اشہد اور اصح ہے۔ عبداللہ بن عمر عمری کو محمد ثین حافظ نے کی وجہ سے ضعیف کہتے ہیں جن میں یحییٰ بن سعید قطان بھی شامل ہیں۔

باب ۲۵۴۔ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَاعْطَانِ الْإِبِلِ

۳۰۰۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ نَا يَحْيَىٰ بْنُ أَدَمَ عَنِ ابْنِ بَكْرِ بْنِ عِيَّاشٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي اعْطَانِ الْإِبِلِ

۳۰۰۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھو، اور اونٹوں کے باندھنے کی جگہ نہ پڑھو۔

ابو کریب، یحییٰ بن آدم سے وہ ابو بکر بن عیاش، وہ ابو حصین سے وہ ابوصالح سے، وہ ابو ہریرہ سے، اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ اس باب میں جابر بن سمرہ، ہزار، سمرہ بن معبد الجعفی، عبداللہ بن مغفل، ابن عمر اور انس سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں ابو ہریرہ کی حدیث حسن صحیح ہے اور ہمارے اصحاب اسی پر عمل کرتے ہیں۔ یہی قول احمد اور اسحاق کا بھی ہے۔ ابو حصین کی ابوصالح سے بواسطہ ابو ہریرہ، حضور اکرم ﷺ سے مروی حدیث غریب ہے اور اسے اسرائیل نے ابو حصین سے اور انہوں نے ابو ہریرہ سے موقوف روایت کیا ہے نہ کہ مرفوع۔ ابو حصین کا نام عثمان بن عاصم اسدی ہے۔ محمد بن بشر، یحییٰ بن سعید سے، وہ شعبہ سے وہ ابویتیاح صبحی سے اور وہ انس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھتے تھے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابویتیاح کا نام زید بن حمید ہے۔

باب ۲۵۵۔ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الدَّابَّةِ حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ بِهِ

باب ۲۵۵۔ سواری پر نماز پڑھنا باوجودیکہ وہ (قبلہ کی طرف نہ ہو) پھرتی رہے۔

۳۰۱۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے ایک کام کے لئے بھیجا جب میں واپس آیا تو آنحضرت ﷺ اپنی سواری پر مشرق کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، اور سجدے میں رکوع سے زیادہ جھکتے تھے۔

۳۰۱۔ حدثنا محمود بن غيلان نا وكيع ويحيى بن ادم قالنا نا سفيان عن ابي الزبير عن جابر قال بعتني النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حاجة فحنته وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع

اس باب میں انس، ابن عمرؓ اور سعیدؓ اور عامر بن ربیعہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں جابرؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور راویوں نے انہی سے نقل کی ہے۔ ہمیں اس مسئلے میں اختلاف کا علم نہیں۔ یہی علماء کا قول ہے کہ نفل نماز سواری پر پڑھ لینے میں کوئی مضائقہ نہیں خواہ وہ قبلہ رخ ہو یا نہ ہو۔

باب ۲۵۶۔ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ

باب ۲۵۶۔ سواری کی طرف نماز پڑھنا

۳۰۲۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے اونٹ یا فرمایا سواری کی طرف نماز پڑھی اور آپ ﷺ اپنی سواری پر بھی نماز پڑھا کرتے تھے خواہ اس کا رخ کسی بھی طرف ہو۔

۳۰۲۔ حدثنا سفيان بن وكيع نا ابو خالد الأحمر عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى إلى بعيره أو راحلته و كان يصلي على راحلته حيث ما توجهت به

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور یہی بعض علماء کا قول ہے کہ اونٹ کو سترہ بنا کر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔

باب ۲۵۷۔ نماز کے لئے جماعت کھڑی ہو جائے اور کھانا حاضر ہو تو کھانا پہلے کھایا جائے۔

باب ۲۵۷۔ مَا جَاءَ إِذَا حَضَرَ الْعِشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَأَبْدَأُوا بِالْعِشَاءِ

۳۰۳۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اس حدیث کو جانتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کھانا حاضر ہو اور جماعت کھڑی ہو جائے تو کھانا پہلے کھاو۔

۳۰۳۔ حدثنا قتيبة ناسفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فأبدأوا بالعشاء

اس باب میں عائشہؓ، ابن عمرؓ، سلمہ بن اکوعؓ اور ام سلمہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت انسؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض صحابہ جیسے کہ ابوبکرؓ، عمرؓ اور ابن عمرؓ کا اسی پر عمل ہے احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ یہ دونوں حضرات کہتے ہیں کہ کھانا پہلے کھائے اگرچہ جماعت نکل جائے۔ میں نے جارد کو کوچ کے حوالے سے اس حدیث کے متعلق کہتے ہوئے سنا کہ اگر کھانے کے خراب ہونے کا ڈر ہو تب کھانا پہلے کھائے۔ لیکن جس مسلک پر بعض صحابہ وغیرہ کا عمل ہے زیادہ پیروی کے لائق ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کا دل کسی چیز کی وجہ سے مشغول نہ ہو۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ہم نماز کے لیے اس وقت تک نہیں کھڑے ہوتے جب تک ہمارا دل کسی اور چیز میں لگا ہوا ہو۔ حضرت عمرؓ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اگر کھانا لگ جائے اور جماعت کھڑی ہو جائے تو پہلے کھانا کھاؤ۔ راوی کہتے ہیں ابن عمرؓ نے امام کی قرأت سنتے ہوئے بھی کھانا کھایا۔ ہمیں اس کی خبر ہناد نے دی وہ عہدہ سے وہ نافع سے اور وہ ابن عمرؓ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔

باب ۲۵۸۔ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ النَّعَاسِ

۳۰۴۔ حَدَّثَنَا هَارُونَ بْنُ اسْحَقَ الْهَمْدَانِيُّ نَاعِدَةً
بْنِ سَلِيمَانَ الْكَلَابِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَرُوةَ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَالِهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ
حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنْ أَحَدَّكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ
يَنْعَسُ فَلَعَلَّهُ يَذْهَبَ لِيَسْتَغْفِرَ فَيَسِبَ نَفْسَهُ

باب ۲۵۸۔ اُوگھتے وقت نماز پڑھنا۔

۳۰۴۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
اگر تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور اُوگھنے لگے تو جا کر سوئے یہاں
تک کہ اس کی نیند جاتی رہے۔ کیوں کہ اگر تم میں سے کوئی اُوگھتے
ہوئے نماز پڑھے گا تو ممکن ہے کہ وہ استغفار کرنے کی نیت کرے اور
اپنے آپ کو گالیاں دینے لگے۔

اس باب میں انس اور ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت عائشہ کی حدیث حسن صحیح ہے

باب ۲۵۹۔ مَا جَاءَ مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يُصَلِّي بِهِمْ

۳۰۵۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ مُحَمَّدٍ بِنِ غِيلَانَ قَالَ نَاوِ كَعِبَ
عَنْ ابْنِ بَنِي يَزِيدِ الْعَطَارِ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيِّ
عَنْ أَبِي عَطِيَّةٍ رَجُلٍ مِّنْهُمْ قَالَ كَانَ مَالِكُ بْنُ
الْحُوَيْرِثِ يَا تَيْنًا فِي مَصَلَّنَا يَتَحَدَّثُ فَحَضَرَتِ
الصَّلَاةُ يَوْمًا فَقُلْنَا لَهُ تَقَدَّمَ فَقَالَ لِيَتَقَدَّمَ بَعْضُكُمْ
حَتَّى أَحَدَيْتُكُمْ لِمَ لَا اتَّقَدَّمُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يَوْمُهُمْ
وَلْيَوْمَهُمْ رَجُلٌ مِّنْهُمْ

باب ۲۵۹۔ جو کسی کی ملاقات کے لئے جائے وہ ان کی امامت نہ
کرے۔

۳۰۵۔ بدیل بن میسرہ عقیلی، ابو عطیہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں
نے کہا: مالک بن حویرث ہماری نماز پڑھنے کی جگہ پر ہمارے پاس
آیا کرتے اور ہمیں احادیث سناتے چنانچہ ایک روز نماز کا وقت
ہو گیا۔ ہم نے ان سے کہا: آپ نماز پڑھائیے۔ انہوں نے کہا: تم
میں سے کوئی نماز پڑھائے تاکہ میں تمہیں بتاؤں کہ میں کیوں
امامت نہیں کر رہا۔ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا۔ جو کسی قوم کی
زیارت کے لئے جائے ان کی امامت نہ کرے بلکہ انہیں میں سے
کوئی نماز پڑھائے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ صحابہ وغیرہ میں سے اکثر اہل علم کا اسی حدیث پر عمل ہے۔ ان حضرات کا کہنا ہے کہ
صاحب منزل امامت کا زیادہ مستحق ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں اگر صاحب منزل (صاحب خانہ) اجازت دے دیں تو کوئی مضائقہ نہیں کہ
امامت کرائے۔ اسحاق بھی مالک بن حویرث کی حدیث پر عمل پیرا ہیں اور اس مسئلے میں شدت اختیار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر صاحب
خانہ اجازت بھی دے دے تب بھی نماز نہ پڑھائے۔ اور اسی طرح اگر ان کی مسجد میں ان کی ملاقات کے لیے جائے تو بھی نماز نہ
پڑھائے بلکہ انہی میں سے کوئی شخص نماز پڑھائے۔

باب ۲۶۰۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَخْصَّ الْإِمَامُ
نَفْسَهُ بِالِدُّعَاءِ

۳۰۶۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرَانَ اسْمَعِيلُ بْنُ عِيَّاشَ
قَالَ حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ يَزِيدِ بْنِ شَرِيحٍ
عَنْ أَبِي حَيٍّ الْمُؤَدِّبِ الْجَمُصِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ

باب ۲۶۰۔ امام کا دعا کے لئے خود کو مخصوص کرنا مکروہ ہے۔

۳۰۶۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
کسی شخص کے لئے اجازت لینے سے پہلے اس کے گھر میں جھانکنا حلال
نہیں۔ اگر اس نے دیکھ لیا تو گویا کہ وہ اس گھر میں داخل ہو گیا اور کوئی

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِأَمْرِي أَنْ
يُنْظَرَ فِي حَوْفِ بَيْتِ أُمْرِي حَتَّى يَسْتَأْذِنَ فَإِنْ نَظَرَ
فَقَدْ دَخَلَ وَلَا يَوْمَ قَوْمًا فَيُخْصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ
ذُونَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ وَلَا يَقُومَ إِلَى الصَّلَاةِ
وَهُوَ حَقٌّ

شخص، کسی کی امامت کرتے ہوئے ان لوگوں کو چھوڑ کر اپنے لئے دعاء
مخصوص نہ کرے اگر کسی نے ایسا کیا تو اس نے ان سے خیانت کی اور
نماز میں تقاضہ حاجت (پیشاب پاخانہ) کو روک کر کھڑا نہ ہو۔

اس باب میں ابو ہریرہؓ اور ابوامامہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ثوبانؓ کی حدیث حسن ہے۔ یہ حدیث معاویہ بن صرارہ
سے بھی مروی ہے وہ سفر بن نسیر سے وہ یزید بن شریح سے وہ ابوامامہ سے اور وہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ پھر یہ حدیث یزید
بن شریح سے بھی مروی ہے۔ وہ ابو ہریرہؓ اور وہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں یزید بن شریح کی حدیث ابوجی موزن کی ثوبانؓ سے
مروی حدیث سے اسناد کے اعتبار سے اجود اور مشہور ہے۔

باب ۲۶۱۔ ماجاء من أم قوما وهم له كارهون
باب ۲۶۱۔ جو شخص مقتدیوں کے نہ چاہتے ہوئے بھی امامت کرے۔
۳۰۷۔ حدثنا عبد الاعلی بن واصل الکوفی نا
۳۰۷۔ حضرت حسن، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ
محمد بن قاسم الاسدی عن الفضل بن داہم عن
الحسن قال سمعت أنس بن مالك قال لعن رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثلثة رجل أم قوما
وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها علیها
ساختط ورجل سمع حی علی الفلاح ثم لم یحب

اس باب میں ابن عباسؓ، طلحہؓ، عبداللہ بن عمروؓ اور ابوامامہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں انسؓ کی حدیث صحیح نہیں اس لیے
کہ یہ حسن نے رسول اللہ ﷺ سے مرسل روایت کی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں امام احمد بن حنبل نے محمد بن قاسم میں کلام کیا ہے اور انیسر
ضعیف کہتے ہیں یہ حافظ نہیں ہیں۔ علماء کی ایک جماعت کے نزدیک مقتدیوں کے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی امامت کرنا مکروہ ہے لیکن
اگر امام ظالم نہ ہو تو گناہ اسی پر ہوگا جو اس کی امامت کو پسند نہیں کرے گا۔ احمد اور اسحاق اس مسئلے میں کہتے ہیں کہ اگر ایک یا دو تین شخص نہ
چاہتے ہوں تو امامت کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں یہاں تک کہ اکثریت اس سے بیزار ہو۔ ہناد، جریر سے وہ منصور سے وہ ہلال بن یساف
سے وہ زیاد بن ابوجعد سے اور وہ عمرو بن حارث بن مصطلق سے روایت کرتے ہیں کہ کہا جاتا تھا کہ ”سب سے زیادہ عذاب دو شخصوں
کے لیے ہے: عورت جو شوہر کی نافرمانی کرے اور وہ امام جو مقتدیوں کے ناراض ہونے کے باوجود امامت کرے“ جریر، منصور کے متعلق
کہتے ہیں کہ ہم ان سے امام کے متعلق پوچھا تو فرمایا: اس سے مراد ظالم امام ہے۔ اگر وہ سنت پر قائم ہو تو مقتدی گناہ گار ہوں گے یعنی جو
اس کے بیزار ہوں گے۔

۳۰۸۔ حدثنا محمد بن اسمعيل نا علی بن
الحسن نا الحسين بن واقد قال نا أبو غلاب قال
سمعت أبا أمانة يقول قال رسول اللہ صلی اللہ
۳۰۸۔ حضرت ابو غالب، ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تین شخصوں کی نماز ان کے کانوں سے تجاوز
نہیں کرتی (یعنی قبول نہیں ہوتی) ایک فرار ہونے والا غلام یہاں تک

عَلَيْهِ وَالِإِلهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَوَتُهُمْ إِذَا نَهَمُ الْعَبْدُ الْأَبِيْقُ حَتَّى يَرْجِعَ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَإِمَامٌ قَوْمٌ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ

کہ واپس چلا جائے۔ دوسری وہ عورت جو اس حالت میں رات گزارنے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو۔ تیسرے وہ امام جس کے مقتدی اس سے بیزار ہوں۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث اس طریق سے حسن غریب ہے۔ اور ابو غالب کا نام مزدور ہے۔

باب ۲۶۲۔ مَا جَاءَ إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ قَاعِدًا فَصَلُّوا فَعُوْدًا

باب ۲۶۲۔ اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو۔

۳۰۹۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ مَرْثَدَةَ عَنْ أَبِي شَهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ خَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِإِلهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرَسٍ فَحُجِحَ فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا مَعَهُ فَعُوْدًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ أَوْ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَثَرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا فَعُوْدًا أَجْمَعُونَ

۳۰۹۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ گھوڑے پر سے گرے اور آپ ﷺ کو چوٹ آگئی۔ چنانچہ آپ ﷺ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: امام اس لئے یا فرمایا امام اس لئے بنایا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو۔ جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب رکوع سے اٹھے تو تم بھی اٹھو، جب وہ ”سمع اللہ لمن حمدہ“ کہے تو تم ”ربنا ولك الحمد“ کہو جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب بھی بیٹھ کر ہی نماز پڑھو۔

اس باب میں عائشہ، ابو ہریرہ، جابر، ابن عمر اور معاویہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت انس کی حدیث حسن صحیح ہے بعض صحابہ کا اسی حدیث پر عمل ہے جن میں جابر بن عبد اللہ، اسید بن خمیر اور ابو ہریرہ وغیرہ شامل ہیں۔ یہی امام احمد اور اسحاق کا قول ہے بعض علماء کہتے ہیں: اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو مقتدی کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے۔ اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ سفیان ثوری، مالک بن انس، ابن مبارک اور شافعی کا قول ہے۔

مسئلہ: جمہور علماء جیسے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام ابو یوسف، سفیان ثوری، ابو ثور اور امام بخاری کا مسلک یہ ہے کہ غیر معذور مقتدی، معذور امام (جو بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو) کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے اور بیٹھ کر نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی ان حضرات کا استدلال قرآن کریم کی آیت ”وقوموا للہ قانتین“ سے ہے (ترجمہ: اور کھڑے ہو اور اللہ کے سامنے عاجز بنے ہوئے۔ اس حکم سے معذور لوگ مستثنیٰ ہیں۔ جس کی دلیل یہ ہے ”لایکلف اللہ نفساً“ (ترجمہ: اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا۔ چنانچہ غیر معذور لوگوں کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی ممانعت ہے کیوں کہ قیام نماز فرض ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۲۶۳۔ مِنْهُ أَيْضًا

باب ۲۶۳۔ اسی سے متعلق

۳۱۰۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ شِبَابَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ نَعِيمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِإِلهِ وَسَلَّمَ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فِي مَرَضِهِ

۳۱۰۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے اپنے مرض و فاقات میں بیٹھ کر نماز پڑھی۔

الَّذِي مَاتَ فِيهِ قَاعِدًا

امام ترمذی کہتے ہیں حضرت عائشہؓ کی حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ حضرت عائشہؓ سے یہ حدیث بھی مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو۔ ان سے یہ بھی مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ مرض میں نکلے اور ابو بکرؓ لوگوں کی امامت کر رہے تھے۔ آپ ﷺ نے ان کے پہلو میں نماز پڑھی۔ لوگ ابو بکرؓ کی اقتدا کر رہے تھے اور ابو بکر حضور ﷺ کی ان سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ ﷺ نے ابو بکرؓ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ ہم سے یہ حدیث عبد اللہ بن ابوزیاد نے روایت کی ہے وہ شاذ بن سوار سے وہ محمد بن طلحہ سے وہ حمید سے وہ ثابت سے اور وہ انسؓ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے مرض میں ابو بکرؓ کے پیچھے کپڑے میں لپٹے ہوئے نماز پڑھی۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یحییٰ بن ایوب نے حمید سے اور انہوں نے حضرت انسؓ سے بھی یہ حدیث اسی طرح روایت کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی راوی اسے حمید سے اور وہ انسؓ سے روایت کرتے ہیں اور اس میں ثابت کا نام نہیں لاتے لیکن جس میں ثابت کا تذکرہ ہے وہ حدیث اصح ہے۔

باب ۲۶۴۔ مَا جَاءَ فِي الْإِمَامِ يَنْهَضُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ نَاسِيًا
 ۳۱۱۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا هَشِيمَ نَا ابْنَ أَبِي
 لَيْلَى عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ صَلَّى بِنَا الْمُغْبِرَةَ بِنُ شُعْبَةَ
 فَهَضَّ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَسَبَّحَ بِهِ الْقَوْمُ وَسَبَّحَ بِهِمْ فَلَمَّا
 قَضَى صَلَوَتَهُ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتِي السُّهُوِ
 وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ بِهِمْ مِثْلَ الَّذِي فَعَلَ

باب ۲۶۳۔ دور کعتوں کے بعد امام کا بھول کر کھڑے ہو جانا۔
 ۳۱۱۔ شعبی کہتے ہیں مغیرہ بن شعبہ نے ایک مرتبہ ہماری امامت کی اور دور کعتوں کے بعد کھڑے ہو گئے۔ چنانچہ لوگوں نے ان سے تسبیح کہی اور انہوں نے لوگوں سے۔ جب نماز پوری ہوئی تو سلام پھیرا اور سجدہ سہو کیا جب کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر فرمایا: رسول اللہ ﷺ نے بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا، جیسا انہوں نے کیا۔

اس باب میں عقبہ بن عامر، سعد اور عبد اللہ بن حسینؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں مغیرہ بن شعبہؓ کی حدیث کئی طرق سے انہی سے مروی ہے۔ بعض لوگوں نے ابن ابی لیلیٰ کے حفظ میں کلام کیا ہے۔ امام احمد ان کی حدیث کو حجت تسلیم نہیں کرتے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ابن ابی لیلیٰ صدوق (سچے) ہیں لیکن میں ان سے اس لیے روایت نہیں کرتا کہ صحیح اور سقیم (ضعیف) میں پہچان نہیں رکھتے۔ ان کے علاوہ بھی جو اس طرح کا ہو میں اس سے روایت نہیں کرتا۔ یہ حدیث کئی طرق سے مغیرہ بن شعبہؓ سے مروی ہے۔ سفیان جابر سے وہ مغیرہ بن شبیل سے وہ قیس بن ابی حازم سے اور وہ مغیرہ بن شعبہ سے روایت کرتے ہیں۔ جابر جعفی کو بعض علماء ضعیف کہتے ہیں۔ یحییٰ بن سعید اور عبد الرحمن بن مہدی وغیرہ نے ان سے روایت کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ اگر کوئی شخص دور کعتوں کے بعد کھڑا ہو جائے (تشہد سے پہلے) تو نماز پوری کرے اور سجدہ سہو کرے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ سلام پھیرنے سے پہلے اور بعض کہتے ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد کرے۔ جو حضرات سلام سے پہلے سجدہ سہو کرنے کے قائل ہیں ان کی حدیث اصح ہے اسے زہری نے یحییٰ بن سعید انصاری سے انہوں نے عبد الرحمن اعرج سے اور انہوں نے عبد اللہ بن حسینؓ سے روایت کیا ہے۔ عبد اللہ بن عبد الرحمن، یزید بن ہارون سے وہ مسعودی سے اور وہ زیاد بن علاقہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: مغیرہ بن شعبہؓ نے ہمیں نماز پڑھائی۔ جب دور کعت پڑھ چکے تو بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے۔ چنانچہ مقتدیوں نے تسبیح کی یعنی سبحان اللہ کہا تو انہیں بھی کھڑے ہونے کا اشارہ کیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو سلام پھیرا۔ سجدہ سہو کے دو سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا اور فرمایا: رسول اللہ ﷺ نے بھی ایسا ہی کیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور مغیرہ بن شعبہؓ ہی سے کئی طرق سے مروی ہے۔

باب ۲۶۵۔ مَا جَاءَ فِي مَقْدَارِ الْفُعُودِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ

۳۱۲۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَا أَبُو دَاوُدَ هُوَ الطَّيَالِسِيُّ نَا شُعْبَةُ نَا سَعْدُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ كَانَهُ عَلَى الرَّضْفِ قَالَ شُعْبَةُ لَمْ حَرَكَ سَعْدٌ شَفْتَيْهِ بَشِيءٍ فَأَقُولُ حَتَّى يَقُومَ فَيَقُولُ حَتَّى يَقُومَ

۳۱۲۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب دو رکعتیں پڑھنے پر تشہد اول میں بیٹھے تو گویا کہ وہ گرم پتھروں پر بیٹھے ہوں (یعنی جلدی سے اٹھے) شعبہ کہتے ہیں پھر سعد نے ہونٹ ہلائے اور کچھ کہا چنانچہ میں نے کہا یہاں تک کہ کھڑے ہوتے تو سعد نے بھی کہا یہاں تک کہ کھڑے ہوتے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ الایہ کہ ابو عبیدہ کو اپنے والد سے سنا نہیں۔ اسی پر اہل علم کا عمل ہے کہ تشہد اول میں دیر نہ لگائی جائے اور تشہد اول کے علاوہ قعدہ اولیٰ میں کچھ نہ پڑھا جائے۔ مزید کہتے ہیں اگر تشہد کے علاوہ کچھ پڑھے تو سجدہ سہو کرے۔ شععی وغیرہ۔ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔

باب ۲۶۶۔ مَا جَاءَ فِي الْإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ

۳۱۳۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ نَابِلِ بْنِ صَاحِبِ الْعَبَاءِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ إِلَيَّ إِشَارَةً وَقَالَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِشَارَةً بِأَصْبِعِهِ

۳۱۳۔ حضرت عبد اللہ بن ابی بکر بن سعد عن بکیر بن عبد اللہ بن الأشج عن نابل صاحب العباء عن ابن عمر عن صہیب قال مررت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو یصلی فسلمت علیہ فردد الی اشارۃ وقال لا اعلم الا انه قال اشارۃ باصبعہ

اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس، حضرت بلال اور حضرت عائشہ سے بھی روایت ہے۔

۳۱۴۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَا وَكَيْعُ نَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ لِبَلَالٍ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ

۳۱۴۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضور اکرم ﷺ جب نماز میں ہوتے اور کوئی سلام کرتا تو کیسے جواب دیا کرتے تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور صہیب کی حدیث حسن ہے ہم اسے لیث کی بکیر سے روایت کے علاوہ نہیں جانتے۔ زید بن اسلم سے مروی ہے کہ ابن عمر نے فرمایا: ”میں نے بلال سے کہا: جب لوگ رسول اللہ ﷺ کو مسجد بنو عمرو بن عوف میں نماز پڑھتے ہوئے سلام کرتے تو آپ ﷺ کس طرح جواب دیتے تھے۔ کہنے لگے: اشارہ کر دیتے تھے۔ میرے نزدیک یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ اس لئے کہ صہیب کا قصہ بلال کے قصے کے علاوہ ہے۔ اگرچہ ابن عمر نے دونوں سے روایت کیا ہے۔ احتمال ہے کہ انہوں نے دونوں سے سنا ہو۔

باب ۲۶۷۔ مردوں کے لیے تسبیح (۱) اور عورتوں کے لیے تصفیق (۲) سے متعلق۔

باب ۲۶۷۔ مَا جَاءَ أَنَّ التَّسْبِيحَ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقَ لِلنِّسَاءِ

۳۱۵۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مردوں کے لیے تسبیح اور عورتوں کے لیے تصفیق ہے (یعنی اگر امام بھول جائے تو اسے متنبہ کرنے کے لیے)

۳۱۵۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ أَبِي مَعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ

اس باب میں علیؓ، سہل بن سعدؓ، جابرؓ، ابوسعیدؓ اور ابن عمرؓ سے بھی روایت ہے۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں ”میں حضور اکرم ﷺ سے جب اجازت مانگتا تو اگر آپ ﷺ نماز پڑھ رہے ہوتے تو تسبیح کرتے“ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر اہل علم کا عمل ہے۔ احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

باب ۲۶۸۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّائِبِ فِي الصَّلَاةِ

باب ۲۶۸۔ نماز میں جمائی لینا مکروہ ہے۔

۳۱۶۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نماز میں جمائی لینا شیطان سے ہے اگر کسی کو جمائی آئے تو منہ بند کر کے جہاں تک ہو سکے روکنے کی کوشش کرے۔

۳۱۶۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ أَنَا اسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّائِبُ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَتَابَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظُمْ مَا اسْتَطَاعَ

اس باب میں ابوسعید خدریؓ اور عدی بن ثابتؓ کے دادا سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے علماء کی ایک جماعت نماز میں جمائی لینے کو مکروہ کہتی ہے۔ ابراہیم کہتے ہیں میں کھنگار سے جمائی کو واپس کر دیتا ہوں۔

باب ۲۶۹۔ مَا جَاءَ أَنَّ الصَّلَاةَ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ

باب ۲۶۹۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے آدھا ثواب ہے۔

۳۱۷۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ نَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ نَا الْحُسَيْنَ الْمَعْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ

۳۱۷۔ حضرت عمران بن حصینؓ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ سے بیٹھ کر نماز پڑھنے والے شخص کے متعلق سوال کیا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جو کھڑے ہو کر نماز پڑھے وہ افضل ہے اور جو بیٹھ کر نماز پڑھے اس کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے سے آدھا ثواب ہے اور جو لیٹ کر پڑھے اس کے لیے بیٹھ کر پڑھنے والے سے آدھا ثواب ہے۔

(۱) تسبیح کے معنی سبحان اللہ کہنا ہے۔ (مترجم)

(۲) تصفیق سے مراد یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کو لے ہاتھ کی پشت پر مارا جائے۔ (مترجم)

اس باب میں عبد اللہ بن عمرو، انس اور سائب سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں عمران بن حصین کی حدیث حسن صحیح ہے۔ یہ حدیث ابراہیم بن طہمان سے بھی اسی اسناد کے ساتھ مروی ہے لیکن وہ اس میں کہتے ہیں کہ عمران بن حصین نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ سے مریض کی نماز کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا: کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ اگر نہ پڑھے تو بیٹھ کر اور اگر بیٹھ کر بھی نہ پڑھے تو لیٹ کر نماز پڑھے۔ اس حدیث کو ہناد، وکیع سے وہ ابراہیم بن طہمان سے اور وہ معلم سے اسی اسناد سے نقل کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں ہم کسی اور کو نہیں جانتے کہ اس نے حسین معلم سے ابراہیم بن طہمان کی روایت کے مثل بیان کی ہو۔ ابواسامہ اور کئی راوی حسین بن معلم سے عیسیٰ بن یونس کی حدیث کے مثل روایت کرتے ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک یہ حدیث نفل نمازوں پر محمول ہے۔ محمد بن بشار ابن ابی عدی سے وہ اشعث بن عبد الملک سے اور وہ حسن سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: نفل نماز چاہے تو کھڑے ہو کر پڑھے چاہے تو بیٹھ کر یا پھر لیٹ کر پڑھے۔ جب کہ مریض کی نماز کے متعلق علماء کا اختلاف ہے۔ کہ اگر وہ بیٹھ کر نماز نہ پڑھے تو بیٹھ کر یا پھر لیٹ کر پڑھے۔ اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ سیدھا لیٹ کر پاؤں قبل کی طرف پھیلا کر نماز پڑھے۔ سفیان ثوری اس حدیث کے متعلق کہتے ہیں: ”جو بیٹھ کر نماز پڑھے اس کے لیے کھڑے ہو کر پڑھنے والے سے آدھا ثواب ہے“ کہ یہ حدیث صحیح شخص کے لیے ہے جو معذور نہ ہو۔ جہاں تک مریض یا معذور آدمی کا تعلق ہے اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو اسے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کے برابر ثواب ملے گا۔ بعض احادیث کا مضمون سفیان کے اس قول کے مطابق ہے۔

باب ۲۷۰۔ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا۔

باب ۲۷۰۔ فِيمَنْ يَتَطَوَّعُ جَالِسًا

۳۱۸۔ حضرت حفصہؓ (ام المؤمنین) فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو کبھی نفل نماز بیٹھ کر پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر آپ وفات سے ایک سال قبل نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے لگے۔ اور اس میں جب کوئی سورت پڑھتے تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے رہے یہاں تک کہ وہ طویل سے طویل ہوتی جاتی۔

۳۱۸۔ حَدَّثَنَا الْانصَارِيُّ نَاعِمُ بْنُ مَالِكٍ بْنِ اَنَسٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدٍ عَنِ الْمَطْلَبِ بْنِ اَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ عَنِ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَقَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعَامَ فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا وَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ وَيُرْتَلُّهَا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا

اس باب میں ام سلمہ اور انس بن مالک سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں حدیث حفصہؓ حسن صحیح ہے۔ آنحضرت ﷺ سے مروی کہ آپ ﷺ رات کو بیٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب ان کی قرأت میں تیس یا چالیس آیتیں رہ جاتیں تو کھڑے ہو کر پڑھنے لگتے پھر رکوع کرتے اور دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کرتے۔ آپ ﷺ سے یہ بھی مروی ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھتے۔ اگر کھڑے ہو کر قرأت کرتے تو رکوع اور سجدہ بھی کھڑے ہو کر کرتے اور اگر بیٹھ کر قرأت کرتے تو رکوع و سجدہ بھی بیٹھ کر ہی کرتے امام احمد اور اسحاق کہتے ہیں کہ دونوں حدیثوں پر عمل ہے گویا کہ دونوں حدیثیں صحیح اور معمول بہ ہیں۔

۳۱۹۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ بیٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ پس قرأت بھی بیٹھ کر کرتے اور جب تیس یا چالیس آیتیں رہ جاتیں تو کھڑے ہو کر قرأت شروع کر دیتے، پھر رکوع و سجدہ کرتے اور

۳۱۹۔ حَدَّثَنَا الْانصَارِيُّ نَاعِمُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ ابِي النُّصْرِ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ

دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کرتے۔

جَالِسٌ فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَةِ تَبَهُ قَدْرَ مَا يَكُونُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۲۰۔ عبد اللہ بن شقیق حضرت عائشہؓ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہؓ سے رسول اللہ ﷺ کی نفل نماز کے متعلق پوچھا تو فرمایا آپ ﷺ کافی رات تک کھڑے ہو کر اور کافی رات تک بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے اگر کھڑے ہوتے ہوئے قرأت کرتے تو رکوع اور سجود بھی کھڑے ہو کر کرتے اور اگر بیٹھ کر قرأت کرتے تو رکوع اور سجود بھی بیٹھ کر ہی کرتے

۳۲۰۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا هَشِيمَ نَا خَالِدٌ وَهُوَ الْحَدَّاءُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَطَوُّعِهِ قَالَتْ كَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا فَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ وَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ جَالِسٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ جَالِسٌ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۲۷۱۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: میں جب بچے کے رونے کی آواز سنتے ہوں تو نماز میں تخفیف کر دیتا ہوں۔

بَاب ۲۷۱۔ مَا جَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي لَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فِي الصَّلَاةِ فَأُخَفِّفُ

۳۲۱۔ حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ کی قسم جب میں نماز کے دوران بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز میں تخفیف (ہلکی) کر دیتا ہوں تاکہ اس کی ماں پریشان نہ ہو جائے۔

۳۲۱۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَامِرُوَانَ بْنِ مَعَاوِيَةَ الْفَزَارِي عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ فَأُخَفِّفُ مَخَافَةَ أَنْ تُفْتَنَ أُمُّهُ

اس باب میں ابو قتادہؓ، ابو سعیدؓ اور ابو ہریرہؓ سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں۔ حدیث انس حسن صحیح ہے۔

باب ۲۷۲۔ جو ان لڑکی کی نماز بغیر چادر کے مقبول نہیں۔

بَاب ۲۷۲۔ مَا جَاءَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ الْحَائِضِ إِلَّا بِحِمَارٍ

۳۲۲۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو ان لڑکی کی بغیر چادر کے نماز قبول نہیں (یعنی بغیر چادر اوڑھے)۔

۳۲۲۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ نَا قَبِيصَةَ عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلْمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ صَفِيَّةِ ابْنَةِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ الْحَائِضِ إِلَّا بِحِمَارٍ

اس باب میں عبد اللہ بن عمروؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت عائشہؓ کی حدیث حسن ہے اور اسی پر اہل علم کا عمل ہے کہ سر کوڈھانپنے بغیر بالغ عورت کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ امام شافعی کا قول ہے۔ ان کا یہ بھی کہتا ہے کہ عورت کے بدن کا کوئی بھی حصہ اگر کھلا ہو تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ شافعی کہتے ہیں: کہا گیا ہے کہ اگر اس کے پاؤں کھلے رہ جائیں تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی۔

باب ۲۷۳۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ السُّدْلِ فِي الصَّلَاةِ

باب ۲۷۳۔ نماز میں سدل مکروہ ہے۔ (۱)

۳۲۳۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ قَبِيصَةَ عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلْمَةَ

۳۲۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے نماز میں

عَنْ عَسَلِ بْنِ سَفْيَانَ عَنْ عَطَاءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

سدل کرنے سے منع فرمایا۔

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنِ

السُّدْلِ فِي الصَّلَاةِ

اس باب میں ابو جحیفہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث کو ہم عطاء کی ابو ہریرہؓ سے مرفوع روایت کے علاوہ نہیں جانتے۔ وہ عسل بن سفیان سے روایت کرتے ہیں۔ علماء کا اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ سدل کا نماز میں کیا حکم ہے؟ بعض علماء اسے مکروہ کہتے ہوئے یہ توجیہ کرتے ہیں کہ یہ یہودیوں کا فعل ہے جب کہ بعض سدل کو اس صورت میں مکروہ کہتے ہیں کہ جسم پر ایک ہی کپڑا ہو لیکن اگر کڑتے یا قمیص پر سدل کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ امام احمد کا قول ہے۔ ابن مبارک بھی نماز میں سدل کو مکروہ کہتے ہیں۔

باب ۲۷۴۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ مَسْحِ الْحَصْيِ فِي

باب ۲۷۴۔ نماز میں نکلیاں ہٹانا مکروہ ہے

الصَّلَاةِ

۳۲۴۔ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ نَا

۳۲۴۔ حضرت ابو ذرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں

سَفْيَانَ بْنِ عَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ

سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو نکلیاں نہ ہٹائے اس لیے کہ رحمت اس

أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا

کے سامنے ہوتی ہے۔

قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحِ الْحَصْيَ فَإِنَّ

الرَّحْمَةَ تَوَاجِهُهُ

۳۲۵۔ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَرْبٍ نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ

۳۲۵۔ حضرت معقیبؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے نماز

الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلْمَةَ بِنُ

میں نکلیاں ہٹانے کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا: اگر ضروری ہٹانی

عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَقِّبٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

ہوں تو ایک مرتبہ ہٹالو۔

اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَسْحِ الْحَصْيِ فِي الصَّلَاةِ

فَقَالَ إِنْ كُنْتَ لِأَبْدَ فَأَعْلًا فَمَرَّةً وَاحِدَةً

امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں علی بن ابی طالبؓ، حذیفہؓ، جابر بن عبد اللہؓ اور معقیبؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت ابو ذرؓ کی حدیث حسن ہے۔ آپ ﷺ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے نکلیاں ہٹانے کو مکروہ کہا ہے اور فرمایا: اگر ضروری ہوں تو ایک مرتبہ ہٹالو۔ گویا کہ آپ ﷺ نے ایک مرتبہ ہٹانے کی اجازت دی ہے۔ علماء بھی اسی پر عمل کرتے ہیں۔

(۱) سدل کا معنی یہ ہے کہ چادر یا رومال وغیرہ کو سر یا کندھوں پر رکھ کر اس کے دونوں سرے نیچے چھوڑ دیئے جائیں یا پھر ایک کپڑے میں اپنے آپ کو لپیٹ کر

رکوع اور سجود ادا کیے جائیں اور دونوں ہاتھ بھی چادر کے اندر داخل ہوں۔ (مترجم)

باب ۲۷۵۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّفْخِ فِي الصَّلَاةِ
 ۳۲۶۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ عَنْ عَبْدِ بْنِ الْعَوَامِ نَا
 مِيمُونَ ابُو حَمْرَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ مَوْلَى طَلْحَةَ عَنْ أُمِّ
 سَلَمَةَ قَالَتْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
 وَسَلَّمَ غُلَامًا لَنَا يَقَالُ لَهُ أَفْلَحُ إِذَا سَجَدَ نَفَخَ فَقَالَ يَا
 أَفْلَحُ قَرِّبْ وَجْهَكَ

باب ۲۷۵۔ نماز میں پھونکیں مارنا مکروہ ہے۔
 ۳۲۶۔ حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک لڑکے کو
 جسے ہم فلح کہتے تھے دیکھا کہ جب وہ سجدہ کرتا تو پھونک مارتا تھا۔
 آپ ﷺ نے فرمایا: اے فلح اپنے چہرے کو خاک آلودہ ہونے دو۔

احمد بن منیع کہتے ہیں کہ عباد نماز میں پھونکنے کو مکروہ سمجھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ احمد بن منیع کہتے ہیں:
 ہم اسی قول پر عمل کرتے ہیں امام ترمذی کہتے ہیں بعض حضرات نے یہ حدیث ابو حمزہ سے روایت کی ہے اور کہا ہے کہ وہ لڑکا ہمارا مولیٰ تھا
 اس کا نام رباح تھا۔ احمد بن عبدہ الضحیٰ، حماد بن زید سے اور وہ میمون ابو حمزہ سے اسی اسناد سے اسی کے مثل روایت کرتے ہوئے کہتے
 ہیں۔ یہ لڑکا ہمارا غلام تھا اسے رباح کہا جاتا تھا۔ امام ترمذی کہتے ہیں ام سلمہؓ کی حدیث کی اسناد قوی نہیں۔ بعض علماء میمون ابو حمزہ کو ضعیف
 کہتے ہیں۔ نماز میں پھونکیں مارنے میں علماء کا اختلاف ہے بعض حضرات کہتے ہیں کہ اگر کوئی نماز میں پھونک دے تو دوبارہ نماز پڑھے یہ
 سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا قول ہے۔ جب کہ بعض کہتے ہیں کہ نماز میں پھونکیں مارنا مکروہ ہے لیکن اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی یہ احمد اور
 اسحاق کا قول ہے۔

باب ۲۷۶۔ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْإِخْتِصَارِ فِي
 الصَّلَاةِ
 ۳۲۷۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ نَا أَبُو إِسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ
 حَسَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ
 النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ
 الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا

باب ۲۷۶۔ نماز میں کوکھ پر ہاتھ رکھنا منع ہے۔
 ۳۲۷۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے پہلو پر ہاتھ
 رکھ کر نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔

اس باب میں ابن عمرؓ سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ علماء کی ایک جماعت نماز
 میں اختصار کو مکروہ کہتی ہے۔ اختصار یہ ہے کہ کوئی شخص نماز میں اپنے پہلو (کوکھ) پر ہاتھ رکھے۔ بعض حضرات پہلو پر ہاتھ رکھ کر چلنے کو بھی
 مکروہ کہتے ہیں۔ ابلیس کے متعلق مروی ہے کہ جب چلتا ہے تو پہلو پر ہاتھ رکھ کر چلتا ہے۔

باب ۲۷۷۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ كَفِّ الشَّعْرِ فِي
 الصَّلَاةِ
 ۳۲۸۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى نَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَنَا ابْنُ
 جَرِيحٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ
 الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّهُ مَرَّ بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَهُوَ
 يُصَلِّيُ وَقَدْ عَفَصَ صُفْرَتَهُ فِي قَفَاهُ فَحَلَّهَا فَالْتَفَتَ

باب ۲۷۷۔ بال باندھ کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔
 ۳۲۸۔ سعید بن ابی سعید مقبری اپنے والد سے اور وہ ابو رافع سے نقل
 کرتے ہیں کہ وہ حسن بن علی کے پاس سے گزرے تو وہ نماز پڑھ رہے
 تھے اور (بالوں کا) جوڑا گدی پر باندھا ہوا تھا۔ ابو رافع نے اسے کھول
 دیا۔ اس پر حضرت حسن نے ان کی طرف غصے سے دیکھا تو انہوں نے

إِلَيْهِ الْحَسَنُ مُغْضِبًا فَقَالَ أَقْبَلْ عَلَيَّ صَلَوَاتِكَ وَلَا تَغْضَبْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ كَفَلُ الشَّيْطَانِ

کہا اپنی نماز پڑھتے رہو اور غصہ نہ کرو، میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ یہ شیطان کی مماثلت ہے۔

اس باب میں ام سلمہ اور عبد اللہ بن عباس سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابورافع کی حدیث حسن ہے اور اسی پر علماء کا عمل ہے کہ نماز میں بالوں کو باندھنا مکروہ ہے۔ عمران بن موسیٰ قریشی مکی اور ایوب بن موسیٰ کے بھائی ہیں۔

باب ۲۷۸۔ نماز میں خشوع سے متعلق

باب ۲۷۸۔ مَا جَاءَ فِي التَّخَشُّعِ فِي الصَّلَاةِ

۳۲۹۔ حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نماز دو دو رکعت ہے۔ ہر دو رکعت کے بعد تشهد (التحیات) ہے۔ بارگاہ خداوندی میں عاجزی، خوف اور مسکین بننا اور دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے راوی کہتے ہیں یعنی اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو اپنے منہ کی طرف کر کے بلند کرنا اور کہنا اے رب اے رب۔ اور جو اس طرح نہ کرے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے۔

۳۲۹۔ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ نَالِثُ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِيعِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعِ بْنِ الْعَمِيَاءِ عَنْ رَبِيعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى تَشْهُدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَخْشَعُ وَتَضْرَعُ وَتَمْسُكُنْ وَتَقْنَعُ يَدَيْكَ يَقُولُ تَرَفَعُهُمَا إِلَى رَبِّكَ مُسْتَقْبِلًا يَبْطُونَهُمَا وَجْهَكَ وَتَقُولُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهُوَ كَذَا وَكَذَا

امام ترمذی کہتے ہیں کہ ابن مبارک کے علاوہ دوسرے راوی اس حدیث میں یہ کہتے ہیں ”من لم يفعل ذلك فهو خداج“ جو اس طرح نہ کرے اس کی نماز ناقص ہے۔

امام ترمذی کہتے ہیں میں نے بخاری سے سنا کہ شعبہ نے یہ حدیث عبد ربیع سے روایت کرتے ہوئے کئی جگہ خطا کی ہے۔ انہوں نے کہا: ”عن انس بن ابی انیس“ جب کہ یہ ”عمران بن ابی انیس“ ہے اور کہا ”عن عبد اللہ بن حارث“ جب کہ یہ ”عبد اللہ بن نافع بن عمیاء عن ربیعہ بن حارث“ ہے۔ شعبہ کہتے ہیں ”عن عبد اللہ بن حارث عن المطلب عن النبی ﷺ“ اور درحقیقت یہ اس طرح ہے کہ ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب، فضل بن عباس سے اور وہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں لیث بن سعد کی حدیث شعبہ کی حدیث سے صحیح ہے۔

باب ۲۷۹۔ پنچے میں پنچہ ڈالنا مکروہ ہے۔

باب ۲۷۹۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّشْبِيكِ بَيْنَ الْأَصَابِعِ فِي الصَّلَاةِ

۳۳۰۔ حضرت کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں کوئی اچھی طرح وضو کرے اور پھر مسجد کا ارادہ کر کے نکلے تو اپنی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں نہ ڈالے کیوں کہ وہ نماز میں ہے۔

۳۳۰۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَالِثِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبَرِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وَضُوءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا

إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ

امام ترمذی کہتے ہیں کعب بن عجرہ کی حدیث کو کئی راویوں نے ابن عجلان سے لیث کی حدیث کے مثل نقل کیا ہے شریک، محمد بن عجلان سے وہ اپنے والد سے وہ ابو ہریرہؓ سے اور وہ نبی اکرم ﷺ سے اسی حدیث کے مثل روایت کرتے ہیں اور شریک کی حدیث غیر محفوظ ہے۔

باب ۲۸۰۔ نماز میں دیر تک قیام کرنا۔

۳۳۱۔ حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا کون سی نماز افضل ہے آپ ﷺ نے فرمایا: جس میں قیام طویل ہو۔

باب ۲۸۰۔ مَا جَاءَ فِي طُولِ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ

۳۳۱۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ نَا سَفِيَانَ بْنَ عَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ قَالَ طُولُ الْقُنُوتِ

اس باب میں عبد اللہ بن حبشیؓ اور انس بن مالکؓ سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں جابر کی حدیث حسن صحیح ہے اور کئی طرق سے جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے۔

باب ۲۸۱۔ رکوع اور سجدے زیادہ کرنا۔

۳۳۲۔ اوزاعی، ولید بن ہشام معیطی سے اور وہ معدان بن طلحہ یحمری سے روایت کرتے ہیں کہ معدان نے کہا میں نے ثوبانؓ (جو رسول اللہ ﷺ کے مولیٰ تھے) سے ملاقات کی اور کہا: مجھے ایسا عمل بتائیے کہ اس سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے اور جنت میں داخل کر دے ثوبانؓ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: تم سجدے زیادہ کیا کرو۔ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کا ایک درجہ بلند اور اس کا ایک گناہ کم کر دیتے ہیں۔ معدان کہتے ہیں پھر میں نے ابودرداءؓ سے ملاقات کی تو ان سے بھی یہی سوال کیا۔ ابودرداءؓ نے بھی یہی کہا کہ: سجدے زیادہ کیا کرو کیوں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو کہتے ہوئے سنا کہ کوئی بندہ جب اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند اور اس کا ایک گناہ کم کر دیتے ہیں۔

باب ۲۸۱۔ مَا جَاءَ فِي كَثْرَةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

۳۳۲۔ حَدَّثَنَا أَبُو عَمَارٍ نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ هِشَامٍ الْمُعِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مَعْدَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيُّ قَالَ لَقِيتُ ثُوبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ دَلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهِ وَيُدْخِلُنِي اللَّهُ الْحَنَّةَ فَسَكَتَ عَنِّي مَلِيًّا ثُمَّ التَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ قَالَ مَعْدَانُ فَلَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ عَمَّا سَأَلْتُ عَنْهُ ثُوبَانَ فَقَالَ عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ

اس باب میں ابو ہریرہؓ اور فاطمہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ثوبانؓ کی رکوع اور سجدوں میں کثرت والی حدیث حسن صحیح ہے۔ چنانچہ علماء کا اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ نماز میں قیام کا لمبا کرنا رکوع اور سجدوں کی کثرت سے زیادہ افضل ہے جب کہ کہنا ہے کہ رکوع و سجدوں کی کثرت قیام کی طوالت سے افضل ہے۔ احمد بن حنبلؓ کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ سے اس باب میں دو حدیثیں مروی ہیں اور آپ ﷺ نے اس میں کسی کی افضلیت کا فیصلہ نہیں فرمایا: اسحاق کہتے ہیں دن میں رکوع اور سجدوں افضل ہیں۔

جب کہ رات کو قیام میں طوالت افضل ہے۔ البتہ اگر کسی شخص نے رات کی نماز کے لیے کچھ وقت مخصوص کیا ہو تو رات میں بھی رکوع اور سجود ہی افضل ہیں کیوں کہ جب وہ اپنے مخصوص وقت پر پہنچے گا تو رکوع و سجود کا نفع الگ ملے گا۔

امام ترمذی کہتے ہیں اسحاق نے اس لیے کہا کہ نبی کریم ﷺ کی رات کی نماز اسی طرح ہوتی تھی۔ لہذا انہوں نے بھی قیام کو افضل قرار دیا۔ جب کہ آپ کی دن کی نماز طول قیام سے متصف نہیں ہوا کرتی تھی۔

باب ۲۸۲۔ مَا جَاءَ فِي قِتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ

باب ۲۸۲۔ سانپ اور بچھو کو نماز میں مارنا۔

۳۳۳۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ أَنَا اسْمَعِيلُ بْنُ عَلِيَّةٍ

۳۳۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے دو کالی

عن علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير عن

چیزوں کو نماز میں بھی مارنے کا حکم دیا۔ بچھو اور سانپ۔

ضمضم بن جوس عن أبي هريرة قال أمر رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقتل الأسودین فی

الصَّلَاةِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ

اس باب میں ابن عباسؓ اور ابو رافعؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اور اسی پر بعض صحابہ وغیرہ کا عمل ہے یہی احمد اور اسحاق کا بھی قول ہے۔ جب کہ بعض علماء بچھو اور سانپ کو نماز میں قتل کرنے کو مکروہ کہتے ہیں۔ ابراہیم کہتے ہیں نماز میں عین مشغولیت ہوتی ہے لیکن پہلا قول اصح ہے۔

باب ۲۸۳۔ مَا جَاءَ فِي سَجْدَتِي السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ

باب ۲۸۳۔ سلام سے پہلے سجدہ سہو کرنا۔

۳۳۴۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا اللَّيْثِ عَن ابْنِ شَهَابِ عَن

۳۳۴۔ حضرت عبداللہ بن نحسینہ اسدیؓ جو بنو عبدالمطلب کے حلیف

عبدالرحمن الأغر ج عن عبد الله بن بَحِينَةَ الْأَسَدِيَّ

(ہم قسم) ہیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ظہر کی نماز میں تشہد اول کے

حَلِيْفُ بَنِي عَبْدِ الْمُطَلِبِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

بجائے کھڑے ہو گئے۔ جب آپ ﷺ نے نماز مکمل کی تو سلام سے

وَالِهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَلَمَّا

پہلے بیٹھے بیٹھے ہی دو سجدے کئے اور ہر سجدے میں تکبیر کہی۔ لوگوں نے

أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَ

بھی آپ ﷺ کے ساتھ سجدے کیے۔ اور یہ قعدہ اولی کے عوض میں تھے

هُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَسَجَدَ هُمَا النَّاسُ مَعَهُ

جسے آپ ﷺ بھول گئے تھے۔

مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ

اس باب میں عبدالرحمن بن عوفؓ سے بھی روایت ہے۔ محمد بن بشار، عبدالاعلیٰ اور ابو داؤد سے وہ دونوں ہشام سے وہ یحییٰ بن ابی کثیر سے اور وہ محمد بن ابراہیم سے روایت کرتے ہیں کہ ابو ہریرہؓ اور سائب قارئیؓ سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کیا کرتے تھے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ ابن نحسینہؓ کی حدیث حسن ہے اور بعض علماء کا اسی پر عمل ہے۔ یہ شافعی کا بھی قول ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کرے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ حکم دوسری احادیث کے لیے ناخ کا درجہ رکھتا ہے اور مذکور ہے کہ نبی کریم ﷺ کا آخری فعل یہی تھا۔ احمد اور اسحاق کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دو رکعتوں کے بعد کے تشہد پر بیٹھنے کی بجائے کھڑا ہو جائے تو سجدہ سہو سلام سے پہلے کرے گا۔ یعنی ابن نحسینہ کی حدیث کے مطابق۔ عبداللہ بن نحسینہ: عبداللہ بن مالک بن مالک ان کے والد اور نحسینہ ان کی والدہ ہیں۔ مجھے یہ اسحاق بن منصور نے علی بن مدینی کے حوالے سے بتایا۔ امام ترمذی کہتے ہیں: علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ سجدہ سہو سلام کے بعد کیا

جائے یا سلام سے پہلے؟ بعض کے نزدیک سلام کے بعد کیے جائیں گے۔ یہ سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا قول ہے۔ بعض کا مسلک ہے کہ سجدہ ہو سلام پھیرنے سے پہلے ہے اور یہ اکثر فقہائے مدینہ کا قول ہے جیسے کہ یحییٰ بن سعید اور ربیعہ وغیرہ شافعی بھی کہتے ہیں اس مسئلے میں تیسرا قول یہ ہے کہ اگر نماز میں زیادتی ہو تو سلام کے بعد اور اگر کمی ہو تو سلام سے پہلے سجدہ ہو کیا جائے۔ یہ مالک بن انس کا قول ہے۔ امام احمد کہتے ہیں۔ جس صورت میں جس طرح حضور اکرم ﷺ سے سجدہ ہو مروی ہے اسی صورت سے کیا جائے۔ ان کے نزدیک اگر دو رکعتوں کے بعد تشهد میں بیٹھنے کے بجائے کھڑا ہو جائے تو ابنِ نحسین کی حدیث کے مطابق سلام سے پہلے سجدہ ہو کرے اور اگر ظہر کی پانچ رکعتیں پڑھے تو سلام کے بعد کرے اور اگر ظہر یا عصر کی نماز میں دو رکعتیں پڑھنے کے بعد سلام پھیر لیا ہو تو سلام پھیرنے کے بعد سجدہ ہو کرے (یعنی نماز پوری کر کے) لہذا جو جس طرح حضور اکرم ﷺ سے مروی ہے اسی پر عمل کیا جائے۔ اور اگر کوئی ایسی صورت ہو جائے جس میں آپ ﷺ سے کچھ ثابت نہیں تو ہمیشہ سجدہ ہو سلام سے پہلے کیا جائے اسحاق بھی امام احمد کے قول ہی کے قائل ہیں صرف معمولی سافرق ہے کہ جس بھول کے متعلق نبی کریم ﷺ سے کوئی حدیث مروی نہ ہو وہ اگر نماز میں زیادتی ہو تو سلام کے بعد اور اگر کمی ہو تو نماز سے پہلے سجدہ ہو کرے۔

باب ۲۸۴۔ مَا جَاءَ فِي سَجْدَتَيْ السَّبْهُ بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلَامِ

باب ۲۸۴۔ سلام اور کلام کے بعد سجدہ ہو کرنا۔

۳۳۵۔ حدثنا اسحق بن منصور نا عبد الرحمن بن مهدى نا شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم الظاهر خمسا فقيل له ازيد في الصلوة ام نسيت فسجدت سجدة تين بعد ما سلمت

۳۳۵۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک مرتبہ ظہر کی پانچ رکعتیں پڑھیں تو آپ ﷺ سے کہا گیا کیا نماز میں زیادتی کر دی گئی یا آپ ﷺ بھول گئے چنانچہ آپ ﷺ نے سلام کے بعد دو سجدے کیے۔

امام ترمذی کہتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۳۶۔ حدثنا هناد و محمود بن غيلان قالا نا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجدت سجدة تين السهو بعد الكلام

۳۳۶۔ حضرت عبد اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے بات کرنے کے بعد سجدہ ہو کرے دو سجدے کیے۔

اس باب میں معاویہؓ، عبد اللہ بن جعفر اور ابو ہریرہؓ سے بھی روایت ہے۔

۳۳۷۔ حدثنا احمد بن منيع نا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجدت هما بعد السلام

۳۳۷۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا: کہ رسول اللہ ﷺ نے سلام کے بعد دونوں سجدے کیے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسے ایوب اور کئی راوی ابن سیرین سے روایت کرتے ہیں اور ابن مسعود کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اسی پر بعض اہل علم کا عمل ہے کہ اگر ظہر کی نماز پانچ رکعتیں پڑھے تو اس کی نماز جائز سے بشرطیکہ سجدہ سو کرے اگرچہ چوتھی رکعت میں نہ بھی بیٹھا ہو۔ یہ شافعی، احمد اور اسحاق کا قول ہے جب کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر ظہر کی نماز میں پانچ رکعتیں پڑھ لیں اور چوتھی رکعت التیمات کے برابر نہیں بیٹھا تو نماز فاسد ہوگی۔ یہ سفیان ثوری اور بعض اہل کوفہ کا قول ہے۔

باب ۲۸۵۔ مَا جَاءَ فِي التَّشَهُدِ فِي سَجْدَةِ الرَّسُولِ
باب ۲۸۵۔ سجدہ سو میں تشہد پڑھنا۔

۳۳۸۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي اشْعَثُ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ خَالِدِ الْحِذَاءِ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فَسَجَدَ سَجْدَةً تَيْنِ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ

۳۳۸۔ حضرت عمران بن حصین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے نماز پڑھائی اور اس میں بھول گئے چنانچہ دو سجدے کیے اور پھر تشہد پڑھنے کے بعد سلام پھیرا۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے، ابن سیرین، ابو مہلب سے (جو ابو قلابہ کے بچا ہیں) دوسری حدیث روایت کرتے ہیں۔ محمد نے یہ حدیث خالد حذاء سے انہوں نے ابو قلابہ سے اور انہوں نے ابو مہلب سے روایت کی ہے ابو مہلب کا نام عبد الرحمن بن عمرو ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا نام معاویہ بن عمرو ہے۔ عبد الوہاب ثقفی، ہشیم اور کئی راوی، خالد حذاء سے اور وہ ابو قلابہ سے یہ حدیث طویل روایت کرتے ہیں۔ یہ حدیث عمران بن حصین کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عصر کی نماز میں تین رکعتوں کے بعد سلام پھیر لیا۔ ایک شخص جسے خرباق کہتے ہیں کھڑا ہوا..... الخ۔ علماء کا سجدہ سو کے تشہد میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں تشہد پڑھے اور سلام پھیرے اور بعض کا کہنا ہے کہ اس میں تشہد اور سلام نہیں ہے۔ اور اگر سلام پھیرنے سے پہلے سجدے کرے تو تشہد پڑھے۔ یہ امام احمد اور اسحاق کا قول ہے۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ اگر سجدہ سو سلام پھیرنے سے پہلے کرے تو تشہد نہ پڑھے۔

باب ۲۸۶۔ فِيمَنْ يَشْكُ فِي الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ
باب ۲۸۶۔ جسے کیا زیادتی میں شک ہو اس کے متعلق

۳۳۹۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْحٰقَ نَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ قَالَ لِي أَبِي سَعِيدٌ أَحَدُنَا يُصَلِّي فَلَا يَدْرِي كَيْفَ صَلَّى فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ كَيْفَ صَلَّى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَةً تَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

۳۳۹۔ یحییٰ بن ابی کثیر، عیاض بن ہلال سے نقل کرتے ہیں کہ ہلال نے ابوسعیدؓ سے کہا: کہ ہم میں سے کوئی نماز پڑھے اور یہ بھول جائے کہ کتنی پڑھی تو کیا کرے؟ ابوسعیدؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تم میں سے کوئی نماز پڑھے اور بھول جائے کہ کتنی (رکعتیں)، پڑھی ہیں تو بیٹھے بیٹھے دو سجدے کر لے۔

اس باب میں عثمان، ابن مسعود، عائشہ اور ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں ابو سعیدؓ کی حدیث حسن ہے اور ابو سعید سے کئی سندوں سے مروی ہے۔ حضور اکرم ﷺ سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر تم میں سے کوئی دو اور ایک (رکعت) میں شکر میں پڑ جائے تو انہیں ایک سمجھے۔ اور اگر دو اور تین میں شکر ہو تو دو سمجھے اور اس میں سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ ہو کرے۔ ہمارے اصحاب اسی پر عمل پیرا ہیں جب کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر شکر ہو جائے کہ کتنی رکعات پڑھی ہیں تو دوبارہ نماز پڑھے۔

۳۴۰۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فِي صَلَوَتِهِ فَيَلْبِسُ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدَكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

۳۳۹۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا اور شکر پیدا کرتا ہے یہاں تک کہ وہ (نمازی) یہ نہیں جانتا کہ اس نے کتنی نماز (رکعتیں) پڑھی۔ اگر تم میں سے کوئی ایسی صورت پائے تو بیٹھے بیٹھے ہی دو سجدے کرے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۴۱۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ نَا اِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ اسْحَقَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ كَرِيبِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَهَى أَحَدُكُمْ فِي صَلَوَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّى أَوْ ثِنْتَيْنِ فَلْيَبْنِ عَلَيَّ وَاحِدَةً فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَوْ ثَلَاثًا فَلْيَبْنِ عَلَيَّ ثِنْتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلَيَّ ثَلَاثًا وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ

۳۳۱۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص نماز میں یہ بھول جائے کہ اس نے دو رکعتیں پڑھی ہیں یا ایک تو وہ ایک ہی شمار کرے اور اگر دو اور تین میں شکر ہو تو دو شمار کرے پھر اگر تین یا چار کے متعلق شکر ہو تو تین شمار کرے اور سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کر لے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور عبدالرحمن بن عوف ہی سے اس کے علاوہ بھی کئی سندوں سے مروی ہے۔ اسے زہری، عبید اللہ بن عبد اللہ بن عقبہ سے وہ ابن عباسؓ سے وہ عبدالرحمن بن عوفؓ سے اور وہ نبی اکرم ﷺ سے بھی روایت کرتے ہیں۔

باب ۲۸۷۔ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُسَلِّمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

باب ۲۸۷۔ جو شخص ظہر کی نماز میں دو رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دے۔ (بھول کر)

۳۴۲۔ حَدَّثَنَا الْانصَارِيُّ نَا مَعْنُ نَا مَالِكُ عَنْ اَيُّوبَ بْنِ اَبِي تَمِيمَةَ وَهُوَ السَّخْتِيَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْصَرَفَ مِنْ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ أَقْصَرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَصْدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ

۳۳۲۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے دو رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا۔ تو ذوالیدین نے آپ ﷺ سے عرض کیا: نماز کم ہوگئی یا آپ ﷺ بھول گئے یا رسول اللہ ﷺ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: کیا ذوالیدین نے صحیح کہا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں۔ چنانچہ آپ ﷺ کھڑے ہوئے اور باقی کی دو رکعتیں پڑھیں پھر سلام پھیرا پھر تکبیر کہہ کر سجدے میں گئے جیسے کہ وہ سجدہ کیا کرتے تھے یا اس سے

فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى
 أَنْتَتَيْنِ أُحْرَبَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ
 سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ مِثْلَ
 سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ

اس باب میں عمران بن حصینؓ، ابن عمرؓ اور ذوالیدین سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ علماء کا اس حدیث کے بارے میں اختلاف ہے۔ اہل کوفہ کہتے ہیں کہ اگر کلام کر لیا تو دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی چاہے بھول کر ہو، جہالت کی وجہ سے ہو یا کسی بھی وجہ سے ہو۔ ان کا کہنا ہے کہ حدیث باب نماز میں کلام کی ممانعت سے پہلے کی ہے۔ شافعی اس حدیث کو صحیح جانتے اور اس پر عمل کرتے ہیں ان کا کہنا ہے یہ اس حدیث سے صحیح ہے جس میں آپ ﷺ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: روزے دار اگر بھول کر کچھ کھاپی لے تو قضائہ کرے کیوں کہ یہ تو اللہ کا اس کو عطا کردہ رزق ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ حضرات روزے دار کے عہد اکھانے اور بھول کر کھانے میں تفریق کرتے ہیں۔ ان کی دلیل حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث ہے۔ امام احمد، حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث باب کے متعلق فرماتے ہیں کہ اگر امام نے اس گمان کے ساتھ بات کی کہ وہ نماز پوری پڑھ چکا ہے اور بعد میں معلوم ہوا کہ پوری نہیں ہوئی تو نماز کو مکمل کرے۔ اور جو مقتدی یہ جانتے ہوئے بات کرے کہ اس کی نماز نامکمل ہے تو وہ دوبارہ نماز پڑھے۔ ان کا استدلال اس سے ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی موجودگی میں فرائض میں کمی بیشی ہوتی رہتی تھی۔ لہذا ذوالیدین کا بات کرنا اس لیے تھا کہ ان کے خیال میں نماز مکمل ہو چکی تھی لیکن اس موقع پر ایسا نہیں تھا۔ اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایسی صورت میں بات کرے کیوں کہ اب فرائض میں کمی بیشی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ احمد کا کلام بھی اسی کے مشابہ ہے۔ اسحاق کا قول بھی امام احمد ہی کے قول کی طرح ہے۔ (یعنی اس باب میں)۔

باب ۲۸۸۔ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي النَّعَالِ
 ۳۴۳۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ نَا سَمْعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ
 عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَنْسِ بْنِ
 مَالِكٍ أَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
 يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ قَالَ نَعَمْ

باب ۲۸۸۔ جوتیاں پہن کر نماز پڑھنا
 ۳۴۳۔ حضرت سعید بن یزید ابو سلمہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے انس بن مالکؓ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ ﷺ جوتوں میں نماز پڑھا کرتے تھے؟ حضرت انسؓ نے فرمایا: ہاں

اس باب میں عبد اللہ بن مسعودؓ، عبد اللہ بن ابی حنیبہؓ، عبد اللہ بن عمروؓ، عمرو بن حریشؓ، شداد بن اوسؓ، اوس ثقفیؓ، ابو ہریرہؓ اور عطاء (بنو شیبہ کے ایک شخص) سے بھی روایت ہے۔

امام ترمذی کہتے ہیں حدیث انسؓ صحیح ہے اور اسی پر اہل علم کا عمل ہے۔

باب ۲۸۹۔ مَا جَاءَ فِي الْقُنُوتِ فِي الصَّلَاةِ الْفَجْرِ
 ۳۴۴۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَنِي قَالَا نَا
 مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مُرَّةَ عَنِ
 الْبُرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

باب ۲۸۹۔ فجر کی نماز میں دعاء قنوت پڑھنا۔
 ۳۴۴۔ حضرت براء بن عازبؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فجر اور مغرب کی نماز میں دعاء قنوت پڑھا کرتے تھے۔

كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلَوةِ الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ

اس باب میں علیؑ، انسؓ، ابو ہریرہؓ، ابن عباسؓ اور خفاف بن ایماء بن رضہ غفاریؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت براءؓ کی حدیث حسن صحیح ہے فجر کی نماز میں قنوت پڑھنے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض صحابہ وغیرہ فجر میں قنوت پڑھنے کے قائل ہیں شافعی بھی اس کے قائل ہیں۔ احمد اور اسحاق کہتے ہیں کہ قنوت اس صورت میں پڑھے جب کہ مسلمانوں پر کوئی مصیبت نازل ہوگئی اور اگر کوئی مصیبت آجائے تو امام کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کے لشکر کے لیے دعا کرے۔

باب ۲۹۰۔ فِي تَرْكِ الْقُنُوتِ

باب ۲۹۰۔ قنوت کو ترک کرنا

۳۴۵۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي يَا أُمَّتُ إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ هَهُنَا بِالْكُوفَةِ نَحْوًا مِنْ خَمْسِ سِنِينَ أَكَانُوا يَقْنُتُونَ قَالَ أَيْ بَنِي مُحَدَّثٍ

۳۴۵۔ احمد بن منیع، یزید بن ہارونؓ سے اور وہ ابو مالک اشجعی سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے عرض کیا: ابا جان آپ نے رسول اللہ ﷺ کے پیچھے، ابو بکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ اور علی بن ابی طالبؓ سب کے پیچھے نماز پڑھی ہے حضرت علیؑ کے ساتھ تو ہمیں کوفہ میں تقریباً پانچ سال تک (نماز پڑھتے رہے) کیا یہ حضرات قنوت پڑھا کرتے تھے۔ فرمایا: بیٹے یہ نئی چیز نکلی ہے (بدعت ہے)

صالح بن عبداللہ، ابو عوانہ سے اور وہ ابو مالک اشجعی سے اسی سند کے ساتھ اسی کے ہم معنی حدیث نقل کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر اکثر علماء کا عمل ہے۔ سفیان ثوری کہتے ہیں: اگر فجر میں قنوت پڑھے تو بہتر ہے اور اگر نہ پڑھے تو بھی بہتر ہے۔ یہ قنوت نہ پڑھنے کو اختیار کرتے ہیں جب کہ ابن مبارک فجر کی نماز میں قنوت نہ پڑھنے کے مسلک پر عمل پیرا ہیں امام ترمذی کہتے ہیں ابو مالک اشجعی کا نام سعد بن طارق بن اشیم ہے۔

باب ۲۹۱۔ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَعْطُسُ فِي الصَّلَاةِ

باب ۲۹۱۔ نماز میں چھینکنا۔

۳۴۶۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَارِفَاعَةَ بْنِ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الزَّرْقِيِّ عَنْ عَمِّ أَبِيهِ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَعَطَسْتُ فَقُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ فَقَالَ مَنْ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ ثُمَّ قَالَتْ الثَّانِيَةُ مَنْ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ ثُمَّ قَالَتْ الثَّلَاثَةُ مَنْ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ رِفَاعَةُ بْنُ رَافِعٍ بِنِ عَفْرَاءَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ كَيْفَ قُلْتَ؟ قَالَ قُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا

۳۴۶۔ حضرت رفاعہ بن رافعؓ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ کی اقتداء میں نماز پڑھی نماز کے دوران مجھے چھینک آگئی چنانچہ میں نے کہا: الحمد للہ حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه مبارکاً عليه كما يحب ربنا ويرضى (ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں بہت پاکیزہ تعریف کہ برکت ہے اس کے اندر اور اوپر جیسے ہمارا رب چاہتا اور پسند کرتا ہے) پھر جب آپ ﷺ نماز سے فارغ ہوئے تو ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: بات کرنے والا کون ہے؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ ﷺ نے دوبارہ پوچھا کہ نماز میں کس نے بات کی تھی؟ پھر بھی کسی نے جواب نہیں دیا۔ پھر آپ ﷺ نے تیسری مرتبہ پوچھا: نماز میں کس نے بات کی تھی؟ اس مرتبہ رفاعہ بن رافع بن عفراء نے عرض کیا، میں ہوں یا رسول اللہ ﷺ! آپ ﷺ نے فرمایا: کیا کہا تھا؟

مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ ابْتَدَرَهَا بَضْعَةٌ وَثَلَاثُونَ مَلَكًا أَيُّهُمْ يَصْعَدُ بِهَا

میں نے کہا: الحمد للہ حمدا..... الخ چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ تیس سے زیادہ فرشتے اس پر ٹوٹ پڑے کہ کون اسے لے کر آسمان کی طرف جائے۔

اس باب میں انسؓ، وائل بن حجر اور عامر بن ربیعہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں رفاعہ کی حدیث حسن ہے بعض علماء کے نزدیک یہ واقعہ نفل نماز کا ہے کیونکہ کئی تابعین کہتے ہیں کہ اگر کسی کو فرض نماز کے دوران چھینک آجائے۔ تو اپنے دل میں الحمد للہ کہے۔ اور اس سے زیادہ کی اجازت نہیں دیتے۔

باب ۲۹۲۔ فِي نَسْخِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ

باب ۲۹۲۔ نماز میں کلام کا منسوخ ہونا

۳۴۷۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَاهِشِيمُ أَنَا سَمِعِلِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الْبَحَارِثِ بْنِ شَيْبِلٍ عَنِ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ قَالَ كُنَّا نَتَكَلَّمُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ مَنَّا صَاحِبَهُ إِلَى جَنْبِهِ حَتَّى نَزَلَتْ "وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ" فَأَمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِنَا عَنِ الْكَلَامِ

۳۴۷۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں ہم رسول اللہ ﷺ کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہوئے تو اپنے ساتھ کھڑے ہوئے شخص کے ساتھ بات کر لیتے تھے یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی "وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ" چنانچہ ہمیں خاموش رہنے اور باتیں کرنے سے ممانعت کا حکم دیا گیا۔

اس باب میں ابن مسعود اور معاویہ بن حکم سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں زید بن ارقم کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اکثر علماء اس پر عمل کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص بھول کر یا قصداً کلام کرے اسے نماز دہرانا ہوگی۔ یہ ٹوٹا اور ابن مبارک کا قول ہے۔ جب کہ بعض حضرات کہتے ہیں اگر قصداً بات کرے تو نماز لوٹائے اور اگر جہالت یا بھول کر بات کرے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ امام شافعی کا قول ہے۔

باب ۲۹۳۔ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ التَّوْبَةِ

باب ۲۹۳۔ توبہ کی نماز (صلوٰۃ توبہ)

۳۴۸۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَثْمَانَ بْنِ الْمَغِيْرَةِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنِ الْحَكَمِ الْفَزَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ إِنِّي كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا نَفَعَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِمَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ وَإِذَا حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ اسْتَحْلَفْتُهُ فَإِذَا حَلَفَ لِي صَلَفْتُهُ وَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّي ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ "وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ

۳۴۸۔ حضرت اسماء بن حکم فزاری کہتے ہیں میں نے علیؓ سے سنا کہ میں جب رسول اللہ ﷺ سے کوئی بات سنتا تھا تو وہ اللہ کے حکم سے مجھے اتنا نفع دیتی تھی جتنا وہ چاہتا تھا اور اگر میں کسی صحابی سے کوئی بات سنتا تو اس سے قسم لیتا اگر وہ قسم کھاتا تو میں اس کی بات کی تصدیق کرتا تھا۔ مجھ سے ابو بکرؓ نے بیان کیا اور انہوں نے سچ کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوئی شخص ایسا نہیں کہ گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد طہارت حاصل کرے پھر نماز پڑھے اور استغفار کرے اور اس پر اللہ تعالیٰ اسے معاف نہ کرے۔ (یعنی اس کے لیے معافی یقینی ہے) پھر آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھی "وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ" الخ اور وہ لوگ جن سے کسی گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے یا وہ

ذَكَرُوا اللَّهَ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ

اپنے آپ پر ظلم کر لیتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔

اس باب میں ابو مسعود اور ابو درداء، انس، ابوامامہ معاذ، واثلہ اور ابوالیسر (جن کا نام کعب بن عمرو ہے) سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت علیؓ کی حدیث کو ہم عثمان بن مغیرہ کے علاوہ کسی سند سے نہیں جانتے۔ ان سے شعبہ اور کئی راوی نقل کرتے ہوئے ابوعوانہ کی حدیث کی طرح مرفوع کرتے ہیں۔ سفیان ثوری اور مسعر نے بھی اسے موقوفاً نقل کیا ہے۔ جب کہ مسعر سے یہی حدیث مرفوعاً بھی منقول ہے۔

باب ۲۹۳۔ بچے کو نماز کا حکم کب دیا جائے۔

باب ۲۹۴۔ ماجاء متی يؤمر الصبي بالصلوة

۳۴۹۔ حضرت ابن سبرہ جہنی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب بچے سات برس کی عمر کو پہنچیں تو انہیں نماز سکھاؤ اور جب دس برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز پر مارو (یعنی مار کر پڑھاؤ)

۳۴۹۔ حدثنا علي بن حجر انا حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سيرة الجهنني عن عمه عبد الملك بن الربيع بن سيرة الجهنني قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علموا الصبي الصلوة ابن سبع سنين واضربوه عليها ابن عشرة

اس باب میں عبداللہ بن عمرو سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں سبرہ بن معبد جہنی کی حدیث حسن صحیح ہے اور بعض علماء کا اسی پر عمل ہے۔ احمد اور اسحاق بھی اسی پر عمل کا کہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے۔ دس سال کی عمر کے بعد اس نے جو نمازیں چھوڑی ہوں انہیں قضاء کرے۔ امام ترمذی کہتے ہیں۔ سبرہ معبد جہنی بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ابن عوجبہ ہیں۔

باب ۲۹۵۔ تشہد کے بعد اگر حدیث ہو جائے۔

باب ۲۹۵۔ ماجاء في الرجل يحدث بعد التشهد

۳۵۰۔ حضرت عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی شخص قعدہ اخیرہ میں ہو اور سلام پھیرنے سے پہلے اسے حدیث (وضو ٹوٹ جائے) لاحق ہو جائے تو اس کی نماز ہوگی۔

۳۵۰۔ حدثنا احمد بن محمد نا ابن المبارك انا عبد الرحمن بن زياد بن انعم ان عبد الرحمن بن رافع وبكر ابن سواده اخبره عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا احدث يعني الرجل وقد جلس في اخر صلوته قبل ان يسلم فقد جازت صلوته

امام ترمذی کہتے ہیں اس حدیث کی سند قوی نہیں علماء اس کی سند کے متعلق مضطرب ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر تشہد کی مقدار کے برابر بیٹھ چکا ہو اور سلام سے پہلے حدیث ہو جائے تو اس کی نماز مکمل ہوگی۔ جب کہ بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ اگر تشہد سے پہلے یا سلام سے پہلے اگر حدیث ہو جائے تو نماز لوٹانا ہوگی یہ امام شافعی کا قول ہے امام احمد کہتے ہیں۔ اگر تشہد نہیں پڑھا اور سلام پھیر لیا تو نماز ہوگی۔ اس کی دلیل آپ ﷺ کا قول ہے کہ ”نماز کی تحلیل اس کا سلام ہے“ اور تشہد سلام سے زیادہ ضروری نہیں۔ کیوں کہ آپ ﷺ دو رکعتوں سے فراغت پر کھڑے ہو گئے تھے اور تشہد نہیں پڑھا تھا۔ اسحاق بن ابراہیم کہتے ہیں، اگر تشہد کر لے اور سلام نہ پھیرے تو اس کی نماز ہو جائے گی ان کی دلیل ابن مسعود کی حدیث ہے کہ جب نبی کریم ﷺ نے انہیں تشہد سکھایا تو فرمایا: جب تم اس سے۔ فارغ ہو جاؤ تو تم نے اپنا عمل پورا کر لیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں: عبدالرحمن بن زیاد، افریقی ہیں۔ بعض محدثین انہیں ضعیف کہتے ہیں جن میں یحییٰ بن سعید قطان اور احمد بن حنبل بھی شامل ہیں۔

باب ۲۹۶۔ مَا جَاءَ إِذَا كَانَ مَطَرٌ فَالْصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ
 ۳۵۱۔ حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ نَا أَبُو دَاوُدَ
 الطَّيَالِسِيُّ نَا زُهَيْرُ بْنُ مَعَاوِيَةَ عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنِ جَابِرِ
 قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي
 سَفَرٍ فَأَصَابَنَا مَطَرٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
 وَسَلَّمَ مَنْ شَاءَ فَلْيَصَلِّ فِي رَحْلِهِ

باب ۲۹۶۔ اگر بارش ہو رہی ہو تو گھروں میں نماز پڑھنا۔
 ۳۵۱۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک سفر
 میں تھے کہ بارش ہو گئی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جو شخص اپنے قیام کی جگہ
 نماز پڑھنا چاہے اسے اس کی اجازت ہے۔

اس باب میں ابن عمر، سمرہ، ابولح (اپنے والد سے) اور عبدالرحمن بن سمرہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں جابر کی
 حدیث حسن صحیح ہے۔

علماء حضرات بارش اور کیچڑ میں جمعہ اور جماعت کے ترک کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ احمد اور اسحاق کا قول ہے۔ میں نے ابو زرہ
 سے سنا کہ: عقیان بن مسلم نے عمرو بن علی سے صرف ایک حدیث روایت کی ہے۔ ابو زرہ کہتے ہیں: میں نے بصرہ میں ان تین آدمیوں
 سے زیادہ حافظ نہیں دیکھا۔ علی ابن مدینی، ابن شاد کوفی اور عمرو بن علی، ابوالح اسامہ کا نام عامر ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ زید بن اسامہ بن
 عمیر ہڈلی ہے۔

باب ۲۹۷۔ مَا جَاءَ فِي التَّسْبِيحِ فِي ادْبَارِ الصَّلَاةِ

۳۵۲۔ حَدَّثَنَا اسْلَخُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ
 الشَّهِيدِ وَعَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ قَالَا نَا كِتَابُ بَشِيرِ بْنِ
 خَصِيفٍ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍوَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
 جَاءَ الْفُقَرَاءُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
 وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ
 إِنَّ الْأَغْنِيَاءَ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا
 نَصُومُ وَلَهُمْ أَمْوَالٌ يُعْتَقُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ قَالَ فَإِذَا
 صَلَّيْتُمْ فَقُولُوا سُبْحَانَ اللَّهِ ثَلَاثًا وَتِلْكَ مَرَّةٌ وَالْحَمْدُ
 لِلَّهِ ثَلَاثًا وَتِلْكَ مَرَّةٌ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَرْبَعًا وَتِلْكَ مَرَّةٌ
 وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ فَإِنَّكُمْ تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ
 سَبَقَكُمْ وَلَا يَسْبِقُكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ

باب ۲۹۷۔ نماز کے بعد تسبیح کے متعلق

۳۵۲۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ کچھ فقراء رسول اللہ ﷺ کی
 خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ: مالدار لوگ اس
 طرح نماز پڑھتے ہیں جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے
 ہیں جیسے کہ ہم، ان کے پاس مال بھی ہے جس سے غلام آزاد کرتے اور
 صدقہ دیتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جب تم لوگ نماز پڑھ چکو تو
 تینتیس (۳۳) مرتبہ سبحان اللہ، تینتیس (۳۳) مرتبہ الحمد للہ،
 چونتیس (۳۴) مرتبہ اللہ اکبر اور دس (۱۰) مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔
 اس کے پڑھنے سے تم ان لوگوں کے درجات کو پہنچ جاؤ گے جو تم سے
 پہلے چلے گئے اور تمہارے بعد کوئی تم سے سبقت نہیں لے سکے گا۔

اس باب میں کعب بن عجرہ، انس، عبداللہ بن عمرو، زید بن ثابت، ابودرداء، ابن عمر اور ابو ذر سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے
 ہیں ابن عباس کی حدیث حسن غریب ہے۔ آپ ﷺ سے یہ بھی مروی ہے کہ فرمایا: دو خصلتیں ایسی ہیں کہ جو شخص انہیں اختیار کر لیتا ہے
 جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہر نماز کے بعد (۳۳) مرتبہ سبحان اللہ، (۳۳) مرتبہ الحمد للہ، اور ۳۴ مرتبہ اللہ اکبر کہے۔ اور پھر سوتے وقت
 دس مرتبہ سبحان اللہ، دس مرتبہ الحمد للہ اور دس مرتبہ اللہ اکبر کہے۔

باب ۲۹۸۔ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الدَّائِبَةِ فِي الطَّيْنِ وَالْمَطَرِ

باب ۲۹۸۔ بارش اور کچھڑ میں سواری پر نماز پڑھنا۔

۳۵۳۔ عمرو بن عثمان بن یعلیٰ بن مرہ اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ یہ حضرات آنحضرت ﷺ کے ساتھ سفر میں تھے کہ ایک تنگ جگہ پر پہنچے تو نماز کا وقت ہو گیا۔ اسی اثناء میں اوپر سے بارش برسنے لگی اور نیچے کچھڑ ہو گیا۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے سواری ہی پر اذان دی اور اقامت کہی پھر اپنی سواری کو آگے کیا اور اشارے سے نماز پڑھتے ہوئے ان کی امامت کی، آپ ﷺ سجدے میں رکوع سے زیادہ جھکتے تھے۔

۳۵۳۔ حدثنا يحيى ابن موسى نا شبابة بن سوار نا عمر بن الرماح عن كثير ابن زياد عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرّة عن أبيه عن جدّه انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفرٍ فانتهوا إلى مضيبي فحضرت الصلوة فمطروا السماء من فوقهم والبلّة من أسفل منهم فاذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على راحلته واقام فتقدم على راحلته فصلى بهم يومئذ إيماءً يجعل السجود أخفض من الركوع

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے کیونکہ اسے صرف عمرو بن رباح بلخی روایت کرتے ہیں یہ اور کسی کی روایت معلوم نہیں ہوتی۔ ان کے علماء روایت کرتے ہیں اور یہ انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بارش اور کچھڑ میں اپنی سواری پر ہی نماز پڑھی، علماء کا اسی پر عمل ہے اور یہ احمد اور اسحاق کا قول ہے۔

باب ۲۹۹۔ نماز میں اجتہاد کرنا۔

باب ۲۹۹۔ مَا جَاءَ فِي الإِجْتِهَادِ فِي الصَّلَاةِ

۳۵۴۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک مرتبہ نماز پڑھنا شروع کی یہاں تک کہ آپ ﷺ کے پاؤں پھول گئے۔ چنانچہ آپ ﷺ سے کہا گیا: آپ ﷺ اس طرح تکلیف اٹھاتے ہیں؟ جب کہ آپ ﷺ کے گلے پچھلے گناہ معاف کر دیئے گئے آپ ﷺ نے فرمایا: کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہوں؟

۳۵۴۔ حدثنا قتيبة وبشر بن معاذ قالنا نا ابو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى انتفخت قدماه فقبيل له اتكلفت هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا

اس باب میں ابو ہریرہ اور عائشہ سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں مغیرہ بن شعبہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۳۰۰۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔

باب ۳۰۰۔ مَا جَاءَ إِنْ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ

۳۵۵۔ حضرت حریر بن قبیصہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ آیا تو دعا کی کہ یا اللہ مجھے نیک ہم نشین عطا فرما۔ کہتے ہیں میں ابو ہریرہ کے ساتھ بیٹھ گیا اور ان سے عرض کیا میں نے اللہ تعالیٰ سے نیک ہم نشین کے لیے دعا کی تھی لہذا مجھے رسول اللہ ﷺ کی احادیث سنائیے جو آپ نے سنی ہیں۔ شاید اللہ تعالیٰ اس سے مجھے فائدہ پہنچائیں۔ ابو ہریرہ نے

۳۵۵۔ حدثنا علي بن نصر على الجهضمي نا سهل بن حماد بن همام قال حدثني قتادة عن الحسن عن حريث بن قبيصة قال قدمت المدينة فقلت اللهم يسر لي جليسا صالحا قال فجلست إلى أبي هريرة فقلت إني سألت الله أن يرزقني

فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ قیامت کے دن بندے سے جب اس کے اعمال کا حساب ہوگا تو نماز کا سب سے پہلے ہوگا۔ اگر یہ صحیح ہوئی تو کامیاب ہو گیا اور نجات پائی۔ اور اگر یہ صحیح نہ ہوئی تو یہ بھی نقصان اور گھائے میں رہا اگر فرائض میں کچھ نقص ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کے نواطل کو دیکھو اگر ہوں تو ان سے اس کی کوپورا کر دو پھر اس کا ہر عمل اسی طرح ہوگا۔ (یعنی اسی طرح حساب کیا جائے گا)۔

جَلِيسًا صَالِحًا فَحَدَّثَنِي بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَةٍ شَيْئًا قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى انظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكْمَلُ بِهِمَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ

اس باب میں تمیم داری سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث اس سند سے حسن غریب ہے اور اس کے علاوہ بھی کئی سندوں سے بواسطہ ابو ہریرہؓ ہے۔ حضرت حسن کے بعض دوست حسن سے اور وہ قبیسہ بن حریث سے اس حدیث کے علاوہ احادیث بھی نقل کرتے ہیں اور مشہور قبیسہ بن حریث ہی ہے۔ انس بن حکیم بھی ابو ہریرہؓ سے اور وہ نبی کریم ﷺ سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔

باب ۳۰۱۔ جو شخص دن اور رات میں بارہ رکعتیں سنت پڑھے اس کی فضیلت۔

باب ۳۰۱۔ مَا جَاءَ فِيمَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتِي عَشْرَةَ رُكْعَةً مِنَ السَّنَةِ مَالَهُ مِنَ الْفَضْلِ

۳۵۶۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جو شخص ہمیشہ بارہ (۱۲) رکعت سنت نماز پڑھتا رہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک مکان بنائیں گے۔ چار ظہر سے پہلے، دو ظہر کے بعد دو مغرب کے بعد، دو عشاء کے بعد اور دو فجر سے پہلے۔

۳۵۶۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ نَا اسْحَقُ بْنُ سَلِيمَانَ الرِّزِيِّ نَا الْمَغِيرَةَ بْنَ زِيَادٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ ثَابَرَ عَلَى ثِنْتِي عَشْرَةَ رُكْعَةً مِنَ السَّنَةِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعِ رُكْعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرُكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرُكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرُكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرُكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ

اس باب میں ام حبیبہؓ، ابو ہریرہؓ، ابو موسیٰ اور ابن عمرؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت عائشہؓ کی حدیث اس سند سے غریب ہے۔ مغیرہ بن زیاد کے حافظے کے متعلق بعض علماء کا کلام ہے۔

۳۵۷۔ حضرت ام حبیبہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص دن اور رات میں بارہ (۱۲) رکعتیں پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ چار ظہر سے پہلے دو ظہر کے بعد، دو رکعتیں مغرب کے بعد، دو رکعتیں عشاء کے بعد اور دو رکعتیں فجر کی نماز سے پہلے۔ (دن کے شروع کی)۔

۳۵۷۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَا مَوْمِلُ نَا سَفِيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنِ الْمَسِيْبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَنِيْسَةَ بِنِ ابْنِي سَفِيَانَ عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتِي عَشْرَةَ رُكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ

وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ
الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ صَلَوةُ الْغَدَاةِ

امام ترمذی کہتے ہیں عنبسه کی ام حبیبہ سے اس باب میں مروی حدیث حسن صحیح ہے اور کئی سندوں سے عنبسه ہی سے منقول ہے۔

باب ۳۰۲۔ مَا جَاءَ فِي رَكْعَتِي الْفَجْرِ مِنَ الْفَضْلِ

باب ۳۰۲۔ فجر کی دو سنتوں کی فضیلت۔

۳۵۸۔ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ

قَتَادَةَ عَنْ زُرَّاءَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ

عَائِشَةَ ۖ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

وَسَلَّمَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

اس باب میں علیؑ، ابن عمرؓ اور ابن عباسؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت عائشہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ امام احمد

بن حنبل، صالح بن عبد اللہ ترمذی سے حدیث نقل کرتے ہیں۔

باب ۳۰۳۔ مَا جَاءَ فِي تَخْفِيفِ رَكْعَتِي الْفَجْرِ

وَالْقِرَاءَةِ فِيهَا

۳۵۹۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ وَابُو عَمَارٍ قَالَا نَا

أَبُو أَحْمَدَ الزَّبِيرِيُّ نَا سَفِيانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ

مُجَاهِدِ بْنِ أَبِي عُمَرَ قَالَ رَمَقَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا فَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ

الْفَجْرِ بِقُلُوبِ الْكُفْرُونَ وَقُلُوبُ الْكُفْرُونَ وَهُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

اس باب میں ابن مسعودؓ، انسؓ، ابو ہریرہؓ، ابن عباسؓ، حفصہؓ اور حضرت عائشہؓ سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں، ہم ابن عمرؓ

کی حدیث کو ثوری کی ابو اسحاق سے روایت کے متعلق ابو احمد کی حدیث کے علاوہ نہیں جانتے اور یہ حدیث حسن ہے۔ لوگوں کے

نزدیک معروف یہ ہے کہ اسرائیل، ابوالحق سے روایت کرتے ہیں۔ ابوالاحمد سے بھی یہ حدیث بواسطہ اسرائیل مروی ہے۔ نیز ابو احمد

زبیری ثقہ اور حافظ ہیں کہتے ہیں میں نے بندار سے سنا: کہ میں نے ابو احمد زبیری سے بہتر حافظ نہیں دیکھا ان کا نام محمد بن عبد اللہ بن

زبیری اسدی کوئی ہے۔

باب ۳۰۴۔ مَا جَاءَ فِي الْكَلَامِ بَعْدَ رَكْعَتِي الْفَجْرِ

۳۶۰۔ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عِيسَى نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

أَدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ

أَبِي سَلْمَةَ عَنْ عَائِشَةَ ۖ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتِي الْفَجْرِ فَإِنْ كَانَتْ

لَهُ إِلَيَّ حَاجَةٌ كَلَّمَنِي وَإِلَّا خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ

اس باب میں حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ جب آنحضرت ﷺ فجر کی دو

رکعتیں پڑھتے تو اگر مجھ سے کوئی کام ہوتا تو بات کر لیتے ورنہ نماز

کے لیے چلے جاتے۔

باب ۳۰۴۔ فجر کی سنتوں کے بعد باتیں کرنا۔

۳۶۰۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ جب آنحضرت ﷺ فجر کی دو

رکعتیں پڑھتے تو اگر مجھ سے کوئی کام ہوتا تو بات کر لیتے ورنہ نماز

کے لیے چلے جاتے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض علماء صحابہ وغیرہ طلوع فجر کے بعد فجر کی نماز پڑھنے تک باتیں کرنے کو مکروہ کہتے ہیں۔ اللہ یہ کہ، اللہ کا ذکر کرے یا کوئی ضروری بات ہو۔ یہ احمد اور اسحاق کا قول ہے۔

باب ۳۰۵۔ مَا جَاءَ لِأَصْلُوَّةٍ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِأَبِ ۳۰۵۔ طلوع فجر کے بعد دو سنتوں کے علاوہ کوئی نماز نہیں۔
إِلَّا رُكْعَتَيْنِ

۳۶۱۔ حدثنا احمد بن عبدة الضبي نا عبد العزيز بن محمد عن قدامة بن موسى عن محمد بن الحصين عن ابى علقمة عن يسار مولى بن عمر عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا صلوة بعد الفجر الا سجدةً

۳۶۱۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: فجر کے طلوع ہونے کے بعد فجر کی دو سنتوں کے علاوہ کوئی نماز نہیں۔

اس باب میں عبد اللہ بن عمرؓ اور حفصہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن عمرؓ کی حدیث غریب ہے۔ ہم اسے قدامہ بن موسیٰ کی روایت کے علاوہ نہیں جانتے۔ ان سے کئی حضرات روایت کرتے ہیں اور اسی پر علماء کا اجماع ہے کہ طلوع فجر کے بعد سوائے دو رکعتوں کے کوئی اور نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ: فجر کے طلوع ہونے کے بعد فجر کی دو سنتوں کے علاوہ کوئی نماز نہ پڑھی جائے۔

باب ۳۰۶۔ مَا جَاءَ فِي الْأَصْطِحَاحِ بَعْدَ رُكْعَتَيْ الْفَجْرِ بِأَبِ ۳۰۶۔ فجر کی دو سنتوں کے بعد لیٹنے سے متعلق۔

۳۶۲۔ حدثنا بشر بن معاذ العقدي نا عبد الواحد بن زياد نا الا عمش عن ابى صالح عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه

۳۶۲۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی فجر کی دو سنتیں پڑھ لے، تو دائیں کروٹ پر لیٹ لے۔

اس باب میں حضرت عائشہؓ سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں ابو ہریرہؓ کی حدیث اس طریق سے حسن غریب ہے۔ حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ جب فجر کی دو رکعتیں پڑھ کر فارغ ہوتے تو دائیں کروٹ پر لیٹتے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ مستحب جانتے ہوئے ایسا کرنا چاہیے۔

باب ۳۰۷۔ مَا جَاءَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ بِأَبِ ۳۰۷۔ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں۔

۳۶۳۔ حدثنا احمد بن منيع نا روح بن عباد نا زكريا ابن اسحق نا عمرو بن دينار قال سمعت عطاء بن يسار عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا

۳۶۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب نماز کی جماعت کھڑی ہو جائے تو سوائے اس فرض کے کوئی نماز نہ پڑھی جائے۔

صَلَوَةٌ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ

اس باب میں ابن محسین، عبداللہ بن عمرو، عبداللہ بن سر جس، ابن عباس اور حضرت انسؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن ہے۔ اور ایوب، رقاء بن عمر، زیاد بن سعد، اسماعیل بن مسلم اور محمد بن جادہ بھی عمرو بن دینار سے وہ عطاء بن یسار سے وہ ابو ہریرہؓ سے اور وہ نبی کریم ﷺ سے اسی طرح روایت کرتے ہیں۔ یہ حضرات اسے مرفوع نہیں کرتے۔ ہمارے نزدیک مرفوع حدیث اصح ہے۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہؓ سے اس کے علاوہ بھی کئی سندوں سے مروی ہے۔ عیاش بن عباس قتیبانی مصری، ابوسلمہ سے وہ ابو ہریرہؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے روایت کرتے ہیں صحابہ وغیرہ کا اسی پر عمل ہے کہ اگر نماز کی اقامت ہو جائے تو کوئی شخص فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہ پڑھے۔ یہ سفیان ثوری، ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق کا قول ہے۔

توضیح: بہت سے فقہاء صحابہ سے مروی ہے کہ یہ حضرات فجر کی جماعت کھڑی ہونے کے بعد بھی سنتیں ادا کرتے تھے کیوں کہ ان کے متعلق احادیث میں بہت تاکید آئی ہے۔ حنفیہ بھی یہی مسلک اختیار کرتے ہیں۔ بشرطیکہ جماعت کے بالکل نکل جانے کا اندیشہ نہ ہو۔ پھر فجر میں قرأت بھی چون کہ طویل ہوتی ہے اس لیے ان کا ادا کر لینا ہی بہتر ہے کیونکہ طحاوی میں حضرت ابن عمرؓ، حضرت ابودرداءؓ اور ابو عثمان نہدیؓ وغیرہ سے مروی ہے کہ یہ حضرات جماعت کھڑی ہونے کے بعد بھی فجر کی سنتیں پڑھا کرتے تھے۔ (مترجم)

باب ۳۰۸۔ مَا جَاءَ فِيمَنْ تَفَوُّتُهُ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ يُصَلِّيَهُمَا بَعْدَ صَلَوَةِ الصُّبْحِ
باب ۳۰۸۔ جس کی فجر کی سنتیں چھوٹ جائیں وہ فجر کے بعد انہیں پڑھ لے۔

۳۶۴۔ حدثنا محمد بن عمرو السواق نا عبدالعزيز بن محمد عن سعد بن سعيد عن مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ عَنْ جَدِّهِ قَيْسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الصُّبْحَ ثُمَّ انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ نَبِيَّ أَصْلَى فَقَالَ مَهْلًا يَا قَيْسُ أَصَلَّاتَانِ مَعًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ أَكُنْ رَكَعْتُ رَكَعَتَيْ الْفَجْرِ فَلَا إِذَا

۳۶۴۔ حضرت محمد بن عمرو بن ابراہیم اپنے دادا قیس سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نکلے تو نماز کی اقامت ہو گئی میں نے آپ ﷺ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔ پھر نبی کریم ﷺ پیچھے کی طرف گھومے تو مجھے نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اے قیس ٹھہر جاؤ دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھو گے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ میں نے فجر کی سنتیں نہیں پڑھی تھیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس صورت میں کوئی حرج نہیں۔

امام ترمذی کہتے ہیں کہ ہم محمد بن ابراہیم کی اس طرح کی روایت سعد بن سعید کی روایت کے علاوہ نہیں جانتے سفیان بن عیینہ کہتے ہیں: عطاء بن ابورباح نے سعد بن سعید سے یہ حدیث سنی۔ یہ حدیث مرسلہ مروی ہے۔ اہل مکہ کی ایک جماعت اس حدیث پر عمل پیرا ہے۔ ان کے نزدیک فجر کے بعد سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تک دو سنتیں پڑھ لینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں: سعد بن سعید، یحییٰ بن سعید انصاری کے بھائی ہیں اور قیس یحییٰ بن سعید کے دادا ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ قیس بن عمرو ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قیس بن نہد ہیں۔ اس حدیث کی سند متصل نہیں۔ محمد بن ابراہیم یحییٰ نے قیس سے کوئی حدیث نہیں سنی۔ بعض راوی یہ حدیث سعد بن سعید سے اور وہ محمد بن ابراہیم سے روایت کرتے ہیں کہ ”رسول اللہ ﷺ نکلے تو قیس کو دیکھا“..... الخ

باب ۳۰۹۔ مَا جَاءَ فِي إِعَادَتِهَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
باب ۳۰۹۔ فجر کی سنتیں اگر چھوٹ جائیں تو طلوع آفتاب کے بعد پڑھے۔

۳۶۵۔ حدثنا عقبه بن المكرم العمى البصرى نا عمرو بن عاصم نا همام عن قتادة عن النضر بن انس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يصلني ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس

۳۶۵۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے فجر کی دو سنتیں نہ پڑھی ہوں وہ انہیں سورج نکلنے کے بعد پڑھے۔

امام ترمذی کہتے ہیں ہم اس حدیث کو اس سند کے علاوہ نہیں جانتے۔ حضرت ابن عمرؓ سے بھی مروی ہے کہ ان کا فعل یہی تھا۔ بعض اہل علم اسی پر عمل کرتے ہیں۔ یہی سفیان ثوری، شافعی، احمد، اسحاق اور ابن مبارک کا قول ہے امام ترمذی کہتے ہیں کہ سوائے عمرو بن عاصم کلابی کے کسی نے یہ حدیث ہم سے اسی اسناد سے اسی کے مثل روایت کی ہو۔ قتادہؓ کی حدیث مشہور ہے وہ نضر بن انس سے، وہ بشیر بن نہیک سے وہ ابو ہریرہؓ سے اور وہ حضور اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی ایک رکعت پالی گویا کہ اس نے فجر کی پوری نماز پائی۔

باب ۳۱۰۔ ظہر سے پہلے چار سنتیں پڑھنا

۳۶۶۔ حدثنا بندار نا ابو عامر نا سفیان عن ابی اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلني قبل الظهر أربعاً وبعدها ركعتين

۳۶۶۔ حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ظہر سے پہلے چار رکعتیں اور ظہر کے بعد دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔

اس باب میں حضرت عائشہؓ اور حضرت ام حبیبہؓ سے روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت علیؓ کی حدیث حسن ہے۔ ابو بکر عطار کہتے ہیں کہ علی بن عبد اللہ، یحییٰ بن سعید سے اور وہ سفیان سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ”ہم عاصم بن ضمیرہ کی حدیث کی حدیث پر فضیلت جانتے تھے“ اکثر علماء کا اسی پر عمل ہے۔ جن میں صحابہ اور بعد کے علماء شامل ہیں کہ ظہر سے پہلے چار اور ظہر کے بعد دو رکعت سنت پڑھے۔ یہی سفیان ثوری، ابن مبارک اور اسحاق کا قول ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں رات اور دن کی نماز دو رکعت ہے یعنی ان کے نزدیک دو رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیرنا چاہیے۔ یہ امام شافعی اور امام احمد کا قول ہے۔

باب ۳۱۱۔ ظہر کے بعد دو رکعتیں پڑھنا۔

۳۶۷۔ حدثنا احمد بن منيع نا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها

۳۶۷۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ظہر سے پہلے اور بعد دو رکعتیں پڑھیں۔

اس باب میں حضرت علیؓ اور حضرت عائشہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن عمرؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۳۱۲۔ باب آخر

۳۶۸۔ حدثنا عبدالوارث بن عبيد الله العتكي

۳۶۸۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اگر ظہر سے پہلے چار

المروزی نا عبد اللہ بن المبارک من خالد الحذاء
عن عبد اللہ بن شقیق عن عائشة انّ النبی صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلّم کان اذا لم یصل اربعاً قبل الظہر
صلاہن بعدہا

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے ابن مبارک کی روایت سے اسی سند سے جانتے ہیں۔ قیس بن حذافہ اس
حدیث کو شعبہ سے اور وہ خالد حذافہ سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اسے شعبہ سے قیس کے علاوہ کسی اور نے
روایت کیا ہو۔ عبدالرحمن بن ابی یحییٰ بھی آنحضرت ﷺ سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔

۳۶۹۔ عن أم حبیبة قالت قال رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلّم من صلی قبل الظہر اربعاً وبعدها
اربعاً حرّمہ اللہ تعالیٰ علی النار

۳۶۹۔ حضرت ام حبیبہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص ظہر
کی نماز سے پہلے اور اس کے بعد چار چار رکعتیں پڑھے۔ اللہ تعالیٰ اس
پر دوزخ کو حرام کر دیتے ہیں۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے اور اس کے علاوہ اور سند سے بھی مروی ہے۔

۳۷۰۔ حدثنا ابوبکر محمد بن اسحاق البغدادی
حدثنا عبد اللہ بن یوسف التنیسی الشامی حدثنا
الہیثم بن حمید قال اخبرنی العلاء بن الحارث
عن القاسم ابی عبدالرحمن عن عیسیٰ بن ابی
سفيان قال سمعت اخی ام حبیبة زوج النبی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلّم تقول سمعت رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلّم یقول من حافظ
علی اربع رکعات قبل الظہر واربع بعدہا حرّمہ
اللہ علی النار

۳۶۹۔ حضرت عیسیٰ بن ابی سفیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن ام
المؤمنین ام حبیبہؓ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس
نے ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد چار چار رکعتیں پڑھنے کی عادت ڈالی
(انہیں نہیں چھوڑا) اللہ تعالیٰ دوزخ کو اس کے لیے حرام کر دیں گے۔

امام ترمذی کہتے ہیں۔ یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے اور قاسم، قاسم بن عبد الرحمن اور ان کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے۔ یہ
عبد الرحمن بن خالد بن یزید بن معاویہ کے مولیٰ ہیں، ثقہ ہیں، شام کے رہنے والے اور ابوامامہ کے دوست ہیں۔

باب ۳۱۳۔ ماجاء فی الاربع قبل العصر

باب ۳۱۳۔ عصر سے پہلے چار رکعتیں پڑھنا

۳۷۱۔ حدثنا بندار محمد بن بشار نا ابو عامر نا
سفيان عن ابی اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن
علي قال کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلّم
یصلی قبل العصر اربع رکعات یفصل بینہن
بالتسليم علی الملائکة المقربین ومن تبعہم من

۳۷۱۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ عصر سے پہلے چار رکعتیں
پڑھتے اور ان کے درمیان مقرب فرشتوں اور مسلمانوں و مؤمنوں میں
سے ان کے متبعین پر سلام بھیج کر فصل کر دیتے تھے (یعنی دو دو رکعتیں
پڑھتے تھے)۔

بالتسليم علی الملائکة المقربین ومن تبعہم من

الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ

اس باب میں ابن عمرؓ اور عبداللہ بن عمروؓ سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں علیؓ کی حدیث حسن ہے اسحاق بن ابراہیم نے یہ اختیار کیا ہے کہ عصر کی چار سنتوں کے درمیان سلام نہ پھیرے (یعنی دو دو کر کے نہ پڑھے) وہ اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے درمیان تشہد سے فصل کرتے تھے۔ امام شافعی اور احمد دن اور رات کی نمازوں کو دو دو کر کے پڑھنے کے قائل ہیں۔ ان حضرات نے ”فصل“ اختیار کیا ہے۔

۳۷۲۔ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ أُمَّرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا
امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے۔

باب ۳۱۴۔ مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَالْقِرَاءَةَ فِيهِمَا
۳۷۳۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ نَا عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ مَا أَحْصِي مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَفْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَقُولُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

۳۷۳۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ میں شمار نہیں کر سکتا کہ میں نے کتنی بار رسول اللہ ﷺ کو مغرب اور فجر کی دو سنتوں میں سورہ کافرون، اور سورہ اہلصافات پڑھتے ہوئے سنا۔

اس باب میں حضرت ابن عمرؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن مسعودؓ کی حدیث غریب ہے ہم اسے عبدالملک بن معدان کی عاصم سے روایت کے علاوہ نہیں جانتے۔

باب ۳۱۵۔ مغرب کی سنتیں گھر پر پڑھنا

۳۷۴۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ
۳۷۵۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلَوَانِيُّ نَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ نَا مَعْمَرُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ كَانَ يُصَلِّيهِمَا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

اس باب میں رافع بن خدیجؓ اور کعب بن حجرہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن عمرؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۷۵۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے دس رکعتیں یاد کی ہیں کہ آپ دن اور رات میں انہیں پڑھا کرتے تھے۔ دو رکعتیں ظہر سے پہلے، دو اس کے بعد، دو مغرب کے بعد، دو عشاء کے بعد۔ اور مجھے حفصہؓ نے بتایا کہ فجر سے پہلے آپ ﷺ دو رکعتیں پڑھا

رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرَبِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَحَدَّثَنِي حَفْصَةُ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْفَجْرِ رَكَعَتَيْنِ كَرْتے تھے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حسن بن علی، عبدالرزاق سے، وہ معمر سے وہ زہری سے وہ سالم سے وہ ابن عمر سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۳۱۶۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ التَّطَوُّعِ سِتِّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

۳۷۶۔ حَدَّثَنَا ابُو كَرِيْبٍ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيَّ الْكُوفِيَّ نَازِيْدَ بْنَ الْحَبَابِ نَاصِرَ بْنَ أَبِي حَنْعَمٍ عَنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتِّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيمَا بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ عُذِلْنَا لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتِي عَشْرَةَ سَنَةً

۳۷۴۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص مغرب کے بعد چھ رکعتیں پڑھے اور ان کے درمیان بری بات نہ کرے تو اسے بارہ (۱۲) سال تک عبادت کا ثواب ملے گا۔

امام ترمذی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ سے حضور اکرم ﷺ کے متعلق مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جس نے مغرب کے بعد بیس رکعتیں پڑھیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں، امام ترمذی کہتے ہیں ابو ہریرہؓ کی حدیث غریب ہے۔ ہم اسے زید بن خباب کی عمر بن ابی شعم سے روایت کے علاوہ نہیں جانتے۔ میں نے امام بخاری سے سنا کہ عمر بن عبداللہ بن ابی شعم منکر حدیث ہیں اور انہیں بہت ضعیف کہتے ہیں۔

باب ۳۱۷۔ مَا جَاءَ فِي رَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ

۳۷۷۔ حَدَّثَنَا ابُو سَلَمَةَ يَحْيَى ابْنُ خَلْفِ نَاصِرِ بْنِ الْمَفْضَلِ عَنِ خَالِدِ الْحَدَّادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكَعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكَعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ ثِنْتَيْنِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكَعَتَيْنِ وَقَبْلَ الْفَجْرِ ثِنْتَيْنِ

۳۷۷۔ حضرت عبداللہ بن شقیق فرماتے ہیں کہ میں نے عائشہؓ سے آنحضرت ﷺ کی نماز کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا: آپ ﷺ ظہر سے پہلے اور بعد دو دو رکعتیں مغرب کے بعد دو رکعتیں، عشاء کے بعد دو رکعتیں اور فجر سے پہلے دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔

اس باب میں علیؓ اور ابن عمرؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: عبداللہ بن شقیق کی حضرت عائشہؓ سے مروی حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۳۱۸۔ مَا جَاءَ أَنَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ مَثْنِي مَثْنِي

۳۷۸۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَاصِرِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ عُمَرَ

۳۱۸۔ رات کی نماز دو دو رکعت ہے۔

۳۷۸۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: رات کی

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ صَلَوَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا حَفَّتِ الصُّبْحُ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ وَاجْعَلْ آخِرَ صَلَوَاتِكَ وَتَرَا

نماز دو دو رکعتیں ہے اگر تمہیں صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو ایک رکعت پڑھ لو اور آخری نماز کو وتر سمجھو۔

اس باب میں عمرو بن عبسہ سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں۔ ابن عمر کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اور اسی پر اہل علم کا عمل ہے۔ کہ رات کی نماز دو دو رکعتیں کر کے پڑھی جائے۔ سفیان ثوری، ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں۔

باب ۳۱۹۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ صَلَوَةِ اللَّيْلِ

۳۱۹۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: رمضان کے روزوں کے بعد افضل ترین روزے محرم کے مہینے کے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔

۳۱۹۔ حدثنا قتيبة نا ابو عوانة عن ابى بشر عن حميد بن عبد الرحمن الهميري عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم افضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم وافضل الصلوة بعد الفريضة صلوة الليل

اس باب میں جابر، بلال اور ابوامامہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن ہے۔ ابو بشر کا نام جعفر بن ایاس ہے اور وہ جعفر بن ابو وحیہ ہیں۔

باب ۳۲۰۔ مَا جَاءَ فِي وَصْفِ صَلَوَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

۳۲۰۔ حضرت ابو سلمہؓ نے حضرت عائشہؓ سے آنحضرت ﷺ کی رمضان میں رات کی نماز کی کیفیت دریافت کی تو فرمایا: حضور اکرم ﷺ رمضان اور اس کے علاوہ (۱۱) گیارہ رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ چار رکعتیں اس طرح پڑھتے تھے کہ ان کے حسن کے بارے میں اور ان کی تطویل کے بارے میں مت پوچھو پھر چار پڑھتے ان کے حسن اور طوالت کے متعلق بھی نہ پوچھو اس کے بعد تین رکعتیں پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اے عائشہؓ میری آنکھیں سوتی ہیں اور دل جاگتا رہتا ہے۔

۳۲۰۔ حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري نا معن نا مالك عن سعيد بن ابى سعيد المقبري عن ابى سلمة انه اخبره انه سأل عائشة كيف كانت صلوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسئل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسئل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا فقالت عائشة فقلت يا رسول الله اتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۸۱۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ رات کو گیارہ رکعتیں پڑھتے تھے ان میں سے ایک کے ساتھ وتر کرتے۔ پھر جب اس سے فارغ ہوتے تو دائیں کروٹ لیٹ جاتے۔

۳۸۱۔ حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري نا معن بن عيسى نا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رُكْعَةً يُؤْتِرُ مِنْهَا
بِوَاحِدَةٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ

قتیبہ، مالک سے اور وہ ابن شہاب سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۳۲۱۔ باب مِنْهُ

۳۸۰۔ حدثنا ابو کریب نا و کعب عن شعبة عن أبي
جمرة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة

امام ترمذی کہتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۳۲۲۔ باب مِنْهُ

۳۸۱۔ حدثنا هنادنا ابو الاحوص عن الاعمش عن
ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت كان النبي صلى
الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل تسع ركعات

اس باب میں ابو ہریرہ، زید بن خالد اور فضل بن عباس سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت عائشہؓ کی یہ حدیث اس
سند سے حسن غریب ہے۔ سفیان نے اسے اعمش سے اسی کے مثل روایت کیا ہے۔ ہم سے یہ بات محمود بن غیلان نے نقل کی۔ وہ یحییٰ بن
آدم سے وہ سفیان سے اور وہ اعمش سے نقل کرتے ہیں امام ترمذی کہتے ہیں: اکثر روایات میں آنحضرت ﷺ کا تیرہ (۱۳) رکعات پڑھنا
مروی ہے جب کہ کم سے کم نو (۹) رکعتیں منقول ہیں۔

۳۸۲۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ اگر رسول اللہ ﷺ رات کو نیند کی وجہ
سے یا آنکھ لگ جانے کی وجہ سے نماز نہ پڑھ سکتے تو دن میں بارہ (۱۲)
رکعتیں پڑھتے۔

۳۸۳۔ حدثنا قتيبة نا ابو عوانة عن قتادة عن زرارة بن
أوفى عن سعد ابن هشام عن عائشة قالت كان النبي
صلى الله عليه وآله وسلم إذا لم يصلي من الليل منعة من
ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ عباس (ابن عبدالمعظم عمیری)، عتاب بن ثنی سے اور وہ بہز بن حکیم سے روایت کرتے ہیں کہ
”زرارہ بن اوفیٰ بصرہ کے قاضی تھے اور قبیلہ بنو تیشر کی امامت کرتے تھے ایک دن فجر کی نماز میں انہوں نے پڑھا ”فاذا نقر في الناقور فذلک
یومئذ یوم عسیر“ (ترجمہ: جب پھونکا جائے گا صورتو وہ دن بہت سخت ہوگا) اور بیہوش ہو کر گرے اور فوت ہو گئے۔ جن لوگوں نے انہیں ان
کے گھر پہنچایا ان میں میں بھی شامل تھا۔ امام ترمذی کہتے ہیں: سعد بن ہشام، عامر انصاری کے بیٹے ہیں اور ہشام بن عامر صحابی ہیں۔

باب ۳۲۳۔ باب فِي نَزْوِلِ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَيَّ

۳۸۴۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ
تبارک و تعالیٰ ہر رات کے آسمان پر آتے ہیں۔

۳۸۵۔ حدثنا قتيبة نا يعقوب بن عبد الرحمن
الاسكندراني عن سهيل بن ابى صالح عن أبيه عن

۳۸۵۔ حدثنا قتيبة نا يعقوب بن عبد الرحمن
الاسكندراني عن سهيل بن ابى صالح عن أبيه عن

اترتے اور فرماتے ہیں: ”میں بادشاہ ہوں، کون مجھ سے دعا مانگتا ہے۔ میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ کون مجھ سے سوال کرتا ہے۔ میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ کون مجھ سے مغفرت کا طلبگار ہے میں اس کی مغفرت کروں؟ پھر اسی طرح فرماتے رہتے ہیں یہاں تک کہ فجر روشن ہو جاتی ہے۔

أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَمْضِي ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ فَيَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَاَسْتَجِيبَ لَهُ مِنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضَيَّ الْفَجْرُ

اس باب میں علی بن ابی طالبؓ، ابوسعیدؓ، رفاعہؓ، جبیر بن مطعمؓ، ابن مسعودؓ، ابودرداءؓ اور عثمان بن ابی العاصؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور بہت سی سندوں سے حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے۔ وہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ جب رات کا آخری تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اترتے ہیں یہ روایت صحیح ہے۔

باب ۳۲۴۔ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ بِاللَّيْلِ

باب ۳۲۳۔ رات کو قرأت کرنا۔

۳۸۶۔ حضرت ابوقادہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ابوبکرؓ فرمایا: میں (رات کو تمہارے پاس سے گزرا تو تم قرآن پڑھ رہے تھے اور آواز بہت دھیمی تھی حضرت ابوبکرؓ نے عرض کیا: میں جس سے مناجات کر رہا تھا اس کو سنا دیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: آواز تھوڑی سی اونچی رکھا کرو پھر حضرت عمرؓ سے فرمایا: میں تمہارے پاس سے گزرا تو تم بھی پڑھ رہے تھے اور آواز بلند تھی۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا: میں سونے والوں کو جگاتا اور شیطانوں کو بھگاتا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ذرا آہستہ پڑھا کرو۔

۳۸۶۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَحْوَ يَحْيَى بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ حَمَادِ بْنِ سَلْمَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تَقْرَأُ وَأَنْتَ تَحْفِضُ مِنْ صَوْتِكَ فَقَالَ إِنِّي أَسْمَعُ مَنْ نَاجَيْتُ قَالَ ارْفَعْ قَلِيلًا وَقَالَ لِعُمَرَ مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تَقْرَأُ وَأَنْتَ تَرْفَعُ صَوْتَكَ فَقَالَ إِنِّي أُرْقِطُ الْوَسْطَانَ وَأَطْرُدُ الشَّيْطَانَ قَالَ اخْفِضْ قَلِيلًا

اس باب میں عائشہؓ، ام ہانیؓ، انسؓ، سلمہ اور ابن عباسؓ سے بھی روایت ہے۔

۳۸۷۔ حضرت عبد اللہ بن ابوقیسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے پوچھا: آنحضرت ﷺ کی رات کو قرأت کیسی تھی فرمایا: آپ ﷺ ہر طرح قرأت کرتے کبھی دھیمی آواز سے اور کبھی بلند آواز سے۔ میں نے کہا: الحمد للہ..... الخ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے دین میں وسعت رکھی۔

۳۸۷۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَالِيْثٍ عَنْ مَعَاوِيَةَ بْنِ مَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ رُبَّمَا أَسْرَّ بِالْقِرَاءَةِ وَرُبَّمَا جَهَرَ فَقُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث بھی صحیح غریب ہے۔ ابوقادہؓ کی حدیث بھی غریب ہے۔ اسے یحییٰ بن اسحاق حماد بن سلمہؓ سے روایت کرتے ہیں جب کہ اکثر حضرات اس حدیث کو ثابتؓ سے اور وہ عبد اللہ بن رباح سے مرسل روایت کرتے ہیں۔

۳۸۸۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے قرآن کی ایک ہی آیت پڑھ کر پوری رات گزار دی۔

۳۸۸۔ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ نَافِعِ الْبَصْرِيِّ نَحْوَ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ

العبدی عن ابی المتوکل النّاجی عن عائشۃ قالت قام النّبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بایۃ من القرآن لیلة

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔

باب ۳۲۵۔ نفل گھر میں پڑھنے کی فضیلت

۳۸۹۔ حضرت زید بن ثابتؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: فرض نماز کے علاوہ تمہاری افضل ترین نماز وہ ہے جو گھر میں پڑھی جائے۔

باب ۳۲۵۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ صَلَاةِ النَّطْوِ فِي الْبَيْتِ

۳۸۹۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر نا عبد اللہ بن سعید بن ابی ہند عن سالم ابی النضر عن يسر بن سعید عن زید بن ثابت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال افضل صلواتکم فی بیوتکم الا المكتوبة

اس باب میں عمر بن خطابؓ، جابر بن عبد اللہؓ، ابوسعیدؓ، ابو ہریرہؓ، ابن عمرؓ، عائشہؓ، عبد اللہ بن سعدؓ اور زید بن خالد جہنیؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ زید بن ثابتؓ کی حدیث حسن ہے۔ علماء نے اس حدیث کی روایت میں اختلاف کیا ہے۔ چنانچہ موسیٰ بن عقبہ اور ابراہیم بن ابونصر اسے مرفوعاً اور بعض حضرات اسے موقوفاً روایت کرتے ہیں جب کہ مالکؓ ابوالنضر سے روایت کرتے ہوئے مرفوع نہیں کرتے۔ اور مرفوع حدیث صحیح ہے۔

۳۹۰۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو اور انہیں قبریں نہ بناؤ (یعنی قبرستان کی طرح نمازوں سے خالی نہ رکھو)۔

۳۹۰۔ حدثنا اسحق بن منصور نا عبد اللہ بن نمیر عن عبید اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النّبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال صلوا فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

وتر کے ابواب

باب ۳۲۶۔ وتر کی فضیلت

۳۱۹۔ خارجہ بن حذافہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہماری طرف نکلے اور فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ایک نماز سے تمہاری مدد کی ہے جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے (یعنی) ”وتر“ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عشاء اور طلوع فجر کے درمیانی وقت میں مقرر فرمایا ہے۔

أَبْوَابُ الْوَتْرِ

باب ۳۲۶۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْوَتْرِ

۳۹۱۔ حدثنا قتیبۃ ثنا اللیث بن سعد فی عن یزید بن ابی حبیب عن عبد اللہ بن راشد الزوفی عن عبد اللہ بن ابی مرۃ الزوفی عن خارجۃ بن حذافۃ انه قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال ان اللہ امدکم بصلوۃ ہی خیر لکم من حمر النعم الوتر جعلہ اللہ لکم فیما بین صلوۃ العشاء الی ان یطلع الفجر

اس باب میں ابو ہریرہؓ، عبد اللہ بن عمروؓ، بریدہؓ اور ابوبصرہؓ (صحابی) سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: خارجہ بن حذافہؓ کی حدیث غریب ہے۔ ہم اسے یزید بن ابی حبیب کی روایت کے علاوہ نہیں جانتے۔ بعض محدثین کو اس حدیث میں وہم ہوا ہے۔ ان کا کہنا ہے: عبد اللہ بن راشد الزرقی اور یہ وہم ہے۔

باب ۳۲۷۔ مَا جَاءَ إِنْ الْوُتْرَ لَيْسَ بِحَتْمٍ

باب ۳۲۷۔ وتر فرض نہیں۔

۳۹۲۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ نَا أَبُو بَكْرٍ بِنَ عِيَاشِ نَا
أَبُو اسْحَقَ عَن عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَن عَلِيٍّ قَالَ الْوُتْرُ
لَيْسَ بِحَتْمٍ كَصَلَوْتِكُمْ الْمَكْتُوبَةَ وَلَكِنَّ سَنَ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ اللَّهُ وَتُرِيحُبُّ
الْوُتْرَ فَأُوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ

۳۹۲۔ حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ وتر فرض نماز کی طرح فرض نہیں۔ لیکن رسول اللہؐ کی سنت ہے آپ ﷺ نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ طاق (تہا) ہے۔ اور طاق کو پسند کرتا ہے۔ اے اہل قرآن وتر پڑھا کرو۔

اس باب میں ابن عمرؓ، ابن مسعودؓ اور ابن عباسؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت علیؑ کی حدیث حسن ہے۔ سفیان ثوری وغیرہ ابواسحاق سے وہ عاصم بن ضمیرہ سے اور وہ حضرت علیؑ سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا: (وتر فرض نماز کی طرح فرض نہیں لیکن سنت ہے آپ ﷺ نے اسے سنت بنایا) ہمیں اس کی خبر بندار نے انہیں عبدالرحمن بن مہدی نے اور انہیں سفیان نے دی۔ اور یہ ابو بکر بن عیاش کی حدیث سے صحیح ہے۔ منصور بن معتمر بھی ابواسحاق سے ابو بکر بن عیاش کی حدیث کے مثل روایت کرتے ہیں۔

باب ۳۲۸۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّوْمِ قَبْلَ الْوُتْرِ

باب ۳۲۸۔ وتر سے پہلے سونا مکروہ ہے۔

۳۹۳۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ نَا زَكَرِيَّا بِنَ أَبِي زَائِدَةَ عَن

۳۹۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہؐ نے حکم دیا کہ سونے سے پہلے وتر پڑھا کروں۔

اسْرَائِيلَ عَن عِيْسَى بِنِ أَبِي عَزَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ
ثَوْرٍ الْاَزْدِيِّ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ

عیسیٰ بن ابوعزہ کہتے ہیں کہ شععی شروع رات میں پڑھتے اور پھر سوتے تھے۔ اس باب میں ابو ذرؓ سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں ابو ہریرہؓ کی حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ ابو ثور کا نام حبیب بن ابوملیکہ ہے۔ علماء صحابہ اور بعد کے علماء کی ایک جماعت نے یہ مسلک اختیار کیا ہے کہ وتر پڑھنے سے پہلے نہ سوائے آنحضرت رسول اللہؐ سے یہ بھی مروی ہے۔ کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جسے یہ ڈر ہو کہ رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکے گا تو شروع میں ہی وتر پڑھے۔ اس لیے کہ رات کے آخری حصے میں جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اور یہی افضل ہے کہ ہم سے یہ حدیث ہناد نے روایت کی وہ ابو معاویہ سے وہ اعمش سے وہ ابو سفیان سے وہ جابر سے اور وہ حضور اکرم رسول اللہؐ سے روایت کرتے ہیں۔

باب ۳۲۹۔ مَا جَاءَ فِي الْوُتْرِ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَآخِرِهِ

باب ۳۲۹۔ وتر رات کے شروع اور آخر دونوں وقتوں میں جائز ہے۔

۳۹۴۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ بِنَ أَبِي بَكْرٍ بِنَ عِيَاشِ نَا
أَبُو حَصِينٍ عَنِ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ عَنِ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ
سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ وَتْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَتْ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْ تَرَأَوْهُ وَ أَوْ سَطِطَهُ
وَآخِرِهِ فَأَنْتَهَى وَتَرَهُ حِينَ مَاتَ فِي وَجْهِ السَّحْرِ

۳۹۴۔ مسروق نے عائشہؓ سے حضور اکرم رسول اللہؐ کے وتر کے متعلق پوچھا فرمایا: پوری رات میں جب چاہتے وتر پڑھ لیتے۔ کبھی رات کے شروع میں کبھی درمیانی حصے میں اور کبھی رات کے آخری حصے میں۔ یہاں تک کہ جب آپ ﷺ کی وفات ہوئی تو آپ ﷺ رات کے آخری حصے (سحر کے وقت) میں وتر پڑھا کرتے تھے۔ (یعنی آخری ایام میں)۔

امام ترمذی کہتے ہیں، ابو یوسف کا نام عثمان بن عاصم اسدی ہے۔ اس باب میں علی، جابر ابو مسعود انصاری اور ابو قتادہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت عائشہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض اہل علم نے وتر کورات کے آخری حصے میں پڑھنے کو اختیار کیا ہے۔

باب ۳۳۰۔ وتر کی سات رکعتیں۔

باب ۳۳۰۔ مَا جَاءَ فِي الْوُتْرِ بِسَبْعٍ

۳۹۵۔ حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ۱۳ رکعتیں وتر پڑھا کرتے تھے۔ پھر جب بوڑھے اور ضعیف ہو گئے تو سات رکعتیں پڑھنے لگے۔

۳۹۵۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ أَبِي مَعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرَّةٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَزَّارِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُؤْتِرُ بِثَلَاثِ عَشْرَةَ فَلَمَّا كَبُرَ وَضَعَفَ أَوْ تَرَبَّسَعَ

اس باب میں حضرت عائشہؓ سے روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت ام سلمہؓ کی حدیث حسن ہے۔ آپ ﷺ سے یہ بھی مروی ہے کہ وتر میں ۱۳، ۹، ۱۱، ۷ اور ایک رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اسحاق بن ابراہیم کہتے ہیں: ”آنحضرت رسول اللہ ﷺ وتر میں تیرہ (۱۳) رکعتیں پڑھتے تھے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وتر سمیت تیرہ (۱۳) پڑھتے تھے۔ چنانچہ رات کی نماز بھی وتر کی طرف منسوب ہوگی۔ اس میں حضرت عائشہؓ سے بھی حدیث منقول ہے ان کا استدلال حضور اکرم رسول اللہ ﷺ سے مروی اس حدیث سے ہے کہ ”اے اہل قرآن وتر پڑھا کرو“ اس کا مقصد تہجد کی نماز ہے یعنی تہجد کو بھی (مجازاً) وتر کہتے ہیں اس لیے آپ ﷺ نے اہل قرآن کو تہجد کا حکم فرمایا۔

باب ۳۳۱۔ وتر کی پانچ رکعات پڑھنا

باب ۳۳۱۔ مَا جَاءَ فِي الْوُتْرِ بِخَمْسٍ

۳۹۶۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی رات کی نماز تیرہ (۱۳) رکعتوں پر مشتمل تھی اس میں سے پانچ رکعتیں وتر پڑھتے اور ان کے دوران نہیں بیٹھتے تھے پھر آخری رکعت میں بیٹھتے۔ پھر جب مؤذن اذان دیتا تو کھڑے ہوتے اور دو رکعتیں پڑھتے جو بہت ہلکی ہوتیں۔

۳۹۶۔ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَمِيرٍ نَاهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ يُؤْتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَدِّنَ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

اس باب میں ابو ایوبؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت عائشہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور بعض علماء صحابہ وغیرہ نے یہی مسلک اختیار کیا ہے کہ وتر کی پانچ رکعتیں ہیں۔ مزید یہ کہ ان کے دوران بیٹھنے نہیں صرف آخری رکعت میں بیٹھے۔

باب ۳۳۲۔ وتر میں تین رکعتیں ہیں۔

باب ۳۳۲۔ مَا جَاءَ فِي الْوُتْرِ بِثَلَاثٍ

۳۹۷۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ تین رکعت وتر پڑھ کرتے تھے اور ان میں نو مفصل کی سورتیں پڑھتے تھے اور ہر رکعت میں تین سورتیں جن میں سے آخری سورہ اخلاص ہوتی تھی۔

۳۹۷۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عِيَّاشِ بْنِ أَبِي اسْحَقَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُؤْتِرُ بِثَلَاثٍ يَقْرَأُ فِيهِنَّ بِتِسْعِ سُورٍ مِنَ الْمُفْصَلِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِثَلَاثِ سُورٍ آخِرُهُنَّ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

اس باب میں عمران بن حصینؓ، عائشہؓ، ابن عباسؓ، ابویوبؓ، عبدالرحمن بن ابی بکرؓ سے بھی روایت ہے عبدالرحمن بن ابی بکرؓ، ابی بن کعبؓ سے روایت کرتے ہیں۔ عبدالرحمن بن ابی بکرؓ حضور اکرم رسول اللہ ﷺ سے بھی روایت کرتے ہیں۔ بعض حضرات اسے اس طرح نقل کرتے ہوئے ابی بن کعبؓ کا ذکر نہیں کرتے جب کہ بعض حضرات عبدالرحمن بن ابی بکرؓ سے اور وہ ابی بن کعبؓ سے نقل کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں علماء صحابہ وغیرہ کی ایک جماعت اسی پر عمل کرتی ہے کہ وتر میں تین رکعات پڑھی جائیں۔ سفیان کہتے ہیں: اگر چاہو تو پانچ رکعتیں پڑھو اور چاہو تو تین اور اگر چاہو کہ ایک رکعت پڑھو تو بھی صحیح ہے۔ اور میرے نزدیک تین رکعت وتر پڑھنا مستحب ہے یہ ابن مبارک اور اہل کوفہ (احناف) کا قول ہے۔

مسئلہ: حنفیہ کے نزدیک وتر کی تین رکعات ہیں جو کہ متعین ہیں اور وہ بھی ایک سلام کے ساتھ دو مسلمانوں کے ساتھ تین رکعتیں پڑھنا احناف کے نزدیک جائز نہیں۔ یہ حضرات دلیل کے طور پر کئی احادیث پیش کرتے ہیں۔

(۱) ترمذی ہی میں مذکور حدیث ابوسلمہ (۳۸۰) اس حدیث میں صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ آپ ﷺ تین رکعتیں پڑھتے تھے۔

(۲) حدیث نمبر ۳۹۹: اس میں بھی تین ہی رکعات کا ذکر ہے۔

(۳) حدیث نمبر ۳۹۷: اس میں بھی تین رکعات کی تصریح ہے جو ابھی گزری ہے یعنی حدیث باب

(۴) حدیث نمبر ۴۰۰: حضرت عائشہؓ کی حدیث اس میں بھی صراحت کے ساتھ تین رکعتوں کا ذکر ہے۔

یہ تمام احادیث وتر کی تین رکعات پر صراحت کے ساتھ دلالت کرتی ہیں۔ جہاں تک دوسری روایات کا تعلق ہے تو دراصل ان میں ایک سے لے کر تیرہ (۱۳) رکعات تک کا ذکر ہے۔ اور ان روایات میں وتر سے مراد پوری نماز شب ہے۔ جیسے کہ امام ترمذی نے بھی امام اسحاق بن راہویہ کا قول نقل کیا ہے جہاں تک حضرت عائشہؓ کی حدیث کا تعلق ہے کہ ”آپ ﷺ وتر میں پانچ رکعتیں پڑھتے اور درمیان میں نہیں بیٹھتے تھے“۔ تو درحقیقت ان پانچ رکعتوں میں دو رکعت نفل بھی شامل ہے، اور نہ بیٹھنے سے مراد کافی دیر تک بیٹھ کر دعا و ذکر وغیرہ کرنا ہے نہ کہ قعدہ کی نفی۔

رہ گیا مسئلہ ان تینوں رکعات میں ایک ہی سلام پھیرنے کا، تو اس کی دلیل یہ ہے کہ وتر کی تین رکعات کی حتمی روایات اوپر ذکر کی گئیں ان میں سے کسی میں بھی دو مسلمانوں کا ذکر نہیں۔ اگر آنحضرت رسول اللہ ﷺ کا معمول دو مسلمانوں کے ساتھ تین رکعات پڑھنے کا ہوتا تو یہ ایک غیر معمولی بات ہوتی جس کا ذکر صحابہ کرام ضرور کرتے اس لیے یہی کہا جائے گا کہ آپ ﷺ یہ تین رکعتیں معمول کے مطابق مغرب کی نماز کی طرح ایک ہی سلام کے ساتھ ادا فرماتے تھے۔

صحابہ کرامؓ کی ایک بڑی جماعت جن میں حضرت ابوبکر صدیقؓ، عمر فاروقؓ، علیؓ، ابن مسعودؓ اور حضرت ابن عباسؓ جیسے حلیل القدر صحابہ بھی شامل ہیں۔ یہ تمام حضرات بھی ایک سلام کے ساتھ تین رکعات پڑھنے کے قائل ہیں۔ ان کی روایات و آثار مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ اور طحاوی وغیرہ میں موجود ہیں لہذا حنفیہ کا مسلک آثار صحابہ سے بھی مؤید ہے۔ (واللہ اعلم مترجم)

باب ۳۳۲۔ وتر میں ایک رکعت پڑھنا۔

باب ۳۳۳۔ مَا جَاءَ فِي الْوَيْتِ بِرُكْعَةٍ

۳۹۷۔ حضرت انس بن سیرینؓ کہتے ہیں میں نے ابن عمرؓ سے پوچھا کیا میں فجر کی دو رکعتوں (سنتوں) میں قرأت لمبی کروں افرمایا: نبی اکرم ﷺ رات کو دو دو رکعت کر کے نماز پڑھتے اور پھر آخر میں ایک رکعت وتر اور فجر کی دو رکعتیں اس وقت پڑھتے جب فجر کی اذان سنتے۔

۳۹۸۔ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ أَطِيلُ فِي رُكْعَتِي الْفَجْرِ فَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنِي مَثْنِي وَيَوْتِرُ بِرُكْعَةٍ وَكَانَ

يُصَلِّي الرُّكْعَتَيْنِ وَالْأَذَانَ فِي أُذُنِهِ

اس باب میں عائشہؓ، جابرؓ، فضل بن عباسؓ، ابویوبؓ اور ابن عباسؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن عمرؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور بعض صحابہ اور تابعین کا اسی پر عمل ہے کہ دو رکعتوں اور تیسری رکعت کے درمیان فصل کرے (سلام پھیرے) اور تیسری رکعت وتر کی پڑھے۔ یہ امام مالک، شافعی، احمد اور اسحاق کا قول ہے۔

باب ۳۳۳۔ وتر نماز میں کیا پڑھے؟

باب ۳۳۴۔ مَا جَاءَ مَا يَقْرَأُ فِي الْوُتْرِ

۳۹۹۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ وتر میں سورۃ اعلیٰ (سج اسم ربک الاعلیٰ) سورۃ کافرون اور سورۃ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ یعنی ہر رکعت میں ایک ایک سورت پڑھتے تھے۔

۳۹۹۔ حدثنا علي بن حجر ناشريك عن ابى اسحاق عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعة ركعة

اس باب میں علیؓ، عائشہؓ اور عبدالرحمن بن ابزی بھی ابی بن کعب سے روایت کرتے ہیں آپ ﷺ سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ ﷺ نے تیسری رکعت میں سورۃ اخلاص اور معوذتین بھی پڑھیں (قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس) جسے صحابہ کرام اور ان کے بعد کے علماء کی اکثریت نے اختیار کیا ہے وہ یہی ہے کہ ”سبح اسم ربک الاعلیٰ“، سورۃ کافرون اور سورۃ اخلاص، تینوں میں ہر رکعت میں ایک سورت پڑھے (یعنی سورۃ اعلیٰ پہلی رکعت میں اور دوسری میں سورۃ کافرون اور تیسری میں سورۃ اخلاص۔ مترجم)

۴۰۰۔ حضرت عبدالعزیز بن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے سوال کیا: رسول اللہ ﷺ وتر کے میں کیا پڑھا کرتے تھے؟ حضرت عائشہؓ نے فرمایا: آپ ﷺ پہلی رکعت میں ”سبح اسم ربک الاعلیٰ“ دوسری میں ”قل یا ایها الکافرون“ اور تیسری میں ”قل هو اللہ احد“ اور معوذتین پڑھتے تھے۔

۴۰۰۔ حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن حبيب بن شهيد البصرى نا محمد بن سلمة الحرانى عن خُصَيْفٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يُؤْتِرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْوُتْرِ بِسَبْحِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ وَفِي الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّلَاثَةِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے۔ یہ عبدالعزیز بن جریج کے والد اور عطاء کے ساتھی ہیں، اور ابن جریج کا نام عبدالملک بن عبدالعزیز بن جریج ہے۔ یہ حدیث یحییٰ بن سعید انصاری بھی عمرہ سے وہ عائشہؓ سے اور وہ نبی اکرم ﷺ سے روایت کرتی ہیں۔

باب ۳۳۵۔ وتر میں قنوت پڑھنا۔

باب ۳۳۵۔ مَا جَاءَ فِي الْقُنُوتِ فِي الْوُتْرِ

۴۰۱۔ ابو حوراءؓ کہتے ہیں کہ حسن بن علیؓ نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ نے مجھے کچھ کلمات سکھائے تاکہ میں انہیں وتر میں پڑھا کروں (وہ یہ ہیں اللھم اھدنی..... سے آخر حدیث تک۔ اس دعا کا ترجمہ: (اے اللہ

۴۰۱۔ حدثنا قتيبة نا ابو الاحوص عن ابى اسحاق عن عرید بن ابی مریم عن ابی الحوراء قال قال الحسن بن علی علمنی رسول الله صلى الله عليه وآله

مجھے ہدایت کر ان لوگوں کے ساتھ جنہیں تو نے ہدایت عطا کی، مجھے عافیت عطا فرما ان لوگوں کے ساتھ جن کو تو نے عافیت بخشی (یعنی آنٹوں اور مصیبتوں سے بچا) اور مجھ سے ان لوگوں کے ساتھ محبت کر جن سے تو نے محبت کی اور جو کچھ تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں برکت عطا فرما اور مجھے ان برائیوں سے بچا جو میرے مقدر میں لکھ دی گئیں۔ بے شک تو جس چیز کا چاہتا ہے حکم دیتا ہے اور تجھے کوئی حکم نہیں دیتا اور جسے تو دوست رکھتا ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ اے پروردگار تو بابرکت ہے اور تیری ہی ذات بلند و برتر ہے۔

وَالِهٖ وَسَلَّمْ كَلِمَاتٍ اَقُوْلُهُنَّ فِي الْوُتْرِ اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فَيَمِّنْ هَدِيَّتْ وَعَا فِيْ فَيَمِّنْ عَافِيَّتْ وَتَوَلَّنِيْ فَيَمِّنْ تَوَلَّيْتُ وَبَارِكْ لِيْ فَيَمَّا اَعْطَيْتْ وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتْ فَاِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ وَاِنَّهٗ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتْ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتْ

اس باب میں حضرت علیؑ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ ہم اسے اس سند سے ابو حوراء سعدی کی روایت کے علاوہ نہیں جانتے۔ ابو حوراء کا نام ربیعہ بن شیبان ہے۔ اور آپ ﷺ سے مروی قنوت کے متعلق روایات میں اس سے بہتر روایت کا ہمیں علم نہیں۔ علماء قنوت کے متعلق اختلاف ہے۔ عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ پورا سال قنوت پڑھے اور ان کے نزدیک قنوت کی دعا رکوع سے پہلے پڑھنا مختار ہے۔ یہ بعض علماء کا بھی قول ہے اور یہی قول سفیان ثوری، ابن مبارک، اسحاق اور اہل کوفہ کا بھی ہے۔ حضرت علیؑ سے مروی ہے کہ وہ صرف رمضان کے دوسرے پندرہ دن میں رکوع کے بعد قنوت پڑھا کرتے تھے۔ بعض اہل علم نے بھی یہی مسلک اختیار کیا ہے اور یہی شافعی اور احمد کا قول ہے۔

مسئلہ: امام ترمذی نے یہاں حنفیہ (اہل کوفہ) کا مسلک ذکر کر دیا ہے۔

ان حضرات کی دلیل ابن ماجہ میں حضرت ابی بن کعبؓ کی روایت ہے کہ ”ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر فیقنت قبل الرکوع“ یعنی آنحضرت ﷺ وتر پڑھتے اور ان میں دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ احناف کے پاس اس مسئلے میں مرفوع حدیث بھی ہے اور حضرت ابن مسعودؓ کا اثر بھی جو کہ اوپر مذکور ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۳۳۶۔ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَنَامُ عَنِ الْوُتْرِ أَوْ يَنْسِي

۴۰۲۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ وَكَانَ

عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ اسْلَمَ عَنِ ابِيهِ عَنِ عَطَاءِ بْنِ

يَسَّارٍ عَنِ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَامَ عَنِ الْوُتْرِ أَوْ نَسِيَهُ

فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ

۴۰۳۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ اسْلَمَ عَنِ

ابِيهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَامَ

عَنْ وَتَرِهِ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ

باب ۳۳۶۔ جو شخص وتر پڑھنا بھول جائے یا پڑھے بغیر سو جائے۔

۴۰۲۔ حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو

شخص وتر پڑھے بغیر سو جائے یا بھول جائے تو جب جاگے یا اسے یاد

آجائے تو پڑھے۔

۴۰۳۔ حضرت زید بن اسلم کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر کوئی

وتر پڑھے بغیر سو جائے تو صبح ہونے پر پڑھے۔

یہ حدیث پہلی حدیث سے اصح ہے میں نے ابو داؤد سجری (یعنی سلیمان بن اشعث) سے سنا کہ انہوں نے احمد بن حنبل سے عبد الرحمن بن زید بن اسلم کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے کہا: ان کے بھائی عبد اللہ میں کوئی مضائقہ نہیں اور میں نے امام بخاری کو علی بن عبد اللہ کے حوالے سے عبد الرحمن بن زید بن اسلم کو ضعیف کہتے ہوئے سنا۔ انہوں نے کہا کہ عبد اللہ بن زید بن اسلم ثقہ ہیں۔ بعض اہل کوفہ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب یاد آجائے تو وتر پڑھے اگرچہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد یاد آئے۔ سفیان ثوری کا بھی یہی قول ہے۔

مسئلہ: احناف اور جمہور کے درمیان وتر کے وجوب اور سنیّت میں مشہور اختلاف ہے۔ احناف اس کو واجب قرار دیتے ہیں۔ ان کے دلائل میں سے چند حسب ذیل ہیں۔

(۱) حضرت ابوسعید خدریؓ کی حدیث باب۔ اس میں وتر کی قضاء کا حکم دیا گیا ہے اور قضا کا حکم واجبات میں ہوتا ہے سنن میں نہیں۔
 (۲) حضرت خارجہ بن حذافہ کی حدیث جو ترمذی میں باب ۳۲۶ وتر کی فضیلت حدیث ۳۹۱ ہے۔ اس حدیث میں آپ ﷺ نے فرمایا: ”ان اللہ امدکم“..... الخ۔ لفظ ”امد“ مد کرنے اور اضافہ کرنے کے معنی میں آتا ہے اور اس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے۔ اگر وتر سنت ہوتے تو ان کی نسبت آنحضرت ﷺ کی طرف ہوتی جیسے کہ ایک مرتبہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے تم پر (رمضان) کے روزے فرض کیے اور میں نے اس کی راتوں کا قیام سنت بنا دیا۔ لہذا ”ان اللہ امدکم“ میں اللہ تعالیٰ کی طرف اضافے کی نسبت اس کے وجوب پر دلالت کرتی ہے۔

(۳) حضرت علیؓ کی حدیث یہ بھی ترمذی ہی میں حدیث ۳۹۲ ہے اس میں فرمایا گیا۔ ”فاوتر وا یا اهل قرآن“ اس میں امر کا صیغہ استعمال کیا گیا جو وجوب پر دلالت کرتا ہے۔

(۴) نبی کریم ﷺ نے وتر ہمیشہ پڑھے اور انہیں کبھی ترک نہیں کیا اور اس کے ترک کرنے والے کے متعلق فرمایا ”من لم یوتر فلیس منا“ جو وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔

یہ تمام دلائل وتر کے واجب ہونے پر دلالت کرتے ہیں لیکن یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ احناف اور جمہور کے درمیان یہ اختلاف لفظی ہے اس لیے کہ ائمہ ثلاثہ مالک، شافعی اور احمد کے نزدیک سنت اور فرض کے درمیان کوئی درجہ نہیں اور امام ابوحنیفہ کے نزدیک ان دونوں کے درمیان واجب کا درجہ ہے گویا کہ دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ وتر کا مرتبہ فرض سے نیچے اور سنن مؤکدہ سے اوپر ہے۔ کیونکہ ائمہ ثلاثہ بھی اسے آکد السنن مانتے ہیں لہذا دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں۔ واللہ اعلم۔ (مترجم)

باب ۳۳۷۔ مَا جَاءَ فِي مُبَادَرَةِ الصُّبْحِ بِالْوُتْرِ

باب ۳۳۷۔ صبح سے پہلے وتر پڑھنا۔

۴۰۴۔ حدثنا احمد بن منيع بن يحيى بن زكريا بن

۴۰۴۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: صبح ہونے

ابى زائدة نا عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر ان النبي

سے پہلے وتر ادا کر لیا کرو۔

قال يادرو الصبح بالوتر

صبح ہونے سے پہلے پڑھو۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۴۰۵۔ حدثنا الحسن بن علي الخلال نا عبد أبي

۴۰۵۔ حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: وتر

نضرة عن أبي سعيد الخدری ان النبي صلى الله عليه

صبح ہونے سے پہلے پڑھو۔

وَالِهٖ وَسَلَّم قَالَ أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا

۴۰۶۔ حدیثنا محمود بن غیلان نا عند الرزاق نا ابن جریج عن سلیمان بن موسیٰ عن نافع عن ابن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال إذا طلعت الفجر فقد ذهب كل صلوة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر

۴۰۶۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب فجر طلوع ہوئی تو رات کی نمازوں (تہجد وغیرہ) اور وتر کا وقت ختم ہو گیا۔ لہذا فجر کے طلوع ہونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کرو۔

امام ترمذی کہتے ہیں سلیمان بن موسیٰ اس لفظ کو بیان کرنے میں منفرد ہیں آپ ﷺ سے مروی ہے کہ فرمایا: ”فجر کے بعد وتر نہیں“ اور یہ کئی علماء کا قول ہے۔ شافعی، احمد اور اسحاق بھی یہی کہتے ہیں کہ فجر کے بعد وتر نہیں ہیں۔

باب ۳۳۸۔ مَا جَاءَ لَا وَتْرَانَ فِي لَيْلَةٍ

باب ۳۳۸۔ ایک رات میں دو وتر نہیں۔

۴۰۷۔ حدیثنا ہناد نا ملازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن بدير عن قيس بن طلحة بن علي عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا وتران في ليلة

۴۰۷۔ قیس بن علیؓ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے آنحضرت ﷺ سے سنا: ایک رات میں دو وتر نہیں ہیں۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے۔ علماء کا اس شخص کے متعلق اختلاف ہے جو رات کے شروع میں وتر پڑھے اور پھر آخری حصے میں دوبارہ پڑھے۔ چنانچہ بعض علماء کہتے ہیں کہ وتر توڑ دے اور ان کے ساتھ ایک رکعت ملا کر جو چاہے پڑھ لے پھر نماز کے آخر میں وتر پڑھے اس لیے کہ ایک رات میں دو وتر نہیں پڑھے جاتے۔ یہ صحابہ، ان کے بعد کے علماء اور امام اسحاق کا قول ہے۔ بعض علماء صحابہ کا کہنا ہے کہ اگر رات کے شروع میں وتر پڑھ کر سو گیا پھر آخری حصے میں اٹھا تو جتنی چاہے نماز پڑھے وتر کو نہ توڑے اور انہیں اسی طرح چھوڑ دے۔ یہ سفیان ثوری، مالک بن انس، احمد اور ابن مبارک کا بھی قول ہے یہ زیادہ صحیح ہے اس لیے کہ آنحضرت ﷺ سے کئی سندوں سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے وتر کے بعد نماز پڑھی۔

۴۰۸۔ حدیثنا محمد بن بشار نا حماد بن مسعدة عن ميمون بن موسى المرائي عن الحسن عن أمه عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين

۴۰۸۔ حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ وتر کے بعد دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔

حضرت ابوامامہؓ، عائشہؓ اور کئی صحابہ سے بھی اسی کے مثل مروی ہے۔

باب ۳۳۹۔ مَا جَاءَ فِي الْوُتْرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

باب ۳۳۹۔ سواری پر وتر پڑھنا

۴۰۹۔ حدیثنا قتیبة نا مالک بن انس عن ابی بکر بن عمر بن عبد الرحمن بن سعید بن يسار قال كنت مع ابن عمر في سفر فتخلفت عنه فقال أين

۴۰۹۔ حضرت سعید بن یسارؓ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمرؓ کے ساتھ ایک سفر میں تھا کہ میں ان سے پیچھے رہ گیا۔ انہوں نے فرمایا: تم کہاں تھے؟ میں نے کہا میں وتر پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا: تیرے

باب ۳۴۲۔ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْحَاجَّةِ

۴۱۶۔ حدثنا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي ناعبدالله بن بكر السمي دنا عبدالله بن منير عن عبدالله بن ابى بكر عن فائد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن ابى اوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كانت له الى الله حاجة او الى احد من بنى ادم فليتوضأ وليحسين الوضوء ثم ليصل ركعتين ثم ليثن على الله وليصل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم ليقل لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامة من كل اثم لا تدع لى ذنبا الا عفرتة ولا همما الا فرجتة ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين

باب ۳۴۲۔ نماز حاجت پڑھنا
۳۱۶۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس کسی کو اللہ کی طرف کوئی حاجت یا لوگوں میں سے کسی سے کوئی کام ہو تو اچھی طرح وضو کرے، پھر دو رکعت نماز پڑھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف اور نبی کریم ﷺ پر دو رو بھیجے اور پھر یہ پڑھے۔ لا الہ الا اللہ..... حدیث کے آخر تک۔ (ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو چشم پوشی اور بخشش کرنے والا ہے اور عرش عظیم کا مالک ہے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام عالم کا رب ہے۔ اے اللہ: میں تجھ سے وہ چیزیں مانگتا ہوں جن پر تیری رحمت ہوتی ہے اور تیری بخشش کا سبب ہوتی ہیں۔ اور میں ہر نیکی میں سے اپنا حصہ مانگتا ہوں اور ہر گناہ سے سلامتی طلب کرتا ہوں۔ اے اللہ میرے گناہ بخشے بغیر، میرے کسی غم کو دور کئے بغیر، میری کسی حاجت کو جو تیرے نزدیک پسندیدہ ہو، پورا کیے بغیر نہ چھوڑنا، اے رحم کرنے والوں سے بہت زیادہ رحم کرنے والے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے اس کی اسناد میں کلام ہے۔ اور فائد بن عبد الرحمن ضعیف ہیں، ان کی کنیت ابوورقاء ہے۔

باب ۳۴۳۔ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْاِسْتِخَارَةِ

۴۱۷۔ حدثنا قتيبة نا عبد الرحمن بن ابى الموالى عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة فى الامور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم انى استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسئلك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لى فى دينى ومعيشتى وعاقبة امرى او قال فى عاجل امرى واجله فيسره لى ثم بارك لى فيه وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لى فى دينى ومعيشتى وعاقبة

باب ۳۴۳۔ استخارے کی نماز
۳۱۷۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہمیں ہر کام میں استخارہ اس طرح سکھاتے جس طرح قرآن سکھاتے تھے فرماتے: اگر تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو دو رکعت نماز نفل پڑھے پھر یہ پڑھے: اللهم انى استخيرك..... سے تم ارضنى بہ تک پڑھے اور اپنی حاجت کا نام لے (یعنی لفظ هذا الامر کی جگہ حاجت کا نام لے) (ترجمہ: اے اللہ میں تیرے علم کے وسیلے سے تجھ سے بھلائی اور تیری قدرت کے وسیلے سے تجھ سے قدرت مانگتا ہوں۔ اور تیرے فضل عظیم کا طلبگار ہوں تو ہر چیز پر قادر ہے اور میں کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا۔ تو ہر چیز کو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا۔ تو تو پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ اے اللہ! اگر یہ مقصد میرے لیے، میرے دین، دنیا، آخرت، زندگی یا فرمایا: اس جہان میں اور آخرت کے دن جہان میں بہتر ہے تو اسے میرے لیے مہیا فرما دے۔ اور اگر تو اسے میرے دین،

ترمذی شریف/جلداول
 ۲۳۷
 ابواب الصلوٰۃ

میری زندگی اور آخرت یا فرمایا اس جہان یا اس جہان کے لیے برا سمجھتا ہے تو مجھے اس سے اور اسے مجھ سے دور کر دے اور میرے لیے جہاں بھلائی ہو وہ مہیا فرما پھر اس سے مجھے راضی کر۔

اس باب میں عبد اللہ بن مسعود اور ابویوب سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، جاہلی حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ ہم اسے عبد الرحمن بن ابی الموالیٰ کی روایت کے علاوہ نہیں جانتے اور وہ ایک مدنی ہیں جو کہ ثقہ ہیں۔ سفیان نے ان سے ایک حدیث اور کئی ائمہ حدیث ان سے احادیث روایت کرتے ہیں۔

باب ۳۴۴- صلوٰۃ تسبیح

باب ۳۴۴- مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ التَّسْبِيحِ

۴۱۸- حضرت ابورافع کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے عباس سے کہا: پچھا کیا میں آپ کے ساتھ سلوک نہ کرو، کیا میں آپ کو نہ دوں، کیا میں آپ کو نفع نہ پہنچاؤں؟ عباس نے فرمایا: کیوں نہیں یا رسول اللہ! اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: پچھا چار رکعت پڑھیے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت سے فارغ ہونے کے بعد رکوع سے پہلے یہ پندرہ مرتبہ پڑھیے ”اللہ اکبر والحمد لله وسبحان الله“ پھر رکوع کیجئے اور رکوع میں دس مرتبہ یہی پڑھیے پھر رکوع سے کھڑے ہو کر دس مرتبہ پھر سجدے میں دس مرتبہ، پھر اٹھ کر دس مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں دس مرتبہ اور پھر سجدے سے اٹھ کر کھڑے ہونے سے پہلے دس مرتبہ یہی پڑھیے یہ ہر رکعت میں ۷۵ پختہ مرتبہ ہوا اور چاروں رکعتوں میں تین سو (۳۰۰) مرتبہ ہوا۔ اگر آپ کے گناہ عالج (۱) کی ریت کے ذرات کے برابر بھی ہوں گے تو بھی اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا، عباس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اسے ہر روز کون پڑھ سکتا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر روزانہ نہ پڑھ سکو تو جمعہ کے دن اور اگر جمعہ کو بھی نہ پڑھ سکو تو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھو۔ پھر آپ ﷺ اسی طرح فرماتے رہے، یہاں تک کہ فرمایا تو پھر سال میں ایک مرتبہ پڑھ لو۔

۴۱۸- حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء نازيد بن حباب بن العكلبي ناموسي بن عبيدة قال حدثني سعيد بن ابى سعيد مولى ابى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابى رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للعباس يا عم ألا أصلك ألا أحبوك ألا أتفعلك قال بلى يا رسول الله قال يا عم صل أربع ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة فإذا انقضت القرآنة فقل الله أكبر والحمد لله وسبحان الله خمس عشرة مرة قبل أن تركع ثم اركع فقلها عشرًا ثم ارفع رأسك فقلها عشرًا ثم اسجد فقلها عشرًا ثم ارفع رأسك فقلها عشرًا ثم اسجد فقلها عشرًا ثم ارفع رأسك فقلها عشرًا قبل أن تقوم فذلك خمس وسبعون في كل ركعة هي ثلاث مائة في أربع ركعات ولو كانت ذنوبك مثل رمل عالج غفرها الله لك قال يا رسول الله ومن يستطيع أن تقولها في يوم قال إن لم تستطع أن تقولها في يوم فقلها في جمعة فإن لم تستطع أن تقولها في جمعة فقلها في شهر فلم يقل له حتى قال فقلها في سنة

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث ابورافع کی روایت سے غریب ہے۔

(۱) عالج ایک جگہ کا نام ہے جہاں ریت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ (مترجم)

وَسَلَّمَ قَالَ التَّمَسُّوا السَّاعَةَ الَّتِي تُرْجَى فِي يَوْمِ
الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث اس سند سے غریب ہے اور اس سند کے علاوہ بھی حضرت انسؓ سے مروی ہے۔ وہ حضور اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ محمد بن حمید ضعیف ہیں انہیں بعض علماء نے حافظے میں ضعیف کہا ہے۔ انہیں حماد بن ابو حمید کہا جاتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابوابرہیم انصاری یہی ہیں جو منکر الحدیث ہیں۔ بعض صحابہ وغیرہ کہتے ہیں کہ وہ گھڑی عصر سے غروب آفتاب تک ہے (یعنی قبولیت کی) یہ احمد اور اسحاق کا قول ہے امام احمد کہتے ہیں اکثر احادیث میں یہی ہے کہ وہ گھڑی جس میں قبولیت کی امید ہے وہ عصر کی نماز کے بعد یہ بھی امید ہے کہ زوال آفتاب کے بعد ہو۔

۴۲۷۔ حدثنا زياد بن أيوب البغدادي حدثنا
أبو عامر العقدي ثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن
عوف المزني عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله
عليه وآله وسلم قال إن في الجمعة ساعة لا يسأل
الله العبد فيها شيئا إلا آتاه الله إياه قالوا يا رسول
الله آية ساعة هي قال حين تقام الصلاة إلى
انصراف منها

۴۲۷۔ زیاد بن ایوب بغدادی، ابو عامر عقدی سے وہ کثیر بن عبد اللہ بن عمرو بن عوف مزنی کو اپنے والد سے ان کے دادا سے اور وہ نبی اکرم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جمعہ کے دن ایک وقت ایسا ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ سے اس وقت میں سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز ضرور عطا کرتے ہیں۔ صحابہؓ نے عرض کیا وہ کون سا وقت ہے یا رسول اللہ ﷺ؟ آپ ﷺ نے فرمایا: نماز کی اقامت سے لے کر نماز سے فارغ ہونے تک۔

اس باب میں ابو موسیٰؓ، ابو ذرؓ، سلمانؓ، عبد اللہ بن سلامؓ، ابولبابہؓ اور سعد بن عبادہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں عمرو بن عوف کی حدیث حسن غریب ہے۔

۴۲۸۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دنوں میں بہترین دن جمعے کا دن ہے اس دن آدم پیدا ہوئے۔ اسی دن جنت میں داخل ہوئے، اسی دن نکالے گئے۔ اس میں ایک وقت ایسا ہے کہ اگر اس میں مسلمان بندہ نماز پڑھتا اور اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور وہ چیز عطا کرتے ہیں۔ ابو ہریرہؓ کہتے ہیں میں نے عبد اللہ بن سلام سے ملاقات کی تو ان سے اس حدیث کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے فرمایا: میں وہ گھڑی جانتا ہوں۔ میں نے کہا پھر مجھے بتائیے اور نخل سے کام نہ لیجئے۔ انہوں نے کہا: عصر سے غروب آفتاب تک۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”جو شخص اس وقت نماز پڑھتا اور اللہ سے سوال کرتا ہے“..... میں نے کہا اس وقت میں تو نماز نہیں پڑھی جاتی اس پر عبد اللہ بن سلام نے کہا: حضور ﷺ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو کہیں نماز کے انتظار میں بیٹھے گویا کہ وہ

۴۲۸۔ حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري نا معن
نا مالك بن انس عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن
محمد بن ابراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير يوم
طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه
أدخل الجنة وفيه أهبط منها وفيه ساعة لا يوافقها
عبد مسلم يصلي فيسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه
إياه قال أبو هريرة فلقيت عبد الله بن سلام فذكرت
له هذا الحديث فقال أنا أعلم بتلك الساعة فقلت
أخبرني بها ولا تضن بها علي قال هي بعد العصر
إلى أن تغرب الشمس قلت فكيف تكون بعد
العصر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله

نماز میں ہے۔ میں نے کہا ہاں فرمایا ہے انہوں نے کہا یہ بھی اسی طرح ہے اور حدیث میں طویل قصہ ہے۔

وَسَلَّمَ لَا يُؤَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّيُ وَتَلَّكَ السَّاعَةُ لَا يُصَلِّيُ فِيهَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ الْكَلْبِيُّ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فَهُوَ فِي الصَّلَاةِ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَهُوَ ذَاكَ وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ طَوِيلَةٌ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ اور "اخبرنی بہاوا لا تضنن بہا علی" کے معنی یہ ہیں کہ اس میں میرے ساتھ بخل نہ کرو۔ الضنین: بخل کو اور "الظنن" اسے کہتے ہیں جس پر تہمت لگائی جائے۔

باب ۳۴۹۔ مَا جَاءَ فِي الْإِعْتِسَالِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

باب ۳۴۹۔ جمعے کے دن غسل کرنا۔

۴۲۹۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا سَفِيَانَ بْنَ عَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ آتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ

۴۲۹۔ سالم اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور اکرم ﷺ سے سنا کہ جو شخص جمعہ کی نماز کے لیے آئے اسے غسل کرنا چاہئے۔

اس باب میں ابوسعید، جابر، عمر، براء، عائشہ اور ابودرداء سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں۔ ابن عمر کی حدیث حسن صحیح ہے۔ زہری سے بھی یہ حدیث مروی ہے وہ عبداللہ بن عبداللہ بن عمر سے وہ اپنے والد سے اور وہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ ہم سے قتیبہ نے ان سے لیث بن سعد نے ان سے ابن شہاب نے ان سے عبداللہ بن عبداللہ بن عمر نے ان سے عبداللہ بن عمر نے اور عبداللہ بن عمر نے حضور اکرم ﷺ سے اسی کے مثل روایت کی ہے امام بخاری کہتے ہیں: زہری کی سالم سے مروی حدیث جس میں وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ اور عبداللہ بن عبداللہ بن عمر کی ان کے والد سے روایت۔ دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ زہری کے بعض دوست زہری سے روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ بن عمر کی اولاد میں سے کسی نے ابن عمر کے حوالے سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ ایک مرتبہ عمر بن خطابؓ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ ایک صحابی داخل ہوئے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا یہ کون سا وقت ہے؟ (یعنی آنے کا) انہوں نے کہا: میں نے اذان سنی اور صرف وضو کیا زیادہ دیر تو نہیں لگائی۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا: یہ بھی کہ غسل کی جگہ وضو کیا (یعنی دیر بھی کی اور غسل بھی نہیں کیا) جب کہ تم جانتے ہو کہ رسول اللہ ﷺ نے غسل کا حکم دیا۔ ہم سے یہ حدیث محمد بن ابان نے عبدالرزاق کے حوالے سے بیان کی ہے وہ معمر سے اور وہ زہری سے روایت کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عبدالرحمن نے بھی عبداللہ بن صالح سے انہوں نے لیث سے انہوں نے یونس سے اور انہوں نے زہری سے یہ حدیث روایت کی ہے اور مالک اس حدیث کو زہری سے اور وہ سالم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا۔ عمرؓ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے..... اور حدیث ذکر کی۔ امام ترمذی کہتے ہیں میں نے بخاری سے اس کے متعلق پوچھا تو کہا: زہری کی سالم سے اور ان کی اپنے والد سے روایت صحیح ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مالک سے بھی اسی کے مثل حدیث مروی ہے وہ زہری سے وہ سالم سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔

باب ۳۵۰۔ فِي فَضْلِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

باب ۳۵۰۔ جمعے کے دن غسل کرنے کی فضیلت

۴۳۰۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ نَا وَكَيْعٌ عَنِ سَفِيَانَ وَابُو حَبَابٍ يَحْيَى بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيْسَى عَنِ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ عَنِ أَبِي الْأَشْعَثِ

۴۳۰۔ حضرت اوس بن اوس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے جمعے کے دن غسل کیا، غسل کروایا، اور مسجد جلدی گیا، امام کا ابتدائی خطبہ پایا، امام کے نزدیک ہوا اور خطبے کو سنا اور اس دوران

خاموش رہا تو اس کو ہر ہر قدم پر ایک سال تک روزے رکھنے اور تہجد پڑھنے کا اجر دیا جاتا ہے۔ محمود اس حدیث میں کہتے ہیں کہ وکیع نے کہا: اس نے غسل کیا اور اپنی بیوی کو غسل کروایا۔ ابن مبارک سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا: جس نے اپنے سر کو دھویا اور غسل کیا۔

الصَّنْعَانِي عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَسَلَ وَبَكَرَ وَابْتَكَّرَ وَذَنَاوَا اسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَجْرٌ سَنَةِ صِيَامَهَا وَقِيَامَهَا قَالَ مَحْمُودٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ وَكَيْفُ اغْتَسَلَ هُوَ وَغَسَلَ امْرَأَتَهُ وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ الْمُبَارِكِ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَنْ غَسَلَ رَأْسَهُ وَاغْتَسَلَ

اس باب میں ابوبکرؓ، عمران بن حصینؓ، ابوذرؓ، سلمانؓ، ابوسعیدؓ، ابن عمرؓ اور ابویوبؓ سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں: اوس بن

اوسؓ کی حدیث حسن ہے۔ ابوالاشعث کا نام شرمیل بن آدہ ہے۔

باب ۳۵۱۔ جمعہ کے دن وضو کے بیان میں

باب ۳۵۱۔ فِي الْوُضُوءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

۴۳۱۔ حضرت سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے جمعہ کے دن وضو کیا اس نے بہتر کیا اور جس نے غسل کیا تو غسل زیادہ افضل ہے۔

۴۳۱۔ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَاسِعِدُ بْنُ سَفِيَانَ الْجَحْدَرِيُّ نَاسِعِبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهَا وَنِعِمَّتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ

اس باب میں ابو ہریرہؓ، انسؓ اور حضرت عائشہؓ سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں سمرہؓ کی حدیث حسن ہے۔ حضرت قتادہؓ کے بعض ساتھی اسے قتادہ سے وہ حسن سے اور وہ سمرہ سے روایت کرتے ہیں۔ بعض حضرات نے اسے قتادہ سے، انہوں نے حسن سے اور انہوں نے آنحضرت ﷺ سے مرسل روایت کیا ہے۔ علماء صحابہ اور ان کے بعد کے اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ جمعہ کے دن غسل کیا جائے۔ ان کے نزدیک جمعہ کے دن غسل کی جگہ وضو بھی کیا جاسکتا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اس کی دلیل حضرت عمرؓ کا عثمانؓ کو یہ کہنا ہے کہ: وضو بھی کافی ہے تمہیں معلوم ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کا غسل کا حکم وجوب کے لیے ہے تو حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ سے کہتے: جاؤ اور غسل کرو۔ پھر یہ حضرت عثمانؓ سے چھپا ہوا نہ ہوتا کیوں کہ وہ یہ حکم جانتے تھے لیکن اس حدیث میں اس بات پر دلالت ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا افضل ہے نہ کہ واجب۔

۴۳۲۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر جمعہ کے لیے آیا اور امام سے نزدیک ہو کر بیٹھا، پھر خطبہ سنا اور اس دوران خاموش رہا تو اس جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان ہونے والے اس کے گناہ بخش دیئے گئے اور مزید تین دن کے گناہ بھی بخش دیئے گئے لیکن جو نکلریوں سے کھلتا رہا اس نے لغو کام کیا (اس کے لیے یہ اجر نہیں ہے)

۴۳۲۔ حَدَّثَنَا هِنَادُنَا أَبُو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَدَنَى وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحِطْيَ فَقَدْ لَعَا

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۳۵۲۔ مَا جَاءَ فِي التَّبَكُّيرِ إِلَى الْجُمُعَةِ

۴۳۳۔ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ نَامِعُنَ مَالِكٍ عَنْ سَمِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَانَ مِمَّا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَانَ مِمَّا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّلَاثَةِ فَكَانَ مِمَّا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَبَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَانَ مِمَّا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَانَ مِمَّا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الدُّكْرَ

باب ۳۵۲۔ جمعہ کے لیے جلدی جانا۔

۴۳۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کیا اور اول وقت میں مسجد گیا۔ گویا کہ اس نے اونٹ کی قربانی پیش کی پھر جو شخص دوسری گھڑی میں گیا گویا کہ اس نے گائے کی قربانی پیش کی، جو تیسری گھڑی میں گیا گویا کہ اس نے سینگ والے دے کی قربانی پیش کی، پھر جو چوتھی گھڑی میں گیا وہ ایسے ہے جیسے اس نے اللہ کی راہ میں مرنے کی اور جو پانچویں گھڑی میں گیا وہ اس طرح ہے جیسے کہ اس نے اللہ کی راہ میں ایک اٹھہ خرچ کیا۔ اور جب امام خطبہ پڑھنے کے لیے آجاتا ہے تو فرشتے خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔

اس باب میں عبد اللہ بن عمروؓ اور سمرہ بن جندبؓ سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۳۵۳۔ بغير عذر کے جمعہ کا ترک کرنا

باب ۳۵۳۔ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ مِنْ غَيْرِ عُدْرٍ

۴۳۴۔ حضرت عبیدہ بن سفیان، ابو جعد (یعنی الضمری جو محمد بن عمر کے قول کے مطابق صحابی بھی ہیں) سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص سستی کی وجہ سے تین جمعے نہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔

۴۳۴۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ نَاعِيسِي بْنُ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الْجَعْدِ يُعْنِي الضَّمْرِيَّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ فِيمَا زَعَمَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَهَا وَنَا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ

اس باب میں ابن عمروؓ، ابن عباسؓ اور سمرہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو جعد کی حدیث حسن ہے میں نے امام بخاری سے ابو جعد ضمری کا نام پوچھا تو انہیں نہیں معلوم تھا انہوں نے کہا: میں ان کی حضور اکرم ﷺ سے صرف یہی روایت جانتا ہوں۔ امام ترمذی کہتے ہیں اس حدیث کو، محمد بن عمرو کی روایت کے علاوہ نہیں جانتے۔

باب ۳۵۴۔ کتنی دور سے جمعے میں شرکت کے لیے آنا واجب ہے۔

باب ۳۵۴۔ مَا جَاءَ مِنْ كَمْ يُؤْتَى إِلَى الْجُمُعَةِ

۴۳۵۔ ثور، اہل قبا میں سے ایک شخص اور وہ اپنے والد سے (جو صحابی ہیں) نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: حضور اکرم ﷺ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم قبا سے جمعہ کے لیے حاضر ہوں۔

۴۳۵۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَدْوَبَةَ قَالَا ثنا الفضل بن دكين نا اسرائيل عن ثوير عن رجل من اهل قبا عن ابيه وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال امر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان نشهد الجمعة من قبا

امام ترمذی کہتے ہیں، ہم اس حدیث کو اس سند کے علاوہ نہیں جانتے۔ اس باب میں آنحضرت ﷺ سے مروی احادیث میں سے کوئی بھی صحیح نہیں آپ ﷺ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جمعہ اس پر واجب ہے جو رات تک اپنے گھر واپس پہنچ سکے (یعنی جمعہ پڑھنے کے بعد) اس حدیث کی سند ضعیف ہے یہ معمارک بن عباد کی عبد اللہ بن سعید مقبری سے روایت ہے اور یحییٰ بن سعید قطان، عبد اللہ بن سعید مقبری کو ضعیف کہتے ہیں۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ جمعہ کس پر واجب ہے۔ چنانچہ بعض علماء کہتے ہیں جمعہ اس کے لیے ضروری ہے جو نماز پڑھ کر رات سے پہلے پہلے گھر پہنچ جائے۔ اور بعض کا کہنا ہے کہ اس پر واجب ہے جو اذان سنے۔ یہ شافعی، احمد اور اسحاق کا قول ہے۔ میں نے احمد بن حسن سے سنا کہ ہم احمد بن حنبل کے پاس بیٹھے ہوئے تھے یہی مسئلہ چھڑا کہ جمعہ کس پر واجب ہے لیکن امام احمد نے اس سے متعلق آنحضرت ﷺ سے کوئی حدیث بیان نہیں کی۔ احمد بن حسن کہتے ہیں میں نے امام احمد بن حنبل سے کہا کہ اس مسئلے میں حضرت ابو ہریرہؓ سے حدیث مروی ہے۔ امام احمد نے پوچھا: حضور اکرم ﷺ سے؟ میں نے کہا: ہاں۔

۴۳۶۔ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ نَصِيرٍ ثَنَا مُعَارِكُ بْنُ عَبْدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُقْبِرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجُمُعَةُ عَلَيَّ مَنْ أَوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ

۴۳۶۔ حجاج بن نصیر، معارک بن عبد اللہ بن سعید مقبری سے وہ اپنے والد سے اور وہ ابو ہریرہؓ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جمعہ اس پر واجب ہے جو رات ہونے سے پہلے اپنے گھر پہنچ جائے۔

احمد بن حسن کہتے ہیں امام احمد یمن کرخصہ میں آگئے اور فرمایا: اپنے رب سے استغفار کرو۔ اپنے رب سے استغفار کرو۔ امام احمد نے ایسا اس لیے کیا وہ اسے حدیث نہیں سمجھتے تھے کیونکہ اس کی سند ضعیف ہے۔

مسئلہ: اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ جمعہ شہر میں رہنے والے اور شہر کے مضافات (جہاں تک شہر کی ضروریات پوری ہوتی ہوں) میں رہنے والوں پر واجب ہے۔ (مترجم)

باب ۳۵۵۔ جمعہ کی نماز کا وقت

۴۳۷۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جمعہ اس وقت پڑھا کرتے تھے۔ جب سورج ڈھل جاتا تھا۔

باب ۳۵۵۔ مَا جَاءَ فِي وَقْتِ الْجُمُعَةِ

۴۳۷۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا سَرِيحُ بْنُ النُّعْمَانِ نَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَثْمَانَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ

یحییٰ بن موسیٰ، داؤد طیالسی سے وہ فلیح بن سلیمان سے وہ عثمان بن عبد الرحمن تمیمی سے اور وہ حضرت انسؓ سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ اس باب میں سلمہ بن اکوع، جابر اور زبیر بن عوام سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث انسؓ حسن صحیح ہے اور اسی پر اکثر علم کا اجماع ہے کہ جمعہ کا وقت آفتاب کے ڈھل جانے پر ہوتا ہے جیسے کہ ظہر کی نماز کا یہی قول شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی ہے بعض حضرات کہتے ہیں کہ جمعہ کی نماز آفتاب کے زوال سے پہلے پڑھ لینا بھی جائز ہے۔ امام احمد کہتے ہیں: جو شخص جمعہ کی نماز زوال سے پہلے پڑھ لے اسے لوٹانا ضروری نہیں۔

باب ۳۵۶۔ منبر پر خطبہ پڑھنا

۴۳۸۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ تنے کے پاس

باب ۳۵۶۔ مَا جَاءَ فِي الْخُطْبَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ

۴۳۸۔ حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْغَلَّاسُ نَا

کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے پھر جب آپ ﷺ منبر پر خطبہ دینے لگے تو تارو نے لگا۔ یہاں تک کہ آپ ﷺ اس کے پاس آئے اور اسے چمٹا لیا۔ اس طرح وہ چپ ہوا۔

عثمان بن عمرو یحییٰ بن کثیر ابو غسان العنبری قالوا ثنا معاذ بن العلاء عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب الى جذع فلما اتخذ المنبر حن الجذع حتى اتاه فالتزمه فسكن

اس باب میں انسؓ، جابرؓ، اہل بن سعدؓ، ابی بن کعبؓ، ابن عباسؓ اور ام سلمہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن عمرؓ کی حدیث حسن غریب صحیح ہے۔ اور معاذ بن علاء بصرہ کے رہنے والے ہیں جو ابو عمرو بن علاء کے بھائی ہیں۔

باب ۳۵۷۔ ماجاء فی الجُلوسِ بَيْنَ الخُطبتَيْنِ

باب ۳۵۷۔ دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھنا

۳۳۹۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جمعہ کے دن خطبہ دیتے پھر بیٹھ جاتے پھر کھڑے ہوتے اور خطبہ دیتے جیسے لوگ آج کل کرتے تھے۔

۴۳۹۔ حدثنا حميد بن مسعدة البصرى نا خالد بن الحارث نا عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب يوم الجمعة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قال مثل ما يفعلون اليوم

اس باب میں ابن عباسؓ، جابر بن عبد اللہ اور جابر بن سرہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن عمرؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور علماء بھی یہی کہتے ہیں کہ دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھ کر ان کے درمیان فصل کر دے۔

باب ۳۵۸۔ ماجاء فی قِصْرِ الخُطبةِ

باب ۳۵۸۔ خطبہ مختصر پڑھنا

۳۴۰۔ حضرت جابر بن سرہؓ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا۔ آپ ﷺ کی نماز بھی درمیانی ہوتی اور خطبہ بھی متوسط (یعنی نہ زیادہ طویل اور نہ ہی زیادہ مختصر)

۴۴۰۔ حدثنا قتيبة وهناد قالنا ابو الاحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمره قال كنت اُصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكانت صلواته قَصْداً وخطبته قَصْداً

اس باب میں عمار بن یاسرؓ اور ابن ابی ادنیٰ سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں جابر بن سرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۳۵۹۔ ماجاء فی القِراءَةِ عَلَيِ المنبرِ

باب ۳۵۹۔ منبر پر قرآن پڑھنا

۳۴۱۔ صفوان بن یعلیٰ بن امیہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انھوں نے آنحضرت ﷺ کو منبر پر یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا: "وَنَادُوا يَا مَالِكُ..... الْآيَةَ"

۴۴۱۔ حدثنا قتيبة نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ على المنبر "وَنَادُوا يَا مَالِكُ الْآيَةَ"

اس باب میں حضرت ابو ہریرہؓ اور جابر بن سرہؓ سے بھی روایت ہے یعلیٰ بن امیہ کی حدیث حسن غریب صحیح ہے۔ یہ ابن عیینہ کی حدیث ہے۔ علماء کی ایک جماعت اسی پر عمل پیرا ہے کہ خطبے میں قرآن کی آیات پڑھی جائیں۔ امام شافعیؒ کہتے ہیں کہ اگر امام خطبہ دیتے ہوئے قرآن پاک کی کوئی آیت نہ پڑھے تو خطبہ دوبارہ پڑھے۔

باب ۳۶۰۔ فِی اسْتِقْبَالِ الْإِمَامِ إِذَا حَظَبَ

۴۴۲۔ حَدَّثَنَا عِبَادُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُوفِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلْنَاهُ بِوُجُوهِنَا

باب ۳۶۰۔ خطبہ دیتے وقت امام کی طرف چہرہ رکھنا۔

۴۴۲۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ خطبہ کے لئے منبر پر تشریف لے جاتے تو ہم اپنے چہرے آپ ﷺ کی طرف کر دیتے تھے۔

اس باب میں ابن عمرؓ سے بھی روایت ہے منصور کی حدیث کو ہم محمد بن فضل بن عطیہ بن ضعیف ہیں۔ ہمارے احباب کے نزدیک یہ ذاہب الحدیث ہیں۔ صحابہ وغیرہ کا اسی پر عمل ہے کہ امام کی طرف چہرہ کرنا مستحب ہے۔ یہ سفیان ثوری، شافعی، احمد اور اسحاق کا قول ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں اس باب میں رسول اللہ ﷺ سے مروی کوئی حدیث ثابت نہیں۔

باب ۳۶۱۔ فِی الرَّكْعَتَيْنِ إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

۴۴۳۔ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ نَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَصَلَّيْتَ قَالَ لَا قَالَ فَقُمْ فَأَرْكَعْ

باب ۳۶۱۔ امام کا خطبہ دیتے ہوئے آنے والا شخص دو رکعت پڑھے۔

۴۴۳۔ حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں: ایک مرتبہ حضور اکرم ﷺ جمعہ کے دن خطبہ کے رہتے تھے کہ ایک شخص آیا۔ آپ ﷺ نے اس سے پوچھا: کیا تم نے نماز پڑھی؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اٹھو اور پڑھو۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۴۴۴۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَمْرٍَا سَفِيَانُ بْنُ عَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجَلَانَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبِي سُرْحٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَرَّوَانٌ يَخْطُبُ فَقَامَ يُصَلِّي فَجَاءَ الْحَرَسُ لِيُجْلِسُوهُ فَأَبَى حَتَّى صَلَّى فَلَمَّا انْصَرَفَ آتَيْنَاهُ فَقُلْنَا رَحِمَكَ اللَّهُ إِنْ كَادُوا لَيَفْعُوا بِكَ فَقَالَ مَا كُنْتُ لِأَتْرُكَهُمَا بَعْدَ شَيْءٍ رَأَيْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي هَيْئَةِ بَدَّةٍ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ

۴۴۴۔ حضرت عیاض بن عبد اللہ بن ابوسرح فرماتے ہیں کہ حضرت ابوسعد خدریؓ جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوئے تو مروان خطبہ دے رہا تھا۔ انھوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اس پر محافظ انھیں بٹھانے کے لئے آئے لیکن آپ نہ مانے یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو گئے پھر جب جمعہ کی نماز سے فارغ ہوئے تو ہم ان کے پاس آئے اور کہا: اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے یہ لوگ تو آپ پر ٹوٹ پڑے تھے۔ انہوں نے فرمایا: میں انھیں (دو رکعتوں) رسول اللہ ﷺ سے دیکھ لینے کے بعد کبھی نہ چھوڑتا۔ پھر قصہ ذکر کیا کہ ایک مرتبہ جمعہ کے دن ایک میلا کچلا شخص آیا۔ اس وقت آپ ﷺ خطبہ دے رہے تھے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے اسے حکم دیا، اس نے دو رکعتیں پڑھیں اور آپ ﷺ خطبہ دیتے رہے۔

..... یعنی حدیثوں کو بھلا دیتے ہیں۔ (مترجم)

حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ابن عیینہ اگر امام کے خطبے کے دوران آتے تو دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور اسی کا حکم دیتے تھے۔ ابو عبد الرحمن مقلبی انہیں دیکھ رہے ہوتے۔ امام ترمذی کہتے ہیں میں نے ابن ابی عمر سے سنا کہ ابن عیینہ، محمد بن عجلان کو ثقہ اور مامون بن الحدیث کہتے ہیں۔ اس باب میں جابر، ابو ہریرہ اور ہبل بن سعد سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو سعید خدریؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر بعض اہل علم کا عمل ہے۔ شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں: جب امام کے خطبہ دیتے ہوئے داخل ہو تو بیٹھ جائے، نماز نہ پڑھے۔ یہ سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا قول ہے جب کہ پہلا قول اصح ہے۔ قتیبہ، علاء بن خالد قرشی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حسن بصری کو دیکھا کہ جب وہ مسجد میں داخل ہوئے تو امام خطبہ پڑھا رہا تھا۔ انہوں نے دو رکعتیں پڑھیں اور پھر بیٹھے۔ یعنی انہوں نے اس میں اسی حدیث پر عمل کیا۔

باب ۳۶۲۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْكَلَامِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ
باب ۳۶۲۔ امام کے خطبہ دینے کے دوران بات کرنے کی کراہیت۔
۴۴۵۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ
۴۴۵۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اگر امام
الزهری عن سعيد بن سعيد عن أبي هريرة أن
خطبہ دے رہا ہو تو اس دوران اگر کسی نے کسی کو صرف اتنا کہا کہ چپ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ
رہو تو بھی اس نے لغو بات کی۔
يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَنْصَتْ فَقَدْ لَعَا

اس باب میں ابن ابی اوفی اور جابر بن عبد اللہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اسی پر اہل علم کا عمل ہے کہ امام کے خطبے کے دوران بات کرنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی دوسرا بات کرے تو اسے بھی اشارے ہی سے منع کرے۔ لیکن سلام کا جواب دینے اور چھینک کے جواب میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء دونوں کی اجازت دیتے ہیں جن میں احمد اور اسحاق بھی شامل ہیں جب کہ بعض علماء تابعین وغیرہ اسے مکروہ سمجھتے ہیں اور یہی امام شافعی کا بھی قول ہے۔

مسئلہ: حدیث باب ہی سے استدلال کرتے ہوئے۔ امام ابو حنیفہ، مالک اور فقہائے کوفہ یہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دوران کسی قسم کا کلام یا نماز جائز نہیں۔ یعنی یہ حضرات خطبہ کے دوران داخل ہونے والے شخص کے لیے دو رکعت نماز پڑھنا بھی جائز نہیں سمجھتے۔ احناف اپنے مسلک پر دلائل پیش کرتے ہوئے قرآن کریم کی آیت ”وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا“..... (الایۃ) (یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور خاموش رہو) بھی پیش کرتے ہیں۔ اس پر بحث پیچھے بھی گزر چکی ہے اتنا ہی کافی ہے کہ خطبہ جمعہ بھی اس حکم میں شامل ہے گویا کہ اس کا سبب نزول نماز ہی کے بارے میں ہے لیکن اس کے عموم میں خطبہ بھی شامل ہے۔

جہاں تک باب ۳۶۱ حدیث ۴۴۳ کا تعلق ہے درحقیقت اس واقعہ کے علاوہ آنحضرت ﷺ سے کہیں یہ ثابت نہیں کہ آپ ﷺ نے خطبہ کے دوران آنے والے کسی شخص کو نماز پڑھنے کے لیے فرمایا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعہ بھی خطبہ سے پہلے کا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ ایک مرتبہ خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف فرماتے تھے کہ ایک صاحب جن کا نام سلیم بن بدہ غطفانی تھا داخل ہوئے۔ وہ انتہائی بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ان کے فقر و فاقہ کی کیفیت دیکھ کر آنحضرت ﷺ نے مناسب سمجھا کہ تمام صحابہ ان کی حالت سے اچھی طرح واقف ہو جائیں۔ اس لیے انہیں کھڑا کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اور جنی درود نماز پڑھتے رہے آپ ﷺ خاموش رہے۔ خطبہ شروع نہیں فرمایا بعد میں آپ ﷺ نے صحابہ کرام کو ان پر صدقہ کرنے کی ترغیب بھی کی جس پر صحابہ کرام نے انہیں خوب صدقہ دیا۔ اس سے واضح ہوا کہ یہ ایک خاص واقعہ ہے جسے قواعد کلیہ کے خلاف پیش نہیں کیا جاسکتا۔ اس کی تائید صحیح مسلم کی ایک روایت کے یہ الفاظ ہیں

کہ ”جاء سلیک العطفانی یوم الجمعة و رسول اللہ أقاعد علی المنبر“ یعنی جمعہ کے دن سلیک عطفانی آئے تو آنحضرت ﷺ خطبہ دینے کے لئے منبر پر بیٹھے ہوئے تھے اور یہ بات معروف ہے کہ آپ ﷺ خطبہ ہمیشہ کھڑے ہو کر دیا کرتے تھے۔ لہذا بیٹھنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ ﷺ نے ابھی خطبہ شروع نہیں فرمایا تھا۔

پھر اس روایت سے تحیۃ المسجد پر استدلال بھی مشکل ہے اس لیے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: کھڑے ہو اور دو رکعت نماز پڑھو۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ سلیک بیٹھ چکے تھے لہذا بیٹھنے کے بعد تحیۃ المسجد فوت ہوگئی۔

جہاں تک احناف کے مسلک کا تعلق ہے اسے آثار صحابہ کی بھی تائید حاصل ہے چنانچہ علامہ نووی کے مطابق حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کا بھی یہی مسلک تھا۔

حاصل یہ ہوا کہ یہ ایک مخصوص واقعہ تھا جس سے ہمیشہ خطبہ کے دوران تحیۃ المسجد کا حکم مستحب کرنا غلط ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۳۶۳۔ فی کراہیۃ التخطیٰ یوم الجمعة
 ۴۴۶۔ حدثنا ابو کریب نا رشید بن سعد عن
 زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن انس الجهني
 عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
 وسلم من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذه
 جسراً الى جهنم

باب ۳۶۳۔ جمعہ کے دن لوگوں کو پھلانگ کر آگے جانے کی کراہت
 ۴۴۶۔ سهل بن معاذ بن انس جہنی اپنے والد نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ
 ﷺ نے فرمایا: جو شخص جمعہ کے دن گردنیں پھلانگ کر آگے جاتا ہے
 اسے جہنم پر جانے کے لیے پل بنایا جائے گا۔

اس باب میں جابرؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں سهل بن معاذ بن انس جہنی کی حدیث غریب ہے ہم سے رشدین بن سعد کی روایت کے علاوہ نہیں جانتے اور اسی پر علماء کا عمل ہے کہ جمعہ کے دن گردنیں پھلانگ کر آگے جانا مکروہ ہے چنانچہ علماء نے اس مسئلہ میں شدت کا موقف اختیار کیا ہے۔ بعض علماء رشدین بن سعد کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔

باب ۳۶۴۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْأَحْبَابِ وَالْإِمَامِ
 يَخْطُبُ

باب ۳۶۴۔ امام کے خطبہ دینے کے دوران احتباء مکروہ ہے۔ (۱)

۴۴۷۔ حدثنا محمد بن حميد الرازي والعباس
 بن محمد الدوري قالا نا ابو عبد الرحمن
 المقرئ عن سعيد بن ابي ايوب قال حدثني
 أبو مرحوم عن سهل بن معاذ عن أبيه أن النبي
 صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الحيوة يوم
 الجمعة و الإمام يخطب

۴۴۷۔ سهل بن معاذ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، کہ آنحضرت ﷺ نے جمعہ کے دن امام کے خطبے کے دوران حیوہ سے منع فرمایا۔ (۲)

(۱) احتباء دونوں گھنٹوں کو پیٹ کے ساتھ ملا کر اوپر کی طرف کرنا اور کولہوں پر بیٹھ کر کمر اور ٹانگوں کو کسی کپڑے سے باندھ دینا یا دونوں ہاتھوں سے پکڑ لینا اور اگر اس طرح بیٹھ کر دونوں ہاتھ زمین پر رکھے تو یہ اثناء ہے جس کی تفسیر پیچھے گزر چکی ہے۔ (مترجم)

(۲) حیوہ احتباء ہی کو کہتے ہیں۔ (مترجم)

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے اور ابو مرحوم کا نام عبدالرحیم بن میمون ہے۔ علماء کی ایک جماعت جمعہ کے خطبے کے دوران جموہ کو مکروہ کہتی ہے جب کہ بعض حضرات جیسے کہ عبداللہ بن عمر وغیرہ اس طرح بیٹھنے کو جائز کہتے ہیں یہی امام احمد اور اسحاق کا بھی قول ہے کہ خطبہ کے دوران اس طرح بیٹھنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔

باب ۳۶۵۔ ما جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ رَفْعِ الْأَيْدِي عَلَى الْمُنْبِرِ
 ۴۴۸۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَاهَشْتِمُ نَا حُصَيْنُ
 قَالَ سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ رُوَيْبَةَ وَبِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ
 يَحْطُبُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ فَقَالَ عُمَارَةُ قَبَّحَ اللَّهُ
 هَاتَيْنِ الْيَدَيْتَيْنِ الْقُصِيرَتَيْنِ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَمَا يَزِيدُ عَلَيَّ أَنْ يَقُولَ
 بِكَذَا وَآشَارَ هَشِيمٌ بِالسَّبَابَةِ

باب ۳۶۵۔ منبر پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا مکروہ ہے۔
 ۴۴۸۔ احمد بن منیع، ہشیم سے اور وہ حصین سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے عمارہ بن رویبہ سے بشر بن مروان کے خطبہ دیتے وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے پر یہ سنا کہ: اللہ تعالیٰ ان دونوں چھوٹے اور نکلے ہاتھوں کو خراب کرے۔ بے شک میں نے رسول اللہ ﷺ کو اس سے زیادہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا اور ہشیم نے اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۳۶۶۔ جمعہ کی اذان

۴۴۹۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا حَمَادُ بْنُ خَالِدِ
 الْحِطَّاطِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذَثْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ
 بْنِ يَزِيدٍ قَالَ كَانَ الْأَذَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَآبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ إِذَا خَرَجَ
 الْإِمَامُ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ زَادَ الْبَدَاءَ
 الثَّلَاثَ عَلَى الزُّورَاءِ

۴۴۹۔ حضرت سائب بن یزید فرماتے ہیں، حضور اکرم ﷺ، ابوبکرؓ اور عمرؓ کے زمانے میں (جمعہ کی) اذان امام کے نکلنے پر ہوا کرتی تھی پھر نماز کی اقامت ہوتی اس کے بعد حضرت عثمانؓ نے زوراء (مدینہ کے بازار میں ایک دیوار ہے جس پر کھڑے ہو کر مؤذن اذان دیتے تھے۔ مترجم) پر تیسری اذان زیادہ کی۔ (یعنی بشمول تکبیر کے)۔

باب ۳۶۶۔ ما جَاءَ فِي أَذَانَ الْجُمُعَةِ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۳۶۷۔ ما جَاءَ فِي الْكَلَامِ بَعْدَ نَزْوِلِ الْإِمَامِ مِنَ الْمُنْبِرِ

۴۵۰۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ
 نَا جَرِيرَ بْنَ حَازِمٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ
 كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُكَلِّمُ بِالْحَاجَةِ
 إِذَا نَزَلَ مِنَ الْمُنْبِرِ

۴۵۰۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ منبر سے اترتے تو بوقت ضرورت بات کر لیتے تھے۔

باب ۳۶۷۔ ما جَاءَ فِي الْكَلَامِ بَعْدَ نَزْوِلِ الْإِمَامِ مِنَ الْمُنْبِرِ

امام ترمذی کہتے ہیں: اس حدیث کو ہم جریر بن حازم کی روایت کے علاوہ نہیں جانتے ہیں نے امام بخاری سے سنا کہ جریر بن حازم کو اس حدیث میں وہم ہو گیا ہے اور صحیح ثابت کی حضرت انسؓ سے مروی حدیث ہے کہ انہوں نے فرمایا: (ایک مرتبہ) اقامت کہی جانے کے بعد ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ کو ہاتھ سے پکڑ لیا اور باتیں کرنے لگا یہاں تک کہ بعض لوگ اوگھنے لگے۔ بخاری کہنے لگے۔ حدیث تو یہ ہے۔ جب کہ جریر بن حازم کبھی کبھی وہم کر جاتے ہیں۔ اگرچہ وہ صدوق ہیں مزید کہتے ہیں کہ انہیں ثابت کی انسؓ سے مروی اس

Presented by www.ziaaraat.com

حدیث میں بھی وہم ہوا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جب اقامت ہو جائے تو اس وقت نہ کھڑے ہو جب تک مجھے دیکھ نہ لو، امام بخاری فرماتے ہیں کہ حماد بن زید سے مروی ہے کہ وہ ثابت بنانی کے پاس تھے تو حجاج صواف نے یحییٰ بن ابوکثیر سے انہوں نے عبداللہ بن قتادہ سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے آنحضرت ﷺ سے روایت بیان کی کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جب نماز کی تکبیر ہو تو نماز کے لیے اس وقت تک کھڑے نہ ہو جب تک مجھے دیکھ نہ لو“ اس پر جریر وہم میں مبتلا ہو گئے انہیں یہ گمان ہوا کہ یہ حدیث ثابت نے انس سے اور انہوں نے حضور اکرم ﷺ سے روایت کی ہے۔

۴۵۱۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کی اقامت ہو جانے کے بعد حضور اکرم ﷺ کو دیکھا کہ ایک شخص آپ ﷺ سے باتیں کر رہا تھا اور قبیلے اور آپ ﷺ کے درمیان کھڑا تھا۔ وہ باتیں کرتا رہا۔ یہاں تک کہ میں نے بعض حضرات کو آنحضرت ﷺ کے کافی دیر تک کھڑے رہنے کی وجہ سے اونگھتے ہوئے دیکھا۔

۴۵۱۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ نَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ نَا مَعْمَرٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا تَقَامُ الصَّلَاةُ يُكَلِّمُهُ الرَّجُلُ يَقُومُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ وَمَا زَالَ يُكَلِّمُهُ وَتَقَدَّرْتُ رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ يَنْعَسُ مِنْ طُولِ قِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

باب ۳۶۸۔ جمع کی نماز میں قرأت

باب ۳۶۸۔ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

۴۵۲۔ حضرت عبید اللہ بن ابی رافع (آنحضرت ﷺ کے مولیٰ) فرماتے ہیں کہ مروان، حضرت ابو ہریرہؓ کو مدینہ میں اپنا جانشین نامزد کر کے مکہ چلا گیا حضرت ابو ہریرہؓ نے ہمیں جمعہ کی نماز پڑھائی اور پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری میں سورہ منافقون پڑھی عبید اللہ کہتے ہیں میں نے ابو ہریرہؓ سے ملاقات پر کہا کہ آپ ﷺ نے یہ دو سورتیں اس لیے پڑھیں کہ حضرت علیؓ کو فہم میں یہی پڑھا کرتے تھے۔ فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ دونوں سورتیں پڑھتے ہوئے سنا ہے۔

۴۵۲۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا حَاتِمِ بْنِ اسْمَعِيلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْتَخَلَفْتُ مَرْوَانَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ وَخَرَجَ إِلَيَّ مَكَّةَ فَصَلَّيْتُ بِنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْجُمُعَةَ فَقَرَأَ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَفِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَأَدْرَكْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ لَهُ تَقْرَأُ سُورَتَيْنِ كَانَ عَلِيُّ يَقْرَأُ هُمَا بِالْكُوفَةِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهِمَا

اس باب میں ابن عباسؓ، نعمان بن بشیرؓ اور ابوعمیرہؓ خولانی سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ آپ ﷺ سے یہ بھی مروی ہے کہ جمعہ کی نماز میں سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ پڑھا کرتے تھے۔

باب ۳۶۹۔ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں کیا پڑھا جائے؟

باب ۳۶۹۔ مَا جَاءَ مَا يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

۴۵۳۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ (الم تنزیل.....) اور سورہ دہر (اہل اقی علی الانسان) پڑھا کرتے تھے۔

۴۵۳۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ نَا شَرِيكَ عَنْ مَخْوَلِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطْنِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ أَلَمْ تَنْزِيلُ

السُّجْدَةَ وَهَلْ آتَى عَلَى الْإِنْسَانَ

اس باب میں سعد، ابن مسعود اور ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت ابن عباسؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور اسے سفیان ثوری اور کئی حضرات نے محمول سے روایت کیا ہے۔

باب ۳۷۰۔ جمعہ سے پہلے اور بعد کی نماز

باب ۳۷۰۔ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَبَعْدَهَا

۳۷۴۔ سالم اپنے والد سے اور وہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ جمعہ کے بعد دو رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔

۴۵۴۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ نَا سَفْيَانَ بْنَ عَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ

اس باب میں جابر سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن عمرؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور ابن عمرؓ سے بواسطہ نافع بھی مروی ہے۔ اس پر بعض علماء کا عمل ہے اور یہی امام شافعی اور امام احمد کا قول ہے۔

۳۷۵۔ نافع ابن عمرؓ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے نماز جمعہ پڑھنے کے بعد گھر میں دو رکعتیں پڑھیں اور پھر فرمایا: حضور اکرم ﷺ ایسا ہی کیا کرتے تھے۔

۴۵۵۔ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ نَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ أَنْصَرَفَ فَصَلَّى سَجْدَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذَلِكَ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۷۶۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص جمعہ (کی نماز) کے بعد نماز پڑھنا چاہے تو چار رکعت پڑھے۔

۴۵۶۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ نَا سَفْيَانَ بْنَ سَهِيلٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حسن بن علی، علی بن مدینی سے اور وہ سفیان بن عیینہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: ہم اسمیل بن ابی صالح کو حدیث میں ثبت سمجھتے تھے بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے کہ وہ جمعہ سے پہلے اور بعد چار چار رکعت نماز پڑھتے تھے حضرت علی بن ابی طالبؓ سے مروی ہے، کہ انہوں نے جمعہ کے بعد، پہلے دو اور پھر چار رکعت پڑھنے کا حکم دیا۔ سفیان ثوری اور ابن مبارک، حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کے قول پر عمل کرتے ہیں اسحاق کا کہنا ہے کہ اگر جمعہ سے پہلے مسجد میں نماز پڑھے تو چار رکعت اور اگر گھر میں پڑھے تو دو رکعت پڑھے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ”حضور اکرم ﷺ جمعہ کے بعد گھر میں دو رکعت پڑھا کرتے تھے“۔ ایک اور حدیث میں آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے جو شخص جمعہ کے بعد نماز پڑھنا چاہے چار رکعت پڑھے“۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ ابن عمرؓ نے ہی یہ حدیث بھی بیان کی ہے کہ آپ ﷺ جمعہ کے بعد گھر میں دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور ان کے متعلق روایت ہے کہ انہوں نے جمعہ کے بعد مسجد میں دو اور پھر چار رکعت نماز پڑھی۔ یہ بات ہم سے ابن عمرؓ نے سفیان کے حوالے سے روایت کی ہے وہ ابن جریج سے اور وہ عطاء سے روایت کرتے ہیں کہ: انہوں نے ابن عمرؓ کو جمعہ کے بعد پہلے دو اور اس کے بعد چار رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا۔

سعید بن عبدالرحمن مخزومی، سفیان بن عیینہ سے اور وہ عمر بن دینار سے روایت کرتے ہیں کہ عمرو نے کہا: میں نے زہری سے بہتر حدیث بیان کرنے والا نہیں دیکھا اور نہ ہی دولت کو ان سے زیادہ حقیر جاننے والا دیکھا، ان کے نزدیک دراہم اونٹ کی میٹگی کے برابر حیثیت رکھتے تھے امام ترمذی کہتے ہیں: میں نے ابن عمرؓ سے بحوالہ سفیان بن عیینہ سنا کہ سفیان کہا کرتے تھے کہ عمرو بن دینار، زہری سے بڑے ہیں۔

باب ۳۷۱۔ جو شخص جمعہ کی ایک رکعت پائے

باب ۳۷۱۔ فَمَنْ يَدْرِكُ مِنَ الْجُمُعَةِ رُكْعَةً

۴۵۷۔ حدثنا نصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن

وغير واحد قالوا ثنا سفیان بن عیینة عن الزهري عن أبي

۳۵۷۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جسے نماز

کی ایک رکعت مل گئی اسے نماز مل گئی۔

سَلَّمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

قَالَ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رُكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اکثر علماء صحابہ وغیرہ کا اسی پر عمل ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر ایک رکعت ملی تو دوسری رکعت اس کے ساتھ ملا لے اور اگر امام کے قعدہ کی حالت میں پہنچے تو چار رکعت پڑھے۔ سفیان ثوری، ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

مسئلہ: اس مسئلے میں حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ قعدہ میں اگر سلام سے پہلے پہلے شریک ہو گیا تو وہی رکعت بطور جمعہ پڑھے گا۔

ان کا استدلال حضرت ابو ہریرہؓ ہی کی صحیح بخاری میں مذکور روایت سے ہے کہ ”اذا أنتمم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدرکم فصلوا وما فاتکم فاتموا“ یعنی جب تم نماز کے لیے آؤ تو اطمینان اور سکون کے ساتھ چلو جتنی نماز مل جائے پڑھو اور جو نکل جائے اسے پورا کرو۔ چونکہ اس میں جمعہ یا غیر جمعہ کی کوئی تفصیل نہیں لہذا جمعہ بھی اس حکم کے عموم میں داخل ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۳۷۲۔ جمعہ کے دن قیلولہ

باب ۳۷۲۔ فِي الْقَائِلَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

۴۵۸۔ حضرت ہبل بن سعدؓ فرماتے ہیں کہ ہم آنحضرت ﷺ کے زمانے

میں گھانا بھی جمعہ کے بعد کھاتے اور قیلولہ بھی جمعے کے بعد ہی کرتے۔

۴۵۸۔ حدثنا علي بن حجر نا عبدالعزيز بن ابي

حازم عبدالله بن جعفر عن أبي حازم عن سهل بن

سعيد قال ما كنا نتغدى في عهد رسول الله صلى

الله عليه وآله وسلم ولا نقبل إلا بعد الجمعة

اس باب میں انس بن مالکؓ سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں ہبل بن سعدؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۳۷۳۔ جو شخص جمعہ کے دن اوگھنے لگے اپنی جگہ سے اٹھ کر دوسری

جگہ بیٹھ جائے۔

باب ۳۷۳۔ مَنْ يُعَسُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِنَّهُ يَتَحَوَّلُ مِنْ

مَجْلِسِهِ

۴۵۹۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی شخص

جمعہ کے دن اوگھنے لگے تو اپنی جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ بیٹھ جائے۔

۴۵۹۔ حدثنا ابو سعيد الاشج نا عبدة بن سليمان

وابو خالد الاحمر عن محمد بن اسحق عن نافع

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم

قال اذا نعت احدكم يوم الجمعة فليتحوّل عن

مجلسه ذلك

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۳۷۴۔ مَا جَاءَ فِي السَّفَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

۴۶۰۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا أَبُو مَعَاوِيَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فِي سَرِيَةٍ فَوَافَقَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَعَدَا أَصْحَابَهُ فَقَالَ اتَّخَلَّفْتُ فَأُصَلِّيَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ الْحَقُّهُمْ فَلَمَّا صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَأَاهُ فَقَالَ لَهُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَعُدُّوا مَعَ أَصْحَابِكَ فَقَالَ أَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ مَعَكَ ثُمَّ الْحَقُّهُمْ فَقَالَ لَوْ أَنْفَقْتُ مَا فِي الْأَرْضِ مَا أَدْرَكْتُ فَضَّلَ عَدُوِّيهِمْ

باب ۳۷۴۔ جمعہ کے دن سفر کرنا۔
۳۶۰۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک مرتبہ عبد اللہ بن رواحہ کو ایک لشکر کے ساتھ بھیجا۔ اتفاق سے اسی روز جمعہ تھا۔ ان کے ساتھی صبح روانہ ہو گئے۔ عبد اللہ نے کہا میں پیچھے رہ جاتا ہوں تاکہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جمعہ پڑھ سکوں پھر ان سے جا ملوں گا۔ جب انہوں نے آنحضرت ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی اور آپ ﷺ نے انہیں دیکھا تو پوچھا کہ تمہیں تمہارے ساتھیوں کے ساتھ جانے سے کس چیز نے منع کیا؟ عرض کیا: میں چاہتا تھا کہ آپ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھ لوں اور پھر ان سے جا ملوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر تم زمین میں جو کچھ ہے اتنا مال صدقہ بھی کر دو تو ان کے صبح ہونے کی فضیلت تک نہیں پہنچ سکتے۔

امام ترمذی کہتے ہیں کہ اس حدیث کو اس سند کے علاوہ ہم نہیں جانتے، علی بن مدینی، یحییٰ بن سعید سے اور وہ شعبہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ حکم نے مقسم سے صرف پانچ حدیثیں سنی ہیں۔ شعبہ نے انہیں گنا۔ یہ حدیث ان پانچ میں نہیں گویا کہ یہ حدیث حکم نے مقسم سے نہیں سنی۔ جمعہ کے دن سفر کرنے کے متعلق علماء میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں بشرطیکہ نماز کا وقت نہ ہو۔ جب کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اگر صبح ہو جائے تو جمعہ کی نماز پڑھ کر سفر کے لیے روانہ ہو۔

باب ۳۷۵۔ فِي السَّوَاكِ وَالطَّيِّبِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

۴۶۱۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْكُوفِيُّ نَا أَبُو يَحْيَى بِنِ سَعِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ عَنِ يَزِيدِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبُرَّاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَقًّا عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَتَغَسَّلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلْيَمَسَّ أَحَدُهُمْ مِنْ طَيِّبٍ أَهْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَأَلْمَاءُ لَهُ طَيِّبٌ

باب ۳۷۵۔ جمعہ کو مسواک کرنا اور خوشبو لگانا
۳۶۱۔ حضرت براء بن عازبؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ جمعہ کے دن غسل کریں اور ہر ایک گھر کی خوشبو لگائے اور اگر نہ ہو تو تویانی ہی اس کے لیے خوشبو ہے۔

اس باب میں ابوسعید اور ایک انصاری شیخ سے بھی روایت ہے۔ احمد بن منیع، ہشیم سے اور وہ یزید بن ابی زیاد سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں براء کی حدیث حسن ہے اور ہشیم کی روایت اسماعیل بن ابراہیم تمیمی سے بہتر ہے۔ اسماعیل بن ابراہیم تمیمی حدیث میں ضعیف ہیں۔

أَبْوَابُ الْعِيدَيْنِ

عیدین کے ابواب

باب ۳۷۶۔ فِي الْمَشِيِّ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ

باب ۳۷۶۔ عیدین کے لیے پیدل جانا۔

۴۶۲۔ حَدَّثَنَا اسْمَعِيلُ بْنُ مُوسَى نَاشِرِيكٌ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا وَ أَنْ تَأْكُلَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ

۳۷۲۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ (عید کے روز) عید گاہ کی طرف پیدل جانا اور گھر سے نکلنے سے پہلے کچھ کھا لینا سنت ہے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر اکثر اہل علم کا عمل ہے کہ عید کی نماز کے لیے پیدل نکلنا مستحب ہے اور یہ کہ بغیر عذر کے کسی (سواری) پر سوار نہ ہو۔

باب ۳۷۷۔ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

باب ۳۷۷۔ عیدین میں خطبے سے پہلے نماز پڑھنا۔

۴۶۳۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَا ابُو اسَامَةَ عَنْ عِيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ يُصَلُّونَ فِي الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ يَخْطُبُونَ

۳۷۳۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ، ابو بکرؓ اور عمرؓ عیدین میں نماز خطبے سے پہلے پڑھتے اور پھر خطبہ دیا کرتے تھے۔

اس باب میں جابرؓ اور ابن عباسؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت ابن عمرؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر علماء صحابہ وغیرہ کا عمل ہے کہ عید کی نماز خطبے سے پہلے پڑھی جائے۔ کہا جاتا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے خطبہ دینے والا شخص مروان بن حکم تھا۔

باب ۳۷۸۔ أَنَّ صَلَاةَ الْعِيدَيْنِ بِغَيْرِ آذَانَ وَلَا إِقَامَةٍ

باب ۳۷۸۔ عیدین کی نماز میں اذان اور اقامت نہیں ہوتی۔

۴۶۴۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا ابُو الاحْوَصِ عَنْ سَمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ آذَانَ وَلَا إِقَامَةٍ

۳۷۴۔ حضرت جابر بن سمرہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ عیدین کی نماز کی مرتبہ بغیر اذان و اقامت کے پڑھی۔

اس باب میں جابر بن عبد اللہ اور ابن عباسؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: جابر بن سمرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اور اس پر علماء صحابہ وغیرہ کا عمل ہے کہ عیدین یا کسی نفل نماز کے لیے اذان نہ دی جائے۔

باب ۳۷۹۔ الْقِرَاءَةُ فِي الْعِيدَيْنِ

باب ۳۷۹۔ عیدین کی نماز میں قرأت

۴۶۵۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا ابُو عَوَانَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِسَبْحِ اسْمِ

۳۷۵۔ حضرت نعمان بن بشیرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ عیدین اور جمعہ کی نمازوں میں ”سبح اسم ربك الاعلیٰ“ اور ”هل اتاك حديث الغاشية“ پڑھا کرتے تھے اور اگر کبھی عید جمعہ کے دن ہوتی تو بھی یہی دونوں سورتیں دونوں نمازوں میں پڑھتے۔

رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ وَهَلْ أُنْكَ حَدِيثُ الْعَاشِيَةِ وَرُبَّمَا
اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَيَقْرَأُ بِهِمَا

اس باب میں ابو واقد، سمرہ بن جندب اور ابن عباس سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں نعمان بن بشیر کی حدیث حسن صحیح ہے اسی طرح سفیان ثوری اور معمر بھی ابراہیم بن محمد بن منقثر سے ابو عوانہ کی حدیث کے مثل بیان کرتے ہیں۔ ابن عیینہ کے متعلق اختلاف ہے۔ کوئی ان سے بواسطہ ابراہیم بن محمد بن منقثر روایت کرتا ہے وہ اپنے والد سے وہ حبیب بن سالم سے وہ اپنے والد سے اور وہ نعمان بن بشیر سے روایت کرتے ہیں۔ جب کہ حبیب بن سالم کی ان کے والد سے کوئی روایت معروف نہیں۔

یہ نعمان بن بشیر کے مولیٰ ہیں اور ان سے احادیث روایت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ابن عیینہ سے مروی ہے کہ وہ ابراہیم بن محمد بن منقثر سے ان حضرات کی روایت کے مثل بیان کرتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ ﷺ عیدین کی نمازوں میں سورہ ”ق“ اور ”اقتربت الساعة“ پڑھا کرتے تھے۔ یہ امام شافعی کا بھی قول ہے۔

۴۶۶۔ عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے ابو واقد لیشی سے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں کیا پڑھا کرتے تھے۔ ابو واقد نے کہا: آنحضرت ﷺ ”ق“ والقرآن المجید“ اور ”اقتربت الساعة وانشق القمر“ پڑھتے تھے۔

۴۶۶۔ حدثنا اسحق بن موسى الانصاري نامعن
بن عيسى نا ملك عن ضمرة بن سعيد المازني
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان عمر بن
الخطاب سأل ابا واقد الليثي ما كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقرأ به في الفطر والاضحى
قال كان يقرأ بقاف القرآن المجيد واقتربت
الساعة وانشق القمر

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ہناد، ابن عیینہ سے اور وہ ضمیرہ بن سعید سے اسی سند سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو واقد لیشی کا نام حارث بن عوف ہے۔

باب ۳۸۰۔ عیدین کی تکبیرات

باب ۳۸۰۔ فی التکبیر فی العیدین

۴۶۷۔ کثیر بن عبد اللہ اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے عیدین کی نماز میں پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے سات تکبیریں اور دوسری رکعت میں قرأت سے پہلے پانچ تکبیریں کہیں۔

۴۶۷۔ حدثنا مسلم بن عمرو ابو عمرو الحذاء
المديني نا عبد الله بن نافع عن كثير بن عبد الله عن
ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه واله وسلم
كبر في العیدین فی الاولى سبعة قبل القراءة وفي
الاحيرة خمسة قبل القراءة

اس باب میں عائشہ، ابن عمر اور عبد اللہ بن عمر سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کثیر کے دادا کی حدیث حسن ہے اور اس باب میں آنحضرت ﷺ سے مروی احادیث میں احسن ہے۔ کثیر کے دادا کا نام عمرو بن عوف مزنی ہے۔ اسی پر بعض علماء صحابہ کا عمل ہے۔ اسی حدیث کی مانند حضرت ابی ہریرہ سے بھی مروی ہے کہ انہوں نے مدینہ میں اسی طرح امامت کی یہی قول اہل مدینہ، شافعی، مالک، احمد اور اسحاق کا ہے۔ ابن مسعود سے مروی ہے کہ انہوں نے عید کی نماز میں ۹ تکبیریں کہیں۔ پانچ قرأت سے پہلے پہلی رکعت میں اور چار

دوسری رکعت میں قرأت کے بعد، رکوع کی تکبیر کے ساتھ۔ کئی صحابہؓ سے اسی کے مثل مروی ہے۔ اور یہ اہل کوفہ اور سفیان ثوری کا قول ہے۔

مسئلہ: حنفیہ کے نزدیک زائد تکبیرات صرف چھ ہیں۔ تین پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے اور تین دوسری رکعت میں قرأت کے بعد۔

ان کا استدلال سنن ابوداؤد میں مکحول کی روایت سے ہے کہ ”سعید بن عاصیؓ نے ابو موسیٰ اشعریؓ اور حذیفہ بن یمانؓ سے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں کس طرح تکبیرات کہا کرتے تھے (یعنی کتنی) ابو موسیٰ نے فرمایا: چار تکبیریں۔ جیسے کہ جنازے میں۔ اس پر حذیفہ نے ان کی تصدیق فرمائی۔“

اس حدیث میں چار تکبیروں کا ذکر ہے ان میں سے ایک تکبیر تحریر اور تین زائد ہیں۔

جہاں تک حدیث باب کا تعلق ہے اس کا مدار کثیر بن عبداللہ پر ہے جو نہایت ضعیف ہے۔ امام ترمذی کی اس حدیث کی تحسین پر

دوسرے محدثین نے سخت اعتراض کیا ہے۔ (مترجم)

باب ۳۸۱۔ عیدین سے پہلے اور بعد کوئی نماز نہیں

باب ۳۸۱۔ لَا صَلَاةَ قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَلَا بَعْدَهَا

۳۶۸۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ عید الفطر کے روز

۴۶۸۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَا ابوداؤد

گھر سے نکلے اور دو رکعتیں (عید کی نماز) پڑھیں نہ اس سے پہلے کوئی

الطیالسی انبانا شعبة عن عدی بن ثابت قال

نماز پڑھی اور نہ اس کے بعد۔

سمعت سعید بن جبیر يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ

فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا

اس باب میں عبداللہ بن عمرؓ اور ابوسعیدؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن عباسؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر بعض

علماء صحابہ وغیرہ کا عمل ہے اور یہی شافعی، احمد اور اسحاق کا قول ہے جب کہ علماء صحابہ کی ایک جماعت عید سے پہلے یا بعد نماز پڑھنے کی قائل ہے لیکن پہلا قول اصح ہے۔

۳۶۹۔ حضرت ابن عمرؓ سے منقول ہے کہ وہ عید کے لیے گھر سے نکلے

۴۶۹۔ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَرِيثٍ أَبُو عَمَّارٍ نَا وَكَيْع

اور عید کی نماز سے پہلے یا بعد کوئی نماز نہیں پڑھی اور فرمایا کہ آنحضرت

عَنْ ابَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَفْصٍ

وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّ خَرَجَ يَوْمَ عِيدٍ وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا وَذَكَرَ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۳۸۲۔ عیدین کے لیے عورتوں کا نکلنا

باب ۳۸۲۔ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ

۳۷۰۔ حضرت ام عطیہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ عیدین کے لیے

۴۷۰۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا هَشِيمُ نَا مَنْصُور

کنواری لڑکیوں، جوان عورتوں، پردہ دار عورتوں اور حائضہ عورتوں کو

وَهُوَ ابْنُ زَادَانَ عَنْ ابْنِ سَبْرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ
الْأُبْكَارَ وَالْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْحُدُورِ وَالْحَيْضَ فِي
الْعِيدَيْنِ فَأَمَّا الْحَيْضُ فَيَعْتَرِلْنَ الْمُصَلِّيَّ وَيَشْهَدْنَ
دَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ قَالَتْ إِحْلَاهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَمْ يَكُنْ لَهَا حِلْيَاتٌ قَالَ
فَلْتَعْرِهَا أُخْتَهَا مِنْ حِلْيَاتِهَا

نکتنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ حائضہ عورتیں عید گاہ سے باہر رہتیں اور
مسلمانوں کی دعائیں شریک ہوتیں۔ ان میں سے ایک نے عرض کیا: یا
رسول اللہ! اگر کسی عورت کی چادر نہ ہو تو؟ فرمایا: اس کی بہن اسے
اپنی چادر عارۃ (ادھار) دے دے۔

احمد بن میخ، ہشام سے وہ ہشام بن حسان سے وہ حفصہ بنت سیرین سے اور وہ ام عطیہؓ سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ اس
باب میں ابن عباسؓ اور جابرؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ام عطیہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے بعض علماء اسی پر عمل کرتے ہوئے
عورتوں کو عیدین کے لیے جانے کی اجازت دیتے ہیں اور بعض اسے مکروہ سمجھتے ہیں۔ ابن مبارک سے مروی ہے کہ انھوں نے کہا: آج کل
میں عورتوں کے لیے عیدین کے لیے نکلنا مکروہ سمجھتا ہوں لیکن اگر وہ نہ مانے تو اس کا شوہر اسے میلے کپڑوں میں بغیر زینت کے نکلنے کی
اجازت دے دے اور اگر زینت کرے تو اس کے شوہر کو اسے نکلنے سے منع کر دینا چاہئے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں ”اگر رسول اللہ
ﷺ عورتوں کی ان چیزوں کو دیکھتے جو انھوں نے نئی نکالی ہیں تو انھیں مسجد جانے سے منع فرمادیتے۔ جس طرح کہ بنو اسرائیل کی عورتوں کو
منع کر دیا گیا، سفیان ثوری سے بھی یہی مروی ہے کہ وہ عورتوں کا عیدین کے لیے نکلنا مکروہ سمجھتے تھے۔

باب ۳۸۳۔ مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْعِيدَيْنِ فِي طَرِيقِ وَرَجُوعِهِ مِنْ
طَرِيقِ آخِر

۴۷۱۔ حَدَّثَنَا عَبْدِ الْعَلِيِّ بْنِ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الْعَلِيِّ
الْكُوفِيِّ وَابُو زُرْعَةَ قَالَا نَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ عَنْ فُلَيْحِ
بْنِ سَلِيمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ
يَوْمَ الْعِيدَيْنِ فِي طَرِيقِ رَجَعَ فِي غَيْرِهِ

اس باب میں عبد اللہ بن عمرؓ اور ابو رافعؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن غریب ہے اسے ابو
تمیلہ اور یونس بن محمد، فتح بن سلیمان سے وہ سعید بن حارث سے اور وہ جابر بن عبد اللہؓ سے روایت کرتے ہیں علماء کے نزدیک اس حدیث
پر عمل کرتے ہوئے عید کے لیے ایک راستے سے جانا اور کسی دوسرے راستے سے واپس آنا مستحب ہے۔ امام شافعی کا بھی یہی قول ہے گویا کہ یہ
حدیث صحیح ہے۔

باب ۳۸۴۔ فِي الْأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ
۴۷۲۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبِزَارِيُّ
عَبْدَ الصَّمَدِ ابْنَ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ ثَوَابِ بْنِ عُتْبَةَ

باب ۳۸۳۔ عید الفطر کے لیے جانے سے پہلے کچھ کھانا۔
۴۷۲۔ حضرت عبد اللہ بن بریدہؓ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول
اللہ ﷺ عید الفطر کے لیے اس وقت تک نہ جاتے جب تک کچھ کھانا

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ وَلَا يَطْعَمَ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ

لیتے جب کہ عید الاضحیٰ میں اس وقت تک کچھ نہ کھاتے جب تک نماز نہ پڑھ لیتے۔

اس باب میں علیؑ اور انسؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں بریدہ بن حصیب اسلمیؓ کی حدیث غریب ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں میں ثواب بن عتبہ کی اس حدیث کے علاوہ کوئی حدیث نہیں جانتا۔ علماء حضرات کا مسلک یہی ہے کہ عید الفطر میں نماز سے پہلے کچھ کھا لینا مستحب ہے پھر اگر کھجور کھائے تو یہ اس سے بھی بہتر ہے لیکن عید الاضحیٰ میں نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا مستحب ہے۔

۴۷۳۔ حدثنا قتيبة نا هشيم عن محمد بن اسحق عن حفص ابن عبيدالله بن أنس عن أنس بن مالك أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُفِطِرُ عَلَى تَمْرَاتٍ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْمُصَلَّى

۴۷۳۔ حضرت انسؓ بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ آقائے دو جہاں ﷺ عید الفطر کے دن نماز کے لیے نکلنے سے پہلے کھجوریں تناول فرماتے تھے۔

سفر کے ابواب

أَبْوَابُ السَّفَرِ

باب ۳۸۵۔ سفر میں قصر نماز پڑھنا

باب ۳۸۵۔ التَّقْصِيرُ فِي السَّفَرِ

۴۷۴۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ ابو بکرؓ، عمرؓ اور عثمانؓ کے ساتھ سفر کیا۔ یہ حضرات ظہر اور عصر کی دو دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور ان سے پہلے یا بعد کوئی نماز نہ پڑھتے۔ عبد اللہؓ فرماتے ہیں: اگر میں ان سے پہلے یا بعد بھی کچھ پڑھنا چاہتا تو فرض ہی کو مکمل کر لیتا۔

۴۷۴۔ حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق البغدادي نا يحيى بن سليم عن عبيدالله بن نافع عن ابن عمر قال سافرت مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَكَانُوا يُصَلُّونَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رُكْعَتَيْنِ لَا يُصَلُّونَ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ كُنْتُ مُصَلِّيًا قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا لَأَتَمَمْتُهَا

اس باب میں عمرؓ، علیؓ، ابن عباسؓ، انسؓ، عمران بن حصینؓ اور عائشہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن عمرؓ کی حدیث حسن غریب ہے، ہم اسے یحییٰ بن سلیم کی روایت کے علاوہ نہیں جانتے وہ اس کے مثل روایت کرتے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ حدیث عبید اللہ بن عمرو سے بھی مروی ہے وہ آل سراقہ کے ایک شخص سے اور وہ ابن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں: عطیہ عونی، ابن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ سفر کے دوران نماز سے پہلے اور بعد نفل نماز پڑھا کرتے تھے یہ بھی صحیح ہے کہ آپ ﷺ سفر میں قصر نماز پڑھتے۔ اسی طرح ابو بکرؓ، عمرؓ اور عثمانؓ بھی اپنے دور خلافت کے اوائل میں قصر ہی پڑھتے۔ اکثر علماء صحابہ وغیرہ کا اسی پر عمل ہے۔ جب کہ حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ وہ سفر میں پوری نماز پڑھتی تھیں لیکن آپ ﷺ اور صحابہ کرامؓ سے مروی حدیث پر ہی عمل ہے اور یہی شافعی، احمد اور اسحاق کا قول ہے لایہ کہ امام شافعی سفر میں قصر کو اجازت پر محمول کرتے ہیں یعنی اگر وہ نماز پوری پڑھ لے تو بھی جائز ہے۔

۴۷۵۔ حضرت ابو نضرہ فرماتے ہیں کہ عمران بن حصینؓ سے مسافر کی نماز کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا: میں نے آنحضرت ﷺ کے ساتھ حج کیا تو آپ ﷺ نے دو رکعتیں پڑھیں پھر ابو بکرؓ، عمرؓ اور عثمانؓ کی خلافت میں چھ آٹھ سال تک ان حضرات کے ساتھ حج کیا انہوں نے بھی دو دو رکعتیں ہی پڑھیں۔

۴۷۵۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا هِشِيمَ نَا عَلِيَّ بْنَ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ أَبِي نُضْرَةَ قَالَ سُئِلَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ عَنْ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ فَقَالَ حَجَّجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْتُ رُكْعَتَيْنِ وَحَجَّجْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَصَلَّيْتُ رُكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُمَرَ فَصَلَّيْتُ رُكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُثْمَانَ سِتِّ سِنِينَ مِنْ خِلَافَتِهِ أَوْ ثَمَانَ سِنِينَ فَصَلَّيْتُ رُكْعَتَيْنِ
امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۴۷۶۔ حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں ہم نے آنحضرت ﷺ کے ساتھ مدینہ میں ظہر کی نماز چار رکعت ادا کی اور پھر ذوالحلیفہ میں عصر کی دو رکعتیں پڑھیں۔

۴۷۶۔ حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ نَا سَفِيَانُ بْنُ عَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَابْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسِرَةَ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَبَدَى الْحَلِيفَةَ الْعَصْرَ رُكْعَتَيْنِ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۴۷۷۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ مدینہ سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ ﷺ کو اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہ تھا۔ اور راستے میں دو رکعتیں پڑھیں۔

۴۷۷۔ حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ نَا هِشِيمَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ لَا يَخَافُ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ فَصَلَّيْتُ رُكْعَتَيْنِ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔

باب ۳۸۶۔ تکی مدت قصر پڑھی جائے گی؟

باب ۳۸۶۔ مَا جَاءَ فِي كُمْ تَقْصُرُ الصَّلَاةُ

۴۷۸۔ حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں ہم حضور ﷺ کے ساتھ مدینہ سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے آپ ﷺ نے دو رکعتیں (قصر) پڑھی۔ راوی نے انسؓ سے پوچھا: آنحضرت ﷺ نے مکہ میں کتنے دن قیام کیا؟ فرمایا: دس روز۔

۴۷۸۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا هِشِيمَ نَا يَحْيَى ابْنُ أَبِي اسْحَقٍ الْحَضْرَمِيُّ نَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَصَلَّيْتُ رُكْعَتَيْنِ قَالَ قُلْتُ لِأَنَسِ كَمْ أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ قَالَ عَشْرًا

اس باب میں ابن عباسؓ اور جابرؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ انسؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے بعض سفروں میں انیس دن تک بھی قیام کیا اور دو رکعتیں ہی پڑھتے رہے۔ چنانچہ اگر ہمارا قیام انیس دن یا اس سے کم مدت کا ہوتا تو ہم بھی قصر ہی پڑھتے اور اگر اس سے زیادہ رہتے تو پوری نماز پڑھتے۔ حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ جو دس دن قیام کرے وہ

پوری نماز پڑھے، ابن عمرؓ پندرہ دن اور دوسری روایت میں بارہ دن قیام کرنے والے کے متعلق پوری نماز کا حکم دیتے تھے۔ قتادہ اور عطاء خراسانی، سعید بن مسیب سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص چار دن تک قیام کرے وہ چار رکعتیں ادا کرے۔ جب کہ داؤد بن ابی ہندان سے اس کے خلاف روایت کرتے ہیں۔ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ چنانچہ سفیان ثوری اور اہل کوفہ (حنفیہ) پندرہ دن تک قصر کا مسلک اختیار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر پندرہ دن قیام کی نیت ہو تو پوری نماز پڑھے، امام اوزاعی بارہ دن قیام کی نیت پر پوری نماز پڑھنے کے قائل ہیں جب کہ شافعی، مالک اور احمد کا یہ قول ہے کہ اگر چار دن رہنے کا ارادہ ہو تو پوری نماز پڑھے۔ اسحاق کہتے ہیں کہ اس باب میں قوی ترین مذہب ابن عباسؓ کی حدیث کا ہے کیوں کہ وہ نبی کریم سے روایت کرتے ہوئے آپ ﷺ کے بعد بھی اسی پر عمل پیرا ہیں کہ اگر انیس دن قیام کا ارادہ ہو تو پوری نماز پڑھے۔ پھر اس بات پر علماء کا اجماع ہے کہ اگر رہنے کی مدت متعین نہ ہو تو قصر ہی پڑھے چاہے سال گزر جائیں۔ (یعنی اس کا ارادہ اور نیت نہ ہو کہ اتنے دن رہے گا)۔

۴۷۹۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے سفر کیا اور انیس دن تک قصر نماز پڑھتے رہے۔ ہم بھی اگر انیس دن سے کم قیام کریں تو قصر، اور اگر اس سے زیادہ رہیں تو پوری نماز پڑھتے ہیں۔

۴۷۹۔ حدثنا هنادنا ابو معاوية عن عاصم الاحول عن عكرمة عن ابن عباس قال سافر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سقراً فصلت تسعة عشر يوماً ركعتين ركعتين قال ابن عباس فنحن نصلي فيما بيننا وبين تسع عشرة ركعتين ركعتين فاذا اقمنا اكثر من ذلك صلينا اربعاً

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب صحیح ہے۔

باب ۳۸۷۔ سفر میں نوافل پڑھنا۔

باب ۳۸۷۔ مَا جَاءَ فِي التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ

۴۸۰۔ حضرت براء بن عازبؓ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ کے ساتھ اٹھارہ سفر کیے۔ میں نے آپ ﷺ کو زوال آفتاب کے وقت ظہر سے پہلے دو رکعتیں چھوڑتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔

۴۸۰۔ حدثنا قتيبة نا الليث بن سعد عن صفوان بن سليم عن ابى بسرة العفاري عن البراء بن عازب قال صحبت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثمانية عشر سقراً فما رآته ترك الركعتين اذا زاعت الشمس قبل الظهر

اس باب میں ابن عمرؓ سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں کہ براء کی حدیث غریب ہے میں نے امام بخاری سے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے لیث بن سعد کی روایت کے علاوہ اسے نہیں پہچانا انہیں ابوسرہ غفاری کا نام معلوم نہیں لیکن انہیں اچھا سمجھتے ہیں حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ سفر کے دوران نماز سے پہلے یا بعد نوافل نہیں پڑھتے تھے۔ انہی سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ ﷺ سفر میں نفل نماز پڑھتے تھے۔ لہذا علماء کا اس مسئلے میں اختلاف ہے بعض صحابہ سفر میں نوافل پڑھنے کے قائل ہیں اور یہی امام احمد اور اسحاق کا بھی قول ہے جب کہ علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ نماز سے پہلے یا بعد کوئی نوافل نہ پڑھے جائیں چنانچہ جو لوگ ممانعت کرتے ہیں وہ حضرات رخصت پر عمل پیرا ہیں لہذا جو پڑھ لے اس کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے اور یہی اکثر علماء کا قول ہے کہ سفر میں نوافل پڑھے جاسکتے ہیں۔

۲۸۱۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ کے ساتھ سفر میں ظہر کی دو رکعتیں اور اس کے بعد بھی دو رکعتیں پڑھیں۔

۴۸۱۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ نَا حَفْصَ بْنَ غِيَاثَ عَنْ حَاجِجٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ فِي السَّفَرِ رُكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رُكْعَتَيْنِ

۳۸۲۔ ابن ابی لیلیٰ، عطیہ سے وہ نافع سے اور وہ ابن عمرؓ سے نقل کرتے ہیں کہ ابن عمرؓ نے فرمایا: میں نے آنحضرت ﷺ کے ساتھ سفر اور حضر میں نمازیں پڑھیں آپ ﷺ حضر میں ظہر کی چار رکعات اور اس کے بعد دو رکعتیں پڑھتے اور سفر میں ظہر کی دو اور اس کے بعد بھی دو رکعتیں پڑھتے تھے اور پھر عصر کی دو رکعتیں پڑھتے اور ان کے بعد کچھ نہ پڑھتے۔ جب کہ مغرب حضر اور سفر دونوں میں برابر (تین رکعات) ہی ہے۔ اس میں کوئی کمی نہیں اور یہ دن کے وتر ہیں اس کے بعد آپ ﷺ دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔

۴۸۲۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ نَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ عَطِيَّةَ وَنَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي الْحَضَرِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رُكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي السَّفَرِ الظُّهْرَ رُكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رُكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رُكْعَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ بَعْدَهَا شَيْئًا وَالْمَغْرِبَ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ سَوَاءً ثَلَاثَ رُكْعَاتٍ لَا يَنْقُصُ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ وَهِيَ وَتُرُّ النَّهَارَ وَبَعْدَهَا رُكْعَتَيْنِ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ امام بخاری کہتے تھے میں نے ابن ابی لیلیٰ کی کوئی روایت اس سے بہتر نہیں دیکھی۔

باب ۳۸۸۔ دو نمازوں کو جمع کرنا۔

باب ۳۸۸۔ مَا جَاءَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَوَتَيْنِ

۲۸۳۔ حضرت معاذ بن جبلؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ غزوہ تبوک کے موقع پر اگر سورج ڈھلنے سے پہلے کوچ کرتے تو ظہر کو عصر تک موخر کر دیتے اور پھر دونوں نمازیں اکٹھی پڑھتے اور اگر زوال کے بعد کوچ کرتے تو عصر میں تعجيل کرتے اور ظہر اور عصر ایک ساتھ ہی پڑھ لیتے اور پھر روانہ ہوتے پھر مغرب سے پہلے کوچ کی صورت میں مغرب کو عشاء تک موخر کرتے اور مغرب کے بعد کوچ کی صورت میں عشاء کو مجل کرتے اور مغرب کے ساتھ ہی پڑھ لیتے۔

۴۸۳۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ عَنِ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْغِ الشَّمْسِ آخَرَ الظُّهْرِ إِلَى أَنْ يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ فَيُصَلِّيهِمَا جَمِيعًا وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ عَجَلَ الْعَصْرَ إِلَى الظُّهْرِ وَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ سَارَ وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ آخَرَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْعِشَاءِ وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ عَجَلَ الْعِشَاءَ فَصَلَّيْتُهَا بَعْدَ الْمَغْرِبِ

اس باب میں علیؓ، ابن عمرؓ، عبداللہ بن عمرؓ، انسؓ، عائشہؓ، ابن عباسؓ، اسامہ بن زیدؓ اور جابرؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث علی بن مدینی سے بھی مروی ہے وہ احمد بن حنبل سے اور وہ قتیبہ سے روایت کرتے ہیں۔ معاذؓ کی حدیث غریب ہے کیوں کہ اس کی روایت میں قتیبہ منفرد ہیں ہمیں علم نہیں کہ لیث سے ان کے علاوہ کسی اور نے بھی روایت کی ہو۔ لیث کی یزید بن ابی حبیب سے مروی حدیث غریب ہے۔ وہ ابو طفیل سے اور وہ معاذؓ سے روایت کرتے ہیں جب کہ علماء کے نزدیک معاذؓ کی یہ حدیث معروف ہے کہ ابو زبیر، ابو طفیل سے اور وہ معاذؓ سے روایت کرتے ہیں کہ ”آنحضرت ﷺ نے غزوہ تبوک میں ظہر، عصر اور مغرب، عشاء کو جمع کیا“ اس حدیث کو

قرۃ بن خالد، سفیان ثوری، مالک اور کئی حضرات نے ابو زبیر کی سے روایت کیا ہے شافعی بھی اس حدیث پر عمل کرتے ہیں جب کہ احمد اور اسحاق کہتے ہیں کہ سفر میں دو نمازوں کو جمع کر کے ایک وقت میں پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں۔

۴۸۴۔ حدثنا هنادنا عبدة عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه استعيت علي بعض أهله فجدد به السير وأخر المغرب حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما ثم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك إذا جد به السير
۴۸۴۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ان کے بعض اہل و اقارب کی طرف سے ان سے مدد مانگی گئی جس پر انہیں جلدی جانا پڑا۔ انہوں نے مغرب کو شفق کے غائب ہونے تک مؤخر کیا اور مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھی پھر ہمیں بتایا کہ اگر حضور اکرم ﷺ کو جلدی ہوتی تو آپ ﷺ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔
امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۳۸۹۔ نماز استسقاء کے متعلق

۴۸۵۔ حدثنا يحيى بن موسى نا عبد الرزاق نا معمر عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين جهرا بالقرآن فبهما وحول ردائه ورفعه يديه واستسقى واستقبل القبلة

۴۸۵۔ عباد بن تمیم اپنے بچے سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ بارش کی طلب کے لیے نکلے تو دو رکعتیں پڑھائیں جن میں بلند آواز سے قرأت کی پھر اپنی چادر کو پلٹ کر اوڑھا، قبلہ کی طرف رخ کیا، دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، اور بارش کے لیے دعا کی۔

۴۸۶۔ حدثنا قتيبة نا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابى هلال عن يزيد بن عبدالله عن عمير مولى ابي اللحم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند أحجار الزيت يستسقى وهو مقلع بكفيه يدعو

۴۸۶۔ ابو زبیر فرماتے ہیں کہ انہوں نے آنحضرت ﷺ کو تیل کے پتھروں کی جگہ بارش کے لیے دعا کرتے ہوئے دیکھا آپ ﷺ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے ہوئے تھے۔ (۱)

اس باب میں ابن عباس، ابو ہریرہ، انس اور ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں عبد اللہ بن زید کی حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر علماء کا عمل ہے جن میں شافعی، احمد اور اسحاق بھی شامل ہیں۔ عبد اللہ بن تمیم کے بچے کا نام عبد اللہ بن زید بن عاصم مازنی ہے۔

۴۸۷۔ حدثنا قتيبة نا حاتم بن إسماعيل عن هشام ابن إسحاق وهو ابن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال أرسلني الوليد بن عتبة وهو أمير المدينة إلى ابن عباس أسأله عن استسقاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

۴۸۷۔ قتیبیہ، حاتم بن اسماعیل سے وہ ہشام بن اسحاق سے (جو ابن عبد اللہ بن کنانہ ہیں) اور وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ولید بن عقبہ جب مدینہ کے امیر تھے تو انہیں حضرت ابن عباس سے حضور اکرم ﷺ کی نماز استسقاء کے متعلق پوچھنے کے لئے بھیجا۔ میں ان کے پاس

(۱) اجازت الیوم: تیل کے پتھر (یہ مدینہ منورہ میں ایک جگہ ہے)۔ (مترجم)

آیا تو انہوں نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ بغیر زینت کے عاجزی کے ساتھ گڑگڑاتے ہوئے نکلے یہاں تک کہ عید گاہ پہنچے۔ آپ ﷺ نے تمہارے ان خطیبوں کی طرح کوئی خطبہ نہیں پڑھا۔ بلکہ دعا، عاجزی اور تکبیر کہتے ہوئے عید کی نماز کی طرح دو رکعت نماز پڑھی۔

عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَاتَيْتُهُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مُبْتَدِلًا مُتَوَاصِعًا مُتَضَرِّعًا حَتَّى آتَى الْمُصَلِّيَ فَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ وَلَكِنْ لَمْ يَزَلْ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبِيرِ وَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ كَمَا كَانَ يُصَلِّي فِي الْعِيدِ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ محمود بن غیلان، کعب سے وہ سفیان سے وہ ہشام بن اسحاق بن عبد اللہ بن کنانہ سے اور وہ اپنے والد سے اسی کے مثل روایت کرتے ہوئے یہ الفاظ زیادہ بیان کرتے ہیں متخفعا یعنی ڈرتے ہوئے امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور شافعی کا یہی قول ہے کہ نماز استسقاء عید کی نماز کی طرح پڑھے۔ پہلی رکعت میں سات اور دوسری میں پانچ تکبیریں کہے۔ یہ ابن عباسؓ کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں امام ترمذی کہتے ہیں کہ مالک بن انس سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: نماز استسقاء میں عید کی نماز کی طرح تکبیریں نہ کہے۔

باب ۳۹۰۔ سورج گرہن کی نماز۔

باب ۳۹۰۔ فی الصَّلَاةِ الْكُسُوفِ

۴۸۸۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے کسوف کی نماز پڑھی، اس میں قرأت کی پھر رکوع کیا پھر قرأت کی پھر رکوع کیا پھر دو سجود کیے اور دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھی۔ (۱)

۴۸۸۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا يَحْيَى ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ ضَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى فِي كُسُوفٍ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَالْآخِرَى مِثْلَهَا

اس باب میں علیؓ، عائشہؓ، عبد اللہ بن عمرؓ، نعمان بن بشیرؓ، مغیرہ بن شعبہؓ، ابو مسعودؓ، ابو بکرہؓ، سمرہؓ، ابن مسعودؓ، اسماء بنت ابوبکرؓ، ابن عمرؓ، قبصہ ہلالیؓ، جابر بن عبد اللہؓ، ابوموسیٰؓ، عبد الرحمن بن سمرہؓ اور ابی بن کعبؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ابن عباسؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے۔ کہ ”آپ ﷺ نے نماز کسوف میں دو رکعتوں میں چار رکوع کیے“ یہ امام شافعی، احمد اور اسحاق کا قول ہے نماز کسوف میں قرأت کے متعلق علماء کا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ دن کے وقت بغیر آواز قرأت کرے جب کہ بعض بلند آواز سے پڑھنے کے قائل ہیں۔ جیسے کہ جمعہ اور عیدین کی نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ مالک، احمد اور اسحاق، اسی کے قائل ہیں کہ بلند آواز سے پڑھے لیکن امام شافعی بغیر آواز پڑھنے کا کہتے ہیں پھر یہ دونوں چیزیں، آپ ﷺ سے ثابت ہیں کہ ”آپ ﷺ نے چار رکوع اور چار سجود کیے“۔ یہ بھی صحیح ہے کہ ”آپ ﷺ نے چار سجودوں میں چھ رکوع کیے“۔ چنانچہ علماء کے نزدیک کسوف کی مقدار کے ساتھ جائز ہیں۔ یعنی اگر کسوف لمبا ہو تو چھ رکوع اور چار سجودے کرنا جائز ہے لیکن اگر چار رکوع، چار سجودے کرے اور قرأت لمبی کرے تو یہ بھی جائز ہے ہمارے اصحاب کے نزدیک سورج گرہن اور چاند گرہن دونوں میں نماز باجماعت پڑھی جائے۔

۴۸۹۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں سورج گرہن ہو گیا تو آپ ﷺ نے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی چنانچہ لمبی

۴۸۹۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي شَوَّازٍ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ نَا مَعْمَرُ بْنُ الزَّهْرِيِّ عَنْ

(۱) کسوف سورج گرہن کو کہتے ہیں (مترجم)

قرأت کی پھر لمبارکوع کیا پھر کھڑے ہوئے اور لمبی قرأت کی لیکن پہلی رکعت سے کم تھی۔ پھر رکوع کیا اور اسے بھی لمبا کیا۔ لیکن پہلے رکوع سے کم پھر کھڑے ہوئے اس کے بعد سجدہ کیا اور پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا۔

عُرْوَةٌ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ حَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَيَّ
عَهْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ فَأَطَالَ
الْقِرَاءَةَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرَّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ
الْقِرَاءَةَ وَهِيَ دُونَ الْأُولَى ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرَّكُوعَ
وَهُوَ دُونَ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَسَجَدَ ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ
فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ شافعی، احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں کہ دو رکعت میں چار رکوع اور چار سجدے کرے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر دن میں نماز پڑھ رہا ہو تو پہلے سورہ فاتحہ پڑھے اور پھر سورہ بقرہ کے برابر بغیر آواز قرأت کرے پھر طویل رکوع کرے جیسے کہ اس نے قرأت کی پھر تکبیر کہہ کر سر اٹھائے اور کھڑا ہو کر پھر سورہ فاتحہ پڑھے اور سورہ آل عمران کے برابر تلاوت کرے۔ اس کے بعد اتنا ہی طویل رکوع کرے پھر سر اٹھاتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کہے پھر اچھی طرح دو سجدے کرے اور ہر سجدے میں رکوع کے برابر رکوع کرے پھر کھڑا ہو کر سورہ فاتحہ پڑھے اور سورہ نساء کے برابر قرأت کرے اور اسی طرح رکوع میں بھی ٹھہرے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر سر اٹھائے اور کھڑا ہو کر سورہ مائدہ کے برابر قرأت کرے پھر اتنا ہی طویل رکوع کرے پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر سر اٹھائے اور سجدے کرے اور اس کے بعد التحیات پڑھ کر سلام پھیرے۔

باب ۳۹۱۔ نماز کسوف میں قرأت کیسے کی جائے؟

۳۹۰۔ حضرت سمرہ بن جندب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں کسوف کی نماز پڑھائی جس میں ہم نے آپ ﷺ کی آواز نہیں سنی (قرأت میں)۔

باب ۳۹۱۔ كَيْفَ الْقِرَاءَةُ فِي الْكُسُوفِ

۴۹۰۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ وَكَعْبُ بْنُ سَفِيَانَ
عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ سَمُرَةَ
بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي كُسُوفٍ لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا

اس باب میں عائشہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں سمرہ بن جندب کی حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ بعض علماء نے قرأت سز یہی کو اختیار کیا ہے۔ اور امام شافعی کا بھی یہی قول ہے۔

۳۹۱۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے نماز کسوف پڑھی اور اس میں بلند آواز سے قرأت کی۔

۴۹۱۔ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
صَدِيقَةَ عَنْ سَفِيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَلَّى
صَلَاةَ الْكُسُوفِ وَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيهَا

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابواسحاق فزاری بھی سفیان بن حصین سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں اور مالک، احمد اور اسحاق اسی حدیث کے قائل ہیں۔

باب ۳۹۲۔ خوف کے وقت نماز پڑھنے کے متعلق

باب ۳۹۲۔ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ الْخَوْفِ

۳۹۲۔ سالم اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے نماز خوف میں ایک رکعت ایک گروہ کے ساتھ پڑھی جب کہ دوسرا گروہ دشمن کے مقابل لڑتا رہا پھر یہ لوگ ان کی جگہ چلے گئے اور انہوں نے آکر آنحضرت ﷺ کی اقتداء میں دوسری رکعت پڑھی پھر آپ ﷺ نے سلام پھیر دیا۔ اور اس گروہ نے کھڑے ہو کر اپنی چھوٹی ہوئی رکعت پوری کی اس کے بعد دوسرا گروہ کھڑا ہوا اور اس نے بھی اپنی دوسری رکعت پڑھی۔

۴۹۲۔ حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابی الشوارب نا یزید بن زریع نا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلوة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا فقاموا في مقام أولئك وجاء أولئك فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم عليهم فقاموا هولاء ففوضوا ركعتهم وقام هولاء ففوضوا ركعتهم

اس باب میں جابر، حذیفہ، زید بن ثابت، ابن عباس، ابو ہریرہ، ابن مسعود، ابو بکر، سہل بن ابو حمزہ اور ابو عیاش زرقی سے بھی روایت ہے۔ ابو عیاش کا نام زید بن ثابت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: امام مالک، نماز خوف میں سہل بن ابی حمزہ ہی کی روایت پر عمل کرتے ہیں۔ اور یہی شافعی کا قول ہے جب کہ امام احمد کہتے ہیں کہ نماز خوف آپ ﷺ سے کئی طرح مروی ہے میں اس باب میں سہل بن ابی حمزہ کی حدیث سے صحیح روایت نہیں جانتا۔ چنانچہ وہ بھی اسی طریقے کو اختیار کرتے ہیں۔ اسحاق بن ابراہیم بھی اسی طرح کہتے ہیں کہ آپ ﷺ سے صلاۃ خوف میں کئی روایات ثابت ہیں۔ ان سب پر عمل کرنا جائز ہے۔ یعنی یہ بقدر خوف ہے۔ اسحاق کہتے ہیں ہم سہل بن ابی حمزہ کی حدیث کو دوسری روایات پر ترجیح نہیں دیتے۔ ابن عمر کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اسے موسیٰ بن عقبہ بھی نافع سے وہ ابن عمر سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے مش روایت کرتے ہیں۔

۳۹۳۔ سہل بن ابی حمزہ نماز خوف کے متعلق فرماتے ہیں امام قبیلہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو اور اس کے ساتھ ایک گروہ کھڑا ہو جب کہ دوسرا گروہ دشمن کے مقابل رہے اور انہی کی طرف رخ کیے رہے۔ پھر امام پہلے گروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھے اور وہ لوگ دوسری رکعت خود پڑھیں اور دو سجدے کرنے کے بعد دوسری جماعت کی جگہ دشمن کے مقابل آجائیں اور وہ جماعت آکر امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھے اور وہ لوگ دوسری رکعت خود پڑھیں اور دو سجدے کرے

۴۹۳۔ حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد القطان نا يحيى بن سعيد الانصاري عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات بن جبير عن سهيل بن أبي حمزة انه قال في صلوة الخوف قال يقوم الإمام مستقبل القبلة وتقوم طائفة منهم معه وطائفة من قبل العدو وجوههم إلى العدو فيركع بهم ركعة ويركعون لأنفسهم ركعة ويسجدون لأنفسهم سجدتين في مكانهم ثم يذهبون إلى مقام أولئك ويحيى أولئك فيركع بهم ركعة ويسجد بهم سجدتين فهي له ثنتان ولهم واحدة ثم يركعون ركعة ويسجدون سجدتين قال محمد بن بشار سألت يحيى بن سعيد عن هذا الحديث فحدثني عن شعبة عن عبد الرحمن القاسم عن أبيه

یہ امام کی دوسری اور جماعت کی پہلی رکعت ہوگی۔ پھر یہ لوگ کھڑے ہو جائیں اور دوسری رکعت پڑھیں اور سجدے کریں۔ محمد بن بشار کہتے ہیں، میں نے یحییٰ بن سعید سے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے شعبہ کے حوالے سے مجھے بتایا کہ شعبہ، عبد الرحمن بن قاسم سے وہ قاسم سے وہ اپنے والد سے

وہ صالح بن خوات سے وہ سہل بن ابی حمزہ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے یحییٰ بن سعید انصاری کی روایت کے مثل بیان کرتے ہیں۔ پھر یحییٰ بن سعید نے مجھ سے کہا کہ اس حدیث کو اس کے ساتھ لکھ دو مجھے یہ حدیث اچھی طرح یاد نہیں لیکن یہ یحییٰ بن سعید انصاری کی حدیث ہی کے مثل ہے۔

عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَاتٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَمَزَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ نِ الْإِنْصَارِيِّ وَقَالَ لِي أَكْتُبُهُ إِلَيَّ جَنْبِهِ وَكُنْتُ أَحْفَظُ الْحَدِيثَ وَلَكِنَّهُ مِثْلُ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ نِ الْإِنْصَارِيِّ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسے یحییٰ بن سعید انصاری نے قاسم بن محمد کی روایت سے مرفوع نہیں کیا یحییٰ بن سعید انصاری کے ساتھی بھی اسے موقوف ہی روایت کرتے ہیں جب کہ شعبہ، عبد الرحمن بن قاسم بن محمد کے حوالے سے اسے مرفوع روایت کرتے ہیں۔ مالک بن انس، یزید بن رومان سے وہ صالح بن خوات سے اور وہ ایک ایسے شخص سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں جو نماز خوف آپ ﷺ کے ساتھ پڑھ چکا تھا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یہی مالک، شافعی، احمد اور اسحاق کا قول ہے اور یہ کئی راویوں سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے دونوں گروہوں کے ساتھ ایک ایک رکعت نماز پڑھی۔ جو آپ ﷺ کے لیے دو اور ان دونوں کے لیے ایک ایک رکعت تھی۔

باب ۳۹۳۔ قرآن کے سجدوں کے متعلق

۳۹۳۔ حضرت ابودرداءؓ فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ گیارہ سجدے کیے جن میں سورہٴ نجم والا سجدہ بھی شامل ہے۔

باب ۳۹۳۔ مَا جَاءَ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ

۴۹۴۔ حَدَّثَنَا سَفِيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ نَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عَمْرِو الدِّمَشْقِيِّ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سَجَدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً مِنْهَا الَّتِي فِي النِّجْمِ

اس باب میں ابن عباسؓ، ابو ہریرہؓ، ابن مسعودؓ، زید بن ثابتؓ اور عمرو بن عاصؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابودرداءؓ کی حدیث غریب ہے۔ ہم اسے سعید بن ابولہلال کی عمر دمشقی سے روایت کے علاوہ نہیں جانتے عبد اللہ بن عبد الرحمن، عبد اللہ بن صالح سے وہ لیث بن سعد سے وہ خالد بن یزید سے وہ سعید بن ابولہلال سے اور وہ عمر (یہ ابن حیان دمشقی ہیں) سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: مجھے کسی خبر دینے والے نے خبر دی وہ ام درداءؓ سے اور وہ ابودرداءؓ سے روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے کہا: ”میں نے آنحضرت ﷺ کے ساتھ گیارہ سجدے کیے جن میں سورہٴ نجم کا سجدہ بھی شامل ہے“۔ یہ حدیث سفیان بن وکیع کی عبد اللہ بن وہب سے مروی حدیث سے اسح ہے۔

باب ۳۹۴۔ عورتوں کا مسجد جانا۔

۳۹۵۔ مجاہد کہتے ہیں ہم ابن عمرؓ کے پاس تھے کہ انہوں نے کہا: نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”عورتوں کو رات کے وقت مسجدوں میں جانے کی اجازت دو“۔ اس پر ان کے بیٹے نے کہا: اللہ کی قسم ہم ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے۔ کیوں کہ یہ اسے فساد کا حیلہ بنا لیں گی۔ ابن عمرؓ نے فرمایا: اللہ تیرے ساتھ ایسے کرے اور ویسے کرے (یعنی بد دعا

باب ۳۹۴۔ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ

۴۹۵۔ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَمْرٍو فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِيذْنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَقَالَ ابْنُهُ وَاللَّهِ لَا نَأْذُنُ لَهُنَّ يَتَّخِذْنَ دَغْلًا فَقَالَ فَعَلَّ اللَّهُ بِكَ وَفَعَلَ أَقُولُ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ لَا نَادُونَ
 (دی) میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اور تم کہتے ہو کہ
 اجازت نہیں دیں گے۔

اس باب میں ابو ہریرہؓ، زید بن خالد اور زہبؓ سے بھی روایت ہے جو عبد اللہ بن مسعودؓ کی بیوی ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ابن عمرؓ کی
 حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۳۹۵۔ مسجد میں تھوکنے کی کراہت

باب ۳۹۵۔ فِي كَرَاهِيَةِ الْبِزَاقِ فِي الْمَسْجِدِ

۳۹۶۔ حضرت طارق بن عبد اللہ مخرابیؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے
 فرمایا: جب تم نماز میں ہو تو اپنے دائیں طرف نہ تھوکو بلکہ اپنے پیچھے یا
 اپنے بائیں طرف یا بائیں پاؤں کے نیچے تھوک دو۔

۴۹۶۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا يَحْيَىٰ بْن سَعِيدٍ
 عَنْ سَفِيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ جَرَّاشٍ عَنْ
 طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَخْرَابِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا
 تَبْزُقُ عَنْ يَمِينِكَ وَلَكِنْ خَلْفَكَ أَوْ تَلْقَاءَ شِمَالِكَ أَوْ
 نَحْتِ قَدَمِكَ الْيُسْرَى

اس باب میں ابوسعیدؓ، ابن عمرؓ، انسؓ اور ابو ہریرہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں طارق کی حدیث حسن صحیح ہے۔ میں نے
 جا روئے و کج کے حوالے سے سنا کہ: ربیع بن جرّاش نے اسلام میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ عبد الرحمن بن مہدی کہتے ہیں کہ منصور بن معتمر
 اہل کوفہ میں اثبت ہیں۔

۳۹۷۔ حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
 مسجد میں تھوکنے کا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اس کو دفن کرنا ہے۔

۴۹۷۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ
 بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
 وَسَلَّمَ الْبِزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ حَطِيْبَةٌ وَكَفَّارُهَا دَفْنُهَا
 امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۳۹۶۔ سورۃ انشقاق اور سورۃ علق میں سجدہ کرنا۔

باب ۳۹۶۔ فِي السَّجْدَةِ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَ
 اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

۳۹۸۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ہم نے آنحضرت ﷺ کے ساتھ
 ”اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ“ اور ”إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ“
 میں سجدہ کیا۔

۴۹۸۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا سَفِيَانَ بْنِ عَيْنَةَ عَنْ
 أَبِي بَرْزَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
 قَالَ سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
 فِي إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ وَإِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ

قتیبہ، سفیان سے وہ یحییٰ بن سعید سے وہ ابوبکر بن محمد بن حزم سے وہ عمر بن عبد العزیز سے وہ ابوبکر بن عبد الرحمن بن حارث بن
 ہشام سے وہ ابو ہریرہؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں اس حدیث میں چار تابعی ایک دوسرے سے روایت
 کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اور اس پر اکثر علماء کا عمل ہے کہ ”إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ اور
 ”اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ“ دونوں سورتوں میں سجدہ ہے۔

باب ۳۹۷۔ مَا جَاءَ فِي السَّجْدَةِ فِي النَّحْمِ

۴۹۹۔ حَدَّثَنَا هَارُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبِزْزَانِيُّ عَبْدَ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ نَاصِبِي عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِيهَا يُعْنَى وَالنَّحْمَ وَالْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ

باب ۳۹۷۔ سورہ نجم میں سجدہ

۳۹۹۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے سورہ ”نجم“ میں سجدہ کیا تو مسلمانوں، مشرکوں جنوں اور انسانوں سب سے سجدہ کیا۔

اس باب میں ابن مسعودؓ اور ابو ہریرہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ابن عباسؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض علماء کا اسی پر عمل ہے کہ سورہ ”نجم“ میں سجدہ کیا جائے۔ جب کہ بعض صحابہ وغیرہ اس بات کے قائل ہیں کہ ”مفصل“ میں کوئی سجدہ نہیں۔ یہ مالک بن انس کا بھی قول ہے۔ لیکن پہلا قول اصح ہے۔ جو سفیان ثوری، ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی قول ہے۔

باب ۳۹۸۔ مَا جَاءَ فِي مَنْ لَمْ يَسْجُدْ فِيهِ

۵۰۰۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَوْسَى نَا وَكَيْعٌ عَنْ ابْنِ أَبِي ذئْبٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قِسْطٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَّارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ النَّحْمَ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا

باب ۳۹۸۔ سورہ نجم میں سجدہ نہ کرے۔

۵۰۰۔ حضرت زید بن ثابتؓ فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کے سامنے سورہ نجم پڑھی لیکن آپ ﷺ نے سجدہ نہیں کیا۔

امام ترمذی کہتے ہیں: زید بن ثابتؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض علماء اس حدیث کے متعلق کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ زید نے جب پڑھا تو انہوں نے بھی سجدہ نہیں کیا۔ ان حضرات کا کہنا ہے کہ جو شخص سجدے کی آیت سنے اس پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے اور اسے چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ مزید کہتے ہیں کہ اگر اس حالت میں سنا کہ وضو سے نہیں تھا تو جب وضو کرے اس وقت سجدہ کرے۔ یہ سفیان ثوری، اہل کوفہ اور اسحاق کا قول ہے بعض علماء کا کہنا ہے کہ سجدہ اس کے لیے ہے جو کرنا چاہے اور ثواب و فضیلت کی چاہت رکھتا ہے لہذا اس کا ترک کرنا بھی جائز ہے۔ ان کی دلیل حضرت زیدؓ کی مرفوع حدیث ہے کہ ”میں نے آنحضرت ﷺ کے سامنے سورہ نجم پڑھی اور آپ ﷺ نے سجدہ نہیں کیا“۔ پس اگر سجدہ واجب ہوتا تو آپ ﷺ زید کو اس وقت تک نہ چھوڑتے جب تک وہ اور آنحضرت ﷺ خود سجدہ نہ کر لیتے۔ ان کی دوسری دلیل حضرت عمرؓ کی حدیث ہے کہ انہوں نے منبر پر سجدے کی آیت پڑھی اور اتر کر سجدہ کیا۔ پھر دوسرے جیسے کودو بارہ وہی آیت پڑھی تو لوگ سجدے کے لیے مستعد ہو گئے اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا: یہ سجدہ ہم پر فرض نہیں ہے۔ ہاں اگر ہم چاہیں تو سجدہ کریں چنانچہ نہ انہوں نے سجدہ کیا اور نہ ہی لوگوں نے۔

باب ۳۹۹۔ مَا جَاءَ فِي السَّجْدَةِ فِي صَ

۵۰۱۔ حَدَّثَنَا ابْنُ عَمْرٍو نَاصِبِي عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِي صَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ

باب ۳۹۹۔ سورہ ”ص“ میں سجدہ

۵۰۱۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں: میں نے آنحضرت ﷺ کو سورہ ”ص“ میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ ابن عباسؓ کہتے ہیں یہ واجب سجدوں میں سے نہیں۔

وَلَيْسَتْ فِي عَزَائِمِ السُّجُودِ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس میں علماء صحابہ وغیرہ کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس میں سجدہ کرے۔ سفیان ثوری، ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے لیکن بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہ نبی کی توبہ ہے لہذا یہاں سجدہ واجب نہیں۔

باب ۴۰۰۔ فی السَّجْدَةِ فِي الْحَجِّ

باب ۴۰۰۔ سورہ ”حج“ میں سجدہ۔

۵۰۲۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ أَبِي لَهْيَةَ عَنْ مَشْرِحِ بْنِ هَامَانَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فُضِّلَتْ سُورَةُ الْحَجِّ بِأَنَّ فِيهَا سَجْدَتَيْنِ قَالَ نَعَمْ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهَا فَلَا يَقْرَأْهَا

۵۰۲۔ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! سورہ حج کو دوسری سورتوں پر فضیلت دی گئی کیونکہ اس میں دو سجدے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں جو سجدہ کرنا نہ چاہے وہ اسے نہ پڑھے۔

امام ترمذی کہتے ہیں اس حدیث کی سند قوی نہیں۔ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ حضرت عمر بن خطابؓ اور ابن عمرؓ سے بھی مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: ”سورہ حج کو اس وجہ سے فضیلت حاصل ہے کہ اس میں دو سجدے ہیں“۔ یہ ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق کا قول ہے جب کہ بعض کے نزدیک اس میں ایک ہی سجدہ ہے یہ سفیان ثوری، مالک اور اہل کوفہ کا قول ہے۔

باب ۴۰۱۔ مَا جَاءَ مَا يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ

باب ۴۰۱۔ قرآن کے سجدوں میں کیا پڑھے؟

۵۰۳۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدِ بْنِ حَنْبِسِ نَا الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدٍ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ جُرَيْجٍ يَا حَسَنُ أَخْبِرْنِي عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ أَبِي يَزِيدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَأَيْتُنِي اللَّيْلَةَ وَأَنَا نَائِمٌ كَأَنِّي أَصْلَى خَلْفَ شَجَرَةٍ فَسَجَدْتُ فَسَجَدَتِ الشَّجَرَةُ لِسُجُودِي فَسَمِعْتَهَا وَهِيَ تَقُولُ اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا وَضَعْ عَنِّي بِهَا وَزْرًا وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ قَالَ الْحَسَنُ قَالَ لِي بَنُ جُرَيْجٍ قَالَ لِي جَدُّكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سَجْدَةً ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مِثْلَ مَا أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ مِنْ قَوْلِ الشَّجَرَةِ

۵۰۳۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں: ایک شخص آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! میں نے رات کو سوتے ہوئے خواب میں دیکھا کہ میں ایک درخت کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ میں نے سجدہ کیا تو درخت نے بھی سجدہ کیا پھر میں نے اسے کہتے ہوئے سنا کہ اے اللہ میرے لیے اس سجدے کا ثواب لکھ اور اس کی وجہ سے میرے گناہ کم کر اور اسے اپنے پاس میرے لیے ذخیرہ آخرت بنا اور اسے مجھ سے قبول فرما جیسا کہ تو نے اپنے بندے داؤد سے قبول فرمایا۔ حسن کہتے ہیں کہ ابن جریج نے مجھے بتایا کہ تمہارے دادا نے مجھے ابن عباسؓ کے حوالے سے کہا کہ پھر آنحضرت ﷺ نے سجدے کی آیت پڑھی اور سجدہ کیا۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ بھی سجدے میں وہی دعا پڑھ رہے تھے جو اس شخص نے درخت کے متعلق بیان کی تھی (وہ دعا۔ ”اللہم اکتب“..... سے ”من عبدک داؤد“ تک ہے۔

اس باب میں ابوسعیدؓ سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث ابن عباسؓ کی روایت سے غریب ہے ہم اسے ان کی روایت سے اس سند کے علاوہ نہیں جانتے۔

۵۰۴۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ رات کو قرآن کے سجدوں میں یہ دعا ("سجدو جہی") سے آخر تک پڑھا کرتے تھے (یعنی میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا جس نے اسے بنایا اور اپنی قوت و قدرت سے اس میں کان اور آنکھ بنائی۔

۵۰۴۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا عَبْدِ الْوَهَّابِ الشَّقْفِيُّ التَّقِضِيُّ نَا خَالِدَ الْحِذَّاءِ عَنِ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ سَجْدًا وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۴۰۲۔ جس کا کوئی وظیفہ رات کو چھوٹ جائے وہ اُسے دن میں پڑھ لے۔

باب ۴۰۲۔ مَا ذَكَرْتُ مِنْ فَاتَةٍ حَزْبُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَضَاهُ بِالنَّهَارِ

۵۰۵۔ عبدالرحمن بن عبدالقاری کہتے ہیں میں نے عمر بن خطابؓ سے سنا کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جس شخص کا رات کا وظیفہ یا اس کا کچھ حصہ چھوٹ گیا ہو وہ فجر اور ظہر کی نماز کے درمیان اسے پڑھ لے۔ وہ اس کے لیے اس طرح لکھا جائے گا جیسے کہ اس نے رات ہی کو پڑھا ہو۔

۵۰۵۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا أَبُو صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ وَعَبِيدَ اللَّهِ أَخْبَرَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَامَ عَنْ حَزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ كَتَبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابوصفوان کا نام عبداللہ بن سعید کی ہے۔ ان سے حمید اور کئی حضرات نے روایت کی ہے۔

باب ۴۰۳۔ جو شخص رکوع یا سجدے میں امام سے پہلے سر اٹھائے اس کے متعلق وعید

باب ۴۰۳۔ مَا جَاءَ مِنَ التَّشْدِيدِ فِي الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ

۵۰۶۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص امام سے پہلے سر اٹھالیتا ہے اسے بات سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر جیسا بنادیں تمبیہ، حماد کے حوالے سے کہتے ہیں کہ محمد بن زیاد بن کہا کہ ابو ہریرہؓ نے "اما تخشى" کا لفظ کہا۔

۵۰۶۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ أَبُو الْحَارِثِ الْبَصْرِيُّ ثِقَةٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَمَّا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوَّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ قَالَ قُتَيْبَةُ قَالَ حَمَادٌ قَالَ لِي مُحَمَّدُ ابْنُ زَيْدٍ إِنَّمَا قَالَ أَمَّا يَخْشَى

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے محمد بن زیاد بصری ثقہ ہیں اور ان کی کنیت ابو حارث ہے۔

باب ۴۰۴۔ جو شخص فرض نماز پڑھنے کے بعد لوگوں کی امامت کرے۔

باب ۴۰۴۔ مَا جَاءَ فِي الَّذِي يُصَلِّي الْفَرِيضَةَ ثُمَّ يَوْمُ النَّاسِ بَعْدَ ذَلِكَ

۵۰۷۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ معاذ بن جبلؓ آنحضرت ﷺ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے اور پھر اپنی قوم میں جا کر ان کی

۵۰۷۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ

يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَعْرِبَ اِمَامَت کرتے۔
ثُمَّ يَرْجِعُ اِلَى قَوْمِهِ فَيُؤْمِنُهُمْ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر ہمارے اصحاب شافعی، احمد اور اسحاق کا عمل ہے کہ اگر کوئی شخص فرض نماز کی اِمَامَت کرے باوجودیکہ وہ اسے پڑھ بھی چکا ہے تو مقتدیوں کے لیے اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے۔ ان کی دلیل حضرت جابرؓ کی حدیث ہے جس میں حضرت معاذؓ کا قصہ ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے اور کئی سندوں سے جابرؓ سے مروی ہے۔ ابودرداء سے مروی ہے کہ ان سے اس شخص کے متعلق سوال کیا گیا۔ جو مسجد میں داخل ہوا اور عصر کی نماز پڑھی جا رہی ہو لیکن وہ ظہر سمجھ کر ان کے ساتھ شریک ہو جائے؟ انہوں نے فرمایا: اس کی نماز ہوگئی لیکن اہل کوفہ کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ اگر امام عصر کی نماز پڑھ رہا ہو اور مقتدی اسے ظہر سمجھ رہے ہوں اور اس کی اقتداء میں ظہر کی نماز پڑھ لیں تو مقتدیوں کی نماز فاسد ہو جائے گی کیوں کہ امام اور مقتدی کی نیت میں اختلاف ہے۔ (وہ ظہر کی اور امام عصر کی نیت کیے ہوئے ہے)۔

باب ۴۰۵۔ مَا جَاءَ فِي الرَّخِصَةِ فِي السُّجُودِ عَلَي الثُّوبِ فِي الْحَرِّ وَالْبَرْدِ

باب ۴۰۵۔ گرمی یا سردی کی وہ سے کپڑے پر سجدے کی اجازت
۵۰۸۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب ہم نبی اکرم ﷺ کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھتے تو گرمی سے بچنے کے لیے اپنے اپنے کپڑوں پر سجدہ کرتے۔

۵۰۸۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ نَا مُحَمَّدُ نَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي غَالِبُ الْقَطَانَ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَزْنِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالظُّهَائِرِ سَجَدْنَا عَلَى ثِيَابِنَا اتِّقَاءَ الْحَرِّ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں جابر بن عبد اللہ اور ابن عباسؓ سے بھی روایت ہے و کج بھی یہ حدیث خالد بن عبد الرحمن سے روایت کرتے ہیں۔

باب ۴۰۶۔ فَجْرِ نِجْمٍ كَيْفَ يَسْتَحَبُّ مِنَ الْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

باب ۴۰۶۔ فجر کی نماز کے بعد طلوع تک مسجد میں بیٹھنا مستحب ہے۔
۵۰۹۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر ہی بیٹھ رہتے یہاں کہ سورج نکل آتا۔

۵۰۹۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا ابُو الْاِحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ قَعَدَ فِي مَضَلَاةٍ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۵۱۰۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد بیٹھ کر سورج طلوع ہونے تک اللہ کا ذکر کرتا رہا پھر دو رکعتیں پڑھیں۔ اس کے لیے ایک حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ پھر آپ ﷺ نے تین مرتبہ

۵۱۰۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعَاوِيَةَ الْجَمْحَنِيُّ النَّصْرِيُّ نَا عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ نَا ابُو ظَلَالٍ عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ

الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَ
عُمْرَةٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
تَامَةً تَامَةً تَامَةً

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے۔ میں نے امام بخاری سے ابوطلال کے متعلق پوچھا تو کہا: وہ مقارب الحدیث ہیں
(یعنی ان کی احادیث صحت کے قریب ہیں) ان کا نام ہلال ہے۔

باب ۴۰۷۔ مَا ذُكِرَ فِي الْإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ
۵۱۱۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا نَا
الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ
عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُلْحِظُ فِي الصَّلَاةِ
يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَا يَلْوِي عُقْقَةَ خَلْفَ ظَهْرِهِ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے وکج اپنی روایت میں فضل بن موسیٰ سے اختلاف کرتے ہیں۔ محمود بن غیلان وکج سے وہ
عبداللہ بن سعید بن ابویہند سے اور وہ عکرمہ کے بعض دوستوں سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نماز میں ادھر ادھر دیکھ لیتے تھے
(یعنی بغیر گردن موڑے صرف آنکھوں سے) اور پھر مذکورہ بالا حدیث کے مثل نقل کرتے ہیں۔

۵۱۲۔ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ حَاتِمِ الْبَصْرِيِّ أَبُو حَاتِمٍ نَا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْإِنصَارِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَا بَنِي آيَاكَ
وَإِلْتِفَاتٍ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ الْإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ
هَلَكَةٌ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ لَا فِي الْفَرِيضَةِ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔
۵۱۳۔ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نَا ابُو الْاِخْوَصِ عَنْ
اشْعَثِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
وَسَلَّمَ عَنِ الْإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ هُوَ اخْتِلَافٌ
يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے۔
باب ۴۰۸۔ مَا ذُكِرَ فِي الرَّجُلِ يُدْرِكُ الْإِمَامَ سَاجِدًا

باب ۴۰۸۔ اگر کوئی شخص امام کو سجدے میں پائے تو کیا کرے۔

كَيْفَ يَصْنَعُ

۵۱۴۔ علی اور عمرو بن مرہ، ابن ابی لیلیٰ سے اور وہ معاذ بن جبل سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تم میں سے کوئی نماز کے لیے آئے تو امام خواہ کسی بھی حال میں ہو تم اسی طرح کرو جس طرح امام کر رہا ہو۔

۵۱۴۔ حدثنا هشام بن يونس الكوفي نا المحاربي عن الحجاج بن ارطاة عن ابى اسحق عن هُبَيْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا آتَى أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ وَالْإِمَامُ عَلَى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے۔ اسے اس روایت کے علاوہ کسی اور کے متصل کرنے کا ہمیں علم نہیں اسی پر علماء کا عمل ہے کہ اگر کوئی شخص امام کے بعدے میں ہونے کی حالت میں آئے تو وہ بھی سجدہ کرے۔ لیکن اگر اس کا رکوع چھوٹ جائے تو اس کے لیے سجدے میں ملنا رکعت کے لیے کافی نہیں۔ عبد اللہ بن مبارک بھی یہی کہتے ہیں کہ امام کے ساتھ سجدہ کرے جب کہ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ شاید وہ شخص سجدے سے اٹھانے سے پہلے ہی بخش دیا جائے۔

باب ۴۰۹۔ نماز کے وقت لوگوں کا کھڑے ہو کر امام کا انتظار کرنا مکروہ ہے۔

باب ۴۰۹۔ كَرَاهِيَةٌ أَنْ يَنْتَظِرَ النَّاسُ الْإِمَامَ وَهُمْ قِيَامٌ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

۵۱۵۔ حضرت عبد اللہ بن ابی قتادہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اگر نماز کی اقامت ہو جائے تو تم لوگ اس وقت تک نہ کھڑے ہو جب تک مجھے نکلتے ہوئے دیکھ نہ لو۔

۵۱۵۔ حدثنا احمد بن محمد نا عبد الله بن المبارك نا معمر عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خرجت

اس باب میں انس سے بھی روایت ہے۔ ان کی روایت غیر محفوظ ہے امام ترمذی کہتے ہیں ابوقتادہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ علماء صحابہ کی ایک جماعت لوگوں کے کھڑے ہو کر امام کا انتظار کرنے کو مکروہ سمجھتی ہے بعض علماء کہتے ہیں۔ کہ اگر امام کے مسجد میں ہوتے ہوئے اقامت ہو تو اس وقت کھڑے ہوں جب مؤذن قدامت الصلوٰۃ، قد قامت الصلوٰۃ کہے۔ ابن مبارک کا بھی یہی قول ہے۔

باب ۴۱۰۔ دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور آنحضرت ﷺ پر درود بھیجنا۔

باب ۴۱۰۔ مَا ذُكِرَ فِي الشَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الدَّعَاءِ

۵۱۶۔ حضرت عبد اللہ تعز ماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ آپ ﷺ، حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ ایک ساتھ تھے۔ جب میں بیٹھا تو اللہ تعالیٰ کی ثنائیاں کی۔ پھر نبی اکرم ﷺ پر درود بھیجا۔ پھر اپنے لیے دعا کی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: مانگو جو مانگو گے عطا کیا جائے گا۔ دو مرتبہ اسی طرح فرمایا۔

۵۱۶۔ حدثنا محمود بن غيلان نا يحيى بن ادم نا ابو بكر بن عياش عن عاصم عن زرار عن عبد الله قال كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وآله وسلم و أبو بكر و عمر معه فلما جلست بدأت بالشنأ على الله ثم الصلوة على النبي صلى الله عليه وآله

وَسَلَّمَ ثُمَّ دَعَوْتُ لِنَفْسِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَالِهِ وَسَلَّمَ سَلِّ تَعْطُهُ سَلِّ تَعْطُهُ

اس باب میں فضالہ بن عبید سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں۔ عبد اللہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ احمد بن حنبل یہی حدیث
یحییٰ بن آدم سے مختصر بیان کرتے ہیں۔

باب ۴۱۱۔ مسجدوں میں خوشبو کرنے کے متعلق

باب ۴۱۱۔ مَا ذُكِرَ فِي تَطْيِيبِ الْمَسَاجِدِ

۵۱۷۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے خلوں میں مسجدیں
بنانے، انہیں صاف ستھرا رکھنے اور ان میں خوشبو (چھڑکنے) کا حکم دیا۔

۵۱۷۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْبَغْدَادِيُّ نَاعِمُ بْنُ
صَالِحِ الزَّبِيرِيِّ نَاهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا
الْمَسَاجِدِ فِي الدُّوْرِ وَأَنْ يَنْتَظِفَ وَيَتَطَيَّبَ

ہنار، عبیدہ اور کعب سے وہ ہشام بن عروہ سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ”آپ ﷺ نے حکم دیا کہ.....“ پھر اسی کے
مثل بیان کرتے ہیں۔ اور یہ پہلی حدیث سے صحیح ہے۔ ابن ابی عمر بھی سفیان بن عیینہ سے وہ ہشام بن عروہ سے اور وہ اپنے والد سے اسی
حدیث کے مثل روایت کرتے ہیں۔ سفیان کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے دور میں مسجدیں بنانے کا حکم دیا یعنی قبیلوں میں۔

باب ۴۱۲۔ رات اور دن کی (نفل) نماز دو رکعت ہے۔

باب ۴۱۲۔ مَا جَاءَ إِنْ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنِي

۵۱۸۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: رات اور
دن کی (نفل) نماز دو رکعتیں ہیں۔

۵۱۸۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَاعِمُ بْنُ
مَهْدِيٍّ نَاعِمُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَزْدِيِّ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ
قَالَ صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنِي

امام ترمذی کہتے ہیں شعبہ کے ساتھیوں میں اس حدیث کے متعلق اختلاف ہے بعض اسے موقوف اور بعض مرفوع روایت کرتے
ہیں۔ عبد اللہ عمری، نافع سے وہ ابن عمر سے اور وہ حضور ﷺ سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں جب کہ ابن عمر کی آنحضرت ﷺ سے یہ
روایت صحیح ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: رات کی نماز دو رکعتیں ہے کئی ثقہ راوی عبد اللہ بن عمر سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے روایت
کرتے ہیں لیکن اس میں دن کی نماز کا ذکر نہیں کرتے۔ عبید اللہ سے بواسطہ نافع مروی ہے کہ ابن عمر رات کو دو رکعتیں اور دن میں
چار چار رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ دن و رات کی نماز دو رکعتیں ہے یہ شافعی اور احمد کا قول
ہے بعض کا کہنا ہے کہ صرف رات کی نماز دو رکعت ہے اور اگر دن میں نوافل پڑھے جائیں تو چار چار پڑھے جائیں گے۔ جیسے کہ
ظہر وغیرہ سے پہلے کی چار رکعتیں پڑھی جاتی ہیں یہی سفیان ثوری، ابن مبارک اور اسحاق کا بھی قول ہے۔

باب ۴۱۳۔ آنحضرت ﷺ دن میں کس طرح نوافل پڑھتے تھے؟

باب ۴۱۳۔ كَيْفَ كَانَ يَتَطَوَّعُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَالِهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهَارِ

۵۱۹۔ عاصم بن ضمرہ کہتے ہیں ہم نے علی سے آنحضرت ﷺ کی دن کی
نماز کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا: تم میں اتنی سکت نہیں۔ ہم نے کہا

۵۱۹۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَاعِمُ بْنُ
نَاشِعَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ

اگر کسی میں اتنی سکت ہو تو۔ اس پر حضرت علیؑ نے فرمایا: جب سورج اس طرف (یعنی مشرق میں) اتنا ہوتا جتنا کہ عصر کے وقت اس طرف (مغرب کی طرف) ہوتا ہے تو آپ ﷺ دو رکعتیں پڑھتے پھر جب سورج مشرق کی طرف اس جگہ ہوتا جہاں ظہر کے وقت مغرب کی طرف ہوتا ہے تو چار رکعتیں پڑھتے پھر ظہر سے پہلے چار اور ظہر کے بعد دو رکعت پڑھتے۔ پھر عصر سے پہلے دو دو کر کے چار رکعتیں پڑھتے اور ان کے درمیان ملائکہ مقربین انبیاء و مرسلین اور مومنوں و مسلمانوں میں سے ان کے متبعین پر سلام بھیجتے۔

سَأَلْنَا عَلِيًّا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّهَارِ فَقَالَ إِنَّكُمْ لَا تَطِيقُونَ ذَلِكَ فَقُلْنَا مَنْ أَطَاعَ ذَلِكَ مِنَّا فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَهُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَهُنَا عِنْدَ الْعَصْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَإِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَهُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَهُنَا عِنْدَ الظُّهْرِ صَلَّى أَرْبَعًا وَيُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا يَفْصَلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ

محمد بن ثنی، محمد بن جعفر سے وہ شعبہ سے وہ ابواسحاق سے وہ عاصم بن ضمرہ سے وہ حضرت علیؑ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے اسحاق بن ابراہیم کہتے ہیں کہ آپ ﷺ کے دن میں نوافل کے متعلق مروی احادیث میں یہ سب سے بہتر ہے۔ ابن مبارک اس حدیث کی تضعیف کرتے تھے میرے خیال میں اس کا سبب یہی ہوگا کہ اس طرح کی روایات آپ ﷺ سے صرف اسی طریق سے مروی ہیں واللہ اعلم۔ یعنی عاصم بن ضمرہ بحوالہ علیؑ بیان کرتے ہیں۔ عاصم بن ضمرہ بعض محدثین کے نزدیک ثقہ ہیں۔ علاء بن مدینی، یحییٰ بن سعید قطان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ سفیان نے کہا: ہم عاصم بن ضمرہ کی حدیث کو حارث کی حدیث کے مقابلے میں افضل سمجھتے تھے۔

باب ۴۱۴۔ عورتوں کی چادر میں نماز پڑھنے کی کراہت۔

۵۲۰۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ اپنی بیویوں کی چادروں میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔

باب ۴۱۴۔ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ فِي لِحْفِ النِّسَاءِ
۵۲۰۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَلِيِّ نَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ اشْعَثَ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي فِي لِحْفِ نِسَائِهِ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور آپ ﷺ سے اس میں اجازت بھی مروی ہے۔

باب ۴۱۵۔ نفل نماز میں چلنے اور عمل کے متعلق (یعنی جو جائز ہے)

باب ۴۱۵۔ مَا يَجُوزُ مِنَ الْمَشْيِ وَالْعَمَلِ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ

۵۲۱۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ گھر آئی تو آپ ﷺ گھر کا دروازہ بند کر کے نماز پڑھ رہے تھے چنانچہ آپ ﷺ نے چل کر میرے لیے دروازہ کھولا اور پھر اپنی جگہ واپس چلے گئے حضرت عائشہؓ

۵۲۱۔ حَدَّثَنَا ابُو سَلْمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلْفِ نَا بَشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ بَرْدِ بْنِ سَنَانَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَعْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَالِهٖ وَسَلَّم يُصَلِّي فِي الْبَيْتِ وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُعْلَقٌ
فَمَشَى حَتَّى فَتَحَ لِي ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ وَوَصَفَتِ
الْبَابَ فِي الْقِبْلَةِ

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن غریب ہے۔

باب ۴۱۶۔ مَاذُكِرَ فِي قِرَاءَةِ سُورَتَيْنِ فِي رُكْعَةٍ

۵۲۲۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ
إِنبَانَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ قَالَ
سَأَلَ رَجُلٌ عَبْدَ اللَّهِ عَنْ هَذَا الْحَرْفِ غَيْرِ اسْمٍ أَوْ
يَاسِينَ قَالَ كُلُّ الْقُرْآنِ قَرَأَتْ غَيْرَ هَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ
إِنَّ قَوْمًا يَقْرَأُونَ وَنَهَ يَنْتَرُونَهُ نَفَرًا لِقُلٍّ لَا يَجَاوِزُ تَرَاقِيهِمْ
إِنِّي لَأَعْرِفُ السُّورَةَ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بَيْنَهُمْ قَالَ فَأَمَرْنَا
عَلَقِمَةَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ عَشْرُونَ سُورَةً مِنَ الْمَفْصَلِ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بَيْنَ كُلِّ
سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رُكْعَةٍ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۴۱۷۔ مَاذُكِرَ فِي فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الْمَسْجِدِ
وَمَا يُكْتَبُ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ فِي خَطَاةٍ

۵۲۳۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ
إِنبَانَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ سَمِعَ ذُكْوَانَ عَنِ أَبِي
هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا
تَوَضَّأَ الرَّجُلُ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ
لَا يُخْرِجُهُ أَوْ قَالَ لَا يُنْهَئُهُ إِلَّا إِيَّاهَا لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً
إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۴۱۸۔ مَاذُكِرَ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَغْرَبِ أَنَّهُ فِي

(۱) ان سورتوں کی تفصیل معارف السنن میں موجود ہے۔ ج ۵ ص ۱۳۹

فرماتی ہیں کہ دروازہ قبلے کی طرف ہی تھا۔

باب ۴۱۶۔ ایک رکعت میں دو سورتیں پڑھنا۔

۵۲۲۔ اعمش فرماتے ہیں کہ میں نے ابو وائل سے سنا کہ ایک شخص نے
حضرت عبداللہؓ سے اس حرف کے متعلق پوچھا کہ ”غیر اسن“ ہے یا
”غیر یاسن“ عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا: کیا تم نے اس کے علاوہ پورا
قرآن پڑھ لیا ہے؟ اس نے کہاں ہاں۔ ابن مسعودؓ نے فرمایا: کچھ لوگ
قرآن مجید کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے کوئی ردی کھجوروں کو بکھیرتا ہے
اور قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا (یعنی دل پر اثر نہیں کرتا)
مجھے ایسی تشابہ سورتوں کا علم ہے جنہیں آنحضرت ﷺ آپس میں ملا کر
پڑھا کرتے تھے۔ راوی کہتے ہیں ہم نے علقمہ سے کہا تو انہوں نے
ابن مسعودؓ سے ان سورتوں کے متعلق پوچھا اس پر انہوں نے فرمایا: وہ
مفصل کی بیس سورتیں ہیں جن میں سے دو دو کو نبی کریم ﷺ ایک رکعت
میں جمع کرتے تھے۔ (۱)

باب ۴۱۷۔ مسجد کی طرف چلنے کی فضیلت اور ان قدموں کے اجر کے
متعلق۔

۵۲۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب کوئی
شخص اچھی طرح وضو کر کے نماز کے لیے نکلتا ہے بشرطیکہ اسے نماز کے
علاوہ کسی اور چیز نے نہ نکالا ہو، یا فرمایا نہ اٹھایا ہو تو اس کے ہر قدم پر
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند اور ایک گناہ کم کرتے ہیں۔

باب ۴۱۸۔ مغرب کے بعد گھر میں نماز پڑھنا (نوافل وغیرہ) افضل

الْبَيْتِ أَفْضَلُ

ہے۔

۵۲۳۔ سعید بن اسحاق بن کعب بن عجرہ اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے بخوشی شہل کی مسجد میں مغرب کی نماز پڑھی۔ چنانچہ کچھ لوگ نوافل پڑھنے لگے۔ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: تم لوگوں کو چاہئے کہ یہ نماز گھروں میں پڑھو۔

۵۲۴۔ حدثنا محمد بن بشار نا ابراهيم بن ابى الوزير نا محمد بن موسى عن سَعِيدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ الْمَغْرِبِ فَقَامَ نَاسٌ يَتَنَفَّلُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْهِ وَسَلَّمَ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ فِي الْبُيُوتِ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اس روایت کے علاوہ اسے نہیں جانتے اور صحیح وہ ہے جو عبد اللہ بن عمر سے مروی ہے کہ ”رسول اللہ ﷺ مغرب کے بعد گھر میں دو رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔“ حذیفہ سے یہ بھی مروی ہے کہ ”آنحضرت ﷺ نے مغرب کی نماز پڑھی اور پھر عشاء تک نماز میں پڑھنے میں مشغول رہے۔“ پس اس حدیث میں اس بات پر دلالت ہے کہ آپ ﷺ نے مغرب کے بعد مسجد میں بھی نماز پڑھی۔

باب ۳۱۹۔ جب کوئی شخص مسلمان ہو تو غسل کرے

باب ۴۱۹۔ فِي الْإِغْتِسَالِ عِنْدَ مَا يُسَلِّمُ الرَّجُلُ

۵۲۵۔ حضرت قیس بن عاصم فرماتے ہیں کہ وہ اسلام لائے تو حضور اکرم ﷺ نے انہیں پانی اور پیری کے پتوں سے نہانے کا حکم دیا۔

۵۲۵۔ حدثنا بندار نا عبدالرحمن بن مهدى نا سفيان عن الاغر الصباح عن خليفة ابن حصين عن قيس بن عاصم انه اسلم فامرته النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان يغتسل ويغتسل بماء وسنبر

اس باب میں حضرت ابو ہریرہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ اسی پر علماء کا عمل ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام قبول کرے تو اس کے لیے غسل کرنا اور کپڑے دھونا مستحب ہے۔

باب ۳۲۰۔ بیت الخلاء جاتے وقت بسم اللہ کہنا۔

باب ۴۲۰۔ مَا ذَكَرَ مِنَ التَّسْمِيَةِ فِي دُخُولِ الْخَلَاءِ

۵۲۶۔ حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جنوں کی آنکھوں اور انسانوں کی شرمگاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب کوئی بیت الخلاء جائے تو ”بسم اللہ“ پڑھے۔

۵۲۶۔ حدثنا محمد بن حميد الرازي نا الحكم بن بشير بن سلمان نا خلاد الصفار عن الحكم بن عبد الله النصري عن أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي جَحْفَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْحَيِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمُ الْخَلَاءَ أَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ

امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے ہم اسے اس روایت کے علاوہ نہیں جانتے اور اس کی سند قوی نہیں۔ حضرت انسؓ سے بھی اس باب میں کچھ مروی ہے۔

باب ۴۲۱۔ قیامت کے دن وضو اور سجدوں کی وجہ سے اس امت کی نشانی۔

۵۲۷۔ حضرت عبداللہ بن بسرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن میری امت کے چہرے سجدوں کی وجہ سے اور ہاتھ پیر وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔

باب ۴۲۱۔ مَا ذُكِرَ مِنْ سَيِّمَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ أُنَارِ السُّجُودِ وَالطُّهُورِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

۵۲۷۔ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ نَا الْوَلِيدِ بْنِ مَسْلَمٍ قَالَ قَالَ صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرٌّ مِنَ السُّجُودِ مُحَجَّلُونَ مِنَ الْوُضُوءِ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے یعنی عبداللہ بن بسرؓ کی روایت سے۔

باب ۴۲۲۔ وضو داہنی طرف سے شروع کرنا مستحب ہے۔

۵۲۸۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ طہارت (وضو وغیرہ) میں داہنی طرف سے شروع کرنا پسند کرتے تھے اسی طرح کنگھی کرتے وقت اور جوتی پہننے وقت بھی داہنی طرف سے ہی شروع کرنا پسند کرتے تھے۔

باب ۴۲۲۔ مَا يَسْتَحِبُّ مِنَ التِّيْمَنِ فِي الطُّهُورِ

۵۲۸۔ حَدَّثَنَا هِنَادُنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ اشْعَثِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحِبُّ التِّيْمَانَ فِي طُهُورِهِ إِذَا تَطَهَّرَ وَفِي تَرَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلَ وَفِي انْتِعَالِهِ إِذَا انْتَعَلَ

ابو شعثاء کا نام سلیم بن اسود صحابی ہے امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۴۲۳۔ وضو کے لیے کتنا پانی کافی ہے؟

۵۲۹۔ حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: وضو کے لیے دو رطل پانی کافی ہے۔

باب ۴۲۳۔ ذُكِرَ قَدْرُ مَا يُجْزِي مِنَ الْمَاءِ فِي الْوُضُوءِ

۵۲۹۔ حَدَّثَنَا هِنَادُنَا وَكَيْعٌ عَنْ شَرِيكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيْسَى عَنْ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُجْزِي فِي الْوُضُوءِ رَطْلَانِ مِنَ الْمَاءِ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے ہم اس کے یہ الفاظ شریک کی روایت کے علاوہ نہیں جانتے۔ شعبہ، عبداللہ بن عبداللہ بن جبر سے اور وہ انس بن مالکؓ سے کہ ”رسول اللہ ﷺ ایک مکوک (مد) سے وضو اور پانچ مکوک سے غسل کیا کرتے تھے“۔ (۱)

باب ۴۲۴۔ دودھ پیتے بچے کے پیشاب پر پانی بہانا کافی ہے۔

۵۳۰۔ حضرت علی بن ابی طالبؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے دودھ پیتے بچوں کے پیشاب کے متعلق فرمایا کہ لڑکے کے پیشاب پر پانی بہا دینا کافی ہے جب کہ لڑکی کے پیشاب کو دھونا ضروری ہے قوادہ کہتے ہیں یہ اس صورت میں ہے کہ کھانا نہ کھانے لگیں۔ اگر کھانے لگیں تو

باب ۴۲۴۔ مَا ذُكِرَ فِي نَضْحِ بَوْلِ الْغُلَامِ الرَّضِيعِ

۵۳۰۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَرْبٍ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي بَوْلِ الْغُلَامِ الرَّضِيعِ يَنْضَحُ بَوْلَ الْغُلَامِ

(۱) اس کی تفصیل باب: ”ایک مد پانی سے وضو کرنا“ میں گزر چکی ہے۔ (مترجم)

وَيُغَسَّلُ بَوْلَ الْحَارِيَةِ قَالَ قَتَادَةُ وَهَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا
فَإِذَا طَعِمَا غُسِلَا جَمِيعًا

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے اس حدیث کو ہشام دستوائی نے قتادہ کی روایت سے مرفوع اور سعید بن ابی عروبہ نے قتادہ ہی کی روایت سے موقوف روایت کیا ہے۔

باب ۴۲۵۔ مَا ذُكِرَ فِي الرُّخْصَةِ لِلْجُنْبِ فِي الْأَكْلِ وَالنُّوْمِ إِذَا تَوَضَّأَ

باب ۴۲۵۔ جنسی اگر وضو کر لے تو اس کے لیے کھانے اور سونے کی اجازت ہے۔

۵۳۱۔ حَدَّثَنَا هِنَادُنَا قَبِيصَةُ عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ الْحِزْزِ سَأَنِي عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَخِصَ لِلْجُنْبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرِبَ أَوْ يَنَامَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ

۵۳۱۔ حضرت عمارؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے جنسی کے متعلق فرمایا: کہ اگر وہ کھانا پینا یا سونا چاہے تو اسی طرح وضو کر لے جیسے نماز کے لیے کرتا ہے۔

باب ۴۲۶۔ مَا ذُكِرَ فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ

باب ۴۲۶۔ نماز کی فضیلت۔

۵۳۲۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ نَا عُبَيْدَ اللَّهِ بْنِ مُوسَى نَا غَالِبَ ابْنِ بَشْرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَائِدِ الطَّائِيِّ عَنْ قَيْسِ بْنِ مَسْلَمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَعْبُدُكَ بِاللَّهِ يَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ مِنْ أُمَّرَاءِ يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِي فَمَنْ عَشِيَ أَبُوَابَهُمْ فَصَلَّوْهُمْ فِي كَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَا يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضُ وَمَنْ عَشِيَ أَبُوَابَهُمْ أَوْلَمَ يَغْشَ وَلَمْ يَصَلِّوْهُمْ فِي كَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعْنَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَسِيرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضُ يَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ الصَّلَاةُ بُرْهَانٌ وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ حَصِينَةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ يَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ إِنَّهُ لَا يَرْتَبُوا لَحْمَ نَبْتٍ مِنْ سُحْبٍ إِلَّا كَانَتْ النَّارُ أَوْلَى بِهِ

۵۳۲۔ حضرت کعب بن عجرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: اے کعب بن عجرہؓ میں تجھے ان امراء سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں جو میرے بعد ہوں گے۔ جو شخص ان کے دروازوں پر آکر ان کے جھوٹ کو بچ اور ان کے ظلم میں ان کی اعانت کرے گا اس کا مجھ سے اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں اور وہ حوض پر نہ آسکے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص ان کے دروازوں پر آیا، یا اگر نہ بھی آیا صرف اس نے ان کے جھوٹ کو بچ اور ظلم میں اعانت نہ کی وہ مجھ سے اور میں اس سے وابستہ ہوں ایسا شخص میرے حوض پر آسکے گا۔ اے کعب بن عجرہؓ نماز دلیل و حجت اور روزہ مضبوط ڈھال ہے۔ جب کہ صدقہ گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو اے کعب بن عجرہؓ کوئی گوشت ایسا نہیں جو حرام مال سے پرورش پاتا ہو اور آگ کا حقدار نہ ہو۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ میں نے بخاری سے اس کے متعلق پوچھا، وہ بھی اسے عبید اللہ بن موسیٰ کی روایت کے علاوہ نہیں جانتے اور اسے بہت غریب کہتے ہیں۔ بخاری کہتے ہیں ہم اس حدیث کی روایت نمبر نے کی ہے اور وہ عبید اللہ بن موسیٰ سے غالب کے حوالے سے روایت کرتے ہیں۔

باب ۴۲۷۔ بَابِ مِنْهُ

باب ۳۲۷۔ اسی سے متعلق

۵۳۳۔ حدثنا موسى بن عبدالرحمن الكوفي نا زيد بن الحباب نا معاوية بن صالح قال حدثني سليم بن عامر قال سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ فَقَالَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ وَصَلُّوا حَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَادُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُوا إِذَا أَمَرَكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي أَمَامَةَ مُنذَكُم سَمِعْتُمْ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ سَمِعْتُ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثِينَ سَنَةً

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

اخْرُ أَبُوَابِ الصَّلٰوةِ

یہاں نماز کے ابواب ختم ہو گئے

باب ۴۲۸۔ أَبْوَابُ الزَّكَاةِ عَنْ رَسُولِ

باب ۳۲۸۔ رسول اللہ ﷺ سے مروی ابواب زکوٰۃ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَابُ مَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي مَنَعِ الزَّكَاةِ مِنَ التَّشْدِيدِ

زکوٰۃ نہ دینے پر آنحضرت (ﷺ) سے منقول وعید۔

۵۳۴۔ حدثنا هنادنا بن السري نا ابو معاوية عن الاعمش عن معرو بن سويد عن ابي ذر قال جئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة قال قرأني مقبلاً فقال هم الأחסرون ورب الكعبة يوم القيامة قال فقلت مالي لعله أنزل في شئى قال قلت من هم فذاك ابي وامى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الأكثرون إلا من قال هكذا وهكذا فحشى بين يديه وعن يمينه وعن شماله ثم قال والذي نفسى بيده لا يموت رجل فيدع ابلاً أو بقراً لم يؤد زكوتها إلا جاءته يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تطوؤه بأخفا فيها وتنطحه بقرونها كلما نفدت أحرها

۵۳۳۔ حضرت ابو ذرؓ فرماتے ہیں میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ ﷺ کعبہ کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ مجھے آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا: رب کعبہ کی قسم! وہ قیامت کے دن خسارہ پانے والے ہیں۔ ابو ذرؓ فرماتے ہیں: میں نے سوچا کیا ہو گیا شاید میرے متعلق کچھ اُترا ہے میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان وہ لوگ کون ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ مالدار لوگ ہیں الا یہ کہ جو ادھر ادھر دے پھر آپ ﷺ نے دونوں ہاتھوں سے لپ بنا کر دائیں بائیں اور سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ پھر فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ جو شخص مرتے وقت اونٹ گائے وغیرہ بغیر زکوٰۃ کے چھوڑ کر جاتا ہے قیامت کے دن یہی جانور اس سے زیادہ طاقتور اور موٹا ہو کر آئے گا اور اس کو اپنے کھردوں تلے روندتے اور سینگ مارتے ہوئے گزر جائے گا۔ جب وہ

عَادَتْ عَلَيْهِ أَوْلَاهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ

گزر جائے گا۔ تو پچھلا جانور لوٹے گا اور اس کے ساتھ اسی طرح ہوتا رہے گا یہاں تک کہ لوگ حساب کتاب سے فارغ ہو جائیں۔

اس باب میں حضرت ابو ہریرہؓ سے بھی اسی کے مثل روایت ہے حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ زکوٰۃ کے مانع پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ قبیصہ بن ہلب اپنے والد سے "جابر بن عبد اللہ اور عبد اللہ بن مسعود بھی روایت کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ابو ذرؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو ذر کا نام جندب بن سکین ہے انہیں ابن جنادہ بھی کہا جاتا ہے۔ عبد اللہ بن منیر، عبید اللہ بن موسیٰ سے وہ سفیان ثوری سے اور وہ حکیم بن ویلم سے روایت کرتے ہیں کہ ضحاک بن مزاحم نے کہا: "اکثر من" یعنی مالدار سے مراد دس ہزار والے ہیں۔

باب ۴۲۹۔ مَا جَاءَ إِذَا آذَيْتَ الزُّكُوهَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ
۵۳۵۔ حدثنا عمر بن حفص الشيباني نا عبد الله بن وهب نا عمرو بن الحارث عن ذراج عن ابي حنيفة عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا آذيت زكوة مالك فقد قضيت ما عليك

باب ۴۲۹۔ اگر زکوٰۃ ادا کر دی تو واجب ادا ہو گیا۔
۵۳۵۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تم نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو جو تم پر واجب تھا وہ تم نے ادا کر دیا۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے اور کئی سندوں سے آپ ﷺ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے جب زکوٰۃ کا تذکرہ کیا تو ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پر کچھ فرض ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں ہاں اگر تم اپنی خوشی سے خیرات وغیرہ دینا چاہو۔ ابن ہبیرہ، عبد الرحمن بن حمیرہ بصری ہیں۔

۵۳۶۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ہماری تمنا ہوتی تھی کہ کوئی عاقل دیہاتی شخص آئے اور حضور اکرم ﷺ سے سوال کرے تو ہم بھی موجود ہوں ہم اس خیال میں تھے کہ ایک اعرابی (دیہاتی) آیا اور آپ ﷺ کے سامنے دوڑا نو ہو کر بیٹھ گیا اور کہا: اے محمد ﷺ! آپ ﷺ کا قاصد ہمارے پاس آیا اور کہا کہ آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ اللہ کے رسول ﷺ ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ہاں۔ اعرابی نے کہا: قسم ہے اس رب کی جس نے آسمانوں کو بلند کیا، زمین کو پچھایا اور پہاڑوں کا گاڑا۔ کیا اللہ ہی نے آپ کو بھیجا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں۔ اعرابی نے کہا: آپ کا قاصد کہتا ہے کہ آپ ﷺ ہم پر دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض بتاتے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں۔ اعرابی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ ﷺ کو بھیجا۔ کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں۔ اعرابی نے کہا: آپ کا قاصد یہ بھی کہتا ہے کہ ہم پر ہر سال ایک ماہ کے روزے رکھنا فرض ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس نے سچ کہا ہے۔ اعرابی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے

۵۳۶۔ حدثنا محمد بن اسمعيل ثنا علي بن عبد الحميد الكوفي نا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن انس قال كنا نتمنى ان يتتدى الاعرابي العاقل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فبينما نحن كذلك اذ اتاه اعرابي فحشى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ان رسولك اتانا فزعم لنا انك تزعم ان الله ارسلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال فبالذي رفع السماء وبسط الارض ونصب الجبال الله ارسلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال فان رسولك زعم لنا انك تزعم ان علينا خمس صلوات في اليوم والليلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال فبالذي ارسلك ا الله امرك بهذا فقال نعم قال فان رسولك زعم لنا انك تزعم ان علينا صوم شهر

آپ کو بھیجا۔ کیا یہ حکم بھی اللہ ہی نے دیا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں۔ اعرابی نے کہا: آپ کا قاصد یہ بھی کہتا ہے کہ آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ ہمارے اموال پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس نے ٹھیک کہا ہے۔ اعرابی نے کہا: اس پروردگار کی قسم جس نے آپ کو بھیجا: اس کا حکم بھی اللہ ہی نے دیا ہے! آپ نے فرمایا: ہاں۔ اعرابی نے کہا: آپ کا قاصد دعویٰ کرتا ہے کہ آپ ﷺ ہم میں سے جو صاحب استطاعت ہو اس کے لیے بیت اللہ کا حج فرض قرار دیتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں۔ اعرابی نے کہا: اس ذات کی قسم جس نے آپ ﷺ کو رسول بنایا: کیا یہ حکم بھی اللہ ہی نے دیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں۔ اس پر اعرابی نے کہا: اس ذات کی قسم جس نے آپ ﷺ کو دین حق دے کر بھیجا میں اس میں سے کوئی چیز نہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی اس سے زیادہ کروں گا پھر وہ اٹھ کر چل دیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر اعرابی سچا ہے تو جنت میں داخل ہو گیا۔

فِي السَّنَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ قَالَ فَبَالِدِي أَرْسَلَكُ اللَّهُ اللَّهُ بِهَذَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ رَسُولَكَ زَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ عَلَيْنَا فِي أَمْوَالِنَا الزُّكُوتَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ قَالَ فَبَالِدِي أَرْسَلَكُ اللَّهُ اللَّهُ بِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ قَالَ إِنَّ رَسُولَكَ زَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ عَلَيْنَا الْحَجَّ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ قَالَ فَبَالِدِي أَرْسَلَكُ اللَّهُ اللَّهُ بِهَذَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَدْعُ مِنْهُنَّ شَيْئًا وَلَا أَجَاوِزُهُنَّ ثُمَّ وَتَبَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ صَدَقَ الْأَعْرَابِيُّ دَخَلَ الْجَنَّةَ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث اس سند سے حسن ہے۔ اور اس سند کے علاوہ بھی حضرت انسؓ سے مروی ہے۔ میں نے امام بخاری سے سنا کہ بعض محدثین اس حدیث سے یہ حکم مستنبط کرتے ہیں کہ استاد کے سامنے پڑھنا اور پیش کرنا سماع ہی کی طرح جائز ہے۔ ان کی دلیل اعرابی کی یہ حدیث ہے کہ اس نے آپ ﷺ کے سامنے بیان کیا جس پر آپ ﷺ نے اقرار کیا۔

باب ۴۳۰۔ سونے اور چاندی کی زکوٰۃ

۵۳۷۔ حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: میں نے گھوڑوں اور غلاموں کی زکوٰۃ تو معاف کر دی۔ لہذا چاندی کی زکوٰۃ ہر چالیس درہم پر ایک درہم ادا کرو۔ پھر مجھے ایک سونوے (۱۹۰) درہم میں سے زکوٰۃ نہیں چاہیے ہاں اگر وہ دوسو ہو جائیں تو ان پر پانچ درہم (زکوٰۃ ہے)۔

باب ۴۳۰۔ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ

۵۳۷۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ نَابِيُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَّةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا لَيْسَ لِي فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمٍ

اس باب میں ابو بکر صدیقؓ اور عمرو بن حزمؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث اعمش اور ابو عوانہ وغیرہ ابواسحاق سے وہ عاصم بن ضمیرہ سے اور وہ حضرت علیؓ سے روایت کرتے ہیں۔ پھر سفیان ثوری اور ابن عیینہ اور کئی راوی بھی ابواسحاق سے وہ حارث سے اور وہ حضرت علیؓ سے روایت کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں میں نے بخاری سے اس کے متعلق پوچھا تو کہا: میرے نزدیک دونوں صحیح ہیں۔ ممکن ہے کہ ابواسحاق دونوں سے روایت کرتے ہوں۔

باب ۴۳۱۔ مَا جَاءَ فِي زَكْوَةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ

۵۳۸۔ حدثنا زياد بن ايوب البيهقي و ابراهيم بن عبد الله الهروي. و محمد بن كامل المروزي المعنى واحد قالوا نا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عَمَالِهِ حَتَّى قُبِضَ فَقَرَنَهُ بِسَيِّفِهِ فَلَمَّا قُبِضَ عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ وَعُمِّرَ حَتَّى قُبِضَ. وَكَانَ فِيهِ فِي خُمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ وَفِي عَشْرِ شَاتَانِ وَفِي خُمْسٍ عَشْرَةٌ ثَلَاثُ شِيَاهٍ وَفِي عَشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِي خُمْسٍ وَعَشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خُمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَإِذَا زَادَتْ فِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خُمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا زَادَتْ فِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خُمْسٍ وَسَبْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ فِيهَا ابْتَالِبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ فِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عَشْرِينَ وَمِائَةٌ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عَشْرِينَ وَمِائَةٌ فِيهِ كُلُّ خُمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةٌ لَبُونٍ وَفِي الشَّاءِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةٌ إِلَى عَشْرِينَ وَمِائَةٌ فَإِذَا زَادَتْ فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ فَثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةِ شَاةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةِ شَاةٍ فِيهِ كُلُّ مِائَةِ شَاةٍ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَةً وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَا جَعَانَ بِالسَّوِيَّةِ وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَيْبٍ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قَسَمَ اثْنَلَاثًا اثْنَلَاثًا ثَلَاثَ خِيَارًا وَثَلَاثَ أَوْسَاطٍ وَثَلَاثَ شِرَارًا وَآخِذًا الْمُصَدِّقُ مِنَ الْوَسْطِ وَلَمْ يَذْكُرِ الزُّهْرِيُّ الْبَقَرُ

باب ۴۳۱۔ اونٹ اور بکریوں کی زکوٰۃ

۵۳۸۔ حضرت سالم بن عبد اللہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں۔ کہ آنحضرت ﷺ نے کتاب زکوٰۃ لکھوائی۔ لیکن ابھی اپنے عمال کو بھیج نہ پائے تھے کہ آپ ﷺ کی وفات ہو گئی اور آپ ﷺ نے اسے اپنی تلوار کے پاس رکھ دیا تھا۔ آپ ﷺ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکرؓ نے اپنی وفات تک اس پر عمل کیا۔ پھر حضرت عمرؓ نے اپنی وفات تک۔ اس میں یہ تھا کہ پانچ اونٹوں پر ایک بکری، دس اونٹوں پر دو بکریاں، پندرہ اونٹوں پر تین بکریاں، بیس اونٹوں پر چار بکریاں، پچیس سے پینتیس تک ایک سال کی اونٹنی، پینتیس سے پینتالیس تک دو سال کی اونٹنی، ساٹھ تک تین سال کی اونٹنی، ساٹھ سے پچھتر تک چار سال کی اونٹنی۔ اگر اس سے زیادہ ہوں، تو نوے تک دو اونٹنیاں، اگر اس سے زیادہ ہوں، تو ایک سو بیس اونٹوں تک تین تین سال کی دو اونٹنیاں، اور اگر ایک سو بیس سے بھی زیادہ ہوں۔ تو ہر چھاس اونٹوں پر ایک تین سال کی اونٹنی اور ہر چالیس اونٹوں پر ایک دو سال کی اونٹنی زکوٰۃ ہے۔ جب کہ بکریوں میں چالیس بکریوں پر ایک بکری، یہاں تک کہ ایک سو بیس ہو جائیں۔ پھر ایک سو بیس سے دو سو بکریوں تک دو بکریاں، دو سو سے تین سو تک تین بکریاں اور پھر ہر سو بکریوں پر ایک بکری زکوٰۃ ہے۔ اگر اس سے زیادہ ہوں تو سو تک کوئی زکوٰۃ نہیں۔ پھر متفرق اشخاص کی بکریاں یا اونٹ جمع نہ کیے جائیں۔ اور اسی طرح کسی ایک شخص کی متفرق نہ کی جائیں تاکہ زکوٰۃ ادا نہ کرنی پڑے۔ اور اگر ان میں دو شریک ہوں تو آپس میں برابر تقسیم کر لیں مزید یہ کہ زکوٰۃ میں بوڑھا اور عیب دار جانور نہیں لیا جائے گا زہری کہتے ہیں کہ جب زکوٰۃ لینے والا آئے تو بکریوں کے تین حصے کرے ایک بہترین، دوسرا متوسط اور تیسرا اس سے کم درجے کا اور پھر متوسط میں سے زکوٰۃ لے جب کہ زہری نے گائے کے متعلق کچھ ذکر نہیں کیا۔

اس باب میں ابو بکر صدیقؓ، ابو ذرؓ، انسؓ اور بہز بن حکیمؓ سے بھی روایت ہے۔ بہز بن حکیم اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن عمرؓ کی حدیث حسن ہے اور اکثر فقہاء کا اسی پر عمل ہے۔ یونس بن زید اور کئی راوی بھی اس حدیث کو زہری سے بحوالہ سالم موقوف روایت کرتے ہیں جب کہ سفیان بن حصین نے اسے مرفوع روایت کیا ہے۔

باب ۴۳۲۔ مَا جَاءَ فِي زَكْوَةِ الْبَقْرِ

باب ۴۳۲۔ گائے بیل کی زکوٰۃ۔

۵۳۹۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمُحَارِبِيِّ وَابُو سَعِيدٍ

۵۳۹۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

الْأَشْجُ قَالَ نَا عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ خَصِيفِ

تمیں گائے یا بیل پر ایک گائے یا بیل اور ہر چالیس گائے یا بیل پر دو

عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ

سال کی گائے زکوٰۃ میں دی جائے۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي ثَلَاثِينَ مِنْ الْبَقْرِ تَبِيعَ أَوْ

تَبِيعَةً وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِئْتَةً

اس باب میں معاذ بن جبل سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ عبد السلام بن حرب نے بھی خصیف سے اسی طرح روایت

کی ہے اور عبد السلام ثقہ اور حافظ ہیں۔ شریک یہ حدیث خصیف سے وہ ابو عبیدہ سے وہ اپنے والد سے اور وہ عبد اللہ سے روایت کرتے

ہیں۔ ابو عبیدہ بن عبد اللہ نے اپنے والد سے کوئی حدیث نہیں سنی۔

۵۴۰۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ نَا

۵۴۰۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے بین

سَفِيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ

بھیجا تو حکم دیا کہ تمیں گائے پر ایک سال کی ایک گائے یا بیل اور چالیس

مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

پر دو سال کی گائے زکوٰۃ لوں۔ اور پھر ہر جوان آدمی سے ایک دینار یا

وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَخَذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقْرَةً

تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مِئْتَةً وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ

دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَاظِرًا

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ بعض حضرات اسے سفیان سے وہ اعمش سے وہ ابو داؤد سے اور وہ مسروق سے روایت

کرتے ہیں کہ ”آنحضرت ﷺ نے معاذ کو یمن بھیجا تو انہیں حکم دیا..... الخ۔ اور یہ حدیث صحیح ہے۔ محمد بن بشار، محمد بن جعفر سے وہ شعبہ

سے اور وہ عمر بن مرہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ابو عبیدہ سے پوچھا کہ: آپ کو عبد اللہ کی کچھ باتیں یاد ہیں تو فرمایا: نہیں۔

باب ۴۳۳۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ اخْتِيارِ الْمَالِ فِي

باب ۴۳۳۔ زکوٰۃ میں بہترین مال لینے کی کراہت۔

الصَّدَقَةِ

۵۴۱۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ نَا وَكَيْعٌ نَا زَكَرِيَّا بْنُ

۵۴۱۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے معاذ کو یمن

إِسْحَاقَ الْمَكِّي نَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِي عَنِ

بھیجا اور فرمایا: تم اہل کتاب کی ایک قوم پر سے گزرو گے لہذا انہیں

أَبِي سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

دعوت دینا کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں

عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ إِنَّكَ

اور میں اللہ کا رسول ہوں اگر وہ اسے قبول کر لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ

تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَأَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ

تعالیٰ نے ان پر دن و رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں اگر وہ یہ بھی

إِلَّا اللَّهُ وَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ

قبول کر لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ نے ان کے اموال پر بھی زکوٰۃ فرض کی

فَاعْلَمْتُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ حُمْسَ صَلَوَاتٍ فِي

ہے جو ان کے مالداروں سے لے کر غریبوں کو دی جاتی ہے اگر وہ لوگ

الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَاعْلَمْتُمْ أَنَّ اللَّهَ

اسے بھی قبول کر لیں تو تم ان کے بہترین مال میں سے زکوٰۃ لینے سے

پر ہیز کرنا۔ (یعنی بہترین چیز نہ لینا) اور مظلوم کی بددعا سے بچنا۔ کیونکہ اس بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔

أَفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ أَمْوَالِهِمْ تَوَخَّذُ مِنْ أَعْيَابِهِمْ وَتَرُدُّ عَلَيَّ فَقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَأَتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ

اس باب میں صنابگی سے بھی روایت ہے ابو یسعیٰ ترمذی کہتے ہیں: ابن عباسؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اور ابو معبد، ابن عباسؓ کے مولیٰ ہیں۔ ان کا نام ناند ہے۔

باب ۴۳۳۔ کھتی، پھلوں اور غلے کی زکوٰۃ
۵۴۲۔ حضرت ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: پانچ سے کم اونٹوں میں زکوٰۃ نہیں اسی طرح پانچ اوقیہ چاندی سے کم پر اور پانچ اوسق سے کم غلے پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں۔ (۱)

باب ۴۳۴۔ مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الزَّرْعِ وَالْتَمْرِ وَالْحَبُوبِ
۵۴۲۔ حدثنا محمد بن بشار نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان وشعبة و مالك بن انس عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد بن الخديري قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة

اس باب میں ابو ہریرہؓ، ابن عمرؓ، جابرؓ اور عبد اللہ بن عمروؓ سے بھی روایت ہے۔ محمد بن بشار، عبد الرحمن بن مہدی سے وہ سفیان سے وہ شعبہ سے وہ مالک بن انس سے وہ عمرو بن یحییٰ سے وہ اپنے والد سے وہ حضرت ابو سعید خدریؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے عبد العزیز کی عمرو بن یحییٰ سے مروی حدیث کے مثل روایت کرتے ہیں۔ اور یہ انہی سے کئی سندوں سے مروی ہے اسی پر علماء کا عمل ہے کہ پانچ اوسق سے کم غلے وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں۔ اوسق ساٹھ صاع کا ہوتا ہے لہذا پانچ اوسق تین سو صاع ہوئے۔ جب کہ آنحضرت کا صاع ۱۱ رطل کا ہوتا تھا۔ اور اہل کوفہ کا صاع آٹھ رطل کا۔ اور یہ کہ پانچ اوقیہ سے کم چاندی پر زکوٰۃ نہیں۔ اوقیہ چالیس درہم کا ہوتا ہے۔ چنانچہ پانچ اوقیہ دو سو درہم ہوئے اور نہ ہی پانچ سے کم اونٹوں پر زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ اگر ان کی تعداد پچیس تک پہنچ جائے تو ایک سال کی اونٹنی اور اگر اس سے کم ہوں تو ہر پانچ پر ایک بکری زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔

باب ۴۳۵۔ گھوڑوں اور غلاموں پر زکوٰۃ نہیں۔
۵۴۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مسلمان پر اس کے گھوڑے اور غلام پر زکوٰۃ نہیں۔

باب ۴۳۵۔ مَا جَاءَ لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ صَدَقَةٌ
۵۴۳۔ حدثنا محمد بن العلاء ابو كريب ومحمود بن غيلان قالنا و كيع عن سفيان وشعبة عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله

(۱) اوقیہ چالیس درہم کا ہوتا ہے لہذا یہ کل دو سو درہم ہوئے جو ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہیں۔ (مترجم)
(۲) اوسق، اوسق کی جس ہے یہ ایک پیمانہ ہے جو ساٹھ صاع کے برابر ہوتا ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب کی تحقیق کے مطابق ایک اوسق پانچ من ڈھائی سیر اور پانچ اوسق پچیس من۔

عَلَيْهِ وَالْإِهْ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ

اس باب میں عبد اللہ بن عمرو اور علیؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر علماء کا عمل ہے کہ چرنے والے گھوڑے اور خدمت کے لیے رکھے ہوئے غلاموں پر زکوٰۃ نہیں۔ ہاں اگر یہ تجارت کے لیے ہوں تو ان پر سال گزر جانے کے بعد ان کی قیمتوں پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔

باب ۴۳۶۔ شہد کی زکوٰۃ

باب ۴۳۶۔ مَا جَاءَ فِي زَكْوَةِ الْعَسَلِ

۵۴۴۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ ﷺ نے فرمایا: شہد کی دس مشکوں پر ایک مشک زکوٰۃ ادا کی جائے۔

۵۴۴۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النِّسَابُورِيُّ نَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلْمَةَ التَّنِيسِيُّ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْإِهْ وَسَلَّمَ فِي الْعَسَلِ فِي كُلِّ عَشْرَةِ أَرْزُقٍ زَكْوٌ

اس باب میں ابو ہریرہؓ، البویارہؓ صحیح اور عبد اللہ بن عمروؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ابن عمرؓ کی حدیث کی سند میں مقال ہے۔ اور اس باب میں آنحضرت ﷺ سے مروی کوئی حدیث صحیح نہیں۔ اسی پر اہل علم کا عمل ہے۔ یہی احمد اور اسحاق کا بھی قول ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ شہد پر زکوٰۃ نہیں ہے۔

باب ۴۳۷۔ مال مستفاد پر جب تک سال نہ گزر جائے اس وقت تک زکوٰۃ نہیں۔

باب ۴۳۷۔ مَا جَاءَ لَا زَكْوَةَ عَلَى الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

۵۴۵۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے زکوٰۃ کا نصاب مکمل ہونے کے بعد مال پایا اس پر اس وقت تک زکوٰۃ واجب نہیں جب تک اس پر سال نہ گزر جائے۔

۵۴۵۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى نَا هَارُونَ بْنُ صَالِحِ الطَّلْحِيِّ نَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ اسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْإِهْ وَسَلَّمَ مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكْوَةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

اس باب میں سراء بنت مہمان سے بھی روایت ہے۔ محمد بن بشار، عبد الوہاب ثقفی سے وہ ایوب سے وہ نافع سے اور وہ ابن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ ”جس نے زکوٰۃ کا نصاب مکمل ہونے کے بعد ماں پایا اس پر اللہ کے نزدیک ایک سال مکمل ہونے سے پہلے زکوٰۃ واجب نہیں۔ یہ حدیث عبد الرحمن بن زید بن اسلم کی حدیث سے صحیح ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: اسے ایوب، عبید اللہ اور کئی حضرات بھی نافع سے اور وہ ابن عمرؓ سے موقوفاً روایت کرتے ہیں۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم ضعیف ہیں۔ انہیں احمد بن حنبل اور علی بن مدینی وغیرہ ضعیف کہتے ہیں۔ اور یہ کثیر الغلط ہیں یہ حدیث کئی صحابہ سے مروی ہے کہ ”مال مستفاد پر سال مکمل ہونے سے پہلے زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی“۔ (۱) شافعی، مالک، احمد بن حنبل اور اسحاق کا یہی قول ہے۔ جب کہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اگر اس کے پاس مال

(۱) مال مستفاد: اس مال کو کہتے ہیں جو زکوٰۃ کا نصاب مکمل ہونے کے بعد سال کے دوران حاصل ہوا ہو۔ جیسے کہ ہبہ یا میراث وغیرہ۔ (مترجم)

مستفاد کے علاوہ اتنا مال ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے تو مال مستفاد پر بھی زکوٰۃ ادا کرے اگر ایسا نہ ہو اور سب کا سب ہی مال مستفاد ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں یہاں تک کہ ایک سال مکمل ہو جائے۔ اگر سال مکمل ہونے سے پہلے مال مستفاد حاصل کر لے تو اسے چاہیے کہ پہلے مال کے ساتھ مال مستفاد کی بھی زکوٰۃ دے۔ یہ سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا قول ہے۔

باب ۴۳۸۔ مَا جَاءَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جَزِيَّةٌ

باب ۴۳۸۔ مسلمانوں پر جزیہ نہیں۔

۵۴۶۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ قَابُوسِ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَا يُصْلِحُ قَبِلَتَانِ فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جَزِيَّةٌ

۵۴۶۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایک جگہ دو قبیلے والوں کا رہنا ٹھیک نہیں اور مسلمانوں پر جزیہ واجب نہیں۔

ابو کریب، جریر سے اور وہ قابوس سے اسی سند سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ اس باب میں سعید بن زید اور حرب بن عبید اللہ ثقفی کے دادا سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت ابن عباسؓ کی حدیث قابوس بن ابی ظبیان سے اور وہ اپنے والد سے مرسل روایت کرتے ہیں۔ اکثر علماء کا اسی پر عمل ہے کہ اگر کوئی نصرانی اسلام قبول کر لے تو اس سے جزیہ معاف ہو جائے گا۔ آنحضرت ﷺ کا یہ قول کہ ”مسلمانوں پر جزیہ مشورہ واجب نہیں“ اس سے مراد جزیہ ہی ہے۔ اس حدیث سے اس کی تفسیر ہوتی ہے کیوں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: مشورہ یہود و نصاریٰ کے لیے ادا کرنا ضروری ہے مسلمانوں کے لیے نہیں۔

باب ۴۳۹۔ مَا جَاءَ فِي زَكْوَةِ الْحُلِيِّ

باب ۴۳۹۔ زیور کی زکوٰۃ۔

۵۴۷۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ مَعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمَصْطَلِقِ عَنْ ابْنِ أَحْسَى زَيْنَبَ امْرَأَةَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ حَظَبْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ فَإِنَّكُمْ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

۵۴۷۔ حضرت عبداللہؓ کی بیوی زینبؓ فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے عورتوں کو خطبہ دیا اور فرمایا: اے عورتو! صدقہ دیا کرو خواہ اپنے زیوروں ہی سے دو۔ اس لیے کہ قیامت کے دن جہنم میں اکثریت عورتوں کی ہوگی۔

محمود بن غیلان، ابوداؤد سے وہ شعبہ سے اورہ اعمش سے روایت کرتے ہیں کہ ابویائل، عمرو بن حارث، جو عبداللہؓ کی بیوی زینب کے بھتیجے ہیں۔ زینب سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے مثل روایت کرتی ہیں۔ یہ ابومعاویہ کی حدیث سے صحیح ہے ابومعاویہ کو حدیث میں وہم ہو گیا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں عمرو بن حارث عن ابن احسی زینب جب کہ صحیح یہ ہے۔ عمرو بن الحارث بن احسی زینب۔ عمرو بن شعیب سے بھی مروی ہے وہ اپنے والد اور وہ ان کے دادا سے کہ آنحضرت ﷺ نے ”زیور میں زکوٰۃ کا کہا“ اس کی سند میں مقال ہے۔ لہذا بعض علماء صحابہ اور تابعین کہتے ہیں کہ زیور میں زکوٰۃ ہے یعنی اگر سونے چاندی کا ہو۔ یہ قول سفیان ثوری اور عبداللہ بن مبارک کا ہے۔ بعض صحابہ جیسے کہ عائشہؓ ابن عمرؓ، جابر بن عبداللہؓ اور انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ زیور میں زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح بعض فقہاء تابعین سے بھی مروی ہے اور یہی مالک بن انس، شافعی، احمد اور اسحاق کا قول ہے۔

۵۴۸۔ عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ دو عورتیں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں ان کے ہاتھوں میں دو سونے کے ٹکڑے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ انھوں نے کہا: نہیں۔ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تم چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوزخ کی آگ کے دو ٹکڑے پہنائے؟ کہنے لگیں: نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا اس کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔

امام ترمذی کہتے ہیں اس حدیث کو ثبی بن صباح نے بھی عمرو بن شعیب سے اسی کے مثل روایت کیا ہے۔ ثبی بن صباح اور ابن ابیہرہ دونوں ضعیف ہیں۔ اس باب میں آنحضرت سے مروی کوئی حدیث صحیح نہیں۔

باب ۴۴۰۔ سبزیوں کی زکوٰۃ۔

۵۴۹۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور اکرم ﷺ کو لکھا کہ سبزیوں یعنی ترکاریوں وغیرہ کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ان میں کچھ نہیں (یعنی زکوٰۃ نہیں)

باب ۴۴۰۔ مَا جَاءَ فِي زَكْوَةِ الْخَضْرَوَاتِ

۵۴۹۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ نَا عَيْسَىٰ بْنِ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَيْسَىٰ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ مُعَاذِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْخَضْرَوَاتِ وَهِيَ الْبَقُولُ فَقَالَ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ

امام ترمذی کہتے ہیں اس حدیث کی سند صحیح نہیں۔ اس باب میں حضور ﷺ سے مروی کوئی حدیث صحیح نہیں۔ اور یہ روایت موسیٰ بن طلحہ سے مرسل مروی ہے وہ حضور اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ علماء کا عمل اسی پر ہے کہ سبزیوں (ترکاری) پر زکوٰۃ نہیں امام ترمذی کہتے ہیں: حسن، حسن بن عمارہ ہیں اور محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں۔ شعبہ انہیں ضعیف کہتے ہیں جب کہ ابن مبارک ان سے روایت نہیں کرتے۔

باب ۴۴۱۔ نہری زمین کی کھیتی پر زکوٰۃ

۵۵۰۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو کھیتی بارش کے پانی یا نہروں کے پانی سے ہو اس کا دسواں حصہ اور جسے جانوروں (یارہٹ اور ٹیوب ویل وغیرہ) کے ذریعے سینچا گیا ہو اس کا بیسواں حصہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔

باب ۴۴۱۔ مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ فِيمَا يُسْقَى بِالْأَنْهَارِ وَغَيْرِهَا

۵۵۰۔ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ نَا عَاصِمَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ مَدِينِي نَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَابٍ عَنِ سَلِيمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَبُسْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي مَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ الْعُشْرُ وَفِيمَا سَقَى بِالنُّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

اس باب میں انس بن مالک، ابن عمر اور جابرؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث بکیر بن عبد اللہ بن ارج، سلیمان بن یسار اور بسر بن سعید بھی آنحضرت ﷺ سے مرسل روایت کرتے ہیں۔ اس باب میں ابن عمرؓ کی آنحضرت ﷺ سے مروی حدیث صحیح ہے اور اسی پر اکثر فقہاء کا عمل ہے۔

۵۵۱۔ حدثنا احمد بن الحسن نا سعيد بن ابی مریم نا ابن وهب قال حدثنی یونس عن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَنَّ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْغُيُوثُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشُورَ وَفِيمَا سَقَى بِالنُّضْحِ نِصْفَ الْعُشْرِ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۴۴۲۔ مَا جَاءَ فِي زَكْوَةِ مَالِ الْيَتِيمِ

۵۵۲۔ حدثنا محمد بن اسماعيل نا ابراهيم بن موسى نا الوليد بن مسلم عن المثنى بن الصباح عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَجَرَّ فِيهِ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ

۵۵۱۔ سالم اپنے والد سے اور وہ رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے بارانی اور نہری زمین کی زراعت یا عثری زمین پر دسواں حصہ زکوٰۃ مقرر فرمائی جب کہ خود پانی دینے والی زمین کے لیے بیسواں حصہ مقرر فرمایا۔ (۱)

باب ۴۴۲۔ یتیم کے مال کی زکوٰۃ۔

۵۵۲۔ عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے ایک مرتبہ خطبہ دیا اور فرمایا: جو کسی مالدار یتیم کا ولی ہو، اسے چاہیے کہ اس مال سے تجارت کرتا رہے ایسے ہی نہ چھوڑ دے تاکہ ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ دیتے دیتے اس کا مال ختم ہو جائے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث اسی سند سے مروی ہے اور اس کی اسناد میں کلام ہے اس لیے کہ ثنی بن صباح ضعیف ہیں۔ بعض راوی یہ حدیث عمرو بن شعیب سے روایت کرتے ہیں کہ عمر بن خطابؓ نے خطبہ پڑھا..... الخ اور پھر یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ کئی صحابہ کے نزدیک یتیم کے مال پر زکوٰۃ واجب ہے۔ ان میں عمرؓ، علیؓ، عائشہؓ اور ابن عمرؓ شامل ہیں۔ یہی قول مالک، شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی ہے۔ علماء کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ یتیم کے مال پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ یہ قول سفیان ثوری اور عبد اللہ بن مبارک کا بھی ہے۔ عمرو بن شعیب، عمرو بن شعیب بن محمد بن عبد اللہ بن عمرو بن عاص ہیں۔ شعیب نے اپنے دادا عبد اللہ بن عمرو سے احادیث سنی ہیں۔ یحییٰ بن سعید نے عمرو بن شعیب کی حدیث میں کلام کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ ہمارے نزدیک ضعیف ہیں جس نے بھی ان کی تضعیف کی ہے اس کا کہنا ہے کہ عمرو بن شعیب اپنے دادا کی کتاب سے روایت کرتے ہیں۔ لیکن اکثر علماء محدثین ان کی حدیث کو حجت تسلیم کرتے ہیں جن میں احمد اور اسحاق شامل ہیں۔

باب ۴۴۳۔ مَا جَاءَ أَنَّ الْعَجَمَاءَ جُرْحُهَا جُبَارٌ وَفِي الرِّسَاكِ الْخُمُسُ

۵۵۳۔ حدثنا قتيبة نا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب و أبي سلمة عن أبي هريرة عن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

باب ۴۴۳۔ حیوان کے زخمی کرنے پر کوئی دیت نہیں، دفن شدہ خزانے پر پانچواں حصہ۔

۵۵۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حیوان کے کسی کو زخمی کرنے پر اور کسی کے کنویں یا کان میں گر کر زخمی یا ہلاک ہونے پر کوئی دیت نہیں۔ پھر دفن شدہ خزانے پر پانچواں حصہ زکوٰۃ ادا

(۱) اس سے مراد وہ اشجار وغیرہ ہیں جو پانی کے کنارے ہوتے ہیں اور انہیں پانی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود ہی اپنی جڑوں سے پانی حاصل کرتے ہیں۔

وَالِهٖ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُجَمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ وَالْمِثْرُ
جُبَارٌ وَالْمَعْدُنُ جُبَارٌ وَفِي الرَّكَازِ الْخُمْسُ

اس باب میں انس بن مالک، عبداللہ بن عمرو، عمادہ بن صامت، عمرو بن عوف مزیٰ اور حضرت جابرؓ سے بھی روایت ہے امام ترمذی اس حدیث کو حسن صحیح کہتے ہیں۔

باب ۴۴۴۔ غلے وغیرہ میں اندازہ کرنا۔

باب ۴۴۴۔ مَا جَاءَ فِي الْخَرْصِ

۵۵۴۔ خیب بن عبدالرحمن، عبدالرحمن بن مسعود بن نیار سے نقل کرتے ہیں کہ ہبل بن ابی حمزہ ہماری مجلس میں تشریف لائے۔ اور ہمیں بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم اندازہ لگا لو تو تیسرا حصہ چھوڑ دو اور اگر تیسرا حصہ نہیں چھوڑتے تو کم از کم چوتھا چھوڑ دو (یعنی یہ حصہ زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہے)۔

۵۵۴۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ نَا ابُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ نَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَسْعُودِ بْنِ نِيَارٍ يَقُولُ جَاءَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَنْمَةَ إِلَى مَجْلِسِنَا فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا خَرَصْتُمْ فَخَذُوا وَدَعُوا الثَّلَاثَ فَإِنْ لَمْ تَدْعُوا الثَّلَاثَ فَدَعُوا الرَّابِعَ

اس باب میں عائشہ، عتاب بن اسید اور ابن عباسؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ اکثر علماء کا عمل ہبل بن ابی حمزہ کی حدیث پر ہی ہے۔ احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ خرص سے مراد یہ ہے کہ پھلوں کے پکنے کا وقت قریب آنے پر حاکم ایک تخمینہ لگانے والے کو بھیجتا ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ اس سے کتنی مقدار میں پھل وغیرہ اترے گا۔ اس اندازہ لگانے والے کو ”خارص“ کہتے ہیں۔ خارص اندازہ لگانے کے بعد انہیں اس کا عشر بتا دیتا ہے کہ پھلوں کے اترنے پر اتنی زکوٰۃ ادا کرنا۔ اس کے بعد مالک کو اختیار ہے کہ وہ اس پھل وغیرہ کا جو بی میں آئے کرے۔ لیکن وقت آنے پر مقررہ مقدار ادا کرے گا بعض علماء اس کی یہی تفسیر کرتے ہیں۔ مالک، شافعی، احمد اور اسحاق بھی یہی کہتے ہیں۔

۵۵۵۔ حضرت عتاب بن اسید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ خارص کو لوگوں کے پھلوں اور انگوروں کا اندازہ کرنے کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ اسی اسناد سے یہ بھی مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے انگوروں کی زکوٰۃ کے متعلق فرمایا: کہ یہ بھی کھجوروں ہی کی طرح اندازہ کر کے خشک انگوروں کی صورت میں دی جائے گی جس طرح کھجور کی زکوٰۃ خشک کھجور سے دی جاتی ہے۔

۵۵۵۔ حَدَّثَنَا ابُو عمرو مسلم بن عمرو والحذاء المديني نَا عبدالله بن نافع عن محمد بن صالح النمار عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ عَلَى النَّاسِ مَنْ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ كُرُومَهُمْ وَيَمَارَهُمْ وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي زَكَاةِ الْكُرُومِ إِنَّهَا تُخْرُصُ كَمَا يُخْرُصُ النَّخْلُ ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاةُ زَيْبِيَا كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ابن جریج اسے ابن شہاب سے وہ عروہ سے اور وہ حضرت عائشہؓ سے روایت کرتے ہیں۔ میں نے امام بخاری سے اس کے متعلق پوچھا تو کہا: ابن جریج کی حدیث غیر محفوظ ہے اور سعید بن مسیب کی عتاب بن اسید سے روایت اصح ہے۔

باب ۴۴۵۔ انصاف کے ساتھ زکوٰۃ لینے والے عامل کے متعلق
۵۵۶۔ حضرت رافع بن خدیجؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ انصاف کے ساتھ زکوٰۃ لینے والا عامل جب تک گھرنہ لوٹے اس طرح ہے جیسے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا غازی۔

باب ۴۴۵۔ مَا جَاءَ فِي الْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ
۵۵۶۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا يُزِيدُ بْنُ هَارُونَ نَا
يُزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَمْرِو بْنِ قَتَادَةَ ح
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ لَيْدٍ عَنْ
رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ
كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ

امام ترمذی کہتے ہیں: رافع بن خدیج کی حدیث حسن ہے اور یزید بن عیاض محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں جب کہ محمد بن اسحاق کی حدیث اصح ہے۔

باب ۴۴۶۔ زکوٰۃ لینے میں زیادتی کرنے والے کے متعلق۔
۵۵۷۔ حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
زکوٰۃ لینے میں زیادتی کرنے والا زکوٰۃ نہ دینے والے کی طرح ہے۔

باب ۴۴۶۔ مَا جَاءَ فِي الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ
۵۵۷۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا اللَّيْثُ عَنْ يُزِيدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَنَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْمُعْتَدِي فِي
الصَّدَقَةِ كَمَا نَعِيهَا

اس باب میں ابن عمرؓ، ام سلمہؓ اور ابو ہریرہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث اس سند سے غریب ہے اس لیے کہ احمد بن حنبل نے سعد بن سنان کے متعلق کلام کیا ہے۔ لیث بن سعد سے بھی ایسی ہی روایت ہے وہ یزید بن ابی حبیب سے وہ سعد بن سنان سے اور وہ حضرت انسؓ بن مالک سے روایت کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں میں نے امام بخاری سے سنا کہ صحیح نام۔ ”سنان بن سعد“ ہے۔ آپ ﷺ کا فرمان کہ ”زکوٰۃ میں زیادتی کرنے والا زکوٰۃ نہ دینے والے کی طرح ہے“ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر بھی اتنا ہی گناہ ہے جتنا زکوٰۃ ادا کرنے والے پر ہے۔

باب ۴۴۷۔ زکوٰۃ لینے والے کو راضی کرنا

باب ۴۴۷۔ مَا جَاءَ فِي رِضَى الْمُصَدِّقِ

۵۵۸۔ حضرت جریرؓ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب تمہارے پاس زکوٰۃ کا عامل آئے تو اسے خوش کر کے بھیجا کرو۔

۵۵۸۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُزِيدٍ عَنْ
مَجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا آتَاكُمْ الْمُصَدِّقُ فَلَا
يُفَارِقَنَّكُمْ إِلَّا عَنْ رِضَى

ابوعمار، سفیان سے وہ داؤد سے وہ شععی سے وہ جریر سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں داؤد کی شععی سے مروی حدیث مجالد کی حدیث سے صحیح ہے۔ مجالد کو بعض علماء ضعیف کہتے ہیں اور وہ کثیر الغلط ہیں۔

باب ۴۴۸۔ مَا جَاءَ أَلِ الصَّدَقَةِ تُوْحَدُ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ فَتُرَدُّ عَلَى الْفُقَرَاءِ
۵۵۹۔ حدثنا علي بن سعيد الكندي نا حفص بن غياث عن أشعث عن عَوْنِ بْنِ جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَعْيَانِنَا فَجَعَلَهَا فِي فُقَرَاءِ نَا وَكُنْتُ غَلَامًا يَتِيمًا فَأَعْطَانِي مِنْهَا قَلُوصًا

۵۵۹۔ عون بن ابی حنیفہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ہمارے پاس آنحضرت ﷺ کا عامل زکوٰۃ آیا اور مالداروں سے زکوٰۃ وصول کرنے کے بعد ہمارے غریبوں میں تقسیم کر دی۔ میں اس وقت یتیم اور کسن تھا۔ چنانچہ اس نے مجھے بھی ایک اونٹنی دی۔

۵۵۹۔ حدثنا علي بن سعيد الكندي نا حفص بن غياث عن أشعث عن عَوْنِ بْنِ جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَعْيَانِنَا فَجَعَلَهَا فِي فُقَرَاءِ نَا وَكُنْتُ غَلَامًا يَتِيمًا فَأَعْطَانِي مِنْهَا قَلُوصًا

اس باب میں ابن عباس سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی ابن حنیفہ کی حدیث کو حسن غریب کہتے ہیں۔

باب ۴۴۹۔ جس کیلئے زکوٰۃ لینا جائز ہے۔

باب ۴۴۹۔ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الزَّكْوَةُ

۵۶۰۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جو شخص کفایت کے بقدر مال موجود ہونے کے باوجود لوگوں سے سوال کرتا ہے قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس سوال کی وجہ سے اس کا منہ چھلا ہر گھمگاہ سے پوچھا گیا: کفایت کے بقدر مال مال کتنا ہوتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: پچاس درہم یا اتنی قیمت کا سونا۔ راوی کو شک ہے کہ آپ ﷺ نے ”خموش، کدوچ یا خدوش“ میں سے کوئی لفظ فرمایا۔ (تینوں کے معنی ایک ہی ہیں)

۵۶۰۔ حدثنا قتيبة وعلی بن حجر قال قتيبة حدثنا شريك وقال علی انا شريك المعنى واحد عن حكيم بن جبیر عن محمد بن عبد الرحمان بن يزيد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسئلته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوخ قيل يا رسول الله وما يغنيه قال خمسون درهما أو قيمتها من الذهب

اس باب میں عبداللہ بن عمر سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث حسن ہے۔ شعبہ نے حکیم بن جبیر پر اس حدیث کی وجہ سے کلام کیا ہے۔ محمود بن غیلان، یحییٰ بن آدم سے وہ سفیان سے اور وہ حکیم بن جبیر سے اسی حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ اس پر شعبہ کے ساتھی عبداللہ بن عثمان نے سفیان سے کہا کاش کہ شعبہ کے علاوہ کسی اور نے یہ حدیث روایت کی ہوتی۔ سفیان نے کہا: حکیم کو کیا ہے؟ کیا شعبہ ان سے روایت نہیں کرتے؟ کہنے لگے ہاں: سفیان کہنے لگے میں نے زبید کو بھی محمد بن عبدالرحمن بن یزید کے حوالے سے یہی بات کہتے ہوئے سنا ہے۔ اسی پر ہمارے بعض علماء کا عمل ہے۔ اور یہی ثوری، عبداللہ بن مبارک، احمد اور اسحاق کا بھی قول ہے کہ اگر کسی کے پاس پچاس درہم ہوں تو اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں لیکن بعض علماء حکیم بن جبیر کی حدیث کو حجت تسلیم نہیں کرتے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر کسی کے پاس پچاس یا اس سے زیادہ درہم بھی ہوں تو بھی اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ بشرطیکہ وہ محتاج ہو۔ یہ شافعی اور دوسرے علماء و فقہاء کا قول ہے۔

باب ۴۵۰۔ مَا جَاءَ مَنْ لَا تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ

۵۶۱۔ حدثنا محمد بن بشار ونا داؤد الطيالسي
نا سفيان ح وثنا محمود بن غيلان نا عبدالرزاق نا
سفيان عن سعد بن ابراهيم بن يزيد عن عبد الله بن
عمرو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ

باب ۳۵۰۔ جس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں۔

۵۶۱۔ حضرت عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: کسی
امیر اور تندرست وقوی شخص کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں۔

اس باب میں حبشی بن جنادہ، ابو ہریرہ اور قبیصہ بن مخارق سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے اسے شعبہ
بھی سعد بن ابراہیم کے حوالے سے اسی سند سے غیر مرفوع روایت کرتے ہیں۔ اس حدیث کے علاوہ بھی آپ ﷺ سے مروی ہے کہ امیر،
تندرست اور قوی شخص کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص قوی ہونے کے باوجود محتاج ہو اور اس کے پاس کچھ نہ ہو تو اس
صورت میں اسے زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ علماء کے نزدیک ادا ہو جائے گی۔ چنانچہ ان علماء کے نزدیک اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ
ایسے شخص کو سوال کرنا جائز نہیں۔

۵۶۲۔ حدثنا علی بن سعید الكندي نا عبدالرحيم
بن سليمان عن مجالد عن عامر عن حبشي بن
جنادة السلولي قال سمعت رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم في حجة الوداع وهو واقف يعرفه
أتاه أعرابي فأخذ بطرف رداءه فسأله إياه فأعطاه
وذهب فعند ذلك حرمت المسألة فقال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم إن المسألة لا تحل لغيري
ولا لذي مِرَّةٍ سَوِيٍّ إِلَّا لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ أَوْ عُرْمٍ
مُفْطِعٍ وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِتُفْرِى بِهِ مَالَهُ كَانَ حَمُوشًا
فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرِضْفًا يَأْكُلُهُ مِنْ جَهَنَّمَ فَمَنْ
شَاءَ فَلْيَقُلْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْثِرْ

۵۶۲۔ حبشی بن جنادہ سلولی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ حجۃ الوداع
کے موقع پر عرفات میں کھڑے تھے کہ ایک اعرابی نے آکر آپ ﷺ کی
چادر کا کونہ پکڑ کر سوال کیا آپ ﷺ نے اسے کچھ دیا تو وہ چلا گیا۔ سوال
کرنا اسی وقت حرام ہوا چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا: امیر اور تندرست
وقوی شخص کے لیے سوال کرنا جائز نہیں۔ ہاں اگر کوئی فقیر یا سخت
حاجت مند ہو تو اس کے لیے جائز ہے۔ اور جو شخص مال بڑھانے کے
لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے قیامت کے دن اس کا منہ چھلا ہوا ہوگا۔
ایسا شخص جہنم کے گرم پتھروں سے بھنا ہوا گوشت کھاتا ہے جو چاہے کم
کھائے اور جو چاہے زیادہ۔

محمود بن غیلان، یحییٰ بن آدم سے اور وہ عبدالرحیم بن سلیمان سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث
اس سند سے غریب ہے۔

باب ۳۵۱۔ مقروض وغیرہ کا زکوٰۃ لینا جائز ہے۔

باب ۴۵۱۔ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ مِنَ الْغَارِمِينَ
وَعَبْرِهِمْ

۵۶۳۔ حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ کے زمانے میں
ایک شخص نے پھل خریدے۔ اسے ان میں اتنا نقصان ہوا کہ وہ

۵۶۳۔ حدثنا قتيبة نا الليث عن بكير بن عبدالله
بن الاشج عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد

مقروض ہو گیا۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اسے صدقہ دو لیکن لوگوں کے صدقہ دینے کے باوجود اس کا قرض ادا نہ ہو سکا تو آپ ﷺ نے قرض خواہوں سے فرمایا: جو تمہیں مل جائے لے لو اس کے علاوہ کچھ نہیں۔

دَالْحُدْرِيِّ قَالَ أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُرْمَانَ خَدُوْا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ

اس باب میں عائشہؓ، جویریہؓ اور انسؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۴۵۲۔ آنحضرت ﷺ، آپ ﷺ کے اہل بیت اور غلاموں کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں۔

باب ۴۵۲۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّدَقَةِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَمَوَالِيهِ

۵۶۴۔ بہز بن حکیم اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی خدمت اقدس میں اگر کوئی چیز پیش کی جاتی تو پوچھتے: یہ صدقہ ہے یا ہدیہ؟ اگر کہتے کہ صدقہ ہے تو آپ نہ کھاتے اور اگر ہدیہ ہوتا تو کھا لیتے۔

۵۶۴۔ حَدَّثَنَا بِنْدَارٌ نَا مَكِي ابْنِ اِبْرَاهِيمَ وَ يَوْسُفُ بْنُ سَعِيدِ الضَّبْعِيِّ قَالَا نَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آتَى بِشَيْءٍ سَأَلَ أَصْدَقَةَ هِيَ أَمْ هَدِيَّةٌ فَإِنْ قَالُوا صَدَقَةٌ لَمْ يَأْكُلْ وَإِنْ قَالُوا هَدِيَّةً أَكَلَ

اس باب میں ابو ہریرہؓ، سلمانؓ، انسؓ، حسن بن علیؓ، ابو عمیرہؓ معرف بن واصل کے دادا رشید بن مالکؓ، میمونؓ، مہرانؓ، ابن عباسؓ، عبداللہ بن عمروؓ، ابورافعؓ اور عبدالرحمن بن علقمہ سے بھی روایت ہے یہ حدیث عبدالرحمن بن علقمہ بھی عبدالرحمن بن ابوعقیل سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے روایت کرتے ہیں: بہز بن حکیم کے دادا کانام معاویہ بن حیدہ القشیری ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: بہز بن حکیم کی حدیث حسن غریب ہے۔

۵۶۵۔ حضرت ابورافعؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے بنو مخزوم کے ایک شخص کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا انہوں نے ابورافع سے کہا: تم بھی میرے ساتھ چلو تا کہ تمہیں بھی حصہ دوں۔ ابورافع نے کہا: میں آپ ﷺ سے پوچھ بغیر تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ چنانچہ وہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا تو آپ ﷺ نے فرمایا: زکوٰۃ ہمارے لیے حلال نہیں اور کسی قوم کے غلام بھی انہی میں سے ہوتے ہیں۔ (یعنی جس قوم کے لیے یہ جائز نہیں ان کے غلاموں کے لیے بھی جائز نہیں کیوں کہ وہ انہی میں سے ہیں۔)

۵۶۵۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ نَا شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ أَصْحَابِي كَيْمَا تُصِيبُ مِنْهَا فَقَالَ لَا حَتَّى آتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْأَلَهُ فَاَنْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِنْ الصَّدَقَةَ لَا تَجِلُّ لَنَا وَإِنْ مَوَالِي الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابورافعؓ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے آزاد کردہ غلام ہیں ان کا نام اسلم ہے۔ اور ابن ابی رافعؓ، عبید اللہ بن ابی رافعؓ ہیں یہ علی بن ابی طالب کے کاتب ہیں۔

باب ۴۵۳۔ عزیز و اقارب کو زکوٰۃ دینا۔

باب ۴۵۳۔ مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الْقُرَابَةِ

۵۶۶۔ سلمان بن عامر کہتے ہیں کہ آنحضرت (ﷺ) نے فرمایا: اگر تم میں سے کوئی روزہ کھولے تو کھجور سے کھولے کیوں کہ یہ برکت کا باعث ہے اور اگر کھجور نہ ہو تو پانی سے کھولے کیوں کہ یہ پاک کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا: مسکین کو زکوٰۃ دینے پر ایک مرتبہ زکوٰۃ دینے کا اور اقرباء کو زکوٰۃ دینے پر دو مرتبہ صدقے کا ثواب ہے، ایک مرتبہ صدقے کا اور دوسری مرتبہ صلہ رحمی کا۔

۵۶۶۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا سَفِيَانَ بْنَ عِيْنَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سَيْرِيْنَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ عَمَّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ يُبَلِّغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَيَّ تَمْرًا فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا فَالْمَاءَ فَإِنَّهُ طَهُورٌ وَقَالَ الصَّدَقَةُ عَلَيَّ الْمَسْكِيْنَ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَيَّ ذِي الرَّحْمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصَلَةٌ

اس باب میں جاہل زہیب اور ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے۔ زہیب، عبد اللہ بن مسعود کی بیوی ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ رباب، رباح کی والدہ اور صلح کی بیٹی ہیں۔ اسی طرح سفیان ثوری بھی، عاصم سے وہ حفصہ بنت سیرین سے وہ رباب سے وہ اپنے چچا سلمان بن عامر سے اور وہ آنحضرت (ﷺ) سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ شعبہ، عاصم سے وہ حفصہ بنت سیرین سے اور وہ سلمان بن سیرین سے روایت کرتی ہیں اور رباب کا ذکر نہیں کرتیں۔ سفیان اور ابن عیینہ کی حدیث اصح ہے۔ اسی طرح ابن عون اور ہشام بن حسان بھی حفصہ بنت سیرین سے وہ رباب سے اور وہ سلمان بن عامر سے روایت کرتے ہیں۔

باب ۴۵۴۔ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ حق ہوتا ہے۔

باب ۴۵۴۔ مَا جَاءَ أَنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكْوَةِ

۵۶۷۔ حضرت فاطمہ بنت قیسؓ فرماتی ہیں میں نے یا کسی نے آنحضرت (ﷺ) سے زکوٰۃ کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا: مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ حق ہے پھر آپ (ﷺ) نے سورہ بقرہ کی یہ آیت تلاوت فرمائی ”لیس البران تو لوا وجوهکم“ الآیۃ۔ (ترجمہ: سارا کمال اسی میں نہیں کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو۔ کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور اللہ کی محبت میں رشتہ داروں، قبیہوں، محتاجوں، مسافروں، سوال کرنے والے (فقیروں) اور غلاموں کو آزاد کرانے کیلئے مال خرچ کرے..... الخ۔ سورہ البقرہ آیت ۱۷۷)۔

۵۶۷۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَدْوِيَهٍ نَا الْإِسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ

عَنْ شَرِيكِ عَنْ ابْنِ حَمْزَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ فَاطِمَةَ ابْنَةِ قَيْسٍ قَالَتْ سَأَلْتُ أَوْسُقِلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الزَّكْوَةِ فَقَالَ إِنَّ فِي الْمَالِ لِحَقًّا سِوَى الزَّكْوَةِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي الْبَقْرَةِ لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ الْآيَةَ

۵۶۸۔ عامر، فاطمہ بنت قیس سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت (ﷺ) نے فرمایا: مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ حق ہے۔

۵۶۸۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَا مُحَمَّدُ بْنُ

الطَّيْلِ عَنْ شَرِيكِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكْوَةِ

امام ترمذی کہتے ہیں: اس کی سند قوی نہیں۔ ابو حمزہ میمون اور ضعیف ہیں۔ بیان اور اسماعیل بن سالم اسے شععی سے انہی کا قول روایت کرتے ہیں۔ یہی اصح ہے۔

باب ۴۵۵۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّدَقَةِ

باب ۳۵۵۔ زکوٰۃ ادا کرنے کی فضیلت

۵۶۹۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا اللَّيْثُ بِنِ سَعْدِ عَنِ سَعِيْدِ الْمَقْبَرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ اَنْهُ سَمِعَ اَبَاهُ رِيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصَدَّقَ اَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللّٰهُ اِلَّا الطَّيِّبَ اِلَّا اَخَذَهَا الرَّحْمٰنُ بِيَمِيْنِهِ وَ اِنْ كَانَتْ تَمْرَةً تَرَبُّوا فِي كَفِّ الرَّحْمٰنِ حَتّٰى تَكُوْنَ اَعْظَمَ مِنَ الْحَبْلِ كَمَا يَرِيْبِيْ اَحَدَكُمْ قَلْوَةٌ اَوْ فَصِيْلَةٌ

۵۶۹۔ سعید بن یسار، حضرت ابو ہریرہؓ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: کوئی شخص جب اپنے حلال مال میں سے زکوٰۃ دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ حلال مال ہی قبول کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس مال کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں گو کہ وہ ایک گھجور ہی کیوں نہ ہو۔ پھر وہ رحمن کے ہاتھ میں بڑھنے لگتا ہے یہاں تک کہ پہاڑ سے بھی بڑا ہو جاتا ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے یا گائے کے کچھڑے کی پرورش کرتا ہے۔

اس باب میں عائشہؓ، عدی بن حاتمؓ، انسؓ، عبداللہ بن ابی اوفیؓ، حارث بن وہبؓ، عبدالرحمن بن عوفؓ اور بریدہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔

۵۷۰۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنِ اسْمَاعِيْلَ نَا مُوسَى بِنِ اسْمَعِيْلَ نَا صَدَقَةَ بِنِ مُوسَى عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ سُوِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ الصَّوْمِ اَفْضَلُ بَعْدَ رَمَضَانَ قَالَ شَعْبَانَ لِتَعْظِيْمِ رَمَضَانَ قَالَ شَعْبَانَ لِتَعْظِيْمِ رَمَضَانَ قَالَ فَاَيُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ قَالَ صَدَقَةٌ فِي رَمَضَانَ

۵۷۰۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ سے سوال کیا گیا۔ رمضان کے بعد کون سا روزہ افضل ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کے روزے۔ پوچھا گیا کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا: رمضان میں کیا جانے والا۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے۔ صدقہ بن موسیٰ محدثین کے نزدیک قوی نہیں۔

۵۷۱۔ حَدَّثَنَا عَقِيْبَةُ بِنِ مَكْرَمِ الْبَصْرِيِّ نَا عَبْدِ اللّٰهِ بِنِ عِيْسَى الْخَزَّازِ عَنْ يُوْنُسَ بِنِ عِيْيَدِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الصَّدَقَةَ لِتَطْفِيْ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ مِيْتَةَ السُّوْءِ

۵۷۱۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو بجھاتا اور بری موت کو دور کرتا ہے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔

۵۷۲۔ حَدَّثَنَا اَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بِنِ الْعَلَاءِ نَا وَ كَيْعِ نَا عِبَادِ بِنِ مَنْصُوْرٍ نَا الْقَاسِمِ بِنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ وَ يَأْخُذُهَا بِيَمِيْنِهِ فَيَرِيْبُهَا لِاَحَدِكُمْ كَمَا يَرِيْبِيْ اَحَدَكُمْ مَهْرَةً حَتّٰى اَنْ اللُّقْمَةَ لِتَصِيْرُ مِثْلَ

۵۷۲۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ صدقے کو قبول کرتے اور اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر اس کی پرورش کرتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک لقمہ بڑھتے بڑھتے اُحد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے اس کی دلیل قرآن کریم کی یہ آیت ہے۔ ”وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ

أَحَدٌ وَتَصَدِّقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ التَّوْبَةَ..... الخ“، یعنی وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ - صدقات لیتا، سود کو مٹاتا اور صدقات کی پرورش کرتا (اور انہیں بڑھاتا) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ہے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت عائشہؓ سے بھی نبی اکرم ﷺ سے اسی کے مثل منقول ہے کئی علماء اس اور اس جیسی احادیث جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات مذکور ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ہررات کو دنیا کے آسمان پر اترنا وغیرہ۔ علماء کہتے ہیں: ان (کے متعلق) روایات ثابت ہیں، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں اور وہ ہم میں مبتلا نہیں ہوتے۔ چنانچہ یہ نہیں کہا جاتا: کہ کیسے؟ اس کی کیفیت کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح مالک بن انس، سفیان بن عیینہ اور عبد اللہ بن مبارک کا بھی یہی کہنا ہے کہ ان احادیث پر صفات کی کیفیت جانے بغیر ایمان لانا ضروری ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہی قول ہے۔ لیکن جہمہ ان روایات کا انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تشبیہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ اپنے ہاتھ، سماعت، اور بصیرت کا ذکر ہے۔ جہمہ ان آیات کی تاویل کرتے ہوئے ایسی تفسیر کرتے ہیں جو علماء نے نہیں کی۔ ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے پیدا نہیں کیا۔ چنانچہ ان کے نزدیک ہاتھ کے معنی قوت کے ہیں۔ اسحاق بن ابراہیم کہتے ہیں کہ تشبیہ تو اس صورت میں ہے کہ یہ کہا جائے کہ اس کا ہاتھ کسی ہاتھ جیسا یا کسی کے ہاتھ کے مثل ہے۔ یا اس کی سماعت، کسی سماعت سے مماثلت رکھتی ہے۔ پس اگر کہا جائے کہ اس کی سماعت فلاں کی سی ہے۔ تو یہ تشبیہ ہے لہذا اگر وہی کہے جو اللہ نے کہا ہے کہ: ہاتھ، سماعت، بصر۔ اور یہ نہ کہے کہ اس کی کیفیت کیا ہے یا اس کی سماعت فلاں کی سماعت کی طرح ہے تو یہ تشبیہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات اسی طرح ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے وصف میں فرمادیا ہے کہ ”لیس کمثلہ شیء“ وھو السمع البصیر“ کوئی چیز اس سے مماثلت نہیں رکھتی (وہ تشبیہ سے پاک ہے) اور سننے والا بھی ہے اور دیکھتا بھی۔

باب ۴۵۶۔ سائل کے حق سے متعلق

باب ۴۵۶۔ مَا جَاءَ فِي حَقِّ السَّائِلِ

۵۷۳۔ عبد الرحمن بن بجد اپنی دادی ام بجد سے۔ جو ان عورتوں میں سے ہیں جنہوں نے رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی تھی۔ نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! کئی مرتبہ فقیر دروازے پر آکر کھڑا ہوتا ہے اور گھر میں اسے دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آپ ﷺ نے فرمایا اگر تم جلے ہوئے کھر کے علاوہ اسے دینے کے لیے گھر میں کوئی چیز نہ پاؤ تو وہی اسے دے دو۔

۵۷۳۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَجِيدٍ عَنْ جَدِّتِهِ أُمِّ بَجِيدٍ وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَسْكِينِ لَيَقُومُ عَلَيَّ بَابِي فَمَا أَجِدُ لَهُ شَيْئًا أُعْطِيهِ إِيَّاهُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَمْ تَجْرِي لَهُ شَيْئًا تُعْطِيهِ إِيَّاهُ إِلَّا ظَلَمًا مُحَرَّقًا فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ فِي يَدِهِ

اس باب میں علیؓ، حسین بن علیؓ، ابو ہریرہؓ اور ابو امامہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ام بجد کی حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۴۵۷۔ جن کا دل جیتتا منظور ہو ان کو دینا۔

باب ۴۵۷۔ مَا جَاءَ فِي إِعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ

۵۷۴۔ صفوان بن امیہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے غزوہ حنین کے موقع پر مجھے کچھ (مال) دیا۔ اس وقت آپ ﷺ میرے لیے ساری مخلوق سے برے تھے۔ پھر آپ ﷺ مجھے کچھ نہ کچھ دیتے رہے یہاں تک کہ وہ اب میرے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ محبوب ہیں۔

۵۷۴۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ نَاحِيَةَ بَنِي إِدْمَانَ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ زُهَيْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَأَنَّهُ

لَا بَعْضُ الْخَلْقِ إِلَيَّ فَمَا زَالَ يُعْطِينِي حَتَّىٰ أَنَّهُ لَا حَبَّ
الْخَلْقِ إِلَيَّ

امام ترمذی کہتے ہیں: حسن بن علیؑ نے بھی اسی طرح یا اسی کے مثل روایت کی ہے۔ اس باب میں ابو سعید سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں: صفوان کی حدیث کو عمرو وغیرہ زہری سے بحوالہ سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ صفوان نے کہا: آنحضرت ﷺ نے مجھے دیا..... الخ گویا کہ یہ حدیث اصح اور اشہب ہے۔ اہل علم کا دل جیتنے کے لیے مال دینے کے متعلق اختلاف ہے اکثر علماء کا کہنا ہے کہ انہیں دینا ضروری نہیں، یہ آنحضرت ﷺ کے زمانے میں ایک مخصوص جماعت تھی۔ آپ ﷺ نے ان کے دلوں کی مسلمان ہونے کے لیے تالیف فرماتے تھے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس دور میں اس مد میں دینا جائز نہیں۔ یہ سفیان ثوری اور اہل کوفہ وغیرہ کا قول ہے۔ احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں۔ اس دور میں بھی اگر کچھ لوگ ایسے ہوں جن کے متعلق امام کا خیال ہو کہ ان کے دلوں کی تالیف کی جائے تو اس صورت میں انہیں دینا جائز ہے۔ یہ امام شافعی کا قول ہے۔

باب ۴۵۸۔ مَا جَاءَ فِي الْمُتَصَدِّقِ يَرِثُ صَدَقَتَهُ

۵۷۵۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ نَا عَلِيَّ بْنَ مَسْهَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَىٰ أُمِّي بِحَارِيبَةٍ وَ أَنَّهَا مَاتَتْ قَالَ وَحَبَّ أَجْرُكَ وَرَدَّهَا عَلَيْكَ الْمِيرَاثُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمٌ شَهْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا قَالَ صُومِي عَنْهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا

باب ۴۵۸۔ جسے زکوٰۃ میں دیا ہو مال وراثت میں ملے۔

۵۷۵۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: میں آنحضرت ﷺ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک عورت آئی اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں نے اپنی والدہ کو زکوٰۃ میں ایک لوٹھی دی تھی اور اب میری والدہ فوت ہو گئی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تمہیں تمہارا اجر مل گیا اور اسے میراث نے تمہاری طرف لوٹا دیا اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! میری والدہ پر ایک ماہ کے روزے بھی قضا تھے کیا میں ان کے بدلے میں روزے رکھ لوں؟ فرمایا: ہاں رکھ لو۔ پھر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! انہوں نے حج بھی نہیں کیا تھا کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ فرمایا: ہاں کر لو۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور بریدہ کی حدیث سے اس سند کے علاوہ نہیں پہچانی جاتی عبداللہ بن عطاء محدثین کے نزدیک ثقہ ہیں اکثر علماء کا عمل اسی پر ہے کہ اگر کسی شخص نے زکوٰۃ کے طور پر کوئی چیز ادا کی اور پھر وراثت میں اسے وہی چیز مل گئی تو وہ اس کے لیے حلال ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ایسی چیز ہے جسے اس نے اللہ کے لیے مخصوص کر دیا ہے لہذا اگر وہ وراثت کے ذریعے دوبارہ اس کے پاس آجائے تو اس کا خدا کی راہ میں خرچ کرنا واجب ہے۔ سفیان ثوری اور زہری بن معاویہ یہ حدیث عبداللہ بن عطاء سے روایت کرتے ہیں۔

باب ۴۵۹۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْعُودِ فِي الصَّدَقَةِ

۵۷۶۔ حَدَّثَنَا هَارُونَ بْنُ اسْحَقَ الْهَمْدَانِيُّ نَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ حَمَلَ عَلِيًّا فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ

باب ۴۵۹۔ صدقہ کرنے کے بعد اسے واپس لوٹانا مکروہ ہے۔

۵۷۶۔ حضرت عمرؓ نے ایک گھوڑا اللہ کی راہ میں صدقہ دیا۔ پھر اسی گھوڑے کو بیکتے ہوئے دیکھا تو اسے خریدنے کا ارادہ کیا چنانچہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اپنی صدقہ کی ہوئی چیز کو نہ لوٹاؤ۔

رَاهَا تُبَاعُ فَازَادَ أَنْ يَشْتَرِيهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعُدُّ فِي صَدَقَتِكَ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر اکثر اہل علم کا عمل ہے۔

باب ۶۶۰۔ مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ

باب ۳۶۰۔ میت کی طرف سے صدقہ دینا

۵۷۷۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا رُوحَ بْنَ عَبَادَةَ نَا

۵۷۷۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ

زَكَرِيَّا بْنُ اسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنِ

میری والدہ فوت ہو گئی ہیں۔ اگر میں ان کی طرف سے صدقہ

عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ

دوں تو کیا انہیں اس کا فائدہ ہوگا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں۔ اس شخص

أُمِّي تُوَفِّيتُ أَقْبِنُفَعَهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ

نے کہا: میرے پاس ایک باغ ہے اور میں آپ ﷺ کو گواہ کرتا ہوں کہ

فَإِنْ لِي مَخْرَفًا فَاشْهَدْكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهَا عَنْهَا

میں نے یہ باغ اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ میں دے دیا۔

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن ہے۔ علماء یہی کہتے ہیں کہ میت کو دعاء اور صدقہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں پہنچتی بعض راوی اس

حدیث کو عمرو بن دینار سے بحوالہ عمر مرسلاً آنحضرت ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ مخرف کے معنی باغ کے ہیں۔

باب ۶۶۱۔ مَا جَاءَ فِي نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا

باب ۳۶۱۔ بیوی کا شوہر کے گھر سے چرخ کرنا۔

۵۷۸۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيَّاشٍ نَا شَرْحِبِيلَ

۵۷۸۔ حضرت ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں میں نے آنحضرت ﷺ کو حجۃ

بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ عَنِ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ

الوداع کے سال خطبہ دیتے ہوئے سنا کہ: کوئی عورت اپنے شوہر کے

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي

گھر سے اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز خرچ نہ کرے۔ آپ ﷺ سے

خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوُدَاعِ لَا تَنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ

پوچھا گیا: کیا کسی کو کھانا بھی نہ دے؟ فرمایا: یہ تو ہمارے مالوں میں سے

بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا

افضل ترین ہے۔

الطَّعَامَ قَالَ ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا

اس باب میں سعد بن وقاصؓ، اسماء بنت ابی بکرؓ، ابو ہریرہؓ، عبداللہ بن عمروؓ اور عائشہؓ سے مروی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو امامہؓ کی

حدیث حسن ہے۔

۵۷۹۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَا مُحَمَّدُ بْنُ

۵۷۹۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی

جَعْفَرُ نَا شُعْبَةَ عَنِ عَمْرُو بْنِ مَرَّةٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا

عورت اپنے شوہر کے مال سے خیرات کرنے تو اسے، اس کے شوہر اور

وَإِبِلَ يُحَدِّثُ عَنِ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

خازن سب کو ثواب ملتا ہے۔ اور کسی ایک کو اجر ملنے سے کسی دوسرے کا

وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا

اجر کم نہیں ہوتا۔ شوہر کے لیے کما کر لانے اور بیوی کے لیے اس کو خرچ

كَانَ لَهَا بِهِ أَجْرٌ وَلِلزَّوْجِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ

کرنے کا ثواب ہے۔

ذَلِكَ وَلَا يَنْقُصُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ

شَيْئًا لَهُ بِمَا كَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔

۵۸۰۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جب کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر سے خوشی کے ساتھ، فساد کی نیت کے بغیر خیرات دیتی ہے تو اسے بھی شوہر کی طرح ثواب ملتا ہے۔ اس کے لیے اس کی نیک نیتی کا ثواب ہے اور اسی طرح خازن کو بھی۔

۵۸۰۔ حدثنا محمود بن غیلان نا المؤمل عن سفیان عن منصور عن ابی وائل عن مسروق عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أعطت المرأة من بيت زوجها بطيب نفس غير مُفسدة فإن لها مثل أجره لها ما نوت حسناً وللخازن مثل ذلك

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح اور عمرو بن مرہ کی حدیث سے صحیح ہے۔ عمرو بن مرہ اپنی روایت میں مسروق کا ذکر نہیں کرتے۔

باب ۳۶۲۔ صدقہ فطر کے متعلق۔

باب ۴۶۲۔ ما جاء في صدقة الفطر

۵۸۱۔ حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی موجودگی میں ہم صدقہ فطر ایک صاع غلہ، ایک صاع جو، ایک صاع کھجور، ایک صاع خشک انگور یا ایک صاع پنیر سے دیا کرتے تھے۔ پھر ہم اسی طرح صدقہ فطر ادا کرتے رہے۔ یہاں تک کہ معاویہؓ مدینہ آئے اور خطاب کرتے ہوئے فرمایا: میرے خیال میں گیہوں کے دو شامی مڈ اور ایک صاع کھجور کے برابر ہیں۔ اس پر لوگوں نے اسی کو اختیار کر لیا۔ ابوسعیدؓ فرماتے ہیں: میں اسی طرح دیتا رہا جس طرح پہلے دیا کرتا تھا۔

۵۸۱۔ حدثنا محمود بن غیلان نا وکیع عن سفیان عن زید بن اسلم عن عیاض بن عبد الله عن ابی سعید بن الخدری قال کُنَّا نُخْرِجُ زَكْوَةَ الْفِطْرِ إِذَا كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجْهُ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ فَتَكَلَّمْنَا فَمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ إِنِّي لَأَرَى مَدِينٍ مِنْ سَمَرَاءَ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ قَالَ فَاتَّخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَلَا أَرَأَى أَنْ أُخْرِجَهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر بعض علماء کا عمل ہے کہ ہر چیز سے ایک صاع صدقہ فطر ادا کیا جائے شامی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے جب کہ بعض صحابہ وغیرہ کا کہنا ہے کہ ہر چیز سے ایک صاع لیکن گیہوں کا نصف صاع ہی کافی ہے۔ یہ سفیان ثوری، ابن مبارک اور اہل کوفہ کا بھی قول ہے کہ گیہوں کا نصف صاع صدقہ فطر میں دیا جائے۔

۵۸۲۔ عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے مکہ کی گلیوں میں ایک منادی کو یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ صدقہ فطر ہر مسلمان مرد و عورت، غلام و آزاد اور چھوٹے بڑے پر واجب ہے۔ (اس کی مقدار) دو مد گیہوں یا اس کے علاوہ کسی بھی غلے سے ایک صاع ہے۔

۵۸۲۔ حدثنا عقبه بن مكرم البصرى نا سالم بن نوح عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث منادياً في فجاج مكة ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكراً أو أنثى حراً أو عبداً صغيراً أو كبيراً ممدان من قمح أو سواه صاع من طعام

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے۔

أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحُلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ

۵۸۷۔ حدثنا القاسم بن دينار الكوفي نا اسحق بن منصور عن اسراييل عن الحجاج بن دينار عن النخكم بن حجل عن حجر العدوي عن علي بن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعُمَرَ إِنَّا قَدْ أَخَذْنَا زَكَاةَ الْعَبَّاسِ عَامَ الْأَوَّلِ لِلْعَامِ

۵۸۷۔ حضرت علیؑ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے عمرؓ سے فرمایا: ہم عباسؓ سے گزشتہ سال اس سال کی بھی زکوٰۃ لے چکے ہیں۔

اس باب میں ابن عباسؓ سے بھی روایت ہے۔ زکوٰۃ میں تعجیل سے متعلق اسراييل کی حجاج بن دينار سے مروی حدیث کو میں اس سند کے علاوہ نہیں جانتا۔ اور میرے نزدیک اسماعیل بن زکریا کی حجاج سے مروی حدیث اسراييل کی حجاج سے مروی حدیث سے اسح ہے اور یہ حدیث حکم بن عتیہ کے حوالے سے آنحضرت ﷺ سے مرسل بھی مروی ہے۔ علماء کا وقت سے پہلے زکوٰۃ کی ادائیگی میں اختلاف ہے علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ زکوٰۃ وقت سے پہلے ادا نہ کی جائے۔ سفیان ثوری کا بھی یہی قول ہے کہ میرے نزدیک اس میں تعجیل بہتر نہیں۔ لیکن اکثر علماء کے نزدیک وقت سے پہلے زکوٰۃ ادا کرنے سے ادا ہو جاتی ہے۔ یہ شافعی، احمد اور اسحاق کا قول ہے۔

۵۸۸۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا: اگر کوئی شخص صبح نکلے اور اپنی پیٹھ پر لکڑیاں لے کر واپس ہو پھر اس میں سے صدقہ کرے اور لوگوں سے سوال کرنے سے بے نیاز رہے اس سے بہتر ہے کہ کوئی شخص کسی سے سوال کرے پھر وہ اسے دے یا نہ دے۔ اس لیے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اور خرچ کرنا ان سے شروع کرو جن کی کفالت تمہارے ذمے ہے۔

۵۸۸۔ حدثنا هنادنا ابوالاحوص عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ فَيُحْتَطَبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَتَصَدَّقَ مِنْهُ وَيَسْتَعْنَى بِهِ عَنِ النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْئَلَ رَجُلًا أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ فَإِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ

اس باب میں حکیم بن حزام، ابو سعید خدری، زبیر بن عوام، عطیہ سعدی، عبد اللہ بن مسعود، مسعود بن عمرو، ابن عباسؓ، ثوبانؓ زیاد بن حارث صدائی، انسؓ، حبشی بن جنادہ، قبیصہ بن مخارق، سمرہ اور ابن عمرؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح غریب ہے اور بیان کی قیس سے روایت کی وجہ سے غریب ہے۔

۵۸۹۔ حضرت سمرہ بن جندبؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: سوال کرنا اپنی آبرو کو خراب کرنا ہے اس سے سائل اپنے چہرے کو بے رونق اور وجاہت کو ختم کرتا ہے، ہاں البتہ سلطان سے سوال کرنے یا حاجت شدیدہ میں کسی سے سوال کرنے کی اجازت ہے۔

۵۸۹۔ حدثنا محمود بن غيلان نا وكيع نا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عنبه عن سمره بن جندب قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَسْئَلَةَ كَذَّ يَكْذِبُهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ إِلَّا أَنْ يَسْئَلَ الرَّجُلَ سُلْطَانًا أَوْ فُيْ أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

أَبْوَابُ الصَّوْمِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب ۴۶۵۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۵۹۰۔ حدثنا كريب محمد بن العلاء بن كريب نا ابو بكر بن عياش عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا كان اول ليلة من شهر رمضان صفت الشياطين ومردة الجن وعلفت ابواب النيران فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنة فلم يعلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر والله عتقاء من النار وذلك كل ليلة

اس باب میں عبدالرحمن بن عوف، ابن مسعود اور سلمان سے بھی روایت ہے۔

۵۹۱۔ حدثنا هنادنا نا عبدة والمحاربي عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان وقامه ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

روزوں کے متعلق آنحضرت ﷺ سے

منقول احادیث کے ابواب

باب ۳۶۵۔ رمضان کی فضیلت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۵۹۰۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن زنجیروں میں جکڑ کر دوزخ میں بند کر کے اس کے تمام دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور پھر اس کا کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ ہاں پھر جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ ایک منادی آواز لگاتا ہے اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے شر کے طالب ٹھہر جا۔ اور اللہ کی طرف سے بندے آگ سے آزاد کیے جاتے ہیں، یہ معاملہ ہر رات جاری رہتا ہے۔

۵۹۱۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جس نے رمضان میں روزے رکھے اور رات کو ایمان کے ساتھ، ثواب کے لیے نماز پڑھی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیئے گئے۔ اور جس شخص نے شب قدر میں ایمان کے ساتھ بہ نیت ثواب نماز پڑھی اس کے بھی پچھلے تمام گناہ معاف کر دیئے گئے۔

یہ حدیث صحیح ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو ہریرہؓ کی ابو بکر بن عیاش سے مروی حدیث غریب ہے ہم اسے ابو بکر بن عیاش کی روایت کے علاوہ نہیں جانتے۔ وہ اعمش سے وہ ابوصالح سے اور وہ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں۔ ہاں البتہ ابو بکر کی سند سے جانتے ہیں۔ میں نے امام بخاری سے پوچھا تو کہا: ہم سے حسن بن ربیع نے ان سے ابوالاحوص نے ان سے اعمش نے اور ان سے مجاہد نے آنحضرت ﷺ کا یہ قول روایت کیا ہے: اذا كان..... الخ۔ یعنی یہی حدیث۔ اور یہ میرے نزدیک ابو بکر عیاش کی حدیث سے صحیح ہے۔

باب ۳۶۶۔ رمضان کے استقبال کے لیے روزے نہ رکھو۔

باب ۴۶۶۔ مَا جَاءَ لَا تَقْدَمُوا الشَّهْرَ بِصَوْمٍ

۵۹۲۔ حدثنا ابو كريب، ناعبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين الا ان يوافق ذلك صوما

۵۹۲۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: رمضان سے ایک یا دو دن پہلے رمضان کے استقبال کی نیت سے روزے نہ رکھو ہاں البتہ کسی کے ایسے روزے جو وہ ہمیشہ سے رکھتا رہا ہے ان دنوں میں آجائیں (مثلاً جمعہ وغیرہ کو روزہ رکھنا) تو اس صورت میں رکھ لے

كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ صَوْمًا لِرُؤُوتِهِ وَأَفْطَرُوهُ لِرُؤُوتِهِ
فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ ثُمَّ أَفْطَرُوا

نیز رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد روزے رکھنا شروع کرو اور شوال کا
چاند دیکھ کر افطار کر لو اور اگر بادل ہو جائیں تو تیس دن پورے کرو۔

اس باب میں بعض صحابہ سے بھی روایت ہے۔ منصور بن معتمر، ربیع بن خراش سے اور وہ بعض صحابہ سے اسی کے مثل روایت کرتے
ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ابو ہریرہ کی حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر علماء کا عمل ہے کہ رمضان سے ایک دو دن پہلے اس کی تعظیم اور
استقبال کی نیت سے روزے رکھنا مکروہ ہے اور اگر کوئی ایسا دن آجائے جس میں وہ ہمیشہ روزہ رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

۵۹۳۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ أَبِي كَيْعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ
عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَا
تُقَدِّمُوا شَهْرَ رَمَضَانَ بِصِيَامٍ قَبْلَهُ يَوْمٌ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا
أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ

۵۹۳۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: رمضان
سے ایک یا دو دن پہلے روزے نہ رکھو لیکن اگر کوئی شخص مستقل کسی دن
کے روزے رکھتا ہو اور وہ شعبان کے آخری دنوں میں آجائیں تو روزہ
رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۴۶۷۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّوْمِ يَوْمَ الشُّكِّ

۵۹۴۔ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشْجَعِيُّ
أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
عَنْ صَلْبَةَ بِنْتِ زَيْدٍ قَالَتْ كُنَّا عِنْدَ عَمَارِ بْنِ يَاسِرٍ فَاتَتْ بِشَاةٍ
مَصْلِيَّةٍ فَقَالَ كُلُّوْا فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ إِنِّي
صَائِمٌ فَقَالَ عَمَّارٌ مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي شَكَّ فِيهِ فَقَدْ
عَضَى أبا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب ۴۶۷۔ شک کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے۔

۵۹۴۔ حضرت صلہ بن زفر فرماتے ہیں کہ ہم عمار بن یاسر کے پاس تھے
کہ ایک بھنی ہوئی بکری لائی گئی۔ عمار نے کہا: کھاؤ کچھ لوگ ایک طرف
ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم تو روزے سے ہیں۔ عمار نے فرمایا: جس نے
یوم الشک کو روزہ رکھا اس نے ابوقاسم (ﷺ) کی نافرمانی کی۔

اس باب میں ابو ہریرہ اور انس سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے اور اسی پر اکثر اہل علم کا عمل ہے۔ جن
میں صحابہ، تابعین وغیرہ شامل ہیں۔ سفیان ثوری اور مالک بن انس، عبداللہ بن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے کہ شک
کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے بعض حضرات یہاں تک کہتے ہیں کہ اس روز روزہ رکھ لیا پھر بعد میں معلوم ہوا کہ واقعی وہ رمضان کا دن تھا تو
اس کو روزے کی نفا کرتی پڑے گی وہ روزہ اس کے لیے کافی نہیں۔

باب ۴۶۸۔ مَا جَاءَ فِي إِحْصَاءِ هِلَالِ شَعْبَانَ
لِرَمَضَانَ

۵۹۵۔ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ حَجَّاجٍ نَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى
نَا أَبُو معاوية عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَحْصُوا هِلَالَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ

باب ۴۶۸۔ رمضان کے لیے شعبان کے ہلال کا خیال رکھنا۔

۵۹۵۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: رمضان
کے لیے شعبان کے ہلال کے دن گنتے رہو۔

۵۹۵۔ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ حَجَّاجٍ نَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى
نَا أَبُو معاوية عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَحْصُوا هِلَالَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ

امام ترمذی کہتے ہیں: حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث کو ہم ابو معاویہ کی اس سند کے علاوہ نہیں جانتے۔ اور صحیح وہی ہے جو محمد بن عمر سے بواسطہ ابوسلمہ مروی ہے۔ وہ ابو ہریرہؓ سے اور وہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزے نہ رکھو۔ یحییٰ بن کثیر سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ وہ ابوسلمہ سے اور وہ ابو ہریرہؓ سے محمد بن عمرو لیشی کی مانند روایت کرتے ہیں۔

باب ۴۶۹۔ مَا جَاءَ أَنَّ الصَّوْمَ لِرُؤْيَا الْهِلَالِ
باب ۴۶۹۔ روزہ رکھنا اور چھوڑنا چاند دیکھنے پر موقوف ہے۔
وَالْإِفْطَارَ لَهُ

۵۹۶۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ أَبِي أَحْوَصٍ عَنْ سَمَّاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ صُومُوا لِرُؤْيَا الْهِلَالِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَا الْهِلَالِ فَإِنْ حَالَتْ دُونَهُ عِيَابَةٌ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا

۵۹۶۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: کہ جب رمضان کا چاند نظر آجائے تو روزے رکھنا شروع کرو، اس سے پہلے روزے نہ رکھو۔ پھر اسی طرح افطار بھی (روزے رکھنا ترک) چاند دیکھ کر ہی کرو۔ اور اگر مطلع ابراؤد ہو جائے تو تیس دن پورے کرو۔

اس باب میں ابو ہریرہؓ، ابن عمر اور ابوبکرہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ان ہی سے کئی سندوں سے مروی ہے۔

باب ۴۷۰۔ مَا جَاءَ أَنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ
باب ۴۷۰۔ مہینہ ایتیس دن کا بھی ہوتا ہے۔

۵۹۷۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيَا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي عَيْسَى بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضَرَّارٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ مَا صُمْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرَ مِمَّا صُمْنَا ثَلَاثِينَ

۵۹۷۔ حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ کے ساتھ اکثر تیس روزے ہی رکھے ایتیس کا اتفاق کم ہی ہوا۔

اس باب میں ابو ہریرہؓ، عمرؓ، عائشہؓ، سعد بن ابی وقاصؓ، ابن عباسؓ، ابن عمرؓ، انسؓ، جابرؓ، ام سلمہؓ اور ابوبکرہؓ سے بھی روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: مہینہ کبھی ایتیس کا بھی ہوتا ہے۔

۵۹۸۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ نَا اسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ الْي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَابِهِ شَهْرًا فَأَقَامَ فِي مَشْرَبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ يَوْمًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ الْيَتِ شَهْرًا فَقَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ

۵۹۸۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے اپنی ازواج سے ایک ماہ تک نہ ملنے کی قسم کھائی، اور ایتیس روز تک ایک بالائی کمرے میں رہے۔ صحابہؓ نے کہا: یا رسول اللہ آپ ﷺ نے تو ایک ماہ کی قسم کھائی تھی۔ فرمایا: مہینہ ایتیس دن کا بھی ہوتا ہے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۴۷۱۔ مَا جَاءَ فِي الصَّوْمِ بِالشَّهَادَةِ
باب ۴۷۱۔ شہادت روایت ہلال پر روزہ رکھنا

۵۹۹۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں ایک اعرابی آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کیا: میں نے چاند دیکھا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں۔ اعرابی نے کہا: جی ہاں! آپ ﷺ نے فرمایا: اے بلالؓ! لوگوں میں اعلان کر دو کہ کل روزہ رکھیں۔

۵۹۹۔ حدثنا محمد بن اسمعيل نا محمد بن الصباح نا الوليد بن ابى ثور عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال انى رأيت الهلال فقال اتشهد ان لا اله الا الله اتشهد ان محمدا رسول الله قال نعم قال يا بلال اذن فى الناس ان يصوموا غدا

الوکریب، حسین جعفی سے وہ زائدہ سے اور سماک بن حرب سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ ابن عباسؓ کی حدیث میں اختلاف ہے۔ سفیان ثوری وغیرہ سماک بن حرب سے وہ عکرمہ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے مرسل روایت کرتے ہیں۔ سماک کے اکثر ساتھی اسے عکرمہ سے اور وہ نبی ﷺ سے مرسل ہی روایت کرتے ہیں۔ اکثر علماء کا اسی پر عمل ہے کہ رمضان کے روزے کے لیے ایک آدمی کی گواہی کافی ہے۔ یہ ابن مبارک، شافعی اور احمدؓ کا بھی قول ہے جب کہ اسحاق دو آدمیوں کی گواہ کو معتبر سمجھتے ہیں۔ لیکن عید کے چاند کے متعلق علماء متفق ہیں کہ اس میں دو آدمیوں کی گواہی ضروری ہے۔

باب ۴۷۲۔ عید کے دونوں مہینے ایک ساتھ نہیں گھنتے۔

باب ۴۷۲۔ مَا جَاءَ شَهْرًا عِيدًا لَا يَنْقُصَانِ

۶۰۰۔ حدثنا ابوسلمة يحيى بن خلف البصرى نا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن ابى بكرة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهرا عيد لا ينقصان و ذوالحجة

۶۰۰۔ عبد الرحمن بن ابى بکر اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: عید کے دونوں مہینے یعنی رمضان اور ذوالحجہ ایک ساتھ اسی دن کے نہیں ہوتے۔

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن ہے اور عبد الرحمن بن بکرہ سے بحوالہ نبی اکرم ﷺ مرسل مروی ہے۔ امام احمد کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سال میں رمضان اور ذوالحجہ دونوں اسی دن کے نہیں ہوتے۔ اگر ایک اسی دن کا ہوگا تو دوسرا تیس دن کا۔ لیکن اسحاق اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ دونوں ماہ اگر اسی دن کے بھی ہوں تب بھی ان میں اجر و ثواب تیس دن کا ہی ہوتا ہے اس میں کمی نہیں ہوتی چنانچہ اس قول کے مطابق دونوں ماہ اسی دن کے ہو سکتے ہیں۔

باب ۴۷۳۔ مَا جَاءَ لِكُلِّ اَهْلِ بَلَدٍ رُؤْيُهُمْ

باب ۴۷۳۔ ہر اہل شہر کے لیے انہی کی روایت ہلال معتبر ہے۔

۶۰۱۔ حدثنا علي بن حنبل نا اسمعيل بن جعفر نا محمد بن ابى حرملة نا خبر بنى كريب نا أم الفضل بنت الحارث بعثته الى معاوية بالشام قال فقدمت الشام ففضيت حاجتها واستهل على هلال رمضان وانا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة فى اجر الشهر فسألنى ابن عباس

۶۰۱۔ علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر سے اور وہ محمد بن ابو حرملہ سے نقل کرتے ہیں کہ ام فضل بنت حارث نے کرب کو معاویہ کے پاس شام بھیجا۔ کرب کہتے ہیں میں شام گیا اور ان کا کام کیا۔ اسی اثناء میں رمضان آگیا۔ چنانچہ ہم نے جمعہ کی شب چاند دیکھا۔ پھر میں رمضان کے آخر میں مدینہ واپس آیا تو ابن عباسؓ نے مجھ سے چاند کا ذکر کیا اور پوچھا کہ تم نے کب چاند دیکھا تھا؟ میں نے کہا جمعہ کی شب

کو۔ ابن عباسؓ نے فرمایا: تم نے خود دیکھا تھا؟ میں نے کہا: لوگوں نے دیکھا اور روزہ رکھا، معاویہؓ نے بھی روزہ رکھا۔ ابن عباسؓ نے فرمایا: ہم نے تو چاند بھٹنے کی شب دیکھا تھا لہذا ہم تیس دن تک روزے رکھیں گے یا یہ کہ عید الفطر کا چاند نظر آجائے۔ میں نے کہا: کیا آپ کے لیے معاویہ کا دیکھنا اور روزہ رکھنا کافی نہیں؟ فرمایا: نہیں، آنحضرت ﷺ نے ہمیں اسی طرح حکم دیا ہے۔

ثُمَّ ذَكَرَ الْهَيْلَالَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمُ الْهَيْلَالَ فَقُلْتُ رَأَيْتَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقُلْتُ رَأَى النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ لَكِنْ رَأَيْتَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالَ نَصُومُ حَتَّى نَكْمَلَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا أَوْ نَرَاهُ فَقُلْتُ أَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَا مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ قَالَ لَا هَكَذَا أَمَرَ نَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

امام ترمذی اس حدیث کو حسن صحیح غریب کہتے ہیں اور اسی پر علماء کا عمل ہے کہ ہر شہر والوں کے لیے انہی کا چاند دیکھنا معتبر ہے۔

باب ۴۷۴۔ کس چیز سے روزہ افطار کرنا مستحب ہے

۶۰۲۔ حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا اگر کسی کے پاس کھجور ہو تو اس سے افطار کرے اور جس کے پاس کھجور نہ ہو وہ پانی سے افطار کرے کیوں کہ پانی عمدہ ترین (پاکیزہ) غذا ہے۔

باب ۴۷۴۔ مَا جَاءَ مَا يُسْتَحَبُّ عَلَيْهِ الْإِفْطَارُ

۶۰۲۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ نَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ نَا شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ وَمَنْ لَمْ يَلِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ

اس باب میں سلمان بن عامرؓ سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں: انسؓ کی حدیث کو سعید بن عامرؓ کی کے علاوہ کسی اور کے شعبہ سے اس طرح روایت کرنے کا ہمیں علم نہیں اور یہ حدیث غیر محفوظ ہے۔ ہم اسے عبدالعزیز بن صہیب کی روایت کے علاوہ نہیں جانتے۔ وہ انسؓ سے روایت کرتے ہیں۔ شعبہ کے ساتھی بھی یہ حدیث شعبہ سے وہ عامر احوال سے وہ حفصہ بنت سیرین سے وہ رباب سے وہ سلمان بن عامر سے اور وہ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ روایت سعید بن عامر کی روایت سے صحیح ہے۔ اسی طرح یہ حضرات شعبہ سے وہ عامر احوال سے وہ حفصہ بنت سیرین سے اور وہ سلیمان بن عامر سے بھی روایت کرتے ہیں اور رباب کا نام ذکر نہیں کرتے۔ صحیح روایت سفیان ثوری ہی کی ہے وہ ابن عمیر اور کئی حضرات سے وہ عامر احوال سے وہ حفصہ بنت سیرین سے وہ رباب سے اور وہ سلیمان بن عامر اور ابن عون سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم سے ام راح بنت صلیح سلمان بن عامر کے حوالے سے روایت کرتی ہیں۔ رباب، راح کی والدہ ہیں۔

۶۰۳۔ حضرت سلیمان بن عامر الضمیؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور سے کرے اگر کھجور نہ ہو تو پانی سے۔ یہ بہترین (پاکیزہ) غذا ہے۔

۶۰۳۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ وَكَعْبُ بْنُ سَفِيَانَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ ح وَثَنَا هِنَادُ بْنُ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ ح وَثَنَا قَتِيْبَةُ قَالَ ابْنَانَا سَفِيَانَ بْنِ عَيْنَةَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سَيْرِينَ عَنْ الرَّبَابِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَامِرِ الضَّبِّيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۶۰۴۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نماز عید الفطر سے پہلے چند کھجیوں، خشک کھجوروں یا پانی کے چند گھونٹ سے افطار کیا کرتے تھے۔

۶۰۴۔ حدثنا محمد بن رافع نا عبد الرزاق نا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يُفِطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٍ فَتُمِيرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُمِيرَاتٍ حَسَا حَسَا وَأَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ
امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے۔

باب ۴۷۵۔ عید الفطر اس دن ہوتی ہے جس دن سب افطار کریں اور عید الاضحیٰ اس دن ہوتی ہے جس دن سب قربانی کریں۔

باب ۴۷۵۔ مَا جَاءَ أَنَّ الْفِطْرَ يَوْمَ تَفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تَضْحُونَ

۶۰۵۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: رمضان اس دن ہے جس دن تم سب روزے رکھو عید الفطر اس روز جب تم سب افطار کرو اور عید الاضحیٰ اس دن جس دن تم سب عید الاضحیٰ مناؤ یعنی قربانی کرو۔

۶۰۵۔ حدثنا محمد بن اسمعيل نا ابراهيم بن المنذر نا اسحاق بن جعفر بن محمد قال حدثني عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد عن المقبري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون والْفِطْرُ يَوْمَ تَفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تَضْحُونَ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے۔ بعض علماء اس کی یہ تفسیر کرتے ہیں کہ رمضان اور عیدین میں جماعت فرض ہے اور سب لوگوں کا اس کے لیے اہتمام کرنا ضروری ہے۔

توضیح: حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب شرعی ثبوت کے بعد روزہ رکھ لیا یا عید منالی تو خواہ مخواہ شکوک و اوہام میں مبتلا نہیں ہونا چاہئے۔ چنانچہ اس سے چاند کے چھوٹے یا بڑے ہونے کی وجہ سے پھیلائے جانے والے وسوسوں کی نفی مقصود ہے۔ واللہ اعلم۔ (مترجم)

باب ۴۷۶۔ دن کے اختتام اور رات کے شروع ہونے سے پہلے روزہ افطار کیا جائے۔

باب ۴۷۶۔ مَا جَاءَ إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَادْبَرَ النَّهَارُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ

۶۰۶۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جب دن ختم ہونے اور رات شروع ہونے کو ہو اور سورج غروب ہو جائے تو افطار کرو۔

۶۰۶۔ حدثنا هارون بن اسحاق الهمداني نا عبدة عن هشام بن عروة عن ابیه عن عاصم بن عمَرَ عن عَمْرِ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَادْبَرَ النَّهَارُ وَعَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرْتَ

اس باب میں ابن ابی اوفیٰ اور ابوسعید سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۴۷۷۔ افطار میں جلدی کرنا۔

باب ۴۷۷۔ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الْإِفْطَارِ

۶۰۷۔ حضرت ہبل بن سعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب

۶۰۷۔ حدثنا بندار نا عبد الرحمن بن مهدى عن

سفيان عن ابى حازم ح واخبرنا ابو مصعب قراءة
عن مالك بن انس عن ابى حازم عن سهل بن سعد
قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا
يزال الناس بخير مما عجلوا الفطر

اس باب میں ابو ہریرہ، ابن عباس، عائشہ اور انس بن مالک سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور علماء صحابہ وغیرہ اسی کو اختیار کرتے ہیں کہ جلدی روزہ کھولنا مستحب ہے۔ امام شافعی، احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں۔

۶۰۸۔ حدثنا اسحق بن موسى الانصارى نا
الوليد بن مسلم عن الاوزاعى عن قره عن الزهرى
عن ابى سلمة عن ابى هريرة قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل أحب
عبادى إلى أعجلهم فطرا

عبداللہ بن عبد الرحمن، ابوعاصم اور ابو نعیمہ سے اور وہ اوزاعی سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن غریب ہے۔

۶۰۹۔ حدثنا هنادنا ابو معاوية عن الاعمش عن
عمارة بن عمير عن ابى عطية قال دخلت انا
ومسروق على عائشة قلنا يا أم المؤمنين رجلا
من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما
يعجل الفطر ويعجل الصلوة والآخر يؤخر الإفطار
ويؤخر الصلوة قالت أيهما يعجل الإفطار ويعجل
الصلوة قلنا عبد الله ابن مسعود قالت هكذا صنع
رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر أبو موسى

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو عطیہ کا نام مالک بن ابوعامر ہمدانی ہے۔ انہیں مالک بن عامر ہمدانی بھی کہتے ہیں۔

باب ۴۷۸۔ سحری میں تاخیر کرنا۔

باب ۴۷۸۔ ماجاء فى تأخير السحور

۶۱۰۔ حدثنا يحيى بن موسى نا ابوداؤد
الطيالسى نا هشام الداى عن قتادة عن انس
عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى
الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلوة قال قلت كم
كان قدر ذلك قال قدر خمسين آية

۶۱۰۔ حضرت زید بن ثابتؓ فرماتے ہیں: ہم نے آنحضرت ﷺ کے ساتھ سحری کی اور پھر فجر کی نماز کے لیے چل دیئے راوی نے پوچھا کھانے اور نماز میں کتنا وقفہ ہوگا۔ حضرت زیدؓ نے فرمایا: پچاس آیتیں پڑھنے کا۔

ہناد، وکیع سے اور وہ ہشام سے اسی حدیث کے مثل روایت کرتے ہیں لیکن اس میں ”قرأت“ لفظ زیادہ ہے۔ اس باب میں حدیفہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں زید کی حدیث حسن صحیح ہے۔ شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے کہ سحری میں تاخیر کرنا مستحب ہے۔

باب ۴۷۹۔ مَا جَاءَ فِي بَيَانِ الْفَجْرِ

باب ۴۷۹۔ صبح صادق کی تحقیق۔

۶۱۱۔ حَدَّثَنَا هِنَادٌ مَلَا زِمٌ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ النُّعْمَانِ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي طَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّوْا وَأَشْرَبُوا وَلَا يَهَيِّدَنَّكُمْ السَّاطِعُ الْمُصْعِدُ وَكُلُّوْا وَأَشْرَبُوا حَتَّى يَغْتَرِضَ لَكُمْ الْأَحْمَرُ

۶۱۱۔ قیس بن طلق بن علی، ابوظلق سے نقل کرتے ہیں، کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: رمضان کی شب میں کھاؤ پیو اور چڑھتی ہوئی روشنی تمہیں گھبراہٹ میں مبتلا نہ کرے چنانچہ اس پر کھانا پینا نہ چھوڑو، یہاں تک کہ شفقِ احمر (صبح صادق) ظاہر ہو جائے۔

اس باب میں عدی بن حاتم، ابو ذر، اور سمرہ سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ اور اسی پر علماء کا عمل ہے کہ شفقِ احمر کے ظاہر ہونے تک روزہ دار کے لیے کھانا پینا جائز ہے۔ یہ اکثر علماء کا قول ہے۔

۶۱۲۔ حَدَّثَنَا هِنَادٌ وَيُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَا نَا وَكَيْعٌ عَنْ أَبِي هِلَالٍ عَنْ سَوَادَةَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ إِذَا نَ بِلَالٍ وَلَا الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ وَلَكِنَّ الْفَجْرَ الْمُسْتَطِيرَ فِي الْأَفْقِ

۶۱۱۔ حضرت سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سحری کھانے سے بلال کی اذان اور لمبی فجر یعنی صبحِ کاذب کی وجہ سے باز نہ آؤ ہاں البتہ پھیلتی ہوئی فجر یعنی صبح صادق کے ظاہر ہونے پر کھانا پینا ترک کر دو۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۴۸۰۔ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي الْغَيْبَةِ لِلصَّائِمِ

باب ۴۸۰۔ روزہ دار کے لیے غیبت کرنے پر وعید۔

۶۱۳۔ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَاعِمَانُ بْنُ عَمْرِو قَالَ وَثْنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَدْعُ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلِ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ بِأَنْ يَدْعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

۶۱۳۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جو شخص جھوٹی باتیں اور ان پر عمل کرنا نہ ترک کرے، اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔

اس باب میں انس سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۴۸۱۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ السَّحُورِ

باب ۴۸۱۔ سحری کھانے کی فضیلت۔

۶۱۴۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَابِغَةُ عَنْ قَتَادَةَ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

۶۱۴۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: سحری کھاؤ اسی میں برکت ہے۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً

اس باب میں ابو ہریرہ، عبداللہ بن مسعود، جابر بن عبداللہ، ابن عباس، عمرو بن عاص، عرباض بن ساریہ، عتبہ بن عبد اللہ اور ابو درداء سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ آپ ﷺ سے مروی ہے کہ فرمایا: ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں صرف سحری کا فرق ہے۔ یہ حدیث تفسیر، لیث سے وہ موسیٰ بن علی سے وہ اپنے والد سے وہ ابو قیس (جو عمرو بن عاص کے مولیٰ ہیں) سے وہ عمرو بن عاص سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے روایت کرتے ہیں اور یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اہل مصر موسیٰ بن علی اور اہل عراق موسیٰ بن علی کہتے ہیں۔ یہ موسیٰ بن علی بن رباح اللخمی ہیں۔

باب ۴۸۲۔ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ

باب ۴۸۲۔ سفر میں روزہ رکھنے کی کراہت
۶۱۵۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو کراخ الغمیم (۱) کے مقام تک روزہ رکھتے رہے۔ لوگ بھی آپ ﷺ کے ساتھ روزہ رکھتے رہے۔ پھر آپ ﷺ سے کہا گیا کہ لوگوں پر روزہ رکھنا گراں گزر رہا ہے لیکن آپ ﷺ کی اتباع میں روزہ رکھ رہے ہیں۔ چنانچہ آپ ﷺ نے عصر کے بعد پانی کا پیالہ منگوا لیا اور پی لیا۔ لوگ آنحضرت ﷺ کو دیکھ رہے تھے۔ پھر بعض نے اظہار کر لیا اور بعض نے عمل کیا۔ جب یہ خبر آنحضرت ﷺ کو ملی کہ کچھ لوگوں نے پھر بھی روزہ نہیں توڑا تو فرمایا: یہ لوگ نافرمان ہیں۔

باب ۴۸۲۔ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ
۶۱۵۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ ثَنَا عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ وَصَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَيَقِيلُ لَهُ إِنْ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ وَإِنْ النَّاسَ يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَشَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَأَفْطَرَ بَعْضُهُمْ وَصَامَ بَعْضُهُمْ فَبَلَغَهُ أَنَّ نَاسًا صَامُوا فَقَالَ أُولَئِكَ الْعَصَاةُ

اس باب میں کعب بن عاصم، ابن عباس اور ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں جابر کی حدیث حسن ہے اور آنحضرت ﷺ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”سفر میں روزہ رکھنا بہتر نہیں“۔ علماء کا سفر کے دوران روزہ رکھنے میں اختلاف ہے۔ بعض صحابہ وغیرہ کے نزدیک سفر میں روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔ یہاں تک کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اگر سفر میں روزہ رکھے تو دوبارہ رکھنا پڑے گا۔ احمد اور اسحاق بھی سفر میں روزہ نہ رکھنا ہی اختیار کرتے ہیں۔ بعض علماء صحابہ اس بات کے قائل ہیں کہ اگر قوت ہو تو روزہ رکھے اور یہی افضل ہے۔ اور اگر نہ رکھے تو بھی بہتر ہے۔ سفیان ثوری، عبداللہ بن مبارک اور مالک بن انس کا بھی یہی قول ہے۔ شافعی، جابر بن عبداللہ کی حدیث کے متعلق فرماتے ہیں کہ برائی اس شخص سے متعلق ہے جس کا دل اللہ تعالیٰ کی رخصت اور اجازت کو قبول نہ کرے لہذا وہ شخص جو روزہ رکھے کو جائز سمجھتا ہو اور اس کی طاقت بھی رکھتا ہو اس کا روزہ رکھنا میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔

باب ۴۸۳۔ مَاجَاءَ فِي الرَّخْصَةِ فِي السَّفَرِ

باب ۴۸۳۔ سفر میں روزہ رکھنے کی اجازت
۶۱۶۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حمزہ بن عمرو السلمی نے رسول اللہ ﷺ سے سفر میں روزہ رکھنے کے متعلق دریافت کیا۔ حمزہ پے در پے روزے رکھا کرتے تھے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: چاہو تو روزے رکھو اور چاہو

باب ۴۸۳۔ مَاجَاءَ فِي الرَّخْصَةِ فِي السَّفَرِ
۶۱۶۔ حَدَّثَنَا هَارُونَ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِي نَاعِبِدَةَ بِنِ سَلِيمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْأَسْلَمِيِّ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

(۱) کراخ الغمیم: ایک مقام کا نام ہے جو مکہ سے تقریباً تیس میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ عسفان کے کنوئیں کے پاس ہے۔ (مترجم)

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَكَانَ يَسْرُدُ
الصَّوْمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ
شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ

اس باب میں انس بن مالک، ابوسعید، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، ابودرداء اور حمزہ بن عمرو سلمیٰ سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں عائشہ کی حمزہ بن عمرو سلمیٰ والی حدیث حسن صحیح ہے۔

۶۱۷۔ حدثنا نصر بن علي الجهضمي. ناشر بن
المفضل عن سعيد بن يزيد بن سلمه عن أبي
نضرة عن أبي سعيد قال كُنَّا نَسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَمَا يُعَابَ
عَلَى الصَّائِمِ صَوْمُهُ وَلَا عَلَى الْمُفْطِرِ فِطْرُهُ

۶۱۸۔ حدثنا نصر بن علي نا يزيد بن زريع نا
الجريري ح ونا سفيان بن وكيع نا عبدالاغلي
عن الجريري عن ابي نضرة عن ابي سعيد
نا الخديري قال كُنَّا نَسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ فَلَا
يَجِدُ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ وَلَا الصَّائِمُ عَلَى
الْمُفْطِرِ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْ وَجَدَ قُوَّةَ فَصَامَ
فَحَسَنٌ وَمَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ فَحَسَنٌ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۴۸۴۔ لڑنے والوں کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت۔

۶۱۹۔ حدثنا قتيبة نا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي
حبيب عن معمر بن أبي حبيبة عن ابن المسيب أنه
سأله عن الصوم في السفر فحدث أن عمر بن الخطاب
قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في
رمضان غزوتين يوم بدر وأفتح فأفطرنا فيهما

اس باب میں ابوسعید سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں: ہم عمر کی حدیث کو اس سند کے علاوہ نہیں جانتے، ابوسعید سے یہ بھی مروی ہے کہ ”آنحضرت ﷺ نے ایک غزوہ میں افطار کا حکم بھی دیا تھا“۔ حضرت عمر بن خطابؓ سے بھی مروی ہے کہ وہ بھی دشمن سے مقابلے کے وقت افطار کی اجازت دیتے تھے۔ بعض علماء بھی اسی کے قائل ہیں۔

۶۱۷۔ حضرت ابوسعید فرماتے ہیں کہ ہم آنحضرت ﷺ کے ساتھ رمضان میں سفر کیا کرتے تھے چنانچہ روزہ رکھنے والے یا نہ رکھنے والے کسی کو بھی برا نہیں کہا جاتا تھا۔

۶۱۸۔ حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں: ہم آنحضرت ﷺ کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے ہم میں سے کچھ روزے دار پر، اور نہ بے روزہ، روزے دار پر غصے ہوتا۔ ان کے نزدیک یہی تھا کہ جس میں طاقت ہو اور روزہ رکھے وہ بہتر ہے اور جو ضعیف ہونے کی وجہ سے روزہ نہ رکھے اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں۔

۶۱۹۔ معمر بن حبیب نے ابن مسیب سے سفر میں روزہ رکھنے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ عمر بن خطابؓ فرماتے ہیں ہم نے آنحضرت ﷺ کے ساتھ رمضان میں دو جنگیں لڑیں۔ غزوہ بدر اور غزوہ فتح۔ ان دونوں جنگوں میں ہم نے روزے نہیں رکھے۔

باب ۴۸۵۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے افطار کی اجازت۔
 ۶۲۰۔ حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے لشکر نے ہمارے قبیلے پر حملہ کیا۔ میں آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ﷺ کھانا کھا رہے تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: قریب ہو جاؤ اور کھاؤ۔ میں نے کہا میں روزے سے ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: قریب آؤ میں تمہیں روزے کے متعلق بتاؤں (راوی کو شک ہے کہ صوم یا صیام جو صوم (یعنی روزے) کی جمع ہے فرمایا) اللہ تعالیٰ نے مسافر کے لیے آدھی نماز اور حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے روزہ معاف فرمایا ہے (یہاں بھی راوی کو صوم اور صیام میں شک ہے) اللہ کی قسم آپ ﷺ نے حاملہ اور مرضہ دونوں کا یا ایک کا ذکر کیا۔ مجھے اپنے اوپر یہ افسوس ہے کہ میں نے آپ ﷺ کے ساتھ کیوں نہیں کھایا۔

باب ۴۸۵۔ مَا جَاءَ فِي الرُّحْصَةِ فِي الْإِفْطَارِ لِلْحَبْلِ وَالْمَرْضِعِ
 ۶۲۰۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ وَيُوسُفُ بْنُ عَيْسَى قَالَا نَا
 وَكَيْعُ نَا أَبُو هَلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ أَنَسِ
 بْنِ مَالِكٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ
 أَغَارَتْ عَلَيْنَا حَيْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُهُ
 يَتَغَدَّى فَقَالَ ادْنُ فَكُلْ فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ ادْنُ
 أُحَدِّثُكَ عَنِ الصَّوْمِ أَوْ الصِّيَامِ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ
 الْمَسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَعَنِ الْحَامِلِ وَالْمَرْضِعِ
 الصَّوْمَ أَوْ الصِّيَامَ وَاللَّهُ لَقَدْ قَالَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِلَيْهِمَا أَوْ أَحَدَهُمَا فَيَا هَيْفَ نَفْسِي أَلَا
 لَأَكُونُ طَعْمْتُ مِنْ طَعَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اس باب میں ابوامیہ سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے اور انس کھسی کی اس روایت کے علاوہ ہم کوئی حدیث نہیں جانتے۔ بعض علماء اسی حدیث پر عمل پیرا ہیں جب کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ حائضہ اور مرضہ دونوں روزہ نہ رکھیں پھر قضاء کریں اور اس کے ساتھ ہی صدقہ فطر کے برابر فقیروں کو ہر روزے کے بدلے میں کھانا بھی کھلائیں۔ سفیان ثوری، مالک، شافعی اور احمد اسی کے قائل ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ افطار کریں اور مسکینوں کو کھانا کھلائیں قضا نہ کریں۔ اور اگر چاہیں تو قضا کر لیں اور اس صورت میں کھانا کھلانا ضروری نہیں۔ اسحاق بھی یہی کہتے ہیں۔

باب ۴۸۶۔ میت کی طرف سے روزہ رکھنا۔

۶۲۱۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں: ایک عورت آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا۔ یا رسول اللہ! میری بہن فوت ہو گئی ہے اور اس کے متواتر دو مہینے کے روزے چھوٹ گئے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: دیکھو اگر تمہاری بہن پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتیں؟ کہنے لگی ہاں۔ فرمایا: اللہ تعالیٰ کا حق ادا نیگی کا اس سے زیادہ مستحق ہے۔

باب ۴۸۶۔ مَا جَاءَ فِي الصَّوْمِ عَنِ الْمَيِّتِ

۶۲۱۔ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجَعِيُّ نَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ
 عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَلْمَةَ بِنِ كَهَيْلٍ وَمُسْلِمِ الْبَطْنِيِّ
 عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ وَعَطَاءِ وَمُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
 قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَقَالَتْ إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ شَهْرَيْنِ
 مُتَابِعَيْنِ قَالَ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكَ دَيْنٌ أَكُنْتِ
 تَقْضِيْنَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَحَقُّ اللَّهِ أَحَقُّ

اس باب میں حضرت ابن عمرؓ اور عائشہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی، ابن عباسؓ کی حدیث کو حسن صحیح کہتے ہیں ابو کریب، ابو خالد احمر سے اور وہ اعمش سے اسی سند سے اسی حدیث کے مثل روایت کرتے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں: ابو خالد کے علاوہ بھی کچھ راوی اعمش سے ابو خالد کی روایت کی مانند بیان کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ابو معاویہ اور کئی راوی حضرات یہ حدیث اعمش سے وہ مسلم بطین سے وہ سعید بن جبیرؓ سے وہ ابن عباسؓ سے اور وہ حضور ﷺ سے روایت کرتے ہوئے سلمہ بن کہیل، عطاء اور مجاہد کا ذکر نہیں کرتے۔

باب ۴۸۷۔ مَا جَاءَ فِي الْكُفَّارَةِ

باب ۲۸۷۔ روزے کا کفارہ۔

۶۲۲۔ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ نَا عِثْرَ عَنْ اشْعَثَ عَنْ مُحَمَّدٍ
عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ
مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مَسْكِينًا

۶۲۲۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی فوت ہو جائے اور اس پر ایک مہینے کے روزے باقی ہوں تو اس کے بدلے ہر روزے کے مقابلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔

امام ترمذی کہتے ہیں: ابن عمرؓ کی حدیث کو ہم اس سند کے علاوہ مرفوع نہیں جانتے اور صحیح یہی ہے کہ یہ ابن عمرؓ پر موقوف ہے اور انہی کا قول ہے۔ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے روزے رکھے جائیں احمد اور اسحاق بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر نذر کے روزے ہوں تو اس کی طرف سے روزے رکھے جائیں اور اگر رمضان کے ہوں تو مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے جب کہ مالک شافعی اور سفیان کا قول یہ ہے کہ کوئی کسی کی طرف سے روزہ نہ رکھے، اشعث، ہوار کے بیٹے ہیں اور محمد بن عبد الرحمن بن ابی الحلی ہیں۔

باب ۴۸۸۔ مَا جَاءَ فِي الصَّائِمِ يَذْرَعُهُ الْقَيْءُ

باب ۲۸۸۔ روزے میں قے آنا۔

۶۲۳۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمَحَارِبِيُّ نَا
عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ اسْلَمَ عَنِ ابْنِ عَطَاءِ بْنِ
يَسَّارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرُنَ الصَّائِمَ
الْحِجَامَةُ وَالْقَيْءُ وَالْإِحْتِلَامُ

۶۲۳۔ حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تین چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حجامت، قے اور احتلام۔

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث غیر محفوظ ہے۔ عبد اللہ بن زید بن اسلم، عبد العزیز بن محمد اور کئی راویوں نے یہ حدیث زید بن اسلم سے مرسل روایت کی ہے اور ابوسعید کا ذکر نہیں کیا۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم ضعیف ہیں۔ میں نے ابوداؤد بخاری سے سنا کہ انہوں نے احمد بن حنبل سے عبد الرحمن بن زید بن اسلم کے متعلق پوچھا؟ فرمایا: ان کے بھائی عبد اللہ بن زید میں کوئی مضائقہ نہیں۔ امام بخاری علی بن عبد اللہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ عبد اللہ بن زید بن اسلم ثقہ اور عبد الرحمن بن زید بن اسلم ضعیف ہیں۔ میں ان سے روایت نہیں کرتا۔

باب ۴۸۹۔ مَا جَاءَ فِيْمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا

باب ۲۸۹۔ روزے میں عمد آتے کرنا۔

۶۲۴۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ
عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ سَبْرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ
فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ

۶۲۴۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جسے خود بخود قے ہو جائے اس پر قضا واجب نہیں البتہ اگر کوئی عمد آتے کرے تو اس پر قضا واجب ہے۔

اس باب میں ابودرداء، ثوبان اور فضالہ بن عبید سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن غریب ہے ہم اسے ہشام کی ابن سیرین اور ان کی ابو ہریرہؓ سے روایت کے متعلق عیسیٰ بن یونس کی حدیث کے علاوہ نہیں جانتے۔ امام بخاری کہتے ہیں یہ محفوظ نہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث کئی سندوں سے حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے وہ حضور اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں اس کی سند صحیح نہیں۔ ابودرداء، ثوبان اور فضالہ بن عبید سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ ایک مرتبہ نقلی روزے سے تھے کہ آپ ﷺ

کوڑے ہوئی جس سے آپ ﷺ نے ضعف محسوس کیا اور روزہ کھول لیا۔ بعض احادیث میں اس کی یہ تفسیر بھی موجود ہے یعنی آپ ﷺ نے خود روزہ کھول لیا تھا۔ کہ روزہ ٹوٹ گیا تھا۔ علماء کے نزدیک عمل حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث پر ہی ہے کہ اگر کسی روزہ دار کو خود بخود تہہ ہو جائے تو اس پر قضاء واجب نہیں البتہ اگر عمداتے کرے گا تو قضاء کرنی ہوگی۔ شافعی، سفیان ثوری، احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں۔

باب ۴۹۰۔ مَا جَاءَ فِي الصَّائِمِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ نَاسِيًا

۶۲۵۔ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجَعِيُّ نا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِيُّ عَنْ حِجَّاجٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ ابْنِ سَبْرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَلَا يُفْطِرُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ

باب ۴۹۰۔ روزے میں بھول کر کھانا پینا۔

۶۲۵۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی شخص روزے میں بھول کر کچھ کھاپی لے، تو روزہ نہ توڑے۔ اس نے جو کچھ کھایا پیا وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ رزق تھا۔

ابوسعید، ابوامامہ سے وہ عوف سے وہ میرین اور خلاص سے یہ دونوں ابو ہریرہؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی حدیث کے مثل بیان کرتے ہیں۔ اس باب میں ابوسعید اور ام اسحاق غنویہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر اکثر اہل علم کا عمل ہے۔ سفیان، شافعی، احمد اور اسحاق بھی یہی کہتے ہیں جب کہ اسحاق کا کہنا ہے کہ بھولے سے کچھ کھاپی لینے پر بھی قضا کرنا ہوگی لیکن پہلا قول ہی صحیح ہے۔

باب ۴۹۱۔ مَا جَاءَ فِي الْإِفْطَارِ مُتَعَمِدًا

۶۲۶۔ حَدَّثَنَا بَنْدَارٌ نا يَحْيَى بن سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ مَهْدِيُّ قَالَا نا سَفِيَانٌ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ نا أَبُو الْمُطَوَّسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ حُصَّةٍ وَلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَإِنْ صَامَهُ

باب ۴۹۱۔ قصد روزہ توڑنا۔

۶۲۶۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے رمضان میں بغیر عذر یا مرض کے روزہ افطار کر لیا (توڑ دیا) وہ اگر ساری عمر بھی روزہ رکھے تو اس ایک روزے کے برابر ثواب حاصل نہیں کر سکتا۔

امام ترمذی کہتے ہیں اس حدیث کو ہم اس سند کے علاوہ نہیں جانتے۔ امام بخاری کہتے تھے ابوالمطوس کا نام یزید بن مطوس ہے اور میں ان کی اس حدیث کے علاوہ کوئی حدیث نہیں جانتا۔

باب ۴۹۲۔ مَا جَاءَ فِي كَفَّارَةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ

۶۲۷۔ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَأَبُو عَمْرٍو الْمَعْنَى وَاحِدٌ وَاللَّفْظُ لَفْظُ أَبِي عِمَارَةَ قَالَا نا سَفِيَانٌ بن عَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ آتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ قَالَ وَمَا أَهْلَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى أَمْرٍ آتَى فِي رَمَضَانَ قَالَ هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً قَالَ لَا

باب ۴۹۲۔ رمضان میں روزہ توڑنے کا کفارہ۔

۶۲۷۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں ہلاک ہو گیا: آپ ﷺ نے فرمایا: تمہیں کس چیز نے ہلاک کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے رمضان میں روزے کے دوران اپنی بیوی سے صحبت کر لی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تم ایک غلام آزاد کر سکتے ہو؟ عرض کیا نہیں فرمایا: کیا تم دو مہینے متواتر روزے رکھ سکتے ہو؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا: کیا ساٹھ مسکینوں

قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ قَالَ لَا
 قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَطْعَمَ سِتِّينَ مَسْكِينًا قَالَ لَا
 قَالَ اجْلِسْ فَحَلَسَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ الضَّخْمُ قَالَ فَتَصَدَّقْ
 بِهِ فَقَالَ مَا بَيْنَ لَا بَيْتَهَا أَحَدٌ أَفْقَرُ مِنَّا قَالَ فَضَحِكَ
 النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أُنْيَابُهُ قَالَ
 خُذْهُ فَاطْعِمُهُ أَهْلَكَ

کو امانا کھلا سکتے ہو؟ عرض کیا نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اچھا بیٹھ جاؤ۔
 وہ بیٹھ گیا پھر آپ ﷺ کے پاس کھجوروں کا ایک ٹوکرا لایا گیا۔ (اور عرق
 بہت بڑے ٹوکرے کو کہتے ہیں) آپ ﷺ نے فرمایا: بیٹھ جاؤ۔
 کر دو۔ اس شخص نے کہا مدینہ کے لوگوں میں مجھ سے زیادہ کوئی فقیر نہیں
 ہوگا۔ اس پر آپ ﷺ اس طرح ہنسے کہ آپ ﷺ کی کچلیاں مبارک نظر
 آنے لگیں۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: جاؤ اسے اپنے اہل و عیال کو
 کھلا دو۔

اس باب میں ابن عمرؓ، عائشہؓ اور عبداللہ بن عمروؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر
 علماء کا عمل ہے۔ جو شخص جماع سے روزہ توڑ دے اور جو شخص کھانے پینے سے روزہ توڑے۔ ان کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔
 بعض علماء کے نزدیک اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں اور جماع اور کھانے پینے میں کوئی فرق نہیں۔ یہ اسحاق، سفیان ثوری اور ابن
 مبارک کا قول ہے جب کہ بعض کا کہنا ہے کہ اس پر صرف قضاء ہے کفارہ نہیں۔ اس لیے کہ صرف جماع ہی پر آپ ﷺ سے کفارہ ادا کرنے
 کا حکم مروی ہے کھانے پینے میں نہیں۔ چنانچہ ان علماء کا موقف یہ ہے کہ کھانے پینے اور جماع میں کوئی مشابہت نہیں لہذا ان دونوں کا حکم
 بھی ایک نہیں ہو سکتا یہ شافعی اور احمد کا قول ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں اس حدیث میں اس شخص کو وہ کھجوریں اپنے اہل و عیال کو کھلانے میں
 کئی احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ کفارہ اسی پر واجب ہوتا ہے جس میں قدرت ہو۔ اور اس شخص میں اس کی قدرت نہیں تھی پھر جب وہ ٹوکرا آپ
 ﷺ نے اس کو دیا تو اس نے عرض کیا کہ مجھ سے زیادہ محتاج بھی کوئی نہیں چنانچہ آپ ﷺ نے اسے حکم دیا کہ لے جاؤ اور اپنے گھر والوں کو
 کھلا دو۔ یہ حکم اسی لیے تھا کہ کفارے کا وجوب اسی صورت میں ممکن ہے کہ اس کے پاس حاجت سے زیادہ مال ہو۔ امام شافعی اس مسئلے
 میں یہ مذہب اختیار کرتے ہیں کہ ایسے شخص پر کفارہ فرض رہے گا۔ جب اس میں قدرت ہوگی ادا کرے گا۔

باب ۴۹۳۔ روزے میں مسواک کرنا۔

باب ۴۹۳۔ مَا جَاءَ فِي السَّوَاكِ لِلصَّائِمِ

۶۲۸۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں
 کہ انہوں نے آنحضرت ﷺ کو ان گنت مرتبہ روزے میں مسواک
 کرتے ہوئے دیکھا۔

۶۲۸۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ نَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
 مَهْدِيٍّ نَا سَفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
 بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَا أُحْصِي يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ

اس باب میں حضرت عائشہؓ سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں عامر بن ربیعہ کی حدیث حسن ہے اور اسی پر علماء کا عمل ہے کہ
 روزے میں مسواک کرنے میں کوئی مضاقت نہیں۔ لیکن بعض علماء روزہ دار کے لیے ہر گیلی لکڑی کی مسواک کو مکروہ کہتے ہیں جب کہ بعض
 علماء دن کے آخری حصے میں مسواک کو مکروہ کہتے ہیں اسحاق اور احمد کا بھی یہی قول ہے لیکن امام شافعی کے نزدیک دن کے کسی بھی حصے میں
 مسواک کرنے میں کوئی مضاقت نہیں۔

باب ۴۹۴۔ روزے میں سرمہ لگانا۔

باب ۴۹۴۔ مَا جَاءَ فِي الْكُحْلِ لِلصَّائِمِ

۶۲۹۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور ﷺ کے

۶۲۹۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَسَنٍ نَا وَاصِلُ نَا الْحَسَنِ بْنِ

عطية نا أبو عاتكة عن أنس بن مالك قال جاء رجُل إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال اشتكت عيني أفأكتحل وأنا صائم قال نعم

پاس آیا اور عرض کیا کہ میری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں کیا میں روزے میں سرمہ لگا سکتا ہوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں۔

اس باب میں حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کی سند قوی نہیں اس باب میں آنحضرت ﷺ سے مروی کوئی حدیث صحیح نہیں اور ابو عاتکہ ضعیف ہیں۔ علماء کا روزے میں سرمہ لگانے میں اختلاف ہے بعض اسے مکروہ سمجھتے ہیں جن میں سفیان، ابن مبارک، احمد اور اسحاق بھی شامل ہیں جبکہ بعض علماء اس کی اجازت دیتے ہیں یہ امام شافعی کا قول ہے۔

باب ۴۹۵۔ مَا جَاءَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

۶۳۰۔ حَدَّثَنَا هنادنا وقتيبة قالنا نا ابو الاحوص عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة أنَّ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْبَلُ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ

باب ۴۹۵۔ روزے میں بوسہ لینا۔

۶۳۰۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ رمضان کے مہینے میں بوسہ لیا کرتے تھے۔

اس باب میں حضرت عمر بن خطاب، حفصہ، ابوسعید، ام سلمہ، ابن عباس، انس اور ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت عائشہ کی حدیث حسن صحیح ہے اور علماء کا روزے میں بوسہ لینے میں اختلاف ہے۔ بعض صحابہ نے اس کی صرف بوزھے شخص کے لیے اجازت دی ہے جو ان کے لیے نہیں۔ اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ جو ان جذبات میں آکر اپنے روزے سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے۔ جب کہ مباشرت (یعنی بوس و کنار اور ساتھ لینے) کے معاملے میں یہ حضرات اس سے بھی سخت ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے روزے کے اجر میں تو کمی آجاتی ہے لیکن روزہ ٹوٹتا نہیں۔ چنانچہ ان کے نزدیک اگر روزہ دار کو اپنے نفس پر قدرت ہو تو اس کے لیے بوسہ لینا جائز ہے ورنہ نہیں تاکہ اس کا روزہ محفوظ رہے یہ سفیان ثوری اور شافعی کا قول ہے۔

باب ۴۹۶۔ مَا جَاءَ فِي مُبَاشَرَةِ الصَّائِمِ

باب ۴۹۶۔ روزے میں بوس و کنار کرنا۔

۶۳۱۔ حَدَّثَنَا ابن ابی عمر نا و کعب نا اسرائیل عن ابی اسحق عن ابی ميسرة عن عائشة قالت كان رسول الله ﷺ يباشرنی وهو صائم وكان املككم لاربه

۶۳۱۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ روزے میں مجھ سے مباشرت کرتے تھے اور وہ سب سے زیادہ اپنی شہوت پر قابو رکھتے تھے۔

۶۳۲۔ حَدَّثَنَا هنادنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة والاسود عن عائشة قالت كان رسول الله ﷺ يقبل ويباشر وهو صائم وكان املككم لاربه

۶۳۲۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ روزے کی حالت میں بوسہ بھی لیتے اور مباشرت بھی کرتے۔ لیکن آپ ﷺ شہوت پر سب سے زیادہ قدرت رکھنے والے تھے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے اور ابومیسرہ کا نام عمرو بن شریحیل ہے۔

باب ۴۹۷۔ مَا جَاءَ لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَعْزِمُ مِنَ اللَّيْلِ

باب ۴۹۷۔ جو شخص رات سے نیت نہ کرے اس کا روزہ درست نہیں۔

۶۳۳۔ حَدَّثَنَا اسحق بن منصور نا ابن ابی مریم نا يحيى بن ايوب عن عبدالله بن ابی بكر عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن أبيه عن حفصة

۶۳۳۔ حضرت حفصہ کہتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جو شخص صبح صادق سے پہلے روزے کی نیت نہ کرے۔ اس کا روزہ نہیں ہوتا۔

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَجْمَعْ
الصَّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

امام ترمذی کہتے ہیں: حصصہ کی حدیث کو ہم اس سند کے علاوہ مرفوع نہیں جانتے یہ نافع سے بواسطہ ابن عمرؓ انہی کا قول مروی ہے اور وہ اصح ہے۔ اس حدیث کا بعض علماء کے نزدیک معنی یہ ہے کہ جو شخص رمضان، قضاء رمضان یا نذر وغیرہ کے روزے کی نیت اگر صبح صادق سے پہلے نہ کرے تو اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ نقلی روزوں میں صبح بھی نیت کی جاسکتی ہے۔ یہ امام شافعی، احمد اور اسحاق کا قول ہے۔

باب ۴۹۸۔ نفل روزہ توڑنا۔

باب ۴۹۸۔ مَا جَاءَ فِي افْطَارِ الصَّائِمِ الْمُتَطَوِّعِ

۶۳۴۔ حضرت ام ہانیؓ فرماتی ہیں کہ میں آنحضرت ﷺ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ ﷺ کی خدمت میں کوئی پینے والی چیز پیش کی گئی۔ آپ ﷺ نے اس سے پیا پھر مجھے دیا میں نے بھی پیا۔ پھر میں نے عرض کیا مجھ سے گناہ مرزد ہو گیا ہے میرے لیے استغفار کیجئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا گناہ ہوا؟ میں نے کہا: میں روزے سے تھی اور روزہ ٹوٹ گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا آپ نے قضاء روزہ رکھا ہوا تھا؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا: اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

۶۳۴۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا أَبُو الْاِحْوَصِ عَنْ سَمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ ابْنِ اُمِّ هَانِيٍّ عَنْ اُمِّ هَانِيٍّ قَالَتْ كُنْتُ قَاعِدَةً عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَيْتُ بِشَرَابٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ ثُمَّ نَاوَلْنِي فَشَرِبْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ اِنِّي اَذْنَبْتُ فَاَسْتَغْفِرُنِي قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَتْ كُنْتُ صَائِمَةً فَاَفْطَرْتُ فَقَالَ اَمِيْنُ قَضَاءٌ كُنْتَ تَقْضِيْنَهُ قَالَتْ لَا قَالَ فَلَا يَضُرُّكَ

اس باب میں ابوسعیدؓ اور عائشہؓ سے بھی روایت ہے اور ام ہانیؓ کی حدیث میں کلام ہے۔ بعض علماء صحابہ وغیرہ کا اسی پر عمل ہے کہ اگر کوئی شخص نقلی روزہ توڑ دے تو اس پر قضاء واجب نہیں۔ ہاں اگر وہ چاہے کہ رکھے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ یہ سفیان ثوری، شافعی، احمد اور اسحاق کا قول ہے۔

۶۳۵۔ محمود بن غیلان، ابوداؤد سے وہ شعبہ سے اور وہ سماک بن حرب سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے ام ہانیؓ کی اولاد میں سے کسی سے یہ حدیث سنی اور پھر ان میں سے افضل ترین شخص جمعہ سے ملاقات کی۔ ام ہانیؓ ان کی دادی ہیں چنانچہ وہ اپنی دادی سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ان کے پاس آئے اور کچھ پینے کے لیے طلب کیا اور پیا۔ پھر ام ہانیؓ کو دیا تو انہوں نے بھی پیا۔ پھر کہا یا رسول اللہ! میں تو روزے سے تھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: نقلی روزہ رکھنے والا اپنے نفس کا امین ہوتا ہے اگر چاہے تو روزہ رکھے اور چاہے تو افطار کر لے، شعبہ نے کہا کیا تم نے خود یہ ام ہانیؓ سے سنا تو کہنے لگے نہیں۔ مجھے یہ واقعہ میرے گھر والوں اور ابوصالح نے سنایا۔

۶۳۵۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ نَا دَاوُدُ نَا شُعْبَةُ قَالَ كُنْتُ اَسْمَعُ سَمَاكَ بْنَ حَرْبٍ يَقُوْلُ اَحَدَيْتَنِي اُمُّ هَانِيٍّ حَدَّثَنِي فَلَقِيْتُ اَنَا اَفْضَلَهُمْ وَكَانَ اسْمُهُ جَعْدَةً وَكَانَتْ اُمُّ هَانِيٍّ حَدَّثَهُ فَحَدَّثَنِي عَنْ جَدِّتَيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَذَعَى بِشَرَابٍ فَشَرِبْتُ ثُمَّ نَا وَلَهَا فَشَرِبْتُ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَمَّا اِنِّي كُنْتُ صَائِمَةً فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ اَمِيْنٌ نَفْسِهِ اِنْ شَاءَ صَامَ وَاِنْ شَاءَ اَفْطَرَ قَالَ شُعْبَةُ قُلْتُ لَهُ اَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ اُمِّ هَانِيٍّ قَالَ اَخْبَرَنِي أَبُو صَالِحٍ وَاَهْلُنَا عَنْ اُمِّ هَانِيٍّ

حماد بن سلمہ یہ حدیث سماک سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ام ہانی کے نواسے ہارون اپنی نانی، ام ہانی سے روایت کرتے ہیں۔ اور شعبہ کی روایت احسن ہے۔ محمود بن غیلان، ابو داؤد کے حوالے سے روایت کرتے ہوئے ”امین نفسہ“ کے الفاظ محمود کے علاوہ دوسرے راوی ابو داؤد ہی سے ”امیر نفسہ“ یا ”امین نفسہ“ کے الفاظ نقل کرتے ہیں (یعنی راوی کا شک) اسی طرح کئی طرق سے شعبہ سے راوی کا یہی شک مروی ہے کہ ”امیر نفسہ“ یا ”امین نفسہ“

۶۳۶۔ ام المؤمنین حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں ایک مرتبہ حضور اکرم ﷺ گھر میں داخل ہوئے اور پوچھا: کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ میں نے عرض کی: نہیں۔ فرمایا: میں روزے سے ہوں۔

۶۳۶۔ حَدَّثَنَا عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ قَالَتْ قُلْتُ لَا قَالَ فَإِنِّي صَائِمٌ

۶۳۷۔ ام المؤمنین حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں: آنحضرت ﷺ جب دن میں میرے یہاں آتے تو پوچھتے کچھ کھانے کو ہے؟ اگر میں کہتی کہ نہیں تو آپ ﷺ فرماتے: میں روزے سے ہوں۔ چنانچہ ایک مرتبہ تشریف لائے تو میں نے عرض کیا: آج ہمارے ہاں کھانا ہدیے کے طور پر آیا ہے آپ ﷺ نے پوچھا: کیا ہے؟ میں نے عرض کیا: جیس ہے۔ فرمایا: میں نے تو صبح روزے کی نیت کر لی تھی۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں پھر آنحضرت ﷺ نے اسے کھایا۔

۶۳۷۔ حَدَّثَنَا محمود بن غيلان نا بشر بن السري عن سفیان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول أعندك غداءً فأقول لا فيقول إني صائمٌ قالت فأتاني يوماً فقلت يا رسول الله إنه قد أهديت لنا هدية قال وما هي قلت حيس قال أما إني أصبحت صائماً قالت ثم أكل

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔

باب ۴۹۹۔ نفل روزے کی قضاء واجب ہے۔

باب ۴۹۹۔ مَا جَاءَ فِي إِيْجَابِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ

۶۳۸۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں اور حفصہؓ روزے سے تھیں کہ ہمیں کھانا پیش کیا گیا۔ ہمارا جی چاہا کہ کھالیں چنانچہ ہم نے اس میں سے کچھ کھالیا۔ پھر جب آنحضرت ﷺ تشریف لائے تو حفصہؓ آپ ﷺ سے پوچھنے میں مجھ سے سبقت لے گئیں کیوں کہ وہ تو باپ کی بیٹی تھیں (یعنی یہ عمر کی بیٹی تھیں اور انہی کی طرح ہوشیار تھیں) حفصہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم دونوں روزے سے تھیں کہ کھانا آ گیا اور اسے دیکھ کر ہمارا کھانے کو جی چاہا۔ چنانچہ ہم نے اس میں سے کھالیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس روزے کے بدلے کسی دوسرے دن اس کی قضا میں روزہ رکھو۔

۶۳۸۔ حَدَّثَنَا احمد بن منيع نا كثير بن هشام نا جعفر بن برقان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فاكلنا منه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني اليه حفصة وكانت ابنة ابيها فقالت يا رسول الله إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فاكلنا منه قال أفصيا يوماً آخر مكانه

امام ترمذی کہتے ہیں: صالح بن ابوالخضر اور محمد بن ابوالخصہ بھی یہ حدیث زہری سے وہ عروہ سے اور وہ عائشہ سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ مالک بن انس، معمر، عبید اللہ بن عمر، زیاد بن سعد اور کئی حفاظ حدیث زہری سے بحوالہ عائشہ مرسلاً روایت کرتے ہیں۔

حضرات اپنی روایت میں عروہ کا ذکر نہیں کرتے۔ یہ حدیث اصح ہے۔ اس لیے کہ ابن جریج نے زہری سے پوچھا کہ کیا آپ سے عروہ نے عائشہ کے حوالے سے کوئی حدیث روایت کی ہے؟ تو کہنے لگے میں نے اس کے متعلق عروہ سے کوئی چیز نہیں سنی۔ ہاں البتہ سلیمان بن عبدالملک کے دور خلافت میں ایسے کئی لوگوں سے یہ حدیث سنی جنہوں نے ایسے حضرات سے سنی تھی جنہوں نے حضرت عائشہ سے خود سنی تھی۔ ہمیں یہ بات عیسیٰ بن یزید بغدادی نے عبادہ کے اور انہوں نے ابن جریج کے حوالے سے بتائی۔ علماء صحابہ اور دیگر علماء کی ایک جماعت اسی حدیث پر عمل پیرا ہے۔ ان کے نزدیک نفلی روزہ توڑنے پر قضا واجب ہے یہ مالک بن انس کا بھی قول ہے۔

باب ۵۰۰۔ مَا جَاءَ فِيهِ وَصَالِ شُعْبَانَ بِرَمَضَانَ

باب ۵۰۰۔ شعبان اور رمضان کے روزے ملا کر رکھنا۔

۶۳۹۔ حَدَّثَنَا بَنْدَارٌ نَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنِ

۶۳۹۔ حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں: میں نے آنحضرت ﷺ کو رمضان

سَفْيَانَ عَنِ مَنْصُورٍ عَنِ سَالِمِ بْنِ الْجَعْدِ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ

اور شعبان کے ملاوہ دو مہینے متواتر روزے رکھتے نہیں دیکھا۔

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلَّا شُعْبَانَ وَرَمَضَانَ

اس باب میں حضرت عائشہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: حضرت ام سلمہؓ کی حدیث حسن ہے۔ یہ حدیث ابو سلمہ سے بھی حضرت عائشہ کے واسطے سے مروی ہے کہ ”میں نے آنحضرت ﷺ کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ ﷺ اس ماہ کے اکثر ایام میں روزے رکھتے بلکہ پورے مہینے میں ہی روزے رکھتے تھے۔“ یہ حدیث ہم نے ہناد سے ان سے عبیدہ نے ان سے محمد بن عمرو نے ان سے ابو سلمہ نے ان سے عائشہ نے اور انہوں نے آنحضرت ﷺ سے روایت کی ہے۔ سالم بن ابوالنضر اور کئی راوی بھی ابو سلمہ سے بحوالہ عائشہ، محمد بن عمرو کی حدیث کے مثل روایت کرتے ہیں۔ ابن مبارک سے اس حدیث کے متعلق مروی ہے کہ: اگر کوئی مہینے کے اکثر ایام میں روزے رکھے تو اس کے متعلق یہ کہا جاتا کہ اس نے پورے ماہ کے روزے رکھے۔ قاعدے کے مطابق جائز ہے چنانچہ کہا جاتا ہے فلاں نے پوری رات نماز پڑھی حالانکہ اس نے اس دوران ممکن ہے کہ کھانا بھی کھایا ہو اور دوسرے کام بھی کیے ہوں۔ ابن مبارک کے نزدیک ام سلمہ اور عائشہ کی حدیث دونوں ایک ہی ہیں اور اس سے مراد یہی ہے کہ مہینے کے اکثر ایام میں روزہ رکھتے تھے۔

باب ۵۰۱۔ رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کے دوسرے پندرہ دنوں

باب ۵۰۱۔ مَا جَاءَ فِيهِ كَرَاهِيَةَ الصَّوْمِ فِي النِّصْفِ

میں روزے رکھنا مکروہ ہے۔

الْبَاقِي مِنْ شُعْبَانَ لِحَالِ رَمَضَانَ

۶۴۰۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب

۶۴۰۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ

شعبان کا مہینہ آدھا رہ جائے تو روزے نہ رکھا کرو۔

الْبَعْلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَقِيَ نِصْفُ

مِنْ شُعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ہم اسے اس سند اور ان الفاظ ہی سے جانتے ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزے نہیں رکھ رہا تھا پھر جب شعبان کے کچھ دن باقی رہ گئے تو روزے رکھنا شروع کر دیئے۔ (یعنی یہ نبی ایسے شخص کے متعلق ہے) حضرت ابو ہریرہؓ سے بھی اسی طرح کا قول مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: رمضان سے پہلے اس کے استقبال کے لیے کوئی شخص روزے نہ رکھے بجز اس کے کہ ایسا اتفاق ہو جائے کہ وہ دن ایسے ہوں جن میں ہم ہمیشہ سے روزے رکھتا آیا ہے۔ چنانچہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ کراہت اس شخص کے لیے ہے۔ جو رمضان کی تعظیم و استقبال کی نیت سے شعبان کے دوسرے پندرہ روزے میں روزے رکھے۔

توضیح: کراہت کا یہ حکم صرف اس صورت میں ہے کہ کوئی شخص شعبان کے آخری دنوں میں روزے رکھنے شروع کرے اور مہینے کے شروع سے نہ رکھ رہا ہو۔ پھر یہ نہ قضاء کے روزے ہوں اور نہ ان دنوں روزے رکھنے کی اس کی عادت ہو۔ مزید یہ کہ یہ کراہت بھی بندوں پر شفقت کی وجہ سے ہے تاکہ رمضان میں ضعف کا خطرہ نہ رہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۵۰۲۔ شب برات کے متعلق۔

باب ۵۰۲۔ مَا جَاءَ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ

۶۴۱۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے آنحضرت ﷺ کو موجود نہ پایا تو نکلی اور تلاش کیا۔ آپ ﷺ تہجد میں تھے۔ فرمانے لگے، کیا تم ڈر رہی تھیں کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم نہ کریں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں سمجھی شاید آپ کسی دوسری بیوی کے ہاں گئے ہوں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی پندرہویں رات کو دنیا کے آسمان پر اترتے اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔

۶۴۱۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ نَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ فَخَرَجْتُ فَإِذَا هُوَ بِالْبَيْعِ فَقَالَ أَكُنْتُ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَرَسُولُهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ آتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرِ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمٍ كُلِّبٍ

اس باب میں ابو بکر صدیقؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، ہم حضرت عائشہؓ کی حدیث کو حجاج کی روایت سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ امام بخاری اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یحییٰ بن کثیر نے عروہ سے اور حجاج نے یحییٰ بن کثیر سے کوئی حدیث نہیں سنی۔

باب ۵۰۳۔ محرم کے روزے

باب ۵۰۳۔ مَا جَاءَ فِي صَوْمِ الْمُحَرَّمِ

۶۴۲۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: رمضان کے بعد افضل ترین روزے اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کے ہیں۔

۶۴۲۔ حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشْرٍ عَنْ حَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَمِيرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔

۶۴۳- نعمان بن سعد حضرت علیؑ سے نقل کرتے ہیں کہ کسی شخص نے ان سے پوچھا کہ رمضان کے علاوہ کون سے مہینے میں روزے رکھنے کا حکم ہے۔ حضرت علیؑ نے فرمایا: میں نے ایک شخص کے علاوہ کسی کو آنحضرت ﷺ سے یہ سوال کرتے ہوئے نہیں سنا۔ میں اس وقت آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر تھا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ مجھے رمضان کے علاوہ کون سے مہینے میں روزے رکھنے کا حکم دیتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر رمضان کے بعد روزے رکھنا ہی ہیں تو محرم میں رکھا کرو یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک دن ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس روز ایک قوم کی توبہ قبول کی تھی۔ اور اسی میں دوسری قوم پر بھی دوبارہ فضل و کرم فرمائے گا۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔

باب ۵۰۴- جمعہ کو روزہ رکھنا۔

۶۴۴- حضرت عبداللہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ ہر مہینے کے ابتدائی تین روز روزے رکھتے اور جمعے کے دن بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ آپ ﷺ روزے سے نہ ہوں۔

۶۴۳- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ نَا عَلِيَّ بْنَ مَسْهَرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ سَأَلْتُ رَجُلًا أَيْ شَهْرٍ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصُومَ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ لَهُ مَا سَمِعْتُ أَحَدًا يُسْأَلُ عَنْ هَذَا إِلَّا رَجُلًا سَمِعْتُهُ يُسْأَلُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا قَاعِدٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْ شَهْرٍ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصُومَ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ إِنْ كُنْتُ صَائِمًا بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَصُمِ الْمُحْرَمَ فَإِنَّهُ شَهْرُ اللَّهِ فِيهِ يَوْمٌ تَابَ اللَّهُ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ وَيَتُوبُ فِيهِ يَوْمٌ تَابَ اللَّهُ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ وَيَتُوبُ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ

باب ۵۰۴- مَا جَاءَ فِي صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

۶۴۴- حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مَوْسَى وَطَلْقُ بْنُ غَنَامٍ عَنِ شَيْبَانَ عَنِ عَاصِمِ بْنِ زُرَّارٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَقَلَّمَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

اس باب میں ابن عمرؓ اور ابو ہریرہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی عبداللہؓ کی حدیث کو حسن غریب کہتے ہیں۔ علماء کی ایک جماعت جمعہ کے دن روزہ رکھنے کو مستحب کہتی ہے۔ ان کے نزدیک جمعہ کا روزہ اس صورت میں رکھنا کہ اس سے پہلے اور بعد کوئی روزہ نہ رکھے مگر وہ ہے۔

باب ۵۰۵- صرف جمعے کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔

۶۴۵- حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص صرف جمعے کا روزہ نہ رکھے بلکہ اس سے پہلے یا اس کے بعد بھی ایک روزہ رکھے۔

۵۰۵- مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَحَدَّةِ ۶۴۵- حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ أَبِي مَعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ

اس باب میں حضرت علیؑ، جابرؓ، جنادہ ازدیؓ، جویریہؓ، انسؓ اور عبداللہ بن عمروؓ سے روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حسن صحیح ہے۔ علماء کا اسی پر عمل ہے کہ صرف جمعے کے دن روزہ رکھنا اور اس کے ساتھ دوسرا روزہ نہ ملانا مکروہ ہے احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں۔

باب ۵۰۶۔ مَا جَاءَ فِي صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ

۶۴۶۔ حَدَّثَنَا حَمِيدُ بْنُ مَسْعَدَةَ نَافِعِ بْنِ سَبْيَانَ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسَيْرٍ عَنْ أُخْتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِي مَا افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضِغْهُ

باب ۵۰۶۔ ہفتے کے دن روزہ رکھنا۔

۶۴۶۔ حضرت عبداللہ بن بسر اپنی بہن سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ہفتے کے دن فرض روزوں کے علاوہ کوئی روزہ نہ رکھا کرو۔ بلکہ اگر کسی کے پاس اس روز کھانے کو کچھ نہ ہو تو انگور کی چھال یا کسی درخت کی لکڑی بھی چبا کر روزہ توڑے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ ہفتے کے دن کو روزہ کے لیے مخصوص نہ کیا جائے کیونکہ یہودی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں۔

باب ۵۰۷۔ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنا۔

۶۴۷۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ پیر اور جمعرات کو خاص طور پر روزہ رکھا کرتے تھے۔

باب ۵۰۷۔ مَا جَاءَ فِي صَوْمِ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ ۶۴۷۔ حَدَّثَنَا ابُو حَفْصِ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلَّاسُ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ

اس باب میں حضرت حفصہؓ، ابوقادہؓ اور اسامہ بن زیدؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کے نزدیک حدیث عائشہؓ اس سند سے حسن ہے۔

۶۴۸۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک ماہ میں ہفتہ، اتوار اور پیر کو اور دوسرے ماہ میں منگل، بدھ اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔

۶۴۸۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ نَافِعِ بْنِ مَسْعَدَةَ وَمَعَاوِيَةَ بْنِ هِشَامٍ قَالَا نَافِعِ بْنِ مَسْعَدَةَ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ السَّبْتِ وَالْاِحْدِ وَالْاِثْنَيْنِ وَمِنَ الشَّهْرِ الْاٰخِرِ الثَّلَاثَاءِ وَالْاَرْبَعَاءِ وَالْخَمِيسِ

امام ترمذی کے نزدیک یہ حدیث حسن ہے اور عبدالرحمن بن مہدی بھی یہ حدیث سفیان سے غیر مرفوع روایت کرتے ہیں۔

۶۴۹۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔

۶۴۹۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى نَافِعِ بْنِ مَسْعَدَةَ وَمَعَاوِيَةَ بْنِ هِشَامٍ قَالَا نَافِعِ بْنِ مَسْعَدَةَ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ السَّبْتِ وَالْاِحْدِ وَالْاِثْنَيْنِ وَمِنَ الشَّهْرِ الْاٰخِرِ الثَّلَاثَاءِ وَالْاَرْبَعَاءِ وَالْخَمِيسِ

أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ

امام ترمذی کہتے ہیں کہ اس باب میں یہ حدیث غریب ہے۔

باب ۵۰۸۔ مَا جَاءَ فِي صَوْمِ الْأَرْبَعَاءِ وَالْخَمِيسِ

۶۵۰۔ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَرِيرِيُّ وَ

مُحَمَّدُ بْنُ مَدْوِيَةَ قَالَ نَا عُبَيْدَ اللَّهِ بْنِ

مُوسَى نَا هَارُونَ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمُسْلِمِ

الْقُرَشِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَوْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ فَقَالَ إِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ

حَقًّا ثُمَّ قَالَ صُمْ رَمَضَانَ وَالَّذِي يَلِيهِ وَكُلَّ أَرْبَعَاءٍ

وَخَمِيسٍ فَإِذَا آتَتْ قَدْ صُمَّتِ الدَّهْرُ وَأَفْطَرْتَ

باب ۵۰۸۔ بدھ اور جمعرات کو روزہ رکھنا

۶۵۰۔ حضرت عبید اللہ بن مسلم قرشی اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میں

نے یا کسی شخص نے آپ ﷺ سے پورا سال روزے رکھنے کے متعلق

پوچھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے۔ پھر

فرمایا: رمضان کے روزے رکھو پھر شوال کے اور اس کے بعد ہر بدھ اور

جمعرات کو روزہ رکھ لیا کرو اگر تم نے ایسا کیا تو گویا تم نے تمام سال

کے روزے بھی رکھے اور افطار بھی کیا (یعنی مذکورہ ایام کے روزے

رکھنے سے پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ہے)۔ (۱)

اس باب میں حضرت عائشہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں مسلم قرشی کی حدیث غریب ہے۔ یہ حدیث بعض حضرات

ہارون بن سلیمان سے بحوالہ مسلم بن عبید اللہ اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔

توضیح: امام ترمذی نے یہاں کئی ابواب میں مختلف دنوں میں روزہ رکھنے کے متعلق احادیث ذکر کی ہیں یہاں یہ مد نظر رکھنا چاہئے

کہ کسی خاص دن کے روزے کے مستحب ہونے کے بارے میں ایک اصولی قاعدہ ہے کہ ہر وہ روزہ جس کے بارے میں کوئی حدیث

بروی ہو اور اس میں کفار کی تشبیہ نہ ہو۔ وہ مستحب ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۵۰۹۔ عَرَفَةَ دِنَ رُزْوَةٍ رُكْحَنِي كِي فَضِيْلَتِ۔

۶۵۱۔ حضرت ابوقادہؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: مجھے امید

ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ ایک سال پیشتر اور ایک سال بعد کے

گناہوں کو دھو دیتا ہے۔

باب ۵۰۹۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّوْمِ يَوْمَ عَرَفَةَ

۶۵۱۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ وَاحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الضَّبِيِّ قَالَا نَا

حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غِيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

مَعْبُدِ الرُّمَّانِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ

يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ

اس باب میں ابوسعیدؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابوقادہؓ کی حدیث حسن ہے۔ علماء عرفہ نے دن عرفات کے علاوہ

روزہ رکھنے کو مستحب کہتے ہیں۔

توضیح: عرفہ کا دن ذوالحجہ کی نوتا، بخ کو کہتے ہیں۔ اس دن روزہ رکھنا مستحب ہے لیکن حجاج کے لیے عرفات میں روزہ رکھنا مکروہ

ہے۔ آنحضرت ﷺ نے بھی عرفات میں روزہ نہیں رکھا۔ ہاں البتہ اگر کسی حاجی کو یقین ہو کہ روزہ رکھنے سے اس میں ضعف نہیں پیدا ہوگا تو

اس کے لیے بھی یہ مستحب ہی ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۵۱۰۔ عَرَفَاتِ فِي صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ

۶۵۲۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے عرفہ کے

باب ۵۱۰۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ

۶۵۲۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُثَيْبَةَ نَا

(۱) اس سے مراد شوال کے چھ روزے ہیں۔ (مترجم)

ایوب عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْطَرَ بِعَرَفَةَ وَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أُمُّ الْفَضْلِ بِلَبْنٍ فَشَرِبَ
 دن روزہ نہیں رکھا۔ چنانچہ ام فضلؓ نے آپ ﷺ کی خدمت میں دودھ
 بھیجا تو پی لیا۔

اس باب میں ابو ہریرہؓ، ابن عمرؓ اور ام فضلؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث ابن عباس حسن صحیح ہے ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے آنحضرت ﷺ کے ساتھ حج کیا تو آپ ﷺ نے عرفے کے دن روزہ نہیں رکھا۔ اسی طرح حضرت ابو بکرؓ، عمرؓ اور عثمانؓ نے بھی اس روز حج میں روزہ نہیں رکھا۔ اکثر علماء اسی پر عمل کرتے ہیں کہ عرفے کے دن روزہ نہ رکھنا مستحب ہے تاکہ حاجی دعاؤں وغیرہ کے وقت ضعف محسوس نہ کرے۔ جب کہ بعض علماء نے عرفات میں بھی عرفے کے دن روزہ رکھا ہے۔

۶۵۳۔ حدثنا احمد بن منيع و علي بن حجر قالا
 نا سفيان عن عيينة واسماعيل بن إبراهيم عن ابن
 أبي نجيح عن أبيه قال سئل ابن عمر عن صوم يوم
 عرفة بعرفة قال حححت مع النبي صلى الله عليه
 وسلم فلم يصمه ومع أبي بكر فلم يصمه ومع عمر
 فلم يصمه ومع عثمان فلم يصمه وأنا لا أصومه
 ولا أمر به ولا أنهي عنه۔
 ۶۵۳۔ ابن ابی شیح اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ابن عمرؓ سے عرفات
 میں عرفے کے دن روزہ رکھنے کا حکم پوچھا تو فرمایا: میں نے آنحضرت
 ﷺ کے ساتھ حج کیا آپ ﷺ نے روزہ نہیں رکھا اسی طرح ابو بکرؓ، عمرؓ اور
 عثمانؓ نے بھی اس دن روزہ نہیں رکھا یعنی حج کے دوران۔ چنانچہ میں
 اس دن روزہ نہیں رکھتا اور نہ ہی کسی کو اس کا حکم دیتا یا اس سے منع کرتا
 ہوں۔

امام ترمذی کے نزدیک یہ حدیث حسن ہے۔ ابویح کا نام یہاں ہے۔ انہوں نے ابن عمرؓ سے یہ حدیث سنی ہے یہ حدیث اس سند سے بھی مروی ہے کہ ابن شیح اپنے والد سے وہ ایک شخص سے اور وہ ابن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں۔

باب ۵۱۱۔ مَا جَاءَ فِي الْحِثِّ عَلَى صَوْمِ يَوْمِ
 عَاشُورَاءَ
 باب ۵۱۱۔ عاشورے کے روزے کے متعلق ترغیب۔

۶۵۴۔ حدثنا قتيبة واحمد بن عبدة الضبي قالا نا
 حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن
 معبد الزماني عن أبي سادة أن النبي صلى الله عليه
 وسلم قال صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على
 الله أن يكفر السنة التي قبله۔
 ۶۵۴۔ حضرت ابو قتادہؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: مجھے امید
 ہے کہ جو شخص عاشوراء (۱) کے دن روزہ رکھے اس کے گزشتہ سال کے
 تمام گناہ معاف کر دیئے جائیں۔

اس باب میں حضرت علیؓ، محمد بن صفیؓ، سلمہ بن اکوعؓ، ہند بن اسماہؓ، ابن عباسؓ، ربیع بنت معوذ بن عمروؓ، عبد اللہ خزاعیؓ عبد اللہ بن زبیرؓ اور عبد اللہ بن سلمہؓ سے بھی روایت ہے۔ عبد اللہ بن سلمہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں۔ یہ سب حضرات فرماتے ہیں کہ ”آنحضرت ﷺ نے عاشورے کے روزے کی ترغیب دی۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو قتادہؓ کی حدیث کے علاوہ کسی روایت میں یہ الفاظ مذکور نہیں کہ عاشورے کا روزہ پورے سال کا کفارہ ہے احمد اور اسحاق ابو قتادہؓ کی حدیث ہی کے قائل ہیں۔“

توضیح: عاشوراء کے روزے میں مسنون یہ ہے کہ اس سے پہلے یا بعد ایک روزہ ملا کر یہود کے ساتھ اس کی مشابہت ختم کر دی جائے کیوں کہ آنحضرت ﷺ نے اپنی وفات سے پہلے فرمایا کہ آئندہ میں صرف عاشوراء کا روزہ نہیں رکھوں گا بلکہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا۔ لیکن آپ ﷺ اس پر عمل نہ فرما سکے کیوں کہ اس پر عمل سے پہلے ہی آپ ﷺ کی وفات ہو گئی تھی۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۵۱۲۔ مَا جَاءَ فِي الرُّحْصَةِ فِي تَرْكِ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

۶۵۵۔ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ اسْلِقَ الْهَمْدَانِيُّ نَا عُبَيْدَةَ بْنَ سَلِيمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ عَاشُورَاءَ يَوْمَ تَصَوْمُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ فَلَمَّا افْتُرِضَ رَمَضَانَ كَانَ رَمَضَانَ هُوَ الْفَرِيضَةُ وَتَرَكَ عَاشُورَاءَ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ

۶۵۵۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں: قریش، رسول اللہ ﷺ سے پہلے عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے پھر آپ ﷺ نے بھی اس دن روزہ رکھا۔ چنانچہ جب آپ ﷺ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس کا حکم دیا لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو انہی کی فرضیت باقی رہ گئی اور عاشوراء کی فرضیت ختم ہو گئی۔ پھر جس نے چاہا رکھا اور جس نے چاہا چھوڑ دیا۔

اس باب میں ابن مسعود، قیس بن سعد، جابر بن سمرہ، ابن عمر اور معاذیہ سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں علماء کا حضرت عائشہؓ ہی کی حدیث پر عمل ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ ان کے نزدیک عاشوراء کا روزہ واجب نہیں۔ چنانچہ جس کا جی چاہے وہ رکھ لے کیونکہ اس کی بہت فضیلت ہے۔

باب ۵۱۳۔ مَا جَاءَ فِي عَاشُورَاءَ أَيُّ يَوْمٍ هُوَ

۶۵۶۔ حَدَّثَنَا هِنَادٌ وَابُو كَرِيبٍ قَالَا نَا وَكَيْعٌ عَنْ حَاجِبِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ فِي زَمْرَمٍ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَيُّ يَوْمٍ أَصُومُهُ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ الْمُحَرَّمِ فَاعْبُدُوا ثُمَّ أَصْبِحْ مِنْ يَوْمِ التَّاسِعِ صَائِمًا قَالَ قُلْتُ أَهَكَذَا كَانَ يَصُومُهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ

۶۵۶۔ حکم بن اعرج کہتے ہیں۔ میں ابن عباسؓ کے پاس گیا۔ وہ زحرم کے پاس اپنی چادر سے تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ میں نے کہا: مجھے عاشوراء کے متعلق بتائیے کہ کون سا دن ہے فرمایا: جب تم محرم کا چاند دیکھو تو دن گنتا شروع کر دو اور نوے دن روزہ رکھو۔ میں نے کہا: کیا آنحضرت ﷺ بھی اسی دن روزہ رکھا کرتے تھے؟ فرمایا: ہاں۔

۶۵۷۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَوْمِ عَاشُورَاءَ يَوْمِ الْعَاشِرِ

۶۵۷۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے عاشوراء کا روزہ دس محرم کو رکھنے کا حکم دیا۔

امام ترمذی کہتے ہیں ابن عباسؓ کی حدیث حسن صحیح ہے علماء کا عاشورے کے دن میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں، کہ نو محرم اور بعض دس محرم کو عاشوراء کا دن کہتے ہیں ابن عباسؓ سے یہ بھی مروی ہے کہ ”نوے اور دسویں محرم کو روزہ رکھ کر یہود کی مخالفت کرو۔“

باب ۵۱۴۔ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ الْعَشْرِ

باب ۵۱۴۔ ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں روزہ رکھنا

۶۵۸۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ أَبُو مَعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ

۶۵۸۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ کو ذوالحجہ کے

ابِرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ

پہلے دس دن میں روزہ رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ

امام ترمذی کہتے ہیں: کئی حضرات اعمش سے بھی اسی طرح روایت کرتے ہیں وہ ابراہیم سے وہ اسود سے اور وہ عائشہ سے روایت

کرتے ہیں ثوری وغیرہ بھی یہ حدیث منصور سے اور وہ ابراہیم سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کو ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں

روزے سے نہیں دیکھا گیا۔ ابواحوص، منصور سے وہ ابراہیم سے اور وہ عائشہ سے روایت کرتے ہوئے اسود کا ذکر نہیں کرتے۔ منصور کی

روایت میں علماء کا اختلاف ہے جب کہ اعمش کی روایت اصح اور اس کی سند متصل ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: محمد بن ابان، وکیع کے

حوالے سے کہتے ہیں کہ اعمش ابراہیم کی سند کے معاملے میں منصور سے زیادہ احفظ ہیں۔

باب ۵۱۵۔ مَا جَاءَ فِي الْعَمَلِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ

باب ۵۱۵۔ ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں اعمال صالحہ کی فضیلت۔

۶۵۹۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ أَبُو مَعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ

۶۵۹۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ذوالحجہ

کے پہلے دس دنوں میں کیے گئے اعمال صالحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے

نزدیک تمام ایام میں کیے گئے نیک اعمال سے زیادہ محبوب ہیں۔ صحابہ

نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر ان دس ایام کے علاوہ اللہ کی راہ میں جہاد

کرے تو بھی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں تب بھی انہی ایام کا عمل زیادہ

محبوب ہے ہاں البتہ اگر کوئی شخص اپنی جان و مال دونوں چیزیں لے کر

جہاد میں نکلا، اور واپسی میں اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ (تو یہ افضل

ہے)۔

مُسْلِمٌ وَهُوَ ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ الْبَطْنِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ

جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ

إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ

وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ

بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ

اس باب میں ابن عمرؓ، ابو ہریرہؓ، عبداللہ بن عمرؓ اور جابرؓ سے روایت ہے۔ امام ترمذی کے نزدیک یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

۶۶۰۔ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْبَصْرِيُّ نَا مَسْعُودَ

۶۶۰۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ

کے نزدیک ذوالحجہ کے پہلے عشرے کی عبادت تمام دنوں کی عبادت

سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ان ایام میں سے ایک دن کا روزہ پورے سال

کے روزوں اور ایک رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔

بْنِ وَاصِلٍ عَنِ نَحَّاسِ بْنِ فَهْمٍ عَنِ قَتَادَةَ عَنِ سَعِيدِ

بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهَا فِيهَا

مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ يُعَدُّ صِيَامًا كُلُّ يَوْمٍ مِنْهَا

بِصِيَامِ سَنَةٍ وَقِيَامًا كُلُّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے ہم اسے مسعود بن واصل کی نہاس سے روایت کے علاوہ نہیں جانتے۔ میں نے امام

بخاری سے اس کے متعلق پوچھا تو انہیں بھی اس سند کے علاوہ کسی اور طریق کا علم نہیں تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ قتادہ، سعید بن مسیب سے اور وہ

آنحضرت ﷺ سے اسی طرح کی حدیث مرسلہ مروی ہے۔

باب ۵۱۶۔ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ

باب ۵۱۶۔ شوال کے چھ روزوں کے متعلق۔

۶۶۱۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا أَبُو مَعَاوِيَةَ نَا سَعْدُ

۶۶۱۔ حضرت ابو ایوبؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جس نے

بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قَالَ قَالَ

رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال میں بھی چھ روزے رکھے گویا

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَامٍ رَمَضَانَ

کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔

ثُمَّ اتَّبَعَهُ بِسِتِّ مِنْ شَوَّالٍ فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ

اس باب میں حضرت جابرؓ، ابو ہریرہؓ اور ثوبانؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو ایوبؓ کی حدیث حسن صحیح ہے علماء اس

حدیث کی وجہ سے شوال کے چھ روزوں کو مستحب کہتے ہیں۔ ابن مبارک کا کہنا ہے کہ یہ روزے رکھنا ہر ماہ کے تین روزے رکھنے کی طرح

بہتر ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ بعض روایات میں مروی ہے کہ ان روزوں کو ”رمضان کے روزوں کے ساتھ ملا کر رکھے“ لہذا یہ روزے شوال

کے شروع میں ہی رکھے جانے چاہئیں۔ لیکن شوال میں متفرق ایام کے چھ روزے رکھنا بھی جائز ہے۔ یعنی ان میں تسلسل ضروری نہیں۔

امام ترمذی کہتے ہیں: عبدالعزیز بن محمد، صفوان بن سلیم سے اور وہ سعد بن سعید سے یہ حدیث عمر بن ثابت کے حوالے سے روایت کرتے

ہیں وہ ابو ایوبؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ شعبہ بھی یہ حدیث ورقاء بن عمر سے اور وہ سعد بن سعید

سے روایت کرتے ہیں سعد بن سعید، یحییٰ بن سعید انصاری کے بھائی ہیں بعض علماء محدثین ان کے حافظے پر اعتراض کرتے ہیں۔

باب ۵۱۷۔ مَا جَاءَ فِي صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

باب ۵۱۷۔ ہر ماہ تین روزے رکھنا۔

۶۶۲۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا أَبُو عَوَانَةَ سَمَاكُ بْنُ حَرْبٍ

۶۶۲۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے مجھ سے تین

عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ عَهْدَ إِلَيَّ رَسُولُ

چیزوں کا عہد لیا۔ ایک یہ کہ وتر پڑھے بغیر نہ سوؤں دوسرے یہ کہ ہر

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ أَنْ لَا أَنَامَ إِلَّا عَلَى وَتَرٍ

مہینے تین دن روزہ رکھوں اور تیسرے یہ کہ چاشت کی نماز پڑھا کروں۔

وَصَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَأَنْ أَصَلِّيَ الضُّحَى

۶۶۳۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَا أَبُو دَاوُدَ ابْنَانَا

شعبة عن الاعمش قال سمعت يحيى بن بسام

يُحَدِّثُ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ

يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا ذَرٍّ

إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ

وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ

اس باب میں ابو قتادہؓ، عبداللہ بن عمروؓ، ابن ایس مزیؓ، عبداللہ بن مسعودؓ، ابو عقربؓ، ابن عباسؓ، قتادہ بن ملحانؓ، عائشہؓ، عثمان بن

عاصؓ اور جریرؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ابو ذرؓ کی حدیث حسن ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ ”جو ہر ماہ تین روزے

رکھے وہ ایسے ہے جیسے پورا سال روزے رکھے“۔

۶۶۴۔ حضرت ابو ذرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر مہینے تین

دن روزے رکھنا پورا سال روزے رکھنے کے برابر ہے اس کی تصدیق

۶۶۴۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ مَعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمِ الْإِخْوَالِ

عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ”من جاء بالحسنة فله، عشر امثالها“ یعنی جو ایک نیکی کرے گا اس کے لیے دس نیکیوں کا ثواب ہے لہذا ایک دن دس دن کے برابر ہوا، اور (تین دن ایک ماہ کے)۔

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تَصْدِيقَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ ”مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا“ الْيَوْمَ بِعَشْرَةِ أَيَّامٍ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ شعبہ بھی یہ حدیث ابو شمیر اور ابو تیح سے وہ عثمان سے اور وہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا..... الحدیث۔

۶۶۵۔ یزید رشک، معاذہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہؓ سے کہا: کیا رسول اللہ ﷺ ہر مہینے تین روزے رکھا کرتے تھے؟ کہنے لگیں: ہاں۔ میں نے کہا کون کون سی تاریخ کو؟ فرمایا: کسی بھی تاریخ کو رکھ لیا کرتے تھے۔

۶۶۵۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَا أَبُو دَاوُدَ نَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدِ الرَّشِكِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاذَةَ قَالَتْ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ قَالَتْ نَعَمْ قُلْتُ مِنْ أَيِّهِ كَانَ يَصُومُ قَالَتْ كَانَ لَا يُبَالِي مِنْ أَيِّهِ صَامَ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور یزید رشک: یزید ضعیفی ہیں یہی یزید بن قاسم اور قاسم ہیں۔ رشک اہل بصرہ کی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی قسام کے ہیں (تقسیم کرنے والا)

۶۶۶۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: تمہارا رب کہتا ہے کہ ایک نیکی دس نیکیوں سے لے کر سات سو نیکیوں تک کے برابر ہے اور روزہ صرف میرے لیے ہے اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا، روزہ دوزخ کی ڈھال ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ بہتر ہے اور اگر تم میں کوئی جاہل، کسی روزے دار سے جھگڑنے لگے تو وہ اسے کہے کہ میں روزے سے ہوں۔

۶۶۶۔ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَازِيُّ الْبَصْرِيُّ نَا عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدِ نَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَبِّكُمْ يَقُولُ كُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضَعِيفٍ وَالصَّوْمُ لِي وَآنَا أَحْزَى بِهِ وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ وَلِخُلُوفٍ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمَسْكِ وَإِنْ جَهِلَ عَلَى أَحَدِكُمْ جَاهِلٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ

اس باب میں حضرت معاذ بن جبلؓ، سعد، کعب بن عمر، سلامہ بن قیس اور بشیر بن خصاصیہ سے بھی روایت ہے بشیر بن خصاصیہ کا نام زحم بن معبد ہے خصاصیہ ان کی والدہ ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو ہریرہؓ کی حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔

۶۶۷۔ حضرت سہل بن سعدؓ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے۔ اس میں سے روزہ داروں کو بلایا جائے گا لہذا جو روزے دار ہو گا وہ اس میں سے داخل ہو گا اور جو اس میں سے داخل ہو گا وہ کبھی پیاسا نہ رہے گا۔

۶۶۷۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْحَنَةِ بَابٌ يُدْعَى الرِّيَّانَ يُدْعَى لَهُ الصَّائِمُونَ فَمَنْ كَانَ مِنَ الصَّائِمِينَ دَخَلَهُ وَمَنْ دَخَلَهُ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

۶۶۸۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک افطار کے وقت دوسری اس وقت جب وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا۔

۶۶۸۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصّٰئِمِ فَرِحْتَ اَنْ فَرِحْتَ حِيْنَ يَفْطِرُ وَفَرِحْتَ حِيْنَ يَلْقَى رَبَّهُ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۵۱۸۔ ہمیشہ روزہ رکھنا۔

۶۶۹۔ حضرت ابوقادہؓ فرماتے ہیں: آنحضرت ﷺ سے اس شخص کے متعلق پوچھا گیا جو ہمیشہ روزہ رکھے آپ ﷺ نے فرمایا: اس نے نہ روزہ رکھا اور نہ ہی افطار کیا۔ راوی کو شک ہے کہ "لاصام ولا افطر" فرمایا، یا "لم يصم ولم يفطر" فرمایا۔ (دونوں کے معنی ایک ہی ہیں)۔

باب ۵۱۸۔ مَا جَاءَ فِي صَوْمِ الدَّهْرِ

۶۶۹۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ وَاحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الضَّمِيّ قَالَا نَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غِيْلَانَ بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْبُدٍ عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ يَمَنْ صَامَ الدَّهْرَ قَالَ لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ اَوْ لَمْ يَصُمْ وَلَا يَفْطِرْ

اس باب میں عبداللہ بن عمرؓ، عبداللہ بن شہیرؓ، عمران بن حصینؓ اور ابوموسیٰؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی حدیث ابوقادہؓ کو حسن کہتے ہیں علماء کی ایک جماعت ہمیشہ روزہ رکھنے کو مکروہ کہتی ہے۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ ہمیشہ روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ عید الفطر، عید الاضحیٰ اور ایام تشریق میں بھی روزے رکھے۔ چنانچہ جو شخص ان دنوں میں روزے نہ رکھے وہ کراہت کے حکم سے خارج ہے۔ مالک بن انسؓ سے اسی طرح مروی ہے اور امام شافعیؒ کا بھی یہی قول ہے۔ احمد اور اسحاق بھی تقریباً یہی کہتے ہیں کہ ان پانچ دنوں کے علاوہ روزہ چھوڑنا واجب نہیں۔ جن میں روزہ رکھنے سے آپ ﷺ نے منع فرمایا: عید الفطر، عید الاضحیٰ اور ایام تشریق۔

باب ۵۱۹۔ بے درپے روزے رکھنا۔

۶۷۰۔ حضرت عبداللہ بن شقیقؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے آنحضرت ﷺ کے روزوں کے متعلق پوچھا تو فرمایا: جب آپ ﷺ روزے رکھنا شروع کرتے تو ہم سوچتے کہ اب آپ ﷺ مستقل روزے رکھیں گے۔ پھر جب افطار کرتے سوچنے لگتے کہ اب آپ ﷺ روزے نہیں رکھیں گے نیز آنحضرت ﷺ نے رمضان کے علاوہ کسی ماہ کے مکمل روزے نہیں رکھے۔

باب ۵۱۹۔ مَا جَاءَ فِي سَرْدِ الصَّوْمِ

۶۷۰۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا حَمَادُ بْنُ نَهِيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ يَصُوْمُ حَتّٰى نَقُوْلَ قَدْ صَامَ وَ يَفْطِرُ حَتّٰى نَقُوْلَ قَدْ أَفْطَرَ وَمَا صَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا كَامِلًا اِلَّا رَمَضَانَ

اس باب میں حضرت انسؓ اور ابن عباسؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۶۷۱۔ حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ ان سے کسی نے آنحضرت ﷺ کے روزوں کے متعلق پوچھا تو فرمایا: آپ ﷺ جب کسی مہینے میں روزے رکھنا شروع کرتے تو ایسے معلوم ہوتا کہ پورا مہینہ روزے رکھیں

۶۷۱۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ نَا اِسْمَاعِيْلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ سُوْلَ عَنْ صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُوْمُ مِنَ الشَّهْرِ

گے اور جب کسی مہینے میں افطار کرتے (روزہ نہ رکھتے) تو ایسا معلوم ہوتا کہ اس مہینے میں روزے رکھیں گے ہی نہیں۔ پھر اگر تم چاہتے کہ آپ ﷺ کو رات کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھو تو دیکھتے کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور اگر سوتے ہوئے دیکھنا چاہتے تو دیکھتے کہ سو رہے ہیں۔ (یعنی ہر مہینے روزہ بھی رکھتے افطار بھی کرتے اور اسی طرح ہر رات نماز بھی پڑھتے اور آرام بھی کرتے)۔

حَتَّى يُرَى أَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَنْ يُفْطِرَ مِنْهُ وَيُفْطِرُ حَتَّى يُرَى أَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْتَهُ مُصَلِّيًا وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتَهُ نَائِمًا

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۶۷۲۔ حضرت عبداللہ بن عمروؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: افضل ترین روزے میرے بھائی داؤد کے تھے کہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے اور جب دشمن کے مقابل آتے تو کبھی فرار کا راستہ اختیار نہ کرتے۔

۶۷۲۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ أَبِي كَعْبٍ عَنْ مَسْعَرٍ وَسَفِيَانَ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصَّوْمِ صَوْمُ أَحِبِّي دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو عباسؓ ایک نابینا شاعر ہیں ان کا نام سائب ابن فروخ ہے بعض علماء کہتے ہیں: افضل ترین روزے یہی ہیں کہ ایک دن روزہ رکھا جائے اور ایک دن افطار کیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شدید ترین روزے ہیں۔ باب ۵۲۰۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّوْمِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ

۶۷۳۔ حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے دو دن روزے رکھنے سے منع فرمایا: عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔

۶۷۳۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامَيْنِ صِيَامِ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ

اس باب میں حضرت عمرؓ، علیؓ، عائشہؓ، ابو ہریرہؓ، عقبہ بن عامرؓ اور انسؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ابوسعیدؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور اسی علماء کا عمل ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: عمرو بن یحییٰؓ، ابن عمارہ بن ابوالحسن مازنی مدینی ہیں یہ ثقہ ہیں۔ ان سے سفیان ثوری، شعبہ اور مالک بن انسؓ روایت کرتے ہیں۔

۶۷۴۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ نَا يُزَيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ نَا مَعْمَرُ بْنُ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدِ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ شَهِدْتُ عَمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي يَوْمِ نَحْرِ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ

۶۷۴۔ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کے مولیٰ ابوعبید فرماتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطابؓ کو عید الاضحیٰ کے موقع پر دیکھا کہ انہوں نے خطبے سے پہلے نماز پڑھا لی اور پھر فرمایا: میں نے آنحضرت ﷺ کو ان دو دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کرتے ہوئے سنا۔ جہاں تک عید الفطر کا تعلق ہے۔

تو آنحضرت ﷺ اس دن روزہ رکھنے سے اس لیے منع فرماتے تھے کہ وہ روزہ کھولنے اور مسلمانوں کی عید کا دن ہے جب کہ عید الاضحیٰ میں اس لیے کہ تم اپنی قربانی کا گوشت کھا سکو۔

الْخُطْبَةِ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ صَوْمِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ أَمَا يَوْمُ الْفِطْرِ فَفِطْرُكُمْ مِنْ صَوْمِكُمْ وَعِيدٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَأَمَا يَوْمُ الْأَضْحَى فَاكُلُوا مِنْ لَحْمِ نُسُكِكُمْ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو عبید کا نام سعد ہے، انہیں مولیٰ عبدالرحمن بن ازہر بھی کہا جاتا ہے۔ عبدالرحمن بن ازہر: عبدالرحمن بن عوف کے چچا زاد بھائی ہیں۔

باب ۵۲۱۔ ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی کراہت۔

۶۷۵۔ حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: عرنے کا دن، عید الاضحیٰ کا دن اور ایام تشریق ہم مسلمانوں کے عید اور کھانے پینے کے دن ہیں۔

باب ۵۲۱۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ۶۷۵۔ حَدَّثَنَا هِنَادَانَا وَكَيْعِبُ عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَهِيَ أَيَّامُ الْأَكْلِ وَالشَّرْبِ

اس باب میں حضرت علیؓ، سعدؓ، ابو ہریرہؓ، جابرؓ، میثمؓ، بشیر بن حکیمؓ، عبداللہ بن حذافہؓ، حمزہ بن عمروؓ، سلمیٰؓ، کعب بن مالکؓ، عائشہؓ، عمرو بن عاصؓ اور عبداللہ بن عمروؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: عقبہ بن عامرؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور علماء کا اسی پر عمل ہے کہ ایام تشریق میں روزے رکھنا مکروہ ہے لیکن صحابہ کی ایک جماعت اور بعض علماء متمتع کے لیے اگر اس کے پاس قربانی کے لیے کوئی جانور نہ ہو تو روزے رکھنے کی اجازت دیتے ہیں بشرطیکہ اس نے پہلے دس دنوں میں روزے نہ رکھے ہوں یہ مالک، شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی قول ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ اہل عراق، موسیٰ بن علی بن رباح اور اہل مصر موسیٰ بن علی کہتے ہیں۔ میں نے قتیبہ کو لیث بن سعد کے حوالے سے کہتے ہوئے سنا کہ موسیٰ بن علی کہا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ کے نام کی تصغیر کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔

باب ۵۲۲۔ روزہ دار کے لیے بچھنا لگانا مکروہ ہے۔

۶۷۶۔ حضرت رافع بن خدیجؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: بچھنے لگانے والا اور لگوانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔

باب ۵۲۲۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ ۶۷۶۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ النَّيْسَابُورِيُّ وَمَحْمُودُ بْنُ غِيْلَانَ وَيَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالُوا نَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْحُومُ

اس باب میں حضرت سعدؓ، علیؓ، شداد بن اوسؓ، ثوبانؓ، اسامہ بن زیدؓ، عائشہؓ، معقل بن یسارؓ، نہیں معقل بن سنانؓ بھی کہا جاتا ہے، ابو ہریرہؓ، ابن عباسؓ، ابو موسیٰؓ اور بلالؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: رافع بن خدیجؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ احمد بن حنبل کے نزدیک اس باب کی اصح حدیث یہی ہے جب کہ علی بن عبداللہ کے بارے میں مذکور ہے۔ کہ ان کے نزدیک ثوبان اور شداد بن اوس کی بھی، علماء صحابہ کی ایک جماعت اور ان کے علاوہ بھی کئی حضرات روزے دار کے لیے بچھنے لگوانے کو مکروہ سمجھتے ہیں یہاں تک کہ بعض صحابہ جیسے کہ ابو موسیٰ اشعریؓ اور ابن عمرؓ رات کو بچھنے لگوا کر تے تھے۔ ابن مبارکؓ بھی اسی کے قائل ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں: میں نے اسحاق بن منصور

سے سنا کہ عبدالرحمن بن مہدی پچھنا لگوانے والے روزہ دار کے متعلق تضا کا حکم دیتے ہیں۔ اسحاق بن منصور کہتے ہیں احمد بن حنبل اور اسحاق بن ابراہیم بھی اسی کے قائل ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں حسن بن محمد زعفرانی نے مجھے بتایا کہ شافعی کا کہنا ہے: آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روزے کی حالت میں پچھنا لگوانا مروی ہے۔ اور یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا لگانے والے کا بھی اور لگوانے والے کا بھی چنانچہ مجھے علم نہیں کہ ان میں سے کون سی روایت ثابت ہے۔ لہذا اگر روزہ دار اس سے اجتناب کرے تو میرے نزدیک بہتر اور اگر پچھنا لگوائے تو میرے خیال میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ امام ترمذی کہتے ہیں: امام شافعی کا یہ قول بغداد کا ہے۔ جبکہ مصر آنے کے بعد وہ حجامت (پچھنا لگانے) کی اجازت کی طرف مائل ہو گئے تھے اور ان کے نزدیک اس میں کوئی مضائقہ نہیں تھا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر روزے اور احرام کی حالت میں پچھنے لگوائے۔

باب ۵۲۳۔ مَا جَاءَ فِي الرُّحْصَةِ فِي ذَٰلِكَ

۶۷۷۔ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ هَلَالٍ الْبَصْرِيُّ نَا عَبْدِ الْوَارِثِ

۶۷۷۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے احرام اور

روزے کی حالت میں پچھنے لگوائے۔

بن سعید نا ایوب عن عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

اِحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ

مُحْرِمٌ صَائِمٌ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث اس سند سے حسن فریب ہے۔

۶۷۸۔ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَا

۶۷۸۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے مکہ اور

مدینہ کے درمیان احرام اور روزے کی حالت میں پچھنے لگائے۔

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ

عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْتَجَمَ فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ وَهُوَ

مُحْرِمٌ صَائِمٌ

اس باب میں ابوسعید، جابر اور انس سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں: ابن عباس کی حدیث حسن صحیح ہے بعض علماء اسی حدیث

پر عمل کرتے ہوئے پچھنے لگانے کی اجازت دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی مضائقہ نہیں یہ سفیان ثوری، مالک بن انس اور شافعی

کا قول ہے۔

باب ۵۲۴۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْوُصَالِ فِي الصِّيَامِ

۶۷۹۔ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ نَا بَشْرُ بْنُ

۶۷۹۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: روزوں سے

وصال (۱) نہ کرو۔ عرض کیا یا رسول اللہ! آپ تو وصال ہی کرتے ہیں۔

فرمایا: میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور

پلاتا بھی ہے۔

المفضل وخالد بن الحارث عن سعید بن ابی

عروبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى

الله عليه وسلم لا تواصلوا قالوا فانك تواصل يا رسول الله قال اني لست كاحدكم ان ربي

(۱) وصال کا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص دو دن یا اس سے زیادہ تک افطار نہ کرے۔ (مترجم)

يُطْعَمُنِي وَيَسْقِينِي

اس باب میں علیؓ، ابو ہریرہؓ، عائشہؓ، ابن عمرؓ، جابرؓ، ابوسعیدؓ، جابر بن خصیصہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں انسؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر علماء کا عمل ہے کہ روزے میں وصال مکروہ ہے۔ عبد اللہ بن زبیرؓ سے مروی ہے کہ وہ وصال کرتے تھے یعنی درمیان میں افطار نہیں کرتے تھے۔

باب ۵۲۵۔ مَا جَاءَ فِي الْجُنُبِ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ يُرِيدُ الصَّوْمَ

۶۸۰۔ حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ نَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرْتَنِي عَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ زَوْجَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِّنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فَيَصُومُ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اکثر علماء صحابہ وغیرہ کا اسی پر عمل ہے۔ سفیان، احمد، شافعی اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ بعض تابعین کا مسلک یہ ہے کہ اگر حالت جنابت میں صبح ہو جائے تو روزہ قضا کرے لیکن پہلا قول صحیح ہے۔

باب ۵۲۶۔ مَا جَاءَ فِي إِجَابَةِ الصَّائِمِ الدَّعْوَةَ

۶۸۱۔ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ الْبَصْرِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّاءٍ نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ أَبِي يُوْبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيَجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَصِلْ يَغْنَى الدَّعَاءَ

۶۸۲۔ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ نَا سَفِيَّانُ بْنُ عَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ دونوں حدیثیں حسن صحیح ہیں۔

باب ۵۲۷۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ صَوْمِ الْمَرْأَةِ إِذَا بِأَذْنِ زَوْجِهَا

۶۸۳۔ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ نَا سَفِيَّانُ بْنُ عَيْنَةَ

باب ۵۲۷۔ عورت کا شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے رکھنا مکروہ ہے۔

۶۸۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: کوئی

ابو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَرُؤُوسَهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا بِإِذْنِهِ

عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر ایک نقلی روزہ بھی نہ رکھے۔

اس باب میں ابن عباس اور ابوسعید سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ابو ہریرہ کی حدیث حسن صحیح اور ابو زناد سے بھی مروی ہے۔ وہ موسیٰ بن ابی عثمان سے وہ اپنے والد سے اور وہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں۔

باب ۵۲۸۔ رمضان کی قضا میں تاخیر

۶۸۴۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے شعبان میں قضا رکھا کرتی تھی یہاں تک کہ آنحضرت ﷺ کی وفات ہو گئی۔

باب ۵۲۸۔ مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ

۶۸۴۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ اسْمَعِيلِ السَّدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْبَهْمِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا كُنْتُ أَقْضِي مَا يَجُوزُ عَلَيَّ مِنْ رَمَضَانَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ حَتَّى تُوفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یحییٰ بن سعید انصاری، ابوسلمہ سے اور وہ حضرت عائشہ سے اسی کی مثل روایت کرتے ہیں۔

باب ۵۲۹۔ کسی روزہ دار کے سامنے لوگوں کے کھانے پر اس کی فضیلت۔

۶۸۵۔ ابولیلی اپنی مولا سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اگر کسی روزہ دار کے سامنے کھایا پیا جائے تو فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔

باب ۵۲۹۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّائِمِ إِذَا أَكَلَ عِنْدَهُ

۶۸۵۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ نَا شَرِيكَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي لَيْلَى عَنْ مَوْلَا تَيْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّائِمُ إِذَا أَكَلَ عِنْدَهُ الْمَفَاطِيرُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یحییٰ بن سعید انصاری، ابوسلمہ سے اور وہ حضرت عائشہ سے اسی کی مثل روایت کرتے ہیں۔

۶۸۶۔ ام عمارہ بنت کعب انصاریہ فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ ان کے گھر تشریف لائے تو میں نے آپ ﷺ کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا تم بھی کھاؤ۔ میں نے عرض کیا میرا روزہ ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر کسی روزہ دار کے سامنے کھایا جائے تو ان کے کھانے سے فارغ ہونے یا فرمایا، ان کے سیر ہو جانے تک فرشتے روزہ دار کے لئے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔

۶۸۶۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَا ابوداؤد نَا شُعْبَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ مَوْلَا لَنَا يُقَالُ لَهَا لَيْلَى تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ عَمَّارَةَ ابْنَةِ كَعْبِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَدِمَتْ إِلَيْهِ طَعَامًا فَقَالَ كَلِي قَالَتْ إِنِّي صَائِمَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الصَّائِمَ تَصَلَّى عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ إِذَا أَكَلَ عِنْدَهُ حَتَّى يَفْرغُوا وَرَبَّمَا قَالَ حَتَّى يَشْبَعُوا

امام ترمذی کہتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح اور شریک کی روایت سے صحیح ہے۔ محمد بن بشر، محمد بن جعفر سے وہ شعبہ سے وہ حبیب بن زید سے وہ اپنی مولا (لیلی) سے اور وہ ام عمارہ بنت کعب سے اسی کے مثل روایت کرتی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ارح لیکن اس میں ”حتی یفرغوا“ اور ”یشبعوا“ کا لفظ مذکور نہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں ام عمارہ، حبیب بن زید کی دلدی ہیں۔

باب ۵۳۰۔ مَا جَاءَ فِي قَضَاءِ الْحَائِضِ الصِّيَامِ دُونَ
الصَّلَاةِ

۶۸۷۔ حَدَّثَنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَجْرٍ نَا عَلِيَّ بْنَ مَسْهَرٍ
عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ثُمَّ نَطْهَرُ فَيَاْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصِّيَامِ وَلَا يَاْمُرُنَا
بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے اور معاویہؓ سے بھی بواسطہ عائشہؓ مروی ہے۔ علماء کا اس مسئلے میں اتفاق ہے کہ حائضہ صرف روزے کی قضا کرے نماز کی نہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں: عبیدہ: عبیدہ بن معتب ضعیف کوئی ہیں ان کی کنیت ابو عبد الکریم ہے۔

باب ۵۳۱۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ مُبَالَغَةِ الْاِسْتِنْسَاقِ
لِلصَّائِمِ

۶۸۸۔ حَدَّثَنَا نَا عَبْدُ الوَهَابِ الْوَرَّاقُ وَ اَبُو عَمَارٍ قَالَا
نَا يَحْيَى بْنُ سَلِيمٍ قَالَ حَدَّثَنِي اسْمَعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ
سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ لَقِيْطٍ بِنَ صَبْرَةَ عَنْ اَبِيهِ قَالَ قُلْتُ
يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوْءِ قَالَ اَسْبِغِ الْوُضُوْءَ
وَ اَحْلِلْ بَيْنَ الْاَصَابِعِ وَ بَالِغٌ فِي الْاِسْتِنْسَاقِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ صَائِمًا

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ علماء روزے کی حالت میں ناک میں دوا ڈالنے کو مکروہ کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہ حدیث اس قول کی تائید کرتی ہے۔

باب ۵۳۲۔ مَا جَاءَ فِي مَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَلَا يَصُومُ
اِلَّا بِاِذْنِهِمْ

۶۸۹۔ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَعَاذٍ الْعَقْدِيُّ الْبَصْرِيُّ نَا
اِيُوْبُ بْنُ وَاقِدٍ الْكُوفِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ
اَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَزَلَ عَلَيَّ قَوْمٍ فَلَا يَصُومَنَّ تَطَوُّعًا
اِلَّا بِاِذْنِهِمْ

۶۸۹۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جو شخص کسی کے ہاں مہمان بن کر جائے وہ ان کی اجازت کے بغیر نفل روزہ نہ رکھے۔

باب ۵۳۳۔ اگر کوئی شخص کسی کا مہمان ہو تو میزبان کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث منکر ہے ہم اسے کسی ثقہ راوی کی ہشام بن عروہ سے روایت کے متعلق نہیں جانتے۔ موسیٰ بن داؤد ابو بکر مدینی سے وہ ہشام بن عروہ سے وہ اپنے والد سے وہ عائشہ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ یہ حدیث بھی ضعیف ہے کیوں کہ محدثین کے نزدیک ابو بکر ضعیف ہیں۔ ابو بکر مدینی جو جابر بن عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں ان کا نام فضل بن مبشر ہے اور وہ ان سے زیادہ ثقہ اور پرانے ہیں۔

باب ۵۳۳۔ اعتکاف کے متعلق۔

باب ۵۳۳۔ مَا جَاءَ فِي الْأَعْتِكَافِ

۶۹۰۔ حضرت ابو ہریرہ اور عروہ، حضرت عائشہ سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ اپنی وفات تک رمضان کے آخری دس دن اعتکاف کیا کرتے تھے۔

۶۹۰۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَا عَبْدِ الرَّزَاقِ نَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى قَبِضَهُ اللَّهُ

اس باب میں ابی بن کعب، ابویعلیٰ، ابوسعید، انس اور ابن عمر سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ابو ہریرہ اور عائشہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔

۶۹۱۔ حضرت عائشہ عمر ماتی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ جب اعتکاف کا ارادہ کرتے تو فجر کی نماز کے بعد ہی اپنی اعتکاف گاہ میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔

۶۹۱۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ نَا ابُو مَعَاوِيَةَ عَنِ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ فِي مُعْتَكِفِهِ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث یحییٰ بن سعید سے بھی مروی ہے وہ عمرہ سے اور وہ نبی اکرم ﷺ سے مرسلہ روایت کرتے ہیں۔ مالک اور کئی راوی بھی اسے یحییٰ بن سعید سے مرسلہ روایت کرتے ہیں۔ پھر اوزاعی اور سفیان ثوری بھی یحییٰ بن سعید سے وہ عمرہ سے اور وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں۔ بعض علماء اسی پر عمل کرتے ہیں جن میں احمد اور اسحاق بھی شامل ہیں کہ اعتکاف کا ارادہ ہو تو فجر کے بعد اعتکاف گاہ میں داخل ہو جائے۔ جب کہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ جس روز کا اعتکاف کرنا ہے اس رات کا سورج غروب ہونے سے پہلے اسے اپنی اعتکاف گاہ میں ہونا چاہیے چنانچہ ان کے نزدیک غروب آفتاب سے پہلے کا وقت ہے۔ سفیان ثوری اور امام مالک اسی کے قائل ہیں۔

باب ۵۳۳۔ شب قدر کے متعلق

باب ۵۳۴۔ مَا جَاءَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

۶۹۲۔ حضرت عائشہ عمر ماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ رمضان کے آخری دس دن اعتکاف بیٹھتے اور فرماتے: شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔

۶۹۲۔ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ اسْحَقَ الهمدانی نَا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الاواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الاواخر من رمضان

اس باب میں حضرت عمرؓ، ابی بن کعبؓ، جابر بن سمرہؓ، جابر بن عبد اللہؓ، ابن عمرؓ، فلان بن عاصمؓ، انسؓ، عبد اللہ بن انیسؓ، ابوسعیدؓ، ابوبکرؓ، ابن عباسؓ، بلالؓ اور عیادہ بن صامتؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت عائشہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اور ”یجاورد“ کے معنی اعتکاف کرنے کے ہیں۔ اکثر روایتوں میں یہی ہے کہ شب قبلہ کو رمضان کے آخری عشرے کی ہر طاق رات میں تلاش کرو۔ آنحضرت ﷺ سے شب قدر کے متعلق یہ بھی مروی ہے کہ وہ اکیسویں، تیسویں، پچیسویں، ستائیسویں یا رمضان کی آخری رات ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک واللہ اعلم۔ اس کی یہ حقیقت ہے کہ آنحضرت ﷺ سے جس طرح کا سوال کیا جاتا اسی طرح جواب دیا کرتے تھے۔ اگر کہا جاتا کہ ہم اسے اس رات میں تلاش کریں؟ تو فرماتے اچھا اس میں تلاش کرو۔ لیکن میرے نزدیک قوی ترین روایت اکیسویں رات والی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ابی بن کعب قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے کہ یہ ستائیسویں رات ہے۔ اور کہتے کہ ہمیں آنحضرت ﷺ نے اس کی علامات بتائی تھیں۔ ہم نے اسے گن کر یاد کر لیا۔ ابوقلابہ سے مروی ہے کہ فرمایا: ”شب قدر آخری عشرے میں پائی رہتی ہے۔“ میں اس کی خبر عبد بن حمید نے عبدالرزاق کے حوالے سے دی وہ عمر سے وہ ایوب سے اور وہ ابوقلابہ سے روایت کرتے ہیں۔

۶۹۳۔ حضرت زر کہتے ہیں میں نے ابی بن کعبؓ سے پوچھا، کہ آپ نے ابومنذر کو کس طرح کہا کہ شب قدر رمضان کی ستائیسویں رات ہے۔ فرمایا: بیکہ ہمیں آنحضرت ﷺ نے بتایا کہ وہ ایسی رات ہے کہ اس کے بعد صبح جب سورج نکلتا ہے تو اس میں شعاعیں نہیں ہوتیں۔ ہم نے گنا اور حفظ کر لیا۔ قسم ہے اللہ رب العزت کی کہ ابن مسعود بھی جانتے تھے کہ یہ رات رمضان کی ستائیسویں رات ہی ہے لیکن تم لوگوں کو بتانا بہتر نہیں سمجھتا کہ تم لوگ صرف اسی رات پر بھروسہ نہ کرنے لگو اور دوسری راتوں میں عبادت کرنا کم نہ کر دو۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۶۹۴۔ عیینہ بن عبد الرحمن اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ابوبکرؓ کے سامنے شب قدر کا تذکرہ کیا گیا تو فرمایا: میں نے اس وقت سے اسے تلاش کرنا چھوڑ دیا ہے جب سے آنحضرت ﷺ نے اس کے متعلق فرمایا کہ اسے رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ چنانچہ آپ ﷺ کا فرمان ہے، جب رمضان کے ختم ہونے میں نورائیں باقی رہ جائیں تو اسے تلاش کرو، یا جب سات راتیں رہ جائیں یا جب پانچ راتیں رہ جائیں یا جب تین راتیں رہ جائیں یا پھر رمضان کی آخری رات (یعنی اکیسویں، تیسویں، پچیسویں، ستائیسویں یا آخری رات) راوی کہتے ہیں: کہ ابوبکرؓ رمضان کے بیس دن اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے

۶۹۲۔ حدثنا واصل بن عبد الاعلیٰ الکوفی نا ابوبکر بن عباس عن عاصم عن زید قال قلت لابی نبی کعب انی علمت ان السدیر انھا لیلة سبع وعشرین قال بلی احبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انھا لیلة صبیحتھا تطلع الشمس لیس لها شعاع فعددنا وحفظنا واللہ لقد علم ابن مسعود انھا فی رمضان وانھا لیلة سبع وعشرین ولکن کرة ان یخبرکم فتکتلوا

۶۹۴۔ حدثنا حمید بن مسعدة نا یزید بن زریع نا عیینة بن عبد الرحمن قال حدثنی ابي قال ذکرنا لیلة القدر عند ابي بكرة فقال ما انا بملتمسها لشیء سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا فی العشر الاواخر فانی سمعته یقول التمسوها فی تسع یقین او سبع یقین او خمس یقین او ثلث او اجر لیلة قال وكان ابو بكرة یصلی فی العشرین من رمضان کصلوته فی سائر السنة فاذا دخل العشر اجتهد

جس طرح پورا سال پڑھتے پھر جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرتے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۵۳۵۔ شبِ قدر کے متعلق

۶۹۵۔ حضرت علیؑ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ رمضان کے آخری عشرے میں اتنی زیادہ عبادت کی کوشش کیا کرتے تھے جتنی عام دنوں میں نہ کرتے تھے۔

باب ۵۳۵۔ بَابُ مِنْهُ

۶۹۵۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ وَكَعْبُ بْنُ سَفِيَانَ عَنِ ابْنِ اسْحَقَ عَنْ هَبِيرَةَ بِنْتِ مَرِيَمَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوقِظُ أَهْلَهُ فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۶۹۶۔ حضرت عائشہؓ فرماتی کہ آنحضرت ﷺ رمضان کے آخری عشرے میں اتنی زیادہ عبادت کی کوشش کیا کرتے تھے جتنی عام دنوں میں نہ کرتے تھے۔

۶۹۶۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهَا

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۵۳۶۔ سردیوں کے روزے

۶۹۷۔ حضرت عامر بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: سردیوں میں روزہ رکھنا تو مفت کا ثواب کماتا ہے۔

باب ۵۳۶۔ مَا جَاءَ فِي صَوْمِ الشِّتَاءِ

۶۹۷۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَاحِيَةَ بْنِ سَعِيدٍ نَاحِيَةَ سَفِينٍ عَنِ ابْنِ اسْحَقَ عَنْ نَمِيرِ بْنِ عَرِيْبٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْغَنِيْمَةُ الْبَارِدَةُ الصُّوْمِ فِي الشِّتَاءِ

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث مرسل ہے کیونکہ عامر بن مسعودؓ صحابی نہیں ہیں۔ یہ ابراہیم بن عامر قرظی کے والد ہیں۔ جن سے

شعبہ اور ثوری روایت کرتے ہیں۔

باب ۵۳۷۔ ان لوگوں کا روزے رکھنا جو اس کی طاقت رکھتے ہیں۔

۶۹۸۔ حضرت سلمہ بن اکوعؓ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ”وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ“ (ترجمہ: یعنی جن لوگوں میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، وہ اس کے بدلے میں مسکین کو کھانا بھی کھلا سکتا ہے) تو ہم میں سے جو چاہتا کہ روزہ نہ رکھے وہ فدیہ دے دیتا۔ یہاں تک کہ اس کے بعد والی آیت نازل ہوئی جس نے

باب ۵۳۷۔ مَا جَاءَ فِي صَوْمِ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ

۶۹۸۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مِزْرَعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بَكْرِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ كَانَ مَنْ أَرَادَ مِنَّا أَنْ يُفْطِرَ وَيَقْتَدِيَ حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا

فَنَسَخَتْهَا

اس حکم کو منسوخ کر دیا۔

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور یزید ابو عبید کے بیٹے اور سلمہ بن اکوع کے مولیٰ ہیں۔

باب ۵۳۸۔ مَا جَاءَ فِي مَنْ أَكَلَ ثُمَّ خَرَجَ يُرِيدُ سَفَرًا
 ۶۹۹۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ قَالَ نَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ زَيْدِ
 بْنِ اسْلَمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
 كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ قَدْ آتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِي رَمَضَانَ
 وَهُوَ يُرِيدُ سَفَرًا وَقَدْ رَحَلَتْ لَهُ رَاحِلَتُهُ وَلَبَسَ ثِيَابَ
 السَّفَرِ فَذَعَى بِطَعَامٍ فَأَكَلَ فَقُلْتُ لَهُ سُنَّةٌ فَقَالَ سُنَّةٌ
 ثُمَّ رَكِبَ

باب ۵۳۸۔ جو شخص رمضان میں کھانا کھا کر سفر کے لیے نکلے۔
 ۶۹۹۔ محمد بن کعب فرماتے ہیں کہ میں رمضان میں انس بن مالک کے پاس آیا تو وہ کہیں جانے کا ارادہ کر رہے تھے ان کی سواری تیار تھی اور انہوں نے سفر کا لباس پہن لیا تھا۔ پھر انہوں نے کھانا منگوا لیا اور کھایا۔ میں نے کہا کیا یہ سنت ہے؟ فرمایا: ہاں اور پھر سوار ہو گئے۔

محمد بن اسماعیل، سعید بن ابی مریم سے وہ محمد بن جعفر سے وہ زید بن اسلم سے وہ محمد بن منکدر سے اور وہ محمد بن کعب سے روایت کرتے ہیں کہ میں انس کے پاس آیا اور پھر اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ محمد بن جعفر: ابن ابی کثیر مدینی ہیں۔ یہ ثقہ اور اسماعیل بن جعفر کے بھائی ہیں۔ جب کہ عبد اللہ بن جعفر: صحیح کے بیٹے اور علی بن مدینی کے والد ہیں۔ یحییٰ بن معین انہیں ضعیف کہتے ہیں۔ بعض علماء اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں: مسافر کو سفر کے لیے نکلنے سے پہلے افطار کرنا چاہئے۔ لیکن قصر نماز اس وقت تک نہ شروع کرے جب تک گاؤں یا شہر کی حدود سے باہر نہ نکل جائے۔ یہ اسحاق بن ابراہیم کا قول ہے۔

باب ۵۳۹۔ مَا جَاءَ فِي نُحْفَةِ الصَّائِمِ
 ۷۰۰۔ حَدَّثَنَا اِحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا اِبُو معاوية عَنْ سَعْدِ
 بْنِ طُوَيْفٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَامُوْنَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ
 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُحْفَةُ
 الصَّائِمِ الدُّهْنُ وَالْمِحْمَرُ

باب ۵۳۹۔ روزہ دار کے نحفے سے متعلق
 ۷۰۰۔ حضرت حسن بن علی کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: روزہ دار کو تھکا دیا جائے تو تیل یا خوشبود غیرہ دینی چاہئے۔

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث غریب ہے اس کی سند قوی نہیں۔ ہم اسے سعد بن طریف کی روایت کے علاوہ نہیں جانتے اور سعد ضعیف ہیں۔ انہیں عمیر بن ماموم بھی کہا جاتا ہے۔

باب ۵۴۰۔ مَا جَاءَ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى مَتَى يَكُونُ
 ۷۰۱۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَوْسَى نَا يَحْيَى ابْنَ الْيَمَانِ
 عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفِطْرُ يَوْمَ
 يُضْحِي النَّاسُ

باب ۵۴۰۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کب ہوتی ہیں۔
 ۷۰۱۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عید الفطر اسی دن ہے جب سب لوگ افطار کریں (روزہ نہ رکھیں) اور عید الاضحیٰ اسی دن ہے جس دن سب لوگ قربانی کریں۔

امام ترمذی کہتے ہیں: میں نے امام بخاری سے پوچھا کہ کیا محمد بن منکدر نے حضرت عائشہؓ سے احادیث سنی ہیں؟ تو فرمایا: ہاں وہ اپنی حدیث میں کہتے ہیں کہ میں نے عائشہؓ سے سنا۔ امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۵۴۱۔ مَا جَاءَ فِي الْإِعْتِكَافِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ

۷۰۲۔ حدثنا محمد بن بشار نا ابن ابی عدی انبانا حمید الطویل عن أنس بن مالك قال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الاواخر من رمضان فلم يعتكف عامًا فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين

باب ۵۴۱۔ جو شخص اعتکاف میں نہ ہو اور اس کے ان کو نماز سے روکا جائے۔
۷۰۲۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ اعتکاف نہ کر سکے تو آئندہ سال میں دن تک اعتکاف میں بیٹھے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث انسؓ کی روایت سے حسن صحیح غریب ہے۔ علماء کا اس معنی (۱) کے بارے میں اختلاف ہے جو اسے پورا ہونے سے پہلے توڑ دے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر اعتکاف توڑوے تو اس کی قضاء واجب ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ اعتکاف سے نکل آئے تو شوال میں دس دن اعتکاف لیا۔ یہ امام مالک کا قول ہے جب کہ شافعی اور مالکی نے کہا کہ یہ نذر یا خود اپنے اوپر واجب کیا ہوا اعتکاف نہیں تھا تو اس کی قضاء واجب نہیں۔ بشرطیکہ نفل ہی ہو۔ ہاں البتہ اگر اس کی حاجت ہو تو قضاء کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ شافعی مزید کہتے ہیں: اگر کوئی عمل واجب نہ ہو اور تم اسے ادا کرنے لگو لیکن مکمل نہ کر سکو تو اس کی قضاء واجب نہیں۔ ہاں اگر عمرے یا حج میں ایسا ہو تو قضاء واجب ہے۔ اس باب میں ابو ہریرہؓ سے بھی روایت ہے۔

باب ۵۴۲۔ مَا كَانَ مَعْتَكِفًا فِي ضَرْبٍ مِنْهُ لِيُكَلِّمَ نِسَاءَهُ

باب ۵۴۲۔ الْمُعْتَكِفُ يَخْرُجُ لِحَاجَتِهِ أَمْ لَا

۷۰۳۔ حدثنا ابو مصعب المدني قراءة عن مالك بن انس عن بن شهاب عن عمروة و عمروة عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف أدنى إلى رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان

۷۰۳۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آنحضرت ﷺ جب اعتکاف میں ہونے کو میری طرف اپنا سر مبارک بھکا دیا کرتے اور میں اس میں گفتگو کر دیتی تھی آپ حاجت انسانی کے علاوہ کبھی شرفیہ نہ لاتے۔

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے اسی طرح کئی راوی مالک بن انس سے وہ ابن شہاب سے وہ عمروہ اور عمرہ سے اور وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں۔ جب کہ بعض راوی اسے مالک سے وہ ابن شہاب سے وہ عمروہ سے وہ عمرہ سے اور وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں لیکن صحیح یہ ہے کہ عمروہ اور عمرہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں۔ لیث بن سعد بھی ابن شہاب سے اسی سند سے روایت کرتے ہیں۔ ہمیں اس کی خبر تیبہ نے لیث کے حوالے سے دی علماء کا اسی پر عمل ہے کہ معتکف انسانی ضروریات کے علاوہ اعتکاف سے نہ نکلے چنانچہ اسی پر علماء کا اجماع ہے کہ معتکف صرف قضاے حاجت کے لیے ہی نکل سکتا ہے۔ پھر علماء کا مریض کی عیادت، جمعہ کی نماز اور جنازہ میں شرکت کے لیے معتکف کے نکلنے میں اختلاف ہے۔ بعض صحابہ کا مسلک یہ ہے کہ مریض کی عیادت بھی کرے، اور جمعے و جنازے میں بھی شریک ہو لیکن اس شرط پر کہ اعتکاف شروع کرتے وقت ان چیزوں کی نیت کی ہو۔ یہ سفیان ثوری اور ابن مبارک کا قول ہے جب کہ بعض علماء کے نزدیک ان میں سے کوئی عمل بھی جائز نہیں۔ لہذا اگر معتکف ایسے شہر میں ہو کہ اس میں جمعے کی نماز ہوتی ہو تو اسے اسی مسجد میں اعتکاف بیٹھنا چاہیے۔ کیونکہ یہ حضرات معتکف کا جمعے کے لیے اعتکاف سے نکلنا بھی مکروہ سمجھتے ہیں اور ساتھ ہی ان کے نزدیک

(۱) اعتکاف کرنے والا۔ (مترجم)

اس کا جمعے کو چھوڑ دینا بھی جائز نہیں۔ حاصل یہ کہ ان حضرات کے نزدیک اسے جامع مسجد میں ہی اعتکاف کرنا چاہئے تاکہ اسے قضائے حاجت کے علاوہ کسی دوسری ضرورت کے لیے نکلنا نہ پڑے۔ کیونکہ قضائے حاجت کے علاوہ کسی کام کے لیے نکلنے سے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہ مالک اور شافعی کا قول ہے۔ امام احمد حضرت عائشہؓ کی حدیث کی وجہ سے معتکف کا جنازے یا مریض کی عیادت کے لیے نکلنا جائز نہیں سمجھتے جب کہ اسحاق اس شرط کے ساتھ اس کی اجازت دیتے ہیں کہ اعتکاف کے شروع میں اس کی نیت کی ہو۔

باب ۵۴۳۔ مَا جَاءَ فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

باب ۵۴۳۔ رمضان میں رات کو نماز پڑھنا۔

۷۰۴۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضِيلِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَرَشِيِّ عَنِ حَبِيبِ بْنِ نَفِيرٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُصَلِّ بِنَا حَتَّى بَقِيَ سَبْعٌ مِنَ الشَّهْرِ فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا فِي السَّادِسَةِ وَقَامَ بِنَا فِي الْخَامِسَةِ حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ نَقَلْنَا بِقِيَّةٍ لَكَلْنَا هَذِهِ فَقَالَ إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامٌ لَيْلَةٍ ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ بِنَا حَتَّى بَقِيَ ثُلُثٌ مِنَ الشَّهْرِ وَصَلَّى بِنَا فِي الثَّالِثَةِ وَدَعَى أَهْلَهُ وَنَسَاكَهُ فَقَامَ بِنَا حَتَّى تَخَوَّفْنَا الْفَلَاحَ قُلْتُ لَهُ وَمَا الْفَلَاحُ قَالَ السَّحُورُ

۷۰۴۔ حضرت ابو ذرؓ فرماتے ہیں ہم نے آنحضرت ﷺ کے ساتھ روزے رکھے۔ آپ ﷺ نے تیسویں رات تک ہمارے ساتھ رات کی نماز نہیں پڑھی۔ پھر تیسویں رات کو ہمیں لے کر کھڑے ہوئے یہاں تک کہ تہائی رات گزر گئی پھر چوبیسویں رات کو نماز نہیں پڑھائی لیکن پچیسویں رات کو آدھی رات تک نماز پڑھائی ہم نے عرض کیا ہماری آرزو تھی کہ آپ باقی رات بھی ہمارے ساتھ نواقل پڑھتے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جو شخص امام کے ساتھ اس کے فارغ ہونے تک نماز میں شریک رہا اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا گیا۔ پھر آنحضرت ﷺ نے ستائیسویں رات تک نماز شب نہ پڑھائی۔ ستائیسویں رات کو پھر کھڑے ہوئے اور ہمارے ساتھ اپنے گھر والوں اور عورتوں کو بھی بلایا۔ یہاں تک کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ فلاح کا وقت نہ نکل جائے۔ راوی کہتے ہیں میں نے ابو ذر سے پوچھا فلاح کیا ہے؟ تو فرمایا سحری۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ علماء کا رمضان میں نماز شب کے متعلق اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک وتر سمیت چالیس رکعتیں پڑھنی چاہئیں۔ یہ اہل مدینہ کا قول ہے اور اسی پر ان کا عمل ہے۔ جب کہ اکثر علماء حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ کے قول پر عمل کرتے ہیں کہ بیس رکعتیں پڑھے۔ یہ شافعی، ابن مبارک اور سفیان ثوری کا بھی قول ہے۔ شافعی کہتے ہیں: ہم نے اپنے شہر مکہ میں اسی پر عمل کرتے ہوئے دیکھا۔ امام احمد کہتے ہیں: اس میں کئی قسم کی روایات مروی ہیں لہذا اس مسئلے میں انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ اسحاق اکتالیس رکعات کا مذہب اختیار کرتے ہیں جیسے ابی بن کعب سے مروی ہے۔ پھر ابن مبارک، احمد اور اسحاق کہتے ہیں کہ رمضان میں امام کے ساتھ نماز پڑھی جائے لیکن شافعی کہتے ہیں کہ اگر خود قاری ہو تو اکیلے نماز پڑھے۔

باب ۵۴۴۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا

باب ۵۴۴۔ کسی کو روزہ افطار کرانے کی فضیلت۔

۷۰۵۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ سَلِيمَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سَلِيمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

۷۰۵۔ حضرت زید بن خالد جہنیؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جس نے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرایا اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ دار کو۔ اور یہ روزہ دار کے ثواب میں کسی کی کے بغیر ہوگا۔

وَسَلَّمَ مَنْ فَطَرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۵۴۳۔ رمضان میں نماز شب کے متعلق ترغیب اور اس کی فضیلت۔

۷۰۶۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے رمضان میں رات کو فرضیت اور وجوب کے حکم کے بغیر نماز کی ترغیب دلایا کرتے تھے۔ چنانچہ فرماتے: جس شخص نے رمضان میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ رات کو نماز پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرمادیتے ہیں۔ پھر آپ ﷺ کے وفات پا جانے تک اسی پر عمل رہا۔ اسی طرح خلافت ابو بکر صدیقؓ اور خلافت عمرؓ کے ابتدائی دور میں بھی اسی پر عمل کرتے رہے۔

باب ۵۴۵۔ التَّرْغِيبُ فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَمَا جَاءَ فِيهِ مِنَ الْفَضْلِ

۷۰۶۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنِ حَمِيدٍ نَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ نَا مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةٍ وَيَقُولُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ فَتَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَلَى ذَلِكَ

اس باب میں حضرت عائشہؓ سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور زہری سے بھی مروی ہے وہ عروہؓ سے اور وہ حضرت عائشہؓ سے روایت کرتے ہیں۔

یہ روزوں کے ابواب کا اختتام اور ابواب حج کی ابتداء ہے۔

حج کے متعلق آنحضرت ﷺ سے

منقول احادیث کے ابواب

باب ۵۴۶۔ مکہ کے حرم ہونے کے متعلق۔

۷۰۷۔ حضرت ابو شریحؓ عدویؓ فرماتے ہیں کہ میں نے عمرو بن سعید سے مکہ کی طرف لشکر بھیجتے ہوئے کہا: اے امیر! مجھے اجازت دو کہ میں تم سے ایک ایسی حدیث بیان کروں جو رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کی صبح کھڑے ہو کر فرمائی۔ میرے کانوں نے اسے سنا، دل نے یاد رکھا اور آنکھوں نے آنحضرت ﷺ کو فرماتے ہوئے دیکھا۔ آپ ﷺ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا: مکہ اللہ تعالیٰ کا حرم ہے اسے لوگوں نے حرمت کی جگہ قرار نہیں دیا اللہ نے قرار دیا ہے کسی بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے شخص کے لیے اس میں خون بہانا اور وہاں

اِحْرَابُ أَبْوَابِ الصَّوْمِ وَ أَوَّلُ أَبْوَابِ الْحَجِّ
أَبْوَابُ الْحَجِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب ۵۴۶۔ ماجاء في حرمة مكة

۷۰۷۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ بِنِ سَعِيدٍ نَا الْبَلِيْثِ بِنِ سَعْدٍ عَنِ سَعِيْدِ بِنِ اِبِي سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اِبِي شُرَيْحِ الْعَدَوِيِّ اَنَّهُ قَالَ لِعُمْرُو بْنِ سَعِيْدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوْثَ اِلَى مَكَّةَ اَنْذَنْ لِيْ اَيُّهَا الْاَمِيْرُ اَحَدْتُكَ قَوْلًا قَامَ بِهٖ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَدَمِ يَوْمَ الْفَتْحِ سَمِعْتُهُ اذْ نَاى وَوَعَاهَ قَلْبِيْ وَ اَبْصَرْتُهُ عَيْنَاى حِيْنَ تَكَلَّمْتُ بِهٖ اِنَّهٗ حَمْدُ اللَّهِ وَاَنْتَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ مَكَّةَ حَرَمٌ لِلَّهِ تَعَالَى وَلَمْ يُحْرَمْهَا النَّاسُ وَلَا يَحِلُّ

کے درخت کا ثنا حلال نہیں۔ اگر کوئی شخص اسے جائز سمجھنے پر اللہ کے رسول کے قال سے استدلال کرے تو اس سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو اس کی اجازت دی تھی تمہیں نہیں۔ اور میرے لیے بھی دن کے کچھ حصے میں اس کی اجازت دی گئی اور اس کے بعد اس کی حرمت اسی دن اسی طرح لوٹ آئی جیسے کہ کل تھی۔ چنانچہ موجود لوگ غیر موجود لوگوں کو یہ حکم پہنچادیں۔ ابوشریح سے پوچھا گیا کہ اس پر عمرو بن سعید کو یہ حکم پہنچادیں۔ ابوشریح سے پوچھا گیا کہ اس پر عمرو بن سعید نے کیا کہا؟ کہنے لگے کہ اس نے کہا: اے ابوشریح میں اس حدیث کو تم سے بہتر طور پر جانتا ہوں۔ حرم نافرمان اور باغیوں کو پناہ نہیں دیتا۔ اور نہ قتل کر کے بھاگنے والوں یا چوری کر کے بھاگنے والوں کو پناہ دیتا ہے۔ (۱)

لَا مَرِيءٌ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُسْفِكَ بِهَا دَمًا أَوْ يُعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فَقُولُوا لَهُ إِنَّ اللَّهَ أَدْنُ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكَ وَإِنَّمَا أَدْنُ لِي فِيهَا سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَقِيلَ لِأَبِي شُرَيْحٍ مَا قَالَ لَكَ عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَنَا أَعْلَمُ مِنْكَ بِذَلِكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيدُ عَاصِبًا وَلَا فَارًا بِدَمٍ وَلَا فَارًا بِخَرِيَةٍ

امام ترمذی کہتے ہیں ”خریۃ“ کی جگہ ”خریۃ“ کے الفاظ بھی مروی ہیں۔ خربہ کے معنی ذلت کے ہیں۔ اس باب میں ابوہریرہ اور ابن عباس سے بھی روایت ہے۔

توضیح: حضرت عبداللہ بن زبیرؓ طلیل القدر صحابی ہیں چنانچہ ان کے متعلق عمرو بن سعید حاکم مدینہ کا قول کہ وہ مجرم ہیں بہتانِ عظیم ہے۔ اس نے یہ لشکر یزید کے حکم پر یزید کی بیعت کے لیے بھیجا تھا۔ جب کہ علماء کے نزدیک عبداللہ بن زبیرؓ خلافت کے یزید سے زیادہ حقدار تھے۔ اور ان کے ہاتھ پر بیعت بھی ہو چکی تھی۔ (مترجم)

باب ۵۴۷۔ حج اور عمرے کا ثواب

۷۰۸۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: حج اور عمرے پے درپے کیا کرو کیونکہ یہ دونوں فہر اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کو ختم کر دیتی ہے اور مقبول حج کا بدلہ صرف جنت ہی ہے۔

باب ۵۴۷۔ مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
۷۰۸۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابُو سَعِيدٍ الْأَشْجَعِيُّ قَالَ نَابُو خَالِدِ الْأَحْمَرِ عَنْ عَمْرُو بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يُنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يُنْفِي الْكَبِيرُ حَبَّتَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْحَنَّةُ

اس باب میں عمر، عامر بن ربیعہ، ابوہریرہ، عبداللہ بن حبشی، ام سلمہ اور جابر سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت سے حسن صحیح غریب ہے۔

۷۰۹۔ حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: جس نے حج کیا اور اس دوران عورتوں کے ساتھ فحش کلامی یا فسق کا ارتکاب نہیں

۷۰۹۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَمْرٍو نَابُو سَفِيَانَ بْنِ عَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ

(۱) یہ لشکر حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بھیجا جا رہا تھا۔ (مترجم)

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرُقْ وَلَمْ يَفْسُقْ غُفْرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج فلم یرق و لم یفسق کیا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ (۱)

امام ترمذی کہتے ہیں: ابو ہریرہ کی حدیث حسن صحیح ہے اور ابو خازم کوئی، اشجعی ہیں ان کا نام: سلمان مولیٰ عزہ الاجعیہ ہے۔

باب ۵۴۸۔ ترک حج پر وعید۔

باب ۵۴۸۔ مَا جَاءَ مِنَ التَّغْلِيظِ فِي تَرْكِ الْحَجِّ

۷۱۰۔ حدثنا محمد بن يحيى القطعي البصري نا مسلم بن ابراهيم نا هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي عن الحارث بن عمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زاداً وراحلةً تبيغته إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً وذلك أن الله يقول في كتابه "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً" يعني صاحب استطاعت لوگوں کا اللہ کی خوشنودی کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔

۷۱۰۔ حدثنا محمد بن يحيى القطعي البصري نا مسلم بن ابراهيم نا هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي عن الحارث بن عمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زاداً وراحلةً تبيغته إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً وذلك أن الله يقول في كتابه "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً"

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں اور اس کی سند میں کلام ہے چنانچہ ہلال بن عبد اللہ مجہول اور حارث ضعیف ہیں۔

باب ۵۴۹۔ زاوراہ اور سواری کی ملکیت سے حج فرض ہو جاتا ہے۔

باب ۵۴۹۔ مَا جَاءَ فِي إِيحَابِ الْحَجِّ بِالزَّوَادِ وَالرَّاحِلَةِ

۷۱۱۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک شخص آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دریافت کیا کہ حج کس چیز سے فرض ہوتا ہے۔ فرمایا: زاوراہ اور سواری سے۔

۷۱۱۔ حدثنا يوسف بن عيسى نا وكيع نا ابراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يوجب الحج قال الزاد والراحلة

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ علماء کا اسی پر عمل ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس زاوراہ اور سواری ہو تو اس پر حج فرض ہے۔ ابراہیم بن یزید: خوزی کی ہیں۔ بعض حضرات ان کے حافظے کی وجہ سے انہیں ضعیف کہتے ہیں۔

باب ۵۵۰۔ کتنے حج فرض ہیں۔

باب ۵۵۰۔ مَا جَاءَ كَمْ فَرَضَ الْحَجُّ

۷۱۲۔ حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی "ولله على الناس....." آیت تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ! کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آپ ﷺ خاموش رہے۔ صحابہ نے پھر پوچھا کیا ہر سال؟ یا رسول اللہ! اس مرتبہ آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں۔ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی

۷۱۲۔ حدثنا ابو سعيد الاشج نا منصور بن وردان كوفي عن علي بن عبد الاعلى عن ابيه عن ابي اليختر عن علي بن ابي طالب قال لما نزلت "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً" قالوا يا رسول الله أفى كل عام فسكت فقالوا يا

(۱) فسق: گناہوں کے ارتکاب اور اطاعت سے نکل جانے کو کہتے ہیں۔ (مترجم)

رَسُولَ اللَّهِ أَفِي كُلِّ عَامٍ قَالَ لَا وَلَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءَ إِن تَبَدَّلَكُمْ تَسْؤُكُمْ"

"يا ايها الذين امنوا لاتسألوا"..... الآية یعنی اے ایمان والو! ایسی چیزوں کے بارے میں مت سوال کرو کہ اگر ان کی حقیقت تم پر ظاہر کر دی جائے تو تمہیں بُری لگیں۔

اس باب میں ابن عباسؓ اور ابو ہریرہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت علیؓ کی حدیث اس سند سے حسن غریب ہے اور ابو بختری کا نام سعید بن ابی عمران ہے اور وہ سعید بن فیروز ہیں۔

باب ۵۵۱۔ مَا جَاءَ كُمْ حَجَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۷۱۳۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زَيْدٍ نَازِدٌ بْنُ حَبَابٍ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ ثَلَاثَ حَجَجٍ حَجَّتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ وَحَجَّةً بَعْدَ مَا هَاجَرَ مَعَهَا عُمْرَةٌ فَسَاقَى ثَلَاثَةً وَسِتِّينَ بَدَنَةً وَجَاءَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِبَيْتِهَا فِيهَا جَمَلٌ لِأَبِي جَهْلٍ فِي أَنْفِهِ رِيَّةٌ مِنْ فَسْخٍ فَسَاقَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِيضَةً فَطَبَّخَتْ فَشَرِبَ مِنْ مَرَقِهَا

باب ۵۵۱۔ آنحضرت ﷺ نے کتنے حج کیے؟

۷۱۳۔ حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے تین حج کیے۔ دو مرتبہ ہجرت سے پہلے اور ایک مرتبہ ہجرت کے بعد جس کے ساتھ عمرہ بھی کیا۔ اس حج میں آنحضرت ﷺ قربانی کے لیے اپنے ساتھ تریبھ اونٹ لائے تھے جب کہ باقی حضرت علیؓ یمن سے ساتھ لے کر آئے ان میں سے ایک اونٹ ابو جہل کا بھی تھا جس کے ناک میں چاندی کا بھلہ تھا۔ آپ ﷺ نے انہیں ذبح کیا اور ہر اونٹ میں گوشت کا ایک ایک ٹکڑا اکٹھا کرنے کا حکم دیا۔ پھر اسے پکا یا گیا اور اس کے بعد آپ ﷺ نے اس کا شور بہ پیا۔

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث سفیان کی روایت سے غریب ہے ہم اسے صرف زید بن حباب کی روایت سے جانتے ہیں۔ عبد اللہ بن عبد الرحمن اپنی کتاب میں یہ حدیث عبد اللہ بن ابو زیاد سے روایت کرتے ہیں۔ میں نے امام بخاری سے اس کے متعلق پوچھا: وہ بھی اسے ثورنی کی محض سے روایت کے متعلق نہیں جانتے۔ جعفر اپنے والد سے وہ جابر سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ حدیث محفوظ نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ حدیث ثوری، ابو اسحاق سے اور وہ مجاہد سے مرسل روایت کرتے ہیں۔

۷۱۴۔ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ نَاحِبَانُ بْنُ هَلَالٍ نَا هَمَّامُ نَا قَتَادَةُ قَالَ قُلْتُ لِأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ كَمْ حَجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَجَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ عُمْرَةً فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَ عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَعُمْرَةً فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ وَعُمْرَةَ الْجِعْرَانَةَ إِذْ قَسَمَ عَنِيمَةَ حُنَيْنٍ

۷۱۴۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں میں نے انس بن مالک سے پوچھا کہ آنحضرت ﷺ نے کتنے حج کیے؟ فرمایا: ایک حج اور چار عمرے۔ ایک عمرہ ہجرانہ کیا جب غزوہ حنین کے مال غنیمت کی تقسیم کی۔

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جہان بن ہلال کی کنیت ابو صیب بصری ہے۔ یہ پائے کے بزرگ اور ثقہ ہیں۔ یحییٰ بن سعید قطان انہیں ثقہ کہتے ہیں۔

باب ۵۵۲۔ مَا جَاءَ كُمْ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۷۱۵۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارِ

باب ۵۵۲۔ حضور اکرم ﷺ نے کتنے عمرے کیے۔

۷۱۵۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں: آنحضرت ﷺ نے چار عمرے

کیے۔ ایک حدیبیہ کے موقع پر دوسرا آئندہ سال ذیقعدہ میں حدیبیہ والے عمرے کی تقاضا میں، تیسرا عمرہ حجاز اور چوتھا حج کے ساتھ۔

عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ عُمَرَةَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَعُمَرَةَ الثَّانِيَةَ مِنْ قَابِلِ عُمَرَةَ الْقَصَا فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمَرَةَ الثَّلَاثَةَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ وَالرَّابِعَةَ الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ

اس باب میں حضرت انسؓ، عبداللہ بن عمروؓ اور ابن عمرؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن عباسؓ کی حدیث غریب ہے۔ ابن عیینہ یہ حدیث عمرو بن دینار سے اور وہ مکرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے چار عمرے کیے۔ اس میں انہوں نے ابن عباسؓ کا ذکر نہیں کیا۔ سعید بن عبدالرحمن مخزومی بھی سفیان بن عیینہ سے وہ عمرو بن دینار سے وہ مکرمہ سے اور وہ حضور اکرم ﷺ سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔

باب ۵۵۳۔ آنحضرت ﷺ نے کس جگہ احرام باندھا۔

باب ۵۵۳۔ مَا جَاءَ فِي آيِ مَوْضِعِ أَحْرَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۷۱۶۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب آنحضرت ﷺ نے حج کا ارادہ کیا تو لوگوں میں اعلان کرایا۔ لوگ جمع ہو گئے پھر جب آپ ﷺ بیداء کے مقام پر پہنچے تو احرام باندھا۔

۷۱۶۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ نَا سَفِيَانَ بْنَ عَيْنَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ فَاجْتَمَعُوا فَلَمَّا أَتَى الْبَيْدَاءَ أَحْرَمَ

اس باب میں ابن عمرؓ اور موسیٰ بن حمزہ سے بھی روایت ہے۔

۷۱۷۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں: تم لوگ آنحضرت ﷺ پر افتراء اور جھوٹ باندھتے ہو کہ آپ ﷺ نے بیداء سے احرام باندھا۔ اللہ کی قسم آپ ﷺ نے ذوالحلیفہ کے پاس درخت کے نزدیک سے لبیک پکارنا شروع کیا۔

۷۱۷۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ الْبَيْدَاءَ الَّتِي تَكْدِبُونَ فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَا أَهَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ مِنْ عِنْدِ الشَّجَرَةِ

امام ترمذی کہتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۵۵۴۔ آنحضرت ﷺ نے کب احرام باندھا؟

باب ۵۵۴۔ مَا جَاءَ مِنْ أَحْرَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۷۱۸۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں: آنحضرت ﷺ نے نماز کے بعد

۷۱۸۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ حَرْبِ عَنْ خَصِيْفِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ

تہلیل پڑھی۔ (۱)

(۱) تہلیل کے معنی یہ ہیں کہ ”لیک لیک لیک لیک لا شریک لک لیک ان الحمد والنعمة لک والملك لا شریک لک“ پڑھتے ہوئے آواز بلند کرے۔ اور یہ احرام کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَهْلًا فِي ذُبُرِ الصَّلَاةِ

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث غریب ہے ہمیں نہیں معلوم کہ اسے عبد السلام بن حرب کے علاوہ کسی اور نے روایت کیا ہو۔ علماء اسی کو مستحب کہتے ہیں کہ نماز کے بعد احرام باندھے اور تلبیہ پڑھے۔

باب ۵۵۵۔ حج افراد۔

باب ۵۵۵۔ مَا جَاءَ فِي إِفْرَادِ الْحَجِّ

۷۱۹۔ حدثنا ابو مصعب قراءة عن مالك بن انس

عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْرَدَ الْحَجَّ

اس باب میں حضرت جابرؓ اور ابن عمرؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت عائشہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر بعض علماء کا عمل ہے۔ حضرت ابن عمرؓ سے بھی مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حج افراد کیا اسی طرح ابو بکرؓ، عمرؓ اور عثمانؓ نے بھی حج افراد ہی کیا۔ ہمیں اس کی خبر تیبیہ نے دی وہ عبداللہ بن عمرؓ سے وہ نافع سے اور وہ ابن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں۔ امام ترمذی، ثوری کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک اگر حج افراد کرے تو بہتر اور اگر تمتع کرے تو بھی بہتر ہے۔ شافعی بھی یہی کہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے ہمارے نزدیک افراد سب سے بہتر ہے۔ پھر تمتع اور اس کے بعد قرآن۔

توضیح: حج کی تین قسمیں ہیں جن میں سے پہلی ”افراد“ یعنی میقات سے صرف حج کے لیے احرام باندھنا۔ دوسری ”تمتع“ یعنی حج کے مہینوں میں عمرے کا احرام باندھے اور عمرہ کرنے کے بعد اگر قربانی کا جانور ساتھ لایا ہو تو۔ احرام نہ کھولے اور اگر ساتھ نہ لایا ہو تو احرام کھول دے۔ تیسری قسم ”قرآن“ ہے اس میں عمرے اور حج کا احرام ایک ساتھ میقات ہی سے باندھے گا اور دونوں سے فارغ ہونے تک احرام ہی میں رہے گا۔ (مترجم)

باب ۵۵۶۔ حج اور عمرہ ایک ہی احرام میں کرنا۔

باب ۵۵۶۔ مَا جَاءَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

۷۲۰۔ حدثنا قتيبة نا حماد بن زيد عن حميد عن

انس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول

۷۲۰۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں میں نے آنحضرت ﷺ کو ”لیک بھرمہ“

وحجة“ کہتے ہوئے سنا (یعنی حج اور عمرے دونوں کی نیت کی)۔

لَيْكِ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ

اس باب میں حضرت عمرؓ اور عمران بن حصینؓ سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں انس کی حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض علماء اسی پر عمل کرتے ہیں۔ اہل کوفہ وغیرہ کا بھی یہی قول ہے۔

توضیح: علماء حج کی تینوں قسموں میں سے افضل ترین کے متعلق اختلاف ہے۔ اس میں حنفیہ قرآن کی افضلیت کے قائل ہیں پھر تمتع اور پھر افراد۔ ان کی دلیل حضرت انسؓ کی حدیث باب ہے۔ ان سے اور بھی کئی راوی یہی روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ قارن تھے۔ اور پھر تلبیہ میں حج و عمرہ کو جمع کرنا حج قرآن ہی کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی احادیث حنفیہ کے مسلک کی تائید کرتی ہیں ان میں سے ایک حضرت ام سلمہؓ کی روایت بھی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اپنے اہل بیت کو قرآن کا حکم دیا۔ اس سے بھی اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ آپ ﷺ قارن ہی تھے۔ کیونکہ آپ ﷺ یقیناً اہل بیت کے لیے وہی اختیار کرتے جو انہوں نے خود اختیار کیا تھا۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۵۵۷۔ مَا جَاءَ فِي التَّمَتُّعِ

باب ۵۵۷۔ تمتع کے متعلق

۷۲۱۔ حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَارِثِ بْنِ نُوفَلٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدُ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وَالضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ وَهُمَا يَذْكُرَانِ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَقَالَ الضَّحَّاكَ ابْنُ قَيْسٍ لَا يَصْنَعُ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ جَهَلَ أَمْرَ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ سَعْدُ بِنَسْ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أَخِي فَقَالَ الضَّحَّاكَ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ سَعْدُ قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۷۲۱۔ حضرت محمد بن عبد اللہ بن حارث بن نوفل نے سعد بن ابی وقاص اور ضحاک بن قیس کو تمتع کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا، جس میں حج کے ساتھ عمرہ بھی کیا جاتا ہے۔ ضحاک کہنے لگے یہ تو وہی کرے گا جو اللہ کے حکم سے جاہل ہوگا۔ سعد نے فرمایا: جتنی تم نے غلط کہا۔ اس پر ضحاک نے کہا عمر بن خطابؓ نے اس سے منع کیا ہے۔ سعد کہنے لگے آنحضرت ﷺ نے خود بھی تمتع کیا اور ان کے ساتھ ہم نے بھی۔

۷۲۲۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ

۷۲۲۔ ابن شہاب، سالم بن عبد اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک شامی شخص کو عبد اللہ بن عمرؓ سے حج کے ساتھ عمرے کے ملانے (تمتع) کے متعلق پوچھا۔ عبد اللہ بن عمرؓ نے فرمایا: حلال ہے شامی نے کہا کہ آپ کے والد نے اس سے منع کیا ہے ابن عمرؓ نے فرمایا: دیکھو اگر میرے والد کسی کام سے منع کریں اور رسول اللہ ﷺ وہی کام کریں تو میرے والد کی اتباع کی جائے گی یا آنحضرت ﷺ کی؟ شامی نے کہا: حضور ﷺ کی۔ ابن عمرؓ نے فرمایا: آنحضرت ﷺ نے تمتع ہی کیا۔

ابراهيم بن سعد نا ابی عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب ان سألتم بن عبد الله حدثه انه سمع رجلا من اهل الشام وهو يسئل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة الى الحج فقال عبد الله ابن عمر هي حلال فقال الشامى ان اباك قد نهى عنها فقال عبد الله بن عمر ارايت ان كان ابى نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ابى يتبع ام امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۷۲۳۔ حَدَّثَنَا ابُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اِدْرِيسَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَأَوَّلُ مَنْ نَهَى عَنْهُ مَعَاوِيَةُ

۷۲۳۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے تمتع کیا۔ اسی طرح ابو بکرؓ، عثمانؓ اور عمرؓ نے بھی تمتع ہی کیا اور جس نے سب سے پہلے تمتع سے منع کیا وہ معاویہؓ ہیں۔

اس باب میں حضرت علیؓ، عثمانؓ، جابرؓ، سعدؓ، اسماء بنت ابی بکرؓ اور ابن عمرؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں۔ ابن عباسؓ کی حدیث حسن ہے۔ علماء صحابہ کی ایک جماعت نے تمتع ہی کو اختیار کیا ہے۔ یعنی حج اور عمرے کو۔ تمتع حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے اور اس کے بعد حج کرنے تک وہیں رہنے کو کہتے ہیں۔ اس قسم میں قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی قربانی نہ کر سکتا ہو تو حج کے دنوں میں تین اور گھر لوٹنے پر سات روزے رکھے۔ پھر اس کے لیے مستحب ہے کہ تین روزے ذوالحج کے پہلے دس دنوں میں رکھے اس طرح کہ تیسرا روزہ عرفے کے دن ہو۔ یعنی پہلے عشرے کے آخری تین دن۔ اگر ان دنوں میں روزے نہ رکھے ہوں تو بعض علماء کے نزدیک ایام تشریق میں روزے رکھے۔ جن میں عمر اور عائشہ شامل ہیں۔ مالک، شافعی، احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں۔ جب کہ احناف کے نزدیک ایام تشریق میں روزے نہ رکھے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: محدثین تمتع ہی کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی قول ہے۔

توضیح: حنفیہ ان احادیث کے متعلق کہتے ہیں کہ لفظ ”تمتع“، ”قرآن“ سے زیادہ عام ہے یعنی ”قرآن“ اسی میں داخل ہو سکتا ہے چنانچہ اس سے مراد قرآن بھی لیا جاسکتا ہے۔ اور یہاں تمتع سے مراد تمتع لغوی ہے یعنی عمرے کے ساتھ حج کو ملانے اور دونوں کو ایک ہی سفر میں ادا کر کے نفع حاصل کرے تاکہ دونوں کیلئے الگ الگ سفر نہ کرنا پڑے۔ واللہ اعلم۔ (مترجم)

باب ۵۵۸۔ لَبِیکَ کے متعلق

باب ۵۵۸۔ مَا جَاءَ فِي التَّلْبِيَةِ

۷۲۴۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا سَمْعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ
عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ تَلْبِيَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِيكَ اللَّهُمَّ لَبِيكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبِيكَ إِنْ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

۲۳۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ تلبیہ اس طرح کہتے تھے۔ لَبِيكَ اللَّهُمَّ لَبِيكَ..... الخ یعنی حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں اور ابوبکرؓ اور دیگر علماء کا عمل ہے۔ اور یہی سفیان ثوری، شافعی، احمد اور اسحاق کا قول ہے۔ شافعی کہتے ہیں، اگر تلبیہ میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے الفاظ اور زیادہ کرے تو انشاء اللہ کوئی مضائقہ نہیں۔ جبکہ میرے نزدیک بہتر یہی ہے کہ اتنا ہی پڑھے جتنا کہ آپ ﷺ سے ثابت ہے۔ اس میں زیادتی کرنے میں اس لئے کوئی حرج نہیں کہ حضرت ابن عمرؓ حضور ﷺ کے تلبیہ کے حافظ تھے۔ پھر بھی اس میں اپنی طرف سے زیادتی کی۔ چنانچہ یہ عمل اس کے لئے جواز پر دلالت کرتا ہے۔

باب ۵۵۹۔ تلبیہ اور قربانی کی فضیلت

باب ۵۵۹۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ التَّلْبِيَةِ وَالنَّحْرِ

۲۵۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ سے پوچھا گیا کون سا حج افضل ہے۔ فرمایا: جس میں تلبیہ کی کثرت ہو اور خون زیادہ

۷۲۵۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ نَا ابْنِ أَبِي قَدِيكٍ وَثَنَا اسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ نَا ابْنِ قَدِيكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ

بہایا جائے۔

عثمان عن محمد بن المنكدر بن يربوع عن أبي بكر الصديق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الحج أفضل قال العج والشح

۷۲۶۔ حدثنا هنادنا اسمعيل بن عياش عن عمارة بن غزبية عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبى إلا لبي من عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى ينقطع الأرض من ههنا وههنا

۴۲۶۔ حضرت سہل بن سعدؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جب کوئی مسلمان تلبیہ کہتا ہے تو اس کے دائیں بائیں کے پتھر، اشجار اور کنکریاں یہاں تک کہ زمین کے تمام نباتات و جمادات اس کے ساتھ ”لبیک.....“ اٹھ کہنے لگتے ہیں۔

حسن بن محمد زعفرانی، عبدالرحمن بن اسود اور ابو عمر وبصری، عبیدہ بن حمید سے وہ عمارہ بن غزیہ سے وہ ابو حازم سے وہ سہل سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسماعیل بن عیاش کی حدیث کے مثل روایت کرتے ہیں۔ اس باب میں ابن عمرؓ اور جابرؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ابو بکرؓ کی حدیث غریب ہے، ہم اسے ابن ابی ندیک کی ضحاک بن عثمان سے روایت کے علاوہ نہیں جانتے۔ محمد بن منکدر، سعید بن عبدالرحمن بن یربوع سے بھی ان کے والد کے حوالے سے اس کے علاوہ روایت کرتے ہیں۔ ابونعمان ضرار بن مردیہ حدیث ابن ابی ندیک سے وہ محمد بن منکدر سے وہ سعید بن عبدالرحمن بن یربوع سے وہ اپنے والد سے وہ ابو بکرؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے روایت کرتے ہیں لیکن ضرار نے اس میں غلطی کی ہے۔ امام ترمذی، احمد بن حسن کے حوالے سے کہتے ہیں کہ احمد اس شخص کے متعلق جو اس حدیث کو (محمد بن منکدر سے وہ سعید بن عبدالرحمن بن یربوع سے اور وہ اپنے والد سے وہ ابو بکرؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ میں نے امام بخاری کے سامنے ضرار بن مردیہ کی ابن ابی ندیک سے روایت بیان کی تو فرمایا: کچھ نہیں۔ پس ان لوگوں نے اسے ابن ابی ندیک سے روایت کر دیا ہے اور سعید بن عبدالرحمن کو چھوڑ دیا ہے امام بخاری، ضرار بن مردیہ کو ضعیف کہتے ہیں۔

عج: تلبیہ زور سے پڑھنے اور حج: قربانی کو کہتے ہیں۔

باب ۵۶۰۔ تلبیہ بلند آواز سے پڑھنا۔

باب ۵۶۰۔ ماجاء فی رفع الصوت بالتلبية

۷۲۷۔ حدثنا احمد بن منيع نا سفيان بن عيينة عن عبد الله ابى بكر عن عبد الملك بن ابى بكر بن عبد الرحمن عن خلادين السائب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتانى جبرئيل فامرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالأهلال أو بالتلبية

۷۲۷۔ حضرت خلاد بن ابی سائب اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: میرے پاس جبرئیل آئے اور مجھے حکم دیا کہ میں اپنے صحابہ کو حکم دوں کہ تلبیہ بلند آواز سے پڑھیں۔ راوی کو شک ہے کہ ”الہلال“ فرمایا یا ”تلبیہ“ دونوں کے معنی ایک ہیں۔

۷۲۷۔ حدثنا احمد بن منيع نا سفيان بن عيينة عن عبد الله ابى بكر عن عبد الملك بن ابى بكر بن عبد الرحمن عن خلادين السائب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتانى جبرئيل فامرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالأهلال أو بالتلبية

امام ترمذی کہتے ہیں خلاد کی ان کے والد سے مروی حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض راوی اسے خلاد بن سائب سے زید بن خالد کے حوالے سے مروی روایت کرتے ہیں یہ صحیح نہیں۔ خلاد کی اپنے والد سے روایت ہی صحیح ہے اور وہ خلاد بن سائب بن سوید انصاری ہیں۔ اس باب میں زید بن خالد، ابو ہریرہ اور ابن عباسؓ سے بھی روایت ہے۔

باب ۵۶۱۔ احرام پہننے وقت غسل کرنا۔

۷۲۸۔ خارجہ بن زید بن ثابت اپنے والد سے نقل کرتے ہیں۔ کہ انہوں نے آنحضرت ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ نے احرام باندھتے وقت اپنے کپڑے اتارے اور غسل کیا۔

امام ترمذی کہتے ہیں حدیث حسن غریب ہے بعض علماء احرام باندھتے وقت غسل کرنے کو مستحب کہتے ہیں۔ شافعی بھی اسی کے قائل ہیں۔

باب ۵۶۲۔ آفاقی کے لیے احرام باندھنے کی جگہ۔

۷۲۹۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم کہاں سے احرام باندھیں؟ فرمایا: اہل مدینہ ذوالحلیفہ سے، اہل شام جھ سے، اہل نجد قرن سے اور اہل یمن یلمم سے احرام باندھیں۔

اس باب میں ابن عباس، جابر بن عبد اللہ اور عبد اللہ بن عمرو سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ابن عمر کی حدیث حسن صحیح

ہے اور اسی پر علماء کا عمل ہے۔

۷۳۰۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے اہل مشرق کے لیے حقیق کو میقات مقرر فرمایا:

۷۳۰۔ حدثنا ابو کریب نا و کعب عن سفیان عن یزید بن ابی زید عن محمد بن علی عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت لاهل المشرق العقیق

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔

باب ۵۶۳۔ محرم (احرام والے) کے لیے کیا پہننا جائز ہے۔

۷۳۱۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! حالت احرام میں ہم کون کون سے کپڑے پہن سکتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: قمیص، شلوار، برساتی، گیلی اور موزے نہ پہنو۔ ہاں اگر کسی کے پاس جوتے نہ ہوں تو موزے پہن سکتا ہے لیکن انہیں ٹخنوں کے نیچے تک کاٹ دے۔ پھر ایسا کپڑا بھی نہ پہنو جس میں ورس یا زعفران لگا ہوا ہو اور عورت اپنے چہرے پر نقاب نہ ڈالے اور ہاتھوں میں دستانے نہ پہنے۔ (۱)

باب ۵۶۳۔ ماجاء فی مالا یجوز للمحرم لبسہ

۷۳۱۔ حدثنا قتیبة نا اللیث عن نافع عن ابن عمر انه قال قام رجل فقال یارسول اللہ ماذا تأمرنا ان نلبس من الثیاب فی الحرم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تلبس القمیص ولا السرا وینلات ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف الا ان یكون احد لیست له نعلان فلیلبس الخفین ولیقطعہما ما اسفل من الکعبین ولا تلبسوا شیئا من الثیاب مسہ الزعفران ولا الورس ولا تتنقب المرأة المحرمة ولا

(۱) ورس: یہ گھاس کی ایک قسم ہے جس سے رنگائی کی جاتی ہے۔ (مترجم)

تَلْبَسُ الْقَفَازِينَ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر علماء کا عمل ہے۔

باب ۵۶۴۔ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ السَّرَاوِيلِ وَالْخُفَيْنِ باب ۵۶۴۔ اگر لنگی اور جوتے نہ ہوں تو شلوار اور موزے پہن لے۔

لِلْمُحْرَمِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ وَالنَّعْلَيْنِ

۷۳۲۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّبِيِّ الْبَصْرِيُّ نَا يَزِيدَ

۳۲۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر محرم کے پاس لنگی نہ ہو تو شلوار اور اگر جوتے نہ ہوں تو موزے پہن لے۔

بْنِ زُرَيْعٍ نَا عُمَرَ بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ الْمُحْرَمُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَيْنِ

قتیبہ، حماد بن زید سے عمرو کے حوالے سے اسی طرح روایت کرتے ہیں اس باب میں ابن عمرؓ اور جابرؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض علماء اسی پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر لنگی نہ ہو تو شلوار اور اگر جوتے نہ ہوں تو موزے پہن سکتا ہے۔ یہ امام احمد کا بھی قول ہے۔ بعض ابن عمرؓ کی مرفوع حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں: اگر جوتے نہ ہوں تو موزے پہن سکتا ہے۔ بشرطیکہ انہیں ٹخنوں کے نیچے تک کاٹ دے۔ یہ سفیان ثوری اور شافعی کا قول ہے۔

باب ۵۶۵۔ مَا جَاءَ فِي الذِّي يُحْرِمُ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ أَوْ جُبَّةٌ باب ۵۶۵۔ جو شخص قمیص یا جبہ پہن کر احرام باندھے۔

۷۳۳۔ حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اِدْرِيسَ

۳۳۔ حضرت عطاء بن یعلیٰ بن امیہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ایک اعرابی کو احرام کی حالت میں جبہ پہنے ہوئے دیکھا تو اسے حکم دیا کہ اسے اتار دے۔

عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَعْلَى

بْنِ أُمَيَّةٍ قَالَ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَعْرَابِيًّا قَدْ أَحْرَمَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا

ابن ابی عمرؓ بھی سفیان بن عمرو بن دینار سے وہ عطاء سے وہ صفوان بن یعلیٰ سے وہ اپنے والد سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی حدیث کے ہم معنی روایت کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ اسح ہے۔ اور اس حدیث میں قصہ ہے۔ اسی طرح قتادہ، ججاج بن ارطاة اور کئی راوی بھی عطاء سے یعلیٰ بن امیہ کے واسطے سے روایت کرتے ہیں لیکن صحیح عمر بن دینار اور ابن جریج کی ہی روایت ہے یہ دونوں عطاء سے وہ صفوان بن یعلیٰ سے اور وہ اپنے والد سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں۔

باب ۵۶۶۔ مَا جَاءَ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرَمُ مِنَ الدَّوَابِّ باب ۵۶۶۔ محرم کا کن جانوروں کو مارنا جائز ہے۔

۷۳۴۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ ابْنِ

۳۴۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: احرام میں پانچ چیزوں کو مارنا جائز ہے۔ چوہا، بچھو، کوا، چیل اور کانٹے والا کتا۔

الشَّوَارِبِ نَا يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ نَا مَعْمَرٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ

عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَارَةُ

وَالْعُقْرُبُ وَالْغُرَابُ وَالْحُدْبَاءُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

اس باب میں ابن مسعود، ابن عمر، ابو ہریرہ، ابو سعید اور ابن عباس سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۷۳۵۔ حدثنا احمد بن منيع نا هشيم نايزيد بن ابى زياد عن ابن ابي نعيم عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتل المحرم السبع العادي والكلب العقور والفارة والعقرب والحداة والغراب

۳۵۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: محرم کے لیے درندے، کائٹے والے کتے، چوہے، بچھو، چیل اور کوءے کو مارنا جائز ہے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے علماء اسی پر عمل کرتے اور کہتے ہیں کہ درندے اور کائٹے والے کتے کو قتل کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ سفیان ثوری اور شافعی کا یہی قول ہے۔ جب کہ شافعی مزید کہتے ہیں کہ جو درندہ، انسان یا جانور پر حملہ آور ہوتا ہے اس کو مارنا بھی جائز ہے۔

باب ۵۶۷۔ مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ

۷۳۶۔ حدثنا قتيبة نا سفیان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاؤس وعطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو مُحْرِمٌ

۳۶۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے احرام کی حالت میں کچھنے لگائے۔

اس باب میں انس، عبداللہ بن یحییٰ اور جابر سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے بعض علماء محرم کو کچھنے لگانے کی اجازت دیتے ہیں بشرطیکہ بال نہ موٹا ہے۔ امام مالک بھی بوقت ضرورت اس کی اجازت دیتے ہیں جب کہ امام شافعی اور سفیان ثوری کے نزدیک اگر بال نہ اکھاڑے جائیں تو کچھنے لگانے میں کوئی حرج نہیں۔

باب ۵۶۸۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ تَزْوِيجِ الْمُحْرِمِ

۷۳۷۔ حدثنا احمد بن منيع نا اسمعيل بن عليه نا ايوب عن نافع عن نبيه بن وهب قال اراد بن مغمير ان ينكح ابنة قبيصة الى ايان بن عثمان وهو امير المؤمنين فاتيته فقلت ان احاك يريد ان ينكح ابنة فاحب ان يشهدك على ذلك فقال لا اراه الا اعرابيا جافيا ان المحرم لا ينكح ولا ينكح او كما قال ثم حدثت عن عثمان مثله يرفعه

۳۷۔ نبیہ بن وہب کہتے ہیں کہ ابن مسعود نے اپنے بیٹے کی شادی کا ارادہ کیا تو مجھے امیرج ابان بن عثمان کے پاس بھیجا۔ میں گیا اور کہا کہ آپ کے بھائی اپنے بیٹے کا نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی چاہت ہے کہ آپ اس بات پر گواہ ہوں۔ فرمایا: وہ گوار اور بے عقل شخص ہیں۔ محرم نہ خود نکاح کر سکتا ہے اور نہ کسی کا کروا سکتا ہے۔ یا اسی طرح کچھ کہا۔ پھر عثمان سے مرفوعاً اسی کے مثل روایت بیان کی۔

اس باب میں ابورافع اور میمونہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی اس حدیث کو حسن صحیح کہتے ہیں۔ بعض صحابہ کا اسی پر عمل ہے جن میں حضرت عمر بن خطاب، علیؓ اور ابن عمر شامل ہیں پھر بعض فقہاء تابعین، امام مالک، شافعی، احمد اور اسحاق بھی احرام کی حالت میں نکاح کرنے کو ناجائز سمجھتے ہیں ان کے نزدیک اگر نکاح کر لیا جائے تو باطل ہے۔

۷۳۸۔ حدثنا قتيبة ناخبرناحمادبن زيدعن مطرالوراق عن ربيعة بن ابى عبدالرحمن عن سليمان بن يسار عن ابي رافع قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو

۳۸۔ حضرت ابورافع فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے میمونہ کے ساتھ بغیر حالت احرام نکاح کیا پھر جب صحبت کی تب بھی احرام سے

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث غریب ہے اور کئی راویوں نے یزید بن عاصم سے مرسل روایت کی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے میمونہ سے نکاح کیا تو حلال تھے۔

باب ۵۷۰۔ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ

۷۴۲۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ

عَمْرُو بْنِ أَبِي عَمْرُو بْنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَيْدُ الْبَيْرِ لَكُمْ حَلَالٌ

وَأَنْتُمْ حُرْمٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصْنِدْكُمْ

باب ۵۷۰۔ محرم کا شکار کا گوشت کھانا۔

۷۴۲۔ حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: حالت احرام

میں اگر تم نے خود یا کسی نے تمہارے لیے شکار نہ کیا ہو تو تمہارے لیے

حلال ہے۔

اس باب میں ابوقادہ اور طلحہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: جابرؓ کی حدیث مفسر ہے۔ مطلب کے جابر سے سماع کا ہمیں علم نہیں۔ علماء اسی پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں: محرم کے شکار کا گوشت کھانے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ بشرطیکہ اس نے خود یا صرف اسی کے لیے نہ شکار کیا گیا ہو۔ امام شافعی کہتے ہیں یہ حدیث اس باب کی احسن، اور قیاس کے سب سے زیادہ موافق حدیث ہے اور اسی پر عمل ہے۔ احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

۷۴۳۔ حضرت ابوقادہ فرماتے ہیں کہ میں اور صحابہؓ آنحضرت ﷺ کے

ساتھ مکہ جا رہے تھے جب مکہ کے قریب پہنچے تو میں اپنے کچھ ساتھیوں

کے ساتھ پیچھے رہ گیا۔ صرف میں احرام میں نہیں تھا جب کہ باقی سب

احرام میں تھے، چنانچہ ابوقادہ نے ایک وحشی گدھے کو دیکھا تو اپنے

گھوڑے پر چڑھ گئے اور ساتھیوں سے نیزہ مانگا۔ انہوں نے انکار

کر دیا۔ پھر کوڑا مانگا تو بھی انہوں نے نہیں دیا۔ پھر خود ہی لیا اور اس

گدھے کی طرف دوڑے اور اسے قتل کر دیا بعض صحابہ نے اس میں

سے کھایا اور بعض نے انکار کر دیا۔ جب آنحضرت ﷺ کے پاس پہنچے

اور اس کے متعلق پوچھا تو فرمایا: وہ تو کھانا تھا جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں

کھلایا۔

۷۴۳۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي

النَّضْرِ عَنْ نَافِعِ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ

كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ

بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ

وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَأَى حِمَارًا وَحَشِيًّا فَاسْتَوَى عَلَى

فَرَسِهِ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَلْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا

فَسَأَلَهُمْ رُمَحَهُ فَأَبَوْا عَلَيْهِ فَأَخَذَ فَشَدَّ عَلَى الْحِمَارِ

فَقَتَلَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَأَبَى بَعْضُهُمْ فَأَدْرَكُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ

أَطَعَمَكُمُوهَا اللَّهُ

قتیبہ، مالک سے وہ یزید بن اسلم سے وہ عطاء بن یسار سے اور وہ قوادہ سے وحشی گدھے کے متعلق ابوالنضر کی حدیث کے مثل روایت کرتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: تمہارے پاس اس کے گوشت میں سے کچھ باقی ہے؟ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۵۷۱۔ محرم کے لیے شکار کا گوشت کھانا مکروہ ہے۔

۷۴۴۔ حضرت عبید اللہ بن عبد اللہ، ابن عباسؓ سے اور وہ صعّب بن

جثامہ سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ صعّب کو ابواء یا وذن ان

باب ۵۷۱۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ

۷۴۴۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا اللَّيْثِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ

عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ الصَّعْبَ

(دونوں مقام مکہ اور مدینہ کے درمیان ہیں) ساتھ لے کر گئے تو وہ آنحضرت ﷺ کے لیے ایک وحشی گدھالائے۔ آنحضرت ﷺ نے واپس کر دیا لیکن جب آنحضرت ﷺ نے ان کے چہرے پر کراہت کے آثار دیکھے تو فرمایا: یہ میں نے اس لیے واپس کیا ہے کہ ہم احرام میں ہیں۔ چنانچہ مجبوری کی وجہ سے واپس کیا ہے۔

بِنَ حَثَامَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بَوْدَانَ فَأَهْدَى لَهُ جِمَارًا وَحَشِيئًا فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِهِ الْكِرَاهِيَةَ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِنَارِدٌ عَلَيْكَ وَلَكِنَّا حُرْمٌ

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ علماء اور صحابہ کی ایک جماعت اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے محرم کے لیے شکار کا گوشت کھانے کو مکروہ سمجھتی ہے امام شافعی کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے اسے اس لیے واپس کر دیا تھا کہ ان کے خیال میں صعب نے اسے انہی کے لیے شکار کیا تھا اور آپ ﷺ کا اسے ترک کرنا تنزیہاً ہے۔ زہری کے بعض ساتھی بھی اسے زہری سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ”صعب نے وحشی گدھے کا گوشت ہدیے میں پیش کیا تھا۔ لیکن یہ غیر محفوظ ہے اس باب میں حضرت علیؓ اور زید بن ارقم سے بھی روایت ہے۔

باب ۵۷۲۔ محرم کیلئے سمندری جانوروں کا شکار حلال ہے۔

باب ۵۷۲۔ مَا جَاءَ فِي صَيْدِ الْبَحْرِ لِلْمُحْرِمِ

۷۴۵۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں: ہم آنحضرت ﷺ کے ساتھ حج یا عمرے کے لیے نکلے تو ہمارے سامنے نڈی دل آگیا۔ چنانچہ ہم نے انہیں لائیوں اور کوزوں سے مارنا شروع کر دیا۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اسے کھاؤ یہ تو پانی کا شکار ہے۔

۷۴۵۔ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ نَا وَكَيْعٌ عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَزَّمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَاسْتَقْبَلَنَا رَجُلٌ مِنْ جَرَادٍ فَجَعَلْنَا نَضْرِبُهُ بِأَسْيَاطِنَا وَعَصِيصِنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّوهُ فَإِنَّهُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے ہم اسے ابو ہریرہؓ کی حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کے علاوہ نہیں جانتے۔ ان کا نام زید بن سفیان ہے۔ شعبہ نے ان کے متعلق کلام کیا ہے۔ علماء کی ایک جماعت محرم کے لیے نڈی کو شکار کر کے کھانے کی اجازت دیتی ہے جب کہ بعض علماء کہتے ہیں: اگر محرم نڈی کو کھائے یا اس کا شکار کرے گا تو اس پر صدقہ واجب ہو جائے گا۔

باب ۵۷۳۔ محرم کے لیے بچو کا حکم۔ (۱)

باب ۵۷۳۔ مَا جَاءَ فِي الصَّبْعِ يُصَيِّبُهَا الْمُحْرِمُ

۷۴۶۔ حضرت ابن ابی عمار فرماتے ہیں میں نے جابر بن عبد اللہ سے پوچھا کیا بچو شکار ہے؟ فرمایا: ہاں۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا کیا میں اسے کھا سکتا ہوں؟ فرمایا: ہاں۔ میں نے پوچھا کیا یہ آنحضرت ﷺ کا فرمان ہے؟ فرمایا: ہاں۔

۷۴۶۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نَا ابْنِ جَرِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ ابْنِ أَبِي عَمْرٍاءَ قَالَ قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الصَّبْعُ أَصِيدٌ هِيَ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ أَكَلُهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ أَقَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ

(۱) بچو: ایک جانور ہے جو مردار کھاتا ہے اور اس کا شمار ذی ناب و ذی ظنب میں ہوتا ہے۔ جس کی حرمت حدیث صحیح سے ثابت ہے جو ابواب الاطعمہ میں آ رہی ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ علی، یحییٰ بن سعید کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جریر بن حازم یہ حدیث روایت کرتے ہوئے بحوالہ جابر، حضرت عمرؓ سے روایت کرتے ہیں۔ ابن جریج کی حدیث اصح ہے اور یہی احمد اور اسحاق کا قول ہے۔ علماء کا اسی حدیث پر عمل ہے کہ محرم اگر بچو کا شکار کرے تو اس پر جزاء ہے۔

باب ۵۷۴۔ مَا جَاءَ فِي الْإِعْتِسَالِ لِذُخُولِ مَكَّةَ

باب ۵۷۴۔ مکہ داخل ہونے کے لیے غسل

۷۴۷۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنِي هَارُونَ بْنُ

۷۴۷۔ حضرت ابن عمرؓ نے مکہ داخل ہونے سے پہلے فنج کے مقام پر

صَالِحٌ نَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ اسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ

غسل کیا۔

ابْنِ عُمَرَ قَالَ اغْتَسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لِذُخُولِ مَكَّةَ بِفَنَجٍ

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث غیر محفوظ ہے۔ صحیح وہی ہے جو نافع سے مروی ہے کہ ابن عمرؓ مکہ جانے کے لیے غسل کیا کرتے تھے۔ شافعی کا بھی یہی قول ہے کہ مکہ جانے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ عبدالرحمن بن زید بن اسلم ضعیف ہیں۔ علی بن مدینی اور احمد بن حنبل انہیں ضعیف کہتے ہیں اور ہم اس حدیث کو صرف انہی کی روایت سے مرفوع جانتے ہیں۔

باب ۵۷۵۔ مَا جَاءَ فِي ذُخُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

باب ۵۷۵۔ آنحضرت ﷺ مکہ میں بلندی کی طرف سے داخل اور پستی

وَسَلَّمَ مَكَّةَ مِنْ أَعْلَاهَا وَخَرُوجِهِ مِنْ أَسْفَلِهَا

کی طرف سے باہر نکلے۔

۷۴۸۔ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَا

۷۴۸۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں جب آنحضرت ﷺ مکہ گئے تو بلندی

سَفِيَانَ بْنِ عَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ

عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِلَى مَكَّةَ دَخَلَهَا مِنْ أَعْلَاهَا وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا

اس باب میں ابن عمرؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۵۷۶۔ مَا جَاءَ فِي ذُخُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

باب ۵۷۶۔ آنحضرت ﷺ مکہ میں دن میں داخل ہوئے۔

وَسَلَّمَ نَهَارًا

۷۴۹۔ حَدَّثَنَا يَوْسُفُ بْنُ عَيْسَى نَا وَكَيْعُ نَا

۷۴۹۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں۔ کہ آنحضرت ﷺ مکہ میں دن کے

الْعُمَرَى عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ نَهَارًا

وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ نَهَارًا

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۵۷۷۔ مَا جَاءَ فِي كِرَاهِيَةِ رَفْعِ الْيَدِ عِنْدَ رُؤْيَةِ

باب ۵۷۷۔ بیت اللہ پر نظر پڑنے پر ہاتھ اٹھانے کی کراہت۔

النَّبِيِّ

۷۵۰۔ حَدَّثَنَا يَوْسُفُ بْنُ عَيْسَى نَا وَكَيْعُ نَا شُعْبَةَ عَنْ

۷۵۰۔ مہاجر کی کہتے ہیں کہ جابر بن عبد اللہؓ سے بیت اللہ کو دیکھنے پر

ابی قرعۃ الباہلی عن المہاجر المکحی قال سئل جابر بن عبد اللہ ارفع الرجل یدیه اذا رأى البیت فقال ححجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افکننا نفعلہ

ہاتھ اٹھانے سے متعلق پوچھا گیا۔ تو فرمایا: ہم نے آنحضرت ﷺ کے ساتھ حج کیا۔ کیا ہم ہاتھ اٹھایا کرتے تھے؟

امام ترمذی کہتے ہیں: بیت اللہ کو دیکھنے پر رفع یدین کی کراہت کے متعلق ہم صرف شعبہ کی ابو قزحہ سے روایت سے ہی جانتے ہیں ان کا نام: سوید بن حجر ہے۔

باب ۵۷۸۔ مَا جَاءَ كَيْفَ الطَّوَّافِ

باب ۵۷۸۔ طواف کی کیفیت۔

۷۵۱۔ حدیثنا محمود بن غیلان نا یحیی بن آدم نا سفیان عن جعفر بن محمد عن ابیہ عن جابر قال لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکة دخل المسجد فاستلم الحجر ثم مضی علی یمینہ فرمل ثلثا و مشی اربعاً ثم اتی المقام فقال واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی فصلی رکعتین والمقام بینہ و بین البیت ثم اتی الحجر بعد الرکعتین فاستلمہ ثم خرج الی الصفا اظنہ قال ان الصفا والمروة من شعائر اللہ

۷۵۱۔ حضرت جابرؓ فرماتے ہیں: جب حضور اکرم ﷺ مکہ آئے تو مسجد حرام میں داخل ہوئے اور حجر اسود کو بوسہ دیا اور پھر دہنی طرف چل دیئے پھر تین چکروں میں رمل (۱) کیا اور چار چکروں میں (عادت کے مطابق) چلے۔ پھر مقام ابراہیمؑ کے پاس آئے اور فرمایا: مقام ابراہیمؑ پر نماز پڑھو پھر آپ ﷺ نے یہاں دو رکعت نماز پڑھی۔ اس وقت مقام ابراہیمؑ آپ ﷺ اور بیت اللہ کے درمیان تھا۔ پھر حجر اسود کی طرف آئے اور اسے بوسہ دیا۔ پھر صفا کی طرف چلے گئے۔ راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھی ”ان الصفا والمروة.....“ الآیۃ۔ یعنی صفا اور مردہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔

اس باب میں ابن عمرؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث جابرؓ حسن صحیح ہے اور علماء کا اسی پر عمل ہے۔

باب ۵۷۹۔ مَا جَاءَ فِي الرَّمْلِ مِنَ الْحَجْرِ إِلَى الْحَجَرِ

۷۵۲۔ حدیثنا علی بن خشرم نا عبد اللہ بن وہب عن مالک ابن انس عن جعفر بن محمد عن ابیہ عن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رمل من الحجر الی الحجر ثلثا و مشی اربعاً

باب ۵۷۹۔ حجر اسود سے رمل شروع کرنا اور اسی پر ختم کرنا۔

۷۵۲۔ حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے حجر اسود سے رمل شروع کیا اور تین چکروں کے بعد اسی پر ختم کیا پھر چار چکر اپنی عادت کے مطابق چل کر پورے کیے۔

باب ۵۸۰۔ مَا جَاءَ فِي اسْتِلامِ الْحَجَرِ وَالرُّكْنِ الیمانی دُونَ مَا سِوَاهُمَا

باب ۵۸۰۔ حجر اسود اور رکن یمانی کے علاوہ کسی چیز کو بوسہ نہ دے۔

۷۵۳۔ حضرت ابو طفیل فرماتے ہیں کہ ہم ابن عباسؓ اور معاویہؓ کے ساتھ طواف کر رہے تھے۔ معاویہؓ جب بھی کسی کونے سے گزرتے اسے بوسہ دیتے۔ اس پر ابن عباسؓ نے فرمایا: آنحضرت ﷺ حجر اسود اور رکن یمانی کے علاوہ کسی چیز کو بوسہ نہیں دیتے تھے۔ حضرت معاویہؓ

۷۵۳۔ حدیثنا محمود بن غیلان نا عبدالرزاق نا سفین ومعمر عن ابن خنیم عن ابی الطفیل قال کنا مع ابن عباس ومعاویة لا یمر برکن الا استلمہ فقال له ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم

(۱) رمل: اگر تیز تیز چلے، قدم زدو یک نزدیک رکھے اور جلدی جلدی اٹھانے کو کہتے ہیں۔ (مترجم)

يَكُنْ يَسْتَلِمُ إِلَّا الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ نَعَمْ فَمَا بَيْتَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ مِمَّنْ يَسْتَلِمُ مِنْ الْبَيْتِ مَهْجُورًا
نے فرمایا: بیت اللہ میں سے کوئی چیز بھی نہیں چھوڑنی چاہئے۔

اس باب میں عمرؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اکثر علماء اسی پر عمل کرتے ہیں۔ کہ حجر اسود اور رکن یمانی کے علاوہ کسی چیز کو بوسہ نہ دے۔

باب ۵۸۱۔ مَا جَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ مُضْطَبِعًا
باب ۵۸۱۔ آنحضرت ﷺ نے اضطباع کی حالت میں طواف کیا۔ (۱)

۷۵۴۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَاقِبِيصَةَ عَنْ سَفِيَانَ بْنِ جَرِيحٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ أَبِي يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ بِالْبَيْتِ مُضْطَبِعًا وَعَلَيْهِ بُرْدٌ
حضرت ابن ابی یعلیٰ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، کہ آنحضرت ﷺ نے حالت اضطباع میں طواف کیا اور آپ ﷺ کے بدن پر ایک چادر تھی۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث ثوری کی ابن جریج سے ہے، ہم اسے ان کی روایت کے علاوہ نہیں جانتے اور یہ حدیث حسن صحیح ہے۔
عبد الحمید: عبد الحمید بن جبیر بن شیبہ اور..... یعلیٰ: یعلیٰ بن امیہ ہیں۔

باب ۵۸۲۔ مَا جَاءَ فِي تَقْبِيلِ الْحَجَرِ
باب ۵۸۲۔ حجر اسود کو بوسہ دینا۔

۷۵۵۔ حَدَّثَنَا هِنْدَانُ أَبُو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عيسى بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويقول إني أقبلك وأعلم أنك حجر ولو لا إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم أقبلك
عالمس بن ربیعہ فرماتے ہیں میں نے عمر بن خطابؓ کو حجر اسود کو بوسہ دیتے اور یہ کہتے ہوئے سنا: میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے۔ اگر میں نے رسول اللہ ﷺ کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔

امام ترمذی کہتے ہیں: حضرت عمرؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر علماء کا عمل ہے کہ حجر اسود کا بوسہ لینا مستحب ہے اگر اس تک پہنچنا ممکن نہ ہو تو ہاتھ سے چھو کر ہاتھ کو چوم لے اور اگر ایسا بھی ممکن نہ ہو تو اس کے سامنے ہو کر تکبیر کہے یہ امام شافعی کا قول ہے۔

باب ۵۸۳۔ مَا جَاءَ أَنَّهُ يُبَدَأُ بِالصَّفَا قَبْلَ الْمَرْوَةِ
باب ۵۸۳۔ سعی صفا سے شروع کرنا۔

۷۵۶۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَمْرٍاءَ عَنْ سَفِيَانَ بْنِ عَيْنَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَآتَى الْمَقَامَ فَقَرَأَ وَاتَّخَذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ ثُمَّ آتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ قَالَ نَبْدًا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ فَبَدَأَ بِالصَّفَا وَقَرَأَ "إِنَّ الصَّفَا

۷۵۶۔ حضرت جابرؓ فرماتے ہیں: جب آنحضرت ﷺ مکہ تشریف لائے تو بیت اللہ کا طواف کیا۔ پھر مقام ابراہیمؑ پر آئے اور یہ آیت پڑھی "واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى" پھر مقام ابراہیمؑ کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد حجر اسود کی طرف آئے اور اسے بوسہ دیا۔ پھر فرمایا: ہم بھی اسی طرح شروع کرتے ہیں جس طرح اللہ نے شروع کیا اور صفا کی سعی شروع کرتے ہوئے یہ آیت پڑھی "ان الصفا والمروة....."

(۱) اضطباع سے مراد یہ ہے کہ چادر کو دائیں کندھے کے نیچے سے گزار کر دونوں کونے یا ایک کونہ بائیں کندھے پر ڈالا جائے۔ (مترجم)

وَالْمَرُوءَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ“
 الآیہ یعنی صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور اسی پر علماء کا عمل ہے کہ سعی میں صفا سے شروع کرے لہذا اگر مروہ سے شروع کرے گا تو سعی نہیں ہوگی علماء کا اس شخص کے متعلق اختلاف ہے جو طواف کعبہ کر کے بغیر سعی کیے واپس آجائے بعض علماء کہتے ہیں اگر طواف کعبہ کیا اور سعی صفا اور مروہ کیے بغیر مکہ سے نکل گیا تو اگر وہ قریب ہی ہو تو واپس جائے اور سعی کرے اگر اپنے وطن پہنچنے تک یاد نہ آئے تو دم کے طور پر قربانی کرے یہ سفیان ثوری کا قول ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اگر وہ سعی کیے بغیر اپنے وطن واپس پہنچ جائے تو اس کا حج نہیں ہوا۔ یہ امام شافعی کا قول ہے۔ ان کے نزدیک سعی صفا اور مروہ واجب ہے اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔

باب ۵۸۴۔ مَا جَاءَ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوءَةِ

باب ۵۸۴۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا۔

۷۵۷۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا ابْنِ عِيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِيْنَارٍ
 ۷۵۷۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں: آنحضرت ﷺ نے بیت اللہ کا
 عَنْ طَاءٍ وَ سِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّمَا سَعَى رَسُوْلُ
 طواف اور صفا اور مروہ کی سعی مشرکین پر اپنی قوت ظاہر کرنے کے لیے
 اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا
 کی۔ (۱)
 وَالْمَرُوءَةِ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِيْنَ قُوَّتَهُ

اس باب میں عائشہ، ابن عمر اور جابر سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے علماء صفا اور مروہ میں دوڑ کر چلنے کو مستحب کہتے ہیں۔ لیکن آہستہ چلنا بھی جائز ہے۔

۷۵۸۔ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسَى نَا ابْنِ فُضَيْلٍ عَنْ
 ۷۵۸۔ حضرت کثیر بن جہان فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر کو صفا
 عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ جُمُهَانَ قَالَ رَأَيْتُ
 مروہ کی سعی کے دوران آہستہ چلتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کیا آپ یہاں
 ابْنِ عُمَرَ يَمْشِيْ فِي الْمَسْعَى فَقُلْتُ لَهُ اَتَمْشِيْ فِي
 آہستہ چلتے ہیں؟ فرمایا اگر میں دوڑوں تو بے شک میں نے آنحضرت
 الْمَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوءَةِ فَقَالَ لَئِنْ سَعَيْتُ فَقَدْ
 ﷺ کو دوڑتے ہوئے دیکھا ہے اور اگر آہستہ چلوں تو میں نے
 رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْعَى وَ لَئِنْ
 آنحضرت ﷺ کو آہستہ چلتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ اور میں بہت بوڑھا
 مَشَيْتُ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 ہوں۔ (۲)
 يَمْشِيْ وَاَنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سعید بن جبیر بھی عبد اللہ بن عمر سے ایسے ہی روایت کرتے ہیں۔

باب ۵۸۵۔ مَا جَاءَ فِي الطَّوَافِ رَاكِبًا

باب ۵۸۵۔ سواری پر طواف کرنا۔

۷۵۹۔ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ هَلَالٍ الصَّوَّافِ نَا ابْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ
 ۷۵۹۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے اپنی اونٹنی
 وَعَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقْفِيُّ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّادِ عَنْ عِكْرِمَةَ
 پر سواری ہو کر طواف کیا۔ چنانچہ جب حجر اسود کے سامنے پہنچتے تو اس کی

(۱) صفا اور مروہ کے درمیان ایک ٹکڑے کو ”بطن مسیل“ کہتے ہیں۔ اس کے دونوں سروں پر نشان لگے ہوئے ہیں۔ سعی کے دوران ان

نشانیوں کے درمیان تیز چلنا تمام علماء کے نزدیک مستحب ہے۔ (مترجم)

(۲) اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ ”بطن مسیل“ میں آہستہ بھی چلے۔ تاکہ لوگ عذر کے وقت اس کے جواز سے واقف ہو

جائیں۔ لہذا ابن عمر نے اپنے متعلق یہ کہہ کر کہ میں بوڑھا ہوں یہی ظاہر کیا ہے کہ میں اب دوڑ نہیں سکتا اور چلنا بھی جائز ہے۔ (مترجم)

عن ابن عباس قال طاف النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طرف اشاره کر دیتے تھے۔
عَلَى رَأْسِهِ فَإِذَا نْتَهَى إِلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ

اس باب میں جابر، ابو طفیل اور ام سلمہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ابن عباس کی حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض علماء صفا و مروہ کی سعی اور بیت اللہ کا طواف بغیر عذر کے سواری پر کرنے کو مکروہ سمجھتے ہیں۔ شافعی بھی اسی کے قائل ہیں۔

باب ۵۸۶۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الطَّوَافِ طواف کی فضیلت

۷۶۰۔ حَدَّثَنَا سَفِيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ نَاحِيَةَ بَنِي يَمَانَ
عَنْ شَرِيكَ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ
جَبْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ حَمْسِينَ
مَرَّةً خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ كَيْبُومٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

۶۰۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا جس شخص نے بیت اللہ کا پچاس مرتبہ طواف کیا وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو گیا جیسے کہ اس کی ماں نے ابھی جنا۔

اس باب میں حضرت انس اور ابن عمر سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے۔ میں نے اس کے متعلق امام بخاری سے پوچھا تو فرمایا: اس طرح کا قول ابن عباس ہی سے مروی ہے یعنی ان کا اپنا قول ہے۔ ابن ابی عمر، سفیان بن عیینہ سے اور وہ ایوب سے روایت کرتے ہیں کہ محدثین عبد اللہ بن سعید بن جبیر کو ان کے والد سے افضل سمجھتے تھے۔ ان کا ایک بھائی عبد الملک بن سعید بن جبیر بھی ہے ان سے بھی روایت کرتے ہیں۔

باب ۵۸۷۔ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ فِي الطَّوَافِ لِمَنْ يَطُوفُ

۷۶۱۔ حَدَّثَنَا أَبُو عَمَارٍ وَعَلِيُّ بْنُ حِشْرَمٍ قَالَا نَا
سَفِيَانَ ابْنَ عَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزَّبِيرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهُ
عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا
الْبَيْتِ وَصَلَّى آيَةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ

۶۱۔ حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اے بنو عبد مناف جو شخص اس گھر کا طواف کرے اور دن یا رات کے کسی حصے میں بھی نماز پڑھے اسے منع نہ کرو۔

اس باب میں ابن عباس اور ابو ذر سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: جبیر بن مطعم کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اے عبد اللہ بن ابی نجیح بھی عبد اللہ بن باباہ سے روایت کرتے ہیں۔ علماء کا عصر اور فجر کے بعد مکہ میں نماز پڑھنے میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک عصر اور فجر کے بعد طواف کرنے اور نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ شافعی، احمد اور اسحاق اسی کے قائل ہیں۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اگر عصر کے بعد طواف کرے تو غروب آفتاب تک نماز نہ پڑھے۔ ان کی دلیل حضرت عمر کی حدیث ہے کہ انہوں نے فجر کے بعد طواف کیا اور نماز پڑھے بغیر مکہ سے نکل آئے یہاں تک کہ ذی طوی کے مقام پر پہنچے اور طلوع آفتاب کے بعد طواف کے نوافل ادا کیے۔ یہ سفیان ثوری اور مالک بن انس کا قول ہے۔

باب ۵۸۸۔ مَا جَاءَ مَا يَفْرَأُ فِي رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ

۷۶۲۔ حَدَّثَنَا أَبُو مَصْعَبٍ قَرَأَهُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ
عِمْرَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي
رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ بِسُورَتِي الْإِحْلَاصِ قُلْ يَا أَيُّهَا
الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

باب ۵۸۸۔ طواف کے دو نفلوں میں کیا پڑھا جائے۔

۷۶۲۔ حضرت جابر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے
طواف کی نماز کی ایک رکعت میں ”قل یا ایہا الکافرون“ اور دوسری
میں ”قل هو اللہ احد پڑھی۔“

ہناؤ، کعبہ سے وہ سفیان سے وہ جعفر بن محمد سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ”ان کے نزدیک طواف کے نوافل میں ”قل
یا ایہا الکافرون“ اور ”قل هو اللہ احد“ پڑھنا مستحب ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث عبد العزیز بن عمران کی حدیث سے اسح ہے۔
اور جعفر بن محمد کی اپنے والد سے مروی حدیث حضرت جابرؓ سے مروی حدیث سے اور عبد العزیز بن عمران محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں۔

باب ۵۸۹۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الطَّوَافِ عُرْيَانًا

۷۶۳۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَشْرَمٍ نَا سَفِيَانَ بْنَ عَيْنَةَ
عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ عَلِيًّا بَابِي
شَيْءٌ يُعْنَتُ قَالَ بِأَرْبَعٍ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ
مُسْلِمَةٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَلَا يَجْتَمِعُ
الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَمَنْ كَانَ
بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ فَعَهْدُهُ
إِلَى مُدَّتِهِ وَمَنْ لَا مُدَّةَ لَهُ فَارْبَعَةٌ أَشْهُرٌ

باب ۵۸۹۔ ننگے طواف کرنا حرام ہے۔

۷۶۳۔ زید بن اشج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علیؓ سے پوچھا آپ
آنحضرت ﷺ کی طرف سے کن چیزوں کا حکم دے کر بھیجے گئے تھے فرمایا: چار
چیزوں کا۔ ایک یہ کہ جنت میں صرف مسلمان ہی داخل ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ
بیت اللہ کا طواف عریانی کی حالت میں نہ کیا جائے۔ تیسرا یہ کہ اس سال کے
بعد مسلمان اور مشرک حج میں اکٹھے نہیں ہوں گے اور چوتھے یہ کہ آنحضرت
ﷺ اور جس کسی کے درمیان بھی کوئی عہد و پیمانہ ہے وہ اپنی مقررہ مدت تک رہے
گا۔ اور اگر کوئی مدت مقرر نہ ہو تو اس کے لیے چار ماہ تک کی مہلت ہے۔

اس باب میں ابو ہریرہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: حضرت علیؓ کی حدیث حسن ہے۔ ابن ابی عمر، اور نصر بن علی،
سفیان سے اور وہ ابواسحاق سے اسی کے مثل روایت کرتے ہوئے زید بن اشج کہتے ہیں اور یہ اسح ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: شعبہ کو اس
میں وہم ہو گیا ہے چنانچہ وہ زید بن اشج کہتے ہیں۔

باب ۵۹۰۔ مَا جَاءَ فِي دُخُولِ الْكَعْبَةِ

۷۶۴۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَمْرٍو نَا وَكَيْعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ
عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ ابْنِ أَبِي مَلِيكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِي وَهُوَ قَرِيرٌ الْعَيْنِ
طَيْبُ النَّفْسِ فَرَجَعَ إِلَيَّ وَهُوَ حَزِينٌ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ
إِنِّي دَخَلْتُ الْكَعْبَةَ وَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ فَعَلْتُ إِنِّي
أَخَافُ أَنْ أَكُونَ أَتَعِبْتُ أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي
باب ۵۹۱۔ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْكَعْبَةِ

باب ۵۹۰۔ کعبہ کے اندر جانے کے متعلق

۷۶۴۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں: ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ میرے
پاس سے نکلے تو آنکھیں ٹھنڈی اور مزاج خوش تھا۔ لیکن جب واپس
آئے تو غمگین تھے۔ میں نے پوچھا تو فرمایا: میں کعبہ میں داخل ہوا۔
کاش کہ میں داخل نہ ہوا ہوتا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ میں نے اپنے بعد اپنی
امت کو تکلیف میں ڈال دیا۔

باب ۵۹۱۔ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا۔

۷۶۵۔ حدثنا قتيبة نا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن بلال ان النبي صلى الله عليه وسلم في حوف الكعبة قال ابن عباس لم يصل ولكنه كبر

۷۶۵۔ حضرت بلالؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے کعبہ میں نماز پڑھی جب کہ ابن عباسؓ کا کہنا ہے کہ نماز نہیں پڑھی بلکہ تکبیر کی۔

اس باب میں اسامہ بن زید، فضل بن عباس، عثمان بن طلحہ اور شیبہ بن عثمان سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں حضرت بلالؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ امام مالک کے نزدیک نوافل کا یہی حکم ہے جب کہ فرض نماز خانہ کعبہ میں پڑھنا ان کے نزدیک مکروہ ہے۔ لیکن امام شافعی کہتے ہیں: خواہ فرض ہو یا نفل۔ کسی میں بھی کوئی مضائقہ نہیں۔ اس لیے کہ طہارت اور قبلے کا حکم دونوں کے لیے برابر ہے۔

باب ۵۹۲۔ ماجاء في كسبر الكعبة

باب ۵۹۲۔ خانہ کعبہ کو توڑنا

۷۶۶۔ حدثنا محمود بن غيلان نا ابو داود عن شعبة عن ابي اسحق عن الاسود بن يزيد ان ابن الزبير قال له حدثني بما كانت تفضي اليك ام المؤمنين يعني عائشة فقال حدثني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها لولا ان قومك حديث عهد بالجاهلية لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين فلما ملك ابن الزبير هدمها وجعل لها بابين

۷۶۶۔ حضرت اسود بن یزید فرماتے ہیں کہ ابن زبیر نے ان سے کہا کہ مجھے وہ باتیں بتاؤ جو حضرت عائشہؓ تمہیں بتایا کرتی تھیں۔ اسود نے فرمایا: حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ان سے فرمایا: اگر تمہاری قوم کے لوگ ابھی نئے نئے جاہلیت چھوڑ کر مسلمان نہ ہوئے ہوتے، تو میں کعبہ کو توڑ کر بناتا اور اس کے دو دروازے رکھتا۔ پھر جب ابن زبیر مکہ کے حاکم مقرر ہوئے تو انہوں نے اسے توڑ کر دوبارہ بنایا اور اس کے دو دروازے کر دیئے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۵۹۳۔ ماجاء في الصلوة في الحجر

باب ۵۹۳۔ حطیم میں نماز پڑھنا۔

۷۶۷۔ حدثنا قتيبة نا عبدالعزيز بن محمد عن علقمة بن ابي علقمة عن ابيه عن عائشة قالت كنت اُجب ان ادخل البيت فاصلي فيه فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فاذا خلني الحجر وقال صلى في الحجر ان اردت دخول البيت فانما هو قطعة من البيت ولكن قومك استقصروا حين بنوا الكعبة فاخرجوه من البيت

۷۶۷۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں چاہتی تھی کہ کعبہ میں داخل ہوؤں اور نماز پڑھوں۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے میرا ہاتھ پکڑا اور حجر (حطیم) میں لے گئے پھر فرمایا: اگر تم بیت اللہ میں نماز پڑھنا چاہو تو حطیم میں پڑھ لیا کرو۔ یہ بھی بیت اللہ کا ہی ٹکڑا ہے۔ لیکن تمہاری قوم نے کعبہ کی تعمیر کے وقت اسے چھوٹا کر دیا اور کعبہ سے نکال دیا۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور علقمہ بن ابی علقمہ: بلال کے بیٹے ہیں۔

باب ۵۹۴۔ ماجاء في فضل الحجر الأسود و

باب ۵۹۴۔ مقام ابراہیم، حجر اسود اور رکن یرمائی کی فضیلت۔

الرُكن والمقام

۷۶۸۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: حجر اسود جب جنت سے اتارا گیا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا۔ لیکن بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔

۷۶۸۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا جَرِيْرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ الْحَجْرُ الْاَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهُوَ اَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي اٰدَمَ

اس باب میں عبد اللہ بن عمرؓ اور ابو ہریرہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۷۶۹۔ قتیبہ، یزید بن زریع سے اور وہ رجا بن یحییٰ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے مسافع حاجب کو عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت کرتے ہوئے سنا کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: رکن اور مقام دونوں جنت کے یا قوت ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا نور زائل کر دیا ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہ کرتے تو ان کی روشنی سے مشرق سے مغرب تک منور ہو جاتے۔

۷۶۹۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا يَزِيْدُ ابْنُ زُرَيْعٍ عَنْ رَجَاءِ ابِي يَحْيٰى قَالَ سَمِعْتُ مَسْفَعًا الْحَا جِبَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ الرُّكْنَ وَالْمَقَامَ يَأْفُوْتَانِ مِنْ يَأْفُوْتِ الْجَنَّةِ طَمَسَ اللّٰهُ نُورَهُمَا وَلَوْ لَمْ يَطْمَسْ نُورُهُمَا لَا ضَاءَ تَامًا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث عبد اللہ بن عمرؓ سے موقوفاً انہی کا قول مروی ہے۔ اس باب میں انسؓ سے بھی روایت ہے اور یہ روایت غریب ہے۔

باب ۵۹۵۔ منیٰ کی طرف جانا اور قیام کرنا۔

۷۷۰۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے منیٰ میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز پڑھائی۔ پھر صبح سویرے عرفات کی طرف چل دیئے۔

باب ۵۹۵۔ مَا جَاءَ فِي الْخُرُوْجِ اِلَىٰ مَنٰى وَالْمَقَامِ بِهَا ۷۷۰۔ حَدَّثَنَا ابُو سَعِيْدِ الْاَشْجِ نَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ الْاِجْلِحِ عَنْ اِسْمَعِيْلِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنٰى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ غَدٰى اِلَىٰ عَرَفَاتِ ۱ امام ترمذی کہتے ہیں: اسمعیل بن مسلم میں کلام ہے۔

۷۷۱۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے منیٰ میں ظہر اور فجر کی نماز پڑھی اور پھر عرفات گئے۔

۷۷۱۔ حَدَّثَنَا ابُو سَعِيْدِ الْاَشْجِ نَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ الْاِجْلِحِ الْاِعْمَشُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنٰى الظُّهْرَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ غَدَا اِلَىٰ عَرَفَاتِ

اس باب میں عبد اللہ بن زبیرؓ اور انسؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ علی بن مدینی، یحییٰ کے حوالے سے اور وہ شعبہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ حکم نے مقسم سے صرف پانچ حدیثیں سنی ہیں جن میں یہ حدیث شامل نہیں۔

باب ۵۹۶۔ منیٰ میں پہلے پہنچنے والا قیام کا زیادہ حق دار ہے۔

باب ۵۹۶۔ مَا جَاءَ اَنَّ مَنٰى مَنَاخٌ مِنْ سَبَقَ

۷۷۲۔ حدثنا يوسف بن عيسى و محمد بن ابان فالانا و كيع عن اسرائيل عن ابراهيم بن مهاجر عن يوسف بن مالك عن أمه، مَسِيكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْآ تَنبِي لَكَ بِنَاءُ يُظَلِّكَ بِمَنِي قَالَ لَا مَنِي مَنَّاخُ مِنْ سَبَقِ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔

باب ۵۹۷۔ مَا جَاءَ فِي تَقْصِيرِ الصَّلَاةِ

۷۷۳۔ حدثنا قتيبة نا ابو الاحوس عن ابى إسحق عن حارثة بن وهب قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمني آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين

اس باب کی حدیث میں ابن مسعود، ابن عمر اور انس سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حارث بن وہب کی حدیث حسن صحیح ہے۔ ابن مسعود سے مروی ہے کہ فرمایا: میں نے حضور اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ابوبکر، عمر اور عثمان کی خلافت کے ابتدائی دور میں ان حضرات کے ساتھ منی میں دو رکعتیں پڑھیں۔ اہل مکہ کے منی میں قصر کرنے کے متعلق علماء کا اختلاف ہے بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ منی میں صرف مسافر ہی قصر نماز پڑھ سکتا ہے اہل مکہ نہیں۔ یہ قول ابن جریج، سفیان ثوری، یحییٰ بن سعید قطان، شافعی، احمد اور اسحاق کا ہے۔ جب کہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اہل مکہ کے بھی منی میں قصر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ اوزاعی، مالک، سفیان بن عیینہ اور عبد الرحمن بن مہدی کا قول ہے۔

باب ۵۹۸۔ عرفات میں کھڑے ہونا اور دعا کرنا۔

۷۷۴۔ حدثنا قتيبة نا سفیان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شيبان قال آتانا ابن مريع الأنصاري ونحن وقوف بالموقف مكانا يباعدن عمرو فقال إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم

اس باب میں علی، عائشہ، جبیر بن مطعم اور شریک بن سوید ثقفی سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن مریع کی حدیث حسن صحیح ہے ہم اسے صرف ابن عیینہ کی روایت سے جانتے ہیں وہ عمرو بن دینار سے روایت کرتے ہیں۔ ابن مریع کا نام یزید بن مریع انصاری ہے ان سے بھی ایک حدیث مروی ہے۔

۷۷۵۔ حدثنا محمد بن عبد الاعلى الصنعاني البصري

۷۷۵۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ قریش اور ان کے قبعیں جنہیں ”حمس“ (۲)

(۱) موقف: یعنی کھڑے ہونے کے جگہ۔ (مترجم)

(۲) حمس: اہل حرم کے معنی میں آتا ہے۔ (مترجم)

نا محمد بن عبدالرحمن الطفاوی نا هشام بن عروہ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ قُرَيْشٌ وَ مَنْ كَانَ عَلَى
دِينِهَا وَهُمْ الْحُمُسُ يَقْفُونَ بِالْمَزْدَلِفَةِ يَقُولُونَ نَحْنُ
قَطِيبُ اللَّهِ وَكَانَ مَنْ سِوَاهُمْ يَقْفُونَ بِعَرَفَةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ
عَزَّ وَجَلَّ "ثُمَّ أَيْضُوا مِنْ حَيْثُ أَقَاضَ النَّاسُ"

کہا جاتا ہے۔ مزدلفہ میں رہتے اور کہتے ہم بیت اللہ کے خادم اور اہل مکہ
ہیں چنانچہ عرفات نہ جاتے جب کہ دوسرے تمام لوگ عرفات میں جا کر
ٹھہرتے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی "ثم
ایضوا من....." الآیۃ۔ (ترجمہ: پھر جہاں سے دوسرے لوگ واپس
ہوتے ہیں تم بھی وہیں سے واپس ہو۔)

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اہل مکہ حرم سے باہر نہیں جاتے تھے جب کہ عرفات حرم
سے باہر ہے۔ وہ لوگ مزدلفہ میں ہی ٹھہر جاتے اور کہتے کہ ہم تو اللہ کے گھر والے ہیں۔ لیکن دوسرے لوگ عرفات میں جا کر ٹھہرتے اس پر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذکورہ بالا آیت نازل فرمائی۔

باب ۵۹۹۔ عرفات پورا ٹھہرنے کی جگہ ہے۔

باب ۵۹۹۔ مَا جَاءَ أَنْ عَرَفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ

۷۷۶۔ حدثنا محمد بن بشار نا ابو احمد الزبیری

نا سفیان عن عبدالرحمن بن الحارث بن عیاش بن

۷۷۶۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ عرفات میں کھڑے

ابی ربیعہ عن زید بن علی عن ابیہ عن عبید اللہ بن

ہوئے اور فرمایا: یہ عرفات ہے اور یہی موقف ہے۔ (۱) عرفات پورے

ابی ربیعہ عن زید بن علی عن ابیہ عن عبید اللہ بن

کا پورا موقف ہے۔ پھر سورج غروب ہونے پر وہاں سے واپس ہوئے

أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ وَقَفَ رَسُولُ

اور اسامہ بن زید کو ساتھ بٹھالیا اور اپنی عادت کے مطابق سکون

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ فَقَالَ هَذِهِ عَرَفَةُ

واطمینان کے ساتھ اشارے کرنے لگے۔ لوگ دائیں بائیں اپنے

هَذَا هُوَ الْمَوْقِفُ وَعَرَفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ ثُمَّ أَقَاضَ حِينَ

اونٹوں وغیرہ کو مار رہے تھے۔ آنحضرت ﷺ ان کی طرف متوجہ ہوتے

غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَ أَرْدَفَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَ جَعَلَ يُشِيرُ

اور فرماتے: اے لوگو! اطمینان اور سکون کے ساتھ چلو۔ پھر آنحضرت

بِيَدِهِ عَلَى هَيْئَتِهِ وَالنَّاسُ يَضْرِبُونَ يَمِينًا وَ شِمَالًا

ﷺ مزدلفہ پہنچے اور مغرب و عشاء دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھیں۔ صبح

يَلْتَفِتُ إِلَيْهِمْ وَيَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ ثُمَّ

کے وقت قزح (۲) کے مقام پر آئے اور کھڑے ہو کر فرمایا: یہ قزح ہے

أَتَى جَمْعًا فَصَلَّى بِهِمُ الصَّلَوَتَيْنِ جَمِيعًا فَلَمَّا أَصْبَحَ

اور یہی موقف ہے بلکہ مزدلفہ پورے کا پورا موقف ہے پھر وہاں سے

أَتَى قَزْحًا وَ وَقَفَ عَلَيْهِ وَقَالَ هَذَا قَزْحٌ وَ هُوَ الْمَوْقِفُ

چلے اور وادی محسر (۳) پہنچے اور اپنی اونٹنی کو ایک کوڑا مارا جس پر وہ

وَ جَمَعَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ ثُمَّ أَقَاضَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى

دوڑنے لگی یہاں تک کہ اس وادی سے نکل گئے پھر زکے اور فضل بن

وَادِي مُحَسِّرٍ فَقَرَعَ نَاقَتَهُ فَخَبَّتْ حَتَّى جَاوَزَ الْوَادِي

عباس کو اپنے ساتھ بٹھا کر جمرے کے پاس آئے۔ ری سے فارغ ہو کر

فَوَقَفَ وَ أَرْدَفَ الْفَضْلُ ثُمَّ أَتَى الْحِمْرَةَ فَرَمَاَهَا ثُمَّ

مذبح خانے کی طرف تشریف لے گئے اور فرمایا: یہ قربانی کی جگہ ہے اور

أَتَى الْمُنْحَرَّ فَقَالَ هَذَا الْمُنْحَرُّ وَمِنْهُ كُلُّهَا مَنْحَرٌّ

منی پورے کا پورا قربان گاہ ہے۔ یہاں قبیلہ حنعم کی ایک لڑکی نے

وَ اسْتَفْتَتْهُ جَارِيَةٌ شَابَةٌ مِنْ حَنَعَمٍ فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ

آنحضرت ﷺ سے پوچھا: کہنے لگی میرے والد بہت بوڑھے ہیں اور

(۱) موقف: یعنی ٹھہرنے کی جگہ۔ (مترجم)

(۲) قزح: مزدلفہ میں امام کے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ یہ ایک پہاڑ کا نام ہے۔ (مترجم)

(۳) یہ مزدلفہ اور منی کے درمیان ایک وادی ہے۔ اس میں سے تیزی سے گزرناسمب ہے۔ (مترجم)

ان پر حج فرض ہے کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں فرمایا: ہاں اپنے والد کی طرف سے حج کر لو۔ پھر فضل کی گردن اس لڑکی کی طرف سے پھیر دی۔ حضرت عباس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اپنے چچا زاد بھائی کی گردن کیوں موڑ دی؟ فرمایا: میں نے جو ان لڑکی اور جو ان لڑکے کو دیکھا تو شیطان کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ پھر ایک شخص حاضر ہوا۔ اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے حلق (۱) سے پہلے طواف افاضہ کر لیا ہے آپ ﷺ نے فرمایا: کوئی بات نہیں حلق کرو۔ یا فرمایا: کوئی حرج نہیں بال کواؤ۔ راوی کہتے ہیں: پھر ایک اور شخص آیا اور عرض کیا: میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر لی آپ ﷺ نے فرمایا: کوئی بات نہیں اب کنکریاں مار لو۔ پھر آنحضرت ﷺ بیت اللہ تشریف لے گئے اور طواف کرنے کے بعد زمزم پر تشریف لائے اور فرمایا: اسے بنو عبدالمطلب اگر مجھے خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ تمہیں بعد میں پانی نہیں نکالنے دیں گے تو میں خود پانی نکالتا۔ یعنی میرے اس طرح نکالنے پر لوگ میری سنت کی اتباع میں تمہیں پانی نکالنے کی مہلت نہ دیں گے۔

كَبِيرٌ قَدْ اَدْرَكْتُهُ فَرِيضَةُ اللّٰهِ فِي الْحَجِّ اَفِيحِزِيْ اَنْ اَحْجَّ عَنْهُ قَالَ حُجِّي عَنْ اَبِيكَ قَالَ وَلَوْى عَنْقُ الْفَضْلِ فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ لِمَ لَوَيْتَ عَنْقَ ابْنِ عَمِّكَ قَالَ رَاَيْتَ شَابًا وَّشَابَةً فَلَمْ اَمِنْ الشَّيْطَانَ عَلَيْهِمَا فَاتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اِنِّيْ اَفَضْتُ قَبْلَ اَنْ اَحْلِقَ قَالَ اَحْلِقْ وَلَا حَرَجَ اَوْ قَصِّرْ وَلَا حَرَجَ قَالَ وَجَاءَ اٰخَرَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اِنِّيْ ذَبَحْتُ قَبْلَ اَنْ اَرْمِيْ قَالَ اَرْمِ وَلَا حَرَجَ قَالَ ثُمَّ اَتَى الْبَيْتَ فَطَافَ بِهِ ثُمَّ اَتَى زَمْرَمَ فَقَالَ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَوْ لَا اَنْ يُغَلِّبَكُمْ عَلَيْهِ النَّاسُ لَنَزَعْتُ

اس باب میں جابر سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے ہم اسے حضرت علیؑ کی حدیث سے صرف عبدالرحمن بن حارث بن عیاش کی روایت سے جانتے ہیں۔ کئی راوی ثوری سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ اسی پر علماء کا عمل ہے۔ چنانچہ علماء کا کہنا ہے کہ: عرفات میں ظہر اور عصر، ظہر کے وقت اکٹھی پڑھی جائیں۔ جب کہ بعض علماء کہتے ہیں اگر کسی شخص نے اپنے خیمے میں اکیلے نماز پڑھ لی ہو اور امام کے ساتھ نماز میں شریک نہ ہو تو اگر چاہے تو دونوں نمازیں امام ہی کی طرح ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ زید بن علی: زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہیں۔

مسئلہ: دس ذوالحجہ کے چار افعال جمرہ (۲) عقبہ پر کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، حلق یا قصر (۳) کرنا اور طواف افاضہ کرنا ہیں۔ ان افعال میں ترتیب حنفیہ کے نزدیک واجب ہے۔ حنفیہ اس باب کی حدیث کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ رفع حرج اس لیے تھا کہ صحابہ کرامؓ مناسک حج سے جاہل تھے۔ چنانچہ ان میں تقدیم و تاخیر کرنے والے پر دم واجب ہوگا۔ پھر حرج کے معنی اٹم یعنی گناہ کے ہیں۔ اس طرح معنی یہ ہوا کہ کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ تم احکام سے واقفیت نہیں رکھتے لہذا جہالت بھی ایک عذر ہے مزید یہ کہ حدیث میں صدقہ یا دم واجب ہونے کا ذکر نہیں جب کہ ابن عباسؓ اسی طرح کی ایک حدیث کے راوی بھی ہیں لیکن ان کا فتویٰ اس کے خلاف ہی ہے اور حنفیہ کے مسلک کی تائید کرتا ہے۔ حاصل یہ کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ اس حدیث سے یہ معنی مراد لیے جاسکتے ہیں۔ اس دن کے افعال میں تقدیم و تاخیر پر کوئی صدقہ یا دم وغیرہ واجب نہیں تو وہ بھی آنحضرت ﷺ ہی کے زمانے میں تھا اب نہیں کیونکہ آپ ﷺ کا زمانہ اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا لہذا اس میں جہالت معتبر تھی۔ جب کہ اس وقت جب کہ تمام احکام مکمل ہو چکے ہیں اس کی حاجت باقی نہیں رہتی۔ واللہ اعلم (مترجم)

(۱) حلق کے معنی سرمندانے کے ہیں۔ (مترجم)۔ (۲) جمرہ عقبہ: بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کی جگہ کہتے ہیں۔ (مترجم)

(۳) قصر: اس کے معنی بال چھوٹے کرانے کے ہیں۔ (مترجم)

باب ۶۰۰۔ مَا جَاءَ فِي الْإِقَاضَةِ مِنْ عَرَاقَاتٍ

باب ۶۰۰۔ عرفات سے واپسی سے متعلق۔

۷۷۷۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَا وَكَيْعٌ وَبِشْرِ بْنِ السَّرِيِّ وَابُو نَعِيمٍ قَالُوا نَا سَفِينُ بْنُ عَمِينَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْرَعَ فِي وَادِي مُحَسِّبٍ وَزَادَ فِيهِ بِشْرٌ وَأَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَأَمَرَهُمْ بِالسَّكِينَةِ وَزَادَ فِيهِ أَبُو نَعِيمٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا بِمِثْلِ حَصَا الْخَذْفِ وَقَالَ لَعَلِّي لَا أَرَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا

۷۷۷۔ حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ محسر سے تیزی سے گزرے۔ اور بشر اس میں یہ زیادتی کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ جب مزدلفہ سے لوٹے تو اطمینان کے ساتھ اور صحابہؓ کو بھی اسی کا حکم دیا۔ ابو نعیم اس میں یہ زیادتی کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے صحابہؓ کو حکم دیا کہ حمرات پر ایسی کنکریاں ماریں جو انگلیوں میں پکڑی جاسکیں۔ یعنی چھوٹی ہوں پھر آپ ﷺ نے فرمایا: شاید میں اس سال کے بعد تم لوگوں کو نہ دیکھ سکوں۔

اس باب میں اسامہ بن زید سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۶۰۱۔ مَا جَاءَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَزْدَلِفَةِ

باب ۶۰۱۔ مغرب اور عشاء مزدلفہ میں ایک ساتھ پڑھنا۔

۷۷۸۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ نَا سَفِيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى بِجَمْعٍ فَجَمَعَ بَيْنَ الصَّلَوَتَيْنِ بِإِقَامَةٍ وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ مِثْلَ هَذَا فِي هَذَا الْمَكَانِ

۷۷۸۔ حضرت عبداللہ بن مالک فرماتے ہیں کہ ابن عمرؓ نے مزدلفہ میں نماز پڑھائی اور دو نمازیں ایک ہی تکبیر سے ایک ساتھ پڑھیں۔ اور فرمایا: میں نے آنحضرت ﷺ کو اس جگہ اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا۔

محمد بن بشار، یحییٰ بن سعید سے وہ اسماعیل بن ابی خالد سے وہ ابواسحاق سے وہ سعید بن جبیر سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے مروی اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ محمد بن بشار، یحییٰ بن سعید کے حوالے سے کہتے ہیں کہ سفیان کی حدیث صحیح ہے۔ اس باب میں علیؓ، عبداللہ بن مسعودؓ، ابویوبؓ، جابرؓ اور اسامہ بن زیدؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ابن عمرؓ کی حدیث سفیان کی روایت سے اسماعیل بن ابی خالد کی روایت سے اصح ہے اور سفیان کی حدیث صحیح ہے اسراہیل بھی یہ حدیث ابواسحاق سے وہ عبداللہ اور خالد (یہ دونوں مالک کے بیٹے ہیں) سے اور وہ ابن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں۔ سعید بن جبیر کی ابن عمرؓ سے مروی حدیث بھی حسن صحیح ہے۔ اسے سلمہ بن کہیل، سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں جب کہ اسحاق، عبداللہ اور خالد سے اور وہ دونوں ابن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں۔ علماء کا اسی پر عمل ہے کہ مغرب کی نماز، مزدلفہ سے پہلے نہ پڑھی جائے۔ چنانچہ حاجی جب مزدلفہ پہنچیں تو مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ایک ہی وقت میں ایک ہی تکبیر کے ساتھ پڑھیں اور ان کے درمیان کوئی نفل نماز نہ پڑھیں۔ بعض علماء نے یہی مسلک اختیار کیا ہے۔ جن میں سفیان ثوری بھی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر چاہے تو مغرب پڑھ کر کھانا وغیرہ کھالے اور پھر تکبیر کہہ کر عشاء کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن بعض علماء کا کہنا ہے کہ مغرب اور عشاء کی نمازیں مزدلفہ میں ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ پڑھی جائیں یعنی مغرب کے لیے اذان دی جائے پھر تکبیر کہہ کر مغرب اور اس کے بعد تکبیر کہہ کر عشاء کی نماز پڑھی جائے یہ امام شافعی کا قول ہے۔

باب ۶۰۲۔ مَا جَاءَ فِي مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ بِجَمْعٍ فَقَدْ

باب ۶۰۲۔ جو شخص (وقوف عرفہ کے بعد) مزدلفہ میں امام کے ساتھ

أَدْرَكَ الْحَجَّ

۷۷۹- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا نَا سَفِينُ بْنُ بَكِيرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ اتَّوَأَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِعَرَفَةَ فَسَأَلُوهُ فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى الْحَجَّ عَرَفَةَ مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ أَيَّامَ مِنَى ثَلَاثَةً فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِيَّامَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِيَّامَ عَلَيْهِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَزَادَ يَحْيَى وَارْتَدَفَ رَجُلًا فَنَادَى بِهِ

وقوف میں شریک ہو جائے اس کا حج ہو گیا۔
۷۷۹- حضرت عبدالرحمن بن یحییٰ فرماتے ہیں کہ اہل نجد کے کچھ لوگ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں عرفات میں حاضر ہوئے اور حج کے متعلق دریافت کیا۔ آپ ﷺ نے منادی کو حکم دیا۔ کہ لوگوں میں یہ اعلان کرے: حج عرفات میں ووقوف کا نام ہے اور جو شخص مزدلفہ کی رات طلوع فجر سے پہلے عرفات پہنچ جائے اس کا حج ہو گیا۔ منیٰ کا قیام تین دن ہے لیکن اگر کوئی دو دن بعد چلا جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں اور اس طرح جو تیسرا دن بھی پورا کرے اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں۔ محمد کہتے ہیں کہ یہی اس حدیث کی روایت میں کہتے ہیں: آنحضرت ﷺ نے کسی شخص کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھا کر یہ اعلان کرایا تھا۔

ابن ابی عمر، سفیان بن عیینہ سے وہ سفیان ثوری سے وہ بکیر بن عطاء سے وہ عبدالرحمن بن یحییٰ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے ہم معنی روایت کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ابن ابی عمر، سفیان بن عیینہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ: سفیان ثوری کی روایات میں سے یہ روایت سب سے بہتر ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: علماء صحابہ اور دیگر علماء کرام عبدالرحمن بن یحییٰ کی حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ کہ جو شخص طلوع فجر سے پہلے عرفات نہ پہنچا اس کا حج نہیں ہوا۔ لہذا طلوع فجر کے بعد پہنچنے والے شخص کا حج فوت ہو گیا۔ وہ اس مرتبہ عمرہ کر لے اور آئندہ سال کا حج اس پر واجب ہے۔ یہ سفیان ثوری، شافعی، احمد اور اسحاق کا قول ہے۔ شعبہ نے بھی بکیر بن عطاء سے ثوری کی حدیث کی مانند روایت کی ہے۔ جارود کو حج کے حوالے سے یہ حدیث روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ حدیث ام المناسک ہے۔ یعنی حج کے احکام کی اصل بنیاد ہے۔

۷۸۰- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ نَا سَفِينُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ وَاسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ وَزَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مَضَرٍّ بْنِ أَوْسِ بْنِ حَارِثَةَ ابْنِ لَامِ الطَّائِبِيِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُزْدَلِفَةِ حِينَ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
أَتَيْتُ مِنْ جَبَلِي طَيِّبًا أَكَلْتُ رَاحِلَتِي وَأَتَعَبْتُ نَفْسِي وَاللَّهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ جَبَلٍ إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَهِدَ صَلَاتِنَا هَذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى يَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَتُّهُ

۷۸۰- حضرت عروہ بن مضر بن اوس بن حارثہ بن ام طائی فرماتے ہیں کہ میں مزدلفہ میں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ ﷺ نماز کے لیے نکل رہے تھے میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں طئی کے پہاڑ سے آیا ہوں میں نے اپنی اونٹنی کو بھی خوب تھکایا اور خود بھی بے انتہا تھک گیا ہوں۔ قسم ہے پروردگار کی میں نے کوئی پہاڑ ووقوف کے بغیر نہیں چھوڑا۔ کیا میرا حج ہو گیا؟ فرمایا: جو شخص ہماری اس نماز میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائے اور ہمارے یہاں رہنے تک ساتھ رہے تو اس کا حج ہو گیا۔ بشرطیکہ وہ اس سے پہلے عرفات میں دن یا رات کے کسی بھی حصے میں ووقوف کر چکا ہو (یعنی ۹ تاریخ کی صبح سے لے کر رات کو طلوع فجر تک) وہ اپنا احرام کھول لے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۶۰۳۔ ضعیف لوگوں کو مزدلفہ سے جلدی روانہ کرنا۔

باب ۶۰۳۔ مَا جَاءَ فِي تَقْدِيمِ الضَّعْفَةِ مِنْ جَمْعِ بَلَيْلٍ

۷۸۱۔ حدثنا قتيبة نا حماد بن زيد عن ابوب عن عكرمة عن ابن عباس قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقل من جمع بليل

۷۸۱۔ حدثنا قتيبة نا حماد بن زيد عن ابوب عن عكرمة عن ابن عباس قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقل من جمع بليل

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَقْلٍ مِنْ جَمْعِ بَلَيْلٍ

اس باب میں عائشہ، ام حبیبہ، اسماء اور فضل سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن عباس کی یہ حدیث صحیح ہے اور کئی طرق سے انہی سے مروی ہے۔ شعبہ یہ حدیث مشاش سے اور وہ عطاء سے اور وہ فضل بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ”آنحضرت ﷺ نے ضعیف کو رات ہی کے وقت مزدلفہ سے روانہ کر دیا تھا۔“ اسی حدیث میں مشاش سے غلطی ہوئی ہے انہوں نے فضل بن عباس کا ذکر زیادہ کیا ہے کیوں کہ ابن جریج وغیرہ یہ حدیث عطاء سے اور وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں۔

۷۸۲۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں: آنحضرت ﷺ نے گھر کے ضعیف کو مزدلفہ پہلے بھیج دیا اور فرمایا: طلوع آفتاب سے پہلے کنکریاں نہیں مارنا۔

۷۸۲۔ حدثنا ابو كريب نا وكيع عن المسعودي عن الحكم عن مقسام عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم صعدة اهله وقال لا ترموا الحجرة حتى تطلع الشمس

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسی پر اہل علم کا عمل ہے کہ ضعیف کو مزدلفہ سے جلدی بھیج دینے میں کوئی حرج نہیں۔ پھر اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ سورج نکلنے سے پہلے کنکریاں نہ ماریں جب کہ بعض علماء رات ہی کو کنکریاں مارنے کی بھی اجازت دیتے ہیں۔ لیکن عمل آنحضرت ﷺ کی حدیث پر ہی ہے اور یہی سفیان ثوری اور شافعی کا قول ہے۔

باب ۶۰۴۔ بلا عنوان

باب ۶۰۴۔

۷۸۳۔ حضرت جابر فرماتے ہیں: آنحضرت ﷺ نے دسویں تاریخ کو چاشت کے وقت کنکریاں ماریں جب کہ اس کے بعد زوال کے بعد مارتے رہے۔

۷۸۳۔ حدثنا علي بن خشرم نا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر ضحى واما بعد ذلك فبعد زوال الشمس

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسی پر علماء کا عمل ہے کہ دس تاریخ کے بعد زوال آفتاب کے بعد ہی کنکریاں مارے۔

باب ۶۰۵۔ مزدلفہ سے طلوع آفتاب سے پہلے نکلنا۔

باب ۶۰۵۔ مَا جَاءَ إِنْ الْإِفَاضَةَ مِنْ جَمْعِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

۷۸۴۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں: آنحضرت ﷺ مزدلفہ سے سورج طلوع ہونے سے پہلے واپس تشریف لے گئے۔

۷۸۴۔ حدثنا قتيبة نا ابو خالد الاحمر عن الاعمش عن الحكم عن مقسام عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم افاض قبل طلوع الشمس

اس باب میں حضرت عمرؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ طلوع آفتاب کا انتظار کرتے اور اس کے بعد مزدلفہ سے نکلا کرتے تھے۔

۷۸۵۔ حدثنا محمود بن غیلان نا ابو داؤد قال
أَبَانَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ وَ بَن
مَيْمُونٍ يَقُولُ كُنَّا وَفَوْقًا بِجَمْعٍ وَقَالَ عُمَرُ بِن
الْحَطَّابِ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ لَا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ
الشَّمْسُ فَكَانُوا يَقُولُونَ أَشْرَقَ نَبِيٌّ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَفَهُمْ فَأَفَاضَ عُمَرُ قَبْلَ
طُلُوعِ الشَّمْسِ

۷۸۵۔ حضرت ابو اسحاق، عمرو بن ميمونؓ سے نقل کرتے ہیں۔ کہ ہم
مزدلفہ میں تھے کہ عمر بن خطابؓ نے فرمایا: مشرکین طلوع آفتاب سے
پہلے مزدلفہ سے نہیں نکلا کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میرا پہاڑ پر دھوپ
پہنچ جائے تو تب نکلو لیکن رسول اللہ ﷺ نے ان کی مخالفت کی۔ چنانچہ
عمرؓ طلوع آفتاب سے پہلے وہاں سے روانہ ہو گئے۔

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۶۰۶۔ چھوٹی کنکریاں مارنا

باب ۶۰۶۔ مَا جَاءَ أَنَّ الْجِمَارِ الَّتِي تُرْمَى مِثْلَ
حَصَى الْحَدْفِ

۷۸۶۔ حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ کو انگلیوں
سے کنکریاں مارتے ہوئے دیکھا یعنی چھوٹی چھوٹی کنکریاں۔

۷۸۶۔ حدثنا محمد بن بشارنا يحيى بن سعيد
القطان ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال رَأَيْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي الْجِمَارَ بِمِثْلِ
حَصَى الْحَدْفِ

اس باب میں سلیمان بن عمرو بن احوصؓ۔ (یہ اپنی والدہ: ام جندب ازدیہ سے روایت کرتے ہیں) ابن عباسؓ، فضل بن عباسؓ،
عبدالرحمن بن عثمانؓ تمیمی اور عبدالرحمن بن معاذؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ علماء اسی کو اختیار کرتے
ہیں کہ چھوٹی کنکریاں ماری جائیں جو انگلیوں سے ماری جائیں۔

باب ۶۰۷۔ زوال آفتاب کے بعد کنکریاں مارنا

باب ۶۰۷۔ مَا جَاءَ فِي الرَّمِيِّ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ

۷۸۷۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ زوال آفتاب
کے بعد کنکریاں مارا کرتے تھے۔

۷۸۷۔ حدثنا احمد بن عبدة الضبي البصري نا
زياد بن عبد الله عن الحجاج عن الحكم عن
مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي الْجِمَارَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۶۰۸۔ سوار ہو کر کنکریاں مارنا۔

باب ۶۰۸۔ مَا جَاءَ فِي الرَّمِيِّ الْجِمَارِ رَاكِبًا

۷۸۸۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے دس

۷۸۸۔ حدثنا احمد بن منيع نا يحيى بن زكريا بن

ابی زائدة نا الحجاج عن الحكم عن مفسم عن
ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى
الجمرة يوم النحر راكباً

ذوالحجہ کو جمرہ عقبہ پر سواری پر سوار ہو کر کنکریاں ماریں۔

اس باب میں جاہر، قدامہ بن عبداللہ اور ام سلیمان بن عمرو بن احوص سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ابن عباس کی حدیث حسن ہے۔ بعض علماء کا اسی پر عمل ہے جب کہ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ کنکریاں پیدل چل کر ماری جائیں۔ ہمارے نزدیک اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ حضور ﷺ نے اس لیے ایسا کیا کہ لوگ آپ کو دیکھ کر اقتدا کر سکیں پھر دونوں حدیثیں علماء کے نزدیک معمول بہ ہیں۔ یعنی مذکورہ بالا اور مندرجہ ذیل حدیث۔

۷۸۹۔ حدثنا يوسف بن عيسى نا ابن نمير عن
عبيدالله عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه
وسلم كان اذا رمى الجمرة مشى اليه ذاهباً وراجعاً

۷۸۹۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ جب کنکریاں مارنے جاتے تو پیدل ہی جاتے اور پیدل ہی واپس تشریف لاتے۔

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض راوی اسے عبید اللہ سے روایت کرتے ہوئے مرفوع نہیں کرتے۔ اکثر علماء کا عمل اسی حدیث پر ہے۔ جب کہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ قربانی والے دن (دس تاریخ کو) سوار ہو کر اور اس کے بعد پیدل چل کر کنکریاں مارے۔ گویا کہ یہ حضرات آنحضرت ﷺ کے فعل کی اتباع میں یہ حکم دیتے ہیں: کہ آنحضرت ﷺ نے دس تاریخ کو جمرہ عقبہ پر سواری پر سوار ہو کر کنکریاں ماری تھیں اور اس دن صرف جمرہ عقبہ پر ہی کنکریاں ماری جاتی ہیں۔

باب ۶۰۹۔ كَيْفَ رُمِيَ الْجَمَارِ

باب ۶۰۹۔ رمی (۱) کیسے کی جائے۔

۷۹۰۔ حدثنا يوسف بن عيسى نا وكيع نا
المسعودي عن جامع بن شداد أبي صحرة عن
عبد الرحمن بن يزيد قال لما أتى عبد الله جمره العقبة
استبطن الوادي واستقبل الكعبة وجعل يرمي
الجمرة على حاجبه الأيمن ثم رمى بسبع حصيات
يكبر مع كل حصاة ثم قال والله الذي لا إله غيره من
ههنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة

۷۹۰۔ عبدالرحمن بن يزيد فرماتے ہیں جب عبداللہ جمرہ عقبہ پر میدان کے بیچ میں پہنچے تو قبلہ رخ ہوئے اور اپنی داہنی جانب جمرے پر کنکریاں مارنے لگے پھر انہوں نے سات کنکریاں ماریں اور ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتے۔ پھر فرمایا: قسم ہے اس رب کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر سورہ بقرہ نازل کی گئی اس نے یہیں سے کنکریاں ماری تھیں۔

ہنا دو کج سے اور وہ مسعودی سے اسی سند سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ اس باب میں فضل بن عباس، ابن عباس، جاہر اور ابن عمر سے بھی روایت کرتے ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر علماء کا عمل ہے کہ کنکریاں مارنے والا میدان کے درمیان سے سات کنکریاں مارے اور ہر کنکری پر تکبیر کہے۔ جب کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر میدان کے درمیان سے مارنا ممکن نہ ہو تو جہاں سے مار سکے وہاں سے ہی مارے۔

۷۹۱۔ حدثنا نصر بن علي الجهضمي وعلي بن
۷۹۱۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: کنکریاں

(۱) رمی: کنکریاں مارنے کو کہتے ہیں۔ (مترجم)

حشرم قالانا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن
ابى زياد عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل رمي الجمار
والسعى بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله
امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۶۱۰۔ ماجاء في كراهية طرد الناس عند
رمي الجمار

۷۹۲۔ حدثنا احمد بن منيع نا مروان بن معاوية
عن ايمن بن نابل عن قدامة بن عبيد الله قال رأيت
النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار على ناقته
ليس ضرب (۳) ولا طرد ولا إليك إليك

اس باب میں عبد اللہ بن حظلہ سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں: قدامہ بن عبد اللہ کی روایت حسن صحیح ہے یہ حدیث بھی اسی
سند سے پہچانی جاتی ہے یہ بھی حسن صحیح ہے۔ ایمن بن نابل محدثین کے نزدیک ثقہ ہیں۔

باب ۶۱۱۔ اوث اور گائے میں شراکت کے متعلق۔
۷۹۳۔ حضرت جابر فرماتے ہیں ہم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر
آنحضرت ﷺ کے ساتھ اوث اور گائے کی قربانی میں سات سات
آدمیوں کو شریک کیا۔

باب ۶۱۱۔ ماجاء في الإشتراك في البدنة والبقرة
۷۹۳۔ حدثنا قتيبة نا مالك بن انس عن أبي الزبير عن
جابر قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
عام الحديبية البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة

اس باب میں ابن عمر، ابو ہریرہ، عائشہ اور ابن عباس سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: جابر کی حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر
علماء صحابہ اور دیگر علماء کا عمل ہے کہ قربانی میں گائے یا اوث سات آدمیوں کی طرف سے کافی ہے سفیان ثوری، شافعی اور احمد کا بھی یہی قول
ہے حضرت ابن عباس سے مرفوعاً مروی ہے کہ ”قربانی میں گائے سات اور اوث دس آدمیوں کے لیے کافی ہے۔ اسحاق اسی سے
استدلال کرتے ہیں اور ان کا یہی قول ہے۔ ابن عباس کی حدیث کو ہم ایک ہی سند سے جانتے ہیں جو ذیل میں مذکور ہے۔

۷۹۴۔ حدثنا الحسين بن حريث وغير واحد قالوا
نا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن علباء
ابن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس قال كنا مع

۷۹۴۔ حسین بن حریش اور کئی راوی فضل بن موسیٰ سے وہ حسین بن
واقد سے وہ علیاء بن احمر سے وہ عکرمہ سے اور وہ ابن عباس سے نقل
کرتے ہیں کہ ہم آنحضرت ﷺ کے ساتھ سفر میں تھے کہ عید الاضحیٰ

(۱) یعنی یہ حضرت ہاجرہ کی اسعیل کی معیت میں ہجرت کرنے اور اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کی یاد میں ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

(۲) ہجرات: ہجرہ کی جمع ہے۔ (مترجم)

(۳) ضرب: مارنے کو کہتے ہیں۔ (مترجم)

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ وَحَضَرَ الْأَضْحَى فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبُقْرَةِ سَبْعَةً وَفِي الْجَزُورِ عَشْرَةً
آگئی۔ چنانچہ ہم لوگ گائے میں سات اور اونٹ میں دس حصہ دار بنے۔
امام ترمذی کہتے ہیں: حسین بن واقد کی حدیث حسن غریب ہے۔

باب ۶۱۲۔ مَا جَاءَ فِي إِشْعَارِ الْبَدَنِ
باب ۶۱۲۔ قربانی کے اونٹ کا اشعار (۱) کرنا۔
۷۹۵۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ نَا وَكَيْعٌ عَنْ هِشَامِ
۷۹۵۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں: آنحضرت ﷺ نے اونٹیوں کا
الدستوائي عن قتادة عن ابى حسان الأعرج عن
اشعار اور تقلید (۲) کی چنانچہ اسی کا داہنا پہلو ذوالحلیفہ میں زخمی کیا اور
ابن عباسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَدْنَعْلَيْنِ
اس کا خون پونچھا۔
وَأَشْعَرَ الْهَدْيَ فِي الشَّقِ الْأَيْمَنِ بِذِي الْحَلِيفَةِ وَ
أَمَاطَ عَنْهُ الدَّمَ

اس باب میں مسور بن مخرمہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ابن عباسؓ کی حدیث حسن صحیح ہے ابو حسان اعرج کا نام مسلم ہے علماء صحابہ اور دیگر علماء اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشعار کا حکم دیتے ہیں۔ ثوری، شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں میں نے یوسف بن عیسیٰ کو یہ حدیث وکیع کے حوالے سے روایت کرتے ہوئے سنا چنانچہ انہوں نے کہا: اس مسئلے میں اہل رائے کی رائے کی طرف نہ دیکھو (اہل رائے سے مراد: امام عبدالرحمن تمیمی مدنی ہیں جو امام مالک کے استاد ہیں) اس لیے کہ اشعار سنت ہے جب کہ ان کے نزدیک یہ بدعت ہے۔ ابوسائب کہتے ہیں کہ ہم وکیع کے پاس تھے کہ انہوں نے ایک (اہل رائے کے تابعین میں سے) شخص سے کہا کہ آنحضرت ﷺ نے اشعار کیا۔ اور ابو حنیفہؒ کہتے ہیں کہ یہ مثلہ ہے۔ (ہاتھ پیر کاٹنے میں داخل ہے) اس شخص نے کہا: ابراہیم نخعی سے بھی مروی ہے کہ اشعار مثلہ ہے۔ اس پر وکیع سخت غصے میں آگئے اور فرمایا: میں تم سے کہتا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اور تم ابراہیم نخعی کا قول بیان کرتے ہو۔ تم اس قابل ہو کہ تمہیں قید کر دیا جائے یہاں تک کہ تم اپنے اسی قول سے رجوع کرو۔

مسئلہ: احناف کے نزدیک اشعار مکروہ اور تقلید مستحب ہے۔ امام طحاوی کہتے ہیں: امام ابو حنیفہؒ اس اشعار کی سنیت ہی کے قائل ہیں جو آنحضرت ﷺ سے مروی ہے چنانچہ آپ ﷺ کا اشعار صرف یہ تھا کہ کھال میں ایک خراش ڈال دی جاتی تھی تاکہ اس سے خون نکل جائے نہ کہ جانور کا گوشت کاٹ دیا جاتا۔ جس طرح بعد کے جہلا کیا کرتے تھے کہ گوشت کا ٹکڑا تک اتار دیتے تھے جو بعض اوقات جانور کی ہلاکت پر منتج ہوتا تھا۔ چنانچہ امام ابو حنیفہؒ اسی قسم کو مکروہ کہتے ہیں جب کہ بعض حضرات کا موقف یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کا اشعار اس لیے تھا کہ مشرکین ہدی (۳) جانوروں کے علاوہ دوسرے جانوروں کو پکڑ لیا کرتے تھے چنانچہ اب یہ علت باقی نہیں رہی لہذا یہ عمل مکروہ ہو گیا۔ واللہ اعلم (مترجم)

(۱) اشعار: اونٹ کے پہلو کو تھوڑا سا زخمی کر دینے کو کہتے ہیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ قربانی کا جانور ہے۔ چنانچہ اس سے خون رستا رہتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قربانی کے لیے مخصوص ہے۔ (مترجم)

(۲) تقلید: قربانی کے جانور کے گلے میں جوتوں اور ہڈیوں کا ہار ڈالنے کو تقلید کہتے ہیں یہ بھی اسی مقصد کے لیے ہے۔ (مترجم)

(۳) ہدی: ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جو طلب ثواب کے لیے حرم مکہ میں ذبح کیے جاتے ہیں۔

باب ۶۱۳۔

باب ۶۱۳۔ بلا عنوان

۷۹۶۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ وَ أَبُو سَعِيْدِ الْاَشْجِ قَالَ ثَنَا ابْنُ
الِيْمَانِ عَنْ سَفِيَّانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى هَدِيَّةً مِنْ قُدَيْدٍ

۷۹۶۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے اپنی ہدی قدید
کے مقام سے خریدی۔

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے ثوری کی روایت سے یحییٰ بن یمان کی سند کے علاوہ نہیں جانتے۔ نافع سے
مروی ہے کہ ابن عمرؓ نے بھی اپنی ہدی قدید ہی سے خریدی۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ روایت اصح ہے۔

باب ۶۱۴۔ مَا جَاءَ فِي تَقْلِيْدِ الْهَدْيِ لِلْمُقِيْمِ

باب ۶۱۴۔ مقیم کا ہدی کی تقلید کرنا۔

۷۹۷۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا الْلِيْثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ قَتَلْتُ فَلَانِدَ
هَدْيِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَمْ يُحْرَمِ
وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ

۷۹۷۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں: میں آنحضرت ﷺ کی ہدی کے بار
کے لیے رسیاں بنا کرتی تھی پھر آپ ﷺ نے احرام باندھنے اور نہ ہی
کپڑے پہننا ترک کرتے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے بعض علماء کا اسی پر عمل ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ہدی کے جانور کی ”تقلید“ کرتا ہے تو اس
وقت تک اس پر سلعے ہوئے کپڑے یا خوشبو حرام نہیں ہوتی۔ جب تک وہ احرام نہ باندھے۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں: ”تقلید“ کے ساتھ ہی
اس پر وہ تمام چیزیں حرام ہو گئیں۔ جو محرم پر حرام ہوتی ہیں۔

باب ۶۱۵۔ مَا جَاءَ فِي تَقْلِيْدِ الْعَنَمِ

باب ۶۱۵۔ بکریوں کی ”تقلید“

۷۹۸۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ سَفِيَّانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ
عَنِ الْاَسُوْدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَقْتُلُ فَلَانِدَ
هَدْيِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّهَا
عَنَّمَا تُمْ لَا يُحْرَمُ

۷۹۸۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں: میں آنحضرت ﷺ کی قربانی کی
بکریوں کے گلے کے باروں کی رسیاں بنا کرتی تھی۔ پھر آپ ﷺ احرام
نہیں باندھتے تھے (یعنی اپنے اوپر کسی چیز کو حرام نہیں کرتے تھے)۔

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسی پر بعض صحابہ اور دیگر علماء کا عمل ہے کہ بکریوں کے گلے میں ہار ڈالا جائے۔
(اشعار نہ کیا جائے)۔

باب ۶۱۶۔ مَا جَاءَ اِذَا عَطِبَ الْهَدْيُ مَا يَصْنَعُ بِهِ

باب ۶۱۶۔ اگر ہدی کا جانور قریب المرگ ہو جائے تو کیا کیا جائے۔

۷۹۹۔ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ اسْحَقَ الْهَمْدَانِي نَا عُبَيْدَةَ
بْنِ سَلِيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَاجِيَةَ
الْحُرَّازِيَّةِ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ اصْنَعُ بِمَا
عَطِبَ مِنَ الْهَدْيِ قَالَ اَنْحَرَهَا ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي
دَمِهَا ثُمَّ خَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهَا فَيَا كَلُّوْاَهَا

۷۹۹۔ حضرت ناجیہ خزاعیؓ فرماتے ہیں: میں نے آنحضرت ﷺ سے
پوچھا: اگر ہدی قریب المرگ ہو جائے تو کیا کروں؟ فرمایا: اس کو ذبح
کردو اور اس کے گلے کی جوتی کو اس کے خون میں ڈبو دو پھر اسے
لوگوں کے کھانے کے لیے چھوڑ دو۔

اس باب میں ذویب البقیصہ خزاعی سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث ناجیہ حسن صحیح ہے اور اسی پر علماء کا عمل ہے کہ اگر نفلی قربانی کا جانور قریب المرگ ہو جائے تو وہ خود یا اس کے دوست اس کا گوشت نہ کھائیں بلکہ دوسرے لوگوں کو کھلا دیں۔ اس طرح اس کی قربانی ہو جائے گی۔ یہ شافعی، احمد اور اسحاق کا قول ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر اس میں سے کچھ کھالیا تو جتنا کھایا ہے اتنا ہی تادان کے طور پر ادا کرے جب کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر اس میں سے کچھ لیا تو اتنی ہی قیمت ادا کرے۔

باب ۶۱۷۔ مَا جَاءَ فِي رُكُوبِ الْبَدَنَةِ

۸۰۰۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ ارْكَبْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ فَقَالَ لَهُ فِي الثَّلَاثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ ارْكَبْهَا وَيُحْكُ أَوْ وَيُلْكُ

باب ۶۱۷۔ قربانی کے اونٹ پر سوار ہونا۔

۸۰۰۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ایک شخص کو قربانی کا اونٹ ہانکتے ہوئے دیکھا تو فرمایا: اس پر سوار ہو جاؤ۔ اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ (یہ قربانی کا جانور ہے آپ ﷺ تیسری یا چوتھی مرتبہ فرمایا: تمہارا ستیاناس ہو۔ سوار ہو جاؤ راوی کو شک ہے کہ ”وېلک“ فرمایا: ”وېحک“ (ان دونوں الفاظ کے معنی یہ ہیں کہ ”تم پر ہلاکت ہو“۔) (مترجم)

باب ۶۱۸۔ مَا جَاءَ بِأَيِّ جَانِبِ الرَّأْسِ يَبْدَأُ فِي الْحَلْقِ

۸۰۱۔ حَدَّثَنَا أَبُو عَمَارٍ نَا سَفِيَانَ بْنَ عَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِي سَيِّدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا رَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمْرَةَ نَحَرَ نُسُكِهِ ثُمَّ نَاولَ الْحَالِقَ شِقَّةَ الْأَيْمَنِ فَحَلَقَهُ فَأَعْطَى أَبَا طَلْحَةَ ثُمَّ نَاولَهُ شِقَّةَ الْأَيْسَرِ فَحَلَقَهُ فَقَالَ اقسِمُ بَيْنَ النَّاسِ

باب ۶۱۸۔ سر کی کس جانب سے حلق شروع کیا جائے۔

۸۰۱۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں آنحضرت ﷺ جب حجرے پر کنگریاں مارنے سے فارغ ہوئے تو قربانی کے جانور ذبح کیے پھر حجام کو بلا لیا اور سر کی دائیں جانب اس کے سامنے کر دی اس نے اس طرف سے سر موٹا آپ ﷺ نے وہ بال ابوطمخہ کو دے دیئے پھر حجام کی طرف بائیں جانب کی تو اس نے اس طرف سے بھی سر موٹا۔ پھر آنحضرت ﷺ نے فرمایا: یہ بال لوگوں کے درمیان تقسیم کر دو۔

ابن ابی عمر، سفیان بن عیینہ سے اور وہ ہشام سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے۔

باب ۶۱۹۔ حلق اور قصر کے متعلق

باب ۶۱۹۔ مَا جَاءَ فِي الْحَلْقِ وَالْقَصْرِ

۸۰۲۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں: آنحضرت ﷺ اور اصحاب نبی ﷺ کی ایک جماعت نے سر کے بال منڈوائے جب کہ بعض صحابہ نے بال چھوٹے کرائے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں: آنحضرت ﷺ نے دو یا تین مرتبہ فرمایا: اے اللہ بال منڈوانے والوں پر رحم فرما۔ پھر ایک مرتبہ بال کتروانے والوں کے متعلق بھی یہی دعا کی۔

۸۰۲۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ أَبِي اللَّيْثِ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَلَقَ طَائِفَةً مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَصَرَ بَعْضُهُمْ قَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَجِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَالْمَقْصِرِينَ

اس باب میں ابن عباس، ابن ام حنین، مارب، ابوسعید، ابو مریم، حبشی بن جنادہ اور ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ علماء کا اسی حدیث پر عمل ہے یعنی آدمی سر کے بال منڈوائے لیکن اگر بال کتروالے تو بھی جائز ہے۔ یہ سفیان ثوری، شافعی، احمد اور اسحاق کا قول ہے۔

باب ۶۲۰۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْحَلْقِ لِلنِّسَاءِ

۸۰۳۔ حدثنا محمد بن موسى الجرشى البصرى نا ابو داؤد الطيالسى نا همام عن قتادة عن خلاص بن عمر و عن عليّ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها

باب ۶۲۰۔ عورت کے لیے سر منڈانا حرام ہے
۸۰۳۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے عورت کو بال منڈوانے سے منع فرمایا۔

محمد بن بشار، ابو داؤد سے وہ ہمام سے اور وہ خلاص سے اسی کے مثل روایت کرتے ہوئے حضرت علیؓ کا ذکر نہیں کرتے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: اس حدیث میں اضطراب ہے۔ پھر یہ حدیث حماد بن سلمہ سے بھی قتادہ کے حوالے سے حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے عورت کو سر کے بال منڈوانے سے منع فرمایا۔ علماء کا عمل اسی پر ہے کہ عورت حلق نہ کرے بلکہ بال کٹوالے۔

باب ۶۲۱۔ مَا جَاءَ فِي مَنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يُدْبِحَ أَوْ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ

۸۰۴۔ حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي و ابن ابى عمر قالانا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمر و أنّ رجلاً سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حلفت قبل أن أدبج فقال ادبج ولا حرج وسأله آخر فقال نحرته قبل أن أرمي قال أرم ولا حرج

باب ۶۲۱۔ جو شخص ذبح سے پہلے حلق کر لے یا رمی سے پہلے قربانی کر لے۔ (۱)

۸۰۴۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں: ایک شخص نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا: میں نے قربانی سے پہلے حلق کر لیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کوئی بات نہیں اب قربانی کر لو۔ دوسرے شخص نے سوال کیا میں نے رمی (کنکریاں مارنے) سے پہلے قربانی کر لی۔ فرمایا: کوئی حرج نہیں اب رمی کر لو۔

اس باب میں علیؓ، جابرؓ، ابن عباسؓ، ابن عمرؓ اور اسامہ بن شریکؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: عبداللہ بن عمرؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر اکثر اہل علم کا عمل ہے۔ احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں جب کہ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ اگر کوئی چیز کسی دوسری پر مقدم کر دے تو اس پر دم واجب ہے (اس کی تفصیل کے لیے ملاحظہ کیجئے باب ”ان العرفۃ کلھا موقف“ (باب ۵۹۹۔ حدیث ۷۷۶)

باب ۶۲۲۔ مَا جَاءَ فِي الطَّيِّبِ عِنْدَ الْأَحْلَالِ قَبْلَ الزِّيَارَةِ

۸۰۵۔ حدثنا احمد بن منيع نا هشيم نا منصور بن زاذان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يطوف بالبيت يطيب فيه مسك

باب ۶۲۲۔ احرام کھولنے کے بعد طواف زیارت سے پہلے خوشبو استعمال کرنا۔

۸۰۵۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں۔ میں نے آنحضرت ﷺ کو احرام لگانے سے پہلے اور نحر کے دن دس ذوالحجہ کو طواف زیارت سے پہلے خوشبو لگائی۔ اس خوشبو میں مسک بھی تھا۔

اس باب میں ابن عباسؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اکثر صحابہ اور بعد کے علماء کی اکثریت کا اسی حدیث پر عمل ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ نحر کے دن یعنی دس تاریخ کو جمرہ عقبہ پر کنکریاں مارنے قربانی کرنے اور حلق یا قصر کرانے

(۱) اس مسئلے کی تفصیل باب ”ما جاء ان عرفۃ کلھا موقف“ میں گزری چکی ہے۔ (مترجم)

کے بعد حرم کے لیے عورتوں کے علاوہ تمام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں۔ یہ شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی قول ہے لیکن حضرت عمر بن خطابؓ سے مروی ہے کہ فرمایا: اس کے لیے عورتوں اور خوشبو کے علاوہ تمام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں۔ بعض علماء صحابہ، اہل کوفہ اور بعض علماء کا بھی یہی قول ہے۔

باب ۶۲۳۔ مَا جَاءَ مِنِّي يَفْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْحَجِّ
 ۸۰۶۔ حدثنا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد
 الفطان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن
 الفضل بن عباس قال أَرَدْتَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَمْعِ إِلَى مِنِي فَلَمْ يَزَلْ يَلْبِسِي حَتَّى
 رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ
 باب ۶۲۳۔ حج میں لبیک..... کہنا کب ترک کیا جائے۔
 ۸۰۶۔ حضرت فضل بن عباسؓ فرماتے ہیں: آنحضرت ﷺ نے مزدلفہ کو
 نکلنا مارنے تک مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا تھا۔ آپ ﷺ جمرہ عقبہ کو
 نکلنا مارنے تک لبیک..... کہتے رہے۔

اس باب میں حضرت علیؓ، ابن مسعود اور ابن عباسؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں فضل بن عباسؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر اہل علم صحابہ وغیرہ کا عمل ہے۔ ان کے نزدیک حاجی کو تلبیہ پڑھنا اسی وقت چھوڑنا چاہئے جب جمرہ عقبہ کو نکلنا مارے۔ شافعی، احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں۔

باب ۶۲۴۔ مَا جَاءَ مِنِّي يَفْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ
 ۸۰۷۔ حدثنا هنادنا هشيم عن ابن ابي ليلى عن
 عطاء عن ابن عباس قال يَرْفَعُ الْحَدِيثَ أَنَّهُ كَانَ
 يُمَسِّكُ عَنِ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ
 باب ۶۲۴۔ عمرے میں تلبیہ پڑھنا کب ترک کرے؟
 ۸۰۷۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ عمرے میں تلبیہ
 (لبیک.....) پڑھنا اس وقت چھوڑتے تھے جب حجر اسود کو بوسہ
 دیتے۔

اس باب میں حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن عباسؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر اکثر علماء کا عمل ہے کہ عمرے میں تلبیہ اس وقت تک موقوف نہ کیا جائے جب تک حجر اسود کو بوسہ نہ دے لیا جائے جب کہ علماء کہتے ہیں کہ جب مکہ کی آبادی میں پہنچ جائے تو ترک کر دے لیکن عمل آنحضرت ﷺ کی حدیث پر ہی ہے۔ سفیان، شافعی، احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں۔

باب ۶۲۵۔ مَا جَاءَ فِي طَوَافِ الزِّيَارَةِ بِاللَّيْلِ
 ۸۰۸۔ حدثنا محمد بن بشار نا عبدالرحمن بن
 مهدي نا سفیان عن أبي الزبير عن ابن عباس
 وَعَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرَجَ طَوَافِ
 الزِّيَارَةِ إِلَى اللَّيْلِ
 باب ۶۲۵۔ رات کو طواف زیارت کرنا۔
 ۸۰۸۔ حضرت ابن عباسؓ اور عائشہؓ فرماتے ہیں: آنحضرت ﷺ نے
 طواف زیارت میں رات تک تاخیر کی۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ بعض علماء اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے طواف زیارت میں رات تک تاخیر کی اجازت دیتے ہیں۔ جب کہ بعض کے نزدیک نحر کے دن طواف زیارت کرنا مستحب ہے۔ پھر بعض علماء منیٰ میں قیام کے آخر تک بھی اس کی اجازت کے قائل ہیں۔

باب ۶۲۶۔ مَا جَاءَ فِي نَزْوِلِ الْأَبْطَحِ
 باب ۶۲۶۔ ابٹح (۱) کے مقام پر ٹھہرنا۔

(۱) ابٹح: مکہ اور منیٰ کے درمیان ایک وادی ہے۔ اسے صحب بھی کہتے ہیں۔ (مترجم)

۸۰۹۔ حدثنا اسحاق بن منصور قال ثنا عبدالرزاق نا عبیداللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وأبو بکر و عمر و عثمان ینزلون الأبطح

۸۰۹۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں: آنحضرت ﷺ، ابو بکر، عمر اور عثمان ابطح میں ٹھہرا کرتے تھے۔

اس باب میں حضرت عائشہ، ابن عباس اور ابورافع سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ ہم اسے صرف عبدالرزاق کی عبید اللہ بن عمر سے روایت سے جانتے ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک ابطح میں ٹھہرنا مستحب ہے۔ واجب نہیں یعنی اگر چاہے تو ٹھہرے ورنہ واجب نہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں: یہ مناسک حج میں داخل نہیں۔ یہ ایک منزل ہے جہاں آنحضرت ﷺ ٹھہرے۔

۸۱۰۔ حدثنا ابن ابی عمر نا سفیان عن عمرو بن دینار عن عطاء عن ابن عباس قال لیس التخصیب بشیء إنما هو منزل نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

۸۱۰۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں: تھیب میں ٹھہرنا واجب نہیں وہ تو ایک منزل ہے جہاں آنحضرت ﷺ نے آرام فرمایا:

امام ترمذی کہتے ہیں: تھیب کے معنی ابطح میں اترنے کے ہیں۔ اور یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۶۲۷۔ من نزل الأبطح

۸۱۱۔ حدثنا محمد بن عبدالاعلیٰ نا یزید بن زریع نا حبيب المعلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت إنما نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الأبطح لأنه کان أسمع لبحر وجه

باب ۶۲۷۔ جو شخص ابطح میں ٹھہرے۔

۸۱۱۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ ابطح میں اس لیے ٹھہرے کہ وہاں سے آپ ﷺ کا نکلنا آسان تھا۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابن ابی عمر بواسطہ سفیان، هشام بن عروہ سے اسی کی مانند روایت کرتے ہیں۔

باب ۶۲۸۔ نچے کاج کرنا۔

۸۱۲۔ حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں: ایک عورت ایک بچے کو لے کر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا۔ یا رسول اللہ! کیا اس کاج صحیح ہے؟ فرمایا: ہاں اور ثواب تمہیں ملے گا۔

باب ۶۲۸۔ ما جاء فی حج الصبی

۸۱۲۔ حدثنا محمد بن طریف الکوفی نا ابو معاویة عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنکدر عن جابر بن عبد اللہ قال رفعت امرأة صبیاً لها إلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ اهل هذا حج قال نعم ولك اجر

اس باب میں ابن عمر سے بھی روایت ہے۔ جابر کی حدیث غریب ہے۔ قتیبہ، ترمذی، ترمذی بن سوید باہلی سے وہ محمد بن منکدر سے اور وہ حضرت جابر سے مرفوعاً اسی کے مثل روایت کرتے ہیں جب کہ محمد بن منکدر سے مرسلاً بھی روایت ہے۔

۸۱۳۔ حضرت سائب بن یزید فرماتے ہیں: میرے والد نے مجھے لے کر آنحضرت ﷺ کے ساتھ حجۃ الوداع میں حج کیا اس وقت میری عمر

۸۱۳۔ حدثنا قتیبہ بن سعید نا حاتم بن اسمعيل عن محمد بن یوسف عن السائب بن یزید قال

حَجَّ بِي أَبِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ

سات سال تھی۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے علماء کا اسی پر اجماع ہے کہ نابالغ بچے کا حج کر لینے سے فرض ساقط نہیں ہوتا۔ اسی طرح غلام کا بھی حالتِ غلامی میں کیا ہوا حج کافی نہیں اسے حالتِ آزادی میں دوسرا حج کرنا ہوگا۔ سفیان ثوری، شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

۸۱۴۔ حضرت جابر فرماتے ہیں: ہم جب آنحضرت ﷺ کے ساتھ حج کیا کرتے تھے تو عورتوں کی طرف سے ایک لہیک کہتے اور بچوں کی طرف سے کنکریاں مارا کرتے تھے۔

۸۱۴۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ نَمِيرٍ عَنِ اشْعَثِ بْنِ سَوَّارٍ عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا إِذَا حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنَّا نَلْبِي عَنِ النِّسَاءِ وَنَرْمِي عَنِ الصَّبِيَّانِ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ علماء کا اسی پر اجماع ہے کہ عورت کی طرف سے کوئی دوسرا تلبیہ نہ کہے بلکہ وہ خود کہے لیکن اس کے لیے آواز بلند کرنا مکروہ ہے۔

باب ۶۲۹۔ مَا جَاءَ فِي الْحَجِّ عَنِ الْكَبِيرِ وَالْمَيِّتِ

۲۲۹۔ میت اور بوڑھے کی طرف سے حج بدل کرنا۔

۸۱۵۔ حضرت فضل بن عباس فرماتے ہیں: بنو نضیم کی ایک عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے والد پر حج فرض ہو گیا ہے اور وہ بہت عمر رسیدہ ہیں اونٹ پر بیٹھ بھی نہیں سکتے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تم ان کی طرف سے حج کرو۔

۸۱۵۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ ثنا رُوْحُ بْنُ عَبَادَةَ بْنِ جَرِيحٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شَهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَلِيمَانُ بْنُ يَسَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي أَدْرَكَتُهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَيَّ ظَهْرُ الْبَعِيرِ قَالَ حُجِّي عَنْهُ

اس باب میں حضرت علیؓ، بریدہؓ، حصین بن عوفؓ، ابورزین عقیلیؓ، سودہ اور ابن عباسؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: فضل بن عباسؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ یہ ابن عباسؓ سے بھی بواسطہ سنان بن عبد اللہ جہنی ان کی پھوپھی سے مرفوعاً مروی ہے۔ پھر یہ حضرت ابن عباسؓ سے بھی مرفوعاً مروی ہے۔ میں نے امام بخاری سے ان روایات کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا اس باب میں اصح روایت ابن عباسؓ کی فضل بن عباس سے مرفوعاً روایت ہے یہ بھی احتمال ہے کہ ابن عباس نے یہ حدیث فضل بن عباس وغیرہ سے مرفوعاً سنی ہو اور پھر اسے مرسل روایت کر دیا ہو۔ اور فضل بن عباس کے علاوہ کسی دوسرے راوی کا ذکر نہ کیا ہو۔ امام ترمذی کہتے ہیں: اس باب میں آنحضرت ﷺ سے مروی کئی احادیث صحیح ہیں اور اسی حدیث پر صحابہ وغیرہ کا عمل ہے۔ سفیان ثوری، ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے کہ میت کی طرف سے حج کیا جاسکتا ہے امام مالک کہتے ہیں: اگر اس نے حج کرنے کی وصیت کی ہو تو حج کیا جائے۔ بعض علماء اس شخص کے بدلے میں بھی حج کرنے کی اجازت دیتے ہیں جو عمر رسیدہ ہو اور حج نہ کر سکتا ہو، یہ ابن مبارک اور شافعی کا قول ہے۔

باب ۶۳۰۔ بَابُ مِنْهُ

باب ۶۳۰۔ اسی سے متعلق۔

۸۱۶۔ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَيْسَى نَا وَكَيْعُ عَنْ شُعْبَةَ
عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ
أَبِي رَزِينٍ الْعَقِيلِيِّ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ
وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظُّعْنَ قَالَ حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ

۸۱۶۔ حضرت ابو رزین عقیلی فرماتے ہیں: میں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کیا یا رسول اللہ! میرے والد بہت بوڑھے ہیں نہ حج کر سکتے ہیں نہ عمرہ اور نہ سواری پر بیٹھنے کے ہی قابل ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تم اپنے والد کی طرف سے حج اور عمرہ کر لو۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ عمرے کا ذکر اسی حدیث میں ہے کہ کسی دوسرے کی طرف سے بھی کیا جاسکتا ہے۔

ابوزین عقیلی کا نام لقیط بن عامر ہے۔

۸۱۷۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں۔ کہ ایک عورت آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا: میری والدہ فوت ہوگئی ہیں وہ حج ادا نہیں کر سکیں کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ فرمایا: ہاں کر سکتی ہو۔

۸۱۷۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْعَالِي نَا عَبْد الرَّزَّاقُ
عَنْ سَفِيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ
عَبْدِاللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنِّي أَبِيهِ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أُمَّيْ مَاتَتْ
وَلَمْ تَحُجَّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۶۳۱۔ عمرہ واجب ہے یا نہیں؟

باب ۶۳۱۔ مَا جَاءَ فِي الْعُمْرَةِ أَوْ اجِبَتْ هِيَ أَمْ لَا

۸۱۸۔ حضرت جابر فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ سے عمرے کے متعلق پوچھا گیا کہ کیا یہ واجب ہے؟ فرمایا: فرض تو نہیں لیکن افضل ضرور ہے۔

۸۱۸۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْعَالِي الصَّنَعَانِيُّ ثَنَا
عَمْرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنِّكِدِرِ
عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ
الْعُمْرَةِ أَوْ اجِبَتْ هِيَ قَالَ لَا وَأَنْ يَعْتَمِرُوا هُوَ أَفْضَلُ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض علماء کا یہی قول ہے کہ عمرہ واجب نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حج کی دو قسمیں ہیں۔ حج اکبر جو نجر کے دن یعنی دس ذوالحجہ کو ہوتا ہے اور دوسرا حج اصغر یعنی عمرہ شافعی کہتے ہیں: عمرہ سنت ہے کسی نے اس کے ترک کی اجازت نہیں دی اور نہ ہی اس کی نفل ہونے کے متعلق کوئی روایت ثابت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ایک روایت اسی طرح کی ہے لیکن ضعیف ہے اس سے استدلال نہیں کیا جاسکتا ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ابن عباسؓ اسے واجب کہتے تھے۔

باب ۶۳۲۔ اسی سے متعلق۔

باب ۶۳۲۔ بَابُ مِنْهُ

۸۱۹۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: عمرہ قیامت تک حج میں داخل ہو گیا۔

۸۱۹۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِالضَّبِيِّ ثَنَا زِيَادُ بْنُ
عَبْدِاللَّهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

اس باب میں سراقہ بن مالک بن عجم اور جابر بن عبد اللہ سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن ہے اس کا معنی یہ ہے کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں شافعی، احمد اور اسحاق اسی طرح کہتے ہیں زمانہ جاہلیت کے لوگ حج کے مہینوں میں عمرہ نہیں کیا کرتے تھے لیکن اسلام آیا تو آنحضرت ﷺ نے اس کی اجازت دے دی اور فرمایا ”عمرہ قیامت تک حج میں داخل ہو گیا“۔ یعنی حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ حج کے مہینے یہ ہیں۔ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے دس دن۔ حج کے لیے تلبیہ کہنا انہی چار مہینوں میں جائز ہے۔ پھر حرام کے مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہیں کئی راوی علماء صحابہ وغیرہ سے اسی طرح روایت کرتے ہیں۔

باب ۶۲۳۔ مَا جَاءَ فِي ذِكْرِ فَضْلِ الْعُمْرَةِ

باب ۶۲۳۔ عمرے کی فضیلت

۸۲۰۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ نَا وَكَيْعٌ عَنْ سَفِيَانَ عَنْ سَمِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ تَكْفِيرٌ مَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ

۸۲۰۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے گناہوں کا کفارہ ہے اور حج مقبول کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۶۲۴۔ مَا جَاءَ فِي الْعُمْرَةِ مِنَ التَّعْمِيمِ

باب ۶۲۴۔ تعمیم سے عمرے کے لیے جانا

۸۲۱۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى وَابْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ نَا سَفِيَانَ بْنِ عَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ أُرْسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يُعْمَرَ عَائِشَةَ مِنَ التَّعْمِيمِ

۸۲۱۔ حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے حکم دیا کہ عائشہؓ کو تعمیم سے عمرے کے لیے احرام بندھوا لاؤ۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۶۲۵۔ مَا جَاءَ فِي الْعُمْرَةِ مِنَ الْجِعْرَانَةِ

باب ۶۲۵۔ جعرانہ سے عمرے کے لیے جانا

۸۲۲۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جَرِيحٍ عَنْ مَزَاحِمِ بْنِ أَبِي مَزَاحِمٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَرَّشِ الْكُعْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ لَيْلًا مُعْتَمِرًا فَدَخَلَ لَيْلًا فَقَطَعِي عُمْرَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ لَيْلَتِهِ فَأَصْبَحَ بِالْجِعْرَانَةِ كَبَّائِتٍ فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنْ الْعَدِيِّ خَرَجَ فِي بَطْنٍ سَرِفٍ حَتَّى جَاءَ مَعَ الطَّرِيقِ طَرِيقٌ جَمْعٌ بِبَطْنٍ سَرِفٍ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ خَفِيَتْ عُمْرَتُهُ عَلَى النَّاسِ

۸۲۲۔ حضرت محرش کعبیؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جعرانہ سے رات کے وقت عمرے کے لیے نکلے، اور رات ہی کو مکہ میں داخل ہو کر عمرہ کیا پھر اسی وقت مکہ سے واپس چل دیئے اور صبح تک جعرانہ واپس آگئے۔ جیسے کوئی کسی کے ہاں رات رہتا ہے۔ پھر زوال آفتاب کے وقت نکلے، اور سرف کے میدان میں جہاں دو راستے جمع ہوتے ہیں وہاں تک تشریف لائے اسی لیے آپ ﷺ کا یہ عمرہ لوگوں سے پوشیدہ رہا۔

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث غریب ہے ہم محرش کعسی کی آنحضرت ﷺ سے اس روایت کے علاوہ کوئی روایت نہیں جانتے۔

باب ۶۳۶۔ مَا جَاءَ فِي عُمْرَةِ رَجَبٍ

باب ۶۳۶۔ رجب میں عمرہ کرنا۔

۸۲۳۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ نَا يَحْيَىٰ بِنِ أَدَمَ عَنِ أَبِي بَكْرٍ بِنِ عِيَّاشَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنِ عُرْوَةَ قَالَ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فِي أَبِي شَهْرٍ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فِي رَجَبٍ فَقَالَتْ عَائِشَةُ مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا وَهُوَ مَعَهُ تَعْنِي ابْنَ عُمَرَ وَمَا اعْتَمَرَ فِي شَهْرِ رَجَبٍ قَطُّ

۸۲۳۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں: ابن عمرؓ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ ﷺ نے کون سے مہینے میں عمرہ کیا تھا؟ فرمایا: رجب میں۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں ابن عمرؓ حضور اکرم ﷺ کے ہر عمرے میں ان کے ساتھ تھے لیکن آپ ﷺ نے رجب میں کبھی عمرہ نہیں کیا۔

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث غریب ہے۔ میں نے امام بخاری سے سنا کہ حبیب بن ابی ثابت نے عروہ بن زبیر سے کوئی حدیث نہیں سنی۔ احمد بن منیع، حسن بن موسیٰ سے وہ شیبان سے وہ منصور سے وہ مجاہد سے اور وہ ابن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ ”آنحضرت ﷺ نے چار عمرے کیے جن میں سے ایک رجب میں کیا“ امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۶۳۷۔ مَا جَاءَ فِي عُمْرَةِ ذِي الْقَعْدَةِ

باب ۶۳۷۔ ذی قعدہ میں عمرہ کرنا۔

۸۲۴۔ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُرُوزِيُّ ثَنَا اسْحَقُ بْنُ مَنصُورٍ السَّلُولِيُّ الْكُوفِيُّ عَنِ اسْرَائِيلَ عَنِ أَبِي اسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ

۸۲۴۔ حضرت براء بن عازبؓ فرماتے ہیں: آنحضرت ﷺ نے ذی قعدہ کے مہینے میں عمرہ کیا۔

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں ابن عباسؓ سے بھی روایت ہے۔

باب ۶۳۸۔ مَا جَاءَ فِي عُمْرَةِ رَمَضَانَ

باب ۶۳۸۔ رمضان میں عمرہ کرنا۔

۸۲۵۔ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ نَا أَبُو أَحْمَدَ الزَّبَيْرِيُّ ثَنَا اسْرَائِيلُ عَنِ أَبِي اسْحَقَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ابْنِ أُمِّ مَعْقِلٍ عَنِ أُمِّ مَعْقِلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُمْرَةُ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً

۸۲۵۔ حضرت ام معقلؓ فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب ایک حج کے برابر ہے۔

اس باب میں ابن عباسؓ، جابر ابو ہریرہؓ، انسؓ اور وہب بن جنبشؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں انہیں ہرم بن جنبش بھی کہا جاتا ہے۔ بیان اور جابرؓ، کعسی سے اور وہب بن جنبشؓ سے روایت کرتے ہیں۔ (یعنی بیان اور جابرؓ، ”وہب“ اور داؤد ”ہرم“ کہتے ہیں) لیکن وہب صحیح ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ام معقلؓ کی حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ احمد اور اسحاق کا کہنا ہے کہ رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہونا آنحضرت ﷺ سے ثابت ہے۔ اسحاق کہتے ہیں اس حدیث کے معنی بھی اسی طرح ہیں جیسے کہ اس حدیث کے کہ جس نے سورہ اخلاص پڑھی اس نے قرآن کا تیسرا حصہ پڑھ لیا۔

باب ۶۳۹۔ جو حج کے لیے تلبیہ پڑھنے کے بعد زخمی یا معذور ہو جائے۔
۸۲۶۔ حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ مجھے حجاج بن عمرو نے بتایا کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جس کا کوئی عضو ٹوٹ گیا یا لنگڑا ہو گیا تو اس کا احرام کھل گیا اور اس پر آئندہ سال حج واجب ہے۔ میں نے یہ حدیث ابو ہریرہ اور ابن عباس کے سامنے بیان کی تو دونوں نے فرمایا: اس نے حج کہا۔

باب ۶۳۹۔ مَا جَاءَ فِي الذِّي يُهَلُّ بِالْحَجِّ فَيَكْسِرُ أَوْ يَعْرِجُ
۸۲۶۔ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ نَا رُوحَ بْنَ عَبَادَةَ
نَا حِجَّاجَ الصَّوَّافِ نَا يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ
قَالَ حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَسِرَ أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ
وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ
وَأَبْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَا صَدَقَ

اسحاق منصور، محمد بن عبداللہ انصاری سے اور وہ حجاج سے اسی کے مثل روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں: ”میں نے آنحضرت ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا۔“ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ کئی راوی حجاج صواف سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں معمر اور معاویہ بن سلام یہ حدیث یحییٰ بن ابی کثیر سے وہ عکرمہ سے وہ عبداللہ بن رافع سے وہ حجاج بن عمرو سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے یہی حدیث روایت کرتے ہیں۔ حجاج صواف اپنی روایت میں عبداللہ بن رافع کا ذکر نہیں کرتے اور حجاج محدثین کے نزدیک ثقہ اور حافظ ہیں۔ امام بخاری کے نزدیک معمر اور معاویہ بن سلام کی روایت اصح ہے۔ عبد بن حمید، عبدالرزاق سے وہ عمر سے وہ یحییٰ بن ابی کثیر سے وہ عکرمہ سے وہ عبداللہ بن رافع سے وہ حجاج بن عمرو سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔

باب ۶۴۰۔ حج میں اشراط سے متعلق۔

باب ۶۴۰۔ مَا جَاءَ فِي الْأَشْرَاطِ فِي الْحَجِّ

۸۲۷۔ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَغْدَادِيُّ نَا عَبَادَةَ
الْعَوَامِ عَنْ هَلَالِ بْنِ خَبَابٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ أَنَّ ضَبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ آتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ
أَفَأَشْتَرُ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ كَيْفَ أَقُولُ قَالَ قُولِي لَبَّيْكَ
اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ مَحَلِّي مِنَ الْأَرْضِ حَيْثُ تَحْسِنُنِي

۸۲۷۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ضباعہ بنت زبیرؓ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا: میں حج کرنا چاہتی ہوں کیا میں شرط لگا سکتی ہوں؟ (یعنی اپنی ہی نیت میں یہ فیصلہ کر لوں کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کسی عذر کی وجہ سے رکتا پڑ جائے۔ اور احرام کھولنا پڑے آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں۔ عرض کیا: کیا کہوں؟ فرمایا: یہ کہو: ”لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ مَحَلِّي مِنَ الْأَرْضِ حَيْثُ تَحْسِنُنِي“ میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں میرے احرام کھولنے کی جگہ وہی ہے جہاں آپ مجھے روک دیں۔

اس باب میں جاہلہ، عائشہ اور اسماء سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اسی پر بعض علماء کا عمل ہے کہ احرام کو مشروط کر لینا جائز ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ اگر مشروط احرام کی نیت کی ہو اور پھر بیمار یا معذور ہو جائے تو اس کے لیے احرام کھولنا جائز ہے۔ شافعی، احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں۔ بعض علماء مشروط احرام کی اجازت نہیں دیتے ان کے نزدیک احرام شرط کے ساتھ لگانے کے بعد بھی کھولنا جائز نہیں۔ یعنی ان کے نزدیک شرط لگانا یا نہ لگانا دونوں برابر ہیں۔ (اتحاد اسی مسلک کے قائل ہیں)۔ (مترجم)

باب ۶۴۱۔ اسی سے متعلق

باب ۶۴۱۔ بَابُ مِنْهُ

۸۲۸۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ

۸۲۸۔ سالم اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ وہ حج کے احرام کو مشروط

کرنے کا انکار کرتے اور فرماتے: کیا تمہارے لیے نبی ﷺ کی سنت کافی نہیں؟ (۱)

اخبرنی معمر عن الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ الْإِسْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ وَيَقُولُ الْبَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ

باب ۶۴۲۔ طوافِ افاضہ کے بعد کسی عورت کو حیض آجانا۔

باب ۶۴۲۔ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ تَحِيضٌ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ

۸۲۹۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ صفیہ بنت جہی، حائضہ ہو گئی ہیں۔ یعنی منیٰ میں قیام کے دنوں میں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا یہ ہمیں روکنے والی ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا: انہوں نے طوافِ افاضہ کر لیا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: پھر رکنے کی ضرورت نہیں۔

۸۲۹۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا اللَّيْثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُجَيْبٍ حَاضَتْ فِي أَيَّامِ مِنَى فَقَالَ أَحَابِسْتَنَا هِيَ قَالُوا إِنَّهَا قَدْ أَقَاضَتْ فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا إِذَا

اس باب میں ابن عمرؓ اور ابن عباسؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: حدیث عائشہؓ حسن صحیح ہے اور اسی پر علماء کا عمل ہے کہ اگر کسی عورت کو طوافِ افاضہ کے بعد حیض آجائے تو طوافِ وداع کے لیے رکنہ اور پاک ہونے کا انتظار کرنا ضروری نہیں۔ ثوری، شافعی، احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں۔

۸۳۰۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں: جو شخص حج کرے اسے آخر میں بیت اللہ کا طواف کر کے جانا چاہئے ہاں البتہ حائضہ کے لیے طوافِ وداع ترک کرنے کی اجازت ہے۔

۸۳۰۔ حَدَّثَنَا أَبُو عَمَارٍ نَا عَيْسَى بْنِ يُونُسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَنْ حَجَّ الْبَيْتِ فَلْيَكُنْ آخِرَ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ إِلَّا الْخَيْضَ وَرَخَّصَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر علماء کا عمل ہے۔

باب ۶۴۳۔ حائضہ کون کون سے افعال کر سکتی ہے۔

باب ۶۴۳۔ مَا جَاءَ مَا تَقْضِي الْحَائِضُ مِنَ الْمَنَاسِكِ

۸۳۱۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں: میں حج کے موقع پر ایامِ حیض میں تھی تو آنحضرت ﷺ نے مجھے طوافِ بیت اللہ کے علاوہ تمام مناسک ادا کرنے کا حکم دیا۔

۸۳۱۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ نَا شَرِيكَ عَنْ جَابِرٍ وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ الْحَجَفِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ حِضْتُ فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوْفَ بِالْبَيْتِ

امام ترمذی کہتے ہیں علماء کا اسی پر عمل ہے کہ حائضہ طواف کے علاوہ تمام مناسک ادا کرے۔ یہ حدیث حضرت عائشہؓ سے اور سند سے بھی مروی ہے۔

۸۳۲۔ حضرت ابن عباسؓ مرفوعاً نقل کرتے ہیں کہ حائضہ اور نفساء

۸۳۲۔ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ نَا مِرْوَانَ بْنِ شِجَاعٍ

(۱) اس سے مراد صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے مشروطیت نہیں کی تھی بلکہ جب نہ جاسکے تو احرام کھول دیا اور اس کی تفساح کی۔ (مترجم)

(نفاس والی) غسل کر کے احرام باندھیں اور تمام مناسک حج ادا کریں
سوائے بیت اللہ کے طواف کے، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔

الجزري عن خصيف عن عكرمة و مُجاهِدٍ وَعَطَاءِ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّفْسَاءَ وَالْحَائِضَ تَغْتَسِلُ وَتُحْرِمُ
وَتَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفَ بِالْبَيْتِ
حَتَّى تَطْهَرَ

یہ حدیث اسی سند سے حسن غریب ہے۔

باب ۶۴۳۔ جو شخص حج یا عمرے کے لیے آئے اسے چاہئے کہ آخر میں
بیت اللہ سے ہو کر واپس لوٹے۔

باب ۶۴۴۔ مَا جَاءَ مِنْ حَجٍّ أَوْ اعْتَمَرَ فَلْيَكُنْ إِجْرُ
عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ

۸۳۳۔ حضرت حارث بن عبد اللہ بن اوسؓ فرماتے ہیں میں نے
آنحضرت ﷺ سے سنا: جو شخص اس گھر کا حج یا عمرہ کرے وہ آخر میں
بیت اللہ کا طواف یعنی طواف وداع کرنے کے بعد روانہ ہو۔ حضرت عمرؓ
نے فرمایا: افسوس ہے کہ تم نے آنحضرت ﷺ سے یہ حکم سنا اور ہمیں نہیں
بتایا۔

۸۳۳۔ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُوفِيُّ نَا
الْمَحَارِبِيِّ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ اِرطَاةَ عَنِ عَبْدِ الْمَلِكِ
بِنِ مَغْيِرَةَ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمَيْلَمَانِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ
يُونُسَ عَنْ حَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ سَمِعْتُ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَجَّ هَذَا
الْبَيْتِ أَوْ اعْتَمَرَ فَلْيَكُنْ إِجْرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ فَقَالَ لَهُ
عُمَرُ خَرَرْتُ مِنْ يَدَيْكَ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ تُخْبِرْنَا بِهِ

اس باب میں ابن عباسؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: حارث کی حدیث غریب ہے کئی راوی حجج ابن اریطاة سے
بھی اسی کے مثل روایت کرتے ہیں جب کہ بعض اس سند کے بیان کرنے میں حجج سے اختلاف بھی رکھتے ہیں۔

باب ۶۴۵۔ قارن ایک ہی طواف کرے

باب ۶۴۵۔ مَا جَاءَ أَنْ الْفَارَانَ يَطُوفُ طَوَافًا وَاحِدًا
۸۳۴۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَمْرٍو نَا أَبُو معاوية عَنِ
الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَطَافَ
لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا

۸۳۳۔ حضرت جابرؓ فرماتے ہیں: آنحضرت ﷺ نے حج قرآن کیا۔
یعنی حج اور عمرہ ایک ساتھ کیا چنانچہ دونوں کے لیے ایک ہی طواف کیا۔

اس باب میں ابن عمرؓ اور ابن عباسؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: حضرت جابرؓ کی حدیث حسن ہے اور اسی پر علماء صحابہ
وغیرہ میں سے بعض کا عمل ہے کہ قارن ایک ہی طواف کرے۔ شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ جب کہ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ دو
مرتبہ طواف اور دو مرتبہ ہی سعی کرے۔ ثوری اور اہل کوفہ بھی اسی کے قائل ہیں۔

۸۳۵۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے
حج اور عمرے کے لیے احرام باندھا اسے حلال ہونے کے لیے ایک

۸۳۵۔ حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ أَسْلَمَ الْبَغْدَادِيُّ نَا
عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ

نافِعَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَجْرَاهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ مِنْهُمَا حَتَّى يَجِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ دروردی اسے ان الفاظ سے روایت کرنے میں منفرد ہیں۔ جب کہ کئی راوی یہ حدیث ابن عمر سے غیر مرفوع روایت کرتے ہیں اور یہ صحیح ہے۔

باب ۶۴۶۔ مَا جَاءَ أَنْ يُمْكَّتَ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ الصُّدْرِ ثَلَاثًا

۸۳۶۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَاسِفِيَانُ بْنُ عَيْنَةَ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمِيدٍ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ يَعْنِي مَرْفُوعًا قَالَ يُمْكَّتُ الْمُهَاجِرُ بَعْدَ قِضَاءِ نُسُكِهِ بِمَكَّةَ ثَلَاثًا

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس سند سے اسی طرح کئی راوی مرفوعاً روایت کرتے ہیں۔

باب ۶۴۷۔ مَا جَاءَ مَا يَقُولُ عِنْدَ الْقُفُولِ مِنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

۸۳۷۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ نَاسِفِيَانُ بْنُ عَيْنَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَفَلَ مِنْ عَزْوَةٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَعَلَا فَدَفَا مِنَ الْأَرْضِ أَوْ شَرَفًا كَثِيرًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ائْتِيُونَ تَائِبُونَ عَائِدُونَ سَائِحُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَادِقُ اللَّهِ وَعِدَّةٌ وَنَصْرَ عَبْدِهِ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

۸۳۷۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب کسی جہاد، حج یا عمرے سے واپس تشریف لے جاتے تو جب کسی بلند جگہ یا اونچی چیز یا غیر ہموار زمین سے گزرتے تو تین مرتبہ تکبیر کہتے اور یہ دعا پڑھتے۔

لا اله الا الله حدیث کے آخر تک۔ (ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہم لوٹنے والے توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اپنے رب کے لیے پھرنے والے اور اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اپنے بندے کی مدد کی اور مخالف لشکروں کو اکیلے شکست دی)۔

اس باب میں براء، انس اور جاہل سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۶۴۸۔ مَا جَاءَ فِي الْمُحْرَمِ يَمُوتُ فِي إِحْرَامِهِ

۸۳۸۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ نَاسِفِيَانُ بْنُ عَيْنَةَ عَنِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ

۸۳۸۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں: ہم آنحضرت ﷺ کے ساتھ سفر میں تھے کہ ایک شخص جو احرام باندھے ہوئے تھا اونٹ سے گرا اور گردن ٹوٹ جانے کی وجہ سے فوت ہو گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اسے

قرای رَجُلًا سَقَطَ عَنْ بَعِيرِهِ فَوَقَصَ فَمَاتَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تَحْجَرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَهْلُ أَوْ يَلْبِي

بیری کے پتوں اور پانی سے غسل دے دو انہی کپڑوں میں کفن دے دو اور اس کا سر نہ ڈھکو کیونکہ قیامت کے دن یہ اسی طرح تھلیل یا تلبیہ کہتے ہوئے اٹھایا جائے گا۔ (راوی کو شک ہے کہ تھلیل فرمایا، یا تلبیہ۔ دونوں کے معنی ایک ہی ہیں)۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سفیان ثوری، شافعی، احمد اور اسحاق اسی کے قائل ہیں لیکن بعض علماء کے نزدیک فوت ہو جانے سے احرام کھل جاتا ہے۔ چنانچہ اس کے ساتھ بھی غیر محرم ہی کی طرح معاملہ کیا جائے گا۔

باب ۶۴۹۔ مَا جَاءَ أَنَّ الْمُحْرِمَ يَشْتَكِي عَيْنَهُ فَيَضْمُدُهَا بِالصَّبْرِ

باب ۶۳۹۔ محرم اگر آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا ہو جائے، تو ایلوے کا لیپ کرے۔

۸۳۹۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ سَفِيَانَ بْنِ عَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُوسَى نُبَيْهِ بْنِ وَهَبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَ مَعْمَرٍ اشْتَكَى عَيْنَيْهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَسَأَلَ أَبَانَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ اضْمُدْهُمَا بِالصَّبْرِ

۸۳۹۔ نبیہ بن وہب کہتے ہیں: عمر بن عبید اللہ بن معمر کی احرام کی حالت میں آنکھیں دکھنے لگیں۔ انہوں نے ابان بن عثمان سے اس کا تذکرہ کیا تو فرمایا: ان پر ایلوے کا لیپ کرو کیونکہ میں نے عثمان بن عفان کو آنحضرت سے روایت کرتے ہوئے سنا کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ان پر ایلوے کا لیپ کرو۔

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے چنانچہ علماء کا یہی مسلک ہے کہ محرم کے دو استعمال کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں بشرطیکہ اس میں خوشبو نہ ہو۔

باب ۶۵۰۔ مَا جَاءَ فِي الْمُحْرِمِ يَحْلِقُ رَأْسَهُ فِي إِحْرَامِهِ مَا عَلَيْهِ

باب ۶۵۰۔ اگر محرم احرام کی حالت میں سر منڈا دے تو کیا حکم ہے؟

۸۴۰۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ سَفِيَانَ بْنِ عَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ وَحَمِيدِ الْأَعْرَجِ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ ابْنِ عُجْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَّةِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَهُوَ يُوقِدُ تَحْتَ قَدْرٍ وَالْقَمَلُ يَتَهَافَتُ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ اتَّوَدِدُنِي هَوَامُكَ هَذِهِ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ احْلِقْ وَأَطْعِمْ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينٍ وَالْفَرَقُ ثَلَاثَةُ أَصْعَابٍ أَوْ صَاعٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَنْسَلُكَ نَسِيكَةً قَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ أَوْ أَدْبَحَ شَاةً

۸۴۰۔ حضرت کعب بن عجرہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ حدیبیہ میں مکہ داخل ہونے سے پہلے ان کے پاس سے گزرے وہ احرام کی حالت میں ہنڈیا کے نیچے آگ سلگا رہے تھے اور جوئیں ان کے منہ پر چلی آ رہی تھیں۔ آنحضرت ﷺ نے پوچھا: کیا یہ جوئیں تمہیں اذیت دیتی ہیں؟ عرض کیا، جی ہاں۔ فرمایا: سر منڈا دو اور ایک فرق میں چھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ فرق تین صاع کا ہوتا ہے۔ یا پھر تین دن روزہ رکھو یا ایک قربانی کرو۔ ابن ابی نجیح اپنی روایت میں کہتے ہیں یا ایک بکری ذبح کرو۔

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر علماء صحابہ کا عمل ہے کہ محرم اگر سر منڈا دے یا سلسے ہوئے کپڑے وغیرہ پہن لے یا خوشبو استعمال کر لے تو اس پر اسی طرح کفارہ ہے جیسا کہ آنحضرت ﷺ سے مروی ہے۔

باب ۶۵۱۔ مَا جَاءَ فِي الرَّحْصَةِ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا ۶۵۱۔ چرواہوں کو ایک دن رمی نہ کرنے کی اجازت
وَيَدْعُوا يَوْمًا

۸۴۱۔ حدثنا ابن ابی عمر نا سفیان عن عبد اللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمر بن حزم مَن أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا وَيَدْعُوا يَوْمًا

۸۴۱۔ ابوالبدریح بن عدی اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے چرواہوں کو ایک دن رمی کرنے اور ایک دن چھوڑنے کی اجازت دی۔

امام ترمذی کہتے ہیں: ابن عیینہ بھی اسی طرح روایت کرتے ہیں۔ مالک بن انس بھی عبد اللہ بن ابی بکر سے وہ اپنے والد سے اور وہ ابو بدریح بن عاصم بن عدی سے ان کے والد کے حوالے سے روایت کرتے ہیں۔ مالک کی روایت صحیح ہے۔ علماء کی ایک جماعت چرواہوں کو ایک دن رمی کرنے اور ایک دن نہ کرنے کی اجازت دیتی ہے، امام شافعی کا بھی یہی قول ہے:

۸۴۲۔ حدثنا الحسن بن علی الخلال نا عبدالرزاق نا مالك بن انس قال حدثني عبد الله بن ابی بكر عن أبيه عن أبي البَدَّاحِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرِّعَاءِ الْأَبْلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَجْمَعُوا رَمَى يَوْمَيْنِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ فَيَرْمُونَهُ فِي أَحَدِهِمَا قَالَ مَالِكٌ طَنَنْتُ أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَوَّلِ مِنْهُمَا ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ

۸۴۲۔ ابو بدریح بن عاصم بن عدی اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اونٹ چرانے والوں کو مٹی میں نہ رهنے کی اجازت دی وہ اس طرح کہ نحر کے دن رمی کر لیں اور پھر دونوں کی رمی اکٹھی کر لیں۔ مالک کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ راوی نے کہا دونوں دنوں کی رمی پہلے دن کر لے اور پھر اسی روز رمی کے لیے جائے جس دن وہاں سے کوچ کیا جاتا ہے۔

یہ حدیث حسن صحیح اور ابن عیینہ کی عبد اللہ بن ابی بکر سے مروی حدیث سے صحیح ہے۔

۸۴۳۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضرت علیؑ حجۃ الوداع کے موقع پر یمن سے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ ﷺ نے پوچھا کون سے حج کی نیت کی ہے؟ عرض کیا جس کی آپ ﷺ نے کی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر میرے پاس ہدی نہ ہوتی تو میں احرام کھول دیتا۔

۸۴۳۔ حدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد بن عبدالوارث قال حدثني ابی نا سليم بن حيان قال سمعت مروان الأصغر عن أنس بن مالك أن علياً قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ بَمَا أَهَلَّتْ فَقَالَ أَهَلَّتْ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَا أَن مَعِيَ هَذَا لَا أَحَلَّتْ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔

۸۴۴۔ حدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد بن عبدالوارث نا ابی عن ابیه عن محمد بن اسحق عن ابی اسحق عن الحارث عن عليٍّ قال سألت

۸۴۴۔ حضرت علیؑ فرماتے ہیں میں نے آنحضرت ﷺ سے پوچھا: حج اکبر کون سے دن ہوتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: نحر کے دن (یعنی دس ذوالحجہ کو)

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَوْمِ الْحَجِّ
الْأَكْبَرِ فَقَالَ يَوْمَ النَّحْرِ

۸۴۵۔ حضرت علیؑ غیر مرفوع حدیث نقل کرتے ہیں کہ حج اکبر کا دن نحر کا دن ہے۔

۸۴۵۔ حدثنا ابن عمر نا سفیان بن عیینة عن ابی اسحق عن الحارث عن علی قال یوم الحج الاکبر یوم النحر ولم یرفعه

یہ حدیث پہلی حدیث سے صحیح ہے اور ابن عیینہ کی موقوف روایت محمد بن اسحاق کی مرفوع روایت سے صحیح ہے۔ کئی حفاظ حدیث ابواسحاق سے وہ حارث سے اور وہ حضرت علیؑ سے اسی طرح موقوف روایت کرتے ہیں۔

۸۴۶۔ ابو عبید بن عمیر اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ابن عمرؓ دونوں رکنوں (حجر اسود اور رکن یمانی) پر ٹھہرا کرتے تھے میں نے کہا: اے ابو عبید الرحمن آپ دونوں رکنوں پر ٹھہرتے ہیں جب کہ میں نے کسی صحابی کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ابن عمرؓ نے فرمایا: کیوں نہ ٹھہروں۔ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ ان کو چھونے سے گناہوں کا کفارہ ادا ہوتا ہے۔ میں نے یہ بھی سنا کہ فرمایا: جس شخص نے اس گھر کا سات مرتبہ طواف کیا اور گناہ اس کے لیے ایک غلام آزاد کرنے کا اجر ہے یہ بھی سنا کہ فرمایا: طواف میں جب کوئی شخص ایک قدم رکھتا اور دوسرا اٹھاتا ہے تو اس کا ایک گناہ معاف اور ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔

۸۴۶۔ حدثنا قتیبہ نا جریر عن عطاء بن السائب عن ابی عبید بن عمیر عن ابیه أنّ ابن عمر کان یزاحم علی الرکنین فقلت یا ابا عبد الرحمن انک تزاحم علی الرکنین زحاما ما رأیت احدا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یزاحم علیہ فقال ان فعل فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان مسحهما کفارة للخطایا وسمعته یقول من طاف بهذا البیت اُسبوعا فاحصاه کان کعبتی رقبۃ وسمعته یقول لا یضع قدما ولا یرفع اخری الا حط اللہ عنه بها خطیئة وکتبت له بها حسنة

امام ترمذی کہتے ہیں: حماد بن زید بھی عطاء بن سائب سے وہ عبید بن عمیر سے اور وہ ابن عمرؓ سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں لیکن ابن عبید کے والد کا ذکر نہیں کرتے یہ حدیث حسن ہے۔

باب ۶۵۲۔ بلا عنوان

باب ۶۵۲۔

۸۴۷۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: بیت اللہ کا طواف نماز ہی کی طرح ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ تم اس میں باتیں کر لیتے ہو لہذا جو شخص بات کرنے اچھی ہی کرے۔

۸۴۷۔ حدثنا قتیبہ نا جریر عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس أنّ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الطواف حول البیت مثل الصلوة الا انکم تتکلمون فیہ فمن تکلم فلا یتکلم الا بحیر

امام ترمذی کہتے ہیں: ابن طاووس وغیرہ طاووس سے اور وہ ابن عباسؓ سے یہ حدیث موقوف روایت کرتے ہیں۔ ہم اسے عطاء بن سائب کی روایت کے علاوہ مرفوع نہیں جانتے۔ اکثر علماء اسی پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ طواف میں باتیں نہ کرنا مستحب ہے لیکن ضرورت کے وقت یا علم کی باتیں کرنے کی اجازت ہے یا پھر ذکر کرتا رہے۔

باب ۶۵۳۔

باب ۶۵۳۔ بلا عنوان

۸۴۸۔ حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ نَا حَرِيرٍ عَنِ ابْنِ خَثِيمٍ عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجْرِ وَاللَّهُ لَيُعْتَنُهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانًا يُنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ عَلَيَّ مَنْ اسْتَلَمَهُ بِحَقِّ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔

۸۴۹۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ نَا وَكَيْعٌ عَنِ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنِ فَرْقَدِ السَّبْحِيِّ عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْهِنُ بِالزَّيْتِ وَهُوَ مُحْرِمٌ غَيْرَ الْمُقْتَتِ

۸۴۹۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ احرام کی حالت میں بغیر خوشبو کا تیل استعمال کرتے تھے۔

امام ترمذی کہتے ہیں مقتت خوشبودار کو کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے ہم اسے فرقہ نجی کی سعید بن جبیر سے روایت سے ہی جانتے ہیں۔ یحییٰ بن سعید نے فرقہ نجی میں کلام کیا ہے لیکن لوگ ان سے روایت کرتے ہیں۔

باب ۶۵۴۔

باب ۶۵۴۔ بلا عنوان

۸۵۰۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ نَا خِلَادُ بْنُ يَزِيدَ الْجَعْفِيُّ نَا زَهْرَةَ بِنَ مَعَاوِيَةَ عَنِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْمِلُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَتُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْمِلُهُ

۸۵۰۔ حضرت عائشہ زَمْزَم کا پانی اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھیں اور فرماتیں کہ آنحضرت ﷺ بھی لے جایا کرتے تھے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

باب ۶۵۵۔

باب ۶۵۵۔ بلا عنوان

۸۵۱۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيرِ الْوَاسِطِيُّ الْمَعْنِيُّ وَاحِدٌ قَالَا نَا اسْتَحَقَّ بِنَ يَوْسُفَ الْأَزْرَقِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ قُلْتُ لِأَنْسِ حَدِيثِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَالَ بِمَنْبَى قَالَ قُلْتُ وَ أَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ قَالَ بِالْأَبْطَحِ ثُمَّ قَالَ أَفْعَلُ كَمَا يَفْعَلُ أَمْرًا وَكَ

۸۵۱۔ عبدالعزیز بن رفیع کہتے ہیں میں نے انس سے کہا کہ مجھے یہ بتائیے کہ آنحضرت ﷺ نے آٹھ ذواج کو ظہر کی نماز کہاں پڑھی تھی؟ فرمایا: منبى میں نے کہا: جس روز روانہ ہوئے اس روز عصر کہاں پڑھی؟ فرمایا: ابطح میں۔ پھر فرمایا: تم وہیں نماز پڑھا کرو جہاں تمہارے حج کے امراء پڑھیں۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث اسحاق ازرق کی روایت سے حسن صحیح غریب معلوم ہوتی ہے۔ وہ ثوری سے روایت کرتے ہیں۔

حج کے ابواب ختم ہو گئے۔

أَبْوَابُ الْجَنَائِزِ: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جنازے کے متعلق آنحضرت ﷺ سے منقول احادیث کے ابواب

باب ۶۵۶۔ مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ الْمَرَضِ

باب ۲۵۶۔ بیماری پر اجر سے متعلق

۸۵۲۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ أَبِي مَعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ

۸۵۲۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: مؤمن کو اگر کوئی کانٹا بھی چبھ جائے یا اس سے بڑھ کر کوئی تکلیف ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند اور ایک گناہ کم کر دیتے ہیں۔

اس باب میں سعد بن ابی وقاصؓ، ابو سعید خدریؓ، ابو ہریرہؓ، ابوامامہؓ، ابوسعیدؓ، انسؓ، عبداللہ بن عمرؓ، اسد بن کرزہؓ، جابرؓ، عبدالرحمن بن ازہرؓ اور ابو موسیٰؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۸۵۳۔ حَدَّثَنَا سَفِيانُ بْنُ وَكَيْعٍ نَا أَبِي عَنَ اسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ عَنَ ابْنِ بَشَّارٍ عَنَ أَبِي سَعِيدٍ دَالْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ شَيْءٍ يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا حَزَنٍ وَلَا وَصَبٍ حَتَّىٰ أَلْهَمَ اللَّهُ لَهُمُ الْإِيكْفِرُ اللَّهُ بِهِ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ

۸۵۳۔ حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جب بھی کسی مؤمن کو کوئی درد، غم یا دکھ یہاں تک کہ اگر کوئی پریشانی بھی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مؤمن کے گناہوں کو کم کر دیتے ہیں۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ چارود، وکیع کے حوالے سے کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: میں نے اس روایت کے علاوہ کسی روایت میں نہیں سنا کہ پریشانی یا فکر سے بھی گناہ کم ہوتے ہوں۔ بعض راوی یہ حدیث عطاء بن یسار سے اور وہ ابو ہریرہؓ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں۔

باب ۶۵۷۔ مَا جَاءَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ

باب ۲۵۷۔ مریض کی عیادت کرنا۔

۸۵۴۔ حَدَّثَنَا حَمِيدُ بْنُ مَسْعُودَةَ نَائِزِيدِ بْنِ زُرَيْعٍ نَا خَالِدَ الْحَذَاءِ عَنَ أَبِي قَلَابَةَ عَنَ أَبِي إِسْمَاعِيلَ الرَّحْبِيِّ عَنَ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ الْمُسْلِمُ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ

۸۵۴۔ حضرت ثوبانؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: کوئی مسلمان کسی مسلمان کی جتنی دیر تک عیادت کرتا ہے۔ اتنی دیر جنت میں میوے چننا رہتا ہے۔

اس باب میں علیؓ، ابو موسیٰؓ، براءؓ، ابو ہریرہؓ، انسؓ اور جابرؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ثوبان کی حدیث حسن ہے۔ ابو یوسف اور عاصم احوال یہ حدیث ابو قلابہ سے وہ ابوالاشعث سے وہ ابواسماء سے وہ ثوبان سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے مانند روایت کرتے ہیں۔ میں نے محمد سے سنا کہ جو یہ حدیث ابوالاشعث سے روایت کرتے ہیں۔ وہ ابواسماء سے بھی روایت کرتے ہیں۔

محمد بن وزیر واسطی، یزید بن ہارون سے وہ عاصم احوال سے وہ ابو قلابہ سے وہ ابو اشعث سے وہ ابو اسماء سے وہ ثوبان سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے مثل روایت کرتے ہوئے یہ الفاظ زیادہ نقل کرتے ہیں۔ "قبل ماخرقة الجنة قال جناها"، یعنی پوچھا گیا خرفہ جنت کیا ہے تو فرمایا: میوے چننا۔ احمد بن عبدہ ضعی، حماد بن زید سے وہ ایوب سے وہ ابو قلابہ سے وہ ابو اسماء سے وہ ثوبان سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے خالد کی حدیث کے مانند روایت کرتے ہوئے ابو اشعث کا ذکر نہیں کرتے۔ بعض راوی یہ حدیث حماد بن زید سے بھی غیر مرفوع روایت کرتے ہیں۔

۸۵۵۔ ثور اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: علیؑ نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا چلو حسینؑ کی عیادت کے لیے چلیں۔ چنانچہ ابو موسیٰ بھی وہیں تھے۔ حضرت علیؑ نے پوچھا: ابو موسیٰ آپ زیارت کے لیے آئے ہیں یا عیادت کے لیے فرمایا: عیادت کیلئے۔ حضرت علیؑ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی صبح کے وقت عیادت کرتا ہے تو ستر ہزار فرشتے شام تک اس کیلئے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اگر رات کو دوبارہ عیادت کر لے تو اسی طرح صبح تک مغفرت مانگتے ہیں۔ نیز اس کیلئے جنت میں ایک باغ بھی لگایا جائے گا۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے اور حضرت علیؑ ہی سے کئی سندوں سے مروی ہے۔ بعض راوی یہ حدیث موقوفاً روایت کرتے ہیں۔ ابوفاختہ کا نام سعید بن علاقہ ہے۔

باب ۶۵۸۔ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّمَنِّيِ لِلْمَوْتِ

۸۵۶۔ حدثنا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر نا شعبة عن ابى اسحق عن حارثة بن مضر بن قال دخلت على حباب وقد اکتوى في بطنه فقال ما اعلم احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقي من البلاء ما لقيت لقد كنت وما اجد درهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ناحية بيتي اربعون ألفا ولو لا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انها نا او نهى ان يتمنى الموت لتمنيت

باب ۶۵۸۔ موت کی تمنا کرنے کی ممانعت۔

۸۵۶۔ حضرت حارث بن مضر کہتے ہیں میں خواب کے پاس گیا انہوں نے اپنے پیٹ کو کسی بیماری کی وجہ سے دافا تھا۔ فرمانے لگے: مجھے نہیں معلوم صحابہ میں سے کسی پر اتنی مصیبتیں آئی ہوں جتنی مجھ پر آئیں۔ میرے پاس آنحضرت ﷺ کے زمانے میں ایک درہم بھی نہیں ہوتا تھا اور اب میرے گھر کے کونے میں چالیس ہزار درہم پڑے ہوئے ہیں۔ اگر رسول اللہ ﷺ نے موت کی تمنا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں موت کی تمنا کرتا۔

اس باب میں ابو ہریرہؓ، انسؓ اور جابرؓ سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں: خواب کی حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت انسؓ سے بھی مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: "تم میں سے کوئی شخص کسی نقصان کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے بلکہ اس طرح کہے اللہم احینى ما كانت الحيوة خيرا لى وتوفنى اذا كانت الوفاة خيرا لى" یعنی یا اللہ! اگر میرے لیے زندگی بہتر ہو تو زندہ رکھ اور اگر موت

بہتر ہو تو موت دے دے۔ علی بن جبر، اسماعیل بن ابراہیم سے وہ عبدالعزیز بن صہیب سے وہ انس بن مالک سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے یہی حدیث روایت کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۶۵۹۔ مَا جَاءَ فِي التَّعْوِذِ لِلْمَرِيضِ

باب ۶۵۹۔ مریض کے لیے دعا (دم) سے متعلق

۸۵۷۔ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ هَلَالٍ الصَّوَّافِ الْبَصْرِيُّ نَا

۸۵۷۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ حضرت جبرئیل آنحضرت ﷺ

عَبْدُ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صَهِيْبٍ عَنْ

کے پاس آئے اور فرمایا: اے محمد (ﷺ) کیا آپ بیمار ہیں؟ فرمایا: ہاں۔

أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ جِبْرَائِيلَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى

جبرئیل نے فرمایا: بسم اللہ..... حدیث کے آخر تک۔ (ترجمہ) اللہ کے

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اشْتَكَيْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ

نام پر ہر اس چیز سے افسوس پڑھتا ہوں جو آپ کو اذیت میں مبتلا کرے

بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ

پھر ہر شخص کی برائی یا حسد کرنے والی آنکھ سے اللہ کے نام پر افسوس

نَفْسٍ وَعَيْنٍ حَاسِدَةٍ بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ وَاللَّهُ يَشْفِيكَ

پڑھتا ہوں اللہ آپ کو شفاء عطا فرمائے۔

۸۵۸۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ

۸۵۸۔ حضرت عبدالعزیز بن صہیب فرماتے ہیں کہ میں اور ثابت بنانی

عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صَهِيْبٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَقَاتِبْتُ الْبَنَانِيَّ

حضرت انس کے پاس گئے ثابت نے کہا: اے ابو حمزہ میں علیل ہوں۔

عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَقَالَ ثَابِتٌ يَا أَبَا حَمَزَةَ

انس نے فرمایا: کیا میں تم پر رسول اللہ ﷺ کی دعا پڑھ کر نہ پھونکوں؟ عرض

اشْتَكَيْتَ فَقَالَ أَنَسُ أَفَلَا أَرْقِيكَ بِرُقِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ

کیا: کیوں نہیں۔ چنانچہ انس نے یہ پڑھا۔ ”اللهم رب الناس“.....

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَلَى قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ

حدیث کے آخر تک۔ (ترجمہ) اے لوگوں کے پروردگار اے تکلیفوں کو

مُذْهِبِ الْبَاسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ

دور کرنے والے شفاء عطا فرما صرف تو ہی شفا دیتے والا ہے تیرے علاوہ

شِفَاءَ لَا يُعَادِرُ سَقَمًا

کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ ایسی شفاء عطا فرما کہ کوئی بیماری نہ رہے۔

اس باب میں انس اور عائشہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ابو سعید کی حدیث حسن صحیح ہے۔ میں نے ابو زرہ سے اس حدیث کے متعلق پوچھا کہ عبدالعزیز کی ابو نصرہ سے بحوالہ ابو سعید مروی حدیث زیادہ صحیح ہے یا عبدالعزیز کی انس سے مروی حدیث؟ ابو زرہ نے کہا: دونوں صحیح ہیں۔ عبدالصمد بن عبدالوارث اپنے والد سے وہ عبدالعزیز بن صہیب سے وہ ابو نصرہ سے اور وہ ابو سعید سے روایت کرتے ہیں۔ پھر عبدالعزیز بن صہیب انس سے بھی روایت کرتے ہیں۔

باب ۶۶۰۔ مَا جَاءَ فِي الْحَقِّ عَلَى الْوَصِيَّةِ

باب ۶۶۰۔ وصیت کی ترغیب

۸۵۹۔ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ نَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَمِيرٍ نَا

۸۵۹۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ہر مسلمان کو

عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

چاہئے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو جس کے متعلق وصیت ضروری ہو تو اس

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا حَقُّ أَمْرٌ مُسْلِمٍ يَبِيْتُ

پر درواتیں ایسی نہ گزریں کہ اس کی وصیت کتابت کی صورت میں اس

لِكَلْتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ إِلَّا وَصِيَّتَهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ

کے پاس موجود نہ ہو۔

اس باب میں ابن ابی اوفی سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن عمر کی حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۶۶۱۔ مَا جَاءَ فِي الْوَصِيَّةِ بِالثَّلَاثِ وَالرُّبْعِ

باب ۶۶۱۔ تہائی یا چوتھائی مال کی وصیت کرنا

۸۶۰۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا جَرِيرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ الْمَسَائِبِ

۸۶۰۔ حضرت سعد بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ میری

علاقت کے دوران عیادت کے لیے تشریف لائے اور فرمایا: تم نے وصیت کر دی ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں۔ فرمایا: کتنے مال کی میں نے کہا: اللہ کی راہ میں پورے مال کی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے عرض کیا وہ سب غنی ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اپنے مال کے دسویں حصے کی وصیت کرو۔ یعنی نو حصے اولاد کے لیے چھوڑو میں اس میں کمی کرتا رہا۔ یہاں تک کہ آپ ﷺ نے فرمایا: اچھا تہائی مال کی وصیت کرو حالانکہ یہ بھی بہت ہے۔ ابو عبد الرحمن کہتے ہیں ہم چاہتے تھے کہ وہ اس میں سے بھی کچھ کم کی وصیت کریں کیونکہ آپ ﷺ نے فرمایا: تہائی حصہ بھی بہت ہے۔

عن ابی عبدالرحمن السلمی عن سعد بن مالک قال عادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وأنا مریض فقال اوصیت قلت نعم قال بکم قلت بما لئ کلہ فی سبیل اللہ قال فما ترک لولدک قلت ہم اغنیاء بخیر فقال اوصی بالعشر فما زلت انا قصه حتی قال اوصی بالثلث والثلث کبیر قال ابو عبد الرحمن فنحن نستحب ان ینقص من الثلث لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والثلث کبیر

اس باب میں ابن عباس سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: سعد کی حدیث حسن صحیح ہے اور کئی سندوں سے مروی ہے۔ پھر کئی سندوں میں ”کبیر“ اور کئی میں ”کثیر“ کا لفظ آیا ہے۔ علماء کا اسی پر عمل ہے کہ کوئی شخص تہائی مال سے زیادہ کی وصیت نہ کرے بلکہ ٹکٹ (تہائی) سے بھی کم کی وصیت کرنا مستحب ہے۔ سفیان ثوری کہتے ہیں کہ علماء مال کے پانچویں یا چوتھے حصے کی وصیت کو مستحب سمجھتے تھے اور جس نے تہائی کی وصیت کی گویا کہ اس نے کچھ نہیں چھوڑا۔ اس سے زیادہ کی وصیت کرنا جائز ہی نہیں۔

باب ۶۶۲۔ حالت نزع میں مریض کو تلقین کرنا اور اس کے لیے دعا کرنا۔

باب ۶۶۲۔ ماجاء فی تلقین المریض عند الموت والدعاء له

۸۶۱۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قریب المرگ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔

۸۶۱۔ حدثنا ابوسلمة یحیی ابن خلف البصری نا بشر بن المفضل عن عمارة بن غزیه عن یحیی بن عمارة عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ

اس باب میں ابو ہریرہ، ام سلمہ عائشہ، جابر اور سعدی الریہ سے بھی روایت ہے۔ سعدی مریہ، طلحہ بن عبید اللہ کی بیوی ہیں۔ امام

ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

۸۶۲۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اگر تم کسی مریض یا میت کے پاس جاؤ تو اچھی دعا کرو اس لیے کہ فرشتے تمہارے دعا کرنے پر آمین کہتے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ جب ابو سلمہ فوت ہوئے تو میں آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ (ابو سلمہ فوت ہو گئے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا اس طرح پڑھو۔ ”اللهم“ سے ”حسنة“ تک۔) (ترجمہ: اے اللہ میری اور ان کی مغفرت فرما اور ان کے بدلے میں مجھے ان سے بہتر عطا فرما۔)

۸۶۲۔ حدثنا ہنادنا ابو معاویة عن الاعمش عن شقیق عن ام سلمة قالت قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضرتم المریض او المیت فقولوا خیرا فان الملائکة یؤمنون علی ما تقولون قالت فلما مات ابو سلمة اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ ان اباسلمة مات قال فقولی اللہم اغفر لی ولہ واعقبنی منه عقی حسنة

قالت فقلت فاعقبني الله منه من هو خير منه . ام سلمة عمراتی ہیں میں نے یہ دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بہتر
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
شوہر دے دیا یعنی رسول اللہ ﷺ۔

امام ترمذی کہتے ہیں: شقیق بن شقیق بن سلمہ ابو وائل اسدی ہیں۔ ام سلمہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ موت کے وقت ”لا الہ الا اللہ“
کی تلقین کرنا مستحب ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں: اگر وہ ایک مرتبہ پڑھ لے تو بار بار اسے اس کی تلقین نہ کی جائے۔ ابن مبارک سے مروی
ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو ایک شخص نے انہیں اس کلمے کی بار بار تلقین کی۔ اس پر انہوں نے فرمایا: جب میں نے ایک
مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لیا تو جب تک کوئی دوسری بات نہ کروں اسی پر ہوں۔ ان کے اس طرح کہنے کا مقصد آنحضرت ﷺ کی اس حدیث پر عمل
کرنا ہے ”من کان آخر کلامہ ”لا الہ الا اللہ دخل الجنة“ جس کا آخری کلام یہ کلمہ ہو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔

باب ۶۶۳۔ موت کی سختی سے متعلق۔

باب ۶۶۳۔ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ عِنْدَ الْمَوْتِ

۸۶۳۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں: میں نے آنحضرت ﷺ کو وفات سے
پہلے دیکھا۔ آپ ﷺ کے پاس پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا۔ آپ ﷺ
اپنا دست مبارک پانی کے پیالے میں ڈبوتے اور چہرے پر مل لیتے
تھے۔ پھر فرماتے: اللهم اعني حدیث کے آخر تک۔ اے اللہ
موت کی سختیوں اور تکلیفوں پر میری مدد فرما۔

۸۶۳۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا الْلَيْثِ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنِ مَوْسَى
ابن سرجس عن القاسم بن مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا
قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ
بِالْمَوْتِ وَعِنْدَهُ قَدَحٌ فِيهِ مَاءٌ وَهُوَ يَدْخُلُ يَدَهُ فِي
الْقَدَحِ ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ اعْنِي
عَلَيَّ عَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَسَكَرَاتِ الْمَوْتِ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے۔

۸۶۴۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ کی وفات کے موقع
پر موت کی شدت دیکھنے کے بعد میں کسی کی آسانی سے موت کی تمنا
نہیں کرتی۔

۸۶۴۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبِزَارِيُّ نَا مِبْشَرَ بْنِ
اسْمَعِيلَ الْحَلْبِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
العلاء عن ابيه عن ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا
أَغْبَطُ أَحَدًا بِهَوْنِ مَوْتٍ بَعْدَ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ شِدَّةِ
مَوْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

امام ترمذی کہتے ہیں میں نے ابو زرہ سے اس حدیث کے متعلق پوچھا کہ عبدالرحمن بن علاء کون ہیں۔ کہنے لگے علاء بن جلاب کے
بیٹے ہیں۔ میں اس حدیث کو اس سند کے علاوہ نہیں جانتا۔

توضیح: حضرت عائشہ کی مذکورہ بالا حدیث کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو میں سمجھتی تھی کہ موت کی سختی کثرت ذنوب کی وجہ سے ہوتی ہے
لیکن آپ ﷺ کی وفات دیکھی تو معلوم ہوا کہ یہ درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ اس لیے میں کسی کے لیے آسانی سے موت کی تمنا نہیں
کرتی۔ واللہ اعلم۔ (مترجم)

باب ۶۶۴۔ بلا عنوان

باب ۶۶۴۔

۸۶۵۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ
آنحضرت ﷺ نے فرمایا: مؤمن جب مرتا ہے تو شدت تکلیف سے اس

۸۶۵۔ حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ نَا يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ عَنِ
الْمُنْثَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ

آبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ
يَمُوتُ بِعَرَقِ الْحَبِيبِينَ

اس باب میں ابن مسعود سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن ہے۔ بعض محدثین کہتے ہیں۔ قتادہ کے عبد اللہ بن بریدہ سے سماع کا ہمیں علم نہیں۔

باب ۶۶۵۔ بلا عنوان

باب ۶۶۵۔

۸۶۶۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ ایک جوان شخص کے پاس تشریف لے گئے وہ قریب المرگ تھا آپ ﷺ نے فرمایا: خود کو کیسا پار ہے ہو؟ عرض کیا: یا رسول اللہ! میں اللہ کی رحمت و مغفرت کا امیدوار ہوں اور اپنے گناہوں کی وجہ سے خوف میں مبتلا ہوں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اگر کسی مؤمن کے دل میں یہ دونوں چیزیں (امید اور خوف) جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی امید کے مطابق عطا کرتے اور اس چیز سے اس کو دور کر دیتے ہیں جس سے وہ ڈرتا ہے۔

۸۶۶۔ حدثنا عبد الله بن ابي زياد و هارون بن عبد الله البزاز البغدادي قالنا نا سيار بن حاتم نا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيَّ شَابًا وَهُوَ بِالْمَوْتِ فَقَالَ كَيْفَ تَحَدُّكَ قَالَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِّي أَرْجُو اللَّهَ وَإِنِّي أَخَافُ ذُنُوبِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا يَرْجُو وَأَمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے۔ بعض راوی یہ حدیث ثابت سے مرسل روایت کرتے ہیں۔ یعنی انسؓ کا ذکر نہیں کرتے۔

باب ۶۶۶۔ کسی کی موت کی خبر کا اعلان کرنے کی کراہت

باب ۶۶۶۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّعْيِ

۸۶۷۔ حضرت خدیفہؓ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا: جب میں مروں تو کسی کو خبر نہ کرنا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ یہ بھی نہیں ہے میں نے آنحضرت ﷺ کو نبی (موت کا اعلان کرنے) سے منع فرماتے ہوئے سنا۔

۸۶۷۔ حدثنا احمد بن منيع نا عبد القدوس بن بكر بن حنيس نا حبيب بن سليمان العباسي عن بلال بن يحيى العباسي عن خديفة قال إذا مت فلا تؤذونوا بي أحدًا فإنني أخاف أن يكون نعيًا وإنني سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينهى عن النعي

یہ حدیث حسن ہے۔

۸۶۸۔ حضرت عبد اللہؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: نبی سے بچو یہ زمانہ جاہلیت کے عملوں میں سے ہے۔ عبد اللہؓ کہتے ہیں نبیؐ کی موت کا اعلان کرنا ہے۔

۸۶۸۔ حدثنا محمد بن حميد الرازي نا حكام بن سلم و هارون بن المغيرة عن عنبسة عن ابي حمزة عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالنَّعْيَ فَإِنَّ النَّعْيَ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَالنَّعْيُ إِذَا نُبِّئَ بِالْمَيِّتِ

اس باب میں خدیفہ سے بھی روایت ہے۔ سعید بن عبد الرحمن مخزومی، عبد اللہ بن ولید عدنی سے وہ سفیان ثوری سے وہ ابو حمزہ سے وہ ابراہیم سے وہ علقمہ سے اور وہ عبد اللہؓ سے اسی کے مثل غیر مرفوع روایت کرتے ہوئے "النعی اذان بالمت" کے الفاظ بیان نہیں کرتے۔

یہ حدیث عنہ سے مروی حدیث سے اسح ہے۔ ابو حمزہ کا نام۔ میمون اور ہے یہ محدثین کے نزدیک قوی نہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں: عبد اللہ کی حدیث غریب ہے۔ بعض علماء نجی کو مکروہ کہتے ہیں اور ان کے نزدیک اس سے مراد یہی ہے کہ کسی کی موت کا اعلان کیا جائے تاکہ لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوں۔ بعض علماء کہتے ہیں: اپنے اقرباء کو خریدنے میں کوئی مضا تقہ نہیں۔ ابراہیم سے بھی یہی مروی ہے۔

باب ۶۶۷۔ ۶۶۷۔ ۶۶۷۔ اصل صبر وہی ہے جو صدمے کے شروع میں ہو۔
۸۶۹۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اصل میں صبر وہی ہے جو صدمہ ہوتے ہی ہو۔

باب ۶۶۷۔ مَا جَاءَ أَنَّ الصَّبْرَ فِي الصَّدْمَةِ الْأُولَى
۸۶۹۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ
عَنْ سَعْدِ بْنِ سَنَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّبْرُ فِي الصَّدْمَةِ الْأُولَى

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث اس سند سے غریب ہے۔

۸۷۰۔ ثابت بنانی، حضرت انسؓ سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: صبر وہی ہے جو مصیبت کے نازل ہوتے ہی ہو۔

۸۷۰۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ
عَنْ شُعْبَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّبْرُ عِنْدَ
صَدْمَةِ الْأُولَى

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حسن صحیح ہے۔

باب ۶۶۸۔ ۶۶۸۔ میت کو بوسہ دینا۔
۸۷۱۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے عثمان بن مظعون کی میت کو بوسہ دیا اس وقت آپ ﷺ رو رہے تھے یا فرمایا: آپ ﷺ کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں۔

باب ۶۶۸۔ مَا جَاءَ فِي تَقْبِيلِ الْمَيِّتِ
۸۷۱۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ
مَهْدِيُّ نَا سَفِيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ الْقَاسِمِ
بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَطْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ وَهُوَ يَبْكِي أَوْ قَالَ
عَيْنَاهُ تَدْرِي فَانَ

اس باب میں ابن عباسؓ، جابرؓ اور عائشہؓ سے بھی روایت ہے۔ یہ سب حضرات کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیقؓ نے آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد آپ ﷺ کا بوسہ لیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں۔ حدیث عائشہؓ حسن صحیح ہے۔

باب ۶۶۹۔ ۶۶۹۔ میت کو غسل دینا۔

۸۷۲۔ حضرت ام عطیہؓ فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی صاحبزادی فوت ہوئیں تو آپ ﷺ نے فرمایا: انہیں طاق اعداد میں تین تہ یا پانچ تہ سے زیادہ مرتبہ غسل دو یعنی اگر مناسب سمجھو تو۔ اور غسل پانی اور بیری کے پتوں سے دو اور آخری مرتبہ اس میں کافور ڈالو۔ یا فرمایا: تھوڑا سا کافور ڈالو۔ پھر جب تم فارغ ہو جاؤ تو مجھے بتا دینا۔ چنانچہ ہم نے فارغ

باب ۶۶۹۔ مَا جَاءَ فِي غَسْلِ الْمَيِّتِ
۸۷۲۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا هِشِيمُ نَا خَالِدُ
وَمَنْصُورٌ وَهَشَامُ فَا مَا أَحْمَدُ وَهَشَامُ فَقَالَ عَنِ مُحَمَّدٍ
وَ حَفْصَةَ وَقَالَ مَنْصُورٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَ
تَوَفَّيْتُ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ اغْسِلْنَهَا وَتَرَا ثَلَاثًا أَوْ حَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ

ہو کر آنحضرت ﷺ کو بتایا تو آپ ﷺ نے اپنی تہ بند ہمیں دی اور فرمایا: کہ اسے ان کے جسم پر لپیٹ دو۔ ہشیم دوسری روایت میں کہتے ہیں کہ (مجھے معلوم نہیں لیکن میرا خیال ہے کہ ہشام بھی انہی میں سے ہیں) ام عطیہؓ فرماتی ہیں: ہم نے ان کے بالوں کی تین چوٹیاں بتائیں۔ ہشیم کہتے ہیں: میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے انہیں پیچھے کی طرف ڈال دیا۔ ہشیم کہتے ہیں پھر خالد نے حصہ اور محمد سے اور انہوں نے ام عطیہ سے روایت کی کہ انہوں نے فرمایا: آنحضرت ﷺ نے ہمیں حکم دیا کہ وضو کے اعضاء اور داہنی جانب سے شروع کریں۔

إِنَّ رَأَيْتَنِي وَأَعْسَلْتَهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَأَجْعَلَنَ فِي الْأَحْرَةِ كَمَا قُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَأْفُورٍ فَإِذَا فَرَعْتَنَ فَأَذِنْتَنِي فَلَمَّا فَرَعْنَا إِذْ نَاهُ فَالْقَى إِلَيْنَا حَقْوَةً فَقَالَ اشْعِرْ نَهَا بِهِ قَالَ هُشَيْمٌ وَفِي حَدِيثٍ غَيْرِ هُوَلَاءِ وَلَا أَدْرِي لَعَلَّ هِشَامًا مِنْهُمْ قَالَتْ وَظَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ قَالَ هُشَيْمٌ أَظَنُّهُ قَالَ فَالْقَيْتُهُ خَلْفَهَا قَالَ هُشَيْمٌ فَحَدَّثَنَا خَالِدٌ مِنْ بَيْنِ الْقَوْمِ عَنْ حَفْصَةَ وَمُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ قَالَتْ وَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَدَّانَ بِمِيَا مِنْهَا وَمَوَاضِعَ الْوُضُوءِ

اس باب میں اسلمہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ام عطیہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر علماء کا عمل ہے۔ ابراہیم نخعی سے مروی ہے کہ غسل میت غسل جنابت ہی کی طرح ہے۔ مالک بن انس فرماتے ہیں کہ میت کے غسل کی کوئی مقررہ حد نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی خاص کیفیت ہے بلکہ مقصد یہی ہے کہ میت پاک ہو جائے۔ شافعی کہتے ہیں: مالک کا یہ قول مجمل ہے کہ میت کو نہلایا اور صاف کیا جائے اگر سادے پانی یا کسی چیز کی ملاوٹ والے پانی سے مقصد حاصل ہو جائے تو کافی ہے۔ لیکن تین مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ غسل دینا میرے نزدیک مستحب ہے۔ چنانچہ تین مرتبہ سے کم نہ کیا جائے کیونکہ آنحضرت ﷺ نے تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ کا حکم دیا۔ اگر اسے اس سے کم تعداد میں پاک صاف کر دیا جائے تو کافی ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے اس حکم سے مراد صاف و پاک کرنا ہے کوئی عدد مقرر کرنا نہیں۔ فقہاء بھی یہی کہتے ہیں اور وہی حدیث کے معانی کو سب سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ امام احمد اور اسحاق کا قول یہ ہے کہ میت کو پانی اور پیری کے پتوں سے غسل دیا جائے اور آخر میں کافور بھی ساتھ ملا یا جائے۔

باب ۶۷۰۔ میت کو مشک لگانا۔

باب ۶۷۰۔ مَا جَاءَ فِي الْمِسْكِ لِلْمَيِّتِ

۸۷۳۔ حضرت ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ سے مشک کے استعمال کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا: یہ تمہاری سب خوشبوؤں سے بہتر ہے۔

۸۷۳۔ حَدَّثَنَا سَفِيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ نَا ابِي عَن شَعْبَةَ عَن خَلِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَن أَبِي نَضْرَةَ عَن أَبِي سَعِيدٍ نَا الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْمِسْكِ فَقَالَ هُوَ أَطْيَبُ طَبِيبِكُمْ

حمود بن غیلان، ابوداؤد اور شایبہ وہ دونوں شعبہ سے اور وہ خلید بن جعفر سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ علماء کا اسی پر عمل ہے۔ احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے جب کہ بعض علماء کے نزدیک میت کو مشک لگانا مکروہ ہے۔ پھر یہ حدیث مستر بن ریان بھی روایت کرتے ہیں وہ ابونضرہ سے وہ ابو سعید سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ علی کہتے ہیں: مستر بن ریان اور خلید بن جعفر دونوں یحییٰ بن سعید کے نزدیک ثقہ ہیں۔

باب ۶۷۱۔ میت کو نہلانے کے بعد خود غسل کرنا۔

باب ۶۷۱۔ مَا جَاءَ فِي الْغُسْلِ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ

۸۷۴۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: میت کو

۸۷۴۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ

ثنا عبدالعزیز بن المختار عن سهیل بن ابی صالح عن
 اَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 مِنْ غُسْلِهِ الْغُسْلُ وَمِنْ حَمَلِهِ الْوُضُوءُ يَعْنِي الْمَيْتَ

اس باب میں علیؑ اور عائشہؓ سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن ہے اور حضرت ابو ہریرہؓ سے موقوفاً بھی مروی ہے۔ علماء کا اسی مسئلے میں اختلاف ہے۔ بعض علماء صحابہ و دیگر علماء کا کہنا ہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد نہانا چاہئے جب کہ بعض کے نزدیک وضو کر لینا ہی کافی ہے۔ امام مالک کہتے ہیں: میت کو نہانے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے واجب نہیں۔ شافعی بھی اسی کے قائل ہیں۔ امام احمد کہتے ہیں: جو میت کو نہلائے میرے خیال میں اس پر غسل واجب نہیں جب کہ وضو کی روایات بہت کم ہیں۔ لیکن اسحاق کے نزدیک وضو کرنا ضروری ہے۔ عبداللہ بن مبارک سے مروی ہے کہ غسل میت کے بعد نہانا یا وضو کرنا ضروری نہیں۔

باب ۶۷۲۔ مَا جَاءَ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْأَكْفَانِ

۸۷۵۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا بَشْرُ بْنُ الْمَفْضَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
 عَثْمَانَ بْنِ حَثِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ
 الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفَّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ

اس باب میں سمرہؓ، ابن مبارکؓ اور عائشہؓ سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں: ابن عباسؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ علماء کے نزدیک یہی مستحب ہے۔ ابن مبارک کہتے ہیں: جن کپڑوں میں وہ نماز پڑھا کرتا تھا ان کپڑوں میں کفن دینا میرے نزدیک مستحب ہے۔ احمد اور اسحاق کا کہنا ہے کہ سفید کپڑے سے غسل دینا سب سے بہتر ہے۔ پھر اچھا کفن دینا مستحب ہے۔

باب ۶۷۳۔ بِلَا عِزْوَانِ

۸۷۶۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ نَا عَمْرُ بْنُ يُونُسَ نَا
 عِكْرَمَةَ بْنِ عِمَارٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
 سَيْرِينَ عَنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَحَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ

اس باب میں جابرؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ابن مبارک، سلام بن مطح سے روایت کرتے ہوئے یہ الفاظ نقل کرتے ہیں: ”ولیحسن احدکم کفن احیہ“ یعنی آنحضرت ﷺ کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ صاف اور سفید کپڑوں کا کفن دیا جائے نہ کہ قیمتی کپڑے کا۔

باب ۶۷۴۔ مَا جَاءَ فِي كَفْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۸۷۷۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثَ عَنْ هِشَامِ
 بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى

۸۷۸۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ کو تین بیٹنی کپڑوں میں کفن دیا گیا نہ ان میں قمیص تھی اور نہ ہی عمامہ۔ راوی کہتے ہیں: اس

پر عائشہ سے ذکر کیا گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں دو کپڑے تھے اور ایک چادر میں لکیریں کھچی ہوئی تھیں۔ فرمانے لگیں: چادر لائی گئی تھی لیکن واپس کر دی گئی اس میں کفن نہیں دیا گیا۔

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بَيْضِ يَمَانِيَةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ قَالَ فَذَكَرُوا لِعَائِشَةَ قَوْلَهُمْ فِي نُؤْبِينَ وَبُرْدٍ جَبْرَةَ فَقَالَتْ قَدْ أُوتِيَ بِالْبُرْدِ وَلَكِنَّمِ رَدُوهُ وَلَمْ يُكْفَنُوهُ فِيهِ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۸۷۸۔ حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حمزہ بن عبد المطلب کو ایک چادر یعنی ایک ہی کپڑے میں کفن دیا۔

۸۷۸۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ نَا بَطْرَ بْنَ السَّرِيِّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَّنَ حَمَزَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فِي نَعْرَطٍ فِي نُوْبٍ وَاحِدٍ

اس باب میں علیؑ، ابن عباسؓ، عبد اللہ بن مغفلؓ اور ابن عمرؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت عائشہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور کفن میں آنحضرت ﷺ کی مختلف روایات ہیں۔ جن میں سے حضرت عائشہؓ کی روایت سب سے زیادہ صحیح ہے۔ اسی پر علماء صحابہ وغیرہ کا عمل ہے۔ سفیان ثوری کہتے ہیں مرد کو تین کپڑوں میں کفن دینا چاہیے ایک قمیص اور دو لفافے۔ اگر چاہے تو تین لفافوں میں ہی کفن دے دے پھر اگر تین کپڑے نہ ہوں تو دو اور دو بھی نہ ہوں تو ایک سے بھی دیا جاسکتا ہے۔ شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ عورت کو پانچ کپڑوں میں غسل دیا جائے۔

باب ۶۷۵۔ اہل میت کا کھانا پکانا۔

۸۷۹۔ حضرت عبد اللہ بن جعفر فرماتے ہیں: جب جعفرؓ کی شہادت کی خبر آئی تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جعفرؓ کے گھر والوں کے لیے کھانا پکاؤ کیونکہ وہ لوگ مشغول ہیں۔

باب ۶۷۵۔ مَا جَاءَ فِي الطَّعَامِ يُصْنَعُ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ
۸۷۹۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَعَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ قَالَا نَا سَفِيَانُ بْنُ عَيِّنَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ جَعْفَرٍ قَالَ لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض علماء اہل میت کے ہاں ایسی چیز بھیجنے کو مستحب کہتے ہیں جس سے ان کی مصیبت کم ہو اور کٹ جائے شافعی کا بھی یہی قول ہے۔ جعفر بن خالد، سارہ کے بیٹے ہیں یہ ثقہ ہیں۔ ان سے ابن جریرؒ کی روایت کرتے ہیں۔

باب ۶۷۶۔ مصیبت کے وقت چہرہ بیٹنا اور گریبان پھاڑنا حرام ہے۔

باب ۶۷۶۔ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الْخُدُودِ وَشَقِّ الْجُيُوبِ عِنْدَ الْمَصِيبَةِ

۸۸۰۔ حضرت عبد اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص رخساروں کو پیٹے، گریبان پھاڑے یا زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی طرح ناشکری کی باتیں کرے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔

۸۸۰۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَفِيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي زَبِيدُ الْإِيْمِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الْجُيُوبَ وَضَرَبَ الْخُدُودَ وَدَعَا بِدَعْوَةِ الْجَاهِلِيَّةِ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۶۷۷۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّوْحِ

۸۸۱۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا قِرَانَ بْنَ تَمَامٍ وَمِرْوَانَ بْنَ مَعَاوِيَةَ وَيَزِيدَ بْنَ هَارُونَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ الطَّائِبِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ الْأَسَدِيِّ قَالَ مَاتَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ قَرْظَةُ بْنُ كَعْبٍ فَنِيحَ عَلَيْهِ فَجَاءَ الْمُغَيَّرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَصَعِدَ الْمَنِيرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ مَا بَالَ النَّوْحُ فِي الْأِسْلَامِ أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ عُذِبَ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ

باب ۶۷۷۔ نوحہ کی حرمت۔

۸۸۱۔ حضرت علی بن ربیعہ اسدی فرماتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص قرظہ بن کعب فوت ہو گئے لوگ اس پر نوحہ کرنے لگے۔ مغیرہ بن شعبہ آئے منبر پر چڑھے اور اللہ کی حمد و ثنائیاں کرنے کے بعد فرمایا: نوحے کا اسلام میں کیا کام ہے۔ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ جس پر نوحہ کیا جاتا ہے اسے عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔

اس باب میں حضرت عمرؓ، علیؓ، ابو موسیٰ، قیس بن عاصم، ابو ہریرہ، جنادہ بن مالک، انسؓ، ام عطیہؓ، سمرہ اور ابو مالک اشعریؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں مغیرہ بن شعبہؓ کی حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

۸۸۲۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: زمانہ جاہلیت کی چار چیزیں ایسی ہیں جنہیں میری امت کے چند لوگ نہیں چھوڑیں گے۔ نوحہ کرنا، نسب پر طعن کرنا، عدوی یعنی یہ اعتقاد رکھنا کہ اونٹ کو کھلی ہوئی تو سب کو ہی ہوگی۔ اگر ایسا ہی ہے تو پہلے اونٹ کو کس سے لگی تھی۔ اور یہ اعتقاد رکھنا کہ بارش ستاروں کی گردش سے ہوتی ہے۔

۸۸۲۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَا ابُو دَاوُدَ نَا شُعْبَةَ وَالْمَسْعُودِيَّ عَنْ عُلُقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَنْ يَدْعَهُنَّ النَّاسُ النَّيَاحَةَ وَالطَّعْنَ فِي الْأَحْسَابِ وَالْعُدْوَى وَاجْرَبَ بَعِيرٌ فَأَجْرَبَ مِائَةٌ بَعِيرٍ مِّنْ أَجْرَبَ الْبَعِيرِ الْأَوَّلِ وَالْأَنْوَاءُ مُطْرُنًا بِنُوءٍ كَذًا وَكَذَا

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۶۷۸۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

۸۸۳۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الزِّيَادِ نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ نَا أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ

باب ۶۷۸۔ کسی کی موت پر بلند آواز سے رونا۔

۸۸۳۔ حضرت سالم بن عبد اللہ اپنے والد سے اور وہ حضرت عمرؓ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میت کے گھر والوں کے بلند آواز سے رونے پر میت کو عذاب ہوتا ہے۔

اس باب میں حضرت لیکن عمرؓ، عمران بن حصینؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت عمرؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ علماء میت پر زور سے رونے کو حرام کہتے ہیں۔ لیکن کہا ہے کہ اگر اس کے گھر والے روئیں تو ان کے رونے سے میت پر عذاب ہوتا ہے۔ یہ حضرات

اسی حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ ابن مبارک کہتے ہیں: اگر وہ خود اپنی زندگی میں انہیں اس سے روکتا رہا اور مرنے سے پہلے منع بھی کیا تو امید ہے کہ اسے عذاب نہیں ہوگا۔

۸۸۴۔ موسیٰ بن ابوموسیٰ اشعری اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کسی میت کے فوت ہونے پر مرنے والے واجملہ (۱) واسیدہ اور اسی طرح کے الفاظ کہہ کر دیا جائے تو میت پر دو فرشتے مقرر کر دیئے جاتے ہیں جو اس کے سینے پر گھونے مارتے اور پوچھتے ہیں کہ تم بھی کیا ایسے ہی تھے؟

۸۸۴۔ حدثنا علی بن حجرنا محمد بن عمار قال حدثنی اسید ابن ابی اسید عن مؤسی ابن ابی مؤسی الأشعری أخبره عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من میت یموت فیقوم بآکیہم فیقول واجبلہ واسیدہ اونحو ذلک الا وکل بہ ملک ان یلہزانیہ اھکذا کنت

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے۔

باب ۶۷۹۔ کسی پر چلائے بغیر رونا جائز ہے۔

باب ۶۷۹۔ ماجاء فی الرخصة فی البكاء علی المیت

۸۸۵۔ حضرت عمرؓ، حضرت عائشہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے سامنے کسی نے ذکر کیا کہ ابن عمرؓ کہتے ہیں: میت زندوں کے رونے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کی جاتی ہے حضرت عائشہؓ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن کی مغفرت فرمائے انہوں نے یقیناً جھوٹ نہیں بولا لیکن یا تو وہ بھول گئے ہیں یا ان سے غلطی ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ ایک یہودی عورت کی میت کے پاس سے گزرے۔ لوگ اس کی موت پر رورہے تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ رورہے ہیں اور اس پر قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔

۸۸۵۔ حدثنا قتیبة نا مالک ح وثنا اسحق بن موسی الانصاری نا معن نا مالک عن عبد اللہ بن ابی بکرو هو ابن محمد بن عمرو بن حزم عن ابیہ عن عمرہ انہا أخبرته انہا سمعت عائشہ و ذکرہا ان ابن عمر یقول ان المیت لیتعذب ببکاء الحی فقالت عائشہ غفر اللہ لابی عبد الرحمن اما انہ لم یكذب ولكنه نسی او اخطا انما مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی یہودیة یسکی علیہا فقال انہم لیسکون وانہا لتعذب فی قبرہا

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۸۸۶۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میت پر اس کے اقرباء کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا: اللہ ان پر رحم فرمائے انہوں نے جھوٹ نہیں گھڑا بلکہ انہیں وہم ہو گیا ہے آنحضرت ﷺ نے یہ بات ایک یہودی کے متعلق فرمائی تھی کہ اس پر عذاب قبر ہو رہا ہے اور اس کے اقرباء اس پر رورہے ہیں۔

۸۸۶۔ حدثنا قتیبة نا عباد بن عباد المہلبی عن محمد بن عمرو عن یحیی بن عبد الرحمن عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المیت یعذب ببکاء اہلہ علیہ فقالت عائشہ یرحمہ اللہ لم یكذب ولكنه وهم انما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیرجل مات یہودیًا ان المیت

(۱) واجملہ، واسیدہ اور اسی جیسے الفاظ اہل عرب زیادہ افسوس کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ (مترجم)

لِيَعْدَبُ وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَسْكُونُ عَلَيْهِ

اس باب میں ابن عباس، قرظ بن کعب، ابو ہریرہ، ابن مسعود اور اسامہ بن زید سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ کی حدیث حسن صحیح ہے اور انہی سے کئی سندوں سے مروی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بھی یہی فرماتے ہیں ولا تنزروا ذرۃ وزر اخروی (کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھاتا)۔ امام شافعی کا بھی یہی قول ہے۔

۸۸۷۔ حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا اور انہیں اپنے صاحبزادے ابراہیم کے پاس لے گئے۔ وہ اس وقت نزع کی حالت میں تھے۔ آپ ﷺ نے انہیں اپنی گود میں لے لیا اور رونے لگے۔ عبد الرحمن نے عرض کیا: آپ ﷺ بھی روتے ہیں؟ کیا آپ ﷺ نے رونے سے منع نہیں کیا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں۔ ہاں البتہ دوبری اور بھدی آوازوں سے منع کیا تھا۔ ایک کسی کے مصیبت کے وقت رونے چہرے کو نوچنے اور کپڑوں کو پھاڑنے اور دوسرے نوحہ کرنے اور شیطان کی طرح چیخنے سے منع کیا تھا۔

۸۸۷۔ حدثنا علي بن خشرم نا عيسى بن يونس عن ابن ابي ليلى عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف فانطلق به الى ابيه ابراهيم فوجده يجود بنفسه فاحذ النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره فبكى فقال له عبد الرحمن ابكي اولم تكن نهيت عن البكاء قال لا ولكن نهيت عن صوتين احققين فاجر بن صوت عند مصيبة خمس وجوه وشق جيوب ورنه شيطان وفي الحديث كلام اكثر من هذا

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔

باب ۶۸۰۔ جنازے کے آگے چلنا۔

۸۸۸۔ حضرت سالم اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ، ابو بکر اور عمر کو جنازے کے آگے چلتے ہوئے دیکھا۔

باب ۶۸۰۔ مَا جَاءَ فِي الْمَشِيِّ أَمَامَ الْجَنَازَةِ

۸۸۸۔ حدثنا قتيبة بن سعيد واحمد بن منيع واسحق بن منصور و محمود بن غيلان قالوا نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابيه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم و ابا بكر و عمر يمشون امام الجنائز

حسن بن علی خلال، عمرو بن عاصم سے وہ ہمام سے وہ منصور، بکر کوئی، زیاد اور سفیان سے یہ سب زہری سے اور وہ سالم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد سے سنا کہ: میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر اور عمر کو جنازے کے آگے چلتے ہوئے دیکھا۔ پھر عبد بن حمید، عبد الرزاق سے وہ معمر سے اور وہ زہری سے بھی روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: آنحضرت ﷺ، ابو بکر اور عمر جنازے کے آگے چلا کرتے تھے اس باب میں انس سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں: ابن جریج، زیاد بن سعد اور کئی راوی زہری سے وہ سالم سے اور وہ اپنے والد ابن عمر کی حدیث کی مانند روایت کرتے ہیں۔ یعنی ابن عیینہ کی حدیث کے ہم معنی۔ معمر، یونس بن یزید اور مالک وغیرہ بھی زہری سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ جنازے کے آگے چلتے تھے۔ تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ اس باب میں مرسل حدیث زیادہ صحیح ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: یحییٰ بن موسیٰ نے عبد الرزاق سے ابن مبارک کے حوالے سے سنا کہ زہری کی مرسل

حدیث ابن عیینہ کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔ ابن مبارک کہتے ہیں: شاید ابن جریج نے یہ روایت ابن عیینہ سے لی ہو۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ہمام بن یحییٰ نے یہ حدیث زیاد بن سعد سے پھر منصور، ابوبکر اور سفیان نے زہری سے انہوں نے سالم سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ہے۔ جب کہ درحقیقت ہمام، سفیان بن عیینہ سے روایت کرتے ہیں۔ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جنازے کے آگے چلنا افضل ہے۔ شافعی اور احمد کا بھی یہی قول ہے۔

۸۸۹۔ حدثنا محمد بن المثنیٰ نا محمد بن بکر نا یونس بن یزید عن الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي أَمَامَ الْحَنَازَةِ وَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ

۸۸۹۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں: آنحضرت ﷺ، ابوبکرؓ، عمرؓ اور عثمانؓ جنازے کے آگے چلا کرتے تھے۔

امام ترمذی کہتے ہیں: میں نے امام بخاری سے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو فرمایا: اس میں محمد بن بکر نے غلطی کی ہے اور یہ حدیث یونس بھی زہری کے حوالے سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ، ابوبکرؓ اور عمرؓ سب جنازے کے آگے چلتے تھے۔ پھر زہری، سالم کے حوالے سے یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے والد بھی جنازے کے آگے چلا کرتے تھے۔ اور یہ صحیح ہے۔

باب ۶۸۱۔ مَا جَاءَ فِي الْمَشِيِّ خَلْفَ الْحَنَازَةِ

باب ۶۸۱۔ جنازے کے پیچھے چلنا۔

۸۹۰۔ حدثنا محمود بن غيلان نا وهب بن جرير عن شعبة عن يحيى امام بنى تميم الله عن ابي ماجد عن عبد الله بن مسعود قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي خلف الحنازة فقال ما دون الحبيب فإن كان خيرا عجلتموه وإن كان شرا فلا تبعوا إلا أهل النار الحنازة متبوعة ولا تتبع ليس منها من تقدمها

۸۹۰۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں: ہم نے آنحضرت ﷺ سے جنازے کے پیچھے چلنے کے متعلق پوچھا تو فرمایا: دوڑنے سے آہستہ چلنا چاہئے۔ چنانچہ اگر وہ نیک ہے تو تم اسے جلدی قبر میں پہنچا دو گے اور اگر وہ بد ہے تو اہل دوزخ ہی کو دور کیا جاتا ہے۔ پھر جنازے کے پیچھے چلنا چاہئے نہ کہ اس کو پیچھے چھوڑنا چاہئے اور جو اس سے آگے چلتا ہے وہ ان کے ساتھ نہیں۔

امام ترمذی کہتے ہیں: اس حدیث کو ہم اس سند سے صرف ابن مسعود ہی کی روایت سے جانتے ہیں۔ امام بخاری ابو ماجد کی اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں۔ مزید کہتے ہیں کہ حمیدی کہتے ہیں کہ ابن عیینہ نے یحییٰ سے ابو ماجد کے متعلق پوچھا تو فرمایا: ایک مجہول الحال شخص ہیں ہم سے روایت کرتے ہیں۔ بعض علماء صحابہ وغیرہ اسی مذہب پر عمل پیرا ہیں کہ جنازے کے پیچھے چلنا افضل ہے۔ ثوری اور اسحاق بھی یہی کہتے ہیں کہ ابو ماجد مجہول ہیں ان کی ابن مسعود سے دو حدیثیں مروی ہیں اور یحییٰ امام بنی تميم اللہ ثقہ ہیں ان کی کنیت ابو حارث ہے۔ انہیں جاہل اور یحییٰ مجہول بھی کہا جاتا ہے یہ کوئی نہیں۔ شعبہ، سفیان، ثوری، ابو احوص اور سفیان بن عیینہ ان سے روایت کرتے ہیں۔

باب ۶۸۲۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الرُّكُوبِ خَلْفَ الْحَنَازَةِ

باب ۶۸۲۔ جنازے کے پیچھے سوار ہو کر چلنا مکروہ ہے۔

۸۹۱۔ حدثنا علي بن حجر نا عيسى بن يونس عن بكر بن ابي مريم عن راشد بن سعد عن ثوبان

۸۹۱۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ ہم آنحضرت ﷺ کے ساتھ ایک جنازے میں گئے آپ ﷺ نے کچھ لوگوں کو سواری پر چلتے ہوئے دیکھا

تو فرمایا: تمہیں شرم نہیں آتی اللہ تعالیٰ کے فرشتے پیدل چل رہے ہیں اور تم سواریوں پر سوار ہو۔

قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةِ فَرَايَ نَاسًا رُكْبَانًا فَقَالَ لَا تَسْتَحْيُونَ إِنِّي مَلَاحِكَةُ اللَّهِ عَلَى أَقْدَامِهِمْ وَأَنْتُمْ عَلَى ظُهُورِ الدَّوَابِّ

اس باب میں مغیرہ بن شعبہ اور جابر بن سمرہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ثوبان کی حدیث انہی سے موقوفاً بھی مروی ہے۔

باب ۶۸۳۔ مَا جَاءَ فِي الرُّحْصَةِ فِي ذَلِكَ

باب ۶۸۳۔ سواری پر سوار ہونے کے جواز سے متعلق

۸۹۲۔ حضرت سماک بن حرب حضرت جابر بن سمرہ سے نقل کرتے ہیں کہ ہم آنحضرت ﷺ کے ساتھ ابن دحداح کے جنازے میں گئے آپ ﷺ اپنے گھوڑے پر سوار تھے۔ جو دوڑتا تھا۔ ہم آپ ﷺ کے ارد گرد تھے۔ آپ ﷺ اسے چھوٹے چھوٹے قدموں سے لیے جا رہے تھے۔

۸۹۲۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَا أَبُو دَاوُدَ نَاشِعَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةِ ابْنِ الدَّحْدَاحِ وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ يَسْعَى وَنَحْنُ حَوْلَهُ وَهُوَ يَتَوَقَّضُ بِهِ

۸۹۳۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ ابن دحداح کے جنازے میں پیدل گئے اور گھوڑے پر واپس تشریف لائے۔

۸۹۳۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَاحِ الْهَاشِمِيُّ نَا ابُو قَتَيْبَةَ عَنِ الْجَرَّاحِ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّبَعَ جَنَازَةَ ابْنِ الدَّحْدَاحِ مَا شِئْنَا وَرَجَعَ عَلَى فَرَسٍ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۶۸۴۔ مَا جَاءَ فِي الْإِسْرَاعِ بِالْجَنَازَةِ

باب ۶۸۴۔ جنازے کو لے کر جلدی چلانا۔

۸۹۴۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے جنازے کو لے کر جلدی چلنے کا حکم دیا۔ اس لیے کہ اگر وہ نیک شخص ہے تو اسے جلد بہتر جگہ پہنچایا جائے، اور اگر برا ہے تو اپنی گردنوں سے جلد بوجھ اتارا جائے۔

۸۹۴۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا ابْنُ عِيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمَسِيْبِ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَسْرَعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنَّ تَكَّ خَيْرًا تَقْدِمُوهَا وَإِنْ تَكَّ شَرًّا تَضَعُوهَا عَنْ رِقَابِكُمْ

اس باب میں ابوبکرہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ابو ہریرہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۶۸۵۔ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ أَحَدٍ وَذِكْرِ حَمَزَةٍ

باب ۶۸۵۔ شہدائے احد اور سیدنا حمزہ کا ذکر۔

۸۹۵۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جنگ احد میں آنحضرت ﷺ حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیئے گئے ہیں۔ فرمایا: اگر صفیہ کے دل پر گراں گزرنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں اسی طرح چھوڑ دیتا یہاں تک کہ انہیں جانور کھا جاتے پھر قیامت کے دن انہیں جانوروں کے پیڑوں سے اٹھایا جاتا۔ راوی کہتے ہیں پھر آنحضرت ﷺ نے چادر

۸۹۵۔ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ نَا ابُو صَفْوَانَ عَنِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَمَزَةٍ يَوْمَ أُحُدٍ فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَرَأَاهُ قَدْ مِثَّلَ بِهِ فَقَالَ لَوْلَا أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةً فِي نَفْسِهَا لَتَرَكْتُهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الْعَافِيَةُ حَتَّى يُحْشَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ بُطُونِهَا قَالَ ثُمَّ دَعَا بِنَمْرَةَ فَكَفَّنَهَا فِيهَا

مگلوئی اور اس میں انہیں کفن دیا۔ وہ چادر بھی ایسی تھی کہ اگر سر پر ڈالی جاتی تو پاؤں نکلے ہو جاتے اور اگر پاؤں ڈھکے جاتے تو سر سے ہٹ جاتی۔ راوی کہتے ہیں: پھر شہید زیادہ ہو گئے اور کپڑے کم پڑ گئے چنانچہ ایک دو اور تین شہیدوں تک کو ایک ہی کپڑے میں کفن دیا گیا اور پھر ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ اس دوران آنحضرت ﷺ ان کے متعلق پوچھتے تھے کہ قرآن زیادہ یاد تھا۔ چنانچہ جس نے زیادہ حفظ کیا ہوتا اسے قبر میں قبلہ کی طرف سے آگے کرتے۔ راوی کہتے ہیں پھر آنحضرت ﷺ نے سب کو دفن کیا اور ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔

فَكَانَتْ إِذَا مَدَّتْ عَلَى رَأْسِهِ بَدَتْ رِجْلَاهُ وَ إِذَا مَدَّتْ عَلَى رِجْلَيْهِ بَدَتْ رَأْسُهُ قَالَ فَكَثُرَ الْقَتْلَى وَقَلَّتِ الشِّيَابُ قَالَ فَكُفِّنَ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ وَالثَلَاثَةُ فِي التُّوبِ الْوَاحِدِ ثُمَّ يُدْفَنُونَ فِي قَبْرِ وَاحِدٍ قَالَ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ عَنْهُمْ أَتَيْتُمْ أَكْثَرَ قُرْآنًا فَيَقْدِمُهُ إِلَى الْقَبِيلَةِ فَقَالَ فَدَفَنَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے انسؓ کی روایت سے جانتے ہیں۔

باب ۶۸۶۔ بَابُ أَحْرَ

باب ۶۸۶۔ دوسرا باب

۸۹۶۔ حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ مریض کی عیادت کرتے، جنازے میں شریک ہوتے، گدھے پر سوار ہوتے اور غلام کی دعوت قبول کیا کرتے تھے۔ بخزیرہ کے فیصلے کے دن بھی آپ ﷺ گدھے پر سوار تھے جس کی لگام کھجور کی چھال کی رسی سے بنی ہوئی تھی اور اس پر زین بھی اس چھال ہی کا تھا۔

۸۹۶۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ نَا عَلِيَّ بْنَ مَسْعُورٍ عَنْ مُسْلِمِ الْأَعْوَرِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُ الْمَرِيضَ وَيَشْهَدُ الْجَنَازَةَ وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْعَبْدِ وَكَانَ يَوْمَ بَنِي قُرَيْظَةَ عَلِيٌّ حِمَارٍ مَخْطُومٍ بِحَبْلِ مِنْ لَيْفٍ عَلَيْهِ إِكَاثٌ لَيْفٌ

امام ترمذی کہتے ہیں: ہم اس حدیث کو صرف مسلم کی روایت سے جانتے ہیں وہ انسؓ سے روایت کرتے ہیں۔ مسلم امور ضعیف ہیں

اور کیسان ملائی کے بیٹے ہیں۔

باب ۶۸۷۔

باب ۶۸۷۔ بلا عنوان۔

۸۹۷۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ جب آنحضرت ﷺ کی وفات ہوئی تو صحابہ میں آپ ﷺ کی تدفین کے متعلق اختلاف پیدا ہو گیا۔ چنانچہ ابو بکرؓ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ سے ایک بات سنی اور کبھی نہیں بھولا کہ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نبی کی روح اسی جگہ قبض کرتے ہیں جس جگہ اس کی تدفین کو پسند کرتے ہیں۔ اس پر آپ ﷺ کو آپ ﷺ کے بستر مبارک کی جگہ ہی دفن کیا گیا۔

۸۹۷۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ نَا أَبُو معاوية عن عبد الرحمن بن ابی بکر عن ابن ابی مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا قَبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَلَفُوا فِي دَفْنِهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَسِيتُهُ قَالَ مَا قَبِضَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ فَدَفَنُوهُ فِي مَوْضِعِ فِرَاشِهِ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے۔ عبدالرحمن بن ابوبکرؓ ملکی حافظے کی وجہ سے ضعیف ہیں اور یہ حدیث کئی سندوں سے

مروی ہے۔ ابن عباسؓ یہ حدیث ابو بکرؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔

باب ۶۸۸۔ بَابُ آخِرُ

باب ۶۸۸۔ دوسرا باب

۸۹۸۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ نَا مَعَاوِيَةَ بْنَ هِشَامٍ عَنْ
عِمْرَانَ بْنِ أَنَسٍ الْمَكِّيِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَذْكَرُوا
مَحَاسِنَ مَوْتَانَا كُمْ وَكُفُّوا عَنْ مَسَاوِيهِمْ

۸۹۸۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اپنے
فوت ہو جانے والوں کی بھلائیاں یاد کیا کرو اور ان کی برائیوں کے ذکر
سے باز رہو۔

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث غریب ہے۔ میں نے امام بخاری سے سنا کہ عمران بن انس کی منکر الحدیث ہیں۔ بعض راوی عطاء
سے بھی حضرت عائشہ کے حوالے سے روایت کرتے ہیں۔ عمران بن انس مصری، عمران بن انس مکی سے زیادہ ثابت اور مقدم ہیں۔

باب ۶۸۹۔ مَا جَاءَ فِي الْجُلُوسِ قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ

باب ۶۸۹۔ جنازہ رکھنے سے پہلے بیٹھنا۔

۸۹۹۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا صَفْوَانَ بْنَ عَيْسَى
عَنْ بَشْرِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلِيمَانَ بْنِ جِنَادَةَ
ابْنِ أَبِي أُمِيَّةٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ
الصَّامِتِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا تَبِعَ الْجَنَائِزَةَ لَمْ يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ
فَعَرَضَ لَهُ جِبْرٌ فَقَالَ هَكَذَا نَضَعُ يَا مُحَمَّدُ فَجَلَسَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ خَالِفُوهُمْ

۸۹۹۔ حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ اگر کسی
جنازے میں ہوتے تو اسے قبر میں اتارنے تک بیٹھتے نہیں تھے چنانچہ
یہودیوں کا ایک عالم آیا اور کہا کہ اے محمد! ہم بھی اسی طرح کرتے
ہیں۔ اس پر آپ ﷺ بیٹھ گئے اور فرمایا: ان کی مخالفت کرو۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے اور بشر بن رافع حدیث میں قوی نہیں۔

باب ۶۹۰۔ فَضْلُ الْمُصِيبَةِ إِذَا احْتَسَبَ

باب ۶۹۰۔ اگر مصیبت پر صبر کیا جائے تو اس کی فضیلت۔

۹۰۰۔ حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ نَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ
عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَنَانَ قَالَ دَفَنْتُ أَبِي
سِنَانًا وَأَبُو طَلْحَةَ الْخَوْلَانِيُّ جَالِسٌ عَلَيَّ شَفِيرَ الْقَبْرِ
فَلَمَّا أَرَدْتُ الْخُرُوجَ أَحَدَ يَدَيَّ فَقَالَ أَلَا أَبَشِّرُكَ يَا
أَبَا سَنَانَ قُلْتُ بَلَى قَالَ حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ ابْنُ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَرَزَبٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ
وَلَدٌ الْعَبْدُ قَالَ اللَّهُ لِمَلَائِكِهِ قَبِضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي
فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيَقُولُ قَبِضْتُمْ نَمْرَةً فُوَادِهِ فَيَقُولُونَ نَعَمْ
فَيَقُولُ مَاذَا قَالَ عَبْدِي فَيَقُولُونَ فَيَقُولُونَ
بِحَمْدِكَ وَاسْتَرْجَعَ فَيَقُولُ اللَّهُ ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي

۹۰۰۔ حضرت ابوسنان فرماتے ہیں میں نے اپنے بیٹے سان کو دفن کیا
تو ابو طلحہ خولانی قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں جب قبر سے نکلنے
لگا تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا: اے ابوسنان کیا میں تمہیں خوشخبری
نہ سناؤں۔ میں نے کہا کیوں نہیں فرمایا: ضحاک بن عبدالرحمن بن
عرب، ابوموسیٰ اشعری سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے
فرمایا: اگر کسی شخص کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے
پوچھتے ہیں کیا تم نے میرے بندے کے بیٹے کی جان لے لی؟ وہ عرض
کرتے ہیں: جی ہاں! اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: تم نے اس کے دل کا ٹکڑا
لے لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: جی ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں
میرے بندے نے کیا کہا؟ عرض کرتے ہیں: آپ کی تعریف بیان کی
اور ”انا لله.....“ الآیۃ پڑھا۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ میرے

الْحَنَّةِ وَسَمُوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ

بندے کے لیے جنت میں گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔

امام ترمذی کہتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۶۹۱۔ مَا جَاءَ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ

۹۰۱۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ

إِبْرَاهِيمَ نَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى

النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا

باب ۶۹۱۔ نماز جنازہ میں تکبیر کہنا۔

۹۰۱۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے نجاشی کی نماز

جنازہ پڑھی اور اس میں چار مرتبہ تکبیر کی۔

اس باب میں ابن عباسؓ، ابن ابی اوفیٰؓ، جابرؓ، انسؓ اور یزید بن ثابتؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: یزید بن ثابتؓ،

یزید بن ثابت کے بڑے بھائی ہیں اور یہ جنگ بدر میں بھی شریک تھے جب کہ یزید اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ امام ترمذی کہتے ہیں:

ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور اکثر علماء اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نماز جنازہ میں چار تکبیریں کی جائیں۔ سفیان

ثوری، مالک بن انس، ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں۔

۹۰۲۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ

نَا شُعْبَةَ عَنِ عَمْرِو بْنِ مَرْوَةَ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي

لَيْلَى قَالَ كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا

وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةِ حُمَسَا فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُهَا

۹۰۲۔ حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ فرماتے ہیں کہ یزید بن ارقم ہمارے

جنازوں کی نماز میں چار تکبیریں کہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے

ایک جنازہ پڑھتے ہوئے پانچ تکبیریں کہیں تو ہم نے ان سے پوچھا:

فرمایا: آنحضرت ﷺ بھی اسی طرح کرتے تھے۔

امام ترمذی کہتے ہیں: یزید بن ارقم کی حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض علماء صحابہ وغیرہ کا یہی مذہب ہے کہ نماز جنازہ میں پانچ تکبیریں

کہے امام احمد اور اسحاق کہتے ہیں کہ اگر امام پانچ تکبیریں کہے تو مقتدی بھی اس کی اتباع کریں۔

باب ۶۹۲۔ مَا يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ

باب ۶۹۲۔ نماز جنازہ کی دعا۔

۹۰۳۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ ثَنَا هَقْلُ بْنُ زِيَادٍ نَا

الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي

أَبُو إِبْرَاهِيمَ الْأَشْهَلِيُّ عَنِ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ قَالَ

”اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَعَائِنَا وَصَغِيرِنَا

وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأَنْثَانَا“ قَالَ يَحْيَى وَحَدَّثَنِي

أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ وَزَادَ ”فِيهِ اللَّهُمَّ مَنْ

أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ

۹۰۳۔ حضرت یحییٰ بن ابوالکثیر، ابوالبراهیم اشہلی سے اور وہ اپنے والد

سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نماز جنازہ میں یہ دعا پڑھا

کرتے تھے۔ ”اللهم اغفر لحينا..... انثانا“۔ تک (ترجمہ: اے

اللہ ہمارے زندوں، موجود لوگوں، غائب لوگوں، چھوٹوں، بڑوں اور

مردوں و عورتوں کی مغفرت فرما۔ یحییٰ بھی ابوسلمہ بن عبدالرحمن سے اور

وہ حضرت ابو ہریرہؓ سے مرفوعاً اسی کی مانند روایت کرتے ہوئے یہ الفاظ

زیادہ نقل کرتے ہیں۔ ”اللهم من.....“ سے حدیث کے آخر تک

(ترجمہ: اے اللہ ہم میں سے جسے زندہ رکھا اے سلام پر زندہ رکھ اور

جسے موت دے اے سے بھی ایمان ہی پر موت دے)۔

عَلَى الْإِيمَانِ“

اس باب میں عبدالرحمن بن عوفؓ، ابوقنادہؓ، عائشہؓ، جابرؓ اور عوف بن مالکؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ ہشام دستوائی اور علی بن مبارک بھی یہ حدیث یحییٰ بن ابی کثیر سے اور وہ ابوسلمہ بن عبدالرحمن سے مسلسل روایت کرتے ہیں۔ عکرمہ بن عمار بھی یحییٰ بن کثیر سے وہ ابوسلمہ بن عبدالرحمن سے وہ حضرت عائشہؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے روایت کرتی ہیں عکرمہ بن عمار کی حدیث غیر محفوظ ہے کیونکہ یہ یحییٰ بن ابی کثیر کی حدیث میں وہم کرتے ہیں۔ یحییٰ بن ابی کثیر یہ حدیث عبداللہ بن قنادہ سے بھی روایت کرتے ہیں وہ اپنے والد سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ امام بخاری کے نزدیک ان تمام روایات میں سے سب سے زیادہ صحیح روایت یحییٰ بن ابی کثیر کی ہے جو ابراہیم اشہلی اپنے والد سے نقل کرتے ہیں۔ میں نے ان سے ابو ابراہیم اشہلی کے متعلق پوچھا تو انہوں نے انہیں نہیں پہچانا۔

۹۰۴۔ حضرت عون بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ کو نماز جنازہ میں دعا پڑھتے ہوئے سنا تو یہ الفاظ یاد کر لیے ”اللهم اغفر..... الخ (ترجمہ: اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اس پر رحم فرما اور اس کے گناہوں کو رحمت کے دلوں سے اس طرح دھو دے جیسے کہ کپڑا دھویا جاتا ہے۔

۹۰۴۔ حدثنا محمد بن بشار نا عبدالرحمن بن مهدى نا معاوية بن صالح عن عبدالرحمن بن جبیر بن نفيير عن أبيه عن عون بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ميت ففهمت من صلوته عليه ”اللهم اغفر له وارحمه واغسله بالبرد كما يغسل الثوب“

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں اس باب میں یہ سب سے زیادہ صحیح روایت ہے۔

باب ۶۹۳۔ مَا جَاءَ فِي الْفِرَاةِ عَلَى الْحَنَازَةِ

بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

۹۰۵۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی۔

۹۰۵۔ حدثنا احمد بن منيع نا زيد بن حباب نا ابراهيم بن عثمان عن الحكم عن مِقْسَمِ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ عَلَى الْحَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

اس باب میں ام شریک سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں اس حدیث کی سند قوی نہیں۔ ابراہیم بن عثمان کی کنیت ابوشیبہ واسطی ہے اور وہ منکر الحدیث ہیں۔ ابن عباسؓ سے بھی روایت صحیح ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے۔

۹۰۶۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ بن عوفؓ فرماتے ہیں کہ ابن عباسؓ نے ایک مرتبہ جنازے کی نماز پڑھی تو اس میں سورہ فاتحہ بھی پڑھی میں نے ان سے اس کے متعلق پوچھا تو فرمایا: یہ سنت ہے۔ یا فرمایا: ”من تمام السنة“ دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔

۹۰۶۔ حدثنا محمد بن بشار نا عبدالرحمن بن مهدى نا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف أن ابن عباس صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقلت له فقال إنه من السنة أو من تمام السنة

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر بعض علماء صحابہ وغیرہ کا عمل ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے۔ شافعی، احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں جب کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے کیونکہ اس میں ثناء، درود شریف اور میت کے لیے دعا ہی ہے۔ یہ ثوری اور اہل کوفہ کا قول ہے۔

توضیح: اہل کوفہ سے مراد حنفیہ ہی ہیں ان کا مسلک تو ذکر ہو چکا چنانچہ یہ حضرات اس حدیث کے متعلق کہتے ہیں کہ اس میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا بطور دعائے تہنہ کہ بطور تلاوت۔ امام طحاوی بھی یہی کہتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ (مترجم)

باب ۶۹۴۔ کَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ وَالشَّفَاعَةُ لَهُ
 ۹۰۷۔ حدثنا ابو كريب نا عبدالله بن المبارك
 ويونس بن بكير عن محمد بن اسحاق عن زيد بن
 ابي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني قال كان
 مالك بن هبيرة اذا صلى على جنازة فتقال للناس
 عليها جزاؤهم ثلثة اجزاء ثم قال قال رسول الله
 صلى الله عليه وسلم من صلى عليه ثلثة صفوف
 فقد اوجب

باب ۶۹۳۔ نماز جنازہ کی کیفیت اور میت کے لیے شفاعت سے متعلق۔
 ۹۰۷۔ حضرت مرثد بن عبد اللہ یزنی فرماتے ہیں کہ مالک بن ہبیرہ
 جب نماز جنازہ پڑھتے تو اگر لوگ کم ہوتے تو ان کی تین صفیں
 کر دیتے پھر فرماتے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس پر تین صفوں
 نے نماز پڑھی اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔

اس باب میں عائشہؓ، ام حبیبہؓ، ابو ہریرہؓ اور میمونہؓ (آنحضرت ﷺ کی بیوی) سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن ہے۔ کئی راوی ابواسحاق سے اسی طرح روایت کرتے ہیں۔ ابراہیم بن سعد بھی محمد بن اسحاق سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں۔ اور مرثد اور مالک کے درمیان ایک اور شخص کا ذکر کرتے ہیں۔ جب کہ پہلی والی روایت ہمارے نزدیک زیادہ صحیح ہے۔

۹۰۸۔ حدثنا ابن ابی عمر نا عبد الوهاب الثقفي
 عن ايوب ح وثنا احمد بن منيع وعلی بن حجر
 قالنا اسمعيل بن ابراهيم عن ايوب عن ابی قلابه
 عن عبد الله بن يزيد رضيع كان لعائشة عن عائشة
 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت احد
 من المسلمين فيصلي عليه امة من المسلمين يبلغوا
 ان يكونوا مائة فيشفعوا له الا شفّعوا فيه وقال علي
 في حديثه مائة فما فوقها

۹۰۸۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مسلمانوں
 میں سے کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کی وفات کے بعد نماز جنازہ میں
 مسلمانوں کی ایک جماعت جس کی تعداد سو تک ہو، وہ سب اس کے
 لیے شفاعت کریں اور ان کی شفاعت قبول نہ کی جائے۔ علیؓ اپنی نقل
 کردہ حدیث میں کہتے ہیں۔ کہ ان کی تعداد سو یا اس سے زیادہ ہو۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض اسے موقوف روایت کرتے ہیں۔

باب ۶۹۵۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزَةِ
 عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا
 ۹۰۹۔ حدثنا هناد نا وكيع عن موسى بن علي بن

باب ۶۹۵۔ طلوع آفتاب اور غروب کے وقت نماز جنازہ پڑھنا مکروہ
 ہے۔
 ۹۰۹۔ حضرت عقبہ بن عامر چینیؓ فرماتے ہیں کہ تین وقت ایسے ہیں کہ

رسول اللہ ﷺ ہمیں ان اوقات میں نماز پڑھنے اور مردوں کو دفن کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ طلوع آفتاب کے وقت یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے۔ پھر دوپہر کو جب سورج سر پر آجائے۔ یہاں تک کہ زوال کا وقت ہو جائے۔ اور آخر میں غروب آفتاب کے وقت جب سورج غروب ہونے کے لیے جھک جائے یہاں تک کہ غروب ہو جائے۔

رَبَاحٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ قَالَ ثَلَاثَ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتًا نَاجِحِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَارِعَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمِ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ وَحِينَ تَضَيِّفُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض علماء صحابہ وغیرہ کا اسی پر عمل ہے کہ ان اوقات میں نماز جنازہ مکروہ ہے۔ ابن مبارک کہتے ہیں کہ مردوں کی تدفین سے ان اوقات میں منع کرنے کا مطلب یہی ہے کہ نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ ان کے نزدیک ان اوقات میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے یعنی طلوع آفتاب، غروب آفتاب اور ٹھیک دوپہر کے وقت احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں: ان اوقات میں نمازہ جنازہ پڑھنا مکروہ نہیں۔

باب ۶۹۶۔ بچوں کی نماز جنازہ

باب ۶۹۶۔ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْأَطْفَالِ

۹۱۰۔ حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جنازے کے ساتھ چلنے والا سوار جنازے کے پیچھے اور پیدل چلنے والا جہاں جی چاہے وہاں چلے اور بچوں کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے۔

۹۱۰۔ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ أَدَمَ بْنِ بِنْتِ أَزْهَرَ السَّمَانِ نَا اسْمَعِيلَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ نَا أَبِي عَنِ زِيَادِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّكْبُ خَلْفَ الْجَنَائِزَةِ وَالْمَاشِي حَيْثُ يَشَاءُ مِنْهَا وَالطِّفْلُ يُصَلِّي عَلَيْهِ

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسرائیل اور کئی راوی یہ حدیث سعید بن عبید اللہ سے روایت کرتے ہیں بعض علماء صحابہ وغیرہ اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بچے پر نماز جنازہ پڑھی جائے اگرچہ وہ پیدا ہونے کے بعد رویا بھی نہ ہو۔ صرف اس کی شکل ہی بنی ہو۔ احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

باب ۶۹۷۔ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى الطِّفْلِ حَتَّى يَسْتَهْلَ

باب ۶۹۷۔ اگر بچہ پیدائش کے بعد رویا نہ ہو تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔

۹۱۱۔ حَدَّثَنَا أَبُو عَمَارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ نَا مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اسْمَعِيلَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ مَسْلَمَ عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطِّفْلُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهِ وَلَا يَرْتُّ وَلَا يُورَثُ حَتَّى يَسْتَهْلَ

۹۱۱۔ حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بچہ جب تک پیدائش کے بعد روئے نہیں اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے نیز اس صورت میں نہ وہ کسی کا وارث ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی وارث۔

امام ترمذی کہتے ہیں: اس حدیث میں اضطراب ہے۔ بعض راوی اسے ابو زبیر سے وہ جابر سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں جب کہ اشعث بن سوار اور کئی راوی حضرت جابر سے موقوفاً انہی کا قول روایت کرتے ہیں اور یہ مرفوع حدیث کے مقابلے میں صحیح ہے بعض علماء کا بھی مسلک ہے کہ بچہ اگر پیدائش کے بعد روئے نہیں تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ ثوری اور شافعی کا بھی یہی قول ہے۔

باب ۶۹۸۔ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ
 ۹۱۲۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ نَا عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدِ
 اب ۶۹۸۔ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا
 ۹۱۲۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ نے سہیل بن بیضاء کی
 نماز جنازہ مسجد میں پڑھی۔
 ابن عبد الواحد بن حمزة عن عباد بن عبد الله بن
 الزبير عن عائشة قالت صليت رسول الله صلى الله
 عليه وسلم على سهيل بن البيضاء في المسجد.

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن ہے اور بعض علماء کا اسی پر عمل ہے۔ شافعی کہتے ہیں: مالک کا کہنا ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ نہ پڑھی جائے جب کہ شافعی اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے اس کی اجازت دیتے ہیں۔

مسئلہ: مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کو حنفیہ مکروہ کہتے ہیں۔ یہ حضرات، حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے نجاشی کی نماز جنازہ مسجد سے نکل کر پڑھائی باوجودیکہ میت موجود بھی نہیں تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں۔

جہاں تک حدیث باب کا تعلق ہے یہ ایک خاص واقعہ ہے لہذا اس سے استدلال جائز نہیں کیونکہ ممکن ہے کہ آنحضرت ﷺ اس وقت اعتکاف میں ہوں یا بارش ہو رہی ہو اس وجہ سے مسجد میں نماز پڑھی ہو۔ چنانچہ صاحب الحیاط کہتے ہیں: آنحضرت ﷺ اس وقت متکلف تھے لہذا آپ ﷺ کا مسجد سے نکلنا ممکن نہیں تھا۔ اس لیے آپ ﷺ نے جنازے کو مسجد سے باہر رکھنے کا حکم دیا اور اسی عذر کی وجہ سے مسجد میں نماز جنازہ پڑھائی۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۶۹۹۔ مَا جَاءَ آيِنَ يَقُومُ الْإِمَامُ مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ
 ۹۱۳۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَنِيعٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ
 اب ۶۹۹۔ مرد اور عورت کی نماز جنازہ میں امام کہاں کھڑا ہو۔
 ۹۱۳۔ حضرت ابو غالب فرماتے ہیں کہ میں نے انس بن مالکؓ کے
 ساتھ ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھی وہ اس کے سر کے مقابل کھڑے
 ہوئے پھر ایک قریشی عورت کا جنازہ لایا گیا اور ان سے کہا گیا: اے
 ابو حمزہ اس کی نماز جنازہ پڑھائیے۔ چنانچہ وہ میت کے وسط کے مقابل
 کھڑے ہوئے۔ اس پر علماء بن زیاد نے ان سے پوچھا کیا آپ نے
 آنحضرت ﷺ کو مرد اور عورت کا نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے اسی جگہ
 کھڑے ہوتے دیکھا ہے۔ جہاں کھڑے ہوئے۔ فرمایا: ہاں۔
 پھر جب فارغ ہو گئے تو فرمایا: یاد رکھنا۔
 عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي غَالِبٍ قَالَ صَلَّى مَعَ أَنَسِ بْنِ
 مَالِكٍ عَلَى جَنَازَةِ رَجُلٍ فَقَامَ حَيَالُ رَأْسِهِ ثُمَّ جَاءَ وَابِ
 بِجَنَازَةِ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالُوا يَا أَبَا حَمْزَةَ صَلِّ
 عَلَيْهَا فَقَامَ حَيَالٌ وَسَطِ السَّرِيرِ فَقَالَ لَهُ الْعَلَاءُ بِنُ
 زِيَادٍ هَكَذَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَامَ عَلَى الْجَنَازَةِ مَقَامَكَ مِنْهَا وَمِنَ الرَّجُلِ مَقَامَكَ
 مِنْهُ قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ احْفَظُوا

اس باب میں سمرہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: انسؓ کی حدیث حسن ہے۔ کئی راوی حمام سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ اور کبھی یہ حدیث ہمام سے روایت کرتے ہوئے وہم کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ اپنی روایت میں کہتے ہیں کہ غالب سے روایت ہے۔ جب کہ صحیح ابو غالب ہے۔ پھر عبدالوارث بن سعد اور کئی راوی بھی یہ حدیث ابو غالب سے ہمام ہی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ ابو غالب کے نام میں اختلاف ہے۔ بعض نافع اور بعض رافع کہتے ہیں بعض علماء کا اسی حدیث پر عمل ہے۔ احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

۹۱۴۔ حدثنا علي بن حجرنا ابن المبارك والفضل بن موسى عن الحسين المعلم عن عبدالله بن بُرَيْدَةَ عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَيَّ عَلَى امْرَأَةٍ فَقَامَ وَسَطَهَا

۹۱۳۔ حضرت سرہ بن جندب فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ایک عورت کی نماز جنازہ پڑھی تو جنازے کے وسط میں کھڑے ہوئے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ شعبہ بھی حسین معلم سے اسے روایت کرتے ہیں۔

مسئلہ: امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک امام مرد و عورت دونوں کے سینے کے مقابل کھڑا ہوگا اس لیے کہ دل سینے میں ہوتا ہے۔ اور دل ہی میں ایمان کا نور ہے چنانچہ اس کے سامنے کھڑا ہونے میں اس کے ایمان کی شفاعت کی طرف اشارہ ہے۔ احناف دلیل کے طور پر سرہ بن جندبؓ کی حدیث پیش کرتے ہیں جو امام طحاوی نے ذکر کی ہے کہ میں نے آنحضرت ﷺ کے پیچھے ام کعب کی نماز جنازہ پڑھی۔ آپ ﷺ ان کے وسط میں کھڑے ہوئے۔ لہذا اس سے یہ ظاہر ہوا کہ آپ ﷺ ان کے سینے کے مقابل کھڑے ہوئے کیونکہ سینہ ہی وسط ہے اس لیے کہ اس کے اوپر دو ہاتھ اور نیچے دو پاؤں ہیں۔

جہاں تک حضرت انسؓ کی حدیث کا تعلق ہے اس کے متعلق احناف کا موقف یہ ہے کہ یہ حکم اصل نہیں تھا کیونکہ احتمال ہے کہ جنازہ مکمل طور پر ڈھکا ہوا نہ ہو جس کی وجہ سے انسؓ تھوڑا ہٹ کر کھڑے ہوئے ہوں کیونکہ بعض روایات میں انسؓ سے مروی ہے کہ میں اس طرح اس لیے کھڑا ہوا تاکہ اس عورت کے درمیان حائل ہو جاؤں۔

باب ۷۰۰۔ شہید کی نماز جنازہ نہ پڑھنا۔

۹۱۵۔ حضرت عبدالرحمن بن کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ جابر بن عبد اللہ نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ شہدائے اُحد میں سے دو دو آدمیوں کو ایک ایک کپڑے میں کفن دینے کے بعد پوچھتے ان دونوں میں سے کون زیادہ قرآن کا حافظ ہے پھر جب بتایا جاتا تو قبر میں اسے آگے کی طرف رکھتے اور فرماتے: میں قیامت کے دن ان سب کا گواہ ہوں۔ آپ ﷺ نے ان سب کو ان کے خون سمیت دفن کرنے کا حکم دیا۔ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی اور نہ ہی انہیں غسل دیا گیا۔

باب ۷۰۰۔ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ

۹۱۵۔ حدثنا قتيبة ابن سعيد نا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله أخبره أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي الثُّوبِ الْوَاحِدِ ثُمَّ يَقُولُ أَيُّهُمَا أَكْفَرُ حِفْظًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَ فِي اللَّحْدِ فَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَوْلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغْسَلُوا

اس باب میں انسؓ بن مالک سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: جابرؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور زہری سے بحوالہ انسؓ مرفوعاً مروی ہے زہری، عبد اللہ بن ثعلبہ بن ابوصیر سے اور وہ حضور اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ جب کہ کچھ راوی جابر سے بھی روایت کرتے ہیں۔ علماء کا شہید کی نماز جنازہ پڑھنے میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ شہداء کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے۔ اہل مدینہ، امام شافعی اور احمد کا یہی قول ہے جب کہ بعض کا کہنا ہے کہ ان کی بھی نماز پڑھی جائے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حمزہؓ کی نماز جنازہ پڑھی۔ سخیان ثوری، اہل کوفہ اور اسحاق کا یہی قول ہے۔

باب ۷۰۱۔ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ

۹۱۶۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا هَشِيمَ أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَى قَبْرًا مُنْتَبِذًا فَصَفَّ أَصْحَابُهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَقِيلَ لَهُ مَنْ أَخْبَرَكَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ

باب ۷۰۱۔ قبر پر نماز جنازہ پڑھنا۔

۹۱۶۔ شعیبی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو دیکھنے والے نے مجھے خبر دی کہ آنحضرت ﷺ نے (مجھے اس نے خبر دی جس نے رسول اللہ ﷺ ایک قبر کو جو دور افتادہ تھی دیکھا تو آپ ﷺ کے اصحاب نے صف باندھی اور اس قبر پر نماز جنازہ پڑھی۔ شعیبی سے پوچھا گیا وہ کون ہے جس نے آپ کو یہ واقعہ سنایا؟ فرمایا: ابن عباس۔

اس باب میں انسؓ، بريدہؓ، يزيد بن ثابتؓ، ابو هريرهؓ، عامر بن ربيعہؓ، ابو قتادہؓ اور سہل بن حنیفؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ابن عباس کی حدیث حسن صحیح ہے اور اکثر علماء صحابہ، شافعی، احمد اور اسحاق کا یہی قول ہے۔ جب کہ بعض علماء جن میں مالک بھی شامل ہیں کہتے ہیں کہ قبر پر نماز نہ پڑھے۔ اسحاق کا قول یہ ہے کہ اگر بغیر نماز جنازہ پڑھے دن کر دیا گیا ہو تو اس صورت میں قبر پر نماز پڑھی جاسکتی ہے اس لیے کہ ہم نے سعید بن مسیب سے اکثر سنا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ام سعد بن عبادہ کی قبر پر ایک مہینے کے بعد نماز پڑھی۔

۹۱۷۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَائِبٌ فَلَمَّا قَدِمَ صَلَّى عَلَيْهَا وَقَدْ مَضَى لِدَالِكَ شَهْرٌ

۹۱۷۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ ام سعد، آنحضرت ﷺ کی غیر موجودگی میں فوت ہو گئیں۔ پھر جب آپ ﷺ واپس تشریف لائے تو ان کی نماز جنازہ پڑھی جب کہ ان کی وفات کو ایک ماہ ہو گیا تھا۔

باب ۷۰۲۔ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّجَاشِيِّ

۹۱۸۔ حَدَّثَنَا أَبُو سَلْمَةَ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَلْفٍ وَحَمِيدُ بْنُ مَسْعُودَةَ قَالَا نَا بَشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ نَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرِ بْنِ عَنُ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَاكُمُ النَّجَاشِيِّ قَدِمَاتِ فِقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ قَالَ فِقُومْنَا فَصَفَّفْنَا كَمَا يُصَفِّ عَلَى الْمَيِّتِ وَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ كَمَا يُصَلِّي عَلَى الْمَيِّتِ

باب ۷۰۲۔ آنحضرت ﷺ کا نجاشی کی نماز جنازہ پڑھنا۔

۹۱۸۔ حضرت عمران بن حصینؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہم سے فرمایا: تمہارے بھائی نجاشی فوت ہو گئے ہیں۔ چلو اٹھو اور ان کی نماز جنازہ پڑھو۔ راوی کہتے ہیں ہم کھڑے ہوئے اور جس طرح نماز جنازہ میں صفیں بنائی جاتی ہیں اسی طرح صفیں بنائیں اور نماز جنازہ پڑھی جیسے کسی میت پر پڑھی جاتی ہے۔

اس باب میں ابو هريرهؓ، جابر بن عبد اللہؓ، حذیفہ بن اسیدؓ اور جریر بن عبد اللہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔ ابو قتادہ بھی یہ حدیث اپنے چچا ابو مہلب سے اور وہ عمران بن حصین سے روایت کرتے ہیں۔ ابو مہلب کا نام عبد الرحمن بن عمرو ہے انہیں معاویہ بن عمرو بھی کہتے ہیں۔

مسئلہ: احتاف اور مالکیہ کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں کیونکہ حضور ﷺ اور خلفائے راشدین کے زمانے میں بہت سے کبار صحابہ کا دوسرے شہروں اور جگہوں وغیرہ میں انتقال ہوا۔ لیکن ان میں سے ایک دو کے علاوہ کسی پر نماز جنازہ پڑھنا ثابت نہیں۔ پھر نماز جنازہ کے لیے میت کا موجود ہونا بھی ضروری ہے۔ جہاں تک نجاشی کی نماز جنازہ کا تعلق ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایسی جگہ رہتے تھے جہاں ان کی نماز جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں

تھا۔ اس لیے آپ ﷺ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کے وقت حضور ﷺ کے سامنے نجاشی کو کشف کر دیا گیا تھا۔ اور آپ ﷺ انہیں دیکھ رہے تھے یا ممکن ہے کہ روح آپ ﷺ کے سامنے لائی گئی ہو۔ چنانچہ یہ آپ ﷺ ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۷۰۳۔ نماز جنازہ کی فضیلت

۹۱۹۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص نماز جنازہ پڑھے اس کے لیے ایک قیراط ثواب ہے۔ اور جو میت کے دفن ہونے تک جنازے کے ساتھ رہے اس کے لیے دو قیراط۔ جن میں سے ایک یا فرمایا: ان دونوں میں سے چھوٹا قیراط اُحد پہاڑ کے برابر ہے۔ راوی کہتے ہیں میں نے اس حدیث کا ابن عمرؓ کے سامنے تذکرہ کیا تو انہوں نے حضرت عائشہؓ سے پچھوایا۔ فرمانے لگیں: ابو ہریرہؓ نے سچ کہا ہے۔ اس پر ابن عمرؓ نے فرمایا: ہم نے تو بہت سے قیراطوں کا نقصان کر دیا۔

باب ۷۰۳۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزَةِ
۹۱۹۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ نَا عَبْدَةَ بِنَ سَلِيمَانَ عَنِ
مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو نَا أَبُو سَلَمَةَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ
الْجَنَائِزَةَ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى يُقْضَى دَفْنُهَا فَلَهُ
قِيرَاطَانِ أَحَدُهُمَا أَوْ أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أَحَدٍ فَذَكَرْتُ
ذَلِكَ لِابْنِ عُمَرَ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ عَائِشَةُ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ
فَقَالَتْ صَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَقَدْ فَرَطْنَا
فِي قِرَارِ بَطْنِ كَثِيرَةٍ

اس باب میں براءؓ، عبد اللہ بن مغفلؓ، عبد اللہ بن مسعودؓ، ابوسعیدؓ، ابی بن کعبؓ، ابن عمرؓ اور عثمانؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابو ہریرہؓ ہی سے کئی سندوں سے مروی ہے۔

باب ۷۰۴۔ دوسرا باب

۹۲۰۔ ابو مہزم فرماتے ہیں: میں دس سال تک ابو ہریرہؓ کے ساتھ رہا۔ میں نے ان سے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو جنازے کے ساتھ چلا اور اسے تین مرتبہ کندھا دیا۔ اس نے اس کا حق ادا کر دیا۔

باب ۷۰۴۔ بَابُ آخَرُ
۹۲۰۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا رُوحُ بْنُ عَبَادَةَ نَا
عَبَادُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمُهَزَّمِ يَقُولُ
صَحِبْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَشْرَ سِنِينَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ
تَبِعَ جَنَائِزَةً وَحَمَلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ
مِنْ حَقِّهَا

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے بعض راوی یہ حدیث اسی سند سے غیر مرفوع روایت کرتے ہیں۔ ابو مہزم کا نام یزید بن سفیان ہے۔ شعبہ انہیں ضعیف کہتے ہیں۔

باب ۷۰۵۔ جنازہ دیکھ کر کھڑے ہونا۔

۹۲۱۔ حضرت عامر بن ربیعہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو، یہاں تک کہ وہ گزر جائے یا رکھ دیا جائے۔

باب ۷۰۵۔ مَا جَاءَ فِي الْقِيَامِ لِلْجَنَائِزَةِ

۹۲۱۔ حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ نَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنِ
سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ أَبِيهِ عَنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَائِزَةَ
فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تَوْضَعَ

اس باب میں ابوسعیدؓ، جابر بن سمیل بن حنیف، قیس بن سعد اور ابو ہریرہؓ سے روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں عامر بن ربیعہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔

۹۲۲۔ حضرت ابوسعیدؓ ترمذی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ۔ اور جو جنازے کے ساتھ ہو وہ جنازہ کندھوں سے اتارنے سے پہلے ہرگز نہ بیٹھے۔

۹۲۲۔ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَوَانِيُّ قَالَا نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ نَا هِشَامُ الدِّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نَا الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَاقْبُوا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدَنَّ حَتَّى تُوَضَعَ

امام ترمذی کہتے ہیں۔ اس باب میں ابوسعیدؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ احمد اور اسحاق کا یہی قول ہے کہ جنازے کے ساتھ آنے والا شخص اس کے نیچے رکھ جانے تک نہ بیٹھے۔ بعض صحابہ وغیرہ سے مروی ہے کہ وہ جنازے کے آگے آگے چلتے تھے اور جنازے کے ان تک پہنچنے تک بیٹھے رہتے تھے۔ امام شافعی کا بھی یہی قول ہے۔

باب ۷۰۶۔ جنازہ دیکھ کر کھڑے نہ ہونے کے متعلق۔

باب ۷۰۶۔ فِي الرُّحْصَةِ فِي تَرْكِ الْقِيَامِ

۹۲۳۔ حضرت علی بن ابی طالبؓ سے منقول ہے کہ انہوں نے جنازے کی آمد پر اس کے رکھے جانے تک کھڑے رہنے کا ذکر کیا تو فرمایا: آنحضرت ﷺ شروع میں کھڑے ہوا کرتے تھے پھر بیٹھنے لگے۔

۹۲۳۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ عَنْ وَاقِدٍ وَهَوَابْنِ عَمْرٍو بْنِ سَعْدِ بْنِ مَعَاذٍ عَنْ نَافِعِ ابْنِ جَبْرِ عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ ذَكَرَ الْقِيَامَ فِي الْجَنَائِزِ حَتَّى تُوَضَعَ فَقَالَ عَلِيُّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَعَدَ

اس باب میں حسن بن علیؓ اور ابن عباسؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں تابعین سے چار روایتیں ہیں۔ جو ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں۔ اس پر بعض علماء کا عمل ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں یہ حدیث اس باب میں اصح ہے اور پہلی حدیث کو منسوخ کرتی ہے جس میں جنازے کی آمد پر کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ امام احمد کہتے ہیں: اگر چاہے تو کھڑا ہو ورنہ بیٹھا رہے۔ کیونکہ آپ ﷺ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ شروع میں کھڑے ہوا کرتے تھے لیکن بعد میں بیٹھے رہتے تھے۔ اسحاق بھی اسی طرح کہتے ہیں۔

حضرت علیؓ کی حدیث کا مطلب یہی ہے کہ آپ ﷺ شروع شروع میں جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن بعد میں کھڑا ہونا ترک کر دیا۔ چنانچہ جب جنازہ دیکھتے تو بیٹھے رہتے تھے۔

باب ۷۰۷۔ آنحضرت ﷺ کا فرمان کہ لحد ہمارے لیے اور شق اوروں کے لیے ہے۔

باب ۷۰۷۔ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لغيرِنَا

۹۲۴۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لحد ہمارے لیے ہے اور شق ہمارے علاوہ لوگوں کے لیے۔

۹۲۴۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيْبٍ وَنَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُوفِيُّ وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ الْبَغْدَادِيُّ قَالُوا

نا حکام بن مسلم عن علی بن عبدالاعلی عن ابیه
عن سعید بن جبیر عن ابی عباس قال قال النبی
صلی اللہ علیہ وسلم اللحد لنا و الشق لغيرنا

اس باب میں جریر بن عبداللہ، عائشہ، ابن عمر اور جاہل سے بھی روایت ہے۔

توضیح: لحد قبر کو سیدھا کھودنے کے بعد نیچے سے ایک جانب کو کھودنے کو کہتے ہیں جب کہ سیدھا نیچے ہی کی طرف کھودنے کو شق کہتے ہیں۔ ان دونوں طریقوں سے قبر کھودنا جائز ہے لیکن اگر زمین سخت ہو تو لحد افضل ہے۔ جب کہ زمین نرم ہونے کی صورت میں شق افضل ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۷۰۸۔ میت کی تدفین کے وقت کیا پڑھا جائے۔

باب ۷۰۸۔ مَا جَاءَ مَا يَقُولُ إِذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتُ قَبْرَهُ

۹۲۵۔ حدثنا ابو سعید الاشج نا ابو خالد
الاحمر نا الحجاج عن نافع عن ابن عمر ان
النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدخل الميت القبر
قال وقال أبو خالد مرة إذا وضع الميت في
لحديه قال مرة بسم الله وبالله وعلى ملة رسول
الله وقال مرة بسم الله وبالله على سنة رسول
الله صلى الله عليه وسلم

۹۲۵۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب میت قبر میں رکھتے۔ راوی کہتے ہیں کہ ابو خالد کی روایت میں یہ الفاظ ہیں: جب میت لحد میں رکھی جاتی تو یہ دعا پڑھتے۔ ”بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله“۔ (ترجمہ: ہم اس میت کو اللہ کے نام کے ساتھ اسی کے حکم کے مطابق اور رسول اللہ ﷺ کی شریعت پر قبر میں اتارتے ہیں) ابو خالد نے ایک اور مرتبہ فرمایا کہ آپ ﷺ نے یہ دعا پڑھی۔ ”بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله“ (ترجمہ: اور رسول اللہ ﷺ کی سنت پر قبر میں اتارتے ہیں)۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث اسی سند سے حسن غریب ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی کئی سندوں سے ابن عمر سے مروی ہے وہ آنحضرت ﷺ سے روایت کرتے ہیں ابو صدیق ناجی بھی یہ حدیث ابن عمر سے مروی روایت کرتے ہیں۔ پھر ابو بکر صدیق کے واسطے سے بھی ابن عمر سے موقوفاً مروی ہے۔

باب ۷۰۹۔ قبر میں میت کے نیچے کپڑا بچھانا۔

باب ۷۰۹۔ مَا جَاءَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ يُلْفَى تَحْتَ

الْمَيِّتِ فِي الْقَبْرِ

۹۲۶۔ حدثنا زيد بن اخزم الطائي نا عثمان بن فرقد
قال سمعت جعفر بن محمد عن ابیه قال الذي الحد
قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة والذی
ألقى القطيفة تحته شقران مولى لرسول الله صلى الله
عليه وسلم قال جعفر وأخبرني ابن أبي رافع قال
سمعت شقران يقول أنا والله طرحت القطيفة تحت
رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر

۹۲۶۔ محمد کہتے ہیں کہ ابو طلحہ نے آنحضرت ﷺ کی قبر کھودی اور شقران نے اس میں آپ ﷺ کے نیچے چادر بچھائی۔ یہ آنحضرت ﷺ کے مولا ہیں۔ جعفر کہتے ہیں: مجھے ابن ابی رافع نے بتایا کہ میں نے شقران کو یہ کہتے ہوئے سنا: اللہ کی قسم میں نے ہی آنحضرت ﷺ کی قبر میں آپ ﷺ کے نیچے چادر بچھائی تھی۔

اس باب میں ابن عباسؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن غریب ہے۔ علی بن مدینی بھی یہ حدیث عثمان بن فرقد سے روایت کرتے ہیں۔

۹۲۷۔ حدثنا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد عن
شعبة عن أبي حمزة عن ابن عباس قال جعل في قبر
رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء

۹۲۷۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ کی قبر مبارک میں
سرخ چادر بچھائی گئی۔

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور شعبہ سے بھی مروی ہے شعبہ، ابو حمزہ قصاب (عمران بن عطاء) سے روایت کرتے
ہیں۔ یہی حدیث ابو حمزہ صہمی سے بھی مروی ہے ان کا نام نصر بن عمران ہے۔ اور دونوں ہی ابن عباسؓ کے دوستوں میں سے ہیں۔
ابن عباسؓ سے یہ بھی مروی ہے کہ قبر میں چادر بچھانا مکروہ ہے۔ بعض علماء کا بھی یہی مذہب ہے۔ ایک اور جگہ محمد بن بشار، محمد بن جعفر
اور یحییٰ سے وہ شعبہ سے وہ ابو حمزہ قصاب سے اور وہ ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں۔ اور یہ روایت زیادہ صحیح ہے۔

باب ۷۱۰۔ مَا جَاءَ فِي تَسْوِيَةِ الْقَبْرِ

باب ۷۱۰۔ قبروں کو زمین کے برابر کرنا۔

۹۲۸۔ حدثنا محمد بن بشار نا عبدالرحمن بن
مهدي نا سفیان عن حبيب ابن أبي ثابت عن
أبي وإيل أن علياً قال لأبي الهيثم الأسدي أبعثك
علي ما بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تدع
قبراً مشرقاً إلا سويته ولا تمثلاً إلا طمسته

۹۲۸۔ حضرت ابو داؤد فرماتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے ابو ہيثم اسدی
سے فرمایا: میں تمہیں اس کام کے لیے بھیج رہا ہوں۔ جس کام کے لیے
آنحضرت ﷺ نے مجھے بھیجا تھا کہ تم کسی اونچی قبر کو زمین کے برابر کیے
بغیر نہ چھوڑو۔ اور نہ ہی کسی تصویر کو مٹائے بغیر چھوڑو۔

اس باب میں جابرؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: حضرت علیؓ کی حدیث حسن ہے اور بعض علماء کا اسی پر عمل ہے کہ قبر کو
زمین سے بلند کرنا حرام ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں: حضرت علیؓ کی حدیث حسن ہے اور بعض علماء کا اسی پر عمل ہے کہ قبر کو زمین سے بلند کرنا
حرام ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں: قبر کو زمین سے اونچا رکھنا حرام ہے۔ البتہ اتنی اونچی زنی چاہیے کہ پتہ چلے یہ قبر ہے تاکہ لوگ اس پر چلیں یا
بیٹھیں نہیں۔

باب ۷۱۱۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْوُطِي عَلَى الْقُبُورِ

باب ۷۱۱۔ قبروں پر چلنے اور بیٹھنے کی ممانعت۔

وَالْحُلُوسِ عَلَيْهَا

۹۲۹۔ حدثنا هنادنا ابن المبارك عن عبدالرحمن
بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله عن
أبي ادريس الخولاني عن وإيلة بن الأسقع عن
أبي مرثد الغنوي قال قال النبي صلى الله عليه
وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها

۹۲۹۔ حضرت ابو مرثد غنوی سے منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
قبروں پر نہیں بیٹھا کرو اور نہ ہی ان کی طرف نماز پڑھا کرو۔

اس باب میں ابو ہریرہؓ، عمرو بن حزمؓ اور بشیر بن خصاصیہؓ سے بھی روایت ہے۔ محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی سے اور وہ ابن
مبارک سے اسی سند سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں علی بن حجر اور ابو عمار، ولید بن مسلم سے وہ عبدالرحمن بن یزید بن جابر سے وہ

بسر بن عبید اللہ نے واثلہ بن اسقع سے وہ ابو مرثد سے اور وہ رسول اللہ ﷺ سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ اس میں ابودریس کا ذکر نہیں ہے اور یہی صحیح ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ امام بخاری نے فرمایا: ابن مبارک کی اس حدیث میں ان سے خطا ہوئی ہے۔ انہوں نے ابودریس خولانی کا نام زیادہ ذکر کیا ہے جب کہ درحقیقت بسر بن عبد اللہ کی واثلہ بن اسقع کے حوالے سے روایت ہے۔ کئی راوی عبد الرحمن بن جابر سے اسی طرح روایت کرتے ہیں کہ ابودریس خولانی کا نام نہیں آتا۔ اور بسر بن عبید اللہ نے واثلہ بن اسقع سے احادیث سنی ہیں۔

باب ۷۱۲۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ تَحْصِيصِ الْقُبُورِ وَالْكِتَابَةِ عَلَيْهَا

۹۳۰۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ الْبَصْرِيُّ نَا مُحَمَّدَ بْنَ رَبِيعَةَ عَنِ ابْنِ حَرِيْجٍ عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُحْصَصَ الْقُبُورُ وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا وَأَنْ تُوَطَّأَ

۹۳۰۔ حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے قبروں کو پختہ کرنے، ان پر لکھنے، ان پر تعمیر کرنے اور ان پر چلنے سے منع فرمایا۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور کئی سندوں سے جابرؓ سے مروی ہے بعض علماء جن میں حسن بصری بھی شامل ہیں قبروں کو لینے کی اجازت دیتے ہیں۔ شافعی کے نزدیک بھی اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

باب ۷۱۳۔ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ الْمَقَابِرَ

۹۳۱۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ كَدِينَةَ عَنِ قَابُوسِ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ عَنِ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبُورِ الْمَدِينَةِ فَاقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ أَنْتُمْ سَلَفْنَا وَنَحْنُ بِالْآثِرِ

۹۳۱۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ مدینہ کے قبرستان سے گزرے تو قبروں کی طرف منہ کر کے فرمایا: السلام علیکم یا..... الخ۔ اے قبر والو تم پر سلام ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ تم ہم سے پہلے پہنچے ہو اور ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔

اس باب میں بریدہ اور عائشہؓ سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث غریب ہے اور ابو کدینہ کا نام یحییٰ بن مہلب اور ابو ظبیان کا حسین بن جندب ہے۔

باب ۷۱۴۔ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ

۹۳۲۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ . وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ قَالُوا نَا ابُو عَاصِمِ النَّبِيلِ نَا سَفْيَانَ عَنِ عُلْقَمَةَ بِنِ مَرْثَدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

۹۳۲۔ حضرت سلیمان بن بریدہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا۔ لیکن محمد (ﷺ) کو اب اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرنے کی اجازت مل گئی ہے لہذا تم بھی قبروں کی زیارت کیا کرو اس لیے کہ یہ آخرت کی

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فَرُزِرُوا هَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ

یاد تازہ کرتی ہے۔

اس باب میں ابوسعید، ابن مسعود، ابو ہریرہ اور ام سلمہ سے بھی روایت ہے۔ علماء کا اسی حدیث پر عمل ہے کہ قبروں کی زیارت کرنے میں کوئی مضاقت نہیں۔ ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

باب ۷۱۵۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ زِيَارَةِ الْقُبُورِ لِلنِّسَاءِ

باب ۱۵۔ عورتوں کے قبروں کی زیارت کرنے کی کراہت۔

۹۳۳۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا اَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَمْرُو بْنِ اَبِي سَلْمَةَ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ زَوَارَاتِ الْقُبُورِ

۹۳۳۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے قبروں کی زیارت کے لیے بکثرت جانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی۔

اس باب میں ابن عباس اور حسان بن ثابت سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ حکم زیارت کی اجازت سے پہلے کا ہے۔ چنانچہ جب اجازت دی گئی تو اس میں عورتیں اور مرد دونوں برابر ہیں۔ جب کہ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت اس لیے حرام ہے کہ ان میں صبر کم ہوتا ہے۔

باب ۷۱۶۔ مَا جَاءَ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ لِلنِّسَاءِ

باب ۱۶۔ عورتوں کا قبروں کی زیارت کرنا۔

۹۳۴۔ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَرِيْثٍ نَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ اِبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِي مَلِيْكََةَ قَالَ تُوْفِيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ اَبِي بَكْرٍ بِالْحُبَشِيِّ قَالَ فَحَمِلَ اِلَى مَكَّةَ فَذْفِنَ فِيْهَا فَلَمَّا قَدِمَتْ عَائِشَةُ اَنَّتْ قَبْرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اَبِي بَكْرٍ فَقَالَتْ وَكُنَّا كَنَدَ مَا نِيْ جَدِيْمَةَ حِقْبَةَ مِنَ الدَّهْرِ حَتَّى قِيْلَ لَنْ يَتَّصِدَعَا فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا كَاتَبْتِي وَمَا لِيْكََا بِطُوْلِ اجْتِمَاعٍ لَمْ نَبْتِ لَيْلَةً مَّعًا ثُمَّ قَالَتْ وَاللّٰهِ لَوْ حَضَرْتُكَ مَا دَفَنْتُ اِلَّا حَيْثُ مِتُّ وَلَوْ شَهِدْتُكَ مَا زُرْتُكَ

۹۳۴۔ حضرت عبداللہ بن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ عبدالرحمن بن ابوبکر حبشہ میں فوت ہو گئے انہیں مکہ لاکر دفن کیا گیا پھر جب حضرت عائشہ مکہ گئیں تو اپنے بھائی عبدالرحمن بن ابوبکر کی قبر پر گئیں اور دوسرے پڑھے۔ ان کا معنی یہ ہے۔ (ہم دونوں اس طرح تھے جیسے بادشاہ جزیرہ کے دو ہم نشین ایک طویل مدت تک ساتھ رہے ہوں یہاں تک کہ کہا جانے لگا یہ کبھی جدا نہ ہوں گے لیکن جب ہم جدا ہوئے تو باوجودیکہ طویل مدت تک ساتھ رہے ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے ایک دن بھی ساتھ نہ رہے ہوں) پھر حضرت عائشہ نے فرمایا: اللہ کی قسم اگر میں موجود ہوتی تو تمہیں تمہاری وفات کی جگہ ہی دفن کراتی اور اگر موت سے پہلے تمہیں دیکھ لیتی تو کبھی تمہاری قبر پر نہ آتی۔

باب ۷۱۷۔ مَا جَاءَ فِي الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ

باب ۱۷۔ رات کو دفن کرنا۔

۹۳۵۔ حَدَّثَنَا اَبُو كَرِيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرُو السَّوَاقِ قَالَانَا يَحْيَى بْنُ اَلِيْمَانَ عَنْ الْمَنْهَالِ بْنِ حَنِيفَةَ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ اِرطَاةٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ

۹۳۵۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک قبر میں (دفن کے لیے) رات کے وقت اترے تو آپ ﷺ کے لیے چراغ سے روشنی کی گئی۔ آپ ﷺ نے اسے قبلے کی طرف سے پگھلا اور فرمایا:

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ قَبْرًا لَيْلًا فَاسْرَجَ لَهُ سِرَاجٌ فَأَخَذَهُ مِنْ قَبْلِ الْقَبِيلَةِ وَقَالَ رَحِمَكَ اللَّهُ إِنْ كُنْتَ لَأَوْهَا تَلَاءٌ لِلْقُرْآنِ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا

اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے تم بہت نرم دل اور قرآن کی بہت زیادہ تلاوت کرنے والے تھے۔ نیز آپ ﷺ نے چار کبیروں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھائی۔

اس باب میں جاہل اور یزید بن ثابت سے بھی روایت ہے۔ یزید زید بن ثابت کے بڑے بھائی ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن ہے۔ بعض علماء اسی حدیث پر عمل پیرا ہیں۔ ان کا کہنا کہ میت کو قبیلے کی طرف سے قبر میں اتارا جائے جب کہ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ سر کی طرف سے قبر میں اتارا جائے۔ پھر اکثر اہل علم رات کو دفن کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔

باب ۷۱۸۔ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ الْحَسَنِ عَلَى الْمَيِّتِ
۹۳۶۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ نَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَرَّ عَلِيٌّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَنَازَةٍ فَاتَّانُوا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجِبَتْ ثُمَّ قَالَ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ

باب ۷۱۸۔ میت کو اچھے الفاظ میں یاد کرنا۔
۹۳۶۔ حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو صحابہ نے اس کی اچھائی بیان کی۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اس کے لیے جنت واجب ہوگی پھر فرمایا: تم لوگ زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔

اس باب میں عمرؓ، کعب بن عجرہؓ اور ابو ہریرہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث انسؓ حسن صحیح ہے۔

۹۳۷۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى وَ هَارُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبِرَّانِ قَالُوا نَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ نَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفَرَاتِ نَا عَبْدِ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيَلِيِّ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَمَرُّوا بِجَنَازَةٍ فَاتَّانُوا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ وَجِبَتْ فَقُلْتُ لِعُمَرَ مَا وَجِبَتْ قَالَ أَقُولُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ لَهُ ثَلَاثَةٌ إِلَّا وَجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ قَالَ قُلْنَا وَائْتَانُ قَالَ وَائْتَانُ قَالَ وَلَمْ نَسْأَلْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوَاحِدِ

۹۳۷۔ حضرت ابو اسود دلی فرماتے ہیں میں مدینہ آیا تو ایک روز عمر بن خطابؓ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک جنازہ گزرا۔ لوگوں نے اس کی تعریف بیان کی۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا: اس کے لیے واجب ہوگی۔ میں نے کہا: کیا واجب ہوگی۔ کہنے لگے میں نے وہی کہا جو رسول اللہ ﷺ سے سنا: آپ ﷺ نے فرمایا: اگر تین شخص کسی مسلمان کی گواہی دیں تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ ہم نے عرض کیا: اگر دو شخص گواہی دیں تو؟ فرمایا تب بھی راوی کہتے ہیں ہم نے آپ ﷺ سے ایک شخص کے متعلق نہیں پوچھا۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابو اسود دلی کا نام ظالم بن عمرو بن سفیان ہے۔

باب ۷۱۹۔ مَا جَاءَ فِي تَوَابٍ مِنْ قَدَمٍ وَ لَدَا
۹۳۸۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ح وَ نَا الْأَنْصَارِيُّ نَا مَعْنُ نَا مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

باب ۷۱۹۔ جس کا بیٹانوت ہو جائے اس کے اجر کے متعلق۔
۹۳۸۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مسلمانوں میں سے اگر کسی کے تین بیٹے فوت ہو جائیں تو اسے دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ہاں البتہ صرف تم پوری کرنے کے بقدر۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَالِدِ فَتَمَسَّتُهُ النَّارُ إِلَّا تَجَلَّةَ الْقَسَمِ

اس باب میں عمر، معاذ، کعب بن مالک، عقبہ بن عبد، ام سلیم، جابر، انس، ابو ذر، ابن مسعود، ابو ثعلبہ اشجعی، ابن عباس، عقبہ بن عامر، ابوسعید، قرہ بن ایاس مزنی اور ابو ثعلبہ سے بھی روایت ہے۔ یہ ابو ثعلبہ حششی نہیں ہیں ان کی صرف ایک ہی حدیث ہے۔ امام ترمذی ابو ہریرہ کی حدیث کو حسن صحیح کہتے ہیں۔

۹۳۹۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس کے تین نابالغ بچے فوت ہوئے وہ اسے دوزخ سے بچانے کے لیے مضبوط قلعے کی مانند ہوں گے۔ ابو ذر سے عرض کیا: میں دو بچے پیش کر چکا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: دو بھی اسی طرح ہیں۔ ابی ابن کعب سید القراء نے عرض کیا: میرا بھی ایک بیٹا فوت ہوا ہے چنانچہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ایک بھی۔ لیکن یہ سب اسی صورت میں ہے کہ ان کے فوت ہوتے ہی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے۔

۹۳۹۔ حدثنا نصر بن علي الجهضمي نا اسحاق بن يوسف نا العوام بن حوشب عن ابى محمد مولى عمر بن الخطاب عن ابى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قدم ثلثة لم يبلغوا الحلم كانوا له حصنا حصينا من النار قال ابو ذر قدمت اثنتين قال واثنين فقال ابى بن كعب سيد القراء قدمت واحدا قال واحدا ولكن انما ذلك عند الصدمة الاولى

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن غریب ہے۔ کیونکہ ابو عبیدہ نے اپنے والد سے کوئی حدیث نہیں سنی۔

۹۴۰۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں: میں نے آنحضرت ﷺ سے سنا کہ میری امت میں سے جس کے دو بیٹے فوت ہوئے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا: آپ کی امت میں سے جس کا ایک بیٹا فوت ہوا۔ فرمایا: ایک بھی کافی ہے۔ اسے تک عورت۔ پھر عرض کیا: اگر کسی کا کوئی بیٹا نہ ہو تو آپ ﷺ نے فرمایا: میری امت کا فرط ہوں میری امت کے لیے کسی کی جدائی کی تکلیف میری جدائی کی تکلیف سے زیادہ نہیں۔ (۱)

۹۴۰۔ حدثنا نصر بن علي الجهضمي وابو الخطاب زياد بن يحيى البصرى قال انا عبد ربه بن بارق الحنفى قال سمعت جدى ابا امي سماك بن الوليد الحنفى يحدث انه سمع ابن عباس انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له فرطان من امتي ادخله الله بهما الجنة فقالت له عائشة فمن كان له فرط من اميتك قال ومن كان له فرط يا موقفة قالت فمن لم يكن له فرط من اميتك قال فاننا فرط من امتي لم يصابوا بمثلها

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف عبد ربہ بن بارق کی روایت سے جانتے ہیں ان سے کسی ائمہ حدیث روایت کرتے ہیں۔ ہم سے احمد بن مرابطی نے انہوں نے حبان بن ہلال سے اور انہوں نے عبد ربہ بن بارق سے اسی حدیث کے پیش روایت کی ہے۔

(۱) فرط اس کے معنی یہ ہیں کہ جس طرح ان کے بچے فوت ہو کر ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیے گئے اسی طرح میں قیامت کے دن جس کے بچے نہیں ہیں اس کی شفاعت کروں گا۔ (واللہ اعلم) مترجم۔

باب ۷۲۰۔ مَا جَاءَ فِي الشُّهَدَاءِ مَنْ هُمْ

باب ۷۲۰۔ شہداء کون ہیں؟

۹۴۱۔ حَدَّثَنَا الْإِنصَارِيُّ نَا مَعْنَا مَالِكُ ح وَ نَا قَتِيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشُّهَدَاءُ خَمْسُ الْمُطْعُوْنَ وَالْمَبْطُوْنَ وَالْعَرِيْقُ وَ صَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

۹۴۱۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: شہید پانچ ہیں۔ (۱) طاعون کی وبا سے مرنے والا، (۲) پیٹ کی بیماری سے مرنے والا، (۳) ڈوب کر مرنے والا، (۴) دیوار وغیرہ کے گرنے سے مرنے والا، (۵) اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا۔

اس باب میں انس، صفوان بن امیہ، جابر بن عتیک، خالد بن عرفطہ، سلمان بن مردہ، ابو موسیٰ اور عائشہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔

۹۴۲۔ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْبَاطَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ

۹۴۲۔ حضرت ابواسحاق سبعمی کہتے ہیں کہ سلیمان بن مردہ نے خالد بن عرفطہ سے یا خالد نے سلیمان سے کہا: کیا تم نے رسول اللہ ﷺ سے یہ حدیث سنی ہے؟ کہ فرمایا: جو پیٹ کی بیماری کی وجہ سے مر گیا اسے عذاب قبر نہیں ہوگا۔ تو ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا: ہاں سنی ہے۔

الْكُوفِيُّ نَا ابِي نَا ابُو سَنَانِ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبَّيْعِيِّ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ صُرْدٍ لِخَالِدِ بْنِ عَرْفُطَةَ أَوْ خَالِدٍ لِسُلَيْمَانَ أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَتَكَ بَطْنُهُ لَمْ يُعَذَّبْ فِي قَبْرِهِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ نَعَمْ

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث اس باب میں حسن غریب ہے اور دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

باب ۷۲۱۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْفِرَارِ مِنَ الطَّاعُونِ

باب ۷۲۱۔ طاعون سے فرار ہونے کی کراہت۔

۹۴۳۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الطَّاعُونَ فَقَالَ بَقِيَّةُ رَجَزٍ أَوْ عَذَابٍ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَ أَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَلَسْتُمْ بِهَا فَلَا تَهْبِطُوا عَلَيْهَا

۹۴۳۔ حضرت اسامہ بن زیدؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے طاعون کا ذکر کیا تو فرمایا: یہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت کی طرف بھیجے جانے والے عذاب کا پچا ہوا حصہ ہے۔ چنانچہ اگر کسی جگہ یہ وبا پھیلی ہوئی ہو اور تم وہیں ہو تو وہاں سے فرار نہ اختیار کرو۔ اور اگر تم وہاں سے علاقے سے باہر ہو تو اس علاقے میں مت داخل ہو۔ راوی کو شک ہے کہ ”رجز“ فرمایا، یا ”عذاب“ ”رجز“ بھی عذاب ہی کے معنی میں آتا ہے۔

اس باب میں سعد بن خزیمہ، ثابت، عبدالرحمن بن عوف، جابرؓ اور عائشہؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۷۲۲۔ مَا جَاءَ فِي مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ

باب ۷۲۲۔ جو اللہ سے ملاقات کو محبوب رکھے اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتے ہیں۔

اللَّهُ لِقَاءَهُ

۹۴۴۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُقْدَامِ أَبُو الْأَشْعَثِ الْعَجَلِيُّ

۹۴۴۔ حضرت عبادہ بن صامتؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

نا المعتمر بن سليمان قال سمعت ابي يحدث عن قتادة عن انس عن عبادَةَ بن الصّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ

جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے ملنا پسند فرماتے ہیں اور جو اللہ کی ملاقات سے کراہت کرے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتے۔

اس باب میں ابو موسیٰ، ابو ہریرہ اور عائشہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: عبادہ بن صامت کی حدیث حسن صحیح ہے۔

۹۴۵۔ حدثنا حميد بن مسعدة نا خالد بن الحارث نا سعيد بن ابى عروبة ح و نا محمد بن بكر عن سعيد بن ابى عروبة عن قتادة عن زرارة بن ابى اوفى عن سَعِيدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا ذَكَرَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ ؕ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَّا نَكْرَهُ الْمَوْتَ قَالَ لَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَرِضْوَانِهِ وَجَنَّتِهِ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ ؕ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَسَخَطِهِ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ

۹۳۵۔ حضرت عائشہ، رسول کریم ﷺ کا یہ ارشاد نقل کرتی ہیں کہ جس نے اللہ سے ملنا چاہا اللہ بھی اس سے ملنے کی چاہت رکھتے ہیں اور جو ان سے نہیں ملنا چاہتا اللہ بھی اس سے ملاقات کی چاہت نہیں رکھتے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی بھی موت کو پسند نہیں کرتا۔ فرمایا: یہ بات نہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مؤمن کو اللہ کی رحمت، اس کی رضا اور جنت کی بشارت دی جاتی ہے تو اس کے دل میں اللہ سے ملاقات کا اشتیاق پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کے مشتاق ہوتے ہیں لیکن جب کافر کو اللہ کے عذاب اور اس کے غصے کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو وہ اللہ کی ملاقات سے گریز کرتا ہے چنانچہ اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند نہیں کرتے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۲۳۔ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔

۹۴۶۔ حضرت سرہ بن جندب فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے خودکشی کر لی تو آنحضرت ﷺ نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔

باب ۷۲۳۔ مَا جَاءَ فِي مَنْ يَقْتُلُ نَفْسَهُ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ

۹۴۶۔ حدثنا يوسف بن عيسى نا وكيع نا اسرائيل ومثريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمره أنّ رجلاً قتل نفسه فلم يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن ہے۔ اور علماء کا اس میں اختلاف ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ جس شخص نے بھی قبلہ رخ نماز پڑھی ہو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے خواہ اس نے خودکشی ہی کیوں نہ کی ہو۔ یہ سفیان ثوری اور اسحاق کا قول ہے جب کہ امام احمد کے نزدیک خودکشی کرنے والے شخص کی نماز جنازہ پڑھنا امام کے لیے جائز نہیں۔ دوسرے لوگ پڑھ لیں۔

باب ۷۲۴۔ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْمَدْيُونِ

۹۴۷۔ حدثنا محمود بن غيلان نا ابو داود نا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت

۹۳۷۔ حضرت عثمان بن عبد اللہ بن موهب فرماتے ہیں کہ میں نے عبد اللہ بن ابی قتادہ کو اپنے والد سے نقل کرتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّى بِرَجُلٍ يُبْصِنِي عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ فَإِنَّ عَلِيَّ دِينًا فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ هُوَ عَلِيٌّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَفَاءِ فَقَالَ بِالْوَفَاءِ فَصَلُّوا عَلَيْهِ

ﷺ کے پاس ایک جنازہ لایا گیا تاکہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ آپ ﷺ نے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ یہ مقروض تھا۔ ابو قتادہ نے عرض کیا وہ قرض میرے ذمے ہے میں ہی اسے ادا کروں گا۔ آپ ﷺ نے پوچھا: پورا قرض؟ انہوں نے عرض کیا: جی ہاں پورا۔ چنانچہ آپ ﷺ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔

س باب میں جابر، سلمہ بن الوخ و اساء بنت یزید سے بھی روایت ہے امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۹۴۸۔ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُضَلِّ مَكْتُومُ بْنُ الْعَبَّاسِ قَالَ ثَنَى سِدْلَهُ - مَسَحَ ثَى اللَّيْثِ ثَنَى، عَقِيلٌ عَنْ ابْنِ نَهَابٍ، حَسْرَتِي أَبُو سَلْمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتِي بِالرَّحْلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدِّينَ فَيَقُولُ هَلْ تَرَكَ لِدِينِهِ مِنْ قِضَاءٍ فَإِنْ حَدَّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَقَاءَهُ صَلَّى عَلَيْهِ وَلَا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَامَ فَقَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ نَفْسِهِمْ فَسَنُ تَوَفَّى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَتَرَكَ دِينًا فَعَلَى قِضَاءٍ هُوَ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا وَهُوَ يُورَثُهُ

۹۴۸۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اگر آنحضرت ﷺ کے پاس کسی مقروض شخص کی میت نماز جنازہ کے لیے لائی جاتی تو پوچھتے: کیا اس نے اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ اگر کہا جاتا کہ چھوڑا ہے تو اس کی نماز پڑھتے ورنہ مسلمانوں سے کہتے اپنے ساتھی کی نماز پڑھ لو۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے بہت سی فتوحات عنایت فرمائیں تو آنحضرت ﷺ کھڑے ہوئے اور فرمایا: میں مؤمنوں کے لیے اپنی ذات سے بھی زیادہ بہتر ہوں لہذا مؤمنین میں سے اگر کوئی مقروض ہوئے فوت ہو جائے تو میں اس کا قرض ادا کروں گا۔ اور جو کچھ وہ وراثت میں چھوڑے گا وہ اس کے وارثوں کے لیے ہوگا۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یحییٰ بن کبیر اور کئی راوی بھی یہ حدیث لیث بن سعد سے روایت کرتے ہیں۔

باب ۲۵۔ عذاب قبر سے متعلق۔

۹۴۹۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب کسی میت یا فرمایا تم میں سے کسی کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو وہ سیاہ رنگ کے نیلی آنکھوں والے فرشتے جنہیں منکر نکیر کہا جاتا ہے، آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ وہی جواب دیتا ہے جو دنیا میں کہا کرتا تھا کہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد ﷺ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر وہ فرشتے کہیں گے کہ ہم جانتے تھے تو یہی جواب دے گا پھر اس کی قبر ستر ستر گز وسیع کر دی جاتی ہے اور اسے منور کر دیا جاتا ہے پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ سو جا۔ وہ کہتا ہے میں اپنے گھر والوں کے پاس جا کر ان کو بتا دوں وہ کہتے ہیں: دہن کی طرح

باب ۷۲۵۔ مَا جَاءَ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ

۹۴۹۔ حَدَّثَنَا أَبُو سَلْمَةَ يَحْيَى بْنُ حَنْفِ الْبَصْرِيِّ نَابِشَرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اسْحَقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فُتِحَتْ أَرْقَانُ يُقَالُ لَا حِدْمَهُمَا الْمُتَمَكَّرُ وَالْأَجْرُ التَّكْبِيرُ فَيَقُولَانِ مَا كُنْتَ تَعْمَلُ فِي هَذَا الرَّحْلِ فَيَقُولُ مَا كُنْتُ تَعْمَلُ هُوَ مَسْأَلَتُهُ وَرَسُولُهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيَقُولَانِ فَذَكَرْنَا عَنْهُ أَنَّ تَقُولُ هَذَا ثُمَّ يُفْتَحُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذَرْبًا فِي سَعِيدِينَ ثُمَّ

سو جائے اس کے محبوب ترین شخص کے علاوہ کوئی نہیں جگاتا۔ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اس کی خواب گاہ ہی سے اٹھائیں گے۔ لیکن اگر وہ منافق ہوگا تو یہ جواب دے گا۔ میں لوگوں سے جس طرح سنا کرتا تھا اسی طرح کہا کرتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم۔ وہ فرشتے کہیں گے: ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی جواب دے گا۔ پھر زمین کو حکم دیا جاتا ہے کہ اسے دبوچ لے۔ وہ اسے اس طرح دبوچتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسری میں گھس جاتی ہیں۔ پھر اسے اسی طرح عذاب دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے اسی جگہ سے اٹھایا جائے گا۔

يُنَوَّرُ لَهُ، فِيهِ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ، نَمْ فَيَقُولُ أَرْجِعْ إِلَى أَهْلِي فَأَخْبِرُهُمْ فَيَقُولَان لَهُ، نَمْ كَنَوْمَةِ الْعُرُوسِ الَّتِي لَا يُوقِظُهُ، إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهَا إِلَيْهِ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجِعِهِ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا قَالَ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ فَقُلْتُ مِثْلَهُ، لَا أَدْرِي فَيَقُولَان قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ إِنَّكَ تَقُولُ ذَلِكَ فَيَقَالُ لِلْأَرْضِ التَّيْمِي عَلَيْهِ فَتَلْتَهُمْ عَلَيْهِ فَتَخْتَلِفُ أَضْلَاعُهُ، فَلَا يَزَالُ فِيهَا مُعَذَّبًا حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجِعِهِ ذَلِكَ

اس باب میں علیؑ، زید بن ثابتؓ، ابن عباسؓ، براء بن عازبؓ، ابو ایوبؓ، انسؓ، جابرؓ، عائشہؓ اور ابو سعیدؓ، آنحضرت ﷺ سے عذاب قبر کے متعلق روایت کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن غریب ہے۔

۹۵۰۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب کوئی شخص مرتا ہے تو اسے اس کے رہنے کی جگہ دکھائی جاتی ہے۔ اگر جنت والوں میں سے ہوتا ہے تو جنت اور اگر اہل دوزخ میں سے ہوتا ہے تو دوزخ۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اٹھائیں گے تو یہی تمہاری جگہ ہے۔

۹۵۰۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۷۲۶۔ مَا جَاءَ فِي أَحْرَمٍ مِنْ عَزَى مُصَابَا

۹۵۱۔ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عِيسَى نَا عَلِيَّ بْنَ عَاصِمٍ نَا وَاللَّهُ مُحَمَّدُ بْنُ سُوْقَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَزَى مُصَابَا فَلَهُ مِثْلُ أَحْرَمِهِ

باب ۷۲۶۔ مصیبت زدہ کو تسلی دینے پر اجر۔
۹۵۱۔ حضرت عبد اللہؓ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ جو شخص کسی مصیبت زدہ کو تسلی دیتا ہے اسے بھی اسی کی طرح ثواب ہوتا ہے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف علی بن عاصم کی روایت سے مرفوع جانتے ہیں۔ بعض راوی اسے محمد بن

سوق سے بھی اسی سند سے اسی کے مثل موقوفاً روایت کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ علی بن عاصم پر اسی حدیث کی وجہ سے طعن کیا گیا۔

باب ۷۲۷۔ مَا جَاءَ فِي مَنْ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

۹۵۲۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ وَابُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَا نَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ

۹۵۲۔ حضرت عبد اللہ بن عمروؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی مسلمان جمعہ یا جمعہ کی رات کو فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبر کے

قنن سے محفوظ رکھتے ہیں۔

سَعِيدُ بْنُ أَبِي هَلَالٍ عَنْ رَيْبَعَةَ بِنْتِ سَيْفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ إِلَّا
وَقَاهُ اللَّهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث غریب ہے اس کی سند متصل نہیں کیونکہ ربیعہ بن سیف سے عبدالرحمن حبلی سے عبداللہ بن عمرو کے حوالے سے روایت کرتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ربیعہ بن سیف نے عبداللہ بن عمرو سے کوئی حدیث سنی ہو۔

باب ۷۲۸۔ جنازے میں جلدی کرنا۔

باب ۷۲۸۔ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الْجَنَازَةِ

۹۵۳۔ حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اسے علی: تین چیزوں میں تاخیر نہ کرو۔ نماز: جب اس کا وقت ہو جائے۔ جنازہ: جب حاضر ہوئے اور بالغ عورت: جب اس کے لیے مناسب رشتہ مل جائے۔

۹۵۳۔ حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهَبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَهْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُهَا الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ وَقُتْهَا وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالْإِيْمُ إِذَا وَجَدَتْ لَهَا كُفُوًا

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث غریب ہے۔ اس کی سند کے اتصال کا مجھے علم نہیں۔

باب ۷۲۹۔ تعزیت کی فضیلت۔

باب ۷۲۹۔ أَخْرَفِي فِي فَضْلِ التَّعْزِيَةِ

۹۵۴۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے کسی عورت سے اس کے بیٹے کے فوت ہو جانے پر تعزیت کی اسے جنت کی چادر اوڑھائی جائے گی۔

۹۵۴۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ الْمُؤَدَّبِ بْنِ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَمُّ الْاَسْوَدِ عَنْ مَنِةِ ابْنَةِ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي بَرزَةَ عَنْ جَدِّهَا عَنْ أَبِي بَرزَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَزَى نَكْلِي كَسِي بُرْدًا فِي الْجَنَّةِ

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث غریب ہے۔ اس کی سند قوی نہیں۔

باب ۷۳۰۔ نماز جنازہ میں رفع یدین۔

باب ۷۳۰۔ مَا جَاءَ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْجَنَازَةِ

۹۵۵۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک مرتبہ نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کی تو رفع یدین کیا اور وایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا۔

۹۵۵۔ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارِ الْكُوفِيِّ نَا اسْمَعِيلَ بْنَ ابَانَ الْوَرَّاقِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْلَى الْاِسْلَمِيِّ عَنْ ابِي قُرَّةِ زَيْدِ بْنِ سَنَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ابِي اَنِيسَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ نَكْبِيرِهِ وَوَضَعَ الْيَمْنَى عَلَى الْشِمْرِى

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ علماء کا اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ اکثر علماء صحابہ وغیرہ کہتے ہیں کہ ہر تکبیر کے وقت رفع یدین کیا جائے۔ ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ جب کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ صرف پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھائے۔ ثوری اور اہل کوفہ (احناف) کا یہی قول ہے۔ ابن مبارک سے مروی ہے۔ کہ نماز جنازہ میں ہاتھ باندھنا ضروری نہیں۔ لیکن بعض علماء کے نزدیک اس میں بھی دوسری نمازوں ہی کی طرح ہاتھ باندھنے چاہئیں۔ امام ترمذی بھی اسی کو بہتر سمجھتے ہیں۔

باب ۷۳۱۔ مَا جَاءَ أَنَّ نَفْسَ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدِينِهِ حَتَّى يُقْضَى عَلَيْهِ

باب ۷۳۱۔ مؤمن کا دل قرض ہی کی طرف لگا رہتا ہے جب تک اس کی طرف سے ادا نہ کر دیا جائے۔

۹۵۶۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَا أَبُو اسَامَةَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدِينِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

۹۵۶۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مؤمن کا دل اس کے قرض ہی میں معلق رہتا ہے یہاں تک کہ اسے ادا کر دیا جائے۔

محمد بن بشار، عبد الرحمن بن مہدی سے وہ ابراہیم بن سعد سے وہ اپنے والد سے وہ عمرو بن سلمہ سے وہ اپنے والد سے اور وہ ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اور یہی حدیث بیان کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے اور پہلی حدیث سے صحیح ہے۔

آنحضرت ﷺ کے نکاح کے متعلق

منقول احادیث کے ابواب

۹۵۷۔ حضرت ابو ایوبؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: چار چیزیں انبیاء کی سنتوں میں سے ہیں۔ حیاء، عطر، مسواک اور نکاح۔

أَبْوَابُ النِّكَاحِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۹۵۷۔ حَدَّثَنَا سَفِيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ مَكْحُولٍ عَنِ أَبِي الشَّمَالِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ الْحَيَاءُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسِّوَاكُ وَالنِّكَاحُ

اس باب میں عثمانؓ، ثوبانؓ، ابن مسعودؓ، عائشہؓ، عبد اللہ بن عمرؓ، جابرؓ اور عکافؓ سے بھی روایت ہے۔ ابو ایوبؓ کی حدیث حسن غریب ہے۔ محمود بن خدشؓ وہ عباد بن عوامؓ سے وہ حجاجؓ سے وہ ابو شمالؓ سے وہ ابو ایوبؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے حفص کی حدیث کے مثل روایت کرتے ہیں۔ پھر یہی حدیث، شمیم، محمد بن یزید واسطی، معاویہ اور کئی راوی بھی حجاج سے وہ مکحول سے اور وہ ابو ایوب سے روایت کرتے ہوئے ابو شمال کا ذکر نہیں کرتے۔ حفص بن غیاث اور عباد بن عوام کی حدیث صحیح ہے۔

۹۵۸۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَا ابُو اَحْمَدَ نَا سَفِيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ عَمَارَةَ بْنِ عَمِيْرٍ عَنِ

۹۵۸۔ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نکلے۔ ہم جوان تھے لیکن نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔

آپ ﷺ نے فرمایا: اے جوانو! تمہارے لیے نکاح کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ یہ آنکھوں کو نیچا رکھتا اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے لیکن اگر کوئی شادی کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ روزے رکھے اس لیے کہ روزوں سے شہوت ختم ہو جاتی ہے۔

عبدالرحمن بن یزید عن عبد اللہ بن مسعود قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبان لا نقدر على شئٍ وقال يا معشر الشباب عليكم بالباء فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج فمن لم يستطع منكم الباءة فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حسن بن علی خلال، عبداللہ بن نمیر سے وہ اعمش سے اور وہ عمارہ سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں پھر کئی راوی اعمش سے بھی اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ ابو معاویہ اور حارث بن ابی اعمش سے وہ ابراہیم سے وہ علقمہ سے وہ عبداللہ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔

باب ۳۲۔ ترک نکاح کی ممانعت۔

باب ۷۳۲۔ ماجاء فی النهی عن التبتل

۹۵۹۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے عثمان بن مظعون کو ترک نکاح کی اجازت نہیں دی۔ ورنہ ہم خصی ہو جاتے۔

۹۵۹۔ حدثنا الحسن بن علی الخلال وغير واحد قالوا نا عبدالرزاق نا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو اذن له لاختصينا

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۹۶۰۔ حضرت سمرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ترک نکاح کی ممانعت فرمائی۔ (زید بن جرم اپنی حدیث میں کہتے ہیں۔ کہ قتادہ نے یہ آیت پڑھی ”ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجاً وذرية“ یعنی ہم نے آپ ﷺ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے اور انہیں بیویاں اور اولاد عطا کی)۔

۹۶۰۔ حدثنا ابو هشام الرفاعي وزيد بن اخزم واسحق بن ابراهيم البصري قالوا نا معاذ بن هشام عن ابيه عن قتادة عن الحسن عن سمره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل

اس باب میں سعد، مالک بن ديار، عائشہ اور ابن عباس سے بھی روایت ہے۔ سمرہ کی حدیث حسن غریب ہے۔ اشعث بن عبدالملک یہ حدیث حسن سے وہ سعد بن ہشام سے وہ حضرت عائشہ سے اور وہ رسول اللہ ﷺ سے اسی کی مانند روایت کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔

باب ۳۳۔ دینی اعتبار سے بہترین آدمی کے ساتھ نکاح کرو۔

باب ۷۳۳۔ ماجاء فی من ترضون دينه فزوجوه

۹۶۱۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر ایسا شخص تمہاری طرف پیغام بھیجے کہ اس کی دینداری اور اخلاق کو پسند کرتے ہو تو اس سے نکاح کرو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ

۹۶۱۔ حدثنا قتيبة نا عبد الحميد بن سليمان عن ابن عجلان عن ابن وثيمه النصرى عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب

إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَوْجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

بیدا ہوگا اور بہت بڑا فساد ہوگا۔

اس باب میں ابو حاتم مزنی اور عائشہؓ سے بھی روایت ہے۔ ابو ہریرہؓ کی حدیث میں عبد الحمید بن سلیمان سے اختلاف کیا گیا ہے۔ چنانچہ لیث بن سعد، ابن عجلان سے اور وہ ابو ہریرہؓ سے مرسل روایت کرتے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں۔ حدیث لیث اشبہ اور حدیث عبد الحمید غیر محفوظ ہے۔

۹۶۲۔ حدثنا محمد بن عمرو نا حاتم بن اسمعيل عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن محمد وسعيد ابني عبید عن أبي حاتم المزنبي قال قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ كُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَانكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ إِذَا جَاءَ كُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَانكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

۹۶۲۔ حضرت ابو حاتم مزنیؒ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تمہارے پاس کوئی ایسا شخص آئے جس کے دین سے تم راضی ہو اور اس کے اخلاق کو بھی پسند کرتے ہو تو اس سے نکاح کر دو۔ اگر ایسا نہ کیا زمین میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور یہ بہت بڑے فساد کا موجب ہوگا۔ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! اگر چہ وہ مفلس ہی کیوں نہ ہو؟ تو فرمایا: اگر اس کی دینداری اور اخلاق کو پسند کرتے ہو تو اسی سے نکاح کر دو۔ یہی الفاظ تین مرتبہ فرمائے۔

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ابو حاتم مزنیؒ صحابی ہیں۔ لیکن ان کی اس حدیث کے علاوہ کسی اور حدیث کا ہمیں علم نہیں۔

باب ۷۳۴۔ مَا جَاءَ فِي مَنْ يُنكِحُ عَلَى ثَلَاثِ حِصَالٍ

۹۶۳۔ حدثنا احمد بن محمد بن محمد بن موسى نا اسحق بن يوسف الازرق نا عبد الملك عن عطاء عن جابر عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ الْمَرْأَةُ تَنكِحُ عَلَى دِينِهَا وَمَا لَهَا وَحَمَالِهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

باب ۷۳۴۔ جو شخص تین خصلتیں دیکھ کر نکاح کرے۔

۹۶۳۔ حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عورت سے اس کے دین، اس کے مال اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ لہذا دیندار عورت ہی کو نکاح کے لیے اختیار کرو۔ خاک آلودہ ہوں تمہارے دونوں ہاتھ۔

اس باب میں عوف بن مالک، عائشہؓ، عبید اللہ بن عمر اور ابو سعیدؓ سے بھی روایت ہے۔ حضرت جابرؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۷۳۵۔ مَا جَاءَ فِي النَّظْرِ إِلَى الْمَخْطُوبَةِ

۹۶۴۔ حدثنا احمد بن منيع نا ابن ابى زائدة ثنى عاصم بن سليمان عن بكر بن عبد الله المزنبي عن المغيرة بن شعبه انه خطب امرأة فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما

باب ۷۳۵۔ منسوبہ (منگیتر) کو دیکھنا۔

۹۶۴۔ حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک عورت سے منگنی کی تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اسے دیکھ لو۔ یہ تمہاری محبت کو زیادہ دوام بخشنے گا۔

اس باب میں محمد بن سلمہ، جابرؓ، انسؓ، ابو حمیدؓ اور ابو ہریرہؓ سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث حسن ہے اور یہی بعض علماء کا مسلک ہے کہ منگیتر کو دیکھنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ لیکن اس کا کوئی ایسا عضو نہ دیکھے جس کو دیکھنا حرام ہو۔ احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ اس کے معنی یہی ہیں کہ منگیتر کو دیکھ لینا تمہارے درمیان محبت والفت کو دوام بخشنے گا۔

باب ۷۳۶۔ مَا جَاءَ فِي إِعْلَانِ النِّكَاحِ

باب ۷۳۶۔ نکاح کا اعلان کرنا۔

۹۶۵۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَاهِشِيمُ نَا أَبُو بَلَجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَاتِمِ الْجُمَحِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدَّفْ وَالصَّوْتُ

۹۶۵۔ حضرت محمد بن حاطبؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حرام اور حلال کے درمیان فرق صرف دف بجانے اور آواز کا ہے۔ (یعنی اعلان کا)۔

اس باب میں عائشہؓ، جابرؓ اور ربیع بنت معوذ بن عمروؓ سے بھی روایت ہے۔ محمد بن حاطب کی حدیث حسن ہے ابو بلج کا نام یحییٰ بن ابی سلیم ہے۔ انہیں ابن سلیم بھی کہتے ہیں۔ محمد بن حاطب نے اپنے بچپن کے زمانے میں آنحضرت ﷺ کو دیکھا ہے۔

۹۶۶۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ نَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفُوفِ

۹۶۷۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم لوگ نکاح کا اعلان کیا کرو اور مسجدوں میں کیا کرو اور نکاح کے وقت دف بجایا کرو۔

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ عیسیٰ بن میمون انصاری ضعیف ہیں۔ اور عیسیٰ بن میمون جو ابن ابی نجیح سے تفسیر میں روایت کرتے ہیں۔ ثقہ ہیں۔

۹۶۸۔ حَدَّثَنَا حَمِيدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِيُّ نَا بَشْرُ بْنُ الْمَفْضَلِ نَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مَعُوذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيَّ عَدَاةَ بَنِي بِي فَجَلَسَ عَلَيَّ فِرَاشِي كَمَا جَلَسْتُ مِنِّي وَجُورِيَاتٍ لَنَا يَضْرِبْنَ بِغُوفِهِنَّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ إِلَى أَنْ قَالَتْ إِحْلَاهُنَّ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي عَدِ فَقَالَ لَهَا اسْكُنِي عَنْ هَذِهِ وَقُولِي النَّبِيَّ كُنْتَ تَقُولِينَ قَبْلَهَا

۹۶۸۔ حضرت ربیع بنت معوذ بن عمروؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ میری سہاگ کے بعد کی صبح میرے ہاں تشریف لائے اور میرے بستر پر بیٹھ گئے جس طرح تم بیٹھے ہوئے ہو۔ ہماری لونڈیاں دف بجاری تھیں اور ہمارے آباؤ اجداد میں سے جو لوگ جنگ بدر میں شہید ہو گئے تھے ان کے متعلق مرثیہ گا رہی تھیں۔ یہاں تک کہ ان میں سے ایک نے یہ شعر پڑھا (ترجمہ: اور ہمارے درمیان ایسا نبی ہے جو کل کی باتیں جانتا ہے) تو آپ ﷺ نے فرمایا: خاموش ہو جاؤ اور اس طرح کے اشعار نہ پڑھو بلکہ جس طرح پہلے پڑھ رہی تھیں اسی طرح پڑھو۔

یہ حدیث حسن ہے۔

باب ۷۳۷۔ مَا يُقَالُ لِلْمَتْرُوجِ

باب ۷۳۷۔ دولہا کو کیا وعادی جائے۔

۹۶۸۔ حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ نَاعِبُ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ سَهِيلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَا الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

۹۶۸۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شادی کرتا تو آنحضرت ﷺ اس کو اسی طرح مبارکباد دیتے تھے۔ ”بارک اللہ الخ“ (ترجمہ: اللہ تعالیٰ تمہیں ہمہ جہت برکتوں سے نوازے اور تم دونوں میں بہترین میل جول پیدا فرمائے۔)

اس باب میں عقیل بن ابی طالب سے بھی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۷۳۸۔ مَا جَاءَ فِي مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ

۹۶۹۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ نَاسِفِيَانُ بْنُ عَمِيْنَةَ عَنْ

مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبِ بْنِ أَبِي

عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ

أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا

الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَإِنِ قَضَى اللَّهُ

بَيْنَهُمَا وَلَدَا لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۷۳۹۔ مَا جَاءَ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي يَسْتَحِبُّ فِيهَا

النِّكَاحُ

۹۷۰۔ حَدَّثَنَا بَنْدَارُ بْنُ أَبِي يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَفِيَانَ عَنْ

إِسْمَاعِيلِ بْنِ أَمِيَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ

قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

شَوَّالٍ وَبَنِي بِي فِي شَوَّالٍ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ

أَنْ يُنْكِحَ بِنِسَائِهَا فِي شَوَّالٍ

یہ حدیث حسن صحیح ہے ہم اسے صرف ثوری کی اسماعیل سے روایت کے ذریعہ جانتے ہیں۔

باب ۷۴۰۔ مَا جَاءَ فِي الْوَلِيمَةِ

۹۷۱۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ ثَا حَمَادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ

أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رَأَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَا هَذَا

فَقَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَيَّ وَزِنَ نَوَاقِ مِنْ ذَهَبٍ

فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لِلنَّوَالِمِ وَلَوْ بِشَاةٍ

۹۷۱۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ایک دن آنحضرت ﷺ نے

عبدالرحمن بن عوفؓ کے بدن یا کپڑوں پر زرد رنگ کا اثر دیکھا تو پوچھا

یہ کیا ہے؟ عبدالرحمن نے عرض کیا: میں نے ایک نواۃ سونے کے عوض

ایک عورت سے نکاح کیا ہے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اللہ تمہیں

مبارک کرے ولیمہ کرو چاہے ایک ہی بکری سے کرو۔

اس باب میں ابن مسعود، عائشہ، جابر اور زبیر بن عثمان سے بھی روایت ہے۔ انسؓ کی حدیث صحیح ہے۔ احمد بن حنبل کہتے ہیں ایک

گٹھلی کے برابر سونا تین درہم اور درہم کے تہائی حصے کے برابر ہوتا ہے جب کہ اسحاق کے نزدیک پانچ درہم کے برابر ہے۔

۹۷۲۔ حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے صفیہ

بنت حنی سے نکاح کے موقع پر ستواڑ کھجور سے ولیمہ کیا۔

۹۷۲۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ نَاسِفِيَانُ بْنُ عَمِيْنَةَ عَنْ

وَاتِلِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِيهِ نُوْفٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ

ابْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَيَّ

صَفِيَّةَ بِنْتِ حُنَيٍّ بِسَوِيْقٍ وَتَمْرٍ

باب ۷۳۸۔ جب صحبت کا ارادہ کرے تو کون سی دعا پڑھے۔

۹۶۹۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جب تم

میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس صحبت کے لیے جائے تو یہ دعا پڑھے۔

”اللہم سے رزقنا“ تک۔ پھر اگر ان کے ہاں کوئی اولاد پیدا ہوگی تو

شیطان اسے ضرر نہیں پہنچا سکے گا (ترجمہ: اللہ کے نام سے، اے اللہ

شیطان کو ہم سے دور رکھ اور جو کچھ ہمیں رزق کے طور پر عطا کرے اسے

بھی شیطان کے اثرات سے محفوظ رکھ۔

باب ۷۳۹۔ جن اوقات میں نکاح کرنا مستحب ہے۔

۹۷۰۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ نے میرے ساتھ

نکاح شوال میں کیا پھر صحبت بھی شوال ہی میں کی۔ چنانچہ حضرت عائشہؓ

اپنی سہیلیوں کی سہاگ رات شوال میں ہونا پسند کرتی تھیں۔

باب ۷۴۰۔ ولیمہ کے متعلق

۹۷۱۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ایک دن آنحضرت ﷺ نے

عبدالرحمن بن عوفؓ کے بدن یا کپڑوں پر زرد رنگ کا اثر دیکھا تو پوچھا

یہ کیا ہے؟ عبدالرحمن نے عرض کیا: میں نے ایک نواۃ سونے کے عوض

ایک عورت سے نکاح کیا ہے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اللہ تمہیں

مبارک کرے ولیمہ کرو چاہے ایک ہی بکری سے کرو۔

اس باب میں ابن مسعود، عائشہ، جابر اور زبیر بن عثمان سے بھی روایت ہے۔ انسؓ کی حدیث صحیح ہے۔ احمد بن حنبل کہتے ہیں ایک

گٹھلی کے برابر سونا تین درہم اور درہم کے تہائی حصے کے برابر ہوتا ہے جب کہ اسحاق کے نزدیک پانچ درہم کے برابر ہے۔

۹۷۲۔ حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے صفیہ

بنت حنی سے نکاح کے موقع پر ستواڑ کھجور سے ولیمہ کیا۔

۹۷۲۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ نَاسِفِيَانُ بْنُ عَمِيْنَةَ عَنْ

وَاتِلِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِيهِ نُوْفٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ

ابْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَيَّ

صَفِيَّةَ بِنْتِ حُنَيٍّ بِسَوِيْقٍ وَتَمْرٍ

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ محمد بن یحییٰ بھی حمید سے اور وہ سفیان سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ کئی راوی یہ حدیث ابن عیینہ سے وہ زہری سے اور وہ انسؓ سے روایت کرتے ہوئے اس میں وائل کا ذکر نہیں کرتے۔ وائل اپنے بیٹے نوف سے روایت کرتے ہیں۔ سفیان بن عیینہ اس حدیث میں تدلیس کرتے ہیں کیونکہ کبھی وائل اور نوف کا ذکر کرتے ہیں اور کبھی نہیں۔

۹۷۳۔ حدثنا محمد بن موسى البصرى نا زياد بن عبد الله نا عطاء بن السائب عن ابى عبد الرحمن عن ابن مسعود قال قال رسول الله ﷺ في يومنا هذا: يا بني، دن کا کھانا حق ہے جب کہ دوسرے دن کا سنت اور تیسرے روز ریا کاری ہے لہذا جو شخص ریا کاری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے کام لوگوں کو سنائیں گے۔ (۱)

۹۷۳۔ حدثنا محمد بن موسى البصرى نا زياد بن عبد الله نا عطاء بن السائب عن ابى عبد الرحمن عن ابن مسعود قال قال رسول الله ﷺ في يومنا هذا: يا بني، دن کا کھانا حق ہے جب کہ دوسرے دن کا سنت اور تیسرے روز ریا کاری ہے لہذا جو شخص ریا کاری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے کام لوگوں کو سنائیں گے۔ (۱)

حضرت ابن مسعودؓ کی حدیث کو ہم صرف زیاد بن عبد اللہ ہی کی روایت سے مرفوع جانتے ہیں اور یہ بہت غریب اور منکر روایتیں کرتے ہیں۔ امام بخاری محمد بن عقبہ کے حوالے سے اور وہ کعب کے حوالے سے کہتے تھے کہ زیاد بن عبد اللہ اپنے باعزت مقام کے باوجود حدیث میں جھوٹ بول دیتے ہیں۔

توضیح: یہ حدیث شادی کے بعد ویسے کی دعوت سے متعلق ہے۔ چنانچہ تیسرے دن بھی دعوت کرنے والے کے متعلق تنبیہ کی گئی ہے کہ جو شخص شہرت اور نام و نمود کی وجہ سے تیسرے دن بھی دعوت پر بلائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بارے میں اعلان کرائیں گے کہ یہ شخص جھوٹا ہے۔ اس نے صرف دکھاوے کے لیے لوگوں کو کھانا کھلایا تھا۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۷۴۱۔ ماجاء فى اجابة الداعى
۹۷۴۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دعوت میں بلائے جاؤ تو جاؤ۔

۹۷۴۔ حدثنا ابو سلمة يحيى بن خلف نا بشر بن المفضل عن اسمعيل بن امية عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ انما الدعوة اذا دعيتم

اس باب میں علیؓ، ابو ہریرہؓ، براءؓ، انسؓ اور ابویوبؓ سے بھی روایت ہے حضرت ابن عمرؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۷۴۲۔ ماجاء من يحيى الى الوليمة بغير دعوة
۹۷۵۔ حدثنا هنادنا ابو معاوية عن الاعمش عن شقيق عن ابى مسعود قال جاء رجل يقال له ابوشعيب الى غلام له لحم فقال اصنع لى طعاما يكفى خمسة فاني رايت فى وجه رسول الله ﷺ انى الله عليه وسلم الجوع فصنع طعاما ثم ارسل الى النبى

۹۷۵۔ حضرت ابو مسعودؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ابوشعيب اپنے غلام لحام کے پاس آئے اور اسے کہا کہ پانچ آدمیوں کا کھانا پکاؤ۔ میں نے رسول اللہ ﷺ کے چہرے پر بھوک کے آثار دیکھے ہیں۔ غلام نے کھانا پکایا تو اس نے آنحضرت ﷺ کو ہمشیبوں سمیت بلوایا۔ چنانچہ آپ ﷺ کے ساتھ ایک ایسا شخص بھی چل دیا۔ جو دعوت دینے کے وقت موجود نہیں تھا۔ آپ ﷺ جب اس کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو فرمایا:

(۱) یعنی وہ آخرت میں اجر سے محروم ہوگا۔ (مترجم)

ہمارے ساتھ ایک ایسا شخص بھی ہے جو دعوت دیتے وقت ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ اگر تم اجازت دو۔ وہ بھی آجائے۔ ابو شعیب نے عرض کیا: میں نے اجازت دی وہ بھی آجائے۔

صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَاهُ وَجُلَسَاءَهُ الَّذِينَ مَعَهُ فَلَمَّا
قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّبَعَهُمْ رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ
مَعَهُمْ حِينَ دُعُوا فَلَمَّا انْتَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْبَابِ قَالَ لِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ إِنَّهُ
اتَّبَعَنَا رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ مَعَنَا حِينَ دَعَوْتَنَا فَإِنْ أذْنَتْ لَهُ
دَخَلَ قَالَ فَقَدْ أَذْنَتْ لَهُ فَلْيَدْخُلْ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور اس باب میں ابن عمرؓ سے بھی روایت ہے۔

باب ۷۴۳۔ کنواری لڑکی سے شادی کرنا۔

باب ۷۴۳۔ مَا جَاءَ فِي تَزْوِجِ الْأَبْكَارِ

۹۷۶۔ حضرت جابر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں۔ میں نے ایک عورت سے نکاح کیا تو آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ ﷺ نے پوچھا کیا تم نے شادی کی ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں۔ فرمایا: کنواری سے یا بیوہ سے؟ میں نے عرض کیا: بیوہ سے۔ فرمایا: کنواری سے کیوں نہیں کی وہ تم سے کھلیتی اور تم اس سے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! عبد اللہ (یعنی ان کے والد) فوت ہو گئے اور سات یا نولڑکیاں چھوڑ گئے۔ (راوی کو شک ہے) چنانچہ میں نے اسی عورت سے شادی کی جو ان کی پرورش کر سکے۔ اس پر آنحضرتؐ نے میرے لیے دعا فرمائی۔

۹۷۶۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَاتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنْتَ وَجِئْتِ يَا جَابِرُ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِكْرًا أَمْ نَيْبًا فَقُلْتُ لَا بَلْ نَيْبًا فَقَالَ هَلَّا جَارِيَةٌ تَلَا عِيْهَا وَتَلَاعِبُكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ حَاتٍ وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ أَوْ تَسْعَا فَجِئْتُ بِمَنْ يَقُومُ عَلَيْهِنَّ فَدَعَا لِي

اس باب میں ابی بن کعبؓ اور کعب بن عجرؓ سے بھی روایت ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۷۴۴۔ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا۔

باب ۷۴۴۔ مَا جَاءَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ

۹۷۷۔ حضرت ابو موسیٰؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔

۹۷۷۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ نَا شَرِيْكَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي اسْحَقَ ح وَنَا قَتِيْبَةُ نَا ابُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي اسْحَقَ ح وَثَنَا بِنْدَارُ نَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ اسْرَائِيْلَ عَنْ أَبِي اسْحَقَ ح وَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ نَا زَيْدُ بْنُ حَبَابٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي اسْحَقَ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنْ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ

اس باب میں عائشہؓ، ابن عباسؓ، ابو ہریرہؓ، عمران بن حصینؓ اور انسؓ سے بھی روایت ہے۔

۹۷۸۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی

۹۷۸۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَمْرٍو نَا سَفِيَّانُ بْنُ عِيْنَةَ عَنْ

ابن جریج عن سلیمان عن الزہری عن عُرْوَةَ عَنْ
عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا
امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيَّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا
بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ
بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَحْرَمُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ
مَنْ لَوْلَى لَهُ

عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے گی تو اس کا نکاح باطل
ہوگا۔ (اسی طرح تین مرتبہ فرمایا) اگر اس نے اس (عورت) سے
صحبت کی تو اس کی فرج کی تحلیل کے عوض اسے مہر ادا کرنا ہوگا پھر اگر ان
کے درمیان کوئی تنازعہ ہو جائے تو سلطان اس کا ولی ہے جس کا کوئی ولی
نہ ہو۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یحییٰ بن سعید انصاری، یحییٰ بن ایوب، سفیان ثوری اور کئی حفاظ حدیث ابن جریج سے اسی کے مثل روایت
کرتے ہیں۔ ابو موسیٰ کی حدیث میں اختلاف ہے۔ چنانچہ اسے اسرائیل، شریک بن عبد اللہ، ابو عوانہ، زہیر بن معاویہ اور قیس بن ربیع
ابو اسحاق سے وہ ابو بردہ سے وہ ابو موسیٰ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ جب کہ ابو عبیدہ حداد، یونس بن ابوالاسحاق سے
وہ ابو بردہ سے وہ ابو موسیٰ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کی مانند روایت کرتے ہوئے ابو اسحاق کا ذکر نہیں کرتے۔ پھر یہ یونس بن
ابو اسحاق سے بھی ابو بردہ کے حوالے سے مرفوعاً مروی ہے۔ شعبہ اور سفیان ثوری بھی ابو اسحاق سے وہ ابو موسیٰ سے اور وہ رسول اللہ
ﷺ سے یہی حدیث روایت کرتے ہیں۔ سفیان کے بعض ساتھی بھی سفیان سے وہ ابو اسحاق سے وہ ابو بردہ سے اور وہ ابو موسیٰ سے روایت
کرتے ہیں لیکن صحیح نہیں۔ میرے نزدیک ابو اسحاق کی ابو بردہ سے اور ان کی ابو موسیٰ کے حوالے سے آنحضرت ﷺ سے مروی حدیث
کہ ”ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا“ صحیح ہے۔ اس لیے کہ ان تمام راویوں کا جو ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں۔ ابو اسحاق سے اس
حدیث کا سننا مختلف اوقات میں تھا۔ اگرچہ سفیان اور شعبہ ان سب سے زیادہ اثبت واحفظ ہیں۔ چنانچہ کئی راویوں کی روایت میرے
ز نزدیک صحیح و اشبہ ہے۔ اس لیے کہ ثوری اور شعبہ دونوں نے یہ حدیث ابو اسحاق سے ایک ہی وقت میں سنی ہے جس کی دلیل یہ ہے کہ محمود
بن غیلان، ابوداؤد سے روایت کرتے ہیں کہ ان سے شعبہ نے کہا: میں نے سفیان ثوری کو ابو اسحاق سے یہ پوچھتے ہوئے سنا کہ کیا آپ
نے ابو بردہ سے یہ حدیث سنی ہے تو فرمایا: ہاں۔ چنانچہ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان دونوں نے یہ حدیث ایک ہی وقت میں سنی
جب کہ دوسرے راویوں نے مختلف اوقات میں سنی۔ پھر اسرائیل، ابو اسحاق کی روایتوں کو اچھی طرح یاد رکھنے والے ہیں۔ محمد بن ثنی،
عبدالرحمن بن مہدی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا: ثوری کی جو احادیث مجھ سے چھوٹی گئی ہیں وہ اسرائیل ہی پر بھروسہ کرنے
کی وجہ سے چھوٹی ہیں کیونکہ یہ انہیں اچھی طرح یاد رکھتے تھے پھر حضرت عائشہ کی حدیث کہ ”ولی کے بغیر نکاح صحیح نہیں“ حسن ہے۔ اسے
ابن جریج، سلیمان بن موسیٰ سے وہ زہری سے وہ عروہ سے وہ عائشہ سے اور وہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ پھر حجاج بن ارطاة
اور جعفر بن ربیعہ بھی زہری سے وہ عروہ سے اور وہ حضرت عائشہ سے مرفوعاً اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ ہشام بھی اپنے والد سے وہ
حضرت عائشہ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ بعض محدثین زہری کی بحوالہ عائشہ، عروہ سے مروی حدیث
میں کلام کرتے ہیں۔ ابن جریج کہتے ہیں میں نے زہری سے مل کر اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ میں نے یہ حدیث
روایت نہیں کی۔ چنانچہ اسی وجہ سے محدثین اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ یحییٰ بن معین کے بارے میں مذکور ہے کہ انہوں نے کہا:
حدیث کے یہ الفاظ صرف اسماعیل بن ابراہیم ہی ابن جریج سے روایت کرتے ہیں جب کہ ان کا ابن جریج سے سماع قوی نہیں۔ چنانچہ ان
کے نزدیک بھی یہ ضعیف ہے۔ علماء کا اسی حدیث پر عمل ہے کہ ”بغیر ولی کے نکاح صحیح نہیں“۔ سعید بن مسیب، حسن بصری، شریح، ابراہیم نخعی،
عمر بن عبدالعزیز وغیرہ اسی کے قائل ہیں اور سفیان ثوری، اوزاعی، مالک، عبد اللہ بن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

مسئلہ: بغیر ولی کے نکاح کے انعقاد میں علماء کا مشہور اختلاف ہے چنانچہ شافعیہ کا مسلک یہ ہے کہ عورتوں کی عبارت سے نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ ان کا استدلال مذکورہ بالا دو حدیثوں سے ہے۔ یعنی حضرت ابوموسیٰ اور حضرت عائشہؓ کی حدیث جب کہ احناف کا مسلک یہ ہے کہ عورتوں کی عبارت و قول سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے البتہ موقوف ضرور ہوتا ہے لہذا ولی کو اعتراض کرنے یا اجازت دینے کا اختیار ہوتا ہے۔

احناف اپنے مسلک پر استدلال کرتے ہوئے شافعیہ کی متدل احادیث کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ دونوں حدیثیں قابل استدلال نہیں۔ کیونکہ حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی عبدالرحمن بن ابی بکرؓ کی غیر موجودگی میں ان کی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ جب وہ آپس آئے تو اس سے اپنی عدم رضامندی کا اظہار کیا۔ لیکن اس کے باوجود اس نکاح کے ابطال کا حکم نہیں دیا۔ اس واقعے کا اہم پہلو یہ ہے کہ شافعیہ کا استدلال حضرت عائشہؓ ہی کی حدیث سے ہے اور ان کا عمل اس حدیث کے خلاف ہے چنانچہ اس میں دو ہی صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ: یا تو حضرت عائشہؓ کے نزدیک ان کی یہ حدیث صحیح نہیں۔ چنانچہ وہ اس پر عمل نہ کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتیں۔ اور اس طرح ان کی عدالت نعوذ باللہ مشکوک ہو جاتی ہے۔ اور ان کی حدیث سے استدلال صحیح نہیں رہتا اور یہ ممکن نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اپنی ہی روایت کردہ حدیث پر عمل پیرا ہیں لیکن ان کے نزدیک اس کا مفہوم وہ نہیں جو حضرات شافعیہ سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ولی عبدالرحمن بن ابی بکرؓ کی غیر موجودگی میں کیا۔ لہذا حضرت عائشہؓ کی یہ حدیث لوٹدی پر محمول ہے آزاد عورت پر نہیں۔ یہ تھا حضرت عائشہؓ کی حدیث کے متعلق احناف کا موقف باقی رہ گئی ابوموسیٰ کی حدیث تو وہ بھی قابل استدلال نہیں۔ اس لیے کہ اس کے ارسال و اتصال میں اختلاف ہے۔ جیسا کہ امام ترمذی نے خود بیان کیا ہے۔ لہذا یہی ہے کہ یہ حدیث مرسل ہے۔ امام طحاوی بھی اس کے ارسال ہی کے قائل ہیں جب کہ علامہ ابن حجر عسقلانی کا کہنا ہے کہ اس سے استدلال صحیح نہیں۔

اس مختصر بحث کے بعد اب احناف کے چند دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔

(۱) صحاح میں مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے جب حضرت ام سلمہؓ کو نکاح کا پیغام دیا تو انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! (ﷺ) میرا کوئی ولی موجود نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: بیوہ عورت اپنے نفس کی اپنے ولی سے زیادہ حقدار ہے۔ چنانچہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ولی کے بغیر نکاح کا انعقاد جائز ہے۔

(۲) نصوص قرآنی بھی احناف ہی کے مسلک پر دلالت کرتے ہیں کیونکہ کئی مقامات پر انعقاد نکاح کو ولی کی اجازت سے مشروط کیے بغیر عورت ہی کی طرف مضاف کیا گیا ہے جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ”وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُتَّعْضَلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ بِذَوِّهِنَّ“ (ترجمہ: جب تم سے کچھ لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں اور وہ اپنی عدت پوری کرنے کے بعد اپنے شوہروں سے رضامندی کے ساتھ نکاح کرنا چاہیں تو انہیں اس سے نہ روکو اس آیت میں نکاح کے انعقاد کی اضافت عورت ہی کی طرف کی گئی ہے جس کے لیے ولی کی اجازت کی شرط نہیں رکھی گئی۔ لہذا یہ اس باب پر دلالت کرتا ہے کہ عورت کے قول سے نکاح منعقد ہو سکتا ہے۔

(۳) قیاس سے استدلال کرتے ہوئے احناف کہتے ہیں کہ جس طرح وہ شخص جو اپنے مال میں تصرف کر سکتا ہو اس کا نکاح اس کے قول و عبارت سے صحیح ہے اسی طرح جو عورت اپنے مال کو خرچ کرنے اور اس میں تصرف کا حق رکھتی ہے اس کے قول سے بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ لہذا جس طرح وہ اپنے مال میں تصرف کر سکتی ہے اسی طرح اپنے نفس میں بھی تصرف کر سکتی ہے۔

خلاصہ یہ کہ مذکورہ بالا دلائل اور شافعیہ کی متدل احادیث پر مختصری بحث سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس مسئلے میں احناف کے دلائل قوی اور صحیح ہیں نیز یہ کہ نصوص قرآنی اور قیاس بھی اسی کی تائید کرتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ (مترجم)

باب ۷۴۵۔ مَا جَاءَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بَيِّنَةً

۹۷۹۔ حدثنا يوسف بن حماد المعنى البصرى نا
عبدالاعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن
ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البعائيا
اللائى ينكحن انفسهن بغير بينة قال يوسف بن
حماد رفع عبد الاعلى هذا الحديث فى التفسير
واوقفه فى كتاب الطلاق ولم يرفعه

باب ۷۴۵۔ بغیر گواہوں کے نکاح صحیح نہیں

۹۷۹۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: زانی
عورتیں وہی ہیں جو گواہوں کے بغیر نکاح کرتی ہیں۔ یوسف بن حماد
کہتے ہیں کہ عبدالاعلیٰ نے یہ حدیث تفسیر میں مرفوع اور کتاب الطلاق
میں موقوف نقل کی ہے۔

قتیبہ، غندر سے اور وہ سعید سے اسی کی مثل روایت کرتے ہوئے بھی اسے مرفوع نہیں کرتے اور یہی صحیح ہے۔ یہ حدیث غیر محفوظ
ہے۔ ہمیں علم نہیں کہ اسے عبدالاعلیٰ کے علاوہ کسی اور نے مرفوع روایت کیا ہو۔ عبدالاعلیٰ، سعید سے اور وہ قتادہ سے مرفوع روایت کرتے
ہیں۔ پھر عبدالاعلیٰ ہی اسے سعید سے موقوف روایت کرتے ہیں۔ صحیح یہی ہے کہ یہ ابن عباس کا قول ہے کہ فرمایا: گواہوں کے بغیر نکاح صحیح
نہیں۔ کئی راوی سعید بن عروبہ سے بھی اسی کے مثل موقوف روایت کرتے ہیں۔ اس باب میں عمران بن حصینؓ، انسؓ اور ابو ہریرہؓ سے بھی
روایت ہے۔ علماء صحابہ، تابعین اور دیگر علماء اسی پر عمل پیرا ہیں کہ بغیر گواہوں کے نکاح نہیں ہوتا۔

سلف میں سے کسی کا اس مسئلے میں اختلاف نہیں۔ البتہ علماء متاخرین کی ایک جماعت کا اس میں اختلاف ہے پھر علماء کا اس مسئلے میں
اختلاف ہے۔ کہ اگر ایک گواہ دوسرے کے بعد گواہی دے تو کیا حکم ہے؟ چنانچہ اکثر علماء کوفہ اور دیگر علماء کا قول ہے کہ اگر دونوں گواہ بیک
وقت نکاح کے وقت موجود نہ ہوں اور یکے بعد دیگرے گواہی دیں تو نکاح صحیح ہے بشرطیکہ نکاح کا اعلان کیا جائے۔ مالک بن انس کا یہی
قول ہے اور اسحاق بھی اسی طرح کہتے ہیں۔ پھر بعض علماء کے نزدیک نکاح میں ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی کافی ہے۔ احمد اور اسحاق
بھی اسی کے قائل ہیں۔

باب ۷۴۶۔ مَا جَاءَ فِي خُطْبَةِ النِّكَاحِ

۹۸۰۔ حدثنا قتيبة نا عيش بن القاسم عن الاعمش
عن ابى اسحق عن ابى الاحوص عن عبد الله قال
علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التَّشَهُدُ فِي
الصَّلَاةِ وَالتَّشَهُدُ فِي الْحَاجَةِ قَالَ التَّشَهُدُ فِي
الصَّلَاةِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ
عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا
وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَالتَّشَهُدُ فِي
الْحَاجَةِ أَنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ
بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ

باب ۷۴۶۔ نکاح کا خطبہ

۹۸۰۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ہمیں نماز کے
لیے تشہد سکھانے کے ساتھ ساتھ حاجت کے لیے بھی تشہد سکھایا۔ آپ
ﷺ نے فرمایا: نماز میں اس طرح تشہد پڑھو ”التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ.....
ورسولہ“ تک اور حاجت جیسے کہ نکاح وغیرہ کا تشہد یہ ہے۔
”الحمد لله نستعينه..... ورسولہ“ تک۔ راوی کہتے ہیں کہ
اس کے بعد قرآن حکیم کی تین آیات پڑھی جائیں۔ عبث۔ سفیان ثوری
کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ تین آیتیں یہ ہیں: ”اتقوا الله حق
نقائه..... مسلمون“ تک (ترجمہ: اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو
جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے اور مرد تو مسلمان ہی مرو) ۲: ”اتقوا الله
..... رقیبا“ تک (ترجمہ: اللہ سے ڈرو جس کے نام کو سوال کا ذریعہ

بناتے ہو اور قطع رحمی نہ کرو بیشک اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ۳: اتقوا اللہ
وقولوا قولاً سدیداً یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم
ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزاً عظیماً (ترجمہ:
اے ایمان والو! خدا سے ڈرو اور بات سیدھی ہی کہو۔ وہ تمہارے
اعمال درست اور تمہاری مغفرت کر دے گا۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے
رسول ﷺ کی فرمانبرداری کرے گا بے شک وہ بہت بڑی کامیابی سے
ہمکنار ہوگا)۔

کسی حاجت یا نکاح وغیرہ کے وقت پڑھے جانے والے تشہد کا ترجمہ
یہ ہے (تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں ہم اسی سے مدد اور مغفرت
کے طلبگار ہیں اور اپنے نفسوں کو برائیوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں
جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیں اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ
گمراہ کر دیں اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ
اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد ﷺ اللہ کے بندے
اور اس کے رسول ہیں۔

اس باب میں عدی بن حاتم سے بھی روایت ہے۔ حضرت عبد اللہ کی حدیث حسن ہے۔ یہ حدیث اعمش، ابواسحاق سے وہ ابو عبیدہ
سے اور وہ عبد اللہ سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں۔ شعبہ بھی ابواسحاق سے اور وہ ابو عبیدہ سے۔ بحوالہ عبد اللہ مرفوعاً نقل کرتے ہیں اور یہ دونوں
حدیثیں صحیح ہیں اس لیے کہ اسرائیل نے دونوں سندوں کو جمع کر دیا ہے۔ چنانچہ وہ ابواسحاق سے وہ ابواحوص اور ابو عبیدہ سے وہ عبد اللہ بن
مسعود سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نکاح بغیر خطبے کے بھی جائز ہے۔ سفیان ثوری اور کئی علماء کا بھی
یہی قول ہے۔

۹۸۱۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس خطبے
میں تشہد نہ ہو وہ کوڑھی کے ہاتھ کی طرح ہے۔

۹۸۱۔ حدثنا ابو ہشام الرفاعی نا ابن فضیل عن
عاصم بن کلب عن ابیہ عن ابی ہریرۃ قال قال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل خطبۃ لیس
فیہا تشہد فہی کالید الحدماء
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۷۴۷۔ کنواری اور بیوہ سے اجازت لینا۔

۹۸۲۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کنواری
اور بیوہ دونوں کا نکاح ان کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے۔ مزید کہ
کنواری لڑکی اگر پوچھنے پر (نکاح کے متعلق) خاموش رہے تو یہی اس

باب ۷۴۷۔ ماجاء فی استیمار البکر والنیب
۹۸۲۔ حدثنا اسحاق بن منصور نا محمد بن
یوسف نا الازاعی عن یحیی بن ابی کثیر عن
ابی سلمہ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْكَحُ النَّيْبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَإِذْنُهَا الصَّمُوثُ

کی رضامندی ہے۔

اس باب میں حضرت عمرؓ، ابن عباسؓ، عائشہ اور عرس بن عمیرہؓ سے بھی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر علماء کا عمل ہے کہ بیوہ کا اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کیا جائے۔ اگرچہ اس کے والد ہی نکاح کرنا چاہیں چنانچہ اگر اس کے والد نے اس کی عدم رضامندی کے باوجود نکاح کر دیا تو اکثر علماء کے نزدیک نکاح صحیح ہو جائے گا جب کہ کنواری کے متعلق علماء میں اختلاف ہے۔ اہل کوفہ (احناف) کا مذہب یہ ہے کہ اگر کنواری لڑکی کے والد اس کی عدم رضامندی کے باوجود اس کا نکاح کر دیں تو یہ نکاح بھی صحیح ہو جائے گا۔ البتہ اس میں لڑکی کے بالغ ہونے کی شرط رکھی گئی ہے۔ لیکن بعض اہل مدینہ کہتے ہیں: کنواری کے والد اگر اس کا نکاح کر دیں تو یہ نکاح جائز ہے۔ اگرچہ اس میں لڑکی کی رضامندی شامل نہ ہو یہ امام مالک، شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی قول ہے۔

۹۸۳۔ حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ نَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْآيْمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صَمَاتُهَا

۹۸۳۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بیوہ عورت اپنے ولی سے زیادہ اپنے نفس کی حقدار ہے اور کنواری لڑکی سے بھی نکاح کی اجازت لی جائے گی چنانچہ اس کی خاموشی اس کی رضامندی کی دلیل ہے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور شعبہ اور سفیان ثوری سے بھی بحوالہ امام مالک بن انس منقول ہے بعض علماء اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نکاح بغیر ولی کے بھی جائز ہے۔ لیکن اس حدیث سے ان کا استدلال صحیح نہیں کیونکہ حضرت ابن عباسؓ سے یہ حدیث کئی سندوں سے منقول ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ولی کے بغیر نکاح صحیح نہیں۔ پھر آپ ﷺ کے بعد ابن عباسؓ کا فتویٰ بھی اسی پر ہے۔ اس حدیث سے علماء یہ معنی اخذ کرتے ہیں کہ: بیوہ کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے اگر اس کا ولی ایسا کرے گا تو نکاح صحیح ہو جائے گا۔ جیسے کہ خساء بنت خدام کی حدیث میں ہے کہ وہ بیوہ تھیں اور ان کے والد نے ان کے نہ چاہنے کے باوجود ان کا نکاح کر دیا تو آپ ﷺ نے اس کے نکاح کا حکم دیا۔

باب ۷۴۸۔ مَا جَاءَ فِي إِكْرَاهِ الْيَتِيمَةِ عَلَى التَّرْوِيجِ

۹۸۴۔ حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ نَا عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ صَمَتَتْ فَهِيَ إِذْنُهَا وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا

باب ۷۴۸۔ یتیم لڑکی پر نکاح کے لیے زبردستی صحیح نہیں۔

۹۸۴۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: یتیم لڑکی سے بھی نکاح کے لیے اس کی اجازت لی جائے۔ اگر وہ خاموش رہے تو یہ اس کی رضامندی ہے اور اگر انکار کر دے تو اس پر کوئی جبر نہیں۔

اس باب میں ابن عمرؓ اور ابو موسیٰؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر یتیم لڑکی کا اس کی اجازت کے بغیر نکاح کر دیا تو یہ موقوف ہے۔ یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے پھر اسے اختیار ہے کہ چاہے تو قبول کرے اور اگر چاہے تو ختم کر دے۔ بعض تابعین وغیرہ کا بھی یہی قول ہے۔ جب کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہ بلوغت سے پہلے یتیم لڑکی کا نکاح کرنا جائز ہے اور نہ ہی نکاح میں اختیار دینا۔ یہ سفیان ثوری، شافعی اور کچھ علماء کا قول ہے امام احمد اور اسحاق کا مسلک یہ ہے اگر یتیم کا نوسال کی عمر میں برضا و رغبت نکاح کیا گیا تو جوانی کے بعد کوئی اختیار باقی نہیں ہوتا۔ ان کی دلیل حضرت عائشہؓ کی حدیث ہے کہ

”آنحضرت ﷺ نے ان کے ساتھ نو سال کی عمر میں زفاف کیا۔ (۱) اور حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ اگر لڑکی کی عمر نو سال ہو تو وہ مکمل جوان ہے۔

باب ۷۴۹۔ مَا جَاءَ فِي الْوَالِدِينَ يُزَوِّجَانِ

باب ۷۴۹۔ اگر دو ولی دو (مختلف جگہ) نکاح کر دیں تو کیا کیا جائے؟ حضرت سمیرہ بن جندبؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کسی عورت کے دو ولی اس کا نکاح دو جگہ کر دیں تو وہ ان دونوں میں سے پہلے والے کی بیوی ہے اور اسی طرح اگر کوئی شخص ایک چیز کو دو آدمیوں کے ہاتھ فروخت کرے گا وہ ان دونوں میں سے پہلے کی ہوگی۔

۹۸۵۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَاعْنَدِرَا سَعِيْدِ بْنِ اِبِي عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَاْدَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بِنْتِ جُنْدَبٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَيُّمَا امْرَاةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَانِ فَهِيَ لِالْاَوَّلِ مِنْهُمَا وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِالْاَوَّلِ مِنْهُمَا

یہ حدیث حسن ہے علماء اس مسئلے میں متفق ہیں کہ اگر کسی عورت کے دو ولی ہوں اور ایک اس کا نکاح کر دے لیکن دوسرے کو اس کا علم نہ ہو اور وہ بھی کہیں اور نکاح کر دے تو وہ پہلے والے ہی کی بیوی ہے اور دوسرا نکاح باطل ہے اور اگر دونوں ایک ہی وقت میں نکاح کریں تو دونوں کا ہی باطل ہوگا یہ سفیان ثوری احمد اور اسحاق کا بھی قول ہے۔

باب ۷۵۰۔ مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ اِذْنِ سَيِّدِهِ

باب ۷۵۰۔ غلام کا اپنے سید کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا۔ ۹۸۶۔ حضرت جابر بن عبد اللہؓ، آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ اگر کوئی غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح کرے تو وہ زانی ہے۔

۹۸۶۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ نا الْوَلِيْدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ زَهِيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ اِذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ

اس باب میں ابن عمرؓ سے بھی روایت ہے۔ حضرت جابرؓ کی حدیث حسن ہے۔ بعض راوی یہ حدیث عبد اللہ بن محمد بن عقیل سے اور وہ ابن عمرؓ سے مرویاً نقل کرتے ہیں لیکن یہ صحیح نہیں۔ صحیح یہی ہے کہ عبد اللہ بن محمد بن عقیل حضرت جابرؓ سے روایت کرتے ہیں۔ تمام علماء صحابہ وغیرہ کا یہی مسلک ہے کہ غلام کا اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا صحیح نہیں۔ احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

۹۸۷۔ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدِ الْاَمْوِيُّ نا

۹۸۷۔ عبد اللہ بن محمد بن عقیل، حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے اور وہ رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جو غلام اپنے مالک سے اجازت لیے بغیر نکاح کرے وہ زانی ہے۔

اِبِي نا اَبْنُ حُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ اِذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ

باب ۷۵۱۔ مَا جَاءَ فِي مَهْوَرِ النِّسَاءِ

۹۸۸۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نا يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِيٍّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالُوْا نا

باب ۷۵۱۔ عورتوں کے مہر سے متعلق ۹۸۸۔ عاصم بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں نے عبد اللہ بن عامر بن ربیعہ سے ان کے والد کے حوالے سے سنا کہ قبیلہ بنو فزارة کی ایک عورت نے

(۱) زفاف: سہاگ رات کو کہتے ہیں۔ (مترجم)

دو جو تئوں کی مہر مقرر کر کے نکاح کیا تو آنحضرت ﷺ نے اس سے پوچھا: کیا تم دو جو تئوں کے عوض اپنی جان و مال دینے پر راضی ہو؟ اس نے عرض کیا: جی ہاں چنانچہ آپ ﷺ نے اسے اجازت دے دی۔

شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أُمَّرَأَةً مِنْ بَنِي فِرَازَةَ تَزَوَّجَتْ عَلِيَّ نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضَيْتِ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِنَعْلَيْنِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَأَجَازَهُ

اس باب میں عمر، ابو ہریرہ، سہل بن سعد، ابو سعید، انس، عائشہ، جابر اور ابو ہریرہ سلمیٰ سے بھی روایت ہے۔ عامر بن ربیعہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ مہر کے مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ مہر کی کوئی مقدار متعین نہیں لہذا زوجین جس پر متفق ہو جائیں وہی مہر ہے۔ سفیان ثوری، شافعی، احمد اور اسحاق کا یہی قول ہے۔ جب کہ امام مالک کے نزدیک مہر زلیح دینا رہے (¼) اور اہل کوفہ کے نزدیک دس درہم سے کم نہیں ہے۔

۹۸۹۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی فرماتے ہیں کہ ایک عورت خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا: میں نے خود کو آپ ﷺ کے حوالے کر دیا۔ پھر کافی دیر کھڑی رہی تو ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! (ﷺ) اگر آپ کو اس کی حاجت نہیں تو اس کا نکاح مجھ سے کر دیجئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کوئی چیز ہے؟ عرض کیا: میرے پاس صرف یہی تہبند ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر تم اپنا تہبند اسے دو گے تو خود خالی بیٹھے رہو گے۔ لہذا کوئی اور چیز تلاش کرو۔ عرض کیا: کچھ نہیں۔ فرمایا: تلاش کرو اگرچہ وہ لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو۔ راوی کہتے ہیں انہوں نے تلاش کیا لیکن کچھ نہ پا کر دوبارہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ ﷺ نے پوچھا: تم نے قرآن میں سے کچھ حفظ کیا ہے؟ عرض کیا جی ہاں فلاں سورت، فلاں سورت وغیرہ حفظ کی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میں نے اس قرآن کے عوض تیرا نکاح اس کے ساتھ کر دیا۔ (یعنی تم اس کو وہ قرآن پڑھا دو جو تمہیں یاد ہے یہی اس کا مہر ہے)۔

۹۸۹۔ حدثنا الحسن بن علي الخلال نا اسحق بن عيسى و عبد الله بن نافع قالانا مالك بن انس عن ابي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه امرأة فقالت اني وهبت نفسي لك فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجة فقال هل عندك من شيء تضدقها فقال ما عندي الا ازارى هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازارك ان اعطيتها جلست ولا ازار لك فالتمس شيئا فقال ما اجد قال التمس ولو خاتما من حديد قال فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سيمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور شافعی اسی پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں: کہ اگر کوئی قرآن کی تعلیم کو مہر مقرر کرتے ہوئے کسی کے ساتھ نکاح کر لے تو یہ جائز ہے بشرطیکہ اس کے پاس کوئی اور چیز نہ ہو۔ لہذا وہ اپنی بیوی کو چند سورتیں پڑھا دے۔ لیکن اہل کوفہ، امام احمد اور اسحاق کہتے ہیں کہ نکاح تو ہو جاتا ہے لیکن مہر مثل کی ادائیگی واجب ہے۔

۹۹۰۔ ابو جعفر کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا: عورتوں کا مہر

۹۹۰۔ حدثنا ابن ابي عمر نا سفیان بن عيينة عن

مقرر کرنے میں غلو نہ کرو اس لیے کہ اگر زیادہ مہر رکھنا دنیا میں عزت اور اللہ کے نزدیک تقویٰ ہوتا تو اس کے لیے تم سب میں آنحضرت ﷺ اس کے زیادہ لائق ہوتے مجھے علم نہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ازواج مطہرات میں سے کسی کے ساتھ یا اپنی بیٹیوں کے نکاحوں میں بارہ اوقیہ سے زیادہ مہر مقرر کیا ہو۔

ایوب عن ابن سیرین عن أبي العجفاء قال قال عمر بن الخطاب الاتعالموا صدقة النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نساؤه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من ننتي عشرة أوقية

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو عجفاء کا نام ہرم ہے۔ علماء کے نزدیک اوقیہ چالیس درہم کا ہوتا ہے لہذا بارہ اوقیہ چار سو اسی درہم ہوئے۔

باب ۵۲۔ جو شخص اپنی لونڈی کو آزاد کرے اس سے نکاح کرے۔ ۹۹۱۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے صفیہ کو آزاد کیا۔ اور یہی آزادی ان کا مہر مقرر کی۔

باب ۷۵۲۔ ماجاء في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها ۹۹۱۔ حدثنا قتيبة نا ابو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب بن صهيب عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها

اس باب میں صفیہ سے بھی روایت ہے۔ حضرت انس کی حدیث حسن صحیح ہے اور بعض علماء صحابہ وغیرہ، امام شافعی، احمد اور اسحاق اسی پر عمل کرتے ہیں جب کہ بعض علماء حنفیہ کو مہر مقرر کرنا مکروہ سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک ضروری ہے کہ حنفیہ کے علاوہ بھی مہر ہونا چاہیے۔ لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔

باب ۷۵۳۔ ماجاء في الفضل في ذلك

باب ۵۳۔ اس کی فضیلت سے متعلق۔

۹۹۲۔ حضرت ابو بردہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تین شخصوں کو ان کی نیکیوں کا اجر دو گنا ملے گا۔ (۱) ایسا غلام جو اللہ کا بھی حق ادا کرے اور اپنے سید کا بھی۔ (۲) ایسا شخص جس کی ملکیت میں ایک خوبصورت باندی ہو وہ اسے ادب (دینداری) سکھانے کے بعد آزاد کرے اسی کے ساتھ نکاح کر لے۔ بشرطیکہ اس کا یہ عمل خالصتہً اللہ ہی کی رضامندی کے لیے ہو۔ (۳) تیسرے وہ شخص جو پہلی کتاب پر بھی (توراة، زبور، انجیل وغیرہ) ایمان لایا اور اس کے بعد جب دوسری کتاب نازل ہوئی تو اس پر بھی ایمان لایا۔ (یعنی قرآن کریم) ایسے تینوں اشخاص کے لیے ان کے اعمال پر دو گنا اجر دیا جائے گا۔

۹۹۲۔ حدثنا هنادنا على بن مسهر عن الفضل بن يزيد عن الشعبي عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين عند آذى حق الله وحق موالیه فذلك يؤتى أجره مرتين ورجل كانت عنده جارية وضيئة فآذ بها ثم اعتقها ثم تزوجها يتبع بذلك وجه الله فذلك يؤتى أجره مرتين ورجل آمن بالكتاب الأول ثم جاءه الكتاب الآخر فآمن به فذلك يؤتى أجره مرتين

حضرت ابن عمر، سفیان سے وہ صالح بن صالح بن حنی سے وہ شعیب سے وہ ابو بردہ سے وہ ابو موسیٰ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے ہم معنی حدیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو بردہ کا نام عامر بن عبد اللہ بن قیس ہے۔ شعبہ اور ثوری یہ حدیث صالح بن صالح بن حنی سے نقل کرتے ہیں۔

باب ۵۴۔ جو شخص کسی عورت سے نکاح کرنے کے بعد اس سے صحبت کرنے سے پہلے اسے طلاق دیدے تو کیا وہ اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں؟

باب ۷۵۴۔ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا هَلْ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا أَمْ لَا

۹۹۳۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرنے کے بعد صحبت کر لے تو وہ اس عورت کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر صحبت نہ کی ہو تو اس صورت میں اس کی بیٹی اس کے لیے حلال ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کر لے تو اس کی ماں اس پر حرام ہو جاتی ہے خواہ اس نے صحبت کی ہو یا نہ کی ہو۔

۹۹۳۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا ابْن لِهَيْعَةَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيَّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَلَا يَجِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلْيُنِكَحِ ابْنَتَهَا وَ أَيَّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا أَوْلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا يَجِلُّ لَهُ نِكَاحُ امْرَأَتِهَا

امام ترمذی کہتے ہیں: اس حدیث کی سند صحیح نہیں۔ ابن لہیعہ، ثنی بن صباح سے اور وہ عمرو بن شعیب سے روایت کرتے ہیں اور ابن لہیعہ اور ثنی دونوں حدیث میں ضعیف ہیں۔ اکثر علماء اسی حدیث پر عمل پیرا ہیں۔ چنانچہ ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کر کے اس سے صحبت کیے بغیر طلاق دے دے تو اس کی بیٹی اس کے لیے حلال ہے لیکن بیوی کی ماں اس پر ہر صورت میں حرام ہے چاہے وہ اس کے ساتھ صحبت کر کے طلاق دے یا اس سے پہلے اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ”وامهات نسا نکم“ اور تمہاری بیویوں کی ماںیں (تمہارے لیے حرام ہیں) امام شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

باب ۵۵۔ جو شخص اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے اور اس کے بعد وہ کسی اور کے ساتھ شادی کر لے لیکن یہ شخص صحبت سے پہلے ہی اسے طلاق دیدے۔

باب ۷۵۵۔ مَا جَاءَ فِي مَنْ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَيَتَزَوَّجُهَا آخَرَ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

۹۹۴۔ حضرت عائشہ غرمامی ہیں کہ رفاعہ قرظی کی بیوی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ میں رفاعہ کے نکاح میں تھی کہ انہوں نے مجھے تین طلاقیں دے دیں۔ پھر میں نے عبدالرحمن بن زبیر کے ساتھ شادی کی لیکن ان کے پاس صرف کپڑے کے جھالر کی طرح ہے۔ (۱) آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تم چاہتی ہو کہ دوبارہ رفاعہ کے نکاح میں آ جاؤ؟ نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ تم ان کا اور وہ تمہارا مزہ چکھ لیں۔ (۲)

۹۹۴۔ حَدَّثَنَا ابْن ابْنِ عَمْرٍو اسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ نَا سَفِيَانُ بْنُ عَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةٌ رِفَاعَةَ الْقُرْظِيَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاغِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَمَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَقَالَ أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرَجِعِي إِلَيَّ رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتِكَ

(۱) یہ الفاظ نامروی سے کنایہ ہیں۔ یعنی وہ نامرد ہیں۔ (مترجم)

(۲) یہ الفاظ جماع سے کنایہ کے طور پر ہیں۔ یعنی یہاں تک کہ تم دونوں جماع کی لذت حاصل کر لو۔ (مترجم)

اس باب میں ابن عمر، انس، میصاء یا غمیصاء اور ابو ہریرہؓ سے بھی روایت ہے۔ حضرت عائشہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور تمام علماء صحابہ اور دیگر علماء کا اسی پر عمل ہے کہ اگر کوئی عورت تین طلاقیں لینے کے بعد کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لے اور صحبت سے پہلے ہی طلاق واقع ہو جائے تو وہ پہلے والے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوتی یہاں تک کہ دوسرا شوہر اس سے صحبت کرے۔

باب ۷۵۶۔ مَا جَاءَ فِي الْمُحَلِّ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ

۹۹۵۔ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ نَا اشعث بن عبد الرحمن بن زبید الايامی نَا مجالد عن المشعبي

عَنْ جَابِرٍ وَعَلِيٍّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُحَلِّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

اس باب میں ابن مسعودؓ، ابو ہریرہؓ، عقبہ بن عامرؓ اور ابن عباسؓ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضرت جابر اور حضرت علیؓ کی حدیث معلول ہے۔ اشعث بن عبد الرحمنؓ بھی خالد سے وہ عامر سے وہ حارث سے وہ علی سے وہ جابر سے وہ عبد اللہ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے ایسے ہی نقل کرتے ہیں۔ اس حدیث کی سند قوی نہیں۔ اس لیے کہ مجالد بن سعیدؓ بعض محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں جن میں احمد بن حنبلؓ بھی شامل ہیں۔ عبد اللہ بن نمیرؓ بھی یہ حدیث مجالد سے وہ عامر سے وہ جابر سے اور وہ علی سے نقل کرتے ہیں۔ اس روایت میں ابن نمیرؓ وہم کرتے ہیں اور پہلی حدیث زیادہ صحیح ہے۔ مغیرہؓ، ابن ابی خالد اور کئی راوی بھی شعبی سے وہ حارث سے اور وہ علیؓ سے روایت کرتے ہیں۔ محمود بن غیلانؓ بھی ابو احمد سے وہ سفیان سے وہ ابو قیس سے وہ ہزیم بن شریل سے اور وہ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے نقل کرتے ہیں۔ کہ آنحضرت ﷺ نے حلالہ کرنے اور کرانے والے دونوں پر لعنت بھیجی ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو القیس کا نام عبد الرحمن بن ثروان ہے۔ یہ حدیث آنحضرت ﷺ سے کئی سندوں سے منقول ہے۔ علماء صحابہ جیسے کہ عمر بن خطابؓ، عثمان بن عفانؓ عبد اللہ بن عمرؓ اور ان کے علاوہ کئی صحابہ کا اسی پر عمل ہے۔ فقہائے تابعین، سفیان ثوریؓ، ابن مبارکؓ، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے میں نے جارود سے سنا کہ کعب بھی اسی کے قائل تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس باب میں اہل رائے کی رائے پھینک دینے کے قابل ہے۔ کعب کہتے ہیں کہ سفیان کے نزدیک اگر کوئی شخص کسی عورت سے اس نیت سے نکاح کرے کہ اسے پہلے شوہر کے لیے حلال کر دے اور پھر اس کی چاہت ہو کہ وہ اسے اپنے ہی پاس رکھے تو دوسرا نکاح کرے کیونکہ پہلا نکاح صحیح نہیں۔

مسئلہ: احناف کا اس مسئلے میں مسلکت ہے کہ چونکہ روایت ابن مسعودؓ میں حلالہ کرنے والے اور کرانے والے دونوں پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ لہذا تحلیل کی شرط سے نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ لیکن یہ نکاح صحیح ہے اور وہ عورت پہلے شوہر کے لیے صحبت کے بعد حلال ہو جائے گی اس لیے کہ نکاح شروط فاسدہ سے باطل نہیں ہوتا۔ جہاں تک حضرت ابن مسعودؓ کی حدیث کا تعلق ہے تو چونکہ اس میں دوسرے شوہر کو حلالہ کرنے والا بنایا گیا ہے لہذا یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ نکاح صحیح ہے اور اس سے وہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ ﷺ اسے حلالہ کرنے والا نہ کہتے۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۷۵۷۔ مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ الْمُتَعَةِ

۹۹۶۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَمْرٍو نَا سفیان عن الزهري

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنِي مُحَمَّدٍ بِنِ عَلِيٍّ عَنْ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنِي مُحَمَّدٍ بِنِ عَلِيٍّ عَنْ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنِي مُحَمَّدٍ بِنِ عَلِيٍّ عَنْ

۹۹۶۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے غزوہ خیبر کے

زمانے میں نکاح متعہ اور شہری گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا:

أَيْبُهُمَا عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ

اس باب میں سبرہ چھٹی اور ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے۔ حضرت علیؑ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ علماء صحابہ وغیرہ کا اسی پر عمل ہے۔ ابن عباسؓ سے متعہ کے متعلق کسی قدر رخصت منقول ہے لیکن بعد میں جب انہیں بتایا گیا کہ آنحضرت ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے تو انہوں نے اپنے اس قول سے رجوع کر لیا تھا۔ اکثر علماء متعہ کو حرام کہتے ہیں جن میں ثوری، ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق شامل ہیں۔ محمود بن غیلان، سفیان بن عقبہ (جو قبصہ بن عقبہ کے بھائی ہیں) سے وہ سفیان ثوری سے وہ موسیٰ بن عبیدہ سے وہ محمد بن کعب سے اور وہ ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: متعہ اسلام کے شروع میں تھا۔ جب کوئی شخص کسی نئی جگہ جاتا جہاں اس کی کوئی جان پہچان نہ ہوتی تو وہ جتنے اسے وہاں رہنا ہوتا اتنے دن کے لیے کسی عورت کے ساتھ شادی کر لیا کرتا تھا کہ وہ اس کے سامان کی حفاظت اور اس کی خدمت کرے۔ یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی ”الاعلیٰ ازواجہم او ماملکت ایمانہم“ یعنی وہی لوگ مؤمن ہیں جو اپنی بیویوں اور باندیوں کے علاوہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں ان دونوں کے علاوہ تمام فروج (شرمگاہیں) حرام ہیں۔

باب ۷۵۸۔ نکاح شغار کی ممانعت۔ (۱)

۹۹۷۔ حدیثنا محمد بن عبد الملک بن ابی الشوارب نا بشر بن المفضل نا حمید وهو الطویل قال حدث الحسن عن عمران بن حصین عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا جلب ولا حنب ولا شغار فی الاسلام ومن انتہب نہیة فلیس منا

باب ۷۵۸۔ مَا جَاءَ مِنَ النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ

۹۹۷۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَّارِبِ نَا بَشْرُ بْنُ الْمُفْضَلِ نَا حَمِيدٌ وَهُوَ الطَّوِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا جَلْبَ وَلَا حَنْبَ وَلَا شِغَارًا فِي الْإِسْلَامِ وَمَنْ أَنْتَهَبَ نَهْيَةَ فَلَيْسَ مِنَّا

اس باب میں انسؓ، ابو ہریرہؓ، ابو یحییٰؓ، ابن عمرؓ، جابرؓ، معاویہؓ اور وائل بن حجرؓ سے بھی روایت ہے۔

۹۹۸۔ حدیثنا اسحاق بن موسیٰ الانصاری نا معن نا مالک عن نافع عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا۔

۹۹۸۔ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْإِنصَارِيِّ نَا مَعْنٌ نَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَعَ فَرَمَايَا۔

(۱) شغار کے معنی یہ ہیں کہ کوئی شخص اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح اس شرط پر کسی کے ساتھ کرے کہ وہ بھی اس سے اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح کرے اور ان میں مہر کا تقرر نہ ہو۔ (مترجم)

(۲) جلب کا زکوٰۃ کے باب میں یہ معنی ہے کہ زکوٰۃ کا عامل کسی ایک جگہ ٹھہر جائے اور جانوروں والوں سے کہے کہ وہ خود اپنے اپنے جانور اس کے پاس لائیں۔ یہی لفظ گھڑ دوڑ میں استعمال ہوتا ہے اور اس میں اس سے یہ معنی مراد لیے جاتے ہیں کہ آدمی ایک گھوڑے پر سوار ہو اور دوسرا بھی ساتھ رکھے تاکہ ایک تھک جائے تو دوسرے پر سوار ہو سکے۔ (مترجم)

(۳) حنب کے بھی گھڑ دوڑ کے باب میں جلب ہی کے معنی ہیں لیکن زکوٰۃ کے باب میں کچھ علماء کے نزدیک اس کے یہ معنی ہیں کہ زکوٰۃ دینے والے اپنے جانور لے کر دو دروڑ چلے جائیں تاکہ عامل ان کو ڈھونڈتا اور تلاش کرتا پھرے۔ واللہ اعلم (مترجم)

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشَّعَارِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر تمام علماء کا عمل ہے کہ نکاح شغار جائز نہیں۔ شغار اسے کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنی بہن یا بیٹی کو بغیر مہر مقرر کیے کسی کے نکاح میں اس شرط پر دے دے کہ وہ بھی اپنی بہن یا بیٹی اس کے نکاح میں دے۔ اس میں مہر مقرر نہیں ہوتا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر اس پر مہر بھی مقرر کر دیا جائے تب بھی یہ حلال نہیں اور یہ نکاح باطل ہو جائے گا شافعی، احمد اور اسحاق کا یہی قول ہے۔ عطاء بن ابی رباح سے منقول ہے کہ ان کا نکاح برقرار رکھا جائے۔ لیکن مہر مثل واجب ہوگا۔ اہل کوفہ بھی اسی کے قائل ہیں۔

باب ۷۵۹۔ مَا جَاءَ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَاتِهَا

باب ۵۹۔ خالہ، بھانجی اور پھوپھی، بھتیجی ایک نکاح میں نہیں رہ سکتیں۔

۹۹۹۔ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ نَا عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى نَا سَعِيدَ بْنَ أَبِي عَرُوبَةَ عَنِ ابْنِ حَرِيْزٍ عَنْ عِكْرِمَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَاتِهَا

۹۹۹۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے پھوپھی کی نکاح میں موجودگی میں اس کی بھتیجی اور خالہ کی موجودگی میں اس کی بھانجی سے نکاح کرنے سے منع فرمایا۔

نصر بن علی، عبدالاعلیٰ سے وہ ہشام بن حسان سے وہ ابن سیرین سے اور وہ ابو ہریرہؓ سے مرفوعاً اسی کے مثل نقل کرتے ہیں۔ اس باب میں علیؓ، ابن عمرؓ، ابوسعیدؓ، ابوامامہؓ، جابرؓ، عائشہؓ، ابو موسیٰؓ اور سرہ بن جندبؓ سے بھی روایت ہے۔

۱۰۰۰۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ نَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ نَا عَامِرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ الْعَمَّةِ عَلَى بِنْتِ أُخِيهَا أَوْ الْمَرْأَةِ عَلَى خَالَاتِهَا أَوْ الْخَالَةَ عَلَى بِنْتِ أُخِيهَا وَلَا تُنْكَحَ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى

۱۰۰۰۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے پھوپھی کی موجودگی میں اس کی بھتیجی اور بھتیجی کی موجودگی میں اس کی پھوپھی اور پھر خالہ کی موجودگی میں اس کی بھانجی اور بھانجی کی موجودگی میں اس کی خالہ سے نکاح کرنے سے منع فرمایا۔ یعنی بڑی کی موجودگی میں چھوٹی اور چھوٹی کی موجودگی میں بڑی سے نکاح نہیں کیا جاسکتا۔

حضرت ابن عباسؓ اور ابو ہریرہؓ کی حدیثیں حسن صحیح ہیں۔ ہمارے علم کے مطابق علماء کا اس مسئلے میں اتفاق ہے کہ کسی شخص کے لیے بھانجی اور خالہ یا پھوپھی بھتیجی کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں۔ اور اگر کسی نے ایسا کیا تو ان میں سے دوسرا نکاح باطل ہوگا۔ تمام علماء اسی کے قائل ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں: شعبہ کی حدیث ابو ہریرہؓ سے ملاقات ثابت ہے میں نے امام بخاری سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ بھی صحیح ہے اور شعبہ، حضرت ابو ہریرہؓ سے ایک شخص کے واسطے سے بھی روایت کرتے ہیں۔

باب ۷۶۰۔ مَا جَاءَ فِي الشَّرْطِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ

باب ۶۰۔ نکاح کے انعقاد کے وقت شرط سے متعلق

۱۰۰۱۔ حَدَّثَنَا يَوْسُفُ بْنُ عِيسَى نَاوَكِيْعُ نَا عَبْدِ النَّحْمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنِ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَقِبَةَ ابْنِ عَامِرٍ

۱۰۰۱۔ حضرت عقبہ بن عامرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: شروط میں سب سے زیادہ قابل ایفاء وہ شرط ہے جس سے تم نے فروج کو حلال کیا ہو۔

الْجَهَنِّي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَقَّ الشَّرُوطِ أَنْ يُوقَى بِهَا مَا اسْتَحَلَلْتُمْ بِهَا الْفُرُوجَ

ابوموسیٰ محمد بن ثنی، یحییٰ بن سعید سے اور وہ عبدالحمید بن جعفر سے اسی کے مثل حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض علماء صحابہ وغیرہ کا اسی پر عمل ہے۔ جن میں عمر بن خطابؓ بھی شامل ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے اس شرط پر نکاح کرے کہ وہ اسے اس کے شہر سے باہر نہیں لے جائے گا تو اسے اس شرط کو پورا کرنا چاہیے۔ بعض علماء شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ حضرت علیؓ سے منقول ہے کہ اللہ کی شرط ہر شرط پر مقدم ہے۔ گویا کہ ان کے نزدیک شوہر کا اپنی بیوی کو اس طرح کے باوجود شہر سے لے جانا صحیح ہے بعض علماء کا بھی یہی قول ہے۔ سفیان ثوری اور بعض اہل کوفہ بھی اسی کے قائل ہیں۔

باب ۷۶۱۔ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُسَلِّمُ وَ عِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ

باب ۷۶۱۔ اس شخص کے متعلق جس کے نکاح میں دس بیویاں ہوں اور وہ مسلمان ہو جائے

۱۰۰۲۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ عَبْدِ عَن سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنِ مَعْمَرِ بْنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غِيلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَ مَعَهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

۱۰۰۲۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے کہ غیلان بن سلمہ ثقفی مسلمان ہوئے تو ان کے نکاح میں دس بیویاں تھیں وہ بھی ان کے ساتھ ہی مسلمان ہو گئیں۔ آپ ﷺ نے حکم دیا کہ ان میں سے چار کا انتخاب کر لیں۔

معمربھی زہری سے وہ سالم سے اور وہ اپنے والد سے اسی طرح روایت کرتے ہیں۔ میں نے امام بخاری سے سنا کہ یہ حدیث غیر محفوظ ہے اور صحیح وہ ہے جو شعیب بن حمزہ وغیرہ زہری سے اور وہ محمد بن سوید ثقفی سے نقل کرتے ہیں کہ غیلان بن سلمہ اسلام لائے تو ان کی دس بیویاں تھیں۔ مزید کہتے ہیں کہ زہری کی سالم سے اور ان کی ان کے والد سے منقول یہ حدیث بھی صحیح ہے کہ بنو ثقیف کے ایک شخص نے اپنی بیویوں کو طلاق دی تو حضرت عمرؓ نے اسے حکم دیا کہ تم ان سے رجوع کرو، وگرنہ میں تمہاری قبر کو بھی البورغال کی قبر کی طرح رجم کروں گا۔ اس باب میں غیلان ہی کی حدیث پر علماء کا عمل ہے۔ جن میں امام شافعی اور احمد بھی شامل ہیں۔

باب ۷۶۲۔ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُسَلِّمُ وَ عِنْدَهُ أُخْتَانِ

باب ۷۶۲۔ اس شخص کے متعلق جو مسلمان ہو اور اس کے نکاح میں دو بہنیں ہوں۔

۱۰۰۳۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا ابْنِ لَهَيْعَةَ عَنْ أَبِي وَهَبِ الْحَيْشَانِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ فَيْرُوزَ الدِّيْلَمِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ آتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَ تَحْتِي أُخْتَانِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَرِ أَيَّهُمَا شِئْتَ

۱۰۰۳۔ ابو وہب حیثانی، ابن فیروز دیلمی سے نقل کرتے ہیں کہ ان کے والد نے فرمایا: میں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میرے نکاح میں دو بہنیں ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تم ان دونوں میں سے جس کا چاہو انتخاب کر لو۔

یہ حدیث حسن غریب ہے اور ابو وہب حیثانی کا نام دہلیم بن ہوشع ہے۔

باب ۷۶۳۔ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَهِيَ حَامِلٌ

باب ۷۶۳۔ اس شخص کے متعلق جو حاملہ باندی خریدے۔

۱۰۰۴۔ حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري نا عبدالله بن وهب نا يحيى بن ايوب عن ربيعة بن سليم عن بسر بن عبيد الله عن رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقَى مَاءً هُوَ وَلَدَ غَيْرِهِ

۱۰۰۳۔ حضرت رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ کسی دوسرے سے حاملہ ہونے والی عورت سے صحبت نہ کرے (یعنی اگر اس کو خرید لے وغیرہ)

یہ حدیث حسن ہے اور کئی سندوں سے روایع بن ثابتؓ ہی سے منقول ہے علماء اسی پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی باندی کو حاملہ ہوتے ہوئے خریدے تو بچہ پیدا ہونے تک اس سے صحبت نہ کرے۔ اس باب میں ابودرداءؓ، عمر باض بن ساریہؓ اور ابوسعیدؓ سے بھی روایت ہے۔

باب ۷۶۴۔ مَا جَاءَ يَسْبِي الْأَمَةَ وَلَهَا زَوْجٌ هَلْ يَجِلُّ لَهَا وَطَيْهَا

باب ۷۶۳۔ اگر کسی باندی کا شوہر بھی ہو تو کیا اس سے صحبت کرنا جائز ہے؟

۱۰۰۵۔ حدثنا احمد بن منيع نا هشيم نا عثمان البتي عن ابى الخليل عن ابى سعيد الخدرى قال أصبنا سبائا يوم أوطاس ولهن أزواج في قومهن فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت "والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم"

۱۰۰۵۔ حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ ہم نے جنگ اوطاس کے موقع پر کچھ ایسی عورتیں قید کیں جو شادہی شدہ تھیں اور ان کے شوہر بھی اپنی اپنی قوم میں موجود تھے۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ سے اس کا تذکرہ کیا گیا تو یہ آیت نازل ہوئی "والمحصنات من النساء الاماملكت ايمانكم" ترجمہ: اور وہ عورتیں جو شوہروں والی ہیں ان سے صحبت کرنا حرام ہے ہاں البتہ اگر وہ تمہاری ملکیت میں آجائیں تو.....

یہ حدیث حسن ہے ثوری اور عثمان جتی بھی ابوخلیل سے اور وہ ابوسعید سے اسی حدیث کے مثل بیان کرتے ہیں۔ ابوخلیل کا نام صالح بن ابی مریم ہے۔ ہام بھی یہ حدیث قتادہ سے وہ صالح ابوخلیل سے وہ ابوعلقمہ ہاشمی سے وہ ابوسعید سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ ہم سے اسے عبد بن حمید نے حبان بن ہلال سے اور انہوں نے ہام کے حوالے سے نقل کیا ہے۔

باب ۷۶۵۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ مَهْرِ الْبَغِيِّ

باب ۷۶۵۔ زنا کی اجرت حرام ہے۔

۱۰۰۶۔ حدثنا قتيبة نا الليث عن ابن شهاب عن ابى بكر بن عبد الرحمن عن ابى مسعود الأنصاري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن

۱۰۰۶۔ حضرت ابوسعود انصاریؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے کتے کی قیمت، زانیہ کی اجرت اور کابن (غیب کے علم کے دعویدار) کی مٹھالی کھانے سے منع فرمایا۔

اس باب میں رافع بن خدیجؓ، ابوہریرہؓ، ابو حنیفہؓ اور ابن عباسؓ سے بھی روایت ہے۔ ابوسعودؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۷۶۶۔ مَا جَاءَ أَنْ لَا يُخْطَبَ الرَّجُلُ عَلَى حِطْبَةِ أَخِيهِ

باب ۷۶۶۔ کسی کے پیغام پر پیغام نکاح بھیجنے کی ممانعت

۱۰۰۷۔ حدثنا احمد بن منيع و قتيبة قالا نا سفين بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن

۱۰۰۷۔ حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوئی شخص اپنے بھائی کی بیٹی ہوئی چیز پر وہی چیز اس سے کم قیمت میں فروخت نہ

ابۃ ہُرَیْرَةَ قَالَ قُتَيْبَةُ يَلْبَعُ بِهِ وَقَالَ أَحْمَدُ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَيَّ بَيْعِ
أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَيَّ خِطْبَةَ أَخِيهِ

کرے۔ اور نہ ہی کوئی اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام بھیجے۔

اس باب میں سمرہ اور ابن عمر سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ نکاح کے پیغام کی ممانعت اس صورت میں ہے کہ وہ پہلے شخص سے نکاح پر راضی ہو۔ امام شافعی بھی اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ ممانعت اسی صورت میں ہے کہ اگر نکاح کا پیغام دی جانے والی عورت اس کی طرف راغب ہو اور اس سے رضامندی ظاہر کر دے تو اسے پیغام بھیجنا جائز نہیں۔ لیکن اگر اس کی رضا و رغبت سے پہلے پیغام بھیجے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ جس کی دلیل حضرت فاطمہ بنت قیسؓ کی حدیث ہے کہ وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ (ابو جہم بن حذیفہ اور معاویہ بن ابوسفیان نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ آپ ﷺ فرمایا: ”ابو جہم تو ایسا شخص ہے کہ عورتوں کو بہت مارتا ہے رہ گئے معاویہ وہ فقیر ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ ایسا کرو کہ اسامہ سے نکاح کر لو۔“ ہمارے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں کہ فاطمہؓ بنت قیس نے اس وقت تک ان دونوں میں کسی سے بھی اپنی رضامندی کا اظہار نہیں کیا تھا کیونکہ اگر انہوں نے آپ ﷺ کو بتایا ہوتا کہ وہ کسی ایک کے ساتھ راضی ہیں تو آپ ﷺ کبھی انہیں اسامہؓ سے شادی کا مشورہ نہ دیتے۔

۱۰۰۸۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ، ابوداؤد سے وہ شعبہ سے اور وہ ابوبکر بن ابی جہم سے نقل کرتے ہیں کہ میں (ابوبکر بن ابی جہم) اور ابوسلمہ بن عبدالرحمن، فاطمہ بنت قیسؓ کے پاس گئے تو انہوں نے بتایا کہ ان کے شوہر نے انہیں تہ طلاقیں دے دی ہیں اور ان کے لیے نہ رہائش کا بندوبست کیا ہے نہ مال و نفقہ کا۔ باوجودیکہ انہوں نے اپنے ایک چچا زاد بھائی کے پاس دس قبضہ غلہ رکھوایا ہے جس میں سے پانچ جو کے اور پانچ گیہوں کے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہیں یہ ماجرا سنایا: آپ ﷺ نے فرمایا: انہوں نے ٹھیک کیا اور مجھے حکم دیا کہ میں ام شریک کے ہاں گزاروں لیکن پھر آپ ﷺ نے فرمایا ام شریک کے ہاں تو مہاجرین ہوتے ہیں تم ایسا کرو کہ ابن ام مکتوم کے یہاں مدینہ کے دن پورے کرو کیونکہ اگر وہاں کبھی تمہیں کپڑے وغیرہ اتارنے پڑ جائیں تو تمہیں دیکھنے و کوئی نہیں ہوگا۔ پھر تمہاری عدت پوری ہونے کے بعد اگر کوئی نکاح پیغام بھیجے تو میرے پاس آنا۔ چنانچہ جب میری عدت پوری ہوئی تو ابوجہم اور معاویہ نے مجھے پیغام بھیجے میں آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ ﷺ کو بتایا تو فرمایا: جہاں تک معاویہ کا تعلق ہے وہ مفلس ہیں ان کے پاس کچھ نہیں جب کہ ابوجہم عورتوں کے معاملے میں بہت سخت ہیر فاطمہؓ فرماتی ہیں کہ پھر مجھے اسامہ بن زیدؓ نے نکاح کا پیغام اور اس سے

۱۰۰۸۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ نَا أَبُو دَاوُدَ أَنبَانَا
شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي الْحَكَمِ قَالَ دَخَلْتُ
أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَيَّ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ
فَحَدَّثَتْ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا
سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ قَالَتْ وَوَضَعَ لِي عَشْرَةَ أَفْزَرَةَ عِنْدَ
ابْنِ عَمٍّ لَهُ خَمْسَةُ شَعِيرٍ وَخَمْسَةُ بَرٍّ قَالَتْ فَاتَيْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ
قَالَتْ فَقَالَ صَدَقَ قَامَرْنِي أَنْ أَعْتَدَ فِي بَيْتِ أُمِّ
شَرِيكِ ثُمَّ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّ بَيْتَ أُمِّ شَرِيكِ بَيْتٌ يَغْشَاهُ الْمُهَاجِرُونَ وَلَكِنْ
اعْتَدِي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَعَسَى أَنْ تَلْقَى
نَيْبَكَ فَلَا يَرَاكَ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكَ فَجَاءَ أَحَدٌ
يَخْطُبُكَ فَأَذِنِّي فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتِي خَطَبَنِي
أَبُو جَهْمٍ وَمَعَاوِيَةُ قَالَتْ فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَمَّا مَعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ
لَا مَالَ لَهُ وَ أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ شَدِيدٌ عَلَيَّ النِّسَاءِ
قَالَتْ فَخَطَبَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَتَزَوَّجَنِي فَبَارَكَ اللَّهُ

یٰ فِیْ اَسْمَاءَ

بعد شادی کی۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے مجھے برکت عطا فرمائی۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سفیان ثوری بھی ابوبکر بن جہم سے اسی کے مثل حدیث نقل کرتے ہوئے یہ الفاظ زیادہ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”اسامہ سے نکاح کر لو“ ہم سے یہ بات محمود بن غیلان نے انہوں نے وکیع سے انہوں سے سفیان سے اور انہوں نے ابوبکر بن جہم کے حوالے سے بیان کی ہے۔

باب ۷۶۷۔ عزل کے متعلق۔ (۱)

باب ۷۶۷۔ مَا جَاءَ فِي الْعَزْلِ

۱۰۰۹۔ حضرت جابر فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ ہم عزل کیا کرتے تھے لیکن یہود کے خیال میں یہ چھوٹے نسل کے مترادف ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یہود جھوٹ بولتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔

۱۰۰۹۔ حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابی الشوارب نا یزید بن زریع نا معمر عن یحییٰ بن ابی کثیر عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان عن جابر قال قلنا یا رسول الله انا كنا نعزل فرعمت اليهود انه الموء وده الصغرى فقال كذبت اليهود ان الله اذا اراد ان يخلق لم يمنعه شيء

اس باب میں عمر، براء، ابو ہریرہ اور ابوسعید سے بھی روایت ہے۔

۱۰۱۰۔ حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ ہم قرآن کے نازل ہونے کے زمانے میں عزل کیا کرتے تھے (یعنی اگر اس میں کوئی برائی ہوتی تو اس سے منع کر دیا جاتا)۔ (مترجم)

۱۰۱۰۔ حدثنا قتيبة و ابن ابی عمر قالا نا سفیان بن عیینة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال كنا نعزل و القرآن ينزل

حضرت جابر کی حدیث حسن صحیح ہے اور انہی سے کئی سندوں سے منقول ہے۔ چنانچہ علماء صحابہ کی ایک جماعت عزل کی اجازت دیتی ہے جب کہ امام مالک کا مسلک یہ ہے کہ آزاد عورت سے اس کی اجازت ضروری ہے۔ اور باندی سے نہیں۔ (امام ابو حنیفہ کا بھی یہی قول ہے)۔ (مترجم)

باب ۷۶۸۔ عزل کی کراہت سے متعلق

باب ۷۶۸۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْعَزْلِ

۱۰۱۱۔ حضرت ابوسعید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے عزل کا ذکر کیا گیا تو فرمایا: تم میں سے کوئی ایسا کیوں کرتا ہے؟ ابن عمر اپنی حدیث میں یہ الفاظ زیادہ بیان کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہ کرے پھر دونوں راوی کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نفس کو پیدا کرنا چاہیں گے تو وہ ہر صورت میں پیدا ہوگا۔

۱۰۱۱۔ حدثنا ابن ابی عمر وقتيبة قالا نا سفیان عیینة عن ابن ابی نجيح عن مجاهد عن قزعة عن ابی سعید قال ذكرا العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم يفعل ذلك احدكم زاد ابن ابی عمر فی حديثه ولم يقل لا يفعل ذلك احدكم قال فی حديثهما فانها ليست نفس مخلوقة الا الله خالقها

باب ۷۶۹۔ بیوہ اور کنواری کے لیے رات کی تقسیم سے متعلق

باب ۷۶۹۔ مَا جَاءَ فِي الْقِسْمَةِ لِلْبِكْرِ وَ الثَّيْبِ

(۱) عزل یہ ہے کہ صحبت کرتے وقت جب انزال ہونے لگے تو آگے نائل کو باہر نکال لیا جائے تاکہ حمل نہ ہو۔ (مترجم)

اس باب میں جابر سے بھی روایت ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابوسعیدؓ ہی سے کئی سندوں سے منقول ہے علماء صحابہ کی ایک جماعت عزل کو مکروہ سمجھتی ہے۔

۱۰۱۲۔ حدثنا ابوسلمة يحيى بن خلف نا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال لو شئت أن أقول قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنَّهُ قَالَ السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَىٰ أَمْرَاتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَ إِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَىٰ أَمْرَاتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا

۱۰۱۲۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا..... لیکن انس نے یہی فرمایا کہ اگر کوئی شخص شادی شدہ ہوتے ہوئے کسی کنواری لڑکی سے شادی کرے تو اس کے ساتھ سات راتیں اور بیوہ کے ساتھ تین راتیں گزارنا سنت ہے۔

اس باب میں ام سلمہ سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اسے محمد بن اسحاق، ایوب سے وہ ابو قلابہ سے اور وہ انس سے مرفوعاً بھی روایت کرتے ہیں۔ جب کہ راوی اسے غیر مرفوع روایت کرتے ہیں۔ بعض اہل علم اسی حدیث پر عمل پیرا ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے کنواری لڑکی سے شادی کرے تو اس کے پاس سات دن تک رہے۔ اور اس کے بعد ہر بیوی کے پاس ایک رات گزارے۔

باب ۷۷۰۔ ما جاء في التسوية بين الضرائر

۱۰۱۳۔ حدثنا ابن عمر نا بشر بن السري نا حماد بن سلمة عن ايوب عن ابي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة ان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ فَيَقُولُ اَللّٰهُمَّ هَذِهِ قِسْمَتِي فَيَمَّا اَمْلِكُ فَلَا تَلْمِئِي فَيَمَّا تَمْلِكُ وَلَا اَمْلِكُ

۱۰۱۳۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ اپنی بیویوں کے درمیان راتیں برابر تقسیم کرتے اور فرماتے: اے اللہ یہ میری تقسیم ہے جتنی کہ میں استطاعت رکھتا ہوں لہذا آپ جس چیز پر قدرت رکھتے ہیں اور میں اس پر قادر نہیں تو مجھے ایسی پر ملامت نہ کیجئے۔

یہ حدیث کئی راویوں نے حماد بن سلمہ سے انہوں نے ایوب سے انہوں نے ابو قلابہ سے انہوں نے عبد اللہ بن یزید سے اور انہوں نے حضرت عائشہؓ سے اسی طرح مرفوعاً نقل کی ہے کہ آپ ﷺ اپنی ازواج مطہرات میں برابر تقسیم کرتے تھے..... الخ پھر حماد بن یزید اور کئی راوی ایوب سے اور وہ ابو قلابہ سے مرسل روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ تقسیم کیا کرتے تھے..... یہ حدیث حماد بن سلمہ کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔ آپ ﷺ کا یہ قول کہ ”مجھے ملامت نہ کر“ بعض علماء اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد محبت قلبی ہے۔

۱۰۱۴۔ حدثنا محمد بن بشار نا عبدالرحمن بن مهدى نا همام عن قتادة عن النضر بن انس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقَقُهُ سَاقِطٌ

۱۰۱۴۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کسی شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان انصاف اور عدل نہ کرتا ہو تو قیامت کے دن اس کے بدن کا آدھا حصہ مفلوج ہوگا۔

یہ حدیث ہمام بن یحییٰ، قتادہ سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں جب کہ ہشام دستوائی، قتادہ سے نقل کرتے ہیں کہ ایسا کہا جاتا تھا۔ لہذا ہمیں علم نہیں کہ ہمام کے علاوہ کسی اور نے اسے مرفوع کیا ہو۔

باب ۷۷۱۔ مَا جَاءَ فِي الزَّوْجَيْنِ الْمُشْرِكَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا ۱۰۱۵۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَهْنَادٌ قَالَا نَا

ابومعاویہ عن الْحَجَّاجِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ

اس حدیث کی سند میں کلام ہے۔ عمل ہے کہ اگر بیوی، شوہر سے پہلے اسلام لے آئے اور اس کے بعد عورت کی عدت ہی کے دوران شوہر بھی مسلمان ہو جائے تو وہی شوہر اپنی بیوی کا زیادہ مستحق ہے۔ مالک، شافعی، اوزاعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

۱۰۱۶۔ حَدَّثَنَا يَوْسُفُ بْنُ عِيسَى نَا وَكَيْعُ نَا اسْرَائِيلُ عَنْ سَمَّاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ غَيْرِكَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ مُسْلِمًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَاءَتْ أَمْرَأَتُهُ مُسْلِمَةً فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ أَسْلَمَتْ مَعِيَ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ

یہ حدیث صحیح ہے، میں نے عبد بن حمید سے اور انہوں نے یزید بن ہارون سے سنا کہ وہ یہی حدیث محمد بن اسحاق سے نقل کرتے تھے حدیث حجاج جو عمرو بن شعیب کی سند سے منقول ہے اسی کے متعلق یزید بن ہارون کہتے ہیں کہ علماء اسی پر عمل پیرا ہیں اگرچہ حضرت ابن عباس کی حدیث اس سے بہتر ہے۔

باب ۷۷۲۔ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرُضَ لَهَا ۱۰۱۷۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَا زَيْدُ بْنُ

الْحَبَابِ نَا سَفِيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرُضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَاءِهَا لَا وَكَسَ وَلَا شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ فَقَامَ

۱۰۱۷۔ حضرت ابن مسعود سے اس شخص کے متعلق پوچھا گیا۔ جو نکاح کرنے کے بعد مہر مقرر کرنے اور صحبت کرنے سے پہلے فوت ہو جائے ابن مسعود نے فرمایا: ایسی عورت کا مہر اس کی مثل عورتوں کے برابر ہوگا نہ اس میں کمی کی جائے گی اور نہ ہی زیادتی۔ وہ عورت عدت گزارے گی اور اسے خاوند کے مال سے وراثت بھی ملے گی اس پر معقل بن سنان اشجعی گھڑے ہوئے اور فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے بروح بنت واشق

مَعْقِلُ بْنُ سِنَانَ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرُوعِ بِنْتِ وَاشِقِ امْرَأَةٍ مِنَّا مِثْلَ مَا قَضَيْتُ فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ

(ہم میں سے ایک عورت) کے متعلق ایسا ہی فیصلہ دیا جیسا کہ آپ نے دیا۔ اس پر حضرت ابن مسعود بہت خوش ہوئے۔

اس باب میں جراح سے بھی روایت ہے۔ حسن بن علی خلال بھی یزید ہارون اور عبدالرزاق سے یہ دونوں سفیان سے اسی کے مثل نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود کی حدیث حسن صحیح ہے اور انہی سے کئی سندوں سے منقول ہے۔ بعض علماء صحابہ اسی پر عمل کرتے ہیں۔ ثوری، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ بعض علماء صحابہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر وہ اس سے خلوت سے پہلے مر گیا تو اس عورت کا میراث میں تو حصہ ہے لیکن مہر نہیں۔ ہاں عدت واجب ہے۔ حضرت علیؓ، یزید بن ثابتؓ، ابن عباسؓ اور ابن عمرؓ اسی کے قائل ہیں۔ شافعی کا بھی یہی قول ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ اگر بروع کی حدیث ثابت ہو تو وہ آنحضرت ﷺ کی طرف سے حجت ہے چنانچہ ان سے منقول ہے کہ انہوں نے مصر میں اپنے اس قول سے رجوع کر لیا تھا اور بروع بنت واشق کی حدیث پر عمل کرنے لگے تھے۔

أَبْوَابُ الرِّضَاعِ

رضاعت (دودھ پلانا) کے ابواب

باب ۷۷۳۔ مَا جَاءَ يُحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يُحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ

۱۰۱۸۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا اسْمَعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ نَا عَلِيَّ بْنَ زَيْدٍ عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرِّضَاعِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ

باب ۷۷۳۔ جو رشتے نب سے حرام ہوتے ہیں وہی رضاعت سے بھی حرام ہوتے ہیں

۱۰۱۸۔ حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جو رشتے نب سے حرام کیے ہیں رضاعت سے بھی وہ تمام رشتے حرام ہیں۔

اس باب میں عائشہؓ، ابن عباسؓ اور ام حبیبہؓ سے بھی روایت ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۰۱۹۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ نَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ح وَ نَا اسْحَقُ بْنُ مَوْسَى الْإِنصَارِيُّ نَا مَعْنُ نَا مَالِكُ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ الْوِلَادَةِ

۱۰۱۹۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے رضاعت سے بھی وہی رشتے حرام کیے ہیں جو ولادت یعنی نسب سے حرام کیے ہیں۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے علماء صحابہ وغیرہ کا اسی پر عمل ہے اور اسی مسئلے میں علماء کا اتفاق ہے۔

باب ۷۷۴۔ مَا جَاءَ فِي لَبَنِ الْفَحْلِ

باب ۷۷۴۔ دودھ مرد کی طرف منسوب ہونے کے متعلق

۱۰۲۰۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا ابْنُ نَعْمَانَ عَنِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ عَمِّي مِنَ الرِّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلِيَّ فَأَيَّبْتُ أَلْ أَدَّنُ لَهُ حَتَّى

۱۰۲۰۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میرے پاس میرے رضاعی چچا آئے اور اجازت چاہی میں نے انہیں آنحضرت ﷺ سے پوچھنے سے پہلے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ تمہارے

پاس داخل ہو سکتے ہیں وہ تو تمہارے چچا ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے تو عورت نے دودھ پلایا ہے مرد نے نہیں آپ ﷺ نے فرمایا: انہیں چاہئے کہ وہ آجائیں اس لیے کہ وہ تمہارے چچا ہیں۔

اسْتَأْمَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَلِجْ عَلَيْكَ فَإِنَّ عَمَّكَ قَالَتْ إِنَّمَا أَرْضَعْتَنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ قَالَ فَإِنَّ عَمَّكَ فَلْيَلِجْ عَلَيْكَ

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر بعض علماء صحابہ کا عمل ہے کہ مرد کا دودھ حرام ہے۔ اس باب میں حضرت عائشہؓ کی حدیث ہی اصل ہے۔ بعض علماء مرد کے دودھ کی بھی اجازت دیتے ہیں لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔

۱۰۲۱۔ حضرت ابن عباسؓ سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص کے پاس دو بانگیاں ہیں۔ ان میں سے ایک نے ایک لڑکی کو اور دوسری نے ایک لڑکے کو دودھ پلایا۔ کیا اس لڑکے کے لیے یہ لڑکی جائز ہے؟ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا: نہیں۔ کیونکہ منی ایک ہی ہے۔ (یعنی وہ شخص دونوں کے ساتھ صحبت کرتا ہے)۔

۱۰۲۱۔ حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ نَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ح وَثَنَا الْأَنْصَارِيُّ نَا مَعْنُ نَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ جَارِيَتَانِ أَرْضَعَتْ إِحْدَهُمَا جَارِيَةً وَالْأُخْرَى غُلَامًا مَا أَبْجَلُ لِلْغُلَامِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْجَارِيَةَ فَقَالَ لَا اللَّقَاحُ وَاحِدٌ

یہ مرد کے دودھ کی تفسیر ہے یہی اس باب میں اصل ہے۔ احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں۔

باب ۷۷۵۔ ماجاء لا تحرم المصّة ولا المصتان
۱۰۲۲۔ حضرت عائشہؓ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتی ہیں کہ ایک دو گھونٹ دودھ پینے سے رضاعت کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔

۱۰۲۲۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّنَعَانِيُّ نَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَيُّوبَ يَحْدِثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَلِيكَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُحْرَمُ الْمِصَّةُ وَلَا الْمِصَّتَانِ

اس باب میں ابو ہریرہؓ، ام فضلؓ، زبیرؓ اور ابن زبیرؓ سے بھی روایت ہے۔ ابن زبیرؓ، حضرت عائشہؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتی ہیں کہ ایک دو گھونٹ پینے سے رضاعت کی حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ محمد بن بشار، ہشام بن عروہ سے وہ اپنے والد سے وہ عبد اللہ بن زبیر سے وہ زبیر سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہوئے یہ الفاظ زیادہ بیان کرتے ہیں کہ زبیر نے رسول اللہ ﷺ سے نقل کیا ہے۔ لیکن یہ غیر محفوظ ہے۔ محدثین کے نزدیک صحیح حدیث ابن ابی ملیکہ کی ہے۔ وہ عبد اللہ بن زبیرؓ سے وہ عائشہؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتی ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر بعض علماء صحابہ وغیرہ کا عمل ہے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ قرآن میں دس مرتبہ دودھ چوسنے پر رضاعت کے حکم کے متعلق آیت نازل ہوئی پھر اس میں سے پانچ منسوخ ہو گئیں اور پانچ رہ گئیں۔ پھر آپ ﷺ کی وفات تک یہی حکم رہا کہ پانچ مرتبہ چوسنے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ ہم سے حضرت عائشہؓ کا یہ قول اسحاق بن موسیٰ انصاری نے انہوں نے معن سے انہوں نے مالک سے انہوں نے عبد اللہ بن ابوبکر سے انہوں نے عمرہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہؓ سے نقل کیا ہے۔ حضرت عائشہؓ اور بعض ازواج مطہرات کا فتویٰ بھی اسی پر ہے۔ شافعی اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں جب کہ امام احمد ایک یا دو گھونٹ سے

رضاعت کی حرمت ثابت نہ ہونے والی حدیث پر عمل کرتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی حضرت عائشہ کے قول پر عمل کرے تو یہ زیادہ قوی ہے۔ چنانچہ وہ اس مسئلے میں حکم دینے سے ڈرتے تھے۔ بعض علماء صحابہ وغیرہ کہتے ہیں کہ کم اور زیادہ دونوں ہی سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ بشرطیکہ وہ پیٹ گیا ہو۔ سفیان ثوری، مالک، اوزاعی، ابن مبارک، کعبج اور اہل کوفہ کا بھی یہی قول ہے۔

باب ۷۷۶۔ مَا جَاءَ فِي شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرِّضَاعِ

الرِّضَاعِ

۱۰۲۳۔ عبد اللہ بن ابی ملیکہ، عبید بن ابی مریم سے اور وہ عقبہ بن حارث سے نقل کرتے ہیں۔ عبد اللہ کہتے ہیں میں نے یہ حدیث عقبہ سے بھی سنی ہے لیکن عبید کی حدیث مجھے زیادہ یاد ہے کہ عقبہ نے کہا: میں نے ایک عورت سے نکاح کیا تو ایک سیاہ فام عورت آئی اور کہا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ چنانچہ میں نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نے فلاں عورت کے ساتھ نکاح کیا تھا کہ ایک سیاہ فام عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے اور وہ جھوٹی ہے۔ عقبہ کہتے ہیں: آپ ﷺ نے مجھ سے چہرہ پھیر لیا۔ میں پھر آپ ﷺ کے سامنے آیا اور عرض کیا وہ جھوٹی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیسے! جب کہ اس کا دعویٰ ہے کہ اس نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ تم اس عورت کو چھوڑ دو۔

۱۰۲۳۔ حدثنا علي بن حجرنا اسمعيل بن ابراهيم عن ايوب عن عبد الله بن ابي مليكة قال حدثني عبید بن ابي مریم عن عقبه بن الحارث قال وسمعت من عقبه ولكني لحدیث عبید احفظ قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت اني قد ارضعتكما فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت اني قد ارضعتكما وهي كاذبة قال فاعرض عني قال فاتيت من قبل وجهه فقلت انها كاذبة قال و كيف بها وقد زعمت انها قد ارضعتكما دعها عنك

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ کئی راوی یہ حدیث ابن ابی ملیکہ سے اور وہ عقبہ بن حارث سے نقل کرتے ہوئے عبید بن ابی مریم کا ذکر نہیں کرتے۔ پھر اس حدیث میں یہ الفاظ بھی نہیں ہیں کہ تم اسے چھوڑ دو۔ بعض علماء صحابہ وغیرہ کا اسی پر عمل ہے کہ رضاعت کے ثبوت کے لیے ایک عورت کی گواہی کافی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ اس صورت میں کافی ہے کہ اس عورت سے قسم لی جائے۔ احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ جب کہ بعض علماء کہتے ہیں ایک عورت کی گواہی کافی نہیں بلکہ زیادہ ہونی چاہئیں۔ شافعی بھی اسی کے قائل ہیں۔ عبد اللہ بن ابی ملیکہ: عبد اللہ بن عبید اللہ بن ابی ملیکہ ہیں ان کی کنیت ابو محمد ہے۔ عبد اللہ بن زبیر نے انہیں طائف میں قاضی مقرر کیا تھا۔ ابن جریج کہتے ہیں کہ ابن ابی ملیکہ نے کہا کہ میں نے آنحضرت ﷺ کے تیس صحابیوں کو پایا ہے۔ میں نے جارد بن معاذ سے سنا کہ کعبج کے نزدیک بھی رضاعت کے لیے ایک عورت کی گواہی کافی نہیں۔ لیکن اگر ایک عورت کی گواہی سے اپنی بیوی کو چھوڑ دے تو یہ عین تقویٰ ہے۔

باب ۷۷۷۔ مَا جَاءَ أَنَّ الرِّضَاعَةَ لَا تُحْرِمُ إِلَّا فِي الصِّغَرِ ذُو الْحَوْلَيْنِ

۱۰۲۴۔ حضرت ام سلمہ کہتی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: رضاعت کی حرمت اس صورت میں ثابت ہوتی ہے کہ دودھ بچے کی آنٹوں میں پہنچ کر غذا کے قائم مقام ہو اور یہ دودھ چھڑانے سے پہلے ہو۔ یعنی دودھ

۱۰۲۴۔ حدثنا قتيبة نا ابو عوانة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما

پلانے کی مدت میں۔

فَتَقَّ الْأَمْعَاءُ فِي النَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے اس پر صحابہ اور اہل علم کا عمل ہے کہ رضاعت دو سال کے اندر اندر دودھ پینے سے ہی ثابت ہوتی ہے۔ اور جو دو برس کے بعد پیئے اس سے کچھ حرام نہیں ہوتا۔ فاطمہ بنت منذر بن زبیر بن عوام، ہشام بن عروہ کی بیوی ہیں۔

باب ۷۷۸۔ مَا يُذْهِبُ مَدْمَةَ الرَّضَاعِ

باب ۷۷۸۔ دودھ پلانے والی کے حق کی ادائیگی۔

۱۰۲۵۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ سَمْعِيلَ بْنَ

۱۰۲۵۔ حجاج بن حجاج اسلمی اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے

هشام بن عروہ عن أبيه عن حجاج بن حجاج

رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ میرے ذمے سے دودھ پینے کا حق

الاسلمی عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه

کس طرح ادا ہو سکتا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ایک غلام یا باندی دودھ

وسلم فقال يا رسول الله ما يذهب عنى مدممة

پلانے والی کو دے دو تو اس کا حق ادا ہو گیا۔

الرضاع فقال غرة عبد أو أمة

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یحییٰ بن سعید قطان، حاتم بن اسماعیل اور کئی راوی ہشام بن عروہ سے وہ اپنے والد سے وہ حجاج بن حجاج سے

اور وہ اپنے والد سے یہ حدیث اسی طرح مرفوعاً نقل کرتے ہیں۔ سفیان بن عیینہ، ہشام سے وہ اپنے والد سے وہ حجاج بن ابی حجاج سے وہ

اپنے والد سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے مثل حدیث نقل کرتے ہیں۔ لیکن یہ غیر محفوظ ہے۔ صحیح وہی ہے جو کئی راوی ہشام سے اور وہ

اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ ہشام بن عروہ کی کنیت ابو منذر ہے اور ان کی جابر بن عبد اللہ سے ملاقات ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ

”ما يذهب عنى مدممة الرضاع“ کا معنی یہ ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو دودھ پلانے کے حق کو ادا کر دیتی ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے

فرمایا: اگر تم اپنی دودھ پلانے والی کو غلام یا باندی دے دو تو اس کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ ابو طفیل سے منقول ہے کہ میں آنحضرت ﷺ کے پاس

بیٹھا ہوا تھا کہ ایک عورت آئی تو آپ ﷺ نے ان کے لیے اپنی چادر بچھادی تو وہ اس پر بیٹھ گئیں۔ پھر جب وہ چلی گئیں تو لوگ کہنے لگے کہ

یہ آپ ﷺ کی رضاعی ماں ہیں۔

باب ۷۷۹۔ مَا جَاءَ فِي الْأَمَةِ تَعْتَقُ وَلَهَا زَوْجٌ

باب ۷۷۹۔ شادی شدہ باندی کو آزاد کرنا۔

۱۰۲۶۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرَانَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ

۱۰۲۶۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ بریرہ کے شوہر غلام تھے لہذا آپ

عن هشام بن عروہ عن أبيه عن عائشة قالت كان

ﷺ نے انہیں اختیار دے دیا تو انہوں نے خاوند سے علیحدگی اختیار

زواج بريرة عبداً فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم

کر لی۔ اگر ان کے شوہر آزاد ہوتے تو آپ ﷺ انہیں اختیار نہ دیتے۔

فأختارت نفسها ولو كان حراً لم يخيرها

ہناد، ابو معاویہ سے وہ اعمش سے وہ ابراہیم سے اور وہ اسود سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا: کہ بریرہ کا شوہر آزاد تھا۔

اور آپ ﷺ نے انہیں اختیار دیا۔ حضرت عائشہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ ہشام بن عروہ بھی اپنے والد سے اور وہ حضرت عائشہؓ سے اسی

طرح نقل کرتے ہیں کہ بریرہ کا شوہر غلام تھا۔ عکرمہ، ابن عباس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ انہوں نے بریرہ کے شوہر کو دیکھا وہ غلام تھا اور

اسے مغیث کہتے تھے۔ ابن عمر سے بھی اسی طرح منقول ہے۔ بعض علماء کے نزدیک اسی حدیث پر عمل ہے کہ اگر باندی کو آزاد کیا جائے اور

وہ کسی آزاد شخص کے نکاح میں ہو تو اسے اختیار نہیں لیکن اگر غلام کے نکاح میں ہو تو اسے اختیار ہے شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

کئی راوی اعمش سے وہ ابراہیم سے وہ اسود سے اور وہ حضرت عائشہؓ سے یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ بریرہ کا شوہر آزاد تھا اور آپ ﷺ نے اسے

اختیار دیا تھا۔ ابو عوانہ یہ حدیثِ اعمش سے وہ ابراہیم سے وہ اسود سے اور وہ حضرت عائشہؓ سے بریرہ کا قصہ نقل کرتے ہیں۔ اسود کہتے ہیں کہ بریرہ کا شوہر آزاد تھا۔ اس پر بعض علماء تابعین اور ان کے بعد کے علماء کا قول ہے۔ سفیان ثوری اور اہل کوفہ بھی اسی کے قائل ہیں۔

۱۰۲۷۔ حدیثنا ہنادنا عبدة عن سعید عن ایوب وقتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبداً أسوداً لبني المغيرة يوم أعتقت بريرة والله لكانت في طريق المدينة وتواحيها وإن دموعه لتسيل على لحيته يترصاها ليتختارها فلم تفعل

۱۰۲۷۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ بریرہ جب آزاد کی گئیں تو ان کا خاندان بنو مغیرہ کا سیاہ فام غلام تھا۔ اللہ کی قسم ایسے لگتا ہے کہ وہ مدینہ کی گلیوں میں میرے سامنے پھر رہا ہے اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہے اور وہ بریرہ کو اس بات پر راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ اسے اختیار کر لے لیکن بریرہ نے ایسا نہیں کیا۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سعید بن ابی عمرو: سعید بن مہران ہیں ان کی کنیت ابو النضر ہے۔

باب ۷۸۰۔ اولاد ہم بستر ہی کی ہے۔

باب ۷۸۰۔ مَا جَاءَ أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ

۱۰۲۸۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اولاد ہمبستر (یعنی شوہر) یا باندی کے مالک کی ہے اور زانی کے پتھر ہیں یعنی رجم۔

۱۰۲۸۔ حدیثنا احمد بن منيع نا سفیان عن الزهري عن سعید بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللغائر الحجر

اس باب میں حضرت عمرؓ، عثمانؓ، عائشہؓ، ابوامامہؓ، عمرو بن خارجهؓ، عبداللہ بن عمرؓ، براء بن عازبؓ اور زید بن ارقمؓ سے بھی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ زہری یہ حدیث سعید بن مسیب اور ابوسلمہ سے اور وہ ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں اور اسی پر علماء کا عمل ہے۔

باب ۷۸۱۔ وہ شخص جو کسی عورت کو دیکھے اور وہ اسے پسند آجائے۔

باب ۷۸۱۔ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَرَى الْمَرْأَةَ فَتُعْجِبُهُ

۱۰۲۹۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک عورت کو دیکھا تو اپنی بیوی زینبؓ کے پاس داخل ہوئے اور اپنی حاجت پوری کی یعنی صحبت کی اور باہر نکلے تو فرمایا: عورت جب سامنے آتی ہے تو شیطان کی صورت میں آتی ہے۔ لہذا اگر تم میں سے کوئی کسی عورت کو دیکھے اور وہ اسے اچھی لگے تو وہ اپنی بیوی کے پاس جائے کیونکہ اس کے پاس بھی وہی کچھ ہے جو اس کے پاس ہے۔

۱۰۲۹۔ حدیثنا محمد بن بشارنا عبد الاعلی بن عبد الاعلی بن عبد الاعلی نا هشام بن ابی عبد اللہ وهو الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فدخل على زينب فقضى حاجته وخرج وقال إن المرأة إذا أقبلت في صورة شيطان فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهلها فإن معها مثل الذي معها

اس باب میں ابن مسعودؓ سے بھی روایت ہے۔ حضرت جابرؓ کی حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ ہشام بن ابی عبداللہ دستوائی کے دوست اور سمر کے صاحبزادے ہیں۔

دوست اور سمر کے صاحبزادے ہیں۔

باب ۷۸۲۔ بیوی پر خاوند کا حق۔

باب ۷۸۲۔ مَا جَاءَ فِي حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

۱۰۳۰۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ

۱۰۳۰۔ حدیثنا محمود بن غیلان نا النضر بن شهيل نا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ
يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

اس باب میں حضرت معاذ بن جبل، سراقہ بن مالک بن حنظل، عائشہ، ابن عباس، عبد اللہ بن ابی اویس، طلحہ بن علی، ام سلمہ اور ابن عمر سے بھی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث اس سند سے صحیح ہے۔ یعنی محمد بن عمرو کی ابو سلمہ سے اور ان کی ابو ہریرہ سے روایت ہے۔

۱۰۳۱۔ حدثنا هنادنا ملازم بن عمرو ثنی عبد الله
بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا الرجل
دعأ زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنوير
یہ حدیث حسن غریب ہے۔

۱۰۳۲۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جو عورت
اس حالت میں رات گزارے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، وہ جنتی
ہے۔

۱۰۳۲۔ حدثنا واصل بن عبد الاعلی الكوفي نا
محمد بن فضيل عن عبد الله بن عبد الرحمن ابی
نصر عن مساور الحميري عن أبيه أم سلمة قالت
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة
باتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة
یہ حدیث حسن غریب ہے۔

باب ۷۸۳۔ ماجآء فی حق المرأة علی زوجها
۱۰۳۳۔ حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء نا عبدة
بن سليمان عن محمد بن عمرو نا أبو سلمة عن
أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وخياركم
خياركم لنسائهم

اس باب میں عائشہ اور ابن عباس سے بھی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۰۳۳۔ حضرت سلیمان بن عمرو بن احوص کہتے ہیں کہ ان کے والد نے
انہیں بتایا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر وہ بھی رسول اللہ ﷺ کے ساتھ
تھے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے اللہ کی حمد و ثنائیاں کی اور وعظ و نصیحت کی
راوی نے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے ایک قصہ بیان کیا جس میں یہ
بھی کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: خبردار! عورتوں کے ساتھ خیر خواہی

۱۰۳۴۔ حدثنا الحسن بن علي الخلال نا الحسين
بن علي الجعفي عن زائدة عن شيبان بن غرقدة
عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال نبي أبي أنه
شهد حجّة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر وعظ وذكر

کے ساتھ پیش آؤ اس لیے کہ وہ تمہارے پاس قید ہیں اور تم ان پر اس کے علاوہ کوئی اختیار نہیں رکھتے کہ ان سے صحبت کرو۔ ہاں البتہ اگر وہ کھلے طور پر فواحش کا ارتکاب کریں تو انہیں اپنے بستر سے الگ کر دو۔ اور ان کی معمولی پٹائی کرو۔ پھر اگر وہ تمہاری بات ماننے لگیں تو انہیں تکلیف پہنچانے کے راستے تلاش نہ کرو۔ جان لو کہ تمہارا، تمہاری بیویوں پر اور ان کا تم پر حق ہے۔ تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر ان لوگوں کو نہ بٹھائیں جنہیں تم پسند نہیں کرتے بلکہ ایسے لوگوں کو گھر میں بھی نہ داخل ہونے دیں۔ اور ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم انہیں بہترین کھانا اور بہترین کپڑا پہننے کے لیے دو۔

فِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ فَقَالَ آلا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَاثٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا آلا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَاءٍ كُمْ وَلِنِسَاءٍ كُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَمَا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَاءٍ كُمْ فَلَا يُؤْطِقَنَّ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ آلا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۷۸۳۔ عورتوں کے ساتھ بد فعلی کرنا حرام ہے۔

باب ۷۸۴۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ إِيْتَانِ النِّسَاءِ فِي أَذْبَارِهِنَّ

۱۰۳۵۔ حضرت علی بن طلحہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی (دیہاتی) آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم میں سے کوئی کسی وقت جنگل میں ہوتا ہے جہاں پانی کی قلت ہوتی ہے وہاں اس کی ہوا خارج ہوجاتی ہے۔ تو وہ کیا کرے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر کبھی ایسا ہوجائے تو وضو کرو اور عورتوں کے ساتھ بد فعلی کا ارتکاب نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے حیا نہیں کرتے۔ (۱)

۱۰۳۵۔ حدثنا احمد بن منيع وهناد قالانا ابو معاوية عن عاصم الاحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلح قال اتى اعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله منا يَكُونُ فِي الْفَلَاةِ فَتَكُونُ مِنْهُ الرُّوِيْحَةُ وَتَكُونُ فِي الْمَاءِ قِلَّةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ

اس باب میں عمرؓ، خزیمہ بن ثابتؓ، ابن عباسؓ اور ابو ہریرہؓ سے بھی روایت ہے۔ حضرت طلحہ بن علیؓ کی حدیث حسن ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں: میں علی بن طلحہ کی آنحضرت ﷺ سے اس حدیث کے علاوہ کوئی حدیث نہیں جانتا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی طلحہ بن علیؓ کی ہو گیا کہ ان کے خیال میں یہ کوئی اور صحابی ہیں۔ وکیح بھی یہ حدیث روایت کرتے ہیں۔

۱۰۳۶۔ حدثنا قتيبة وغير واحد قالوا نا وكيع عن عبد الملك بن مسلم وهو ابن سلام عن أبيه عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذَا فَسَا

۱۰۳۶۔ حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تم میں سے کسی کی ہوا خارج ہوجائے تو وہ وضو کرے اور عورتوں کے ساتھ پیچھے سے بد فعلی نہ کرو۔

(۱) بد فعلی سے مراد یہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ بر (مقصد) میں محبت کی جائے اور صحیح جگہ یعنی قبل کو چھوڑ دیا جائے۔ (مترجم)

أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْمَارِهِنَّ

یہ علی، طلق ہی کے بیٹے ہیں۔

۱۰۳۷۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ (قیامت کے دن) اس شخص کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ جس نے کسی مرد یا عورت کے پیچھے سے جماع کیا ہوگا۔

۱۰۳۷۔ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ نَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عَثْمَانَ عَنِ مَخْرَمَةَ بْنِ سَلِيمَانَ عَنِ كُرَيْبِ بْنِ أَبِي عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ آتَى رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً فِي الدُّبْرِ

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

باب ۷۸۵۔ عورتوں کے بناؤ سنگھار کر کے نکلنے کی ممانعت
۱۰۳۸۔ آنحضرت ﷺ کی خادمہ میمونہ بنت سعدؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اپنے شوہر کے علاوہ دوسروں کے لیے بناؤ سنگھار کرنے کے بعد نازنخرے سے چلنے والی عورت اس طرح ہے جیسے قیامت کے دن کا اندھیرا جس میں روشنی کا شائبہ تک نہیں۔

باب ۷۸۵۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الزَّيْنَةِ
۱۰۳۸۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَشْرَمٍ نَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ مَيْمُونَةَ ابْنَةِ سَعْدٍ وَكَانَتْ خَادِمَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الرَّافِلَةِ فِي الزَّيْنَةِ فِي غَيْرِ أَهْلِهَا كَمَثَلِ ظُلْمَةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا نُورَ لَهَا

اس حدیث کو ہم صرف موسیٰ بن عبیدہ کی ہی روایت سے جانتے ہیں اور وہ حافظے کی وجہ سے ضعیف ہیں لیکن صدوق ہیں۔ شعبہ اور ثوری ان سے روایت کرتے ہیں۔ بعض راوی یہ حدیث موسیٰ بن عبیدہ ہی سے غیر مرفوع بھی نقل کرتے ہیں۔

باب ۷۸۶۔ غیرت کے متعلق

باب ۷۸۶۔ مَا جَاءَ فِي الْغَيْرَةِ

۱۰۳۹۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ بہت غیرت والے ہیں۔ اسی طرح مؤمن بھی غیرت مند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس وقت غیرت آتی ہے جب مؤمن کسی حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے۔

۱۰۳۹۔ حَدَّثَنَا حَمِيدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ثَنَا سَفِيَانُ بْنُ حَبِيبٍ عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ عَنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُعَارُ وَالْمُؤْمِنُ يُعَارُ وَغَيْرُهُ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ

اس باب میں عائشہؓ اور عبد اللہ بن عمرؓ سے بھی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن غریب ہے یحییٰ بن کثیر بھی یہ حدیث ابوسلمہ سے وہ عروہ سے وہ اسماء بنت ابوبکرؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتی ہیں۔ یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ حجاج صواف: حجاج بن ابوعثمان ہیں ان کا نام میسرہ ہے حجاج کی کنیت ابوصلت ہے۔ یحییٰ بن سعید قطان کے نزدیک ثقہ ہیں۔ ابویسیٰ، ابوبکر بن عطار سے اور وہ علی بن عبد اللہ مدنی سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے یحییٰ بن سعید قطان سے حجاج صواف کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا: وہ بہت عقلمند اور ہوشیار ہیں۔

باب ۷۸۷۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ وَحَدَّهَا

باب ۷۸۷۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ وَحَدَّهَا

۱۰۴۰۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا أَبُو مَعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجُلُّ لِامْرَأَةٍ تَوَمَّنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفْرًا فَيَكُونَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا وَآخُوهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا

۱۰۴۰۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا أَبُو مَعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجُلُّ لِامْرَأَةٍ تَوَمَّنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفْرًا فَيَكُونَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا وَآخُوهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا

اس باب میں ابو ہریرہؓ، ابن عباسؓ اور ابن عمرؓ سے بھی حدیثیں منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ آپ ﷺ سے یہ بھی منقول ہے کہ کوئی عورت ایک دن ورات کا سفر بغیر محرم کے نہ کرے۔ علماء اسی پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عورت کا محرم کے بغیر سفر کرنا حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت حج کی استطاعت رکھتی ہو لیکن اس کا کوئی محرم نہ ہو تو اس کے متعلق علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس پر حج واجب نہیں کیونکہ محرم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا“ یعنی حج اسی پر واجب ہے جس میں جانے کی استطاعت ہو۔ اور یہ عورت استطاعت نہیں رکھتی کیونکہ اس کا کوئی محرم نہیں۔ سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا بھی یہی قول ہے لیکن بعض علماء کا کہنا ہے کہ اگر راستے میں امن ہو تو وہ حج کے قافلے کے ساتھ جائے۔ مالک اور شافعی بھی اسی کے قائل ہیں۔

۱۰۴۱۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَلِ نَا بَشْرُ بْنُ عَمْرِو نَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

۱۰۴۱۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَلِ نَا بَشْرُ بْنُ عَمْرِو نَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

باب ۷۸۸۔ غَيْرُ مَحْرَمٍ عَوْرَتُونَ سَخْلُوتِ كِ مِمَاعَتِ۔

باب ۷۸۸۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الدُّخُولِ عَلَى الْمُغِيَّبَاتِ

۱۰۴۲۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا اللَّيْثُ عَنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنِ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمَّوُ قَالَ الْحَمَّوُ الْمَوْتُ

۱۰۴۲۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا اللَّيْثُ عَنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنِ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمَّوُ قَالَ الْحَمَّوُ الْمَوْتُ

(۱) حمو: شوہر کے والد اور اس کے بیٹوں کے علاوہ دوسرے عزیز و اقارب کو کہا جاتا ہے آپ ﷺ نے اسے موت سے تشبیہ دی ہے کہ ان سے موت ہی کی طرح پرہیز کرنا چاہئے۔ واللہ اعلم (مترجم)

اس باب میں عمر، جابر اور عمرو بن عاص سے بھی روایت ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر کی حدیث حسن صحیح ہے۔ عورتوں کے پاس داخل ہونے سے ممانعت کا مطلب اسی طرح ہے جیسے کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”کوئی شخص جب کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں رہتا ہے تو ان کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے“، شوہر کے بھائیوں کو کہتے ہیں گویا کہ آپ ﷺ نے دیور کی عورت کے ساتھ تہا رہنے کی ممانعت فرمائی ہے۔

باب ۷۸۹۔

باب ۸۹۔ بلا عنوان

۱۰۴۳۔ حدثنا نصر بن علی نا عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبي عن جابر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَلْجُوا عَلَيَّ الْمُعِينَاتِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ قُلْنَا وَمِنْكَ قَالَ وَمِنِّي عَلَيْهِ فَاسْلَمَ

۱۰۴۳۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جن عورتوں کے شوہر گھروں میں موجود نہ ہوں ان کے ہاں مت داخل ہو۔ کیونکہ شیطان تم میں سے ہر ایک کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا رہتا ہے۔ ہم نے عرض کیا آپ ﷺ کے بدن میں بھی؟ فرمایا: ہاں لیکن اللہ تعالیٰ نے میری اس پردہ دہی اور میں اس سے محفوظ ہوں۔

یہ حدیث اس سند سے غریب ہے۔ بعض علماء مجالد بن سعید کے حافظے میں کلام کرتے ہیں۔ علی بن خشرم، سفیان بن عیینہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے اس قول ”کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی اور وہ اسلام لے آیا“ کا مقصد یہ ہے کہ میں اس کے شر سے محفوظ رہتا ہوں۔ سفیان کہتے ہیں کہ شیطان تو اسلام نہیں لاتا۔ نیز ”مغیبہ“ اس عورت کو کہتے ہیں جس کا خاوند غیر موجود ہو یعنی کسی سفر پر گیا ہوا ہو۔ ”مغیبات“ اس کی جمع ہے۔

باب ۷۹۰۔

باب ۹۰۔ بلا عنوان

۱۰۴۴۔ حدثنا محمد بن بشار نا عمرو بن عاصم نا همام عن قتادة عن مروق عن أبي الأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا حَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

۱۰۴۴۔ حضرت عبد اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عورت کے لیے پردہ ضروری ہے کیونکہ جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اسے بہکانے کے لیے موقع تلاش کرتا رہتا ہے۔

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۷۹۱۔

باب ۹۱۔ بلا عنوان

۱۰۴۵۔ حدثنا الحسن بن عرفة نا اسمعيل بن عياش عن بحير ابن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُؤْذِي امْرَأَةً زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتَهُ مِنَ الْحُورِ الْعُيُنِ لَا تُؤْذِيهِ قَاتَلَكِ اللَّهُ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ ذَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكَ إِلَيْنَا

۱۰۴۵۔ حضرت معاذ بن جبل، آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جب کوئی بیوی دنیا میں اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے تو اس کی جنت والی بیوی (حور) کہتی ہے: تجھ پر اللہ کی مار! اپنے شوہر کو تکلیف نہ پہنچا کیونکہ وہ دنیا میں تیرا مہمان ہے اور جلد ہی تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آجائے گا۔

یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں اور اسماعیل بن عیاش کی اہل شام سے منقول احادیث بہتر ہیں جب کہ وہ اہل جاز اور اہل عراق سے منکر احادیث بھی نقل کرتے ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَبْوَابُ الطَّلَاقِ وَاللِّعَانِ

عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَاب ۷۹۲ - مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ

۱۰۴۶ - حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ سَبْرِيْنٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ هَلْ تَعْرِفُ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ عُمَرَ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرْاجِعَهَا قَالَ قُلْتُ فَيَعْتَدُ بِتِلْكَ الطَّلِيْقَةِ قَالَ فَمَهْ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحَمَقَ

توضیح: طلاق کی دو قسمیں ہیں۔

(۱) طلاق رجعی: اس میں نکاح نہیں ٹوٹتا بلکہ عدت کے دوران بغیر نکاح کیے رجوع کیا جاسکتا ہے۔

(۲) طلاق بائن: اس میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جس میں دوبارہ نکاح پڑھنے کے بعد ازدواجی تعلقات قائم کیے جاسکتے ہیں اور دوسری وہ جس میں حلالہ کیے بغیر اس عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ عموماً فقہاء بائن کی پہلی قسم کو طلاق بائن اور دوسری کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں۔

پھر طلاق کے الفاظ دو طرح کے ہوتے ہیں۔

(۱) صریح یعنی ایسے الفاظ جن سے اس زبان میں طلاق کے علاوہ کوئی اور معنی مراد نہ لیے جاسکیں جیسے کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ میں نے تجھے طلاق دی یا تو مطلق ہے یا تجھ کو طلاق ہے یا میں نے تجھ کو چھوڑ دیا یہ تمام الفاظ صریح ہیں اور ان کے ادا ہوتے ہی طلاق واقع ہو جاتی ہے خواہ نیت ہو یا نہ ہو۔ مذاق میں کہے ہوں یا سنجیدگی میں۔

(۲) کنایہ: ایسے الفاظ جن کے اور معنی بھی مراد لیے جاسکتے ہوں اور طلاق کے بھی صریح الفاظ سے طلاق دینے کی تین قسمیں ہیں اور ہر ایک کا حکم علیحدہ علیحدہ ہے۔

(۱) طلاق رجعی: اگر کسی عورت کو صریح الفاظ میں ایک یا دو طلاقیں دی گئی ہوں اور پھر عدت کے اندر اس کا شوہر اس سے دوبارہ ازدواجی تعلقات کی خواہش رکھتا ہو تو وہ رجوع کر سکتا ہے۔ چاہے بیوی راضی ہو یا نہ ہو۔

(۲) طلاق بائن: اگر ایک یا دو طلاقیں دیں اور پھر عدت کے دوران رجوع نہیں کیا تو اگر ایک طلاق دی تھی تو ایک طلاق بائن اور اگر دو دی تھیں تو دو طلاق بائن ہو گئیں اب وہ شخص اسے بغیر نکاح کیے اپنی بیوی نہیں بنا سکتا جس کے لیے ظاہر ہے کہ عورت کی رضامندی بھی ضروری ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

طلاق اور لعان کے متعلق

آنحضرت ﷺ سے منقول احادیث کے ابواب

باب ۹۲۔ طلاق سنی کے متعلق

۱۰۴۶۔ یونس بن جبیر کہتے ہیں میں نے ابن عمرؓ سے اس شخص کے متعلق پوچھا جو اپنی بیوی کو ایام حیض میں طلاق دیتا ہے فرمایا: عبد اللہ بن عمرؓ کو جانتے ہو؟ انہوں نے بھی اپنی بیوی کو حیض کے دوران ہی طلاق دی تھی جس پر حضرت عمرؓ نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا تو آپ ﷺ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کریں۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا: کیا وہ طلاق بھی گنی جائے گی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: خاموش رہو! اگر وہ عاجز اور پاگل ہو جائیں تو کیا ان کی طلاق نہیں گنی جائے گی۔ (یعنی ایسا سوال۔ کیوں کرتے ہو وہ یقیناً گنی جائے گی۔)

(۳) طلاق مغلظہ: اگر کسی شخص نے ایک یا دو کے بجائے تین طلاقیں دے دی ہیں تو اب نہ وہ اس سے رجوع کر سکتا ہے اور نہ ہی اس سے نکاح کر سکتا ہے بلکہ اسے دوبارہ بیوی بنانے کے لیے حلالہ ضروری ہے۔

کنایہ کے الفاظ (مثلاً یہ کہے کہ اب تجھ سے کوئی واسطہ نہیں یا اب تیرا میرا نباہ نہیں ہوگا یا میرے گھر سے نکل جاؤ وغیرہ وغیرہ سے طلاق دینے کا حکم یہ ہے کہ اگر ایک کی نیت تھی تو ایک اور دو طلاق کنایہ دیں اور نیت بھی دوہی کی تھی تو بھی یہ ایک طلاق بائن ہی ہوگی یعنی اس صورت میں دوبارہ نکاح ممکن ہے لیکن اگر اس نے تین طلاق بائن کی نیت کی تھی تو یہ بھی مغلظہ ہوگی۔ جس کا حکم اوپر مذکور ہے۔

طلاق مغلظہ دو طرح کے الفاظ سے واقع ہوتی ہے ایک تو یہ کہ کسی شخص نے بیوی سے کہا کہ میں نے تمہیں تین طلاقیں دیں یا تین بار لفظ طلاق دہرایا۔ دوسرے یہ کہ ایک آج دوسری کل اور تیسری تیسرے روز یا دو چار روز بعد یا کچھ مدت کے بعد دی۔ ہر صورت میں تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ البتہ اگر کنایہ کے الفاظ سے دی ہوں تو اس کی نیت دریافت کی جائے گی لیکن اگر وہ تین مرتبہ کنایہ کے الفاظ سے طلاق دینے کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ اس کی نیت ایک ہی کی تھی تو اس کا قول معتبر نہیں ہوگا بلکہ تین ہی مانی جائیں گی۔

تسمیہ: اب ذیل میں طلاق دینے کا صحیح طریقہ ذکر کیا جاتا ہے۔ اس حیثیت سے طلاق کی تین قسمیں ہیں۔

(۱) احسن (۲) حسن (۳) بدعی

(۱) طلاق احسن: اگر کوئی شخص طلاق دینے کا ہی فیصلہ کر لے تو اسے چاہئے کہ ایک ہی مرتبہ تین طلاقیں نہ دے۔ بلکہ صرف ایک طلاق رجعی دے اور طہر یعنی حیض سے پاک ہونے کے ایام میں دے۔ بشرطیکہ ان ایام میں جماع نہ کیا ہو۔ اور پھر عدت گزرنے تک اسے دوسری طلاق نہ دے۔ چنانچہ عدت پوری ہوتے ہی وہ عورت اس پر حرام ہو جائے گی لیکن اب بھی اس سے دوبارہ نکاح کی گنجائش باقی رہے گی یہ طریقہ احسن یعنی سب سے بہتر اس لیے کہا جاتا ہے کہ طلاق دینے والے کو عدت تک کی مدت اپنے فیصلے پر نظر ثانی اور غور و فکر کرنے کے لیے مل جاتی ہے اگر چاہے تو عدت ہی میں رجوع کر لے ورنہ بعد میں باہمی رضامندی سے نکاح بھی ہو سکتا ہے۔

(۲) طلاق حسن: اس کی یہ صورت ہے کہ بالغ عورت جس سے جماع بھی کر چکا ہو (مدخول بہا) اسے طہر یعنی پاکی کے زمانے میں ایک طلاق دے اس قسم میں بھی طہر میں جماع نہ کرنے کی شرط موجود ہے۔ پھر دوسرے حیض والے طہر کا انتظار کرے اور اس میں دوسری طلاق دے اور اگر اب بھی وہ اپنے فیصلے پر قائم ہے نام نہیں تو پھر تیسری طلاق بھی دے دے۔ اس کے بعد عورت اس پر حرام ہو جائے گی۔ طہر میں جماع نہ کرنے کی شرط اسی صورت میں ہے کہ وہ طلاق دینے کا ارادہ رکھتا ہو لہذا اگر رجعت مقصود ہو تو یقیناً کر سکتا ہے۔ اس قسم میں بھی مرد کو سوچنے اور نظر ثانی کرنے کے لیے دو ماہ کا موقع مل جاتا ہے۔ اسی طرح عورت کو بھی موقع ملتا ہے کہ اپنے شوہر کو رجوع کے لیے رضامند کر لے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ نابالغ لڑکی یا اتنی بوڑھی عورت جسے حیض نہ آتا ہو، ان کا حکم یہ ہے کہ انہیں ہر ماہ ایک طلاق دی جائے یہ صورت احسن سے کم درجے کی ہے لیکن بہتر ہے۔

(۳) طلاق بدعی: اگر ایک ہی وقت میں دو یا تین طلاقیں دی جائیں یا حیض کی حالت میں طلاق دی جائے یا اس طہر میں دی جائے جس میں جماع کر چکا ہو تو ان سب صورتوں میں طلاق کے واقع ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں لیکن طلاق دینے والا گنہگار ہوگا۔

نوٹ: طلاق احسن کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ طلاق دینا پسندیدہ کام ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ طلاق دینے کا یہ طریقہ صحیح ہے۔

یہاں ایک اور مسئلہ بھی نہایت اہم ہے کہ نو برس سے کم عمر لڑکی یا ایسی بالغ لڑکی جس سے اس کے شوہر نے ابھی جماع نہ کیا ہو (اسے شریعت میں غیر مدخول بہا کہتے ہیں) اور مدخولہ عورت کے احکام میں فرق ہے۔

(۱) غیر مدخولہ کے لیے صریح اور کنایہ۔

دونوں قسم کے الفاظ سے طلاق دینے پر طلاق بائن واقع ہو جائے گی رجعی نہیں ہوگی ایک دے تو ایک وغیرہ وغیرہ۔

(۲) غیر مدخولہ کے عدت گزارنا واجب نہیں وہ اسی وقت دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔

(۳) اگر اس کو ایک طلاق دے دی تو دوسری اور تیسری دینے کا حق باقی نہیں رہا۔

(۴) غیر مدخولہ پر تین طلاقیں اسی صورت میں واقع ہوتی ہیں کہ اس کا شوہر ایک ہی مرتبہ تین طلاقیں دے مثلاً کہے میں نے تجھے

تین طلاقیں دیں چنانچہ اگر تین کے عدد کے ساتھ طلاق نہیں دی تو تین واقع نہیں ہوں گی مثلاً کہے میں نے تجھے طلاق دی، طلاق دی،

طلاق دی۔ چنانچہ اس کے منہ سے پہلا لفظ نکلتے ہی طلاق بائن واقع ہوگی اور باقی دو طلاقیں لغو ہو گئیں جب کہ مدخولہ عورت یعنی جس سے

جماع کر چکا ہو، اسے ایک کے بعد دوسری اور تیسری طلاق بھی دے سکتا ہے اور یہ واقع بھی ہو جاتی ہیں۔ خواہ وہ عدد کا ذکر کر کے دے یا

تین مرتبہ الفاظ دہرائے۔ جتنی دے گا اتنی واقع ہو جائیں گی۔ واللہ اعلم (مترجم)

۱۰۴۷۔ حدیثنا ہنادنا و کعب عن سفیان عن محمد

بن عبدالرحمن مولیٰ الی طلحہ عن سلیم عن ابیہ

انہ طلق امراتہ فی الحيض فسأل عمر النبي صلى

الله عليه وسلم فقال مره فليبراجعها ثم ليطلقها

طاهراً أو حاملاً

۱۰۴۷۔ حضرت یونس بن جبر کی ابن عمر سے اور سالم کی اپنے والد سے منقول حدیث دونوں حسن صحیح ہیں۔ یہ دوسری حدیث حضرت ابن

عمر سے کئی سندوں سے منقول ہے۔ اس پر علماء صحابہ اور دیگر علماء کا عمل ہے کہ طلاق سنت کی یہی صورت ہے کہ ایسے طہر (یعنی پاکی کے

ایام) میں دی جائے جس میں جماع نہ کیا ہو۔ بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک طہر میں ایک دینا بھی سنت ہے۔ امام شافعی اور احمد کا بھی

یہی قول ہے جب کہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ طلاق سنت اسی صورت میں ہوگی کہ ایک ہی طلاق دے۔ ثوری اور اسحاق کا بھی یہی قول

ہے۔ شافعی، احمد اور اسحاق یہ بھی کہتے ہیں کہ حاملہ کو کسی بھی وقت طلاق دی جاسکتی ہے جب کہ بعض علماء کے نزدیک اسے ہر ماہ ایک

طلاق دی جائے گی۔

باب ۷۹۳۔ ما جاء في الرجل طلق امراته البتة

۱۰۴۸۔ حدیثنا ہنددنا قبیصہ عن جریر بن حازم

عن الزبیر بن سعید عن عبد اللہ بن یزید بن رکانہ

عن ابیہ عن جدہ قال أتیت النبی صلی اللہ علیہ

وسلم فقلت یا رسول اللہ انی طلق امراتی البتة

فقال ما أردت بها قلت وأحدہ قال واللہ قلت واللہ

قال فهو ما أردت

باب ۷۹۳۔ جو شخص اپنی بیوی کو ”البتة“ کے لفظ سے طلاق دے۔

۱۰۴۸۔ حضرت عبداللہ بن یزید بن رکانہ اپنے والد سے اور وہ ان کے

دادا سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: میں حضور ﷺ کی خدمت

میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق البتہ دے دی

ہے۔ آپ ﷺ نے پوچھا: اس سے تمہاری مراد کتنی طلاقیں تھیں؟ میں

نے کہا: ایک فرمایا: اللہ کی قسم؟ میں نے کہا: جی ہاں۔ چنانچہ آپ ﷺ نے

فرمایا: لہذا ایک ہی واقع ہوئی۔

اس حدیث کو ہم صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ علماء صحابہ کا لفظ ”البتہ“ کے استعمال میں اختلاف ہے کہ اس سے کتنی طلاقیں واقع ہوتی ہیں جب کہ حضرت علیؑ کا کہنا ہے کہ اس سے تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں لیکن بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ طلاق دینے والے کی نیت پر موقوف ہے اگر ایک کی نیت ہو تو ایک اور اگر تین کی نیت ہو تو تین واقع ہوتی ہیں۔ لیکن اگر دو کی نیت کرے تو ایک ہی واقع ہوگی۔ ثوری اور اہل کوفہ کا بھی یہی قول ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ اگر ان الفاظ سے طلاق دے اور اس سے صحبت کر چکا ہو تو تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر ایک کی نیت ہو تو ایک واقع ہوگی اور رجوع کا اختیار باقی رہے گا اور اگر دو کی نیت ہو تو دو اور تین کی نیت کرنے پر تین طلاقیں واقع ہوں گی۔

باب ۷۹۴۔ مَا جَاءَ فِي أَمْرِكَ بِيَدِكَ

باب ۹۴۔ عورت سے کہنا کہ تمہارا معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔

۱۰۴۹۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرٍ بْنُ عَلِيٍّ نَا سُلَيْمَانَ بْنَ حَرْبٍ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَيُّوبَ هَلْ عَلِمْتُ أَحَدًا قَالَ فِي أَمْرِكَ بِيَدِكَ إِنَّهَا ثَلَاثٌ إِلَّا الْحَسَنَ قَالَ لَا إِلَّا الْحَسَنَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ عَفِّرْهُ إِلَّا مَا حَدَّثَنِي قَتَادَةَ عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى بَنِي سَمُرَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ قَالَ أَيُّوبُ فَلَقِيتُ كَثِيرًا مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ فَسَأَلْتُهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ فَرَجَعْتُ إِلَى قَتَادَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ نَسِيَ

۱۰۴۹۔ علی بن نصر بن علی، سلیمان بن حرب سے اور وہ حماد بن زید سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: میں نے ایوب سے پوچھا: کیا آپ حسن کے علاوہ کسی اور شخص کو جانتے ہیں جس نے کہا کہ ”بیوی سے یہ کہنے سے کہ ”تمہارا معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے“ تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ کہنے لگے: نہیں صرف حسن ہی اس طرح کہتے ہیں پھر فرمایا: اے اللہ مغفرت فرما مجھے یہ حدیث قنادہ سے سنی انہوں نے قبیلہ بنو سمرہ کے غلام کثیر سے انہوں نے ابوسلمہ سے انہوں نے ابو ہریرہ سے اور انہوں نے آنحضرت ﷺ سے نقل کی کہ آپ ﷺ نے فرمایا: تین طلاقیں ہو گئیں۔ ایوب کہتے ہیں پھر میں نے کثیر سے ملاقات کی اور ان سے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے اس سے لاعلمی کا اظہار کیا۔ پھر میں دوبارہ قنادہ کے پاس گیا اور انہیں بتایا تو کہنے لگے کہ وہ بھول گئے ہیں۔

یہ حدیث ہم صرف سلیمان بن حرب کی حماد بن زید سے روایت سے جانتے ہیں۔ میں نے امام بخاری سے اس کے متعلق پوچھا تو فرمایا: ہم سے بھی سلیمان بن حرب، حماد بن زید سے یہی حدیث نقل کرتے ہیں۔ اور یہ حضرت ابو ہریرہؓ پر موقوف ہے یعنی انہی کا قول ہے۔ علی بن نصر حافظ اور صاحب حدیث ہیں۔ علماء کا اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو اختیار دیتے ہوئے یہ کہے کہ ”تمہارا معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے“ تو کتنی طلاقیں واقع ہوتی ہیں۔ بعض علماء صحابہ جن میں عمرؓ اور عبداللہ بن مسعودؓ بھی شامل ہیں کہتے ہیں کہ اس سے ایک ہی واقع ہوگی۔ اور یہ تابعین اور ان کے بعد کے علماء میں سے کئی حضرات کا قول ہے۔ عثمان بن عفانؓ اور زید بن ثابتؓ کہتے ہیں کہ یہ عورت پر موقوف ہے یعنی وہ جتنی بھی کہے گی اسی کے قول کا اعتبار ہوگا۔ ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اختیار دے دے اور وہ خود کو تین طلاقیں دے دے اس صورت میں اگر خاوند کا دعویٰ ہو کہ اس نے صرف ایک ہی طلاق کا اختیار دیا تھا تو اس سے حلف لیا جائے گا اور اسی کے قول کا اعتبار ہوگا۔ سفیان ثوری اور اہل کوفہ حضرت عمرؓ اور عبداللہ بن مسعودؓ کے مسلک پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن مالکؓ کہتے ہیں کہ اس میں عورت کا قول معتبر ہوگا۔ امام احمد بھی اسی کے قائل ہیں جب کہ اسحاق حضرت ابن عمرؓ کے قول پر عمل کرتے ہیں۔

باب ۷۹۵۔ مَا جَاءَ فِي الْخِيَارِ

باب ۷۹۵۔ بیوی کو طلاق کا اختیار دینا۔

۱۰۵۰۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ نَا سَفِيَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَيْرٌ نَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْتَرْنَا إِيَّاهُ أَفْكَانَ طَلَاقًا

۱۰۵۰۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ہمیں آنحضرت ﷺ نے طلاق یا آپ ﷺ کے ساتھ رہنے کا اختیار دیا تھا۔ ہم نے آپ ﷺ کے ساتھ رہنے کا اختیار کیا۔ تو کیا یہ طلاق ہوئی؟

بندار، عبد الرحمن بن مہدی سے وہ سفیان سے وہ اسماعیل سے وہ مسروق سے وہ عائشہؓ سے اسی کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور بیوی کو اختیار دینے کے مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ چنانچہ حضرت عمرؓ اور عبد اللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق کا اختیار دے دے اور وہ خود کو طلاق دیدے تو یہ ایک بائن ہوگی۔ ان سے یہ بھی منقول ہے کہ وہ ایک طلاق رجعی بھی دے سکتی ہے لیکن اگر وہ اپنے شوہر کو اختیار کرے تو کچھ بھی نہیں۔ حضرت علیؓ سے منقول ہے کہ اگر وہ خود کو اختیار کرے گی تو ایک طلاق بائن اور اگر وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنا اختیار کرے گی تو بھی ایک طلاق رجعی ہوگی۔ حضرت زید بن ثابتؓ کہتے ہیں کہ اگر اس نے اپنے شوہر کو اختیار کیا تو ایک اور اگر خود کو اختیار کرے گی تو تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اکثر فقہاء و علماء صحابہ اور ان کے بعد کے علماء کی اکثریت حضرت عمرؓ اور عبد اللہ بن مسعودؓ کے قول پر عمل کرتی ہے۔ سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا بھی یہی قول ہے۔ لیکن امام احمد حضرت علیؓ کے قول پر عمل کرتے ہیں۔

باب ۷۹۶۔ مَا جَاءَ فِي الْمُطَلَّاقَةِ ثَلَاثًا لَا سُكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَةَ

باب ۷۹۶۔ جس عورت کو تین طلاقیں دی گئی ہوں، اس کا روٹی، کپڑا اور رہائش کا بندوبست شوہر کے ذمے نہیں۔

۱۰۵۱۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا سُكْنَى لَكَ وَلَا نَفَقَةَ قَالَ مُغِيرَةُ فَذَكَرْتُهُ لِأَبِرَاهِيمَ فَقَالَ قَالَ عُمَرُ لَا نَدْعُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي أَحْفَظْتَ أَمْ نَسِيتُ فَكَانَ عُمَرُ يَجْعَلُ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ

۱۰۵۱۔ حضرت شعبی کہتے ہیں کہ فاطمہ بنت قیسؓ نے فرمایا: میرے شوہر نے رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں مجھے تین طلاقیں دیں تو آپ ﷺ نے فرمایا: تیرے شوہر پر تیرے روٹی کپڑے اور رہائش کا بندوبست واجب نہیں۔ مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے جب ابراہیم سے اس حدیث کا تذکرہ کیا تو کہنے لگے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا: ہم اللہ کی کتاب اور اپنے نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی سنت کو ایک عورت کے قول کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے جس کے متعلق ہمیں یہ بھی معلوم نہ ہو کہ اسے یاد بھی ہے یا بھول گئی ہے۔ چنانچہ حضرت عمرؓ مطلقہ کے عدت تک کے اخراجات (یعنی روٹی کپڑے اور مکان) شوہر کے ذمے لگایا کرتے تھے۔

۱۰۵۲۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا هِشِيمَ ابْنَانَ حَصِينَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ مَجَالِدَ قَالَ هِشِيمُ وَ نَادَاؤُدُ أَيْضًا عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ ابْنَةِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۱۰۵۲۔ شعبی کہتے ہیں کہ میں فاطمہ بنت قیسؓ کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ آنحضرت ﷺ نے آپ کے معاملے میں کیا فیصلہ فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا: ان کے شوہر نے انہیں ”طلاق البتہ“ (تین طلاقیں) دی تو میں نے ان سے نان نفقہ اور رہائش کے لیے جھگڑا کیا۔ لیکن آپ

فِيهَا فَقَالَتْ طَلَّقَهَا زَوْجَهَا الْبَتَّةَ فَخَاصَمْتُهُ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ وَفِي حَدِيثِ دَاوُدَ قَالَتْ وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَ فِي بَيْتِ أُمِّ مَكْتُومٍ

ﷺ نے انہیں یہ چیزیں نہیں دلوائیں۔ داؤد کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ ”پھر مجھے حکم دیا کہ ام مکتوم کے گھر عدت کے دن گزاروں۔“

یہ حدیث حسن صحیح ہے جس بصری، عطاء بن ابی رباح، شعبی، احمد اور اسحاق وغیرہ کا یہی قول ہے کہ جب خاوند کے پاس رجوع کا اختیار باقی نہ رہے تو رہائش اور نان نفقہ بھی اس کے ذمے نہیں رہتا۔ لیکن بعض علماء صحابہ جن میں عمر بن خطابؓ اور عبداللہ بن مسعودؓ بھی شامل ہیں کہتے ہیں کہ تین طلاق کے بعد بھی عدت پوری ہونے تک یہ چیزیں مہیا کرنا شوہر ہی کے ذمے ہے۔ سفیان ثوری اور اہل کوفہ اسی کے قائل ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ شوہر کے ذمے صرف رہائش کا بندوبست رہ جاتا ہے نان نفقہ نہیں۔ مالک، لیث اور شافعی کا بھی یہی قول ہے۔ شافعی اپنے قول کی یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ”لا تخرجوهن من بیوتھن ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشة مبینة“ اپنی عورتوں کو گھروں سے نہ نکالو اور وہ خود بھی نہ نکلیں۔ ہاں اگر وہ کھلے طور پر فواحش کا ارتکاب کریں۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فاطمہ بنت قیس کو اس لیے عدت پوری کرنے کے لیے گھر نہیں دلوایا کہ وہ سخت کلامی کرتی تھیں۔ پھر اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شوہر کے ذمے اس کا نان نفقہ نہیں۔

باب ۷۹۷۔ نکاح سے پہلے طلاق واقع نہیں ہوتی۔

باب ۷۹۷۔ مَا جَاءَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

۱۰۵۳۔ عمرو بن شعیب اپنے والد اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ابن آدم جس چیز پر ملکیت نہیں رکھتا اس میں اس کی نذر صحیح نہیں۔ اسی طرح ایسے غلام یا باندی کو آزاد کرنا بھی صحیح نہیں جس کا وہ مالک نہیں اسے طلاق بھی نہیں دے سکتا۔

۱۰۵۳۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَذْرَ لِأَبْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا عَقْدَ لَهُ فِي مَا لَا يَمْلِكُ وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِي مَا لَا يَمْلِكُ

اس باب میں علیؓ، معاویہؓ، جابر بن عباسؓ اور عائشہؓ سے بھی روایت ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں اصح حدیث ہے اکثر علماء صحابہ وغیرہ کا یہی قول ہے۔ علی بن ابی طالبؓ، ابن عباسؓ، جابر بن عبداللہؓ، سعید بن مسیبؓ، حسن، سعید بن جبیر، علی بن حسین، شرح اور جابر بن زید سے بھی یہی منقول ہے کئی فقہائے تابعین اور شافعی کا بھی یہی قول ہے۔ حضرت ابن مسعودؓ سے منقول ہے کہ اگر عورت یا قبیلے کا تعین کر کے کہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے یعنی جیسے ہی وہ نکاح کرے گا طلاق واقع ہو جائے گی۔ سفیان ثوری اور امام مالک کا بھی یہی قول ہے یہ دونوں مزید کہتے ہیں کہ اگر کسی عورت کا نام لے کر یا کسی وقت یا قبیلے کی تعین کر کے طلاق دے تو اگر وہ اس عورت سے نکاح کرے گا تو اسے طلاق ہو جائے گی لیکن ابن مبارک اس مسئلے میں شدت اختیار کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے وہ عورت حرام بھی نہیں ہوتی۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص نکاح نہ کرنے پر طلاق کی قسم کھالے۔ یعنی کہے کہ اگر میں نے نکاح کیا تو میری بیوی کو طلاق ہے۔ پھر تھوڑے عرصے بعد اسے نکاح کی خواہش ہوئی تو کیا اس کے لیے ان فقہاء کے قول پر عمل جائز ہے جو اس کی اجازت دیتے ہیں؟ ابن مبارک نے فرمایا: اگر وہ اس مسئلے میں مبتلا ہونے سے پہلے ان کے قول کو صحیح سمجھتا تھا تو اب بھی اس پر عمل کر سکتا ہے لیکن اگر پہلے اجازت نہ دینے والے فقہاء کے قول کو ترجیح دیتا تھا تو اب بھی اجازت دینے والے فقہاء کے قول پر عمل کرنا جائز نہیں۔

احمد کہتے ہیں کہ اگر اس نے نکاح کر لیا تو میں اسے بیوی کو چھوڑنے کا حکم نہیں دیتا۔ اسحاق کہتے ہیں میں کسی متعین قبیلے، شہر یا عورت کے متعلق حضرت ابن مسعودؓ کی حدیث کی وجہ سے اجازت دیتا ہوں چنانچہ اگر وہ نکاح کر لے تو میں نہیں کہتا کہ وہ اس پر حرام ہے۔ اسحاق غیر منصوبہ (غیر متعین) عورت کے معاملے میں وسعت دیتے ہیں۔

باب ۷۹۸۔ مَا جَاءَ أَنَّ طَلَاقَ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ

باب ۷۹۸۔ باندی کے لیے دو ہی طلاقیں ہیں

۱۰۵۴۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النِّيسَابُورِيُّ نَا

۱۰۵۴۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: باندی کی

أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جَرِيحٍ قَالَ نَظَاهِرُ بْنُ اسْلَمَ قَالَ

طلاق دو طلاقیں اور اس کی عدت دو حیض ہے یہ حدیث محمد بن یحییٰ،

حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

أَبُو عَاصِمٍ سَعْدٍ وَأَبُو عَاصِمٍ أَنَا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّتُهَا

حَيْضَتَانِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ نَا أَبُو عَاصِمٍ أَنَا

مَظَاهِرُ بِهَذَا

اس باب میں عبد اللہ بن عمر سے بھی روایت ہے۔ حضرت عائشہؓ کی حدیث غریب ہے ہم اسے صرف مظاہر بن اسلم کی روایت سے مرفوع جانتے ہیں اور ان کی اس کے علاوہ کوئی حدیث نہیں۔ علماء صحابہ وغیرہ اسی پر عمل کرتے ہیں سفیان ثوری شافعی، احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں۔

باب ۷۹۹۔ مَا جَاءَ فِي مَنْ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ

باب ۷۹۹۔ جو شخص اپنے دل میں اپنی بیوی کو طلاق دے۔

۱۰۵۵۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ

۱۰۵۵۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ

زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

میری امت کی دلوں میں آنے والے خیالات پر پکڑ نہیں کرتے جب

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَاوَرَ اللَّهُ لِأُمَّتِي مَا حَدَّثْتُ

بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَكَلِّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر اہل علم کا عمل ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو دل میں طلاق دے تو وہ واقع نہیں ہوتی۔

باب ۸۰۰۔ مَا جَاءَ فِي الْحَدِّ وَالْهَزْلِ فِي الطَّلَاقِ

باب ۸۰۰۔ ہنسی مذاق میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔

۱۰۵۶۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا حَاتِمُ بْنُ اسْمَعِيلَ عَنْ

۱۰۵۶۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تین

عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ اِدْرِكَ مَدِينِي عَنْ عَطَاءِ عَنْ ابْنِ

چیزیں ایسی ہیں جو نیت کے ساتھ تو واقع ہوتی ہی ہیں، مذاق میں بھی

مَا هَكَأَيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدُّ النِّكَاحِ

وَالطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ

واقع ہو جاتی ہیں۔ طلاق، نکاح اور طلاق کے بعد رجوع کرنا۔

یہ حدیث حسن غریب ہے اور اسی پر علماء صحابہ وغیرہ کا عمل ہے۔ عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن حبیب بن ادرك بن مابک ہیں میرے نزدیک یوسف بن مابک بھی یہی ہیں۔

باب ۸۰۱۔ خلع کے متعلق۔

باب ۸۰۱۔ مَا جَاءَ فِي الْخُلْعِ

۱۰۵۷۔ حضرت ربیع بنت معوذ بن عفراء فرماتی کہ انہوں نے آنحضرت ﷺ کے زمانے میں اپنے شوہر سے خلع لیا۔ پھر آپ ﷺ نے انہیں حکم دیا، یا انہیں حکم کیا گیا کہ وہ ایک حیض تک عدت میں رہیں۔

۱۰۵۷۔ حدثنا محمود بن غیلان نا الفضل بن موسی عن سفیان نا محمد بن عبدالرحمن وهو مولی ال طلحة عن سلیمان بن یسار عن الربیع بنت معوذ بن عفراء أنها اختلعت علی عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها النبي صلى الله عليه وسلم أو امرت أن تعتد بحيضة

اس باب میں ابن عباس سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: صحیح یہی ہے کہ انہیں ایک حیض تک عدت میں رہنے کا حکم دیا گیا تو توضیح: اگر میاں بیوی میں اختلافات پیدا ہو جائیں چنانچہ ان کا ساتھ رہنا بہت مشکل ہو لیکن شوہر طلاق دینے پر بھی راضی نہ ہو تو ایسی صورت میں عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ کچھ مال یا اپنا مہر دے کر اس سے نجات حاصل کر لے۔ اسے خلع کہتے ہیں۔ اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ ”ملکیت نکاح کو مال کے عوض میں لفظ خلع سے زائل کرنا“۔ واللہ اعلم (مترجم)

۱۰۵۸۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے زمانے میں ثابت بن قیس کی بیوی نے اپنے شوہر سے خلع لیا تو آپ ﷺ نے انہیں ایک حیض کی مدت تک عدت میں بیٹھنے کا حکم دیا۔

۱۰۵۸۔ حدثنا محمد بن عبدالرحیم البغدادی ثنا علی بن بحر ثنا هشام بن یوسف عن معمر بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فامرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے خلع لینے والی عورت کی عدت میں علماء کا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ اس کی عدت بھی مطلقہ ہی کی طرح ہے۔ ثوری، اہل کوفہ، احمد اور اسحاق کا یہی قول ہے۔ جب کہ بعض علماء کے نزدیک خلع لینے والی عورت کی عدت ایک حیض ہے۔ اسحاق کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس مسلک پر عمل کرے تو یہ قوی ہے۔

باب ۸۰۲۔ خلع لینے والی عورتوں کے متعلق

باب ۸۰۲۔ ما جاء في المختلعات

۱۰۵۹۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: خلع لینے والی عورتیں منافق ہیں۔

۱۰۵۹۔ حدثنا ابو کریب ثنا مزاحم بن ذواد بن علبه عن ابيه عن ليث عن ابي الخطاب عن ابي زرعة عن ابي ادریس عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المختلعات هن المنافقات

یہ حدیث اس سند سے غریب ہے۔ اس کی سند قوی نہیں۔ آنحضرت ﷺ سے منقول ہے کہ جو عورت بغیر عذر کے اپنے شوہر سے خلع لے گی وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گی۔ یہ حدیث محمد بن بشار، عبد الوہاب ثقفی سے، وہ ابوب سے وہ ابو قلابہ سے وہ کسی شخص سے وہ ثوبان سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: جو عورت اپنے خاوند سے بغیر عذر کے طلاق لیتی ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پاسکے گی۔ یہ حدیث حسن ہے۔ یہ حدیث ابوب، ابو قلابہ سے وہ ابواسماء سے اور وہ ثوبان سے بھی نقل کرتے ہیں بعض راوی اس حدیث کو اسی حدیث سے مرفوع نہیں کرتے۔

باب ۸۰۳۔ مَا جَاءَ فِي مُدَارَاةِ النِّسَاءِ

باب ۸۰۳۔ عورتوں کے ساتھ سلوک کرنا۔

۱۰۶۰۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ
ابِرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ ثَنِي ابْنِ أَحْمَرَ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَمِّهِ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَرْأَةَ كَالضِّلْعِ
إِنْ ذَهَبَتْ تَقِيمَهَا كَسَرَتْهَا وَإِنْ تَرَكْتَهَا اسْتَمْتَعَتْ
بِهَا عَلَى عِوَجٍ

۱۰۶۰۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عورت
پسلی کی طرح ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ دو
گے اور اگر اسے اسی حالت میں چھوڑ دو گے تو اس کے ٹیزھے پن ہی کی
صورت میں اس سے فائدہ اٹھاؤ گے۔

اس باب میں ابو ذرؓ، عمرؓ اور حضرت عائشہؓ سے بھی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۸۰۴۔ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَسْتَلُّهُ أَبُوهُ أَنْ يُطَلِّقَ
امْرَأَتَهُ

باب ۸۰۴۔ جس شخص کے والد اسے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا حکم
دیں۔

۱۰۶۱۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ثَنَا
ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ
حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ
تَحْتِي امْرَأَةٌ أُحِبُّهَا وَكَانَ أَبِي يَكْرَهُهَا فَأَمَرَنِي أَنْ
أُطَلِّقَهَا فَأَبَيْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلِّقِ امْرَأَتَكَ

۱۰۶۱۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ میری ایک بیوی تھی جس سے مجھے
محبت تھی لیکن میرے والد اسے پسند نہیں کرتے تھے چنانچہ انہوں نے
مجھے حکم دیا کہ میں اسے طلاق دے دوں۔ لیکن میں نے انکار کر دیا اور
آنحضرت ﷺ سے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اے عبداللہ
بن عمر اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ہم اسے صرف ابن ابی ذنب کی روایت سے جانتے ہیں۔

باب ۸۰۵۔ مَا جَاءَ لَا تَسْئَلِ الْمَرْأَةَ طَلَاقَ أُخْتِهَا

باب ۸۰۵۔ عورت اپنی سوکن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے۔

۱۰۶۲۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا سَفِيَانُ بْنُ عَيْنَةَ عَنْ
الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَنْبُلُغُ
بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَسْئَلِ الْمَرْأَةَ
طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِيَنَّ مَا فِي إِيَّانِهَا

۱۰۶۲۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ وہ اس حدیث کو جانتے ہیں کہ
آنحضرت ﷺ نے فرمایا: کوئی عورت اپنی سوکن کی طلاق کا مطالبہ نہ
کرے تاکہ وہ اس کے برتن میں سے انڈیل لے۔ (یعنی اس کے حصے
پر قبضہ جمانے کے لیے طلاق کا مطالبہ نہ کرے)۔

اس باب میں ام سلمہؓ سے بھی روایت ہے۔ ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۸۰۶۔ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ

باب ۸۰۶۔ پاگل کی طلاق سے متعلق

۱۰۶۳۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ
مَعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ عِكْرَمَةَ
بْنِ خَالِدِ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ

۱۰۶۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: معتوہ
(یعنی جس کی عقل زائل ہوگئی ہو) کی طلاق کھلاہ تمام طلاقیں واقع
ہو جاتی ہیں۔

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ
الْمَعْتُورِ الْمَعْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ

اس حدیث کو ہم صرف عطاء بن عجلان کی روایت سے مرفوع جانتے ہیں اور وہ ضعیف ہیں اور حدیثیں بھول جاتے ہیں علماء صحابہ وغیرہ کا
اسی پر عمل ہے کہ دیوانے کی طلاق واقع نہیں ہوتی ہاں اگر اسے کبھی کبھی ہوش آتا ہو اور وہ اسی حالت میں طلاق دے تو ہو جائے گی۔

باب ۸۰۷۔

باب ۸۰۷۔ بلا عنوان

۱۰۶۴۔ حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ ثَنَا يَعْلَى بْنُ شَيْبَةَ عَنْ هِشَامِ
بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّاسُ وَ
الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَا شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَهِيَ امْرَأَتُهُ إِذَا
أُرْتَجَعَتْ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَإِنْ طَلَّقَهَا مِائَةَ مَرَّةٍ أَوْ
أَكْثَرَ حَتَّى قَالَ رَجُلٌ لِامْرَأَتِهِ وَاللَّهِ لَا أُطَلِّقُكَ فَتَبَيَّنَ
مِئْتِي وَ لَا أُوْوِيكَ أَبَدًا قَالَتْ وَكَيْفَ ذَلِكَ قَالَ
أَطَلَّقُكَ فَكُلَّمَا هَمَّتْ عِدَّتِكَ أَنْ تَنْقُضِيَ رَاجَعْتُكَ
فَذَهَبَتِ الْمَرْأَةُ حَتَّى دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهَا
فَسَكَتَتْ عَائِشَةُ حَتَّى جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ
أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ قَالَتْ عَائِشَةُ فَاسْتَأْنَفَ النَّاسُ
الطَّلَاقَ مُسْتَقْبِلًا مَنْ كَانَ طَلَّقَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَلَّقَ

۱۰۶۳۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں کوئی شخص اپنی
بیوی کو چھٹی چاہتا طلاق دے دیتا اور پھر عدت کے دوران رجوع
کر لیتا تو وہ اس کی بیوی رہتی۔ اگرچہ اس نے سو یا اس سے زیادہ
طلاق ہی کیوں نہ دی ہوتیں۔ یہاں تک ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنی
بیوی سے کہا کہ میں تمہیں کبھی طلاق نہیں دوں گا تا کہ تو مجھ سے جدا نہ
ہو جائے لیکن اس کے باوجود مجھ سے کبھی نہیں ملوں گا۔ اس نے پوچھا وہ
کیسے؟ اس نے کہا وہ اس طرح کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور پھر
جب تمہاری عدت پوری ہونے والی ہوگی تو رجوع کر لوں گا۔ (اسی
طرح پھر طلاق دوں گا اور رجعت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لوں گا
اور اسی طرح ہمیشہ کرتا رہوں گا) وہ عورت حضرت عائشہ کے پاس آئی
اور انہیں بتایا تو وہ خاموش رہیں۔ یہاں تک رسول اللہ ﷺ تشریف
لائے اور انہیں یہ قصہ سنایا گیا لیکن آپ ﷺ بھی خاموش رہے پھر یہ
آیت نازل ہوئی ”الطلاق مرتان فامساک بمعروف
او تسریح باحسان“ (یعنی طلاق دو ہی مرتبہ ہے اس کے بعد یا تو
قاعدے کے مطابق رکھ لیا یا حسن طریقے سے چھوڑ دو) حضرت عائشہ
فرماتی ہیں کہ اس کے بعد لوگوں نے طلاق کا حساب رکھنا شروع کر دیا جو
دے چکے تھے انہوں نے بھی اور جنہوں نے نہیں دی تھی۔ انہوں نے بھی۔

ابو کریب محمد بن عطاء، عبد اللہ بن ادریس سے وہ ہشام بن عروہ سے اور وہ اپنے والد سے اسی کے ہم معنی حدیث نقل کرتے ہیں۔

لیکن اس میں حضرت عائشہ کا ذکر نہیں کرتے یہ حدیث یعلیٰ بن شیبہ کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔

باب ۸۰۸۔ ایسی حاملہ جو خاوند کی وفات کے بعد جنے۔

باب ۸۰۸۔ مَا جَاءَ فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا
زَوْجَهَا تَضَعُ

۱۰۶۵۔ ابوسائل بن بعلک کہتے ہیں کہ سبیحہ کے ہاں ان کے شوہر کی
وفات کے تیس یا پچیس دن بعد ولادت ہوئی۔ پھر جب وہ نفاس سے

۱۰۶۵۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ
ثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ

پاک ہوئیں تو نکاح کے لیے زینت اختیار کی لیکن لوگوں نے اس پر اعتراض کیا جب یہ واقعہ آنحضرت ﷺ کے سامنے ذکر کیا گیا تو فرمایا: اس کی عدت پوری ہو چکی ہے اگر وہ نکاح کرے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

أَبِي السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكُكٍ قَالَ وَضَعْتُ سُبُعَةَ بَعْدَ وَفَاتِ زَوْجِهَا بِثَلَاثَةِ وَعِشْرِينَ يَوْمًا أَوْ خَمْسَةَ وَعِشْرِينَ يَوْمًا فَلَمَّا تَعَلَّتْ تَشَوَّقَتْ لِلنِّكَاحِ فَانْكَحَ عَلَيْهَا ذَلِكَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ تَفَعَّلَ فَقَدْ حَلَّ أَحْلَاهَا

احمد بن منیع، حسن بن موسیٰ سے وہ شیبان سے اور وہ منصور سے اسی کے مثل نقل کرتے ہیں۔ اس باب میں ام سلمہ سے بھی روایت ہے۔ ابوسنابل کی حدیث اس سند سے غریب اور مشہور ہے۔ ہمیں اسود کی ابوسنابل سے اس حدیث کے علاوہ کسی روایت کا علم نہیں۔ میں نے امام بخاری سے سنا کہ مجھے علم نہیں کہ ابوسنابل، آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد زندہ رہے ہوں۔ اکثر علماء کا اسی پر عمل ہے کہ حاملہ عورت کا خاوند اگر فوت ہو جائے تو وہ ولادت کے بعد نکاح کر سکتی ہے۔ اگرچہ اس کی عدت کے دن پورے نہ ہوئے ہوں۔ سفیان ثوری، احمد شافعی اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ جب کہ بعض علماء صحابہ و دیگر علماء سے منقول ہے کہ وہ دونوں میں سے زیادہ دن کی مدت پوری کرے یعنی اگر عدت کے دن پورے ہونے تک ولادت نہ ہو تو ولادت تک اور اگر دن پورے ہونے سے پہلے ولادت ہو جائے تو عدت کی مدت پوری کرے۔ لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔ یعنی حاملہ کی عدت ولادت سے پوری ہو جاتی ہے۔

۱۰۶۶۔ حضرت سلیمان بن یسار کہتے ہیں کہ ابو ہریرہؓ، ابن عباسؓ اور ابوسلمہ بن عبدالرحمنؓ نے آپس میں اس عورت کا تذکرہ کیا جو حاملہ ہو اور اس کا شوہر فوت ہو جائے۔ ابن عباس نے کہا کہ اس کی عدت دونوں میں سے زیادہ عدت ہوگی یعنی ولادت یا عدت کے دنوں میں سے جس میں زیادہ دن ہوں گے وہی اس کی ہے۔ ابوسلمہ نے کہا کہ اس کی عدت ولادت تک ہے۔ جب پیدائش ہوگی تو وہ حلال ہوگی۔ چنانچہ ابو ہریرہؓ نے کہا کہ میں بھی اپنے بھائی ابوسلمہ کے ساتھ ہوں۔ پھر انہوں نے ام سلمہ کے پاس کسی شخص کو یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے بھیجا تو فرمایا: سبوعہ کے ہاں ان کے شوہر کی وفات کے چند دن بعد ولادت ہوئی تھی۔ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا تو آپ نے انہیں نکاح کرنے کی اجازت دی۔

۱۰۶۶۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبْنَ عَبَّاسٍ وَ أَبَا سَلْمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ تَذَاكَرُوا الْمَتَوَفَى عَنْهَا زَوْجَهَا الْحَامِلُ تَضَعُ عِنْدَ وَفَاتِ زَوْجِهَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تَعْتَدُ إِجْرَ الْأَحْلِيَيْنِ وَقَالَ أَبُو سَلْمَةَ بَلْ تَحِلُّ حِينَ تَضَعُ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَحِبِّي يَعْنِي أَبَا سَلْمَةَ فَأَرْسَلُوا إِلَيَّ أُمَّ سَلْمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ قَدْ وَضَعْتُ سُبُعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ بَعْدَ وَفَاتِ زَوْجِهَا بِبَيْسِيرٍ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۸۰۹۔ جس کا خاوند فوت ہو جائے اس کی عدت کے متعلق۔
۱۰۶۷۔ حمید بن نافع کہتے ہیں کہ زینب بنت ابی سلمہ نے انہیں ان تین حدیثوں کے متعلق بتایا۔ انہوں نے فرمایا: میں آنحضرت ﷺ کی زوجہ مطہرہ ام حبیبہ کے والد ابوسفیان بن حرب کی وفات کے موقع پر ان

باب ۸۰۹۔ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْمَتَوَفَى عَنْهَا زَوْجَهَا
۱۰۶۷۔ حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ ثَنَا مَعْنٌ عَنْ عَيْسَى ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبِ

کے ہاں داخل ہوئی انہوں نے خوشبو منگائی جس میں خلوق (ایک خوشبو) کی زردی تھی یا کچھ اور تھا۔ انہوں نے وہ خوشبو ایک لڑکی کو لگائی اور پھر اپنے گالوں پر بھی لگائی پھر فرمایا: مجھے خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں لیکن میں نے آنحضرت ﷺ سے سنا کہ: اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لانے والی عورت کے لیے کسی کی وفات پر تین دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہاں البتہ اگر کسی کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ چار مہینے دس دن تک سوگ کرے۔ زینب کہتی ہیں پھر میں زینب بنت جحش کے ہاں ان کے بھائی کی وفات کے موقع پر داخل ہوئی تو انہوں نے بھی خوشبو منگوائی اور لگانے کے بعد فرمایا: مجھے خوشبو کی کوئی حاجت نہیں تھی لیکن میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ: کسی اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لانے والی عورت کے لیے جائز نہیں کہ کسی کی وفات پر تین رات سے زیادہ تک سوگ منائے۔ لیکن جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے وہ چار ماہ دس دن تک سوگ کرے زینب کہتی ہیں میں نے اپنی والدہ ام سلمہ سے سنا کہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ (میری بیٹی کا خاندان فوت ہو گیا ہے اور اس کی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں کیا وہ سُرمد لگا سکتی ہے؟ آپ ﷺ نے دوا تین مرتبہ فرمایا نہیں وہ آپ ﷺ سے پوچھی اور آپ ﷺ منع فرماتے پھر آپ ﷺ نے فرمایا: یہ تو چار مہینے دس دن ہیں جب کہ زمانہ جاہلیت میں عورتیں ایک سال بعد اونٹ کی میٹگنیاں پھینکا کرتی تھیں۔ (۱)

بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ قَالَ قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَىٰ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوَفِّي أَبُوهَا أَبُو سَفْيَانَ ابْنُ حَرْبٍ فَدَعَتْ بِطَيْبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خُلُوقٍ أَوْ غَيْرِهِ فَدَهَنْتُ بِهِ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضِيهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطَّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَىٰ مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَىٰ زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ زَيْنَبُ فَدَخَلْتُ عَلَىٰ زَيْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوَفِّيَ أَخُوَهَا فَدَعَتْ بِطَيْبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي فِي الطَّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَىٰ مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَىٰ زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ زَيْنَبُ وَسَمِعْتُ أُمَّيْ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوَفِّي عَنْهَا زَوْجَهَا وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَنَكْحِلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لِأَنْتُمْ قَالَ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَقَدْ كَانَتْ إِحْلَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبُعْرَةِ عَلَىٰ رَأْسِ الْحَوْلِ

اس باب میں فریوہ بنت مالک بن سنان، (جو ابوسعید خدری کی بہن ہیں) اور حفصہ بنت عمرؓ سے بھی روایت ہے۔ زینب کی حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر صحابہ وغیرہ کا عمل ہے کہ جس کا شوہر فوت ہو جائے وہ خوشبو اور زرباؤں سے پرہیز کرے۔ ثوری، مالک، شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

(۱) قاضی عیاض وغیرہ کہتے ہیں کہ اس جملے میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تھا تو وہ کسی تک گھر میں داخل ہو کر بدترین لباس پہن لیتی اور خوشبو یا زینت کی چیزیں استعمال نہیں کرتی تھی یہاں تک کہ اسی حالت میں ایک سال گزر جاتا پھر اسے کوئی جانور یا پرندہ دیا جاتا جس سے وہ فرج کو رخ کر کے عدت توڑتی، اور پھر اونٹ کی میٹگنیاں پھینکتی۔ حضور ﷺ کا مقصد یہ ہے کہ یہ حکم تو اس جاہلیت کے حکم کے مقابلے میں بہت آسان ہے۔ (مترجم)

باب ۸۱۰۔ جس شخص نے اپنی بیوی سے اظہار کیا اور کفارہ ادا کرنے سے پہلے صحبت کر لی۔

۱۰۶۸۔ حضرت سلمہ بن صحز بیاضیؓ، آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ جو شخص اظہار کا کفارہ ادا کرنے سے پہلے صحبت کر لے اس پر ایک ہی کفارہ ہے۔

باب ۸۱۰۔ مَا جَاءَ فِي الْمُظَاهِرِ يُؤَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكْفَرَ

۱۰۶۸۔ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الشَّجِ ثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اسْحَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءَ عَنْ سَلِيمَانَ بْنِ يَسَارَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ الْبَيْضَانِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُظَاهِرِ يُؤَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكْفَرَ قَالَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ

یہ حدیث حسن غریب ہے اور اسی پر علماء کا عمل ہے۔ سفیان ثوری، مالک، شافعی، احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں جب کہ بعض کے نزدیک ایسے شخص پر دو کفارے واجب ہو جاتے ہیں۔ عبدالرحمن بن مہدی بھی اسی کے قائل ہیں۔

توضیح: اظہار: اپنی بیوی کو کسی ایسی عورت سے تشبیہ دینا کہ جو اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے یا اس کے برابر کہنا۔ اسے ظہار کہتے ہیں مثلاً کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ تو مجھ پر میری بہن وغیرہ کی طرح حرام ہے۔ اس میں اگر اس کی نیت طلاق کی نہیں تھی تو ظہار ہو گیا ورنہ طلاق۔ اور اب یہ اس وقت تک صحبت نہیں کر سکتا۔ جب تک کفارہ ادا نہ کرے۔ واللہ اعلم (مترجم)

۱۰۶۹۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنی بیوی سے ظہار کرنے کے بعد اس سے صحبت کر بیٹھا اور پھر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: میں نے اپنی بیوی سے ظہار کیا تھا اور کفارہ ادا کرنے سے پہلے اس سے صحبت کر لی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تم پر رحم کرے تمہیں کس چیز نے اس پر مجبور کیا؟ کہنے لگا میں نے چاند کی روشنی میں اس کی پازیب دیکھ لی تھی (یعنی اس طرح بے قرار ہو کر صحبت کر لی) آپ ﷺ نے فرمایا: جب تک کفارہ ادا نہ کر دو اس کے قریب مت جانا۔

۱۰۶۹۔ حَدَّثَنَا أَبُو عَمَارٍ الْحَسِينُ بْنُ حَرِيثِ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ مَعْمَرِ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ابَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنْ امْرَأَتِي فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أَكْفُرَ فَقَالَ وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ قَالَ رَأَيْتُ خَلْخَالَهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ قَالَ فَلَا تَقْرُبَهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۸۱۱۔ ظہار کا کفارہ

باب ۸۱۱۔ مَا جَاءَ فِي كَفَّارَةِ الظَّهَارِ

۱۰۷۰۔ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا هَارُونَ بْنُ اسْمَعِيلَ الْخَزَّازِ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ سَلْمَانَ بْنَ صَخْرٍ الْأَنْصَارِيَّ أَحَدَيْنِي بِبَيَاضَةَ جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ كَظْهَرِ أُمِّهِ حَتَّى يَمُضِيَ رَمَضَانَ فَلَمَّا مَضَى نِصْفُ مِنْ رَمَضَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا لَيْلًا فَأَتَى

۱۰۷۰۔ حضرت ابو سلمہؓ اور محمد بن عبدالرحمنؓ فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنو بیاضہ کے ایک شخص سلمان بن صحز انصاری نے اپنی بیوی سے کہا کہ رمضان گزرنے تک تم مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہو لیکن ابھی آدھا رمضان ہی گزرا تھا کہ اپنی بیوی سے رات کو صحبت کر لی۔ اور پھر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا تذکرہ کیا۔ آپ ﷺ نے حکم دیا کہ ایک غلام آزاد کر دو عرض کیا: میں نہیں کر سکتا۔ فرمایا: تو پھر

دو مہینے متواتر روزے رکھو۔ عرض کیا: مجھ میں اتنی استطاعت نہیں۔ فرمایا: تو پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ عرض کیا میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں۔ آپ نے فرودہ بن عمرو کو حکم دیا کہ اسے یہ نوکرا دے دو۔ اس میں پندرہ یا سولہ صاع ہوتے ہیں جو ساٹھ آدمیوں کے لیے کافی ہوتے ہیں۔

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ رَقَبَةً قَالَ لَا أَجِدُهَا قَالَ فَصُمَّ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ قَالَ لَا أَسْتَطِيعُ قَالَ أَطْعِمُ سِتِّينَ مَسْكِينًا قَالَ لَا أَجِدُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَرَوَةَ بِنْتُ عَمْرٍو أَعْطِهِ ذَلِكَ الْعَرَقَ وَهُوَ مِكْتَلٌ يَا خُدَّ حُمَسَةَ عَشْرَ صَاعًا أَوْ سِتَّةَ عَشْرَ صَاعًا إِطْعَامَ سِتِّينَ مَسْكِينًا

یہ حدیث حسن ہے اور سلمان بن صحیحہ کو سلمہ بن صحیحہ بیاضی بھی کہا جاتا ہے۔ علماء کا ظہار کے کفارے کے متعلق اسی حدیث پر عمل ہے۔ اس باب میں خولہ بنت ثعلبہ (جو ادس بن صامت کی بیوی ہیں) سے بھی روایت ہے۔

باب ۸۱۲۔ ایلاء کے متعلق۔

باب ۸۱۲۔ مَا جَاءَ فِي الْإِيْلَاءِ

۱۰۷۱۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی بیویوں سے ایلاء کیا اور انہیں اپنے اوپر حرام کر لیا۔ پھر آپ ﷺ نے قسم کا کفارہ ادا کیا اور جس چیز کو حرام کیا تھا۔ اسے حلال کیا۔

۱۰۷۱۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ الْبَصْرِيُّ ثنا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ ثنا دَاوُدُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلَالًا وَلَا وَجَعَلَ فِي الْيَمِينِ كَفَّارَةً

اس باب میں ابوموسیٰ اور انسؓ سے بھی روایت ہے۔ سلمہ بن عقیل کی داؤد سے منقول حدیث علی بن مسہود وغیرہ داؤد سے اور وہ شعبی سے مرسل نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ایلاء کیا..... الخ اس میں مسروق کے عائشہؓ سے نقل کرنے کا ذکر نہیں اور یہ حدیث مسلمہ کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔ ایلاء کی تعریف یہ ہے کہ کوئی شخص قسم کھائے کہ وہ چار مہینے یا اس سے زیادہ تک اپنی بیوی کے قریب بھی نہیں جائے گا پھر چار مہینے گزر جانے کے بعد علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء صحابہ وغیرہ کہتے ہیں کہ چار ماہ گزر جانے پر اسے قاضی کے سامنے پیش کیا جائے۔ یا تو وہ قسم توڑے اور یا پھر طلاق دے۔ مالک شافعی احمد اور اطلق کا بھی یہی قول ہے جب کہ بعض علماء کے نزدیک چار ماہ گزر جانے پر ایک طلاق بائن خود بخود واقع ہو جاتی ہے۔ ثوری اور اہل کوفہ اسی کے قائل ہیں۔

توضیح: ایلاء کے لغوی معنی قسم کے ہیں لیکن اصطلاح میں بیوی سے چار ماہ یا اس سے زیادہ تک مباشرت نہ کرنے کی قسم کھالینے کو ایلاء کہتے ہیں۔ اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کی ذات یا صفات کی قسم کھا کر کہے کہ میں اس سے قربت و مباشرت نہیں کروں گا۔ دوسری صورت یہ ہے اسے کسی شرط کے ساتھ متعلق کر دے مثلاً یہ کہے کہ اگر میں نے صحبت کی تو مجھ پر حج واجب ہے اس صورت میں اگر وہ چار ماہ کے اندر صحبت کرے گا تو اس پر حج واجب ہو جائے گا۔ باقی چیزیں اسی پر قیاس کر لی جائیں۔

ایلاء موقت بھی ہوتی ہے اور موبد بھی۔ موقت یہ ہے کہ وہ قسم کھا کر یا بغیر قسم کھائے یہ کہے کہ میں چار مہینے یا اس سے زیادہ تک اپنی بیوی سے صحبت نہیں کروں گا۔ یعنی اس میں وقت متعین کر دے۔ لیکن ایلاء موبد یہ ہے کہ قسم کھا کر یا بغیر قسم کھائے یہ کہے کہ میں کبھی تجھ سے صحبت نہیں کروں گا ان دونوں صورتوں میں ایلاء ہو جائے گا۔ چنانچہ اگر چار ماہ کے اندر صحبت کرے گا تو ایلاء ٹوٹ جائے گا

اور اس قسم کا کفارہ واجب ہو جائے گا۔ لیکن اگر چار ماہ تک صحبت نہیں کی تو ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ پھر وہ دونوں نکاح کرنے کے بعد میاں بیوی کا رشتہ دوبارہ قائم کر سکتے ہیں۔ لہذا موقت اور موبد دونوں کا حکم یہی ہے کہ چار ماہ کے اندر اندر صحبت کر لینی چاہئے اور کفارہ ادا کرنا چاہئے ورنہ طلاق بائن ہو جائے گی ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ موقت میں اگر طلاق واقع ہونے کے بعد انہوں نے دوبارہ نکاح کر لیا تو اس کے بعد اگر وہ چار چھ ماہ یا دو سال تک بھی صحبت نہ کرے تو دوبارہ طلاق واقع نہیں ہوگی لیکن موبد میں اگر دوبارہ نکاح کے بعد چار ماہ تک صحبت نہیں کرے گا تو دوسری طلاق واقع ہو جائے گی اور اسی طرح تیسری جس کے بعد وہ اس پر حرام ہو جائے گی۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۸۱۳۔ مَا جَاءَ فِي اللَّعَانِ

باب ۸۱۳۔ لعان کے متعلق

۱۰۷۲۔ حضرت سعید بن جبیرؓ کہتے ہیں کہ مصعب بن زبیر کی امارت کے زمانے میں مجھ سے لعان کرنے والے میاں بیوی کے متعلق پوچھا گیا کہ کیا ان دونوں کے درمیان تفریق کر دی جائے گی۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کہوں چنانچہ میں انھا اور عبداللہ بن عمرؓ کے گھر کی طرف چل دیا۔ وہاں پہنچ کر اجازت مانگی تو مجھ سے کہا گیا کہ وہ قبول کر رہے ہیں انہوں نے میری آواز سن کر فرمایا ابن جبیر ہو؟ اندر آ جاؤ تم بغیر کسی کام کے نہیں آئے ہو گے۔ کہتے ہیں میں داخل ہوا تو وہ اونٹ پر ڈالنے والی چادر بچھا کر آرام کر رہے تھے میں نے کہا: اے ابو عبدالرحمن کیا لعان کرنے والوں کے درمیان تفریق کر دی جاتی ہے؟ کہنے لگے سبحان اللہ! ہاں ان میں جدائی کر دی جاتی ہے۔ سب سے پہلے جس شخص نے یہ مسئلہ پوچھا وہ فلاں بن فلاں تھے انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اگر ہم میں سے کوئی اپنی بیوی کو زنا کرتے دیکھے تو کیا کرے؟ اگر وہ کچھ کہے تو بھی یہ بہت بڑی بات ہے اور اگر خاموش رہے تو بھی ایسے معاملے میں خاموش رہنا بہت مشکل ہے۔ عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا: آنحضرت ﷺ اس وقت خاموش رہے، اور اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑے عرصے بعد وہی شخص دوبارہ حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! جس چیز کے متعلق میں نے آپ سے پوچھا تھا اسی میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کی یہ آیات نازل فرمائیں۔ ”وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ الخ“ پھر اس شخص کو بلا کر اس کے سامنے یہ آیات تلاوت فرمائیں اور اسے وعظ و نصیحت کی اور فرمایا: دنیا کی تکلیف آخرت کے عذاب کے مقابلے میں

۱۰۷۲۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ عَنِ الْمُتَلَاعِنِينَ فِي إِمَارَةِ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ فَقُمْتُ مَكَانِي إِلَى مَنْزِلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍَا سَأَدْتُ عَلَيْهِ فَقِيلَ لِي إِنَّهُ قَائِلٌ فَسَمِعَ كَلَامِي فَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ ادْخُلْ مَا جَاءَ بِكَ إِلَّا حَاجَةً قَالَ فَدَخَلْتُ فَإِذَا هُوَ مُفْتَرِشٌ بَرْدَعَةً رَحِلٌ لَهُ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُتَلَاعِنَانِ أَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ نَعَمْ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَلَانَ بْنُ فُلَانَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَحَدًا نَارَأَى امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ إِنْ تَكَلَّمَ بِأَمْرِ عَظِيمٍ وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى أَمْرِ عَظِيمٍ قَالَ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدْ ابْتُلِيَتْ بِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْآيَاتِ النَّبِيَّ فِي سُورَةِ النُّورِ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ حَتَّى حَتَمَ الْآيَةَ فَدَعَى الرَّجُلَ فِتْلَاهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعظَهُ وَذَكَرَهُ وَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَى مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ فَقَالَ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا ثُمَّ بَنِي بِالْمَرْأَةِ وَ

فَوَعَّظَهَا وَذَكَرَهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَىٰ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ فَقَالَ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا صَدَقَ قَالَ قَبْدًا بِالرَّجُلِ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ثُمَّ نَتَىٰ بِالْمَرْأَةِ فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا

کچھ نہیں۔ اس نے عرض کیا: نہیں یا رسول اللہ! اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا میں نے اس پر تہمت نہیں لگائی پھر آنحضرت ﷺ نے وہی آیتیں عورت کے سامنے پڑھیں اور اسے بھی اسی طرح سمجھایا کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت آسان ہے اس نے کہا: نہیں یا رسول اللہ! اس ذات کی قسم جس نے آپ ﷺ کو حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا یہ سچا نہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر آنحضرت ﷺ نے مرد سے ابتدا کی اور اس نے چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دی کہ وہ سچا ہے اور پانچویں مرتبہ کہا کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت۔ پھر عورت نے چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دی کہ وہ جھوٹا ہے اور پانچویں مرتبہ کہا کہ اگر وہ سچا ہے تو اس عورت پر اللہ کا غضب ہو۔ پھر آپ ﷺ نے دونوں کے درمیان تفریق کا حکم دیا۔

اس باب میں سعد، ابن عباس، حذیفہ اور ابن مسعود سے بھی روایت ہے حضرت عمرؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور علماء کا اسی پر عمل ہے۔

۱۰۷۳۔ حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي عُمَرَ قَالَ لَا عَنْ رَجُلٍ أَمْرَأَتَهُ وَفَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَالْحَقُّ الْوَلَدُ بِالْأُمِّ

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور علماء کا اسی پر عمل ہے۔

توضیح: لعان: (۱) اگر کسی شخص کو اپنی بیوی کے بارے میں زنا کا یقین ہو یا اولاد کے متعلق یہ شبہ ہو کہ وہ اس کی نہیں ہے لیکن اس کے پاس گواہ بھی نہیں ہیں اور عورت بھی زنا سے انکار کرتے ہوئے قاضی کے سامنے دعویٰ کر دیتی ہے کہ اس کا شوہر اس پر تہمت لگا رہا ہے تو قاضی ان دونوں سے چار چار مرتبہ قسم لے گا اور پانچویں مرتبہ لعنت کرائے گا پھر ان دونوں میں تفریق کر دی جائے گی۔ اس قسم لینے اور لعنت کرانے کو لعان کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ اوپر مذکور ہے جب کہ اس کی شرط مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) دونوں عاقل اور بالغ ہوں۔ (۲) عورت زنا سے انکار کرتی ہو۔ (۳) تہمت لگانے والا اس کا شوہر ہو اور وہ اس سے پہلے تہمت لگانے پر سزا نہ پا چکا ہو۔ (۴) شوہر کے پاس گواہ نہ ہوں۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۸۱۴۔ مَا جَاءَ آيِنَ تَعْتَدُ الْمُتَوَفَّىٰ عَنْهَا زَوْجُهَا

باب ۸۱۳۔ جب عورت کا شوہر فوت ہو جائے، وہ عدت کہاں گزارے؟

۱۰۷۴۔ حَدَّثَنَا الْإِنصَارِيُّ ثَنَا مَعْنُ ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبِ

۱۰۷۳۔ حضرت سعد بن اسحاق بن کعب بن عجرہ اپنی پھوپھی زینب بنت کعب بن عجرہ سے نقل کرتے ہیں کہ ابو سعید خدریؓ کی بہن فریوہ

(۱) اس مسئلے میں سورہ نوری آیت ۹۵۶ تا ۹۵۷ نازل ہوئیں۔ (مترجم)

بنت مالک بن سنان نے انہیں بتایا کہ میں نے حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! میرے خاندان اپنے غلاموں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے جب وہ قدوم (ایک مقام) پہنچے تو وہ انہیں مل گئے لیکن انہوں نے میرے خاندان کو قتل کر دیا۔ کیا میں اپنے اقرباء کے پاس بخود رہ چلی جاؤں؟ کیونکہ میرے خاندان نے میرے لیے نہ مکان چھوڑا ہے اور نہ ہی نان نفقہ وغیرہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہاں چلی جاؤ۔ کہتی ہیں میں لوٹی تو ابھی حجرے یا مسجد میں ہی تھی کہ آپ ﷺ نے مجھے بلایا کسی کو حکم دیا کہ مجھے بلائے اور فرمایا: تم نے کیا کہا تھا؟ میں نے اپنے شوہر کا پورا قصہ دوبارہ بیان کر دیا۔ آپ ﷺ نے حکم دیا کہ عدت پوری ہونے تک اپنے گھر میں ہی رہو۔ کہتی ہیں پھر میں نے وہاں چار مہینے دس دن عدت گزار لی۔ پھر جب عثمانؓ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے مجھ سے اس مسئلے کے متعلق پچھوایا۔ پھر اسی پر عمل کرنے اور فتویٰ دینے کا حکم دیا کہ عورت جس گھر میں ہو اسی میں اپنی عدت پوری کرے۔

بِنْتُ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ أَنَّ الْفَرِيعَةَ بِنْتُ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ وَإِنْ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ عَبْدِ لَهُ ابْتِغَاءً حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرْفِ الْقُدُومِ لِحَقْفِهِمْ فَفَتَلُوهُ فَقَالَتْ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي فَإِنْ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْ لِي مَسْكَنًا يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةً قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ قَالَتْ فَانصرفتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ نَادَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَمْرِي فَنُودِيَتْ لَهُ فَقَالَ كَيْفَ قُلْتِ قَالَتْ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ لَهُ مِنْ شَانِ زَوْجِي قَالَ أَمْكِنِي فِي بَيْتِكَ حَتَّى يَلْغُ الْكِتَابُ أَجَلَهُ قَالَتْ فَاعْتَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ عَشْرًا قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ

محمد بن بشار، یحییٰ بن سعید سے اور وہ بھی سعد بن اسحاق بن کعب بن عجرہ سے اسی کے ہم معنی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر اکثر علماء صحابہ وغیرہ کا عمل ہے کہ جس کا شوہر فوت ہو جائے وہ اسی گھر میں عدت پوری کرے اور اپنے شوہر کے گھر سے منتقل نہ ہو۔ سفیان ثوری، شافعی، احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں جب کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر اپنے شوہر کے گھر میں عدت نہ گزارے تو کوئی مضائقہ نہیں وہ جہاں چاہے وہاں عدت گزار سکتی ہے۔

مسئلہ: امام اعظمؒ کے نزدیک جس گھر میں عورت کو اس کے شوہر کی وفات کی خبر پہنچی ہو اسی میں عدت گزارنا واجب ہے اور وہاں سے بغیر کسی عذر کے نکلنا جائز نہیں مثلاً وارث اسے نکال دیں یا وہ گھر ہی توڑ دیا جائے وغیرہ وغیرہ اللہ اعلم۔ (مترجم)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

آنحضرت ﷺ سے خرید و فروخت کے متعلق

أَبْوَابُ الْبُيُوعِ

منقول احادیث کے ابواب

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب ۸۱۵۔ شہادت کو ترک کرنے سے متعلق

باب ۸۱۵۔ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الشُّبُهَاتِ

۱۰۷۵۔ حضرت نعمان بن بشیرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ

۱۰۷۵۔ حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ ثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَجَالِدِ

عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَدْرِي كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ أَمِنَ الْحَلَالِ هِيَ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرَضَهُ فَقَدْ سَلِمَ وَمَنْ وَاقَعَ شَيْئًا مِنْهَا يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ الْحَرَامَ كَمَا إِنَّهُ مَنْ يَرُوعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَىً أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مُحَارِمَةٌ

ﷺ سے سنا کہ حلال اور حرام اور دونوں میں نے واضح کر لئے ہیں۔ لیکن ان دونوں کے درمیان بہت سی ایسی چیزیں ہیں۔ جن کے متعلق بہت سے لوگ شبہ میں مبتلا ہیں کہ یہ حرام ہیں یا حلال۔ جس نے انہیں اپنے دین کے لیے عیب جوئی اور طعن و تشنیع سے محفوظ رہنے کے لیے ترک کر دیا اس نے سلامتی کی راہ اختیار کی اور جوان چیزوں میں مبتلاء ہو گیا۔ وہ حرام کام میں پڑنے کے قریب ہے۔ جیسے کوئی چرداہا اپنے جانوروں کو سرحد کے قریب چراتا ہے تو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حدود پار کر جائے۔ جان لو کہ ہر بادشاہ کی حدود ہوتی ہیں اور اللہ کی حدود اس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں۔

ہناد، کعب سے وہ زکریا بن ابی زائدہ سے وہ شعبی سے وہ نعمان بن بشیر سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے ہم معنی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے کئی راوی یہ حدیث شعبی کے واسطے سے نعمان بن بشیر سے بھی روایت کرتے ہیں۔

باب ۸۱۶۔ سود کھانے سے متعلق

۱۰۷۶۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے سود کھانے والے، کھلانے والے، اس کے گواہوں اور کاتب سب پر لعنت بھیجی ہے۔

باب ۸۱۶۔ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الرِّبْوِ

۱۰۷۶۔ حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبْوِ وَأُمُوكَلَّهُ وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبِيهِ

اس باب میں حضرت عمرؓ اور جاہل سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۸۱۷۔ جھوٹ اور جھوٹی گواہی دینے پر وعید۔

باب ۸۱۷۔ مَا جَاءَ فِي التَّغْلِيظِ فِي الْكُذْبِ وَالزُّورِ وَنَحْوِهِ

۱۰۷۷۔ حضرت انسؓ کبیرہ گناہوں کے متعلق بیان کرتے ہوئے رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، والدین کو ناراض کرنا، قتل کرنا اور جھوٹ بولنا کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔

۱۰۷۷۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنَعَانِيُّ ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكِبَائِرِ قَالَ الشِّرْكَ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَقَوْلُ الزُّورِ

اس باب میں ابوبکرؓ، امین بن حزمؓ اور ابن عمرؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۸۱۸۔ تاجروں کے متعلق اور آنحضرت ﷺ نے انہیں کیا تسمیہ دیا

باب ۸۱۸۔ مَا جَاءَ فِي التُّجَّارِ وَتَسْمِيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبَاهُمْ

۱۰۷۸۔ حضرت قیس بن ابی غزہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہماری

۱۰۷۸۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ ثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ

طرف نکلے۔ لوگ ہمیں ساسرہ کہا کرتے تھے۔ (۱) آپ نے فرمایا: اے تاجروں کی جماعت: خرید و فروخت میں شیطان اور گناہ دونوں موجود ہوتے ہیں لہذا تم لوگ اپنی خرید و فروخت کو صدقے کے ساتھ ملادیا کرو (تا کہ کفارہ ہو جائے)۔

عاصم ابی وائل عن قیس بن ابی غرزہ قال خراج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمى السماسرة فقال يا معشر التجار ان الشيطان والائتم يحضران البيع فشوبوا ببيعكم بالصدقة

اس باب میں براء بن عازب اور رفاعہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ قیس بن ابی غرزہ کی حدیث حسن صحیح ہے اسے منصور، اعمش، حبیب بن ثابت اور کئی راوی بھی ابواکل سے اور وہ قیس بن ابی غرزہ سے نقل کرتے ہیں۔ ان کی کوئی اور حدیث ہمارے نزدیک معروف نہیں۔ ہناد بھی ابومعاویہ سے وہ اعمش سے وہ شقیق بن سلمہ سے وہ قیس بن ابی غرزہ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے ہم معنی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث بھی حسن صحیح ہے۔

۱۰۷۹۔ حضرت ابوسعیدؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔

۱۰۷۹۔ حدثنا هناد ثنا قبيسة ثنا سفیان عن ابی حمزة عن الحسن عن ابی سعید عن ابی سفيان قال التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصدیقین والشهداء

سوید، ابن مبارک سے وہ سفیان سے اور وہ ابوہزیمہ سے اسی سند سے اسی کے مثل نقل کرتے ہیں۔ ہم اس حدیث کو صرف اسی سند سے پہچانتے ہیں۔ (یعنی ثوری کی ابوہزیمہ سے روایت سے) ابوہزیمہ کا نام عبداللہ بن جابر ہے یہ بصری شیخ ہیں۔

۱۰۸۰۔ اسماعیل بن عبید اللہ بن رفاعہ اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ وہ آنحضرت ﷺ کے ساتھ عید گاہ کی طرف نکلے تو دیکھا کہ لوگ خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اے تاجرو! وہ سب آنحضرت ﷺ کی نظر متوجہ ہو گئے اپنی گردنیں اٹھالیں اور آپ ﷺ کی طرف دیکھنے لگے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن تاجر گنہگار اٹھائے جائیں گے۔ ہاں البتہ اگر کوئی اللہ سے ڈرے نیکی کرے اور سچ بولے (تو وہ اس حکم میں داخل نہیں)

۱۰۸۰۔ حدثنا يحيى بن خلف ثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن اسمعيل بن عبيد بن رفاعة عن ابيه عن جده انه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم الى المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال يا معشر التجار فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا اعناقهم وابصارهم اليه فقال ان التجار يبعثون يوم القيامة فجارا الا من اتق الله وبره وصدق

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ راوی کو اسماعیل بن عبید اللہ بن رفاعہ بھی کہا جاتا ہے۔

باب ۸۱۹۔ جو شخص اپنی بیچنے کی چیز پر جھوٹی قسم کھائے۔
۱۰۸۱۔ حضرت ابوذرؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: تین شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف نہ رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے اور نہ ہی انہیں پاک کریں گے۔ اور ان کے لیے دردناک

باب ۸۱۹۔ ماجاء في من حلف على سلعته كاذبا
۱۰۸۱۔ حدثنا محمود بن غيلان ثنا ابو داود انبانا
شعبة قال اخبرني علي بن مدرک قال سمعت
ابازرنة ابن عمرو بن بن الحسرة عن ابی ذر عن
(۱) ساسرہ: سمسار کی جمع ہے اس کے معنی دلال کے ہیں۔ (مترجم)

عذاب ہے۔ میں نے عرض کیا وہ کون ہیں یا رسول اللہ! وہ تو برباد ہو گئے اور خسارے میں رہ گئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ایک احسان جتنا ہے والا۔ دوسرا تکبر کی وجہ سے شلوار وغیرہ ٹخنوں سے نیچی رکھنے والا اور تیسرا جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا۔

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قُلْتُ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَدْ حَابُوا وَخَسِرُوا قَالَ الْمَنَانُ وَالْمُسْبِلُ لِزَارَةِ وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ

اس باب میں ابن مسعود، ابو ہریرہ، ابوامامہ بن ثعلبہ، عمران بن حصین اور معقل بن یسار سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۸۲۰۔ مَا جَاءَ فِي التَّبَكِيرِ بِالتَّجَارَةِ

باب ۸۲۰۔ تجارت کے لیے صبح جلدی نکلتا

۱۰۸۲۔ حضرت صحیح غامدی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے دعا کی کہ اے اللہ! میری امت میں سے صبح جلدی جانے والوں کو برکت عطا فرما۔ چنانچہ آپ ﷺ جب کبھی کوئی لشکر روانہ کرتے تو شروع دن میں صبح بھیجتے۔ راوی کہتے ہیں کہ صحیح بھی تاجر تھے وہ بھی جب تاجروں کو بھیجتے تو صبح بھیجا کرتے تھے لہذا وہ امیر ہو گئے اور ان کے پاس مال کی کثرت ہو گئی۔

۱۰۸۲۔ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورِيُّ ثنا هِشِيمُ ثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ عِمَارَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَخْرٍ الْغَامِدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَارِكْ فِي أُمَّتِي فِي بُكُورِهَا قَالَ وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ حَيْشًا بَعَثَهُمْ أَوَّلَ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرًا رَجُلًا تَاجِرًا وَكَانَ إِذَا بَعَثَ تِجَارَةً بَعَثَهُمْ أَوَّلَ النَّهَارِ فَأَثَرِي وَكَثُرَ مَالُهُ

اس باب میں حضرت علی، بریدہ، ابن مسعود، انس، ابن عمر، ابن عباس اور جابر بھی حدیثیں نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے ہمیں علم نہیں کہ ان کی اس حدیث کے علاوہ کوئی اور حدیث بھی منقول ہو۔ یہ حدیث سفیان ثوری بھی شعبہ سے اور وہ یعلیٰ بن عطاء سے نقل کرتے ہیں۔

باب ۸۲۱۔ مَا جَاءَ فِي الرَّحْصَةِ فِي الشِّرَاءِ إِلَى أَجَلٍ

باب ۸۲۱۔ کسی چیز کی قیمت معینہ مدت تک ادھا کرنا جائز ہے۔

۱۰۸۳۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے جسم مبارک پر قطر کے بنے ہوئے دو غلیظ کپڑے تھے چنانچہ جب آپ ﷺ بیٹھتے اور پسینہ آتا تو یہ آپ ﷺ کی طبیعت پر گراں گزرتے اسی اثناء میں شام سے فلاں یہودی کا کپڑا آیا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ ﷺ کسی کو بھیجیں کہ وہ آپ کے لیے اس سے دو کپڑے خرید لائے۔ جب ہمیں سہولت ہوگی ہم ان کی قیمت ادا کر دیں گے۔ آپ ﷺ نے ایک شخص کو بھیجا تو اس نے جواب دیا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ ﷺ چاہتے ہیں کہ میرا کپڑا اور پیسے دونوں چیزوں پر قبضہ کر لیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ جھوٹا ہے کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ میں ان سب سے زیادہ پرہیزگار بھی ہوں اور امانت دار بھی۔

۱۰۸۳۔ حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثَنَا عِمَارَةُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ ثَنَا عِكْرِمَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ عَلِيٌّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُوبَيْنِ فِطْرَيْنِ غَلِيظَيْنِ فَكَانَ إِذَا قَعَدَ فَعَرِقَ ثِقْلًا عَلَيْهِ فَقَدِمَ بَرٌّ مِنَ الشَّامِ لِفُلَانِ الْيَهُودِيِّ فَقُلْتُ لَوْ بَعَثْتُ إِلَيْهِ فَأَشْتَرَيْتُ مِنْهُ نُوبَيْنِ إِلَى الْمَيْسِرَةِ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ مَا يُرِيدُ إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِمَالِي أَوْ بِدَرَاهِمِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَبَ قَدْ عَلِمَ أَنِّي مِنْ أَتْقَاهُمْ وَأَذَاهُمْ لِلْأَمَانَةِ

اس باب میں حضرت ابن عباسؓ، انس اور اسماء بنت یزید بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ شعبہ بھی یہ حدیث عمارہ بن ابی حفصہ سے نقل کرتے ہیں۔ محمد بن فراس بصری، ابوداؤد طیالسی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ شعبہ سے کسی نے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو کہنے لگے میں یہ حدیث اس وقت بیان نہیں کروں گا جب تک تم کھڑے ہو کر حرمی کے سر کا بوسہ نہیں لو گے اور وہ اس وقت وہاں موجود تھے۔ (اس سے مراد حرمی کی تعظیم ہے کیونکہ شعبہ نے یہ حدیث انہی سے سنی ہے)۔

۱۰۸۴۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ جب فوت ہوئے تو آپ ﷺ کی زرہ میں صاع غلے کے عوض گروی رکھی ہوئی تھی جو آپ ﷺ نے اپنے گھر والوں کے لیے قرض لیا تھا۔

۱۰۸۴۔ حدثنا محمد بن بشار ابن ابی عدی و عثمان بن ابی عمر عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس قال توفى النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة بعشرين صاعاً من طعام أخذة لأهله

یہ حدیث صحیح ہے۔

۱۰۸۵۔ حضرت ابوقتادہؓ، حضرت انسؓ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں جو ایک یہودی کے پاس میں صاع غلے کے عوض گروی رکھی ہوئی تھی جو آپ ﷺ نے اپنے گھر والوں کے لیے لیا تھا۔ حضرت انسؓ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ شام تک آل محمد (ﷺ) کے پاس غلے یا کھجور میں سے ایک صاع بھی باقی نہ رہا۔ جب کہ آپ ﷺ کے پاس اس وقت نوبویاں تھیں۔

۱۰۸۵۔ حدثنا محمد بن بشار ثنا ابن ابی عدی نا هشام الدستوائی عن قتادة عن انس ح قال محمد واخبرنا معاذ بن هشام قال نبي أبي عن أبي قتادة عن انس قال مشيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير واهالة سنخية ولقد رهن له درع مع يهودي بعشرين صاعاً من طعام أخذة لأهله ولقد سمعته ذات يوم يقول ما أمسى عند آل محمد صاع تمر ولا صاع حب وإن عنده يومئذ لتسع نسوة

یہ حدیث صحیح ہے۔

باب ۸۲۲۔ شروط بیع کی کتابت۔

باب ۸۲۲۔ ماجاء فی کتابة الشرط

۱۰۸۶۔ محمد بن بشار، عباد بن لیث (کپڑے بیچنے والے) سے اور وہ عبدالمجید بن وہب سے نقل کرتے ہیں کہ عذاء بن خالد بن ہوذہ نے ان سے کہا کیا میں تمہیں ایسی تحریر نہ پڑھاؤں جو آنحضرت ﷺ نے میرے لیے تحریر کرائی تھی۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں! اس پر انہوں نے ایک تحریر نکالی اس میں لکھا تھا۔ یہ اقرار نامہ ہے کہ عذاء بن خالد بن ہوذہ نے محمد رسول اللہ ﷺ سے خریداری کی چنانچہ انہوں نے آنحضرت ﷺ سے غلام یا باندی (یعنی راوی کو شک ہے کہ غلام تھا یا باندی) اس

۱۰۸۶۔ حدثنا محمد بن بشار ثنا عباد بن ليث صاحب القرايش ثنا عبد المجيد بن وهب قال قال لي العذاء بن خالد بن هوذة ألا أقرئك كتاباً كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت بلى فأخرج كتاباً هذا ما اشتري العذاء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتري منه عبداً أو أمة لا ذاء ولا عائلة ولا خبثة بيع

المُسْلِمِ الْمُسْلِمِ

شرط پر خریدی ہے کہ اس میں کوئی بیماری نہ ہو اور نہ ہی وہ چوری کی یا حرام کی ہو۔ یہ مسلمان کی مسلمان سے بیع ہے۔

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف عباد بن لیث کی حدیث سے جانتے ہیں ان سے یہ حدیث کی محدثین نقل کرتے ہیں۔

باب ۸۲۳۔ ناپ تول کے متعلق۔

باب ۸۲۳۔ مَا جَاءَ فِي الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ

۱۰۸۷۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ناپ تول کرنے والوں سے فرمایا: تمہیں ایسے دو کاموں کی ولایت ملی ہے کہ جس میں کمی بیشی کی وجہ سے سابقہ امتیں ہلاک ہو گئیں (اس میں قوم شعیبؓ کی طرف اشارہ ہے)۔

۱۰۸۷۔ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّلَقَانِيُّ ثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن حسين بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكيل والميزان إنكم قد وليتم أمرين هلكت فيهما الأمم السالفة قبلكم

اس حدیث کو ہم صرف حسین بن قیس کی روایت سے مرفوع جانتے ہیں۔ حسین بن قیس ضعیف ہیں۔ اور یہی حدیث حضرت ابن

عباسؓ سے موقوفاً بھی اسی سند سے منقول ہے۔

باب ۸۲۴۔ نیلام کے ذریعے خرید و فروخت کے متعلق۔

باب ۸۲۴۔ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ مَنْ يَزِيدُ

۱۰۸۸۔ حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ایک چادر اور ایک پیالہ بیچنے کا ارادہ کیا تو فرمایا: یہ چادر اور پیالہ کون خریدے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا۔ میں انہیں ایک درہم میں خریدتا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ایک درہم سے زیادہ کون دے گا۔ (دوسرے فرمایا) تو ایک شخص نے دو درہم دے دیئے اس طرح آپ ﷺ نے یہ دونوں چیزیں اسے دو درہم کے عوض دے دیں۔

۱۰۸۸۔ حَدَّثَنَا حميد بن مسعدة ثنا عبيد الله بن شميظ بن عجلان ثنا الاخضر بن عجلان عن عبد الله الحنفى عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم باع جلسا وقدحا وقال من يشتري هذا المجلس والقدح فقال رجل اخذتهما بدرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد على درهم من يزيد على درهم فاعطاه رجل درهمين فباعهما منه

یہ حدیث حسن ہے۔ ہم اسے صرف اخضر بن عجلان کی روایت سے جانتے ہیں۔ عبد اللہ حنفی جو یہ حدیث انسؓ سے نقل کرتے ہیں وہ ابو بکر حنفی ہیں۔ علماء اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ غنیمت اور وراثت کے مال کو نیلام کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ یہ حدیث معتمر بن سلیمان اور کئی راوی بھی اخضر بن عجلان سے نقل کرتے ہیں۔

باب ۸۲۵۔ مدبر کی بیع سے متعلق۔

باب ۸۲۵۔ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْمُدْبِرِ

۱۰۸۹۔ حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری نے اپنے غلام سے کہا کہ تو میری موت کے بعد آزاد ہے (اسی کو مدبر کہتے ہیں) پھر وہ فوت ہو گیا اور اس غلام کے علاوہ تر کے میں کچھ نہیں چھوڑا۔ لہذا اسے آنحضرت ﷺ نے نعیم بن نحام کے ہاتھوں بیچ دیا۔ جابرؓ کہتے ہیں کہ وہ

۱۰۸۹۔ حَدَّثَنَا ابن ابی عمر ثنا سفیان بن عیینة عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلاً من الأنصار دبر غلاماً له فمات ولم يترك مالا غيره فباعه النبي صلى الله عليه وسلم فاشتراه نعيم بن نحام قال

جَابِرٌ عَبْدًا قَبِيضًا مَاتَ عَامَ الْاَوَّلِ فِي اِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَبْلِي تَهَاوِرَ ابْنُ زُبَيْرٍ فِي اِمَارَتِهِ كَيْفَ كَانَ فِي سَبْعَةِ اَسْفَلِ نَوْتِ هَوَا.

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور کئی سندوں سے حضرت جابرؓ ہی سے منقول ہے بعض علماء کا اسی پر عمل ہے کہ مدبر کے بیچنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ شافعی، احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں جب کہ سفیان ثوری، مالک، اوزاعی اور بعض علماء اسے بیچنے کی ممانعت کے قائل ہیں۔

باب ۸۲۶۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ تَلْقَى الْبَيْوعِ

باب ۸۲۶۔ بیچنے والوں کے استقبال کی ممانعت۔

۱۰۹۰۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ثَنَا سَلِيمَانَ التَّمِيمِيِّ عَنِ ابْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَلْقَى الْبَيْوعِ

۱۰۹۰۔ حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے غلہ بیچنے والے قافلوں سے شہر سے باہر خرید و فروخت کرنے سے منع فرمایا: جب تک وہ شہر کے اندر آ کر خود نہ بیچیں۔

اس باب میں حضرت علیؓ، ابن عباسؓ، ابو ہریرہؓ، ابو سعیدؓ، ابن عمرؓ اور ایک اور صحابی بھی حدیثیں نقل کرتے ہیں۔

۱۰۹۱۔ حَدَّثَنَا سَلْمَةُ بْنُ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ الرَّقِيِّ ثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو الرَّقِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُتْلَقَى الْحَلَبُ فَإِنْ تَلَقَّاهُ إِنْسَانٌ فَابْتِئَاعَهُ فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ فِيهَا بِالْخِيَارِ إِذَا وَرَدَ السُّوقَ

۱۰۹۱۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے کسی غلہ وغیرہ بیچنے والے قافلے سے شہر سے باہر جا کر ملنے سے منع فرمایا: اور اگر کوئی شخص ان سے کچھ خریدے تو شہر میں داخل ہونے کے بعد غلے والوں کو اختیار ہے۔

یہ حدیث ایوب کی روایت سے حسن غریب ہے۔ اور ابن مسعودؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض علماء قافلے والوں کے شہر میں داخل ہونے سے پہلے ان سے خرید و فروخت کرنے سے منع کرتے ہیں۔ شافعی اور ہمارے اصحاب کا بھی یہی قول ہے یہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ بھی دھوکے کی ایک قسم ہے۔

توضیح: اس ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ لوگ شہر سے باہر جا کر قافلے سے سستا مال خرید لیتے ہیں اور جب وہ بازار میں آتے ہیں تو پچھتاتے ہیں جب کہ وہی چیز وہ لوگ یہاں آ کر مہنگی فروخت کرتے ہیں اس سے شہر والوں پر بھی بوجھ پڑتا ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۸۲۷۔ مَا جَاءَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لَبَادٍ

باب ۸۲۷۔ کوئی شہر کارہنے والا گاؤں والے کی چیز فروخت نہ کرے۔

۱۰۹۲۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ وَاحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَا ثَنَا سَفِيَانُ بْنُ عِيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قَتِيْبَةُ يُبْلَغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لَبَادٍ

۱۰۹۲۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تمہارے کہتے ہیں کہ وہ بھی یہ حدیث جانتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوئی شہر میں رہنے والا گاؤں والے کی کوئی چیز نہ بیچے۔

اس باب میں حضرت طلحہؓ، انسؓ، جابرؓ، ابن عباسؓ اور حکیم بن ابی زیدؓ (اپنے والد سے)، کثیر بن عبد اللہ کے دادا عمر بن عوف مزنی اور ایک اور صحابی سے بھی احادیث منقول ہیں۔

توضیح: اس ممانعت کی وجہ (واللہ اعلم) یہ ہے کہ گاؤں سے لوگ غلہ وغیرہ شہر میں لا کر سستا بیچ جاتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی ان کا مال اپنے پاس رکھ لے اور آہستہ آہستہ بیچنے کی قیمت چڑھ جاتی ہے جس سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے۔ (مترجم)

۱۰۹۳۔ حدثنا نصر بن علی واحمد بن منيع قالوا ثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض

۱۰۹۳۔ حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوئی شہر والا گاؤں والے کے لیے نہ بیچے لوگوں کو چھوڑ دو تا کہ اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے ذریعے رزق دیتا ہے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے حضرت جابرؓ کی حدیث بھی حسن صحیح ہے۔ بعض علماء صحابہ وغیرہ کا اسی پر عمل ہے کہ شہری، دیہاتی کی چیزیں فروخت نہ کرے۔ جب کہ بعض علماء اس کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ دیہاتی سے مال خرید لے۔ شافعی کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے کہ کوئی شہری، دیہاتی کی اشیاء فروخت کرے لیکن اگر ایسا کیا تو بیع جائز ہے۔

باب ۸۲۸۔ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُرَابَنَةِ

باب ۸۲۸۔ محاقلہ اور مزانہ کی ممانعت۔

۱۰۹۴۔ حدثنا قتيبة ثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمرابنة

۱۰۹۴۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے محاقلہ اور مزانہ سے منع فرمایا۔ (۱)

اس باب میں ابن عمرؓ، ابن عباسؓ، زید بن ثابتؓ، سعدؓ، جابرؓ، رافع بن خدیجؓ اور ابو سعیدؓ سے بھی حدیثیں منقول ہیں اسی پر علماء کا عمل ہے کہ محاقلہ اور مزانہ حرام ہے۔

۱۰۹۵۔ حدثنا قتيبة ثنا مالك بن انس عن عبد الله بن يزيد ان زيدا ابا عياش سأل سعدا عن البيضا بالسلب فقال ايهما افضل قال البيضا فنهي عن ذلك وقال سعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسئل عن اشتراء التمر بالرطب فقال لمن حوله ان ينقص الرطب اذا بيس قالوا نعم فنهي عن ذلك

۱۰۹۵۔ حضرت عبد اللہ بن یزید کہتے ہیں کہ زید ابو عیاش نے سعد سے گےہوں کو جو کے عوض خریدنے کے متعلق پوچھا۔ سعد نے کہا ان دونوں میں سے افضل کون سی چیز ہے؟ زید نے کہا: گندم۔ چنانچہ انہوں نے منع کر دیا کہ یہ جائز نہیں۔ اور فرمایا: میں نے کسی کو رسول اللہ ﷺ سے سوال کرتے ہوئے سنا کہ کھجوروں کو کچی کھجوروں کے عوض خریدنے کا کیا حکم ہے؟ آپ ﷺ نے اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھا کہ جب کچی کھجوریں پکتی ہیں تو کیا وزن میں کم ہو جاتی ہیں؟ عرض کیا

گیا: جی ہاں چنانچہ آپ ﷺ نے منع فرمادیا۔ (۲)

ہنا، مالک سے وہ عبد اللہ بن یزید سے اور وہ زید ابو عیاش سے نقل کرتے ہیں کہ ہم نے سعد سے پوچھا..... الخ (اسی حدیث کی مانند) یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ شافعی اور ہمارے فقہاء کا بھی یہی قول ہے۔

باب ۸۲۹۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ التَّمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحَهَا

باب ۸۲۹۔ پھل پکنے شروع ہونے سے پہلے بیچنا صحیح نہیں۔

(۱) محاقلہ: کوئی شخص اگر کسی کھیت کو گےہوں کے عوض بیچے مثلاً کہے کہ پچاس من گےہوں لے لو اور اس کھیت کی پیداوار میرے ہاتھ بیچ دو۔ یہ دھوکے کا سودا ہے کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ اس میں سے کتنا غلہ نکلے گا۔ (مترجم)

(۲) درخت پر لگی ہوئی کھجوروں کی درخت سے اتری ہوئی کھجوروں سے بیع کو مزانہ کہتے ہیں یہ بھی جائز نہیں علت ثبوتی ہے جو اوپر مذکور ہے۔ (مترجم)

۱۰۹۶۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے کھجوروں کو خوں رنگ ہونے سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا: اسی سند سے یہ بھی منقول ہے۔ کہ آپ ﷺ نے گیہوں کو سفید ہونے اور آفت وغیرہ سے محفوظ ہو۔ سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا: خریدنے والے کو بھی اور بیچنے والے کو بھی۔

۱۰۹۶۔ حدثنا احمد بن منيع ثنا اسمعيل بن ابراهيم عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النحل حتى يزهو وبهذا الإسناد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويا من العاهة نهى البائع والمشتري

اس باب میں حضرت انسؓ، عائشہؓ، ابو ہریرہؓ، ابن عباسؓ، جابرؓ، ابوسعید اور زید بن ثابتؓ سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث حسن ہے علماء صحابہ وغیرہ کا اسی پر عمل ہے کہ پھلوں کو پکنے سے پہلے بیچنا منع ہے۔ شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

۱۰۹۷۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے انگور کے ہونے اور تمام دانوں یا غلوں کے سخت ہونے سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا:

۱۰۹۷۔ حدثنا حسن بن علي الخلال ثنا ابو الوليد وعفان وسليمان بن حرب قالوا ثنا حماد بن سلمة عن حميد عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود و من بيع الحب حتى يشتد

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور صرف حماد بن سلمہ ہی کی روایت سے موقوف ہے۔

باب ۸۳۰۔ اونٹنی کے حمل کے بچے کو بیچنے کی ممانعت۔

باب ۸۳۰۔ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ

۱۰۹۸۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اونٹنی کے حمل کے بچے کو بیچنے سے منع کیا۔

۱۰۹۸۔ حدثنا قتيبة ثنا حماد بن زيد عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبله

اس باب میں عبد اللہ بن عباسؓ اور ابوسعید خدریؓ سے بھی حدیثیں منقول ہیں۔ حضرت ابن عمرؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر اہل علم کا عمل ہے اور حبل الحبلہ سے مراد اونٹنی کے بچے کا بچہ ہے۔ اس کا بیچنا اہل علم کے نزدیک باطل ہے۔ اس لئے کہ وہ دھوکے کی بیوع میں سے ہے۔ شعبہ یہ حدیث ایوب سے وہ سعید بن جبیر سے اور وہ ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں۔ عبد الوہاب ثقفی وغیرہ بھی یہ حدیث ایوب سے وہ سعید بن جبیر سے، وہ نافع سے، وہ ابن عمر سے اور وہ نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں اور یہ زیادہ صحیح ہے۔

باب ۸۳۱۔ دھوکے کی بیع حرام ہے۔

باب ۸۳۱۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْغَرَرِ

۱۰۹۹۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے دھوکے اور کنکریاں مارنے کی بیع سے منع فرمایا۔

۱۰۹۹۔ حدثنا ابو كريب ثنا ابو اسامة عن عبيد الله ابن عمر عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع الحصاة

اس باب میں حضرت ابن عمرؓ، ابن عباسؓ، ابوسعیدؓ اور انسؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور علماء کا اسی پر عمل ہے کہ دھوکے والی بیع حرام ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ بیع غرر (دھوکے والی) میں یہ چیزیں داخل ہیں۔ مچھلی کا پانی میں ہوتے ہوئے فروخت کرنا، مفروز غلام کا بیچنا اور پرندے کا اڑتے ہوئے فروخت کرنا اور اسی طرح کی دوسری بیوع بھی اسی ضمن میں آتی ہیں کنکری مارنے کی بیع یعنی بیع المصاة کے معنی یہ ہیں کہ بیچنے والا خریدنے والے سے یہ کہے کہ جب میں تیری طرف کنکری پھینکوں تو میرے اور تیرے درمیان بیع واجب ہوگی۔ یہ بیع منابذہ ہی سے مشابہ ہے یہ سب زمانہ جاہلیت کی بیوع ہیں۔

باب ۸۳۲۔ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

۱۱۰۰۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ ثَنَا عَبْدِ بَنِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ

بن عمرو عن أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

۱۱۰۰۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک بیع میں دو بیع کرنے کی ممانعت۔

بن عمرو عن أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

دو بیع کرنے سے منع فرمایا۔

اس باب میں عبد اللہ بن عمرؓ، ابن مسعود اور ابن عمرؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اور اسی پر علماء کا عمل ہے بعض علماء اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ کوئی شخص دوسرے سے کہے کہ میں تمہیں یہ کپڑا نقد دس روپے میں اور ادھار میں روپے میں فروخت کرتا ہوں بشرطیکہ وہ دونوں میں سے کسی چیز پر متفق ہونے سے پہلے جدا ہو جائیں۔ چنانچہ اگر نقد یا ادھار کسی ایک چیز پر متفق ہو گئے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ ایک بیع میں دو بیع کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کسی سے کہے کہ میں تمہیں اپنا گھرا تہی قیمت میں بیچتا ہوں بشرطیکہ تم اپنا غلام مجھے اتنی قیمت میں بیجو۔ لہذا جب تمہارا غلام میری ملکیت میں آ گیا تو میرا گھر تمہاری ملکیت میں آ گیا۔ یہ بیع اس لیے ناجائز ہے کہ اس بیع میں قیمتیں تعین کیے بغیر واقع ہوئی ہیں اور وہ دونوں نہیں جانتے کہ اس کی بیع کس پر واقع ہوئی۔

باب ۸۳۳۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ مَالَيْسٍ عِنْدَكَ

۱۱۰۱۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ ثَنَا هَشِيْمٌ عَنْ أَبِي بَشْرٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَالِكٍ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حَزَامٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي مِنَ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي أَبْتَا ع لَهْ مِنْ السُّوقِ ثُمَّ أْبَيْعُهُ قَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

۱۱۰۱۔ حضرت حکیم بن حزامؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ لوگ میرے پاس آ کر ایسی چیز طلب کرتے ہیں جو میرے پاس نہیں ہوتی کیا میں بازار سے خرید کر انہیں بیچ سکتا ہوں آپ ﷺ نے فرمایا: جو چیز تمہارے اپنے پاس نہ ہو اسے فروخت نہ کرو۔

باب ۱۱۰۲۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ ثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهِكٍ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حَزَامٍ قَالَ نَهَا نِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدِي

۱۱۰۲۔ حضرت حکیم بن حزامؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے مجھے ایسی چیز فروخت کرنے سے منع فرمایا: جو میرے پاس نہ ہوں۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اس باب میں عبد اللہ بن عمرؓ سے بھی روایت ہے۔ احمد بن منیع، اسماعیل بن ابراہیم سے، وہ ایوب سے وہ عمرو بن شعیب سے وہ اپنے والد سے اور وہ عمرو کے دادا سے یہاں تک کہ عبد اللہ بن عمرو سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "لا یحل سلف و بیع ولا شرطان فی بیع ولا ربح مالم یضمن ولا بیع مالیس عندک" کہ سلف اور بیع حلال نہیں۔ نہ ہی ایک بیع میں دو شرطیں جائز ہیں پھر جس کا وہ ضامن نہ ہو اس کا نفع بھی حلال نہیں اور اسی طرح جو چیز پاس نہ ہو اس کا فروخت کرنا بھی جائز نہیں)

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسحاق بن منصور کہتے ہیں کہ میں نے احمد سے پوچھا کہ سلف اور بیع کی ممانعت سے کیا مراد تو فرمایا: اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو قرض دے اور پھر کوئی چیز اسے قیمت سے زیادہ کی فروخت کر دے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ اس کے معنی یہ ہوں کہ کوئی شخص کسی چیز کی قیمت بطور قرض چھوڑ دے اور اس سے یہ کہے کہ اگر تم یہ قیمت ادا نہ کر سکتے تو یہ چیز میرے ہاتھ فروخت ہوگئی۔ اسحاق کہتے ہیں پھر میں نے احمد سے اس کا معنی پوچھا کہ (جس کا ضامن نہ ہو اس کا منافع بھی حلال نہیں) تو فرمایا: میرے نزدیک یہ صرف غلے وغیرہ میں ہی ہے۔ یعنی جب تک اس پر قبضہ نہ ہو جائے۔ اسحاق کہتے ہیں جو چیزیں تولی یا ناپی جاتی ہیں ان کا حکم بھی اسی طرح ہے۔ یعنی قبضے سے پہلے اس کی بیع جائز نہیں۔ احمد کہتے ہیں: اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے یہ کپڑا تمہارے ہاتھ اس شرط پر فروخت کیا کہ سلائی اور دھلائی میرے ذمے ہے تو یہ ایک بیع میں دو شرطوں کی طرح ہے لیکن اگر یہ کہے کہ میں تمہیں یہ کپڑا فروخت کرتا ہوں اس کی سلائی بھی مجھ پر ہی ہے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ اسی طرح اگر صرف دھلائی کی شرط ہو تو بھی جائز ہے اس لیے کہ ایک ہی شرط ہے۔ اسحاق نے اسی طرح کچھ کہا ہے۔ (یعنی امام ترمذی مضطرب ہیں) حکیم بن حزام کی حدیث حسن ہے اور انہی سے کئی سندوں سے منقول ہے یہ حدیث ایوب سختیانی اور ابوالبشر بھی یوسف بن مابک سے اور وہ حکیم بن حزام سے نقل کرتے ہیں۔ پھر عوف اور ہشام بن حسان ابن سیرین سے اور وہ حکیم بن حزام سے مرسل نقل کرتے ہیں۔ ابن سیرین، ایوب سختیانی سے وہ یوسف بن مابک سے اور وہ حکیم بن حزام سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ ہم سے حسن بن علی خلال، عبدہ بن عبد اللہ اور کئی راوی یہ حدیث عبد الصمد بن عبد الوارث سے وہ یزید بن ابراہیم سے وہ ابن سیرین سے وہ ایوب سے وہ یوسف بن مابک سے اور وہ حکیم سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے وہ چیز فروخت کرنے سے منع فرمایا جو میرے پاس نہ ہو۔ کج یہی حدیث یزید بن ابراہیم سے وہ ابن سیرین سے وہ ایوب سے اور وہ حکیم بن حزام سے نقل کرتے ہوئے یوسف بن مابک کا ذکر نہیں کرتے۔ عبد الصمد کی حدیث زیادہ صحیح ہے۔ یحییٰ بن ابی کثیر بھی یہی حدیث یعلیٰ بن حکیم سے وہ یوسف بن مابک سے وہ عبد اللہ بن عاصم سے وہ حکیم بن حزام سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ اکثر علماء اسی پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو چیز پاس نہ ہو اس کا فروخت کرنا حرام ہے۔

باب ۸۳۳۔ ولاء (۱) کا بیچنا یا ہبہ کرنا صحیح نہیں۔

۱۱۰۳۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ولاء کے بیچنے یا اسے ہبہ کرنے سے منع فرمایا۔

باب ۸۳۴۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْوَلَاءِ وَهَيْبَةٍ

۱۱۰۳۔ حدثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن بن مهدى ثنا سفيان وشعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هَيْبَةٍ

یہ حدیث حسن صحیح ہے ہم اسے صرف عبد اللہ بن دینار کی ابن عمر سے روایت سے جانتے ہیں۔ علماء اسی پر عمل کرتے ہیں یحییٰ بن سلیم یہ حدیث عبید اللہ بن عمر سے وہ نافع سے وہ ابن عمر سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ اس حدیث میں وہ ہم سے یحییٰ بن سلیم اس میں وہ ہم کرتے ہیں۔ عبد الوہاب ثقفی، عبد اللہ بن نمیر اور کئی راوی یہ حدیث عبد اللہ بن عمر سے اور وہ رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں یہ حدیث یحییٰ بن سلیم کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔

(۱) ولاء وہ حق ہے جو مالک کو غلام آزاد کرنے کی وجہ سے ملتا ہے۔ جب غلام فوت ہو جائے تو اس کا کوئی نسب سے وارث نہ ہو تو اس کا ترکہ اسے آزاد کرنے والے کو دیا جاتا ہے۔ (مترجم)

باب ۸۳۵- مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

باب ۸۳۵- جانور کے عوض جانور بطور قرض فروخت کرنا صحیح نہیں۔

۱۱۰۴- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَبُو مُوسَى ثَنَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سُمْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

۱۱۰۴- حضرت سمرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حیوان کے بدلے حیوان بطور قرض فروخت کرنے سے منع فرمایا۔

اس باب میں ابن عباسؓ، جابرؓ اور ابن عمرؓ سے بھی روایت ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے حسن کا سمرہ سے سماع ثابت ہے علی بن مدینی بھی یہی کہتے ہیں اکثر علماء صحابہ وغیرہ کا اسی پر عمل ہے اور یہی سفیان ثوری، اہل کوفہ اور امام احمد کا قول ہے جب کہ بعض علماء اس کی اجازت دیتے ہیں شافعی اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں۔

۱۱۰۵- حَدَّثَنَا أَبُو عَمَارٍ الْحَسِينُ بْنُ الْحَرِيثِ ثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْحَجَّاجِ وَهُوَ ابْنُ ارطَاةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَيَوَانِ اثْنَيْنِ بَوَاحِدَةٍ لَا يُضْلِحُ نَسِيئًا وَلَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ

۱۱۰۵- حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایک جانور کے بدلے دو جانور قرض بیچنا جائز نہیں لیکن نقد بیچنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔

یہ حدیث حسن ہے۔

باب ۸۳۶- مَا جَاءَ فِي شِرَاءِ الْعَبْدِ بِالْعَبْدَيْنِ

باب ۸۳۶- ایک غلام دو غلاموں کے بدلے میں خریدنا۔

۱۱۰۶- حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْهَجْرَةِ وَلَا يَشْعُرُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنِيهِ فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ثُمَّ لَمْ يَبَايِعْ أَحَدًا بَعْدَ حَتَّى يَسْئَلَهُ أَعْبَدُ هُوَ

۱۱۰۶- حضرت جابر فرماتے ہیں ایک غلام آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ہجرت کی بیعت کی آپ ﷺ کو علم نہیں تھا کہ یہ غلام ہے۔ جب اس کا مالک اسے لے جانے کے لیے آگیا تو آنحضرت ﷺ نے اس سے فرمایا: کہ اسے میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ چنانچہ آپ ﷺ نے اسے دو سیاہ فام غلاموں کے عوض خریدا۔ اس کے بعد آنحضرت ﷺ کسی سے اس وقت تک بیعت نہ کرتے جب تک اس سے پوچھ نہ لیتے کہ وہ غلام تو نہیں۔

اس باب میں انسؓ سے بھی حدیث منقول ہے حضرت جابرؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر علماء کا عمل ہے کہ دو غلام دے کر ایک غلام خریدنے میں کوئی مضائقہ نہیں بشرطیکہ ہاتھوں ہاتھ ہو۔ جب کہ قرض میں اختلاف ہے۔

باب ۸۳۷- مَا جَاءَ أَنَّ الْحِنْطَةَ بِالْحِنْطَةِ مِثْلًا بِمِثْلِ وَكَرَاهِيَةَ التَّفَاضُلِ فِيهِ

باب ۸۳۷- گیہوں کے بدلے گیہوں برابر بیچنے کا جواز اور کمی بیشی کا عدم جواز۔

۱۱۰۷۔ حضرت عبادہ بن صامتؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سونے کے بدلے سونا برابر برابر بیچو اور اسی طرح چاندی ہی کے عوض چاندی، کھجور کے بدلے کھجور، گےہوں کے مقابلے میں گےہوں، نمک کے بدلے نمک اور جو کے عوض جو برابر فروخت کرو۔ جس نے زیادہ لیا یا دیا اس نے سود کا معاملہ کیا۔ پھر سونا چاندی کے عوض، گےہوں کھجور کے عوض اور جو کھجور جس طرح چاہو خرید و فروخت کرو بشرطیکہ نقد و نقد ہو۔ (ادھار جائز نہیں۔ وزن میں کمی بیشی جائز ہے)۔

۱۱۰۷۔ حدثنا سويد بن نصر ثنا ابن المبارك ثنا سفیان عن خالد الحذاء عن ابی قلابہ عن ابی الاشعث عن عبادۃ بن الصّامت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الذّهبُ بالذّهبِ مثلاً بمثلٍ والفضّة بالفضّة مثلاً بمثلٍ والتّمرة بالتّمرة مثلاً بمثلٍ والبرّ بالبرّ مثلاً بمثلٍ والمِلحُ بالمِلحِ مثلاً بمثلٍ والشّعیرُ بالشّعیرِ مثلاً بمثلٍ فَمَنْ رَادَ اَوَازُ دَادَ فَقَدْ اُرْبِیَ بِيعُوا الذّهبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ وَبِيعُوا البرّ بِالْتَمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ وَبِيعُوا الشّعیرَ بِالْتَمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ

اس باب میں ابوسعیدؓ، ابو ہریرہؓ اور بلالؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں حضرت عبادہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض راوی یہ حدیث اسی سند سے خالد سے بھی روایت کرتے ہیں اس میں یہ الفاظ بھی ہیں ”بِيعُوا البرّ بالشّعیرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ“ یعنی گےہوں کے بدلے جو کو جس طرح چاہو فروخت کرو۔ لیکن نقد و نقد ہونا شرط ہے۔ بعض یہ حدیث خالد سے وہ ابو قلابہ سے وہ ابو الاشعث سے وہ عبادہ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہوئے یہ الفاظ زیادہ کرتے ہیں کہ خالد ابو قلابہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ گےہوں جو کے عوض جس طرح فروخت کر سکتے ہو..... الخ علماء اسی پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گےہوں کو گےہوں کے عوض برابر برابر ہی بیچا جاسکتا ہے اور اسی طرح جو کے عوض جو بھی برابر فروخت کی جاسکتی ہے۔ یعنی اگر اصناف مختلف ہو جائیں تو کسی یا زیادتی میں کوئی مضائقہ نہیں بشرطیکہ نقد و نقد ہو (مثال کے طور سوا سیر گےہوں دو سیر جو کے بدلے) اکثر علماء صحابہ وغیرہ کا یہی قول ہے۔ سفیان ثوری، شافعی، احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں۔ شافعی کہتے ہیں کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جو کے عوض گےہوں جس طرح چاہو فروخت کرو۔ لیکن شرط یہ ہے کہ نقد و نقد ہو۔ علماء کی ایک جماعت یہ بھی کہتی ہے کہ گےہوں جو کے عوض بھی برابر ہی فروخت کیا جائے گا۔ یعنی اس میں کمی زیادتی صحیح نہیں یہ مالک بن انس کا قول ہے۔ جب کہ پہلا قول ہی صحیح ہے۔

توضیح: یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ افادہ عامہ کے لیے ربا کی تعریف، اس کی قسمیں اور اس کے متعلق قاعدہ کلیہ بیان کر دیا جائے تاکہ اس باب سے متعلق احکام و مسائل سمجھنے میں آسانی ہو۔ واللہ ولی التوفیق۔ ربا کی اصطلاح میں تعریف یہ ہے کہ یہ ایسی زیادتی کو کہتے ہیں جو کسی مالی معاوضے کے بغیر حاصل ہو۔ یہ سود سے زیادہ عام اور وسیع مفہوم کا حامل ہے اور سود اس کی ایک قسم ہے۔ ربا کو عام طور پر پانچ چیزوں پر تقسیم کیا جاتا ہے۔

(۱) ربا قرض (۲) ربا ہن (۳) ربا شراکت (۴) ربا نسبیہ (۵) ربا فضل۔ ان کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

(۱) ربا ہن سے مراد وہ نفع ہے جو گروی رکھنے والے کو گروی رکھوانے والے (راہن) یا گروی رکھی جانے والی چیز سے بغیر کسی مالی

معاوضے کے حاصل ہو۔ مثلاً کوئی شخص اپنا مکان گروی رکھ کر کسی سے قرض لیتا ہے تو وہ اس مکان کو کرائے پر چڑھا دے۔ یا یوں کرے کہ گروی رکھنے والے سے سود وصول کرے۔ یہ دونوں صورتیں حرام ہیں۔

(۳) رباء شراکت یہ ہے کہ کسی مشترک کاروبار میں ایک شریک دوسرے شریک کا منافع متعین کر دے اور باقی تمام منافع اور نقصان کا استحقاق صرف اسی کو حاصل ہو۔ یہ بھی حرام ہے۔

(۴) رباء نسبیہ سے مراد یہ ہے کہ دو چیزوں کے باہم لین دین یا خرید و فروخت میں ادھار کرنا خواہ اس میں اہل مال پر زیادتی وصول کی جائے یا نہیں۔ مثلاً کوئی شخص کسی دوسرے کو ایک من گندم دے اور دوسرا بھی اسے ایک من ہی گندم دے لیکن کچھ عرصے بعد دے، دست بدست نہ دے۔

(۵) رباء فضل کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزوں میں باہم لین دین کی پیشی کے ساتھ ہو اور دست بدست ہو۔ مثلاً کوئی شخص کسی دوسرے کو ایک سیر گیہوں کے بدلے سوا سیر گیہوں اسی وقت دے۔

رباء فضل اور نسبیہ کا حکم بیان کرنے سے پہلے چند چیزوں کا بیان کرنا نہایت ضروری ہے چنانچہ لین دین اور تجارت کا تعلق تین قسم کی چیزوں سے ہوتا ہے یا تو وہ وزن کی جاتی ہیں یا کسی برتن وغیرہ سے ناپی جاتی ہیں یا عدد اگنی جاتی ہیں۔ چنانچہ وزن کی جانی والی چیزوں کو ”موزون“ اور ناپی جانے والی چیزوں کو ”کمیل“ کہتے ہیں اور کسی چیز کے موزون یا کمیل ہونے کی صفت کو فقہی اصطلاح میں ”قدر“ کہا جاتا ہے۔ پھر ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے مثلاً گیہوں کی ہوتی ہے اور چاندی چاندی ہے۔

جن چیزوں کا باہم لین دین ہوتا ہے یا تجارت میں استعمال ہوتی ہیں وہ چار قسم کی ہیں۔ اگر مندرجہ ذیل قاعدہ ذہن نشین کر لیا جائے تو مسائل سمجھنے نہایت آسان ہو جاتے ہیں۔

(۱) متحد القدر و الجنس۔ یعنی دونوں کی قدر اور جنس ایک ہی ہو مثلاً جو کا جو کے عوض لین دین۔ اس میں برابری اور دست بدست یعنی نقد و نقد ہونا ضروری ہے نہ ایک کی زیادتی جائز ہے اور نہ ہی ایک کی ادائیگی کے بعد دوسرے کی ادائیگی میں تاخیر چنانچہ ایک کلو جو کے بدلے ایک ہی کلو جو دینا پڑے گا اور اسی وقت دینا پڑے گا یعنی ان چیزوں میں رباء فضل اور نسبیہ دونوں حرام ہیں۔

(۲) متحد القدر غیر متحد الجنس۔ یعنی دونوں کی قدر تو ایک ہی ہو، لیکن جنس مختلف ہو۔ اس صورت میں برابری تو ضروری ہے۔ لیکن دست بدست ہونا واجب نہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ایک کلو گیہوں دے اور دوسرا اس کے عوض سوا کلو چنے دے۔ لیکن اس تبادلے میں ادھار جائز نہیں ہوگا۔ یعنی اس صورت میں رباء فضل تو جائز ہے لیکن نسبیہ یعنی ادھار حرام ہے۔

(۳) متحد الجنس غیر متحد القدر یعنی دونوں کی جنس تو ایک ہی ہے لیکن قدر الگ الگ ہے۔ اس کا بھی حکم متحد القدر غیر متحد الجنس والا ہی ہے مثال کے طور پر بکریوں کا تبادلہ ایک شخص ایک بکری کے عوض دو بکریاں لے سکتا ہے لیکن دست بدست ادھار جائز نہیں یہ غیر متحد القدر اس لیے ہے کہ بکری نہ کمیل ہے اور نہ موزون یعنی اس صورت میں بھی رباء فضل جائز اور رباء نسبیہ حرام ہے۔

(۴) غیر متحد الجنس والقدر یعنی دونوں کی جنس بھی مختلف ہو اور قدر بھی۔ ایسی چیزوں کے لین دین میں کمی بیشی بھی جائز ہے اور ادھار بھی مثلاً روپے کے بدلے کپڑا خریدنا۔ یا غلہ خریدنا وغیرہ کوئی شخص اگر ایک روپیہ دے کر ایک کلو غلہ خریدتا ہے تو بھی جائز ہے اور اگر دو کلو غلہ خریدتا ہے تو بھی جائز ہے اس لیے کہ روپے اور غلہ دونوں کی نہ جنس ایک ہے اور نہ ہی قدر۔ پھر اس صورت میں ادھار لین دین بھی جائز ہے یعنی اس میں رباء فضل بھی جائز ہے اور رباء نسبیہ بھی۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۸۳۸۔ قیمت کی ادائیگی میں سکتے کی تبدیلی سے متعلق۔

باب ۸۳۸۔ مَا جَاءَ فِي الصَّرْفِ

۱۱۰۸۔ حضرت نافع کہتے ہیں کہ میں اور ابن عمر حضرت ابو سعیدؓ کی

۱۱۰۸۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى

خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے بتایا کہ میں اپنے ان دونوں

ابن أَبِي كَثِيرٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ إِلَى

أَبِي سَعِيدٍ فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُهُ أُذْنَايَ هَاتَيْنِ يَقُولُ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ لَا يُشَفُّ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهُ غَائِبًا بِنَاجِزٍ

کانوں سے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ سونا سونے کے اور چاندی، چاندی کے عوض برابر بیچو نہ کم نہ زیادہ۔ پھر دونوں کی ادائیگی دست بدست کرو یعنی دونوں فریق ایک ہی وقت میں ادائیگی کریں کوئی اس میں تاخیر نہ کرے۔

اس باب میں حضرت ابو بکرؓ، عثمانؓ، ابو ہریرہؓ، ہشام بن عامرؓ، براءؓ، زید بن ارقمؓ، فضالہ بن عبیدؓ، ابوبکرہؓ، ابن عمرؓ، ابو درداءؓ اور بلالؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ علماء صحابہ وغیرہ کا اسی پر عمل ہے لیکن حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ سونے کے بدلے سونے اور چاندی کے بدلے چاندی کے لین دین میں کمی زیادتی جائز ہے بشرطیکہ دست بدست ہو ان کا کہنا ہے کہ یہ ربا تو اسی صورت میں ہے کہ یہ معاملہ قرض کی صورت میں ہو۔ پھر ان کے بعض دوستوں سے بھی اسی طرح منقول ہے لیکن ابن عباسؓ نے جب یہ حدیث حضرت ابوسعید خدریؓ سے سنی تو اپنے قول سے رجوع کر لیا تھا۔ لہذا پہلا قول ہی صحیح ہے اور اسی پر اہل علم کا عمل ہے۔ سفیان ثوریؒ، ابن مبارکؒ، شافعیؒ، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

۱۱۰۹۔ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ثنا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سَمَّاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ أبيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأبيعُ بِالذَّنَا نِيرًا فَأخذُ مَكَانَهَا الْوَرِقَ وَأبيعُ بِالْوَرِقِ فَأخذُ مَكَانَهَا الدَّنَّ نَانِيرًا فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُهُ خَارِجًا مِنْ بَيْتِ حَفْصَةَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ بِالْقِيمَةِ

۱۱۰۹۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں بقیع کے بازار میں دیناروں کے عوض اونٹ فروخت کیا کرتا تھا چنانچہ دیناروں کے عوض بیچنے پر درہم میں بھی قیمت وصول کر لیتا اور اسی طرح درہم کے عوض بیچنے میں دیناروں میں بھی۔ پھر میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ ﷺ حصہ کے گھر سے نکل رہے تھے میں نے آپ ﷺ سے اس مسئلے کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا: قیمت طے کر لینے کی صورت میں کوئی حرج نہیں۔

اس حدیث کو ہم صرف سماک بن حرب کی روایت سے مرفوع جانتے ہیں وہ سعید بن جبیر سے اور وہ ابن عمرؓ سے نقل کرتے ہیں۔ داؤد ابو ہند بھی حدیث سعید بن جبیر سے اور وہ ابن عمرؓ سے موقوفاً نقل کرتے ہیں۔ بعض علماء اسی پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سونے اور چاندی کے لین دین میں کوئی حرج نہیں۔ احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے جب کہ بعض علماء اسے صحیح نہیں سمجھتے۔

۱۱۱۰۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانَ أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلْتُ أَقُولُ مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَرِنَا ذَهَبَكَ ثُمَّ أَتِنَا إِذَا جَاءَ خَادٍ مَنَا نُعْطِيكَ وَرَقًا فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كَلَّا وَاللَّهِ لَتُعْطِيَنَّهُ وَرَقَهُ أَوْ لَتَرُدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبَهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبْوًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبْوًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ

۱۱۱۰۔ حضرت مالک بن اوس بن حدثان کہتے ہیں میں بازار میں یہ پوچھتا ہوا داخل ہوا کہ دیناروں کے بدلے میں مجھے کون درہم دے سکتا ہے۔ طلحہ بن عبید اللہؓ جو حضرت عمرؓ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے۔ اپنا سونا ہمیں دکھاؤ اور پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ واپس آ جانا جب تک ہمارا خادم چاندی لے کر آجائے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا: اللہ کی قسم یہ ممکن نہیں۔ یا تو تم انہیں اپنے درہم دکھاؤ یا ان کا سونا واپس کر دو۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سونے کے بدلے چاندی اگر دست بدست نہ ہو تو سود ہے اور اسی طرح گےہوں، گےہوں کے عوض، جو جو کے

رَبُّوْا اِلَّا هَآءَ وَهَآءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رَبُّوْا اِلَّا هَآءَ وَهَآءَ
عوض اور کھجور کھجور کے عوض رہا ہے۔ اِلاّ یہ کہ دست بدست ہو۔
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اہل علم اسی پر عمل پیرا ہیں۔ ”ہاء و ہاء“ کے معنی دست بدست ہو۔

باب ۸۳۹۔ مَا جَاءَ فِي اِتِّبَاعِ النَّخْلِ بَعْدَ التَّابِيْرِ
وَالْعَبْدِ وَلَهُ مَالٌ
باب ۸۳۹۔ مالدار غلام اور کھجور کی بیوند کاری کے بعد فروخت سے متعلق۔

۱۱۱۱۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا اللِّيْثُ عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ
عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ اِتَّبَعَ نَخْلًا بَعْدَ اَنْ تُوْبَرَ فَمَمَرْتَهَا
لِلَّذِيْ بَاعَهَا اِلَّا اَنْ يَشْتَرِطَ الْمُتَّبِعُ وَمَنْ اِتَّبَعَ عَبْدًا
وَلَهُ مَالٌ فَمَالَهُ لِلَّذِيْ بَاعَهُ اِلَّا اَنْ يَشْتَرِطَ الْمُتَّبِعُ
۱۱۱۱۔ حضرت سالم اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اگر کسی نے کھجور کی بیوند کاری کے بعد درخت خریدے تو پھل بیچنے والے کا ہوگا۔ البتہ اگر کوئی پھل کی بھی شرط لگا چکا ہو تو کوئی حرج نہیں اسی طرح اگر کوئی مالدار غلام کو فروخت کرتا ہے تو اگر خریدنے والے نے مال کی بھی شرط نہ لگائی ہوگی تو وہ بیچنے والے ہی کا ہے۔

اس باب میں جاہر بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابن عمر کی حدیث حسن صحیح ہے اور زہری سے بھی بحوالہ سالم کی سندوں سے اسی طرح منقول ہے۔ سالم، ابن عمر سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر کسی نے کھجور کا درخت بیوند کاری کے بعد خریدا تو پھل فروخت کرنے والے کا ہوگا بشرطیکہ خریدنے والے نے خریدتے وقت اس کی بھی شرط نہ لگائی ہو۔ پھر اگر کوئی شخص غلام فروخت کرے گا تو غلام کا مال بیچنے والا، لہذا ملکیت ہوگا بشرطیکہ خریدنے والے نے اس کی بھی شرط نہ لگائی ہو۔ حضرت نافع ابن عمر سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ بیوند کاری کے بعد فروخت کی جانے والی کھجوروں (کے درختوں) کا پھل بیچنے والے کا ہوگا بشرطیکہ خریدنے والا اس کی شرط نہ لگا چکا ہو۔ پھر اسی سند سے حضرت عمر سے بھی نقل ہے کہ جس شخص نے غلام کو فروخت کیا۔ اور خریدنے والے نے مال کی شرط نہ لگائی تو مال فروخت کرنے والے ہی کا ہے۔ عبید اللہ بن عمر بھی نافع سے دونوں حدیثیں اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ بعض راوی یہ حدیث بحوالہ ابن عمر، نافع سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں۔ پھر عمر بن عبد اللہ بن خالد بھی حضرت ابن عمر سے حضرت سالم ہی کی حدیث کے مثل نقل کرتے ہیں۔ بعض اہل علم اسی پر عمل کرتے ہیں جن میں شافعی، احمد اور اسحاق بھی شامل ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں زہری کی سالم سے اور ان کی اپنے والد سے منقول حدیث اصح ہے۔

باب ۸۴۰۔ مَا جَاءَ الْبَيْعَانَ بِالْخِيَارِ مَالَهُمْ يَتَفَرَّقَا
باب ۸۴۰۔ بیع میں افتراق فریقین کے اختیار سے متعلق۔

۱۱۱۲۔ حَدَّثَنَا واصل بن عبد الاعلى الكوفى ثنا
محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن نافع عن
ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا
قال فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعاً وهو قاعد قام
ليحب له
۱۱۱۲۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: فروخت کرنے والے اور خریدنے والے دونوں کو افتراق سے پہلے تک اختیار ہے (کہ بیع کو باقی رکھیں یا فسخ کر لیں)۔ یا پھر یہ کہ اختیار کی بھی شرط لگالیں یعنی اس صورت میں افتراق کے بعد بھی اختیار باقی رہے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ ابن عمر جب کوئی چیز خریدتے اور بیٹھے ہوتے ہوتے تو اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تاکہ وہ بیع واجب ہو جائے

۱۱۱۳۔ حَدَّثَنَا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد
عن شعبة ثنى قتادة عن صالح ابى الخليل عن
عبدالله بن الحارث عن حكيم بن حزام قال قال
۱۱۱۳۔ حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: فروخت کرنے والے اور خریدنے والے کو جدا ہونے تک اختیار ہے۔ چنانچہ اگر ان لوگوں میں سچائی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا تو ان کی بیع میں

باب ۸۴۳- فی الْمَصْرَاءِ

باب ۸۴۳- دودھ روکے ہوئے جانور سے متعلق۔

۱۱۱۸- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلْمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اشْتَرَى مَصْرَاءً فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا حَلَبَهَا إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

۱۱۱۸- حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کسی شخص نے ایسا دودھ دینے والا جانور خریدا جس کا دودھ اس کے مالک نے کئی روز سے روکا ہوا تھا تو اسے دودھ دوہنے کے بعد لوٹانے کا اختیار ہے چنانچہ اگر وہ واپس کرنا چاہے تو واپس کر سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک صاع کھجور بھی دے۔

اس باب میں حضرت انسؓ اور ایک اور صحابی سے بھی حدیثیں نقل کی گئی ہیں۔

۱۱۱۹- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا أَبُو عَامِرٍ ثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اشْتَرَى مَصْرَاءً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ مَعْنَى لَا سَمْرَاءَ لَا بَرٍّ

۱۱۱۹- حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو ایسا جانور خریدے جس کا دودھ روکا ہوا ہو اسے تین دن تک اسے لوٹانے کا اختیار ہے۔ واپس کرتے ہوئے وہ ایک صاع غلہ بھی ادا کرے لیکن گیہوں نہ ہو۔ یعنی گیہوں کے علاوہ کوئی چیز۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر شافعی، احمد اور اسحاق وغیرہ عمل کرتے ہیں۔

باب ۸۴۴- مَا جَاءَ فِي اشْتِرَاطِ ظَهْرِ الدَّائِبَةِ عِنْدَ النَّبِيِّ

۱۱۲۰- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَمْرٍاءَ وَكَيْعٌ عَنْ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ بَاعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا وَاشْتَرَطَ ظَهْرَهُ إِلَىٰ أَهْلِهِ

باب ۸۴۴- بیع کے وقت جانور پر سواری کی شرط لگانا۔

۱۱۲۰- حضرت جابر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ انہوں نے آنحضرت ﷺ کو ایک اونٹ فروخت کیا اور اس پر گھر تک سواری کرنے کی شرط لگائی۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور کئی سندوں سے حضرت جابرؓ سے منقول ہے بعض صحابہ اسی پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیع میں ایک شرط جائز ہے۔ احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں۔ جب کہ بعض علماء کے نزدیک اگر بیع میں شرط لگادی جائے تو وہ بیع ہی صحیح نہیں۔

باب ۸۴۵- الْإِنْتِفَاعُ بِالرَّهْنِ

۱۱۲۱- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَيُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَا ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرهُونًا وَلَكِنَّ الدَّرَّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرهُونًا وَعَلَى الدِّي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ

باب ۸۴۵- گروی رکھی ہوئی چیز سے فائدہ حاصل کرنا۔

۱۱۲۱- حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: گروی رکھے جانے والے جانور کو سواری کے لیے استعمال کرنا یا اس کا دودھ استعمال کرنا جائز ہے لیکن سوار ہونے اور دودھ استعمال کرنے والے پر اس کا نفقہ وغیرہ بھی واجب ہے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے ہم اسے صرف ابو شعبی کی حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت سے مرفوع جانتے ہیں۔ کئی راوی یہ حدیث اعمش سے وہ ابوصالح سے اور وہ حضرت ابو ہریرہؓ سے موقوف نقل کرتے ہیں بعض علماء کا اسی پر عمل ہے۔ احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں جب کہ بعض علماء کے نزدیک گروی رکھی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانا بالکل جائز نہیں۔

باب ۸۴۶۔ مَا جَاءَ فِي شِرَاءِ الْقِلَادَةِ وَفِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ
 ۱۱۲۲۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي شَجَاعٍ
 سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ حَنْشِ
 الصُّعْنَانِيِّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ اشْتَرَيْتُ يَوْمَ
 حَيْبَرَ قِلَادَةً بِأَثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ
 فَفَضَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ أَثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا
 فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا
 تَبَاغُ حَتَّى تُفْصَلَ

قتیبہ، ابن مبارک سے وہ ابوشجاع اور وہ سعید بن یزید سے اسی سند سے اسی کے مثل حدیث نقل کرتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے
 بعض علماء صحابہ وغیرہ کا اسی پر عمل ہے کہ کسی ایسی تلوار یا کمر بند وغیرہ جس میں چاندی لگی ہوئی ہو اس کا ان چیزوں سے الگ کیے بغیر
 فروخت کرنا جائز نہیں۔ تاکہ دونوں چیزیں الگ الگ ہو جائیں۔ ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ جب کہ بعض
 صحابہ وغیرہ اس کی اجازت بھی دیتے ہیں۔

مسئلہ: امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک اگر علم یقین ہو کہ سونے یا چاندی سے مزین چیز کی قیمت اس میں لگے ہوئے سونے چاندی سے
 زیادہ ہے تو اسے الگ کیے بغیر بھی بیع جائز ہوگی اس صورت میں رہا نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۸۴۷۔ مَا جَاءَ فِي اشْتِرَاطِ الْوَلَاءِ وَالزَّجْرِ عَنْ ذَلِكَ
 ۱۱۲۳۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
 مَهْدِيٍّ ثَنَا سَفِيانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ
 عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَأَشْتَرَطُوا
 الْوَلَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا
 الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ أَوْ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ

اس باب میں ابن عمرؓ سے بھی حدیث منقول ہے۔ حضرت عائشہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور علماء اسی پر عمل کرتے ہیں۔ امام ترمذی
 کہتے ہیں: منصور بن معتمر کی کنیت ابوعماب ہے۔ ابوبکر عطاء بصری، علی بن مدینی سے اور وہ یحییٰ بن سعید کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جب
 تمہیں منصور کے واسطے سے کوئی حدیث پہنچے تو سمجھ لو کہ تمہارے دونوں ہاتھ خیر سے بھر گئے اور اس کے بعد کسی اور کی ضرورت نہیں۔ یحییٰ
 کہتے ہیں: ابراہیم نخعی اور مجاہد سے روایت کرنے والوں میں منصور سے اثبت کوئی نہیں۔ امام بخاری عبداللہ بن اسود سے اور وہ عبدالرحمن
 بن مہدی سے نقل کرتے ہیں کہ منصور کوفہ کے تمام راویوں میں اثبت ہیں۔

باب ۸۴۸۔ بلا عنوان

باب ۸۴۸۔

۱۱۲۴۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشٍ
 عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ

۱۱۲۴۔ حضرت حکیم بن حزامؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے انہیں
 ایک دینار کے عوض قربانی کے لیے جانور خریدنے کے لیے بھیجا انہوں

باب ۸۵۱۔ مسلمان کے لیے ذمی کے ذریعے شراب بیچنے کی ممانعت۔
۱۱۳۰۔ حضرت ابوسعید فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک یتیم کی شراب تھی کہ سورۃ مائدہ کی شراب کی حرمت والی آیت نازل ہو گئی میں نے آنحضرت ﷺ سے دریافت کیا اور عرض کیا کہ وہ یتیم ہے۔ آپ ﷺ نے حکم دیا کہ اسے بہا دیا جائے۔

باب ۸۵۱۔ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى الدِّمِيِّ الْخَمْرَ بِيَعْمَهَالَةَ
۱۱۳۰۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَسْرَمٍ ثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ مَجَالِدٍ عَنْ أَبِي الرِّدَاكَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كَانَ عِنْدَنَا خَمْرٌ لِيَتِيمٍ فَلَمَّا نَزَلَتْ الْمَائِدَةُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَقُلْتُ إِنَّهُ لِيَتِيمٍ قَالَ أَهْرِيقُوهُ

اس باب میں انس بن مالک سے بھی حدیث منقول ہے۔ حضرت ابوسعید کی حدیث حسن ہے اور کئی سندوں سے اسی کے مثل منقول ہے۔ بعض علماء کا بھی یہی مسلک ہے کہ شراب کا سرکہ بنانا حرام ہے۔ شاید اس لیے کہ واللہ اعلم مسلمان شراب سے سرکہ بنانے کے لیے اپنے گھروں میں نہ رکھنے لگیں جب کہ بعض علماء خود بخود سرکہ بن جانے والی شراب کو رکھنے کی اجازت دیتے ہیں۔

۱۱۳۱۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تمہارے پاس کوئی شخص امانت رکھے تو اسے ادا کرو۔ اور جو تمہارے ساتھ خیانت کرے اس کے ساتھ خیانت نہ کرو۔

۱۱۳۱۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ ثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَامٍ عَنْ شَرِيكَ وَقَسٍ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْأَمَانَةُ إِلَى مَنْ اتَّمَنَكَ وَلَا تَحُنْ مِنْ خَانَكَ

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ بعض علماء اسی پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کو قرض دیا اور وہ ادا کیے بغیر چلا گیا۔ اور قرض خواہ کے پاس اپنی کوئی چیز چھوڑ گیا تو اس کے لیے جائز نہیں کہ اس کی چیز پر قبضہ کر لے۔

ثوری کہتے ہیں کہ اگر اس کے پاس اس کے درہم تھے اور قرض خواہ کے پاس اس کے دینار رکھے ہوئے تھے تو ان کو رکھنا جائز نہیں ہاں اگر درہم ہی ہوتے تو اپنے قرض کے برابر رکھ لینا درست تھا جب کہ بعض علماء تابعین اسے جائز کہتے ہیں۔

باب ۸۵۲۔ عاریۃ لی ہوئی چیز کو واپس کرنا ضروری ہے۔
۱۱۳۲۔ حضرت ابو امامہؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے سنا آپ نے فرمایا: استعارة لی ہوئی چیز کی ادائیگی ضروری ہے۔ نیز ضمانت دینے والے کو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور قرض واجب الاداء رہے گا۔

باب ۸۵۲۔ مَا جَاءَ أَنَّ الْعَارِيَةَ مُؤَدَاةٌ
۱۱۳۲۔ حَدَّثَنَا هِنَادٌ وَعَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ قَالَا ثَنَا اسْمَعِيلُ بْنُ عِيَاشٍ عَنْ شَرْحِبِيلِ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوُدَاعِ الْعَارِيَةُ مُؤَدَاةٌ وَالزَّرْعِيمُ غَارِمٌ وَالذَّيْنُ مَقْضِيٌّ

اس باب میں صفوان بن امیہؓ، سمرہ اور انسؓ سے بھی حدیثیں نقل کی گئی ہیں یہ حدیث حسن ہے اور آنحضرت ﷺ سے بواسطہ ابو امامہ اور سندوں سے بھی منقول ہے۔

۱۱۳۳۔ حضرت سمرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہاتھ پر اس چیز کی ادائیگی واجب ہے جو اس نے لی یہاں تک کہ ادا کرے۔ قداہ کہتے ہیں کہ پھر حسن بھول گئے اور کہنے لگے۔ وہ تمہارا امین ہے اور اس

۱۱۳۳۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ بَقَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذْتُ

حَتَّى تُوَدِّيَ قَالَ قَتَادَةُ ثُمَّ نَسِيَ الْحَسَنَ فَقَالَ هُوَ دِي هُوَ لِي حَيْزُ كَيْفِ هُوَ بَرِّ جَرْمَانِي هُوَ
أَمِينُكَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ يَعْنِي الْعَارِيَةَ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض علماء صحابہ کا یہی مسلک ہے کہ چیز لینے والا ضامن ہوتا ہے۔ شافعی اور احمد کا بھی یہی قول ہے۔ لیکن بعض علماء صحابہ کے نزدیک اگر مانگ کر لی ہوئی چیز ضائع ہو جائے تو اس پر جرمانہ نہیں ہوگا۔ بشرطیکہ مالک کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کرے۔ اگر اس کی مرضی کے خلاف استعمال کرے اور ضائع ہو جائے تو اس صورت میں اسے جرمانے کے طور پر ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اہل کوفہ اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں۔

باب ۸۵۳ - مَا جَاءَ فِي الْإِحْتِكَارِ

باب ۸۵۳ - غَلَّةِ كِي ذَخِيرَه اندوزی

۱۱۳۴ - حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُضَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحْتِكِرُ إِلَّا خَاطِيٌّ فَقُلْتُ لِسَعِيدِ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّكَ تَحْتِكِرُ قَالَ وَمَعْمَرٌ قَدْ كَانَ يَحْتِكِرُ وَإِنَّمَا رَوَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ إِنَّهُ كَانَ يَحْتِكِرُ الزَّيْتِ وَالْخَبْطَ وَنَحْوَ هَذَا

۱۱۳۴ - حضرت معمر بن عبد اللہ بن فضلہ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ذخیرہ اندوزی کر کے مہنگائی کا انتظار کرنے والا گنہگار ہے۔ راوی کہتے ہیں میں نے سعید سے کہا اے ابو محمد آپ بھی تو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں تو فرمایا: معمر بھی کرتے تھے اور سعید بن مسیب سے بھی منقول ہے کہ وہ تیل اور چائے کی ذخیرہ اندوزی کیا کرتے ہیں (یعنی غلے کے علاوہ ان چیزوں کی ذخیرہ اندوزی کرتے تھے جو کھانے پینے میں استعمال نہیں ہوتیں۔

اس باب میں عمر علی، ابو امامہ اور ابن عمر سے بھی حدیثیں نقل کی جاتی ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر اہل علم کا عمل ہے کہ غلے کی ذخیرہ اندوزی حرام ہے جب کہ بعض علماء غلے کے علاوہ دیگر اشیاء میں اس کی اجازت کے قائل ہیں۔ ابن مبارک کہتے ہیں کہ روٹی اور چڑے کی ذخیرہ اندوزی میں کوئی مضا تقہ نہیں۔

باب ۸۵۴ - مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْمُحْفَلَاتِ

باب ۸۵۴ - دودھ روکے ہوئے جانور کو فروخت کرنا۔

۱۱۳۵ - حَدَّثَنَا هِنَادُ ثَنَا ابْنُ اِلْحَوْصِ عَنْ سَمَاقٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَسْتَقْبِلُوا السُّوقَ وَلَا تُحْفَلُوا وَلَا يَنْفِقُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ

۱۱۳۵ - حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مال کے بازار میں بیچنے سے پہلے خریدنے میں عجلت نہ کرو، دودھ والے جانور کا دودھ خریدار کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے نہ روکو۔ اور چھوٹے خریدار بن کر کسی چیز کی قیمت نہ بڑھاؤ۔ (تایام وغیرہ میں)

اس باب میں ابن مسعود اور ابو ہریرہ سے بھی حدیثیں نقل کی گئی ہیں۔ حضرت ابن عباس کی حدیث حسن صحیح ہے۔ علماء اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دودھ روک کر جانور کو بیچنا حرام ہے۔ سمراتہ اور حنبلہ دونوں ایک ہی چیز ہیں یعنی کسی دودھ دینے والے جانور کا کئی دن تک دودھ نہ نکالا جائے تاکہ دودھ اس کے تھنوں میں جمع ہو جائے اور خریدار دھوکے میں پڑ کر اسے خرید لے یہ دھوکے اور فریب کی ایک ہی قسم ہے۔

إِنَّا نَنْظُرُ فِي الْفَحْلِ فَنُكْرِمُ فَرَحَّصَ لَهُ فِي الْكِرَامَةِ

یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم اسے صرف ابراہیم بن حمید کی ہشام بن عروہ سے روایت سے پہچانتے ہیں۔

باب ۸۵۹۔ مَا جَاءَ فِي ثَمَنِ الْكَلْبِ

باب ۸۵۹۔ کتے کی قیمت سے متعلق۔

۱۱۴۲۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ ح

۱۱۴۲۔ حضرت ابو مسعود انصاریؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے کتے

کی قیمت لینے، زنا کی اجرت لینے اور کاہن کو منٹھائی دینے سے منع فرمایا۔

وَنَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيِّ وَغَيْرِ

وَاحِدٍ قَالُوا ثَنَا سَفِيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ

أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ

قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ

الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَيْعِيِّ وَخُلُوفِ الْكَاهِنِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۱۴۳۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ثَنَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ ثَنَا

۱۱۴۳۔ حضرت رافع بن خدیجؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

پچھنے لگانے کی اجرت، زنا کی اجرت اور کتے کی قیمت حرام ہے۔

مُحَمَّدٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ ابْنِ كَثِيرٍ عَنْ

ابراهيم بن عبدالله بن قارط عن السائب بن يزيد

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ كَسَبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبَيْعِيِّ

خَبِيثٌ وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ

اس باب میں عمرؓ، ابن مسعودؓ، جابرؓ، ابو ہریرہؓ، ابن عباسؓ، ابن عمرؓ اور عبد اللہ بن جعفرؓ سے بھی حدیثیں نقل کی گئی ہیں۔ یہ حدیث حسن

صحیح ہے۔ علماء کی اکثریت اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہتی ہے کہ کتے کی قیمت حرام ہے۔ شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

جب کہ بعض علماء شکاری کتے کی قیمت کو جائز کہتے ہیں۔

باب ۸۶۰۔ مَا جَاءَ فِي كَسْبِ الْحَجَّامِ

باب ۸۶۰۔ پچھنے لگانے کی اجرت

۱۱۴۴۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ

۱۱۴۴۔ بنی حارثہ کے بھائی ابن مہصہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ

انہوں نے آنحضرت ﷺ سے پچھنے لگانے پر اجرت لینے کی اجازت

چاہی تو آپ ﷺ نے منع فرمادیا۔ لیکن وہ بار بار پوچھتے رہے تو

آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اسے اپنے اونٹ کے چارے یا غلام کے

کھانے پینے کے لیے استعمال کرلو۔

شِهَابِ بْنِ أَبِي مَحْبِصَةَ أَخِي بَنِي حَارِثَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ

اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِجَارَةِ

الْحَجَّامِ فَنَهَاهُ عَنْهَا فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ حَتَّى

قَالَ اغْلِظْهُ نَاضِحَكَ وَأَطِعْمَهُ رَقِيقَكَ

اس باب میں رافع بن خدیجؓ، ابو جحیفہؓ، جابرؓ اور سائبؓ سے بھی حدیثیں منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے۔ بعض علماء اس پر عمل کرتے

ہیں۔ امام احمد کہتے ہیں کہ اگر وہ مجھ سے اجرت طلب کرے گا تو میں اس دلیل کو حجت کے طور پر پیش کرتے ہوئے اسے اجرت نہیں دوں گا۔

باب ۸۶۱- مَا جَاءَ مِنَ الرُّحْصَةِ فِي كَسْبِ الْحَجَامِ
 ۱۱۴۵- حَدَّثَنَا ثنا علي بن حجر ثنا اسمعيل بن
 جعفر عن حميد قال سئل أنس عن كسب الحجام
 فقال أنس احتجتم رسول الله صلى الله عليه وسلم
 وحجته أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم
 أهله فوضعوا عنه من خراجهم وقال إن أمتل ذوائكم
 الحجامة

باب ۸۶۱- حجام (پچھنے لگانے والے) کی اجرت کے جواز سے متعلق۔
 ۱۱۴۵- حضرت حمید کہتے ہیں کہ انسؓ سے حجام کی اجرت کے متعلق پوچھا
 گیا تو فرمایا: ابو طیبہ نے آنحضرت ﷺ کو پچھنے لگانے تو آپ ﷺ نے
 انہیں دو صاع نلہ دینے کا حکم دیا اور ان کے مالکوں سے ان سے کم پیسے
 (خراج) لینے کی سفارش کی اور فرمایا سب سے بہتر دو اجامت ہے یا
 فرمایا: ”ان من امثل ذوائکم الحجامة“ راوی کا شک ہے۔
 دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔

اس باب میں علیؓ، ابن عباسؓ اور ابن عمرؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ حضرت انسؓ کی حدیث حسن صحیح ہے چنانچہ بعض علماء حجامت
 کی مزدوری لینے کی اجازت دیتے ہیں۔ شافعی کا بھی یہی قول ہے۔

باب ۸۶۲- مَا جَاءَ فِي ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنُورِ

باب ۸۶۲- کتے اور بلی کی قیمت حرام ہے

۱۱۴۶- حَدَّثَنَا ثنا علي بن حجر وعلي بن خشرم قالا
 ثنا عيسى بن يونس عن الاعمش عن أبي سفيان
 عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
 عن ثمن الكلب والسنور

۱۱۴۶- حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے کتے اور بلی کی
 قیمت سے منع فرمایا۔

اس حدیث کی سند میں اضطراب ہے۔ اعمش بھی اپنے بعض ساتھیوں سے اور وہ حضرت جابرؓ سے نقل کرتے ہیں۔ اعمش کے یہ
 حدیث روایت کرنے میں اضطراب ہے علماء کی ایک جماعت بلی کی قیمت کو مکروہ سمجھتی ہے۔ جب کہ بعض علماء اس کی اجازت دیتے
 ہیں۔ احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ ابو فضیل، اعمش سے وہ ابو حازم سے وہ ابو ہریرہؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اس سند کے علاوہ
 بھی ایسے ہی نقل کرتے ہیں۔

۱۱۴۷- عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْهَيْرِ وَثَمَنِهٖ
 ۱۱۴۷- حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے بلی کو کھانے اور
 اس کی قیمت لینے سے منع فرمایا۔

یہ حدیث غریب ہے اور عمر بن زید کوئی بڑی شخصیت نہیں۔ ان سے عبدالرزاق کے علاوہ اور لوگ بھی نقل کرتے ہیں۔

۱۱۴۸- حَدَّثَنَا ابُو كَرِيْبٍ ثنا وكيع عن حماد
 سلمة عن ابى المهزم عن ابى هريرة قال نهى عن
 ثمن الكلب إلا كلب الصيد

۱۱۴۸- حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے شکاری کتے
 کے علاوہ کتے کی قیمت لینے سے منع فرمایا۔

یہ حدیث اس سند سے صحیح نہیں۔ ابو مہزم کا نام یزید بن سفیان ہے شعبہ بن حجاج ان میں کلام کرتے ہیں حضرت جابرؓ سے بھی اسی کی
 مانند مروعا منقول ہے لیکن اس کی سند بھی صحیح نہیں۔

باب ۸۶۳- گانے والیوں کی فروخت حرام ہے۔

باب ۸۶۳- مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْمُغْنِيَاتِ

۱۱۵۵۔ حضرت رافع بن عمرو کہتے ہیں کہ میں انصار کے کھجوروں کے درختوں پر پتھر مار رہا تھا کہ انہوں نے مجھے پکڑ کر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ ﷺ نے پوچھا: رافع کیوں ان کے درختوں کو پتھر مار رہے تھے؟ میں نے عرض کیا۔ بھوک کی وجہ سے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: پتھر نہ مارا کرو۔ جو گری ہوئی ہوں وہ کھالیا کرو۔ اللہ تمہیں سیر کرے اور آسودہ کرے۔

۱۱۵۵۔ حدثنا ابوعمار الحسین بن حرث الخزاعی ثنا الفضل بن موسی عن صالح بن ابی حمیر عن ابیہ عن رافع بن عمرو قال کُنت اُرْمِی نَخْلَ الْأَنْصَارِ فَأَخَذُونِي فَذَهَبُوا بِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَافِعُ لِمَ تَرْمِي نَخْلَهُمْ قَالَ لَأُكَلَّ يَا رَسُولَ الْجُوعِ قَالَ لَا تَرْمِ وَكُلْ مَا وَقَعَ أَشْبَعَكَ اللَّهُ وَأَرَوَاكَ

یہ حدیث حسن ہے۔

باب ۸۶۷۔ بیع میں استثناء کرنے کی ممانعت

باب ۸۶۷۔ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّنْيَاءِ

۱۱۵۶۔ حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے محافلہ (۱) مزانبہ (۲) مخابره (۳) اور ثنیا (۴) سے منع فرمایا۔ لا یہ کہ اس کی مقدار معلوم ہو۔

۱۱۵۶۔ حدثنا زیاد بن ایوب البغدادی ثنا عباد العوام اخبرني سفیان بن حسین عن یونس بن عبید عن عطاء عن جابر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابِنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالتَّنْيَاءِ إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ

یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے یعنی یونس بن عطاء کی جابرؓ سے روایت ہے۔

باب ۸۶۸۔ غلے کو اپنی ملکیت میں لینے سے پہلے بیچنے کی ممانعت

باب ۸۶۸۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

۱۱۵۷۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی شخص غلہ خریدے تو اسے اس وقت تک فروخت نہ کرے جب تک اس کے قبضے میں نہ آجائے۔ ابن عباسؓ کہتے ہیں: میرے نزدیک ہر چیز کے متعلق یہی حکم ہے۔

۱۱۵۷۔ حدثنا قتیبہ ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طائوس عن ابن عباس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ابْتِئَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ

(۱) محافلہ کے معنی ہیں کہ زمین کو غلے کے عوض کرائے پر دینا یا بھتی کو اس کی جڑیں محفوظ ہونے سے پیشتر فروخت کرنا۔ یا تہائی یا چوتھائی پیداوار پر ثنیا کرنا یا وہ گیہوں جو بالی میں ہوں یا صاف گیہوں کے عوض بیچنا۔ یہ سب اس لیے منع ہے کہ اس میں اجرت معین نہیں۔ (مترجم)

(۲) مزانبہ۔ یعنی درخت پر موجود پھل کو ایسے پھل کے عوض بیچ دے جو درخت سے اتر چکا ہو۔ یہ اس لیے منع ہے کہ درخت پر لگے ہوئے پھلوں کا صحیح وزن معلوم نہیں۔ (مترجم)

(۳) مخابره بھی زمین کو تہائی یا چوتھائی حصے پیداوار کے عوض کرائے پر دینے کے معنی میں آتا ہے۔ (مترجم)

(۴) ثنیا: اس سے مراد یہ ہے کہ فروخت کرتے وقت کسی غیر معین چیز کو مستثنیٰ کر دیا جائے کہ یہ اس میں داخل نہیں۔ واللہ اعلم (مترجم)

اس باب میں حضرت جابرؓ اور ابن عمرؓ سے بھی حدیثیں نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اکثر علماء اسی پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کسی چیز پر قبضہ کرنے سے پہلے اسے فروخت کرنا جائز نہیں جب کہ بعض علماء کا مسلک یہ ہے کہ جو چیزیں تولی یا وزن نہیں کی جاتیں اور نہ ہی کھانے پینے میں استعمال ہوتی ہیں ان کا ملکیت سے پہلے بیچنا جائز ہے۔ یعنی صرف غلے کے متعلق ہی سختی سے منع کیا گیا ہے احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں۔

باب ۸۶۹۔ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْبَيْعِ عَلَى بَيْعِ آخِيهِ
 ۱۱۵۸۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ
 عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ
 بَعْضُكُمْ عَلَى حِطْبَةِ بَعْضٍ
 باب ۸۶۹۔ کسی کی بیع پر بیع کی ممانعت
 ۱۱۵۸۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: کوئی شخص
 دوسرے کی فروخت کی ہوئی چیز پر وہی چیز اس سے کم قیمت میں نہ بیچے
 اور کسی عورت کے کسی کے ساتھ نکاح پر رضامندی ظاہر کرنے کے بعد
 کوئی اسے پیغام نکاح نہ بھیجے۔

اس باب میں حضرت ابو ہریرہؓ اور سمرہؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ آنحضرت ﷺ سے یہ بھی مروی ہے۔
 کہ فرمایا: کوئی شخص اپنے بھائی کی لگائی ہوئی قیمت پر قیمت نہ لگائے یعنی اگر دونوں میں بیع کا انعقاد قریب ہو اور مالک نیم رضامند ہو۔
 بعض علماء حدیث باب کو بھی قیمت لگانے پر ہی محمول کرتے ہیں۔

باب ۸۷۰۔ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْحُمْرِ وَالنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ
 ۱۱۵۹۔ حَدَّثَنَا حَمِيدُ بْنُ مَسْعُودَةَ ثَنَا الْمُعْتَمِدُ بْنُ
 سَلِيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ لَيْثًا يَحْدِثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ
 عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهُ إِنِّي
 اشْتَرَيْتُ حُمْرًا لِأَيْتَامٍ فِي حَجْرِي قَالَ أَهْرِقِ الْحُمْرَ
 وَأكْبِرِ الدِّنَارَ
 باب ۸۷۰۔ شراب بیچنے کی ممانعت۔
 ۱۱۵۹۔ حضرت ابو طلحہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے
 رسول! میں نے ان یتیموں کے لیے شراب خریدی تھی جو میری کفالت
 میں ہیں آپ ﷺ نے فرمایا: شراب کو بہا دو اور برتن کو توڑ ڈالو۔

اس باب میں جابرؓ، عائشہؓ، ابوسعیدؓ، ابن مسعودؓ، ابن عمرؓ اور انسؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہؓ کی حدیث ثوری، سدی
 سے وہ یحییٰ بن عباد سے اور وہ انسؓ سے نقل کرتے ہیں کہ ابو طلحہ ان کے نزدیک تھے یہ حدیث لیث کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔

۱۱۶۰۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ
 ثَنَا سَفِيَانُ عَنِ السَّدِيِّ عَنِ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ عَنْ أَنَسِ
 بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَيَّتَخَذُ الْحُمْرُ حَلًّا قَالَ لَا
 یہ حدیث حسن صحیح ہے۔
 ۱۱۶۰۔ حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ سے پوچھا
 گیا کہ کیا شراب سے سرکہ بنا لیا جائے؟ فرمایا: نہیں۔

۱۱۶۱۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَنِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ
 اِبَاعَاصِمَ عَنِ شَيْبِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَعَنَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحُمْرِ عَشْرَةَ
 حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے
 شراب سے متعلق دس آدمیوں پر لعنت بھیجی ہے۔ (۱) نکالنے والے
 پر، (۲) نکلوانے والے پر، (۳) پینے والے پر، (۴) لے جانے

عَاصِرَهَا وَ مُعْتَصِرَهَا وَ شَارِبَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ
إِلَيْهِ وَ سَاقِيَهَا وَ بَايَعَهَا وَ أَكَلَ ثَمَنَهَا وَ الْمُشْتَرِيَ لَهَا وَ
الْمُشْتَرَاةَ لَهَا

والے پر، (۵) جس کی طرف لے جانی جا رہی ہو اس پر، (۶)
پلانے والے پر (۷) فروخت کرنے والے پر، (۸) اس کی قیمت
کھانے والے پر، (۹) خریدنے والے پر اور (۱۰) جس کے لیے
خریدی گئی ہو اس پر۔

یہ حدیث غریب ہے۔ حضرت عباسؓ اور ابن مسعودؓ سے بھی اسی کی مثل منقول ہے۔ یہ حضرات آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔
مسئلہ: ابتدائے اسلام میں شراب سے کہ بنانے کی ممانعت تھی لیکن بعد میں اس کی اجازت دے دی گئی اور وہ احادیث
منسوخ ہو گئیں چنانچہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: سرکہ تمہارے کھانوں میں سے بہترین سالن ہے۔ یہ حدیث مسلم نے نقل کی
ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۸۷۱۔ مَا جَاءَ فِي احْتِلَابِ الْمَوَاشِي بِغَيْرِ اِذْنِ
الْاَرْبَابِ

باب ۸۷۱۔ جانوروں کا ان کے مالکوں کی اجازت کے بغیر دودھ
نکالنا۔

۱۱۶۲۔ حَدَّثَنَا ابُو سَلْمَةَ يَحْيَىٰ بنِ خَلْفِ ثَنَا
عَبْدِالاعْلَىٰ عَنْ سَعِيدِ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ
بْنِ جُنْدَبِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اَتَى
اَحَدُكُمْ عَلَيَّ مَا شِيبَةَ فَاِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلَيْسَتْ اِذْنُهُ
فَاِنْ اِذْنٌ لَهُ فَلْيُحْتَلَبْ وَلْيُشْرَبْ وَ اِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا اَحَدٌ
فَلْيَصْوُتْ ثَلَاثًا فَاِنْ اَجَابَهُ اَحَدٌ فَلَيْسَتْ اِذْنُهُ فَاِنْ لَمْ يُجِبْهُ
اَحَدٌ فَلْيُحْتَلَبْ وَلْيُشْرَبْ وَلَا يَحْمَلُ

۱۱۶۲۔ حضرت سرہ بن جندبؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر
تم میں سے کوئی مویشیوں کے پاس جائے تو اگر مالک موجود ہو تو اس
سے اجازت طلب کرے اگر وہ اجازت دے دے تو دودھ نکال کر پی
لے اور اگر وہاں کوئی نہ ہو تو تین مرتبہ آواز لگائے اگر کوئی جواب دے تو
اس سے اجازت لے ورنہ دودھ نکال کر پی لے لیکن ساتھ نہ لے
جائے۔

اس باب میں ابن عمرؓ اور ابو سعیدؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ حضرت سرہؓ کی حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ بعض علماء اسحاق اور احمد
اسی کے قائل ہیں علی بن مدینی کہتے ہیں کہ حسن کا سرہ سے سماع ثابت ہے جب کہ بعض علماء حسن کی سرہ سے منقول احادیث پر اعتراض
کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کی کتاب سے حدیثیں نقل کی ہیں۔

توضیح: اکثر علماء اس قسم کی احادیث کو اضطراری حالت پر محمول کرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی سفر میں ہو اور بھوکا ہو تو اس کے لیے راستے کے
پھل کھا لینا جائز ہے۔ دودھ پی لینا جائز ہے وغیرہ وغیرہ لیکن یہ بھی بقدر ضرورت ہے یہ نہیں کہ ساتھ لے جائے۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۸۷۲۔ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ وَالْاَصْنَامِ

باب ۸۷۲۔ مردار جانوروں کی کھال اور بیٹوں کو فروخت کرنا۔

۱۱۶۳۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدِ ابْنِ حَبِيْبٍ
عَنْ عَطَاءِ بنِ اَبِي رِيْحَانَ عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِاللهِ اَنَّهُ
سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ
وَهُوَ بِمَكَّةَ يَقُوْلُ اِنَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ
وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْاَصْنَامِ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ

۱۱۶۳۔ حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے
سال مکہ میں فرمایا: اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردار خنزیر اور
بت بیچنے سے منع کیا ہے آپ ﷺ سے کہا گیا یا رسول اللہ! امر دار کی
چربی کے متعلق کیا حکم ہے اس سے کشتیوں کو طلا کیا جاتا ہے، چمڑے
پھکنے کیے جاتے ہیں۔ لوگ اس سے چراغ جلاتے ہیں۔ فرمایا: نہیں

وہ حرام ہے۔ پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: یہودیوں پر اللہ کی مار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر چربی حرام کی تو انہوں نے اس کو گھٹلا کر بیچ دیا اور اس کی قیمت کھالی۔ (یعنی اسے حلال کرنے کا یہ بہانہ تلاش کیا کہ اسے گھٹلا دیا۔ کیونکہ پگھلی ہوئی چربی کو ”شحم“ نہیں بلکہ ”ورک“ کہتے ہیں۔) (مترجم)

أَرَأَيْتَ شَحُومَ الْمُيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهِ السُّفْنُ وَ يُدَّهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ قَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنْ اللَّهُ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَأَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

اس باب میں حضرت عمرؓ اور ابن عباسؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اہل علم اسی پر عمل کرتے ہیں۔

باب ۸۷۳۔ کوئی چیز ہبہ کرنے کے بعد واپس لینا۔

باب ۸۷۳۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الرُّجُوعِ مِنَ الْهَبَةِ

۱۱۶۴۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ہمارے لیے بری کہادت نہیں ہے کہ کوئی چیز ہبہ کرنے کے بعد واپس لینے والا ایسے کتے کی طرح ہے جو اپنی تے کو کھا جاتا ہے۔

۱۱۶۴۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الضَّيْبِيِّ ثنا عبد الوهاب الثقفي ثنا ايوب عن عكرمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قبه

اس باب میں حضرت ابن عمرؓ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ کوئی چیز کسی کو دینے کے بعد

واپس لے ہاں باپ بیٹے سے واپس لے سکتا ہے۔ یہ حدیث محمد بن بشار، ابن ابی عدی سے وہ حسین معلم سے وہ عمرو بن شعیب سے وہ طاؤس سے اور وہ ابن عمرؓ اور ابن عباسؓ سے نقل کرتے ہیں۔ یہ دونوں حضرات اس حدیث کو مرفوع نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اسی پر بعض صحابہ و دیگر علماء کا عمل ہے کہ اگر کسی نے کوئی چیز اپنے کسی ذی رحم محرم کو دے دی تو اس سے واپس لینا صحیح نہیں لیکن اگر غیر ذی رحم محرم کو دی ہو تو واپس لینا جائز ہے بشرطیکہ اس کے بدلے کوئی چیز نہ لے چکا ہو۔ اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ شافعی کہتے ہیں کہ والد کے علاوہ کسی کا کوئی چیز واپس لینا جائز نہیں وہ اپنے مسلک پر حجت کے طور پر حدیث باب ہی پیش کرتے ہیں یعنی حضرت ابن عمرؓ کی حدیث۔

باب ۸۷۴۔ بیع عرایا اور اس کی اجازت۔ (۱)

باب ۸۷۴۔ مَا جَاءَ فِي الْعَرَايَا وَالرُّحْصَةِ فِي ذَلِكَ

۱۱۶۵۔ حضرت زید بن ثابتؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے بیع محافلہ اور مزینہ سے منع فرمایا۔ لیکن اہل عرایا کے لیے اپنے درختوں کے پھلوں کو اترے ہوئے پھلوں کے عوض اندازے کے ساتھ بیچنے کی اجازت دی۔ (۲)

۱۱۶۵۔ حَدَّثَنَا هنادنا ثنا عبدة عن محمد بن اسحق عن نافع عن ابن عمر عن زید بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحافلّة والمزانية الا انه اذن لاهل العرايا ان يبيعوها بمثل خرصها

(۱) ان الفاظ کی تفصیل 'باب فی النهی عن الثیاب' میں گزری چکی ہے۔ (مترجم)

(۲) اہل عرایا: ان محتاج لوگوں کو کہا جاتا ہے جنہیں درختوں کے پھل عاریہ دیئے گئے ہوں۔ واللہ اعلم (مترجم)

اس باب میں ابو ہریرہؓ اور جابرؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ حضرت زید بن ثابتؓ کی حدیث کو محمد بن اسحاق بھی ایسے ہی نقل کرتے ہیں۔ ایوب، عبد اللہ بن عمر اور مالک بن انس بھی نافع سے اور وہ ابن عمرؓ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے محافلہ اور مزینہ سے منع فرمایا اسی سند سے حضرت ابن عمرؓ سے بحوالہ زید بن ثابتؓ مرفوعاً منقول ہے کہ آنحضرت ﷺ نے عرایا کو پانچ وسق کی اجازت دی ہے۔ یہ محمد بن اسحاق کی حدیث زیادہ صحیح ہے۔

۱۱۶۶۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اہل عرایا کو پانچ وسق سے کم پھل اندازے سے بیچنے کی اجازت دی یا کچھ اسی طرح فرمایا۔

۱۱۶۶۔ حدثنا ابو کریب ثنا زید بن حباب عن مالك عن داؤد ابن الحصين عن ابی سفيان مولی ابن ابی أحمد عن ابی هريرة أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَحَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي مَاذُونَ خُمْسَةَ أَوْ سِتِّي أَوْ كَذَا

۱۱۶۷۔ حضرت مالک فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے عرایا کو پانچ وسق یا اس سے کم مقدار میں بیچنے کی اجازت دی۔

۱۱۶۷۔ حدثنا قتيبة عن مالك عن داؤد بن حصين نحوه وروى هذا الحديث عن مالك أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَحَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي خُمْسَةَ أَوْ سِتِّي أَوْ فِيمَا دُونَ خُمْسَةَ أَوْ سِتِّي

۱۱۶۸۔ حضرت زید بن ثابتؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے عرایا کو اندازے کے ساتھ بیچنے کی اجازت دی۔

۱۱۶۸۔ حدثنا قتيبة ثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَحَصَ فِي الْعَرَايَا بِخُرُصِهَا

یہ اور حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض علماء، شافعی، احمد اور اسحاق اسی پر عمل کرتے ہیں ان حضرات کا کہنا ہے کہ عرایا محافلہ اور مزینہ کی بیوع کی ممانعت سے مستثنیٰ ہیں ان کی دلیل حضرت زید اور ابو ہریرہؓ کی حدیثیں ہیں۔ شافعی، احمد اور اسحاق مزید کہتے ہیں کہ عرایا کے لیے پانچ وسق سے کم پھلوں کو بیچنا جائز ہے۔ بعض علماء اس کی یہ تفسیر کرتے ہیں کہ یہ آنحضرت ﷺ کی طرف سے ان کے لئے آسانی اور وسعت کے لیے تھا کیونکہ انہوں نے شکایت کی کہ ہم میں تازہ پھل خریدنے کی استطاعت نہیں ہے الا یہ کہ پرانی کھجوروں سے خریدیں تو آپ ﷺ نے انہیں پانچ وسق سے کم خریدنے کی اجازت دے دی تاکہ تازہ پھل کھا سکیں۔

۱۱۶۹۔ ولید بن کثیر، بنو حارثہ کے مولیٰ بشیر بن یسار سے نقل کرتے ہیں کہ رافع بن خدیج اور سہل بن ابی حمزہ نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے بیع مزینہ یعنی درختوں سے اتری ہوئی کھجور کے عوض درختوں پر لگی ہوئی کھجور خریدنے سے منع فرمایا: لیکن اصحاب عرایا کو اجازت دی اور تازہ انگور کو خشک انگور کے عوض اور تمام پھلوں کو اندازے سے بیچنے سے منع فرمایا۔

۱۱۶۹۔ حدثنا الحسن بن علي الخلال ثنا ابواسامة عن الوليد بن كثير ثنا بشير بن يسار مولی بنی جارية أن رافع بن خديج وسهل ابن ابی حمزة حدثاه أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَزَابِنَةِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ إِلَّا لِأَصْحَابِ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّيْبِ وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخُرُصِهَا

یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔

اس کی تفسیر یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے باغ میں سے ایک یا دو درخت کسی محتاج وغیرہ کو پھل کھانے کے لیے دے دیا کرتے تھے چنانچہ عرب کی یہ عادت تھی کہ اپنے اہل و عیال کو لے کر باغ میں جایا کرتے تھے اور ایسی صورت میں اس محتاج یا فقیر کی آمد ناگوار گزرتی اس لیے باغ کا مالک اسے اس درخت کے پھل کے بدلے میں اپنے پاس سے پھل دے کر رخصت کر دیا کرتے اور اس کا پھل اپنے پاس رکھ لیتے۔ آنحضرت ﷺ نے اس کی اجازت دی لیکن اس میں پانچ وقت سے کم ہونا ضروری ہے یہ قید اس لیے ہے کہ اس اجازت کا تعلق احتیاج کی وجہ سے ہے۔ اور احتیاج و ضرورت پانچ وقت سے کم ہی ہوتی ہے اور پانچ وقت چھبیس من کے برابر ہوتے ہیں۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۸۷۵۔ نجش حرام ہے۔ (۱)

باب ۸۷۵۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّجْشِ

۱۱۷۰۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: نجش نہ کرو۔ قتیہ کہتے ہیں کہ وہ اس حدیث کو پہنچاتے تھے۔

۱۱۷۰۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَاحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَا ثَنَا سَفِيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قُتَيْبَةُ يُلْتَمَعُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَنَاجَشُوا

اس باب میں ابن عمرؓ اور انسؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور اہل علم اسی پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نجش حرام ہے۔ نجش یہ ہے کہ کوئی کسی چیز کے متعلق خاص معلومات رکھنے والا شخص وہ چیز فروخت کرنے والے کے پاس جا کر اس کی قیمت اصل قیمت سے زیادہ دینے لگے۔ یہ معاملہ اس وقت ہو جب خریدار وہاں موجود ہو تاکہ خریدار دھوکہ کھا کر اسے بازار کی قیمت سے زیادہ میں خرید لے۔ یعنی اس کی نیت محض خریدار کو دھوکا دینے کی ہو۔ یہ دھوکہ اور فریب کی ایک قسم ہے۔

باب ۸۷۶۔ تولتے وقت جھکاؤ رکھنا۔

باب ۸۷۶۔ مَا جَاءَ فِي الرَّجْحَانِ فِي الْوُزْنِ

۱۱۷۱۔ حضرت سوید بن قیس کہتے ہیں کہ میں اور مخرمہ عبدی ہجر کے مقام پر کپڑا لائے تو آپ تشریف لائے اور ایک پاجامے کا سودا کیا۔ میں نے اجرت پر ایک تولتے والا رکھا ہوا تھا۔ آپ ﷺ نے اسے حکم دیا کہ تولو اور جھکاؤ کے ساتھ تولو۔

۱۱۷۱۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ مَحْمُودٍ وَبْنُ غِيْلَانَ قَالَا ثَنَا وَكَيْعٌ عَنِ سَفِيَانَ عَنْ سَمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَمَةُ الْعَبْدِيُّ بَزًّا مِنْ هَجَرَ فَجَاءَ نَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاوَمَنَا بِسَرَائِيلَ وَعِنْدِي وَزَانٌ يَزِينُ بِالْأَجْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْوَزَانِ زِنْ وَأَرْجِحْ

اس باب میں جابرؓ اور ابو ہریرہؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت سوید کی حدیث حسن صحیح ہے۔ علماء ترازو کے جھکاؤ کو مستحب کہتے ہیں۔ شعبہ یہی حدیث سماک سے اور وہ ابوصفوان سے نقل کرتے ہیں۔

باب ۸۷۷۔ تنگ دست کے لیے قرضے کی ادائیگی میں مہلت اور نرم روی۔

باب ۸۷۷۔ مَا جَاءَ فِي انْتِظَارِ الْمُعْسِرِ وَالرَّفْقِ بِهِ

۱۱۷۲۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص اپنے کسی تنگ دست مقرر کو مزید مہلت دے۔ اور اس کا کچھ قرضہ

۱۱۷۲۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ ثَنَا اسْحَقُ بْنُ سَلِيمَانَ الرَّازِي عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اسْلَمَ عَنْ

(۱) اس کی تفسیر آگے مذکور ہے۔ (مترجم)

بھی معاف کر دے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے جس دن اس کے بظاہر کوئی سایہ نہیں ہوگا۔

أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا وَوَضَعَ لَهُ أَظْلَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ

اس باب میں ابویسر، ابوقادہ، حذیفہ، مسعود اور عبادہؓ بھی حدیثیں نقل کرتے ہیں یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔

۱۱۷۳۔ حضرت ابو مسعودؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم سے پہلی امتوں میں سے کسی شخص کا حساب کیا گیا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہ نکلی لیکن اتنا تھا کہ وہ شخص امیر تھا اور لوگوں سے لین دین کرتا رہتا تھا اور اپنے غلاموں کو حکم دے رکھا تھا کہ اگر کوئی مقروض تنگدست ہو تو اسے معاف کر دیا کرو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: ہم اسے معاف کرنے کا زیادہ حق رکھتے ہیں اسے چھوڑ دو۔

۱۱۷۳۔ حَدَّثَنَا هِنَادٌ ثَنَا أَبُو مَعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ رَجُلًا مُوسِرًا فَكَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ فَكَانَ يَأْمُرُ غُلَامَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ تَجَاوَزُوا عَنْهُ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۸۷۸۔ مَا جَاءَ فِي مَطْلٍ الْغَنِيِّ ظَلَمٌ

باب ۸۷۸۔ مالدار شخص کا قرض کی ادائیگی میں تاخیر کرنا ظلم ہے۔

۱۱۷۴۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: امیر آدمی کی طرف سے ادائیگی قرض میں تاخیر ظلم ہے اور کسی شخص کو کسی مالدار شخص کی طرف تحویل کر دیا جائے تو اسے چاہئے کہ اس سے وصول کرے۔ (۱)

۱۱۷۴۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا سَفِينٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلٌ الْغَنِيِّ ظَلَمٌ وَإِذَا اتَّبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

اس باب میں ابن عمر اور شریذؓ بھی حدیثیں نقل کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر کسی مالدار کی طرف حوالہ کیا جائے تو اس سے وصول کرے۔ بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اس مالدار نے قبول کر لیا تو قرضدار بری ہو گیا وہ اس سے طلب نہیں کر سکتا۔ شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اگر مجال علیہ (جس کی طرف حوالہ کیا گیا) مفلس ہو جائے اور قرض خواہ کا مال ضائع ہو جائے تو اس صورت میں وہ دوبارہ پہلے قرضدار سے رجوع کرنے کا حق رکھتا ہے۔ کیونکہ حضرت عثمانؓ سے منقول ہے کہ ”مسلمان کا مال ضائع نہیں ہو سکتا“۔ احنق بھی اس قول کے یہی معنی بیان کرتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو کسی دوسرے کی طرف حوالہ کر دیا جائے اور وہ بظاہر غنی معلوم ہوتا ہے لیکن درحقیقت مفلس ہو تو اس صورت میں قرض خواہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پہلے قرض دار سے رجوع کرے۔

مسئلہ: اس مسئلے میں حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی مقروض کسی شخص کی طرف تحویل کرے تو حوالہ ہو جاتا ہے لیکن وہ محتال علیہ (جس کی طرف حوالہ کیا گیا ہے) کی زندگی میں پہلے قرض دار کی طرف رجوع نہیں کر سکتا اگرچہ وہ مفلس ہی ہو جائے۔ البتہ اگر وہ اپنے مال کے اس سے ملنے سے مایوس ہو جائے تو اس کے لیے پہلے قرض دار سے رجوع کرنا جائز ہے اور اس کی دو صورتیں ہیں۔ اول یہ کہ محتال علیہ حوالہ کا انکار کر دے اور کوئی گواہ نہ ہو۔ دوم یہ کہ محتال علیہ فوت ہو جائے اور اس کے مال وراثت میں بھی اتنا مال نہ ہو کہ اس کا قرض ادا کیا جاسکے۔ واللہ اعلم (مترجم)

(۱) تحویل حوالہ سے ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی شخص اپنے قرض خواہ سے کہے کہ میرے اوپر جتنا تمہارا قرض ہے تم فلاں شخص سے وصول کر لو تو اسے اس سے وصول کرنا چاہئے۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۸۷۹۔ مَا جَاءَ فِي الْمُنَابَذَةِ وَالْمَلَامَسَةِ

باب ۸۷۹۔ بیع منابذہ اور ملامتہ

۱۱۷۵۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ مَحْمُودُ بْنُ غِيْلَانَ قَالَ

۱۱۷۵۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے بیع منابذہ

ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سَفِيَانَ عَنِ ابْنِ الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اور ملامتہ سے منع فرمایا۔

عَنْ بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمَلَامَسَةِ

اس باب میں ابو سعید اور ابن عمرؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ بیع منابذہ یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے سے کہے کہ جب میں تمہاری طرف کوئی چیز پھینکوں گا تو ہمارے درمیان بیع واجب ہوگی اور بیع ملامتہ یہ ہے کہ اگر میں نے کوئی چیز چھو لی تو بیع واجب ہوگی اگرچہ اس نے کچھ بھی نہ دیکھا ہو۔ مثلاً وہ چیز کسی تھیلے وغیرہ میں ہو یہ اہل جاہلیت کی بیوع ہیں جن سے آنحضرت ﷺ نے منع فرمایا۔

باب ۸۸۰۔ مَا جَاءَ فِي السَّلْفِ فِي الطَّعَامِ وَالتَّمْرِ

باب ۸۸۰۔ غلہ وغیرہ کی قیمت پیشگی ادا کرنا۔

۱۱۷۶۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا سَفِينُ بْنُ أَبِي

۱۱۷۶۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب مدینہ

نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنِ ابْنِ

متورہ تشریف لائے تو وہ لوگ کھجوروں کی قیمت پیشگی ادا کر دیا کرتے

عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تھے۔ آنحضرت ﷺ نے حکم دیا کہ اگر کوئی شخص پیشگی قیمت وصول

الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التَّمْرِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ

کرے تو وزن اور کیل کا مقدر کرنا اور جتنی مدت بعد چیز دینی ہو اس کا

فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

تعیین کرنا ضروری ہے۔ (۱)

اس باب میں ابن ابی اوفی اور عبد الرحمن بن ابی بکرؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اور علماء

اسی پر عمل کرتے ہوئے غلے یا کپڑے اور ان چیزوں کی پیشگی قیمت ادا کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں جن کی حد اور صفت معلوم ہو۔ لیکن

جانوروں کی قیمت کی پیشگی ادائیگی میں اختلاف ہے۔ شافعی، احمد اور اسحاق اسے جائز کہتے ہیں جب کہ بعض صحابہ، سفیان ثوری اور اہل

کوفہ جانوروں کی قیمت پیشگی ادا کرنے کو جائز کہتے ہیں۔

کوفہ جانوروں کی قیمت پیشگی ادا کرنے کو جائز کہتے ہیں۔

کوفہ جانوروں کی قیمت پیشگی ادا کرنے کو جائز کہتے ہیں۔

باب ۸۸۱۔ مَا جَاءَ فِي أَرْضِ الْمُشْتَرِكِ يُرِيدُ بَعْضُهُمْ

باب ۸۸۱۔ مشترکہ زمین میں سے اگر کوئی حصہ دار اپنا حصہ

بِئْتِنَا جَاءَ۔

بیچنا چاہے۔

۱۱۷۷۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَشْرَمٍ ثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ

۱۱۷۷۔ حضرت جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ سَلِيمَانَ بْنِ يَسْكُرِيٍّ عَنْ

اگر کسی شخص کا کسی باغ میں حصہ ہو تو وہ اپنا حصہ اپنے دوسرے شریک کو

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بتائے بغیر فروخت نہ کرے۔

قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي حَائِطٍ فَلَا يَبِيعُ نَصِيْبَهُ مِنْ

ذَلِكَ حَتَّى يَعْرضَهُ عَلَى شَرِيكِهِ

(۱) کیل: ناپ کو کہتے ہیں یعنی وزن اور ناپ مقرر ہو کہ اتنے کلو ہوں گے یا اتنے صاع وغیرہ۔ (مترجم)

اس حدیث کی سند متصل نہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ سلیمان یشکری کی وفات حضرت جابر بن عبد اللہ کی زندگی ہی میں ہوئی۔
 قنادر اور ابو بشر نے ان سے کوئی حدیث نہیں سنی (یعنی سلیمان یشکری سے) مزید کہتے ہیں کہ مجھے علم نہیں کہ سلیمان یشکری سے عمرو بن
 دینار کے علاوہ کسی اور کا سماع ہو۔ انہوں نے بھی شاید حضرت جابر کی زندگی ہی میں ان سے احادیث سنی ہوں۔ اور قنادر، سلیمان یشکری
 کی کتاب سے احادیث نقل کرتے ہیں جس میں انہوں نے جابر بن عبد اللہ سے منقول احادیث لکھی ہوئی تھیں۔ علی بن مدینی، یحییٰ بن
 سعید سے نقل کرتے ہیں کہ سلیمان تمیمی کہتے ہیں کہ ہم جابر بن عبد اللہ کی کتاب حسن بصری کے پاس لے گئے تو انہوں نے اسے رکھ لیا یا
 فرمایا کہ اس سے احادیث نقل کیں پھر لوگ اسے قنادر کے پاس لے گئے تو انہوں نے اس سے روایت کی پھر میرے پاس لائے لیکن میں
 نے اس سے روایت نہیں کی ہمیں یہ باتیں ابو بکر عطاء نے علی بن مدینی کے حوالے سے بتائیں۔

باب ۸۸۲۔ مَا جَاءَ فِي الْمُخَابِرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ

باب ۸۸۲۔ بیع مخابره اور معاومہ۔

۱۱۷۸۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدِ الْوَهَّابِ
 الثَّقَفِيُّ ثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ ابْنِ النَّبِيِّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُرَابَنَةِ
 وَالْمُخَابِرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا
 یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۱۷۸۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے بیع محاقلہ،
 مزربانہ، مخابره (۱) اور معاومہ (۲) کی ممانعت کی لیکن عرایا میں ان کی
 اجازت دی۔

۱۱۷۹۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا الْحِجَّاجُ بْنُ
 مِنْهَالٍ ثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَثَابِتٍ وَ
 حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ غَلَا السَّعْرُ عَلَيَّ عَهْدِ رَسُولِ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعْرٌ
 لَنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَاقُ
 وَإِنِّي لَأَرْجُوا أَنَّ أَلْفِي رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي
 بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ
 یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۱۷۹۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے زمانے میں
 مہنگائی ہوئی تو ہم نے عرض کیا کہ قیمتیں مقرر کر دیجئے۔ فرمایا: قیمتیں
 مقرر کرنے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو روکنے والا بھی ہے
 دینے والا اور کشادگی کرنے والا بھی اور وہی رازق ہے (یعنی رزق میں
 تنگی اور کشادگی اسی کے حکم سے آتی ہے)۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے
 رب سے اس حال میں ملوں کہ کوئی شخص مجھ سے اپنے خون یا مال میں
 ظلم کا مطالبہ کرنے والا نہ ہو۔

باب ۸۸۳۔ بیوع میں ملاوٹ کرنا حرام ہے۔

باب ۸۸۳۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْعَشْرِ فِي الْبَيْعِ

۱۱۸۰۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ ثَنَا اسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ
 عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ مِنْ
 طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَفَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ يَا

۱۱۸۰۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ غلے کے ایک
 ڈھیر کے پاس سے گزرے تو اپنا ہاتھ اس میں داخل کیا۔ آپ ﷺ
 نے اس میں نمی محسوس کی تو فرمایا: یہ کیا ہے؟ غلہ بیچنے والے نے
 عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ بارش کی وجہ سے گیلا ہو گیا ہے۔ آپ ﷺ

(۱) محاقلہ، مزربانہ اور مخابره کے معنی باب "ما جاء في النهي عن الشبا" میں گزر چکی ہیں۔

(۲) معاومہ: یہ ہے کہ پھلوں کو پیداوار سے پہلے ہی ایک یا دو سال کے لیے بیچ دیا جائے۔ یہ بھی بیع غرر میں شامل ہے کیونکہ پیداوار مجہول ہے۔ (مترجم)

صَاحِبِ الطَّعَامِ مَا هَذَا قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا
رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَقْلًا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ
النَّاسُ ثُمَّ قَالَ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا
نے فرمایا: تم نے اس بھیگے ہوئے مال کو اوپر کیوں نہیں رکھ دیا تاکہ
لوگ دیکھ سکیں۔ پھر فرمایا: جو ملاوٹ یا فریب کرے گا۔ اس کا ہم
سے کوئی تعلق نہیں۔

اس باب میں حضرت ابن عمرؓ، ابو حراءؓ، ابن عباسؓ، بریدہؓ، ابو بردہ بن نیارؓ، اور حذیفہ بن یمانؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔
حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ علماء اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے غشی یعنی دھوکے بازی اور ملاوٹ کو حرام کہتے ہیں۔

باب ۸۸۴۔ مَاحَاءَ فِي اسْتِقْرَاضِ الْبَعِيرِ أَوْ الشَّيْءِ ۵

باب ۸۸۳۔ اَوْنْتُ يَا كُوَيْ جَانور قرض لینا۔

مِنَ الْحَيَوَانِ

۱۱۸۱۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
صَالِحٍ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ عَنْ ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَقْرَضَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ سِنًا فَأَعْطَى سِنًا خَيْرًا مِنْ سِنِّهِ وَقَالَ خَيْرًا كُمْ
أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً
۱۱۸۱۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ایک جوان
اونٹ بطور قرض لیا اور ادائیگی کے وقت اس سے بہتر اونٹ دیا۔ پھر
فرمایا: تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں۔ جو بہترین طریقے سے قرض ادا
کرتے ہیں۔

اس باب میں ابورافعؓ بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اسے شعبہ اور سفیان، سلمہ سے نقل کرتے
ہیں۔ چنانچہ بعض علماء کے نزدیک اونٹ بطور قرض لینے میں کوئی مضاقت نہیں۔ شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ جب کہ بعض
علماء اسے مکروہ کہتے ہیں۔

۱۱۸۲۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا وَهْبُ بْنُ
حَرِيرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا تَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ فَإِنَّ
لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا وَقَالَ اشْتَرُوا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْطُوهُ
إِيَّاهُ فَطَلَبُوهُ فَلَمْ يَجِدُوا إِلَّا سِنًا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ فَقَالَ
اشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً
۱۱۸۲۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرت
ﷺ سے قرض کا تقاضا کیا اور کچھ بدتمیزی سے پیش آیا۔ صحابہؓ نے
اسے جواب دینے کا ارادہ کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: اسے چھوڑ دو۔
اگر کسی کا کسی پر حق ہوتا ہے تو وہ اسی طرح بات کرتا ہے۔ اس کے
لیے ایک اونٹ خریدو اور اسے دو۔ صحابہ نے تلاش کیا تو اس
کے اونٹ سے بہتر اونٹ ملا اس جیسا نہ مل سکا۔ آپ ﷺ نے فرمایا:
اسے خرید کر اسے دو۔ دو۔ تم میں سے بہتر وہی ہے جو قرض ادا
کرتے وقت اچھی چیز دے۔

محمد بن بشار، محمد بن جعفر سے وہ شعبہ سے اور وہ سلمہ بن کہیل سے اسی کے مثل حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۱۸۳۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ ثَنَا رُوحُ بْنُ عِبَادَةَ ثَنَا
مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ إِسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَّارٍ
عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكْرًا
۱۱۸۳۔ آنحضرت ﷺ کے آزاد کردہ غلام ابورافعؓ فرماتے ہیں کہ
آنحضرت ﷺ نے ایک جوان اونٹ بطور قرض لیا۔ پھر جب آپ ﷺ
کے پاس زکوٰۃ کے اونٹ آئے تو مجھے حکم دیا کہ اس شخص کو اونٹ دے
دوں میں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! ان میں سے کوئی جوان اونٹ

نہیں ہے ہاں اس سے بہتر چار دانت والا ضرور ہے آپ ﷺ نے فرمایا: وہی دے دو کیونکہ بہترین لوگ وہ ہیں جو بہترین چیز سے قرض ادا کرتے ہیں۔

فَجَاءَ تُوَيْبَةَ ابْنُ مَرْثَدَةَ قَالَ أَبُو رَافِعٍ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَةَ فَقُلْتُ لَا أَجِدُ فِي الْإِبِلِ إِلَّا جَمَلًا خَيْرًا رُبَاعِيًّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۱۸۴۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نرم روی کے ساتھ خرید و فروخت کرنے اور نرمی ہی کے ساتھ قرض ادا کرنے کو پسند کرتے ہیں۔

۱۱۸۴۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ ثنا اسحاق بن سليمان عن مغيرة بن مسلم عن يونس عن الحسن بن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب ستمح البيع ستمح الشراء ستمح القضاء

اس باب میں حضرت جابرؓ سے بھی حدیث منقول ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث غریب ہے۔ بعض راوی اسے یونس سے وہ سعید مقبری سے اور وہ ابو ہریرہؓ سے نقل کرتے ہیں۔

۱۱۸۵۔ حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے ایک شخص کی اس لیے بخشش کر دی کہ وہ جب کوئی چیز فروخت کرتا تو آسانی اور نرمی کے ساتھ، جب خریدتا تو اسی طرح اور جب کبھی قرض کا تقاضا کرتا تو بھی سہولت اور نرمی کو ملحوظ رکھتا۔

۱۱۸۵۔ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ثنا عبد الوهاب بن عطاء ثنا اسرائيل عن زيد بن عطاء بن السائب عن مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَبِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَفَرَ اللَّهُ لِرَجُلٍ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَ سَهْلًا إِذَا بَاعَ سَهْلًا إِذَا اشْتَرَى سَهْلًا إِذَا اقْتَضَى
یہ حدیث اس سند سے غریب صحیح ہے۔

باب ۸۸۵۔ مسجد میں خرید و فروخت کی ممانعت
۱۱۸۶۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اگر تم کسی کو مسجد میں خرید و فروخت کرتے دیکھو تو کہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تجارت کو نفع بخش نہ بنائے اور اگر کوئی مسجد میں کسی چیز کے گم ہوجانے کا اعلان کرے تو کہو کہ اللہ تمہاری چیز نہ لوٹائے۔

باب ۸۸۵۔ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ
۱۱۸۶۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ ثنا عارم ثنا عبد العزيز بن محمد قال اخبرني يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن توبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك و إذا رأيتم من يشتد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك

حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن غریب ہے اور بعض اہل علم اسی پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسجد میں خرید و فروخت حرام ہے احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے جب کہ بعض علماء مسجد میں خرید و فروخت کی اجازت دیتے ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

أَبْوَابُ الْأَحْكَامِ عَنْ

رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب ۸۸۶۔ مَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَاضِي

۱۱۸۷۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ أَنَّ عُمَانَ قَالَ لِابْنِ عُمَرَ أَذْهَبَ فَاَقْضِ بَيْنَ النَّاسِ قَالَ أَوْ تَعَايَنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ فَمَا تَكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ وَقَدْ كَانَ أَبُوكَ يَقْضِي قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضَى بِالْعَدْلِ فَبِالْحَرِيِّ أَنْ يَنْقَلِبَ مِنْهُ كَفَافًا فَمَا أَرْجُوا بَعْدَ ذَلِكَ وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رسول اللہ ﷺ سے حکومت اور قضاء وغیرہ کے متعلق

منقول احادیث کے ابواب

باب ۸۸۶۔ قاضی کے متعلق آنحضرت ﷺ سے منقول احادیث۔

۱۱۸۷۔ حضرت عبداللہ بن مہوب کہتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ نے ابن عمرؓ سے فرمایا: جاؤ اور لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرو۔ انہوں نے کہا: اے امیر المؤمنین! آپ مجھے اس کام سے معاف کیجئے۔ حضرت عثمانؓ نے پوچھا کہ تم اسے کیوں اچھا نہیں۔ سمجھتے حالانکہ تمہارے والد تو فیصلے کیا کرتے تھے۔ ابن عمرؓ نے عرض کیا میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ ”جس نے قاضی بن کر لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلے کیے تو امید ہے کہ وہ برابر برابر چھوٹ جائے۔“ اس کے بعد بھی کیا میں اس کی امید رکھوں؟ اس حدیث میں ایک قصہ بھی ہے۔

اس باب میں ابو ہریرہؓ سے بھی حدیث منقول ہے۔ حضرت ابن عمرؓ کی حدیث غریب ہے۔ میرے نزدیک اس کی سند متصل نہیں۔

عبدالملک جو مختصر سے نقل کرتے ہیں وہ ابو جلیلہ کے بیٹے ہیں۔

۱۱۸۸۔ حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی شخص منصب قضاء طلب کرتا ہے تو اسے اس کو سوپ دیا جاتا ہے (اور اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نہیں کی جاتی) اور جس شخص پر جبراً یہ عہدہ مسلط کیا جاتا ہے اس کی مدد اور غلط راستے پر جانے سے روکنے کے لیے ایک فرشتہ اترتا ہے۔

۱۱۸۸۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ اسْرَائِيلَ عَنْ عَبْدِ الْاَعْلَى عَنْ بِلَالِ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ الْقَضَاءَ وَكَلَّ إِلَى نَفْسِهِ مِنْ جُبْرِ عَلَيْهِ يَنْزِلُ عَلَيْهِ مَلَكٌ فَيَسِدُّهُ

۱۱۸۹۔ خیمہ بصری، حضرت انسؓ سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جو قضاء کے عہدے پر فائز ہونا چاہتا ہے اور اس کے لیے سفارشیں کرتا ہے اسے اس کے نفس پر چھوڑ دیا جاتا ہے یعنی نبی مدد نہیں ہوتی اور جسے زبردستی اس منصب پر فائز کیا جاتا ہے اس کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اتارتے ہیں۔

۱۱۸۹۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَادٍ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْاَعْلَى الثَّعْلَبِيِّ عَنْ بِلَالِ بْنِ مَرْدَسِ الْفَزَارِيِّ عَنْ خَيْثَمَةَ وَهُوَ الْبَصْرِيُّ عَنْ أَنَسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ابْتَغَى الْقَضَاءَ وَسَأَلَ فِيهِ شُفْعَاءَ وَكَلَّ إِلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ أَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْهِ مَلَكًا يُسِدُّهُ

یہ حدیث حسن غریب ہے اور اسرائیل کی ابو الاعلیٰ سے منقول حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔

۱۱۹۰۔ حدثنا نصر بن علی الجهضمی ثنا الفضیل بن سلیمان عن عمرو بن عمرو عن سعید المقبری عن ابی هريرة قال قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ أَوْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ

۱۱۹۰۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص قضاء کے منصب پر فائز ہو یا فرمایا جسے لوگوں کا قاضی مقرر کیا گیا گویا کہ وہ بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا۔

یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے اور اس کے علاوہ اور سند سے بھی حضرت ابو ہریرہ سے مرفوعاً منقول ہے۔

باب ۸۸۷۔ مَا جَاءَ فِي الْقَاضِي يُصِيبُ وَيُخْطِئُ

باب ۸۸۷۔ قاضی کا اجتہاد صحیح بھی ہوتا ہے اور کبھی اس سے خطا بھی ہو جاتی ہے۔

۱۱۹۱۔ حدثنا حسين بن مهدى ثنا عبدالرزاق عن معمر عن سفیان الثوری عن یحیی بن سعید عن ابی بکر من محمد بن بن عمر بن حزم عن ابی سلمة ابی هريرة قال قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَأَخْطَا فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ

۱۱۹۱۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی حاکم حکم کرتے ہوئے اصابت حق کی کوشش کرتا ہے تو اگر وہ اس میں کامیاب ہو جائے تو اس کے لیے دو اجر ہیں۔ (یعنی ایک حق دار کو حق دلوانے کا اور دوسرا کوشش یعنی اجتہاد کرنے کا) اور اگر کامیاب نہ ہو تو اس کے لیے ایک اجر ہے۔

اس باب میں عمرو بن عاص اور عقبہ بن عامر سے بھی احادیث نقل کی گئی ہیں۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ ہم اسے سفیان ثوری کی یحییٰ بن سعید سے روایت کے متعلق عبدالرزاق کی سند کے علاوہ کسی اور سند سے نہیں جانتے وہ معمر سے اور وہ سفیان ثوری سے نقل کرتے ہیں۔

باب ۸۸۸۔ مَا جَاءَ فِي الْقَاضِي كَيْفَ يَقْضِي

باب ۸۸۸۔ قاضی کس طرح فیصلے کرے

۱۱۹۲۔ حدثنا هنادنا وكيع عن شعبة عن ابی عون عن الحارث بن عمرو عن رجال من اصحاب معاذ عن معاذ ان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ كَيْفَ تَقْضِي فَقَالَ أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَجْتَهْدُ رَأْيِي قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضَى

۱۱۹۲۔ حضرت معاذ سے منقول ہے کہ آنحضرت ﷺ نے انہیں یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تو پوچھا تم کس طرح فیصلے کرو گے۔ عرض کیا: اللہ کی کتاب قرآن مجید کے حکم کے مطابق آپ ﷺ نے فرمایا اگر قرآن میں وہ حکم نہ ملتا تو؟ عرض کیا: اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق۔ فرمایا: اگر سنت میں بھی نہ ملے تو؟ عرض کیا: تو اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے اللہ کے رسول کے رسول کو توفیق بخشی۔

محمد بن یسار، محمد بن جعفر اور عبد الرحمن بن مہدی سے وہ دونوں شعبہ سے وہ ابو یعون سے وہ حارث سے وہ کئی اہل حمص راویوں سے اور وہ حضرت معاویہ سے اسی کی مانند حدیث مرفوعاً نقل کرتے ہیں ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں اور یہ سند متصل نہیں۔ ابو یعون ثقی کا نام محمد بن عبید اللہ ہے۔

باب ۸۸۹۔ عادل امام کے متعلق۔

باب ۸۸۹۔ مَا جَاءَ فِي الْإِمَامِ الْعَادِلِ

۱۱۹۳۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن اللہ کا سب سے زیادہ محبوب اور اس کے سب سے زیادہ نزدیک بیٹھنے والا شخص عادل حاکم ہوگا۔ اور سب سے زیادہ زیر غضب اور سب سے دور بیٹھنے والا ظالم ہوگا۔

۱۱۹۳۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْكَدِرِ الْكُوفِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنْ فَضِيلِ بْنِ مَرْزُوقٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ عَادِلٌ وَ أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ اللَّهُ وَ أَبْعَدُهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامًا جَائِرٌ

اس باب میں ابن ابی اوفی سے بھی حدیث منقول ہے۔ حضرت ابو سعید کی حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

۱۱۹۴۔ حضرت ابن ابی اوفی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قاضی کے ساتھ اللہ کی مدد اور تائید اس وقت تک رہتی ہے جب تک وہ ظلم نہیں کرتا۔ لہذا جب وہ ظلم کرتا ہے تو اللہ کی مدد کنارہ کشی اختیار کر لیتی ہے اور شیطان اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔

۱۱۹۴۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو بَكْرٍ الْعَطَّارُ ثنا عاصم بن عمر بن عاصم ثنا عمران القطان عن أبي إسحاق الشيباني عن ابن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله مع القاضي ما لم يجر فإذا جأر تخلى عنه ولزمه الشيطان

یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرف عمران بن قطان کی حدیث سے جانتے ہیں۔

باب ۸۹۰۔ قاضی اس وقت تک فیصلہ نہ کرے جب تک فریقین کے بیانات نہ سن لے۔

باب ۸۹۰۔ مَا جَاءَ فِي الْقَاضِي لَا يَقْضِي بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَهُمَا

۱۱۹۵۔ حضرت علیؑ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ اگر تمہارے پاس دو شخص کوئی مقدمہ پیش کریں تو پہلے کا بیان سننے کے بعد کبھی فیصلہ نہ کرو۔ جب تک دوسرے کا بھی بیان نہ سن لو۔ اس طرح تمہیں معلوم ہو جائے۔ کہ کیا فیصلہ کرنا چاہئے حضرت علیؑ کہتے ہیں: اس کے بعد میں ہمیشہ فیصلہ کرتا رہا۔

۱۱۹۵۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الْجَعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سَمَّاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ حَنْشِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الأَخْرِ فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي قَالَ عَلِيٌّ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ

یہ حدیث حسن ہے۔

باب ۸۹۱۔ رعایا کے حاکم سے متعلق۔

باب ۸۹۱۔ مَا جَاءَ فِي إِمَامِ الرَّعِيَّةِ

۱۱۹۶۔ حضرت عمرو بن مرہ نے معاویہؓ سے کہا کہ میں نے آنحضرت ﷺ سے سنا کہ اگر کوئی حاکم اپنی رعایا کے حاجت مندوں محتاجوں اور مسکینوں کے لیے اپنے دروازے بند کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجات، ضروریات اور فقر کو دور کرنے سے پہلے آسمانوں کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اس پر معاویہؓ نے اسی وقت ایک شخص کو لوگوں کی ضروریات سے مطلع کرنے کے لیے مقرر کر دیا۔

۱۱۹۶۔ حدثنا احمد بن منيع ثنا اسمعيل ابن ابراهيم قال ثني على بن الحكم ثني ابو الحسن قال قال عمرو بن مرة انه قال لمعاوية اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امام يعلق بابه دون ذوى الحاجة والحلة والمسكنة الا اغلق الله ابواب السماء دون خلته و حاجته و مسكنته فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس

اس باب میں ابن عمرؓ بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت عمرو بن مرہ کی حدیث غریب ہے اور ایک اور سند سے بھی منقول ہے۔ عمرو بن مرہ چہنی کی کنیت ابو مریم ہے۔ علی بن حجر، یحییٰ بن حمزہ سے وہ یزید بن ابی مریم سے وہ قاسم بن مغیرہ سے اور وہ ابو مریمؓ (جو صحابی ہیں) اس کے ہم معنی حدیث نقل کرتے ہیں۔

باب ۸۹۲۔ قاضی غصہ کی حالت میں فیصلہ نہ کرے۔
۱۱۹۷۔ حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرؓ کہتے ہیں کہ میرے والد نے عبید اللہ بن ابی بکرؓ (جو قاضی تھے) کو لکھا کہ دو آدمیوں کے درمیان غصہ کی حالت میں کبھی فیصلہ نہ کرنا کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ کوئی حاکم غصہ کی حالت میں کبھی فیصلہ نہ کرے۔

باب ۸۹۲۔ مَا جَاءَ لَا يَقْضِي الْقَاضِي وَهُوَ غَضَبًا
۱۱۹۷۔ حدثنا قتيبة ثنا ابو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن ابي بكر قال كتب ابي الى عبيد الله ابن ابي بكر وهو قاض ان لا تحكم بين اثنين وانت غضبان فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابو بکرؓ کا نام نفع ہے۔

باب ۸۹۳۔ امراء کو تجھے تخائف دینا۔
۱۱۹۸۔ حضرت معاذ بن جبلؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے مجھے یمن بھیجا تو میں روانہ ہو گیا۔ آپ ﷺ نے میری روانگی کے بعد کسی شخص کو مجھے بلانے کے لیے بھیجا۔ میں واپس آیا تو فرمایا: جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بلایا؟ (یہ کہنے کیلئے کہ) میری اجازت کے بغیر کبھی کسی سے کوئی چیز نہ لینا۔ اس لیے کہ یہ خیانت ہے۔ اور جو شخص کسی چیز میں خیانت کرے گا وہ اسے لے کر قیامت کے دن حاضر ہوگا۔ میں نے یہی کہنے کے لیے تمہیں بلایا تھا۔ اب جاؤ۔

باب ۸۹۳۔ مَا جَاءَ فِي هَذَا الْأَمْرَاءِ
۱۱۹۸۔ حدثنا ابو كريب ثنا ابو اسامة عن داود بن يزيد الاودي عن المغيرة بن شبيب عن قيس بن ابي حازم عن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن فلما سرت ارسل في اترى فرددت فقال اتدرى لم بعثت اليك لا تصيبن شيئا بغير اذني فانه غلول ومن يغلل يات بما غل يوم القيامة لهذا دعوتك وامض لعمرك

اس باب میں عدی بن عیسرہ، بریدہ، مستور بن شداد، ابو حمید اور ابن عمرؓ بھی حدیثیں نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف ابو اسامہ کی روایت والی سند سے جانتے ہیں۔ وہ داؤد اودی سے نقل کرتے ہیں۔

باب ۸۹۴۔ مَا جَاءَ فِي الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ

باب ۸۹۴۔ مقدمات میں رشوت لینے اور دینے والے کے متعلق۔

۱۱۹۹۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا ابُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي

۱۱۹۹۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مقدمات میں

سَلْمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ

رشوت لینے اور دینے والے دونوں پر لعنت بھیجی۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ

اس باب میں عبد اللہ بن عمرو، عائشہ، ابن ابی حدیدہ اور ام سلمہ سے بھی حدیثیں منقول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث حسن ہے اور

ابو سلمہ سے بھی منقول ہے وہ اپنے والد سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں لیکن یہ روایت صحیح نہیں۔ میں نے عبد اللہ بن عبد الرحمن

سے سنا کہ حضرت ابو سلمہ کی عبد اللہ بن عمرو کے حوالے سے آنحضرت ﷺ سے منقول حدیث اس باب کی سب سے زیادہ صحیح حدیث ہے۔

ابو موسیٰ محمد بن ثنی، ابو عامر عقدی سے وہ ابن ابی ذئب سے وہ خالد حارث بن عبد الرحمن سے وہ ابو سلمہ سے اور وہ عبد اللہ بن عمرو سے نقل

کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے رشوت لینے اور دینے والے دونوں پر لعنت بھیجی ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۸۹۵۔ مَا جَاءَ فِي قُبُولِ الْهُدْيَةِ وَاجَابَةِ الدَّعْوَةِ

باب ۸۹۵۔ دعوت اور ہدیہ قبول کرنا۔

۱۲۰۰۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيْعٍ ثَنَا بَشْرُ

۱۲۰۰۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر

بْنِ الْمُفَضَّلِ ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

مجھے بکری کا ایک کھر بھی ہدیے میں دیا جائے۔ تو میں قبول کر لوں اور اگر

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَهْدَيْتَنِي

اس پر دعوت دی جائے تو ضرور جاؤں۔

إِلَى كُرَاعٍ لَقَبَيْتُكَ وَلَوْ دُعِيْتُ عَلَيْهِ لَأَجَبْتُ

باب ۸۹۶۔ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ عَلَى مَنْ يُفْضَى لَهُ

باب ۸۹۶۔ اگر حاکم کا فیصلہ ایسے شخص کے حق میں ہو جائے جو

بَشِيءٌ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ

درحقیقت مالک نہ ہو اس کے متعلق وعید

۱۲۰۱۔ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ اسْحَقَ الْهَمْدَانِيُّ ثَنَا

۱۲۰۱۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم لوگ اپنے

عَبْدَةَ بْنِ سَلِيمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

تنازعات لے کر میرے پاس آتے ہوتا کہ میں تمہارے درمیان فیصلہ

زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ

کروں میں بھی ایک انسان ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَ

دوسرے کے مقابلہ میں اپنا دعویٰ اور دلیل پیش کرنے کی زیادہ

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنُّ بِحُجَّتِهِ

استطاعت رکھتا ہو۔ لہذا اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ میں کسی کا حق کسی

مَنْ بَعْضٍ فَإِنْ فَضَيْتُ لِأَخِي مِنْكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ

دوسرے کو دے دوں تو گویا کہ میں اسے دوزخ کی آگ کا ایک ٹکڑا

أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا

دے رہا ہوں۔ اسے چاہئے کہ اس میں سے بالکل نہ لے۔

اس باب میں ابو ہریرہ اور عائشہ سے بھی حدیثیں نقل کی گئی ہیں۔ حضرت ام سلمہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۸۹۷۔ مَا جَاءَ أَنَّ الْبَيْتَةَ عَلَى الْمُدْعَى وَالْمُجِيبِ

باب ۸۹۷۔ مدعی کے لیے گواہ اور مدعا علیہ کے لیے قسم کے متعلق۔

عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ

۱۲۰۲۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا ابُو الْاِحْوَصِ عَنْ سَمَاكِ بْنِ

۱۲۰۲۔ حضرت علقمہ بن وائل اپنے والد سے نقل کرتے ہیں۔ کہ

حَرْبٍ عَنْ عُلْقَمَةَ بْنِ وَأَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ

حضرت موت اور کندہ سے ایک ایک شخص آنحضرت ﷺ کی خدمت

میں آیا اور کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر

میں حاضر ہوا۔ حضرمی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اس نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ کندی نے عرض کیا: وہ میری زمین ہے میرے ہاتھ میں ہے کسی کا اس پر کوئی حق نہیں۔ آنحضرت ﷺ نے حضرمی سے پوچھا: کیا تمہارے پاس گواہ ہیں؟ کہنے لگا: نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: پھر تم اس سے قسم لے سکتے ہو۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ تو فاجر آدمی ہے قسم اٹھالے گا۔ پھر اس میں پرہیزگاری بھی نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تم اس سے قسم کے علاوہ کچھ نہیں لے سکتے۔ چنانچہ اس نے قسم کھائی اور جانے کے لیے مڑا تو آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: اگر اس نے اس کا مال ظلم کے ساتھ کھانے کے لیے قسم کھائی ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت اللہ رب العزت اس سے منہ پھیر لیں گے۔

مَنْ حَضَرَ مَوْتَ وَرَجُلٍ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ لِي فَقَالَ الْكِنْدِيُّ هِيَ أَرْضِي وَفِي يَدِي لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَضْرَمِيِّ أَلَيْسَ بَيْنَهُمَا قَالَ لَا قَالَ فَكَفَّ يَمِينَهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لَا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ قَالَ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ لِيُحْلِفَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَدْبَرَ لِيَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا لِيُفَيِّنَ اللَّهُ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ

اس باب میں حضرت عمرؓ، ابن عباسؓ اور اشعث بن قیسؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت وائل بن حجرؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۲۰۳۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: مدعی کے لیے گواہ پیش کرنا اور مدعا علیہ کے لیے قسم کھانا ضروری ہے۔

۱۲۰۳۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَسْهَرٍ وَغَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ أَلَيْسَ عَلَى الْمُدْعَى وَالْيَمِينِ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ

اس کی سند میں کلام ہے۔ محمد بن عبید اللہ عزمی حافظ کی وجہ سے ضعیف ہیں۔ انہیں ابن مبارک وغیرہ ضعیف کہتے ہیں۔

۱۲۰۴۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فیصلہ کیا کہ مدعا علیہ قسم کھائے۔

۱۲۰۴۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ بْنُ عَسْكَرِ الْبَغْدَادِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَوْسُفَ ثَنَا نَافِعُ بْنُ عَمْرِو الْحَمَّحِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَلِيكَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اہل علم صحابہ وغیرہ اسی پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں مدعی کو گواہ پیش کرنا ضروری ہے لیکن اگر گواہ نہ ہوں تو مدعا علیہ قسم کھائے گا۔

باب ۸۹۸۔ اگر ایک گواہ ہو تو مدعی قسم کھائے گا۔

باب ۸۹۸۔ مَا جَاءَ فِي الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

۱۲۰۵۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک گواہ اور مدعی کی قسم پر فیصلہ کیا۔ ربیعہ کہتے ہیں کہ سعد بن عبادہ کے ایک بیٹے

۱۲۰۵۔ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورِيُّ ثَنَا عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَى رُبَيْعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ

نے مجھے بتایا کہ ہم نے سعد کی کتاب میں پڑھا کہ آنحضرت ﷺ نے ایک گواہ اور مدعی کی قسم پر فیصلہ کیا۔

عَنْ شُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ قَالَ رَبِيعَةُ وَ أَخْبَرَنِي ابْنُ لِسْعَدِ بْنِ عُنَادَةَ قَالَ وَجَدْنَا فِي كِتَابِ سَعْدِ بْنِ أَبِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

اس باب میں علیؓ، جابرؓ، ابن عباسؓ اور سُرَّقؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن غریب ہے۔

۱۲۰۶۔ حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ کیا۔

۱۲۰۶۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي نُوَيْرَةَ قَالَا نَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

۱۲۰۷۔ حضرت جعفر بن محمد اپنے والد سے نقل کرتے ہیں۔ کہ آنحضرت ﷺ نے ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ کیا پھر علیؓ نے بھی تمہارے درمیان اسی پر فیصلہ کیا۔

۱۲۰۷۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ نَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ وَقَضَى بِهَا عَلِيُّ بْنُكُمْ

یہ حدیث سب سے زیادہ صحیح ہے۔ سفیان ثوری بھی جعفر بن محمد سے وہ اپنے والد سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے مرسلہ اسی کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔ عبدالعزیز بن ابی سلمہ اور یحییٰ بن سلیم بھی یہ حدیث جعفر بن محمد سے وہ اپنے والد سے اور وہ حضرت علیؓ سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں۔ بعض علماء صحابہ وغیرہ اسی پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر مدعی کے پاس ایک ہی گواہ ہو تو دوسرے گواہ کے بدلے اس سے قسم لی جائے۔ یہ حقوق و اموال میں جائز ہے۔ امام مالک کا بھی یہی قول ہے۔ امام شافعی، احمد اور اسحاق بھی ایک گواہ اور قسم پر حقوق و اموال میں فیصلہ کرنے کو جائز سمجھتے ہیں۔ جب کہ بعض اہل کوفہ کہتے ہیں کہ ایک گواہ کے بدلے مدعی سے قسم لے کر فیصلہ کرنا جائز نہیں۔

توضیح: احناف (اہل کوفہ) کا یہ مسلک صرف اموال میں ہے۔ یعنی اگر مدعی کے پاس ایک ہی گواہ ہو تو اس سے قسم لے کر فیصلہ کرنا جائز نہیں بلکہ مدعی کے لیے دو گواہوں کا پیش کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: "وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَان لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٍ وَامْرَأَتَانِ" یعنی دو آدمیوں کو بطور گواہ پیش کرو اور اگر دو آدمی نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہی دیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے "وَاشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ" یعنی دو مرد گواہ پیش کرو جو عادل بھی ہوں۔ ان آیات قرآنیہ کے علاوہ آنحضرت ﷺ سے بھی منقول ہے کہ فرمایا: "مدعی گواہ پیش کرے ورنہ مدعا علیہ کی قسم پر فیصلہ کیا جائے گا"۔ اس حدیث کے متعلق امام نووی کہتے ہیں کہ یہ شریعت کے قواعد میں سے قاعدہ کلیہ ہے چنانچہ مذکورہ بالا دلائل کے مقابلے میں خبر واحد قابل استدلال نہیں اور اس خبر واحد سے قرآن کی آیت کو منسوخ قرار نہیں دیا جاسکتا۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۸۹۹۔ اگر ایک غلام دو آدمیوں کے درمیان مشترک ہو اور ایک اسے آزاد کرے۔

باب ۸۹۹۔ مَا جَاءَ فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدَهُمَا نَصِيْبَهُ

۱۲۰۸۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے کسی

۱۲۰۸۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ

مشترک غلام کے اپنے حصے کو آزاد کیا۔ اور اس آزاد کرنے والے کے پاس اتنا مال ہے کہ اس غلام کی بازاری قیمت کے برابر پہنچتا ہے تو وہ غلام آزاد ہو گیا۔ وگرنہ وہ اتنا ہی آزاد ہوا جتنا اس کا حصہ تھا۔ کبھی نافع اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے یعنی کا لفظ بڑھا دیا کرتے تھے ”یعنی اتنا ہی آزاد ہوا..... الخ“ راوی کو شک ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ”نصیباً فرمایا شقصاً یا شر کا“ یہ تمام الفاظ ایک ہی معنی میں آتے ہیں۔

ابراہیم عن أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ قَالَ شَقِصًا أَوْ قَالَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَلْبُغُ نَمَنَهُ بِقِيَمَةِ الْعَدْلِ فَهُوَ عَتِيقٌ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ قَالَ أَيُّوبُ وَ رَبَّمَا قَالَ نَافِعٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ يَعْنِي فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ

حضرت ابن عمرؓ کی حدیث حسن ہے۔ سالم نے یہ حدیث اپنے والد سے اور انہوں نے آنحضرت ﷺ سے نقل کی ہے۔

۱۲۰۹۔ حضرت سالم اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے کسی مشترک غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کیا تو اگر آزاد کرنے والے کے پاس اتنا مال ہے کہ غلام کی قیمت پوری ہو جاتی ہے تو وہ غلام آزاد ہے یعنی اسے چاہئے کہ تمام شریکوں کو ان کے حصے کی قیمت ادا کر کے غلام کو مکمل آزاد کر دے۔

۱۲۰۹۔ حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال ثنا عبدالرزاق ثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَلْبُغُ نَمَنَهُ فَهُوَ عَتِيقٌ مِنْ مَالِهِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۲۱۰۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے کسی مشترک غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کیا تو اگر وہ مالدار ہے تو اسے پورا آزاد کرانے اور اگر غریب ہے تو غلام کی بازار کے مطابق صحیح قیمت مقرر کی جائے اور پھر جو حصہ آزاد نہیں ہوا اس کے مطابق سعی کرائی جائے لیکن اس پر بار نہ ڈالا جائے۔ (۱)

۱۲۱۰۔ حدثنا علي بن خشرم ثنا عيسى بن يونس عن سعيد بن ابى عمرو عن قتادة عن النضر بن انس عن بشير بن نهيك عن ابي هريرة قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ قَالَ شَقِصًا فِي مَمْلُوكٍ فَخَلَّاهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فُؤَمَ قِيَمَةِ عَدْلِ ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتَقَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ

اس باب میں عبد اللہ بن عمروؓ بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ محمد بن بشر، یحییٰ بن سعید سے اور وہ سعید بن ابی عمرو سے اسی کے مثل حدیث نقل کرتے ہیں۔ اس میں ”شقصاً“ کا لفظ ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابان بن یزید بھی قتادہ سے اور وہ سعید بن ابی عمرو سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ شعبہ یہ حدیث قتادہ سے نقل کرتے ہوئے غلام سے سعی کرانے کا ذکر نہیں کرتے اس میں علماء کا اختلاف ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ اس غلام سے سعی کرائی جائے۔ سفیان ثوری، اہل کوفہ اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں۔ جب کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی غلام دو شخصوں کے درمیان مشترک ہو اور ایک اپنا حصہ آزاد کر دے تو اگر وہ مالدار ہے تو اپنے شریک کے حصے کا بھی ضامن ہوگا۔ ورنہ جتنا وہ آزاد ہوا ہے اس سے سعی کرانے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ ابن عمرؓ آنحضرت ﷺ سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ اہل مدینہ، مالک، شافعی اور احمد کا بھی یہی قول ہے۔

(۱) اس کے معنی آزادی حاصل کرنے کے لیے کام کرنے کے ہیں۔ (مترجم)

باب ۹۰۰۔ مَا جَاءَ فِي الْعُمَرَى

باب ۹۰۰۔ عمری کے متعلق (۱)

۱۲۱۱۔ حدثنا محمد بن المنثري ثنا ابن ابى عدى عن سعيد عن قتادة سمرة أنّ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمَرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا أَوْ مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا

۱۲۱۲۔ حدثنا الانصاري ثنا معن ثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أنّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ عُمَرَى لَهُ وَلَعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا لَا تَرْجِعُ إِلَيَّ الَّذِي أَعْطَاهَا لِإِنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ

۱۲۱۳۔ حدثنا احمد بن حنبل ثنا ابو هريرة، عائشة، ابن زبير اور معاوية بھی احاديث نقل کرتے ہیں۔

۱۲۱۴۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی گھر کسی کو پوری عمر رہنے کے لیے دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ گھر تمہارے لیے ہے اور تمہارے وارثوں کے لیے ہے۔ تو وہ اسی کار ہے گا جسے دیا گیا ہے اور جس نے اسے دیا ہے دوبارہ اس کا نہیں ہوگا اس لیے کہ اس نے ایسی چیز دی جس میں وارثوں کا حق ہو گیا۔

۱۲۱۱۔ حضرت سمرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی گھر کسی کو پوری عمر رہنے کے لیے دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ گھر تمہارے لیے ہے اور تمہارے وارثوں کے لیے ہے۔ تو وہ اسی کار ہے گا جسے دیا گیا ہے اور جس نے اسے دیا ہے دوبارہ اس کا نہیں ہوگا اس لیے کہ اس نے ایسی چیز دی جس میں وارثوں کا حق ہو گیا۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسے معمر اور کئی راوی بھی زہری سے مالک ہی کی حدیث کے مثل نقل کرتے ہیں۔ بعض زہری سے نقل کرتے ہوئے لفظ 'ولعقبہ' محذوف کر دیتے ہیں۔ بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ اگر کسی نے دوسرے سے کہا کہ یہ گھر تمہاری زندگی تک تمہارے اور تمہارے وارثوں کے لیے ہے تو وہ اسی کا ہو جائے گا اسے واپس نہیں ملے گا اور اگر وارثوں کا ذکر نہ کیا گیا تو اس شخص کی وفات کے بعد مالک کو واپس کر دیا جائے گا۔ مالک اور شافعی کا یہی قول ہے۔ آنحضرت ﷺ سے کئی سندوں سے منقول ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: عمری اس کا ہے جسے دیا گیا چنانچہ بعض علماء اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عمری اسی کا ہوگا جسے دیا گیا اور اس کے مرنے کے بعد اس کے وارث اس کے حق دار ہوں گے خواہ دیتے وقت وارثوں کا ذکر کیا گیا ہو یا نہیں یہ سفیان ثوری، احمد اور اسحاق کا قول ہے۔

عمری کی تین صورتیں ہیں۔

(۱) کوئی شخص اپنا مکان کسی کو دے اور یہ کہے کہ میں نے اپنا یہ مکان تمہاری زندگی تک تمہیں دے دیا ہے اور تمہارے مرنے کے بعد تمہارے وارث اس کے مالک ہوں گے۔ اس صورت میں علماء کا اتفاق ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے ورثاء اس مکان کے مالک ہوں گے اور پہلے شخص کی ملکیت میں واپس نہیں آئے گا۔

(۲) کوئی شخص یہ کہے کہ یہ مکان تمہاری زندگی تک تمہاری ملکیت ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک اس کا حکم بھی پہلی صورت والا ہی ہے

(۳) کوئی شخص یہ کہے کہ یہ مکان تمہاری زندگی تک تمہارا ہے اور تمہارے مرنے کے بعد میری اور میرے وارثوں کی ملکیت ہو جائے گا۔ اس صورت میں بھی وہی حکم ہے جو پہلی صورت میں ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۹۰۱۔ تَمَتُّي کے متعلق۔

باب ۹۰۱۔ مَا جَاءَ فِي الرَّقْبِي

۱۲۱۳۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عمری جائز

۱۲۱۳۔ حدثنا احمد بن منيع ثنا هشيم عن داؤد

(۱) عمری اسے کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو کوئی گھر دے اور کہے کہ تم اس میں ہماری عمرہ سکتے ہو۔ (مترجم)

بِسْ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمَرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا وَالرَّقُبَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا

ہے اور وہ اسی کا ہو جاتا ہے جس کو دیا جاتا ہے۔ اسی طرح رقعی بھی جائز ہے اور اسی کا ہو جاتا ہے جسے دیا جاتا ہے۔

یہ حدیث حسن ہے۔ بعض راوی یہ حدیث ابو زبیر سے اور وہ جابر سے موقوفاً نقل کرتے ہیں علماء صحابہ وغیرہ کا مسلک یہ ہے کہ رقعی، عمری ہی کی طرح جائز ہے احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ بعض علماء کوفہ وغیرہ رقعی اور عمری میں تفریق کرتے ہیں چنانچہ عمری کو جائز اور رقعی کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ رقعی یہ ہے کہ کوئی شخص کسی سے یہ کہے کہ جب تک تم زندہ ہو یہ چیز تمہاری ہے۔ لہذا اگر تم مجھ سے پہلے مر گئے تو یہ چیز دوبارہ میری ملکیت ہو جائے گی۔ احمد اور اسحاق کے نزدیک رقعی بھی عمری ہی کی طرح ہے۔ یہ بھی اسی کا ہو جاتا ہے جسے دیا جاتا ہے۔ دوبارہ دینے والے کی ملکیت میں نہیں آتا۔

باب ۹۰۲۔ مَا ذَكَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصُّلْحِ بَيْنَ النَّاسِ

باب ۹۰۲۔ لوگوں کے درمیان صلح کے متعلق رسول اللہ ﷺ سے منقول احادیث۔

۱۲۱۴۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ ثنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ثنا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا اشْرُطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

۱۲۱۴۔ حضرت کثیر بن عبد اللہ بن عمرو بن عوف مرنی اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مسلمانوں کے درمیان صلح جائز ہے۔ البتہ وہ صلح جس میں حرام کو حلال یا حلال کو حرام کیا گیا ہو جائز نہیں۔ مسلمانوں کو اپنی شروط پوری کرنی چاہئیں لیکن ایسی شرطیں جو حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرتی ہوں وہ حرام ہیں۔

باب ۹۰۳۔ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَضَعُ عَلَى حَاتِطٍ جَارِهِ خَشَبًا

باب ۹۰۳۔ ہمسائے کے دیوار پر لکڑی رکھنا۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۲۱۵۔ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثَنَا سَفِينُ بْنُ عَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرَزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ فَلَا يَمْنَعُهُ فَلَمَّا حَدَّثَ أَبُو هُرَيْرَةَ طَأْطَأُوا رُءُوسَهُمْ فَقَالَ مَالِي أَرَأَيْتُمْ عَنَّا بَيْنَ أَكْتَانِكُمْ

۱۲۱۵۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تم میں سے کوئی اپنے پڑوسی سے اس کی دیوار پر لکڑی (چھت کا شہتیر وغیرہ) رکھنے کی اجازت مانگے تو وہ اسے منع نہ کرے۔ جب حضرت ابو ہریرہ نے یہ حدیث بیان کی تو لوگوں نے اپنے سر جھکا لیے۔ فرمایا: کیا بات ہے تم لوگ اس سے اعراض کیوں کر رہے ہو۔ اللہ کی قسم میں یہ حدیث تمہارے کندھوں پر ماروں گا یعنی اس پر عمل کروا کے رہوں گا۔

اس باب میں حضرت ابن عباس اور مجع بن جابر بھی احادیث نقل کرتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور علماء کا اسی پر عمل ہے شافعی کا بھی یہی قول ہے جب کہ بعض علماء سے منقول ہے کہ پڑوسی کو اپنی دیوار پر لکڑی وغیرہ رکھنے سے منع کرنا جائز ہے۔ امام مالک کا بھی یہی قول ہے لیکن پہلا قول صحیح ہے۔

باب ۹۰۴۔ قسم دلانے والے کی تصدیق پر ہی قسم صحیح ہوتی ہے۔
 ۱۲۱۶۔ حدثنا قتيبة و احمد بن منيع المعنى واحد
 قالنا ثنا هشيم عن عبد الله بن ابي صالح عن ابيه عن
 ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 اليمين على ما يصدقك به صاحبك

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف ہشیم کی روایت سے جانتے ہیں وہ سہیل بن ابی صالح کے بھائی عبد اللہ بن ابی صالح سے نقل کرتے ہیں۔ بعض علماء اسی پر عمل کرتے ہیں۔ احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ ابراہیم نخعی سے منقول ہے کہ اگر قسم کھلانے والا ظالم ہو تو قسم کھانے والے کی نیت معتبر ہوگی اور اگر قسم کھلانے والا مظلوم ہے تو اس کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا۔

باب ۹۰۵۔ ماجاء في الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل
 باب ۹۰۵۔ اگر راستے کے متعلق اختلاف ہو جائے تو کتنی چوڑائی مقرر کی جائے۔

۱۲۱۷۔ حدثنا ابو كريب ثنا وكيع عن المثنى
 بن سعيد الضبعي عن قتادة عن بشير بن نهيك
 عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه
 وسلم اجعلوا الطريق سبعة اذرع

۱۲۱۸۔ حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد
 ثنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن بشير بن كعب
 العدوي عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى
 الله عليه وسلم إذا تشاجرتم في الطريق فاجعلوا
 سبعة اذرع

۱۲۱۸۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اگر تم لوگوں میں راستے کی وجہ سے جھگڑا ہو جائے تو اسے سات گز چوڑا رکھو۔

۱۲۱۸۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اگر تم لوگوں میں راستے کی وجہ سے جھگڑا ہو جائے تو اسے سات گز چوڑا رکھو۔

یہ حدیث وکیع کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔ اس باب میں ابن عباس سے بھی حدیث منقول ہے۔ بشیر بن کعب کی حضرت ابو ہریرہؓ سے منقول حدیث حسن صحیح ہے اسے بعض محدثین قتادہ سے وہ بشیر بن نہیک سے اور وہ ابو ہریرہؓ سے نقل کرتے ہیں یہ حدیث غیر محفوظ ہے۔

باب ۹۰۶۔ ماجاء في تخيير الغلام بين ابويه إذا افترقا

۱۲۱۹۔ حدثنا نصر بن علي ثنا سفیان عن زياد بن سعد عن هلال بن ابي ميمونة الثعلبي عن ابي ميمونة عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين ابيه وامه

۱۲۱۹۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک بچے کو اختیار دیا کہ چاہے تو باپ کے ساتھ رہے اور چاہے تو ماں کے پاس۔

باب ۹۰۶۔ والدین کی جدائی کے وقت بچے کو اختیار دیا جائے۔

۱۲۱۹۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک بچے کو اختیار دیا کہ چاہے تو باپ کے ساتھ رہے اور چاہے تو ماں کے پاس۔

پانی کو چلتا چھوڑ دیا کرو۔ زیر نے انکار کر دیا تو وہ دونوں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں پیش ہوئے حضور ﷺ نے حکم دیا کہ: اے زیر تم اپنے کھیتوں کو پانی پلا کر اپنے پڑوسی کے کھیتوں میں چھوڑ دیا کرو۔ اسی پر انصاری غصے میں آگئے اور کہنے لگے: یہ آپ ﷺ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں نا اس لیے آپ ﷺ نے ان کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ اس پر آنحضرت ﷺ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا پھر فرمایا: اے زیر تم اپنے کھیتوں کو پانی دے کر پانی روک لو۔ یہاں تک کہ منڈر تک واپس چلا جائے۔ حضرت زیر فرماتے ہیں: اللہ کی قسم یہ آیت اسی مسئلے میں نازل ہوئی "فلا وربک لا یؤمنون....." (ترجمہ: تمہارے رب کی قسم ان لوگوں کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک یہ آپ ﷺ کے فیصلے کو دل سے قبول نہ کر لیں اور ان کے دلوں میں اس فیصلے کے متعلق ذرا سی بھی کدورت باقی نہ رہے)۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِرَاحِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ فَقَالَ الْاَنْصَارِيُّ شَرَحَ الْمَاءَ يَمُرُّ قَائِبِي عَلَيْهِ فَاحْتَضَمُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ ارْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ فَغَضِبَ الْاَنْصَارِيُّ فَقَالَ اِنْ كَانَ ابْنُ عَمَّتِكَ فَتَلَوْنَ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ يَا زُبَيْرُ اسْقِ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْحَدَرِ فَقَالَ الزُّبَيْرُ وَاللَّهِ اِنِّي لَا حِسْبَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحْكَمُوا لَكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الْآيَةَ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسے شعیب بن ابی حمزہ، زہری سے وہ عمرو بن زبیر سے اور وہ عبداللہ بن زبیر سے نقل کرتے ہوئے عبداللہ بن زبیر کا تذکرہ نہیں کرتے۔ عبداللہ بن وہب بھی لیث سے وہ یونس سے وہ زہری سے وہ عمرو بن زبیر سے اور وہ عبداللہ بن زبیر سے اسی کے مثل حدیث نقل کرتے ہیں۔

توضیح: حضور اکرم ﷺ نے زیر کو پہلے اپنے کھیتوں کو پانی دینے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ ان کے کھیت اونچائی پر تھے اور انصاری کے ان سے نیچے تھے پھر پانی بھی حضرت زیر کے کھیتوں ہی سے قریب تھا۔ یہ آنحضرت ﷺ کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ واللہ اعلم۔ (مترجم)

باب ۹۱۲۔ ماجاء فی من یعتق ممالیکہ عند موتہ و لیس له مال غیرہم

۱۲۲۶۔ حدثنا قتیبة ثنا حماد بن زید عن ایوب

۱۲۲۶۔ حضرت عمران بن حصین کہتے ہیں کہ ایک انصاری نے اپنی موت کے وقت اپنے چھ غلاموں کو آزاد کر دیا جب کہ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی مال نہیں تھا۔ یہ خبر جب آنحضرت ﷺ تک پہنچی تو ان کے متعلق سخت الفاظ کہے اور پھر غلاموں کو بلا کر انہیں حصوں میں تقسیم کر کے سب کے درمیان قرعہ ڈالا اس کے بعد دو کو آزاد کر دیا اور چار کو غلام رہنے دیا۔

عن ابی قلابہ عن ابی المہلب عن عمران بن حصین ان رجلاً من الأنصار اعتق ستة أعبد عند موته ولم یکن له مال غیرہم فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال له قولاً شديداً قال ثم دعاہم فجزاہم ثم اقرع بینہم فاعتق اثنين و ارق أربعة

اس باب میں ابو ہریرہ بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت عمران بن حصین کی حدیث حسن صحیح ہے اور انہی سے کئی سندوں سے منقول ہے۔ بعض علماء کا اسی پر عمل ہے۔ مالک، شافعی، احمد اور اسحاق بھی ایسے معاملات میں قرعہ ڈالنے کو جائز کہتے ہیں۔ لیکن بعض علماء کو نہ وغیرہ کا کہنا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ ایسی صورت میں ہر غلام کا تہائی حصہ آزاد ہو جاتا ہے۔ لہذا وہ اپنی اپنی قیمت کی دو تہائی کے لیے کام وغیرہ کر کے پوری کر لے۔ ابو مہلب کا نام عبدالرحمن بن عمرو ہے انہیں معاویہ بن عمرو بھی کہتے ہیں۔

باب ۹۱۳۔ مَا جَاءَ فِي مَنْ مَلَكَ ذَا مَحْرَمٍ

۱۲۲۷۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعَاوِيَةَ الْجَمْحَرِيُّ ثَنَا
حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن بن سمره أن
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَلَكَ ذَا
مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ

باب ۹۱۳۔ اگر کسی شخص کا کوئی رشتہ دار اس کی ملکیت میں آجائے۔

۱۲۲۷۔ حضرت سمرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی شخص اپنے کسی ذی محرم (۱) کا مالک ہو جائے (یعنی وہ کسی صورت میں اس کی غلامی میں آجائے) تو وہ غلام آزاد ہو جاتا ہے۔

اس حدیث کو ہم صرف حماد بن سلمہ ہی کی روایت سے جانتے ہیں۔ بعض راوی یہ حدیث قتادہ سے وہ حسن سے اور وہ عمر سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ عقبہ بن مکریم عمی البصری اور کئی راوی محمد بن بکر برسانی سے وہ حماد بن سلمہ سے وہ قتادہ سے اور عاصم احوال سے وہ حسن سے (وہ سمرہ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ جو کسی رشتہ دار کا محرم ہو اس کا وہ غلام آزاد ہو گیا)۔ اسے ضمیرہ بن ربیعہ بھی سفیان ثوری سے وہ عبد اللہ بن دینار سے اور وہ عمر سے نقل کرتے ہیں۔ ضمیرہ بن ربیعہ کی اس حدیث کا کوئی متابع نہیں۔ محدثین کے نزدیک یہ حدیث غلط ہے۔

توضیح: اس کی مثال یہ ہے کہ مثلاً کوئی باپ اپنے بیٹے کو اس کے مالک سے خرید لیتا ہے تو وہ فی الفور آزاد ہو جاتا ہے (مترجم)

باب ۹۱۴۔ اگر کوئی شخص کسی کی زمین میں بغیر اجازت زراعت کرنے لگے۔

باب ۹۱۴۔ مَا جَاءَ مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بغيرِ
إِذْنِهِمْ

۱۲۲۸۔ حضرت رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کسی نے کسی دوسرے کی زمین میں اس کی اجازت کے بغیر کسی چیز کی کاشت کی تو اس کے لیے اس بھتی میں سے کچھ نہیں۔ ہاں بونے والا اپنا خرچہ جو اس نے اس پر کیا ہے وہ لے سکتا ہے۔ لیکن بھتی زمین والے ہی کی ہوگی۔

۱۲۲۸۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ ثَنَا شَرِيْكَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّخَعِيُّ
عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ
قَوْمٍ بغيرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے ابواسحاق کی روایت سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں وہ شریک بن عبد اللہ سے نقل کرتے ہیں۔ بعض علماء اسی پر عمل کرتے ہیں۔ احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ میں نے امام بخاری سے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا: یہ حدیث حسن ہے میں اسے شریک بن عبد اللہ کی روایت سے جانتا ہوں۔ محفل بن مالک بصری ہم سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ حدیث عقبہ بن اصم سے انہوں نے عطاء سے انہوں نے رافع بن خدیج سے اور انہوں نے آنحضرت ﷺ سے اسی کی مانند سنی ہے۔

مسئلہ: اگر کوئی شخص کسی کی زمین میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی فصل بوڈے تو اکثر علماء (جن میں احناف بھی شامل ہیں) سمے نزدیک اس شخص پر زمین کی اجرت وغیرہ واجب الاداء ہوگی لیکن فصل کاشت کرنے والے ہی کی ہوگی۔ اس پر کئی احادیث و آثار دلالت کرتے ہیں جس کی وجہ سے جمہور نے حدیث باب کو ترک کر کے ان پر عمل کیا ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۹۱۵۔ ہبہ کرنا اور اولاد کے درمیان برابری قائم رکھنا۔

باب ۹۱۵۔ مَا جَاءَ فِي النَّحْلِ وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْوَالِدِ

۱۲۲۹۔ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ ان کے والد نے اپنے ایک

۱۲۲۸۔ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

(۱) ذی محرم وہ قرابتدار ہیں جن کی قرابت کا سبب ولادت ہو مثلاً باپ، بھائی، چچا، بیٹا وغیرہ وغیرہ۔ (مترجم)

ابوحزہ ثقہ ہیں ممکن ہے کہ اس میں کسی اور سے خطا ہوئی ہو۔ ہناد، ابوالاحوص سے بھی۔ وہ عبدالعزیز بن رفیع سے وہ ابن ابی ملیکہ سے اور وہ آنحضرت سے مرسل نقل کرتے ہیں۔ یہ زیادہ صحیح ہے۔ ہناد بھی ابوبکر بن عیاش سے وہ عبدالعزیز بن رفیع سے وہ ابن ابی ملیکہ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ یعنی ابوبکر بن عیاش کی حدیث کے مثل۔ اکثر علماء کا مسلک یہی ہے کہ شفعہ صرف مکان اور زمین میں ہوتا ہے ہر چیز میں نہیں۔ لیکن بعض کے نزدیک ہر چیز میں ہوتا ہے۔ جب کہ پہلا قول صحیح ہے۔

باب ۹۱۹۔ مَا جَاءَ فِي اللَّفْظَةِ وَضَالَةَ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ

۱۲۳۴۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ ثنا يزيد بن هارون و عبد الله بن نمير عن سفیان عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة قال خرجت مع زيد بن صوحان و سلمان بن ربيعة فوجدت سوطا قال ابن نمير في حديثه فالتقطت سوطا فاخذته قال لا ادعه فقلت لا ادعه تاكله السباع لا اخذته فلا ستمتعن به فقدمت علي ابي بن كعب فسألته عن ذلك فحدثته الحديث فقال اذنت وحدثت علي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرة فيها مائة دينار قال فاتيته بها فقال لي عرفها حولا فعرفتها حولا فما اجد من يعرفها ثم اتيت بها فقال عرفها حولا اخر فعرفتها حولا ثم اتيت بها فقال عرفها حولا اخر وقال احص عدتها ووعائها و كائنها فاذا جاء طالبها فاخبرك بعدادها ووعائها و كائنها فادفعها اليه و الا فاستمتع بها

باب ۹۱۹۔ لفظ اور گم شدہ اونٹ یا بکری سے متعلق۔ (۱)

۱۲۳۴۔ حضرت سويد بن غفله کہتے ہیں کہ میں زيد بن صوحان اور سلمان بن ربيعة کے ساتھ سفر میں نکلا تو ایک کوڑا پڑا ہوا پایا۔ ابن نمیر اپنی حدیث میں کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک کوڑا گرا ہوا پایا تو اسے اٹھالیا۔ ساتھیوں نے کہا رہنے دو نہ اٹھاؤ میں نے کہا، نہیں۔ میں اسے درندوں کی خوراک بننے کے لیے نہیں چھوڑوں گا اپنے کام میں لاؤں گا۔ پھر میں (سويد) ابی بن کعب کے پاس آیا اور ان سے قصہ بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا: تم نے اچھا کیا۔ مجھے بھی آنحضرت ﷺ کے زمانے میں سودینار کی ایک تھیلی ملی تھی تو آپ ﷺ نے حکم دیا کہ میں ایک سال تک اس کا اعلان اور تشہیر کروں۔ میں نے اسی طرح کیا لیکن کوئی نہیں آیا پھر میں دوبارہ حاضر ہوا۔ آپ ﷺ نے پھر فرمایا: ایک سال اور اسی طرح کرو میں پھر ایک سال تک اعلان کرتا رہا۔ لیکن کسی نے بھی اپنی ملکیت ظاہر نہیں کی پھر تیسری مرتبہ بھی آپ ﷺ نے یہی حکم دیا اور فرمایا کہ اس کے بعد ان کو گن لو اور تھیلی اور باندھنے والی رسی کو ذہن نشین رکھو پھر اگر تم سے کوئی نہیں طلب کرنے کے لیے آئے اور نشانیاں بتادے تو اسے دو، ورنہ استعمال کرو۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۲۳۵۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا اسْمَعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ رِبِيْعَةَ بِنِ ابِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيْدِ مَوْلَى الْمُعْتَبِرِ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْخَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّفْظَةِ فَقَالَ عَرَفَهَا سَنَةً ثُمَّ أَعْرَفَ وَ كَائِنَهَا وَ وَعَائِنَهَا وَ وَعَفَاصَهَا ثُمَّ

۱۲۳۵۔ حضرت زيد بن خالد جہنی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرت ﷺ سے لفظ کا حکم پوچھا تو فرمایا: ایک سال کو ذہن نشین کر کے خرچ کرلو۔ اس کے بعد اگر اس کا مالک آجائے تو اسے دے دو۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر کسی کی گم شدہ بکری ملے تو اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا: اسے پکڑلو۔ وہ تمہاری ہے یا تمہارے بھائی کی ورنہ اسے کوئی

(۱) لفظ اس چیز کو کہتے ہیں جو راستے میں گری ہوئی پائی جائے اور اس کے مالک کا علم نہ ہو۔ (مترجم)

بھیڑ یا کھا جائے گا۔ اس نے عرض کیا: اگر کسی کا گم ہوا ہوا اونٹ کسی کو مل جائے تو؟ اس پر آنحضرت ﷺ غصے میں آگئے یہاں تک کہ آپ ﷺ کے رخسار مبارک سرخ ہو گئے یا آپ ﷺ کا چہرہ سرخ ہو گیا پھر فرمایا: تمہارا اس سے کیا کام اس کے پاس چلنے کے لیے پاؤں بھی ہیں اور ساتھ میں پانی کا ذخیرہ بھی یہاں تک اس کا مالک اسے پالے (۱)

اَسْتَفِيقُ بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَذِّهَا إِلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَةٌ الْعَنَمِ فَقَالَ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لَا حَيْكُكَ أَوْ لِلذَّئِبِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَةٌ الْإِبِلِ فَقَالَ فَغَضِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجَنَّتَاهُ أَوْ احْمَرَّتْ وَجْهَهُ فَقَالَ مَالِكُ وَلَهَا مَعَهَا جِذَاءُهَا وَسِقَائُهَا حَتَّى يَلْفَى رَبُّهَا

اس باب میں ابی بن کعب، عبد اللہ بن عمر، جبار و ابن معلى، عیاض بن حمار اور جریر بن عبد اللہ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت زید بن خالد کی حدیث حسن صحیح ہے اور کئی سندوں سے منقول ہے۔ مبعث کے مولیٰ زید کی حدیث جو وہ زید بن خالد سے نقل کرتے ہیں وہ بھی حسن صحیح ہے۔ وہ یہ بھی کئی سندوں سے انہی سے منقول ہے۔ بعض علماء وغیرہ اسی پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گری ہوئی چیز کی ایک سال تک تشہیر کرنے کے بعد اسے استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک سال تک تشہیر پر بھی اگر اس کا مالک نہ پہنچے تو اسے صدقہ کر دے سفیان ثوری، ابن مالک اور اہل کوفہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر وہ غنی ہو تو اس کا ایسی چیز کو استعمال کرنا جائز نہیں۔ امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ وہ اگر غنی ہی ہو اسے استعمال کر سکتا ہے۔ ان کی دلیل گزشتہ حدیث ہے یعنی ابی بن کعب کی حدیث۔ لہذا اگر لفظ صرف اسی کے لیے حلال ہوتا ہے جس کے لیے صدقہ حلال ہے تو حضرت علی بن ابی طالب بھی اسے استعمال نہ کرتے کیونکہ انہیں بھی ایک مرتبہ ایک دینار ملا تھا۔ انہوں نے اس کا اعلان کیا اور جب اس کا مالک نہ آیا تو آنحضرت ﷺ نے انہیں استعمال کر لینے کا حکم دیا۔ حالانکہ حضرت علیؑ کے لیے صدقہ حلال نہیں تھا۔ اگر لفظ کوئی چھوٹی موٹی چیز ہو تو بعض علماء اسے اعلان کے بغیر استعمال کی بھی اجازت دیتے ہیں پھر بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ایک دینار سے کم ہو تو اس کی ایک جمعے تک تشہیر کرے۔ اسحاق بن ابراہیم کا یہی قول ہے۔

۱۲۳۶۔ حضرت زید بن خالد جہنی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے لفظ کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا: ایک سال تک اس کی تشہیر کرو اگر کوئی پہچان لے تو اسے دے دو، ورنہ اس کی تعداد، تھیلی اور رسی وغیرہ کو ذہن نشین کر کے اسے استعمال کر لو تا کہ اگر اس کا مالک آجائے تو اسے دے سکو۔

۱۲۳۶۔ حدثنا محمد بن بشار ثنا ابو بکر الحنفی ثنا الضحاك بن عثمان ثنا سالم ابو النصر عن يسر بن سعيد عن زید بن خالد الجهنی أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال عرفها سنة فإن اعترفت فأذها وإلا فأعرف عفاصها وو كائها وعددتم كملها فإن جاء صاحبها فأذها

یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔ احمد بن حنبل کہتے ہیں اس باب میں سب سے زیادہ صحیح یہی حدیث ہے۔ بعض علماء صحابہ وغیرہ اسی پر عمل کرتے ہوئے ایک سال تک تشہیر کرنے کے بعد لفظ کے استعمال کی اجازت دیتے ہیں۔ شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

(۱) اس سے مراد یہ ہے کہ اونٹ کو پانی کی کافی دن تک ضرورت نہیں ہوتی پھر وہ درندوں سے بھی بچنے کی صلاحیت رکھتا ہے لہذا اسے پکڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ واللہ اعلم۔ (مترجم)

باب ۹۲۰۔ مَا جَاءَ فِي الْوَقْفِ

باب ۹۲۰۔ وقف کے متعلق۔

۱۲۳۷۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ ثَنَا اسْمَعِيلُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَصَابَ عُمَرَ اَرْضًا بِخَيْبَرَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَصَبْتُ مَالًا بِخَيْبَرَ لَمْ اَصِبْ مَالًا قَطُّ اَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ اِنْ شِئْتَ حَسَسْتَ اَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ اِنَّهَا لَا يَبِيعُ اَصْلَهَا وَلَا يُوْهَبُ وَلَا يُورَثُ تُصَدَّقُ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَىٰ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا اَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ اَوْ يُطْعِمَ صَدِيْقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيْهِ قَالَ فَذَكَرْتُهُ لِمُحَمَّدِ بْنِ سَيْرِيْنَ فَقَالَ غَيْرُ مُتَاْتِلٍ مَالًا قَالَ ابْنُ عَوْفٍ فَحَدَّثَنِي بِهِ رَجُلٌ اَخْرَجْتُهُ قَرَأَهَا فِي قِطْعَةٍ اَدِيْمٍ اَحْمَرَ غَيْرَ مُتَاْتِلٍ مَالًا

۱۲۳۷۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کو خیبر میں کچھ زمین ملی تو عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے خیبر میں ایسا مال ملا ہے کہ اس سے زیادہ عزیز کوئی چیز نہیں ملی اس کے متعلق آپ ﷺ کیا حکم دیتے ہیں۔ فرمایا: اگر چاہو تو اس کی اصل اپنے پاس رہنے دو، اور اس کے منافع کو صدقہ کر دو چنانچہ حضرت عمرؓ نے وہ زمین صدقہ کر دی اس طرح کہ نہ وہ بیچی جاسکتی تھی، نہ ہبہ کی جاسکتی اور نہ ہی وراثت میں دی جاسکتی تھی۔ اس سے فقراء، اقرباء، غلاموں کو آزاد کرنے، اللہ کی راہ اور مہمانوں وغیرہ کو بھی کھلا سکتا تھا۔ راوی کہتے ہیں میں نے یہ حدیث ابن سیرین کے سامنے بیان کی تو انہوں نے ”غیر متمول فیہ“ کی جگہ ”غیر متائل مالا“ کہا یعنی مال کو جمع نہ کرے۔ ابن عون کہتے ہیں پھر ایک اور شخص نے بھی مجھ سے یہ حدیث بیان کی جس نے وہ وقف نامہ خود پڑھا تھا جو ایک سرخ چمڑے پر تحریر تھا اس میں بھی ”غیر متائل مالا“ کے الفاظ ہی تھے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسماعیل کہتے ہیں میں نے بھی اس وقف نامے کو عبد اللہ بن عمر سے لے کر پڑھا تھا اس میں بھی ”غیر متائل مالا“ ہی تھا۔ علماء صحابہ وغیرہ اسی پر عمل کرتے ہیں۔ ہمیں علم نہیں کہ متقدمین حضرات میں وقف کے جواز کے متعلق کوئی اختلاف رہا ہو۔

۱۲۳۸۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ ثَنَا اسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

۱۲۳۸۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ بجز تین عملوں کے صدقہ جاریہ، علم کہ اس سے نفع حاصل ہو رہا ہو اور نیک اولاد جو اس کے دعا کرتی رہے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۹۲۱۔ مَا جَاءَ فِي الْعَجْمَاءِ اَنْ جُرْحَهَا جُبَارٌ

باب ۹۲۱۔ حیوان اگر کسی کوزخی کو دے تو اس کا قصاص نہیں۔

۱۲۳۹۔ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا سَفِيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ وَ النَّبِيُّ جُبَارٌ وَالْمَعْدُنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّسَالِ الْخُمْسُ

۱۲۳۹۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی جانور کسی کوزخی کر دے تو اس کا کوئی قصاص نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی کنواں کھودتے ہوئے یا کسی کان وغیرہ میں مر جائے تو بھی کوئی قصاص نہیں اور مدفون خزانے پر پانچواں حصہ زکوٰۃ ہے۔

اس باب میں جابر، عمرو بن عوف مزنی اور عبادہ بن صامتؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔
تفسیر، لیث سے وہ ابن شہاب سے وہ سعید بن مسیب اور ابوسلمہ بن عبدالرحمن سے وہ ابو ہریرہؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے مثل
حدیث نقل کرتے ہیں۔ انصاری، معن سے اور وہ مالک سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد کے معنی یہ ہیں کہ اگر کوئی جانور
کسی کو زخمی کر دے یا مار ڈالے تو وہ ہدر ہے اس میں کوئی دیت نہیں جب کہ بعض علماء اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ عجماء اس جانور کو کہتے ہیں
جو مالک سے بھاگ گیا ہو۔ اگر ایسا جانور اگر کسی کو کوئی نقصان پہنچا دے تو اس کے مالک پر جرمانہ نہیں کیا جائے گا۔

”المعدن جبار“ کے معنی یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص کان کھدوائے اور اس میں کوئی شخص گر جائے تو کھدوانے والے کے ذمہ کوئی تاوان
نہیں ہوگا اسی طرح کنویں کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر کوئی شخص راہ گیروں کے لیے کنواں کھدوائے اور اس میں کوئی شخص گر جائے تو اس پر کوئی
جرمانہ نہیں۔ اور ”رکاز“ زمانہ جاہلیت کے دن شدہ خزانے کو کہتے ہیں۔ اگر کسی کو ایسا خزانہ مل جائے تو وہ پانچواں حصہ بیت المال میں جمع
کرائے اور باقی خود رکھے۔

باب ۹۲۲۔ نجر زمین کو آباد کرنا۔

باب ۹۲۲۔ مَا ذُكِرَ فِي أَحْيَاءِ أَرْضِ الْمَوَاتِ

۱۲۴۰۔ حضرت سعید بن زیدؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس
نے نجر زمین آباد کی وہ اسی کی ملکیت ہوگی۔ اور ظالم کے درخت
بودینے سے اس کا حق ثابت نہیں ہوتا (یعنی کسی کی زمین میں)۔

۱۲۴۰۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثنا عبد الوهاب ثنا
ايوب عن هشام بن عروة عن سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيِّتَةً
فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعَرَقِ ظَالِمٍ حَقٌّ

۱۲۴۱۔ حضرت جابر بن عبد اللہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
جس شخص نے نجر زمین کو آباد کر دیا وہ اس کی ملکیت ہوگی۔

۱۲۴۱۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثنا عبد الوهاب
الثقفی عن ايوب عن هشام بن عروة عن وَهْبِ ابْنِ
كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض راوی یہ حدیث ہشام بن عروہ سے وہ اپنے والد سے اور وہ رسول اللہ ﷺ سے مرسل نقل کرتے ہیں۔
بعض علماء صحابہ و دیگر علماء اسی پر عمل کرتے ہیں۔ احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں یعنی نجر زمین کو آباد کرنے کے لیے حاکم کی اجازت
ضروری نہیں جب کہ بعض کے نزدیک حاکم کی اجازت لینا ضروری ہے لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔ اس باب میں جابرؓ، کثیر کے دادا عمرو
بن عوف مزنیؓ اور سرہ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ ابوموسیٰ محمد بن شعیب کہتے ہیں کہ میں نے ابو ولید طلیاسی سے ”لیس لعرق ظالم حق“
کا معنی پوچھا تو کہنے لگے اس سے مراد کسی کی زمین غصب کرنے والا ہے۔ ابوموسیٰ کہتے ہیں میں نے کہا کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو کسی
دوسرے کی زمین میں کاشت کرتا ہے تو فرمایا: ہاں وہی ہے۔

توضیح: ”موات“ وہ زمین ہے جس میں کوئی کھیتی یا مکان نہ ہو اور وہ ناقابل انتفاع ہو یعنی اس میں زراعت نہ ہو سکتی ہو۔ اسے آباد
کرنے کی کئی صورتیں ہیں مثلاً اس پر مکان بنانا، زراعت کرنا، باغات لگانا وغیرہ وغیرہ۔ اس کو آباد کرنے پر یہ حکم ہے کہ وہ زمین آباد کرنے
والے کی ملکیت ہو جائے گی لیکن بشرطیکہ وہ پہلے سے کسی کی ملکیت میں نہ ہو۔ (مترجم)

باب ۹۲۳۔ نجر زمین کو آباد کرنا۔ جاگیر دینے سے متعلق۔

باب ۹۲۳۔ مَا جَاءَ فِي الْقَطَائِعِ

۱۲۴۲- حضرت ایض بن حمال آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ انہیں نمک کی کان جاگیر کے طور پر دی جائے۔ آپ ﷺ نے انہیں کان عطا کر دی۔ جب وہ جانے کے لیے مڑے تو ایک شخص نے عرض کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے ان کو کیا دیا ہے آپ ﷺ نے انہیں جاگیر میں تیار پانی دے دیا ہے جو کبھی موقوف نہیں ہوتا۔ یعنی اس سے بہت زیادہ نمک نکلتا ہے۔ راوی کہتے ہیں۔ اس پر آنحضرت ﷺ نے ان سے وہ کان واپس لے لی۔ پھر انہوں نے آپ ﷺ سے پوچھا کہ پیلو کے درختوں کی کون سی زمین گھیری جاسکتی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ زمین جہاں اونٹوں کے پاؤں نہ پہنچیں۔ (۱) امام ترمذی کہتے ہیں۔ جب میں نے یہ حدیث تسمیہ کو سنائی تو انہوں نے اقرار کیا۔ اور کہا: ہاں۔

محمد بن یحییٰ بن ابی عمر، محمد بن یحییٰ بن قیس مکرابی سے اسی کے مثل حدیث نقل کرتے ہیں۔ اس باب میں وائلؓ اور اسماء بنت ابی بکرؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ ایض کی حدیث حسن غریب ہے۔ بعض علماء صحابہ وغیرہ اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے امام کے کسی کو جاگیر دینے کو جائز کہتے ہیں۔

۱۲۴۳- حضرت وائل بن حجرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے انہیں حضرموت میں زمین کا ایک ٹکڑا بطور جاگیر عطا کیا۔

۱۲۴۳- حدثنا محمود بن غیلان ثنا ابوداؤد الطیالسی ثنا شعبه عن سماک قال سمعت علقمہ بن وائل بن حجر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقطعہ أرضاً بحضرموت

محمود یہ حدیث نصر سے اور وہ شعبہ سے نقل کرتے ہوئے یہ الفاظ زیادہ بیان کرتے ہیں ”وبعت معه معاویة ليقطعها اياه“ یعنی آپ ﷺ نے ان کے ساتھ معاویہ کو بھیجا تا کہ وہ زمین ناپ کر انہیں دے دیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۹۲۴- ماجاء فی فضل الغرس
۱۲۴۴- حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی مسلمان کوئی پودہ لگاتا ہے یا کاشتکاری کرتا ہے۔ اور اس سے کوئی انسان یا چرند پرند کھا جاتا ہے تو اسے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔

۱۲۴۴- حدثنا قتیبة ثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلم ینرس عرسا أو ینزرع زرعاً فیکل منه إنسان أو طیر أو بهیمة إلا كانت له صدقة

اس باب میں ابوالیوبؓ، ام بشرؓ، جابرؓ اور زید بن خالدؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں حضرت انسؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۹۲۵- مزارعت کے متعلق۔

باب ۹۲۵- ذکر فی المزارعة۔

(۱) یعنی ایسی جگہ جو چار گاہ وغیرہ سے دور ہو۔ (مترجم)

۱۲۴۵۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اہل خیبر کو اس
اقرار پر زمین دی کہ اس کی پیداوار میں سے آدھا آپ ﷺ کو ادا کریں
خواہ وہ پھل ہو یا کوئی اور چیز۔

۱۲۴۵۔ حَدَّثَنَا اسحاق بن منصور ثنا يحيى بن
سعید عن عبيد الله بن عمر عن نافع ابن عمر أنَّ
النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ
مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

اس باب میں انسؓ، ابن عباسؓ، زید بن ثابتؓ اور جابرؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض علماء صحابہ وغیرہ
اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زمین کو مزارعت پر دینے میں کوئی حرج نہیں۔ یعنی نصف، ٹلٹ یا ربح وغیرہ کی شرط پر زمین دینا
جائز ہے پھر بعض علماء کا کہنا ہے کہ ایسی صورت میں بیج زمین کے مالک کی طرف سے ہوگا۔ احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ لیکن بعض
علماء مزارعت کو مکروہ سمجھتے ہیں لیکن ان کے نزدیک کھجوروں کو ٹلٹ یا ربح پیداوار کی شرط پر پانی دینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ مالک بن انس
اور شافعی بھی اسی کے قائل ہیں۔ علماء کا ایک فریق اس مسلک پر بھی عمل پیرا ہے کہ مزارعت کی کوئی صورت جائز نہیں۔ البتہ یہ جائز ہے کہ
زمین کا کرایہ پیسوں کی صورت میں مقرر کر لیا جائے۔

۱۲۴۶۔ حضرت رافع بن خدیج فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ہمیں
ایک نفع بخش کام سے منع فرمایا۔ وہ یہ ہے کہ اگر ہم میں سے کسی کے
پاس زمین ہوتی تھی تو وہ اسے خراج کے کچھ حصے یا در اہم کے عوض دے
دیتا آپ ﷺ نے فرمایا: اگر کسی کے پاس زمین ہو تو اسے اپنے بھائی کو
زراعت کے لیے مفت دینی چاہئے ورنہ وہ خود زراعت کرے۔

۱۲۴۶۔ حَدَّثَنَا هناد ثنا ابو بكر بن عياش عن
ابى حصين عن مُجَاهِدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ
نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرِ
كَانَ لَنَا نَافِعًا إِذَا كَانَتْ لِأَحَدِنَا أَرْضٌ أَنْ يُعْطِيَهَا
بِبَعْضِ خَرَاجِهَا أَوْ يَدْرَاهِمَ وَقَالَ إِذَا كَانَتْ
لِأَحَدِكُمْ أَرْضٌ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيُزْرَعْهَا

۱۲۴۷۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مزارعت
سے منع نہیں کیا بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا حکم دیا۔

۱۲۴۷۔ حَدَّثَنَا محمود بن غيلان ثنا الفضل بن
موسى الشيباني ثنا شريك عن شعبة عن عمرو بن
دينار عن طاووس عن ابن عباس أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحْرِمِ الْمَزَارَعَةَ وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ
يُرْفَقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ

یہ حدیث حسن صحیح ہے اس باب میں زید بن ثابتؓ سے بھی حدیث منقول ہے۔ حضرت رافع کی حدیث میں اضطراب ہے۔ یہ
حدیث رافع بن خدیج اپنے چچاؤں سے بھی نقل کرتے ہیں اور اپنے ایک چچا ظہیر بن رافع سے بھی نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث انہی سے کئی
سندوں سے منقول ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

أَبْوَابُ الدِّيَّاتِ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
دیات کے متعلق آنحضرت ﷺ سے

منقول احادیث کے ابواب

باب ۹۲۶۔ دیت میں کتنے اونٹ دیئے جائیں۔

۱۲۴۸۔ حشف بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے ابن مسعودؓ سے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے قتلِ خطاء کی دیت میں بیس بنتِ مخاض بیس بنتِ منیٰ سے مذکور اونٹ، بیس بنتِ لبون، بیس جذعہ اور بیس حقدہ دینے کا حکم دیا۔

باب ۹۲۶۔ مَا جَاءَ فِي الدِّيَةِ كَمْ هِيَ مِنَ الْإِبِلِ

۱۲۴۸۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ الْكُوفِيُّ ثنا ابن ابی زائدة عن الحجاج عن زيد بن جُبَيْرٍ عَنْ حِشْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دِيَةِ الْخَطَاءِ عِشْرِينَ ابْنَةَ مَخَاضٍ وَعِشْرِينَ بَنِي مَخَاضٍ ذَكُورًا وَعِشْرِينَ بَنَاتٍ لَبُونٍ وَعِشْرِينَ جَذَعَةً وَعِشْرِينَ حِقَّةً

ابن ہشام رفاعی، ابن ابی زائدہ سے وہ ابو خالد احمر سے اور وہ حجاج بن ارطاة سے اسی کے مثل حدیث نقل کرتے ہیں اس باب میں عبد اللہ بن عمرو سے بھی حدیث منقول ہے۔ حضرت ابن مسعودؓ کی حدیث کو ہم صرف اسی سند سے مرفوع جانتے ہیں۔ پھر یہ انہی سے موقوف بھی منقول ہے۔ بعض علماء کا یہی مسلک ہے۔ احمد اور اسحاق کا بھی قول ہے تمام علماء کا اسی پر اجماع ہے کہ دیت تین سال میں وصول کی جائے یعنی ہر سال ناکھ دیت ادا کرے۔ ان کا کہنا ہے کہ دیت عاقلہ ادا کرے گی۔ مالک اور شافعی کا بھی یہی قول ہے جب کہ بعض کے نزدیک دیت صرف مردوں پر ہے عورتوں اور بچوں پر نہیں اگرچہ وہ عصبات ہی ہوں (عاقلہ مرد کے والد کی طرف سے عزیز و اقارت کو کہتے ہیں) پھر ان میں سے ہر شخص ربع دینا ادا کرے جب کہ بعض کہتے ہیں کہ نصف دینا ادا کرے۔ چنانچہ اگر پوری ہو جائے تو ٹھیک ورنہ ان کے قریبی قبائل میں سے قریبی ترین قبیلے پر لازم کی جائے۔

توضیح: ”دیات“ ”دیت“ کی جمع ہے۔ یہ فقہی اصطلاح میں اس مال کو کہتے ہیں جو کسی کو قتل کر دینے یا کسی عضو کو ضائع کر دینے کے عوض دیا جاتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔

(۱) دیت مغلظہ۔ اس میں سو اونٹنیاں ہوتی ہیں جو چار اقسام پر مشتمل ہوتی ہیں ۱: پچیس بنتِ مخاض (۱) ۲: پچیس بنتِ لبون (۲) ۳: پچیس حقدہ (۳) ۴: پچیس جذعہ (۴)

دیت مغلظہ قتلِ شبہ عمد کے ارتکاب پر واجب ہوتی ہے۔

(۱) بنتِ مخاض۔ وہ اونٹنی جو ایک سال کی ہو کر دوسرے سال میں لگی ہو۔ (مترجم)

(۲) بنتِ لبون۔ وہ اونٹنی جو دو سال کی ہو کر تیسرے سال میں لگی ہو۔ (مترجم)

(۳) حقدہ۔ وہ اونٹنی جو تین سال کی ہو کر چوتھے سال میں لگی ہو۔ (مترجم)

(۴) جذعہ۔ وہ اونٹنی جو چار سال کی ہو کر پانچویں سال میں لگی ہو۔ (مترجم)

(۲) دیت مخففہ۔ اگر یہ سونے سے ادا کی جائے تو ایک ہزار شرفیاں (دینار) اور چاندی سے دی جائے، دس ہزار درہم دیئے جائیں گے۔ پھر اگر اونٹوں کی صورت میں دی جائے پانچ طرح کے سوانٹ دیئے ہوں گے۔ بیس ابن مخاض (۱)، بیس بنت مخاض، بیس بنت لبون، بیس حقہ اور بیس جذعہ۔ یہ دیت قتل خطاء کے مرتکب پر واجب ہوتی ہے۔ (مترجم)

۱۲۴۹۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کسی شخص نے کسی کو عداقت کیا۔ تو اسے مقتول کے وارثوں کے حوالے کر دیا جائے اگر وہ چاہیں تو اسے قتل کر دیں اور اگر چاہیں تو دیت لے لیں۔ اور دیت میں انہیں تیس جزعہ، تیس حقہ اور چالیس خلفہ (۲) دینی پڑیں گی۔ ساتھ ہی وہ کچھ بھی ادا کرنا ہوگا جس پر وراثت نے صلح کی ہو۔ اور یہ دیت عاقلہ پر سخت ہے۔

۱۲۴۹۔ حدثنا احمد بن سعيد الدارمي ثنا حبان ثنا محمد بن راشد ثنا سليمان بن مؤسلي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل مؤمنا متعمدا دفع الى اولياء المقتول فان شاء واقتلوا وان شاء واخذوا الدية وهي ثلثون حقة ثلثون جذعة واربعون خلفه وما صالحوا عليه فهو لهم وذلك لتشديد العقل

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

باب ۹۲۷۔ دیت کتنے درہم سے ادا کی جائے۔

۱۲۵۰۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے بارہ ہزار درہم دیت مقرر کی۔

باب ۹۲۷۔ ماجاء في الدية كم هي من الدراهم
۱۲۵۰۔ حدثنا محمد بن بشار ثنا معاذ بن هاني عن محمد بن مسلم هو الطائفي عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جعل الدية اثنا عشر الفا

سعید بن عبدالرحمن مخزومی، سفیان بن عیینہ سے وہ عمرو بن دینار سے وہ عکرمہ سے اور وہ رسول اللہ ﷺ سے اسی کے مثل حدیث نقل کرتے ہیں۔ اس میں ابن عیینہ کی حدیث میں اس سے زیادہ الفاظ ہیں۔ محمد بن مسلم کے علاوہ کسی اور نے ابن عباسؓ سے یہ حدیث نقل نہیں کی۔ بعض علماء اسی حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ جب کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ دیت دس ہزار درہم ہے۔ سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا بھی یہی قول ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں۔ دیت صرف اونٹوں سے دی جاتی ہے اور ان کی تعداد سو ہوتی ہے۔

باب ۹۲۸۔ ایسے زخموں کی دیت جن میں ہڈی ظاہر ہو جائے۔

۱۲۵۱۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایسے زخم جن میں ہڈی ظاہر ہو جائے پانچ پانچ اونٹ دیت کے طور پر دیئے جائیں گے۔

باب ۹۲۸۔ ماجاء في الموضحة
۱۲۵۱۔ حدثنا حميد بن مسعدة ثنا يزيد بن زريع ثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواضح خمس خمس

(۵) ابن مخاض وہ اونٹ جو ایک سال کا ہو کر دوسرے سال میں لگا ہو۔ (مترجم)

(۱) خلفہ: اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو حاملہ ہو۔ (مترجم)

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ علماء کا اسی پر عمل ہے۔ سفیان ثوری، شافعی، احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں کہ ایسے زخموں کی دیت جن میں ہڈی ظاہر ہو جائے پانچ اونٹ ہے۔

باب ۹۲۹۔ انگلیوں کی دیت۔

۱۲۵۲۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کی دیت برابر ہے یعنی ہر انگلی کی دیت دس اونٹ ہے۔

باب ۹۲۹۔ مَا جَاءَ فِي دِيَةِ الْأَصَابِعِ
۱۲۵۲۔ حَدَّثَنَا أَبُو عَمَارٍ ثنا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ يَزِيدِ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَةُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ عَشْرَةٌ مِنَ الْإِبِلِ لِكُلِّ أُصْبَعٍ

اس باب میں ابو موسیٰ اور عبد اللہ بن عمر سے بھی احادیث منقول ہیں یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ بعض علماء اسی پر عمل پیرا ہیں۔ ثوری، شافعی، احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں۔

۱۲۵۳۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: انگوٹھا اور سب سے چھوٹی انگلی دیت میں برابر ہیں۔

۱۲۵۳۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا ثنا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

توضیح: بطور خاص چھنگلیا اور انگوٹھے کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ انگوٹھے میں دو اور چھنگلیا میں تین پورے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کی زیادتی کا اعتبار نہیں دونوں میں دس دس اونٹ ہوں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ انگوٹھے میں چونکہ دو پورے ہوتے ہیں اس لیے اس کے ایک پورے کی دیت پانچ اونٹ ہوگی واللہ اعلم (مترجم)

باب ۹۳۰۔ معاف کر دینے سے متعلق۔

۱۲۵۴۔ ابوسفر کہتے ہیں کہ قریش کے ایک شخص نے ایک انصاری کا دانت توڑ دیا۔ اس نے حضرت معاویہؓ کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا اور کہا کہ اے امیر المؤمنین اس نے میرا دانت اکھاڑ دیا ہے۔ حضرت معاویہؓ نے فرمایا: ہم تمہیں راضی کر دیں گے۔ اس پر دوسرے شخص نے منت سماجت شروع کر دی۔ یہاں تک کہ معاویہؓ تنگ آ گئے۔ حضرت معاویہؓ نے فرمایا: تم جانو تمہارا ساتھی جانے۔ ابو درداءؓ بھی اس وقت بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ سنا کہ اگر کسی شخص کو اس کے جسم میں کوئی زخم وغیرہ آجائے اور وہ زخم دینے والے کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کا ایک درجہ

باب ۹۳۰۔ مَا جَاءَ فِي الْعَفْوِ
۱۲۵۴۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ثنا يُونُسُ بْنُ أَبِي اسْحَقٍ ثنا أَبِي السَّفَرِ قَالَ دَقَّ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ سِنَّ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ لِمُعَاوِيَةَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ هَذَا دَقَّ سِنِّي فَقَالَ مُعَاوِيَةُ إِنَّا سَنَرْضِيكَ وَالْحَ الْأَخْرَ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَأَبْرَمَهُ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ شَأْنُكَ بِصَاحِبِكَ وَأَبُو الدَّرْدَاءِ جَالِسٌ عِنْدَهُ فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ فِي جَسَدِهِ

بلند کرتے ہیں اور ایک گناہ بخش دیتے ہیں۔ انصاری نے کہا: کیا آپ نے یہ رسول اللہ ﷺ سے سنا؟ فرمایا: ہاں میرے ان کانوں نے سنا اور دل نے محفوظ کر لیا۔ انصاری نے کہا: تو میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ حضرت معاویہؓ نے فرمایا: اب کوئی مضائقہ نہیں لیکن تمہیں محروم نہیں رکھوں گا۔ پھر اسے مال دینے کا حکم دیا۔

فَيَتَصَدَّقُ بِهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهِ خَطِيئَةً فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُهُ أَذُنَايَ وَوَعَاةَ قَلْبِي قَالَ فَإِنِّي أَذْرُهَا لَهُ قَالَ مُعَاوِيَةُ لَا جَرَمَ لَا أُخَيِّبُكَ فَأَمَرَ لَهُ بِمَالٍ

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ ہمیں ابوسفرد کے ابودرداء سے سماع کا علم نہیں۔ ابوسفرد کا نام سعید بن احمد ہے انہیں ابن حمید ثوری بھی کہتے ہیں۔

باب ۹۳۱۔ مَا جَاءَ فِي مَنْ رُضِخَ رَأْسُهُ بِصَخْرَةٍ

باب ۹۳۱۔ جس کا سر پتھر سے کچل دیا گیا ہو۔

۱۲۵۵۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ثَنَا هَمَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ خَرَجْتُ جَارِيَةً عَلَيْهَا أَوْصَاحٌ فَأَخَذَهَا يَهُودِيٌّ فَرَضَخَ رَأْسَهَا وَأَخَذَ مَا عَلَيْهَا مِنَ الْحُلِيِّ قَالَ فَأَذْرَكْتُ وَبِهَا رَمَقٌ فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ قَتَلَكَ أَقْلَانُ فَقَالَتْ بِرَأْسِهَا لَا قَالَ أَقْلَانُ حَتَّى سَمَى الْيَهُودِيٌّ فَقَالَتْ بِرَأْسِهَا نَعَمْ قَالَ فَأَخَذَ فَأَعْتَرَفَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضِخَ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجْرَيْنِ

۱۲۵۵۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ایک لڑکی کہیں جانے کے لیے نکلی۔ اس نے چاندی کا زیور پہنا ہوا تھا۔ ایک یہودی نے اسے پکڑ لیا اور اس کا سر پتھر سے کچل کر اس کا زیور وغیرہ لے لیا۔ انسؓ کہتے ہیں کہ ابھی اس میں تھوڑی سی جان باقی تھی کہ لوگ پہنچ گئے اور اسے آنحضرت ﷺ کے پاس لے آئے۔ آپ ﷺ نے پوچھا تمہیں کس نے قتل کیا؟ فلاں نے؟ اس نے اشارہ کیا کہ نہیں۔ یہاں تک کہ آپ ﷺ نے اس یہودی کا نام لیا تو اس نے اپنے سر سے اشارہ کر دیا کہ ہاں۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ پھر وہ یہودی پکڑا گیا اور اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ چنانچہ آپ ﷺ نے اس کا سر پتھر سے کچلنے کا حکم دیا۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض علماء اسی پر عمل کرتے ہیں احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے جب کہ بعض علماء کا مسلک یہ ہے کہ قصاص صرف تلوار ہی سے لیا جائے۔

احناف کا مسلک یہ ہے کہ قصاص لیتے ہوئے صرف تلوار ہی سے قصاص لیا جائے کیونکہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”قصاص صرف تلوار ہی سے ہوتا ہے۔“

یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قتل کی اقسام ذکر کی جائیں۔ قتل کی پانچ اقسام ہیں۔

(۱) قتل عمد۔ مقتول کو اس طرح قتل کیا جائے کہ اس کا کوئی عضو الگ ہو جائے یا جسم کے اجزاء پھٹ جائیں خواہ وہ کسی ہتھیار سے ہو یا کسی دھار والی چیز سے۔ جب کہ امام ابو یوسف اور امام محمد اس قسم کی یہ تعریف کرتے ہیں کہ مقتول کو بارادہ قتل کسی ایسی چیز سے قتل کیا جائے جس سے عموماً ہلاک کیا جاتا ہے۔ اس میں قصاص ہے البتہ اگر ورثاء معاف کر دیں یا دیت لینے پر راضی ہو جائیں تو اس کی جان معاف ہو جاتی ہے۔ لیکن اس صورت میں کفارہ واجب نہیں ہوتا۔

(۲) قتل شبه عمد۔ یہ ہے کہ کسی ہتھیار یا دھار والی چیز کے علاوہ کسی اور چیز سے قصداً ضرب لگائی گئی ہو۔ اس صورت میں قصاص نہیں ہوتا بلکہ قاتل کی برادری پر دیت مغلظہ واجب کر دی جاتی ہے۔

(۳) قتلِ خطاء۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ خطا کا تعلق قصد سے ہو مثلاً کوئی شخص کسی چیز کو شکار سمجھ کر یا کسی کو حربی کا فر سمجھ کر نشانہ باندھے اور تیر یا گولی چلا دے۔ لیکن وہ فی الحقیقت انسان تھا اور دوسری صورت میں مسلمان تھا۔ دوسرے یہ کہ خطاء کا تعلق فعل سے ہو۔ مثلاً کسی خاص چیز پر تیر یا گولی چلائی گئی لیکن وہ کسی انسان کو لگ گئی۔

(۴) قتلِ جاری مجری خطاء۔ مثلاً کوئی شخص سوتے ہوئے کسی شخص پر جا پڑا اور اس سے دوسرا ہلاک ہو گیا۔ قتلِ خطاء اور جاری مجری خطاء میں کفارے کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے اور عاقلہ (قاتل کی برادری) پر دیت واجب الاداء ہو جاتی ہے

(۵) قتلِ سبب۔ مثلاً کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کی زمین میں کھدوایا یا کوئی پتھر وغیرہ رکھ دیا۔ جس میں گر کر یا ٹھوکر کھا کر کوئی شخص مر گیا۔ اس صورت میں عاقلہ پر دیت واجب ہوگی لیکن کفارہ لازم نہیں آئے گا۔

قتل کی پہلی چار قسموں میں اگر قاتل مقتول کا وارث ہو تو میراث سے محروم ہو جاتا ہے۔ لیکن پانچویں قسم میں نہیں۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۹۳۲۔ مؤمن کے قتل پر عذاب کی شدت

باب ۹۳۲۔ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ قَتْلِ الْمُؤْمِنِ

۱۲۵۶۔ حضرت عبداللہ بن عمروؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پوری دنیا کا ختم ہو جانا ایک مسلمان مرد کے قتل ہو جانے سے اہل ہے۔

۱۲۵۶۔ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيْعٍ قَالَ ثنا ابنُ عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَزَوَالِ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنَ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ

محمد بن بشار، محمد بن جعفر سے وہ محمد بن شعبہ سے وہ یعلیٰ بن عطاء سے وہ اپنے والد سے اور وہ عبداللہ بن عمرو سے اسی کے مانند حدیث نقل کرتے ہیں لیکن وہ غیر مرفوع اور ابن ابی عدی کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔ اس باب میں سعد، ابن عباس، ابوسعید، ابو ہریرہ، عقبہ بن عامر اور بریدہؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ سفیان ثوری، یعلیٰ بن عطاء سے عبداللہ بن عمرو بن عاص کی حدیث اسی طرح موقوفاً نقل کرتے ہیں اور یہ مرفوعاً حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔

باب ۹۳۳۔ قیامت کے دن خون کے فیصلے کے متعلق۔

باب ۹۳۳۔ الْحُكْمُ فِي الدِّمَاءِ

۱۲۵۷۔ حضرت عبداللہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں کے درمیان سب سے پہلے خون کے فیصلے کریں گے۔

۱۲۵۷۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ ثنا وَهْبُ بْنُ حَرِيرٍ ثنا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحْكَمُ بَيْنَ الْعِبَادِ فِي الدِّمَاءِ

حضرت عبداللہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے کئی راوی اسی طرح اعمش سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں جب کہ بعض غیر مرفوع بھی نقل کرتے ہیں۔ ابوالکریب، وکیع سے وہ اعمش سے وہ ابوالواہل سے اور وہ عبداللہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ سب سے پہلے بندوں کے خون کا فیصلہ کریں گے۔ پھر ابوالکریب، وکیع سے وہ اعمش سے وہ ابوالواہل سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہؓ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سب سے پہلے جس چیز کا فیصلہ ہوگا وہ خون ہے۔ (یعنی ایک حدیث میں ”یحکم“ اور دوسری میں ”يقضي“ کے الفاظ ہیں۔)

۱۲۵۸۔ یزید رقاشی، ابوالحکم بکلی سے نقل کرتے ہیں کہ ابوسعید خدری اور

۱۲۵۸۔ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَرِيْثِ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ

ابو ہریرہؓ آنحضرت ﷺ کا یہ فرمان ذکر کر رہے تھے کہ اگر اہل زمین آسمان بھی ایک مؤمن کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں دھکیل دیں گے۔

موسىٰ عن الحسين بن واقد عن يزيد الرقاشي ثنا أبو الحكم الجحلي قال سمعتُ أبا سعيدٍ الخدريّ وأبا هريرةَ يدكران عن رسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي مُؤْمِنٍ لَأَكْبَهُمُ اللهُ فِي النَّارِ
یہ حدیث غریب ہے۔

باب ۹۳۳۔ اگر کوئی شخص اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو اس سے قصاص لیا جائے یا نہیں۔

باب ۹۳۴۔ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ يُقَادُ مِنْهُ أُمَّ لَا

۱۲۵۹۔ حضرت سراقہ بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ باپ پر بیٹے کے قتل میں قصاص نہیں دلویا کرتے تھے جب کہ بیٹے سے باپ کے قتل میں قصاص دلواتے تھے۔

۱۲۵۹۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ ثَنَا اسْمَعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ ثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعِيبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ سُرَّاقَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِيدُ الْآبَ مِنْ ابْنِهِ وَلَا يُقِيدُ الْإِبْنَ مِنْ أَبِيهِ

اس حدیث کو ہم سراقہ کی روایت سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں اور یہ سند صحیح نہیں چنانچہ اسماعیل بن عیاش، ثنی بن صباح سے نقل کرتے ہیں جو ضعیف ہیں۔ پھر یہ حدیث ابو خالد احمر سے بھی منقول ہے وہ حجاج سے وہ عمرو بن شعیب سے وہ اپنے والد سے وہ ان کے دادا سے وہ عمر سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ یہی حدیث عمرو بن شعیب سے مرسل بھی منقول ہے لیکن اس میں اضطراب ہے۔ علماء اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو وہ قصاص میں قتل نہ کیا جائے۔ اور اسی طرح باپ اگر بیٹے پر زنا کی تہمت لگائے تو اس پر حد قذف جاری نہ کی جائے۔

۱۲۶۰۔ حضرت عمر بن خطابؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ باپ بیٹے کے قتل کے جرم میں قتل نہ کیا جائے۔

۱۲۶۰۔ حَدَّثَنَا ابُو سَعِيدٍ الْأَشْجَثُ ثَنَا ابُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حِجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعِيبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُولُ لَا يَقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَالِدِ
۱۲۶۱۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدَى عَنْ اسْمَعِيلَ بْنِ مُسْلِمَ بْنِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسِ بْنِ أَبِي عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَالِدِ

۱۲۶۱۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حدود مسجدوں میں قائم کی جائیں اور باپ کو بیٹے کے قتل کی سزا میں قتل نہ کیا جائے۔

اس حدیث کو ہم صرف اسماعیل بن مسلم کی روایت سے مرفوع جانتے ہیں۔ یہ سبھی ہیں بعض علماء ان کے حافظے پر اعتراض کرتے ہیں۔

باب ۹۳۵۔ مَا جَاءَ لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدِي ثَلَاثٍ

باب ۹۳۵۔ مسلمان کا خون صرف تین چیزوں سے حلال ہوتا ہے۔

۱۲۶۲۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ أَبِي مَعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرَّةٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدِي ثَلَاثِ الثَّيْبِ الزَّانِي وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكِ لِذِيئِهِ الْمَفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ

۱۲۶۲۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جو مسلمان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اس کا خون صرف تین جرموں کے ارتکاب کی وجہ سے حلال ہوتا ہے۔ (۱) شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرنے، (۲) کسی کو قتل کرنے، (۳) اپنے دین کو چھوڑنے کی وجہ سے (یعنی مرتد)

اس باب میں عثمان، عائشہ اور ابن عباسؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۹۳۶۔ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَقْتُلُ نَفْسًا مَعَاهِدًا

باب ۹۳۶۔ معاہدہ کو قتل کرنے کی ممانعت۔ (۱)

۱۲۶۳۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ سَلِيمَانَ عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مَعَاهِدَةً لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ فَقَدْ أَخْفَرَ بِذِمَّةِ اللَّهِ فَلَا يَرُوحُ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنْ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ خَرِيفًا

۱۲۶۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے کسی معاہدہ کو قتل کر دیا جسے اللہ اور اس کے رسول نے پناہ دی تھی تو اس نے اللہ کی پناہ کو توڑ ڈالا۔ ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا جو ستر برس کی مسافت سے آتی ہے۔

اس باب میں ابوبکرؓ سے بھی حدیث منقول ہے حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور انہی سے کئی سندوں سے مرفوعاً منقول ہے۔

۱۲۶۴۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بِنِ عِيَّاشٍ عَنْ أَبِي سَعْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَى الْعَامِرِيِّينَ بِدِيَةِ الْمُسْلِمِينَ وَكَانَ لهُمَا عَهْدٌ مِّنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۱۲۶۴۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے قبیلہ بنو عامر کے دو شخصوں کی جن کے ساتھ آپ ﷺ کو عہد تھا۔ دو مسلمانوں سے دیت دلوائی (یعنی ان کے قتل کی وجہ سے)۔

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ ابوسعید بقال کا نام سعید بن مرزبان ہے۔

باب ۹۳۷۔ مَا جَاءَ فِي حُكْمِ وَلِيِّ الْقَتِيلِ فِي الْقِصَاصِ وَالْعَفْوِ

باب ۹۳۷۔ مقتول کے ولی کو اختیار ہے کہ چاہے تو قصاص لے ورنہ معاف کر دے۔

۱۲۶۵۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ وَيَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَا ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ثَنَا

۱۲۶۵۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فتح مکہ کے موقع پر لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثناء بیان کی اور فرمایا:

(۱) معاہدہ اس کافر کو کہتے ہیں جس نے حاکم کے ساتھ جنگ و جدل نہ کرنے کا معاہدہ کیا ہو اور۔ (مترجم)

اگر کسی شخص کا کوئی شخص قتل کر دیا گیا تو اس شخص کو دو چیزوں کا اختیار ہے
یا معاف کر دے یا اس کے بدلے میں قاتل کو قتل کرے۔

یحییٰ بن ابی کثیر قال حدثنی أَبُو سَلَمَةَ قَالَ قَالَ نُبَيْ
أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيَّ رَسُولُهُ مَكَّةَ قَامَ فِي
النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَتَنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ
قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَعْفُوَ وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ

اس باب میں وائل بن حجر، انس، ابو شریح اور خولید بن عمرو سے بھی احادیث منقول ہیں۔

۱۲۶۶۔ حضرت ابو شریح کعبی کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: اللہ
نے مکہ کو حرمت کی جگہ ٹھہرایا ہے لوگوں نے نہیں۔ پس جو شخص اللہ اور
قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ یہاں کسی کا خون نہ بہائے اور نہ
ہی اس میں سے کوئی درخت اکھاڑے اور اگر کوئی میرے مکہ کو فتح
کرنے کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہوئے اپنے لیے رخصت کی راہ
نکالے (تو اس سے کہہ دیا جائے کہ) کہ اللہ تعالیٰ نے اسے میرے
لیے حلال کیا ہے لوگوں کے لئے نہیں۔ اور پھر میرے لیے بھی اس کی
حرمت کو دن کے ایک مخصوص حصے میں حلال کیا گیا اور اس کے بعد
قیامت تک کے لیے حرام کر دیا گیا۔ اسے قبیلہ بنو خزاعہ تم نے بنو ذیل
کے فلاں شخص کو قتل کر دیا ہے میں اس کی دیت دلوانے کا اعلان کرتا
ہوں۔ آج کے بعد اگر کسی شخص کا کوئی (قریبی) قتل کر دیا گیا تو اس
کے اہل و عیال کو اختیار دیا جائے گا اگر وہ چاہیں تو قاتل کو قتل کریں ورنہ
دیت لے لیں۔

۱۲۶۶۔ حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد
ثنا ابن ابى ذئب قال ثنا سعيد بن ابى سعيد
المقبرى عن ابى شريح الكعبي ان رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال ان الله حرم مكة ولم يحرمها
الناس من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفكن
فيها دما ولا يعضدن فيها شجرا فان ترخص
مترخص فقال احلت لرسول الله صلى الله عليه
وسلم فان الله احلها لى ولم يحلها للناس وانما
احلت لى ساعة من نهار ثم هى حرام الى يوم
القيامة ثم انكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من
هذيل و ابى عاقله فمن قتل له قاتل بعد اليوم فاهله
بين خيرتين اما ان يقتلوا او ياخذوا العقل

حضرت ابو ہریرہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ شیبان بھی یحییٰ بن کثیر سے اسی کے مثل حدیث نقل کرتے ہیں۔ ابو شریح رسول اللہ
ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”مقتول کے درمیان کو اختیار ہے کہ چاہیں تو قاتل کو قتل کریں یا معاف کر دیں دیت دیں بعض
علاء کا بھی یہی مسلک ہے۔

۱۲۶۷۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ کے زمانے
میں ایک شخص نے کسی کو قتل کر دیا تو اسے مقتول کے ولی کے سپرد کر دیا
گیا۔ قاتل نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اللہ کی قسم میں نے قصداً اسے
قتل نہیں کیا: آنحضرت ﷺ نے مقتول کے ولی سے فرمایا: جان لو
اگر یہ سچا ہے اور تم نے اس کو قصاص کے طور پر قتل کر دیا تو تم جہنم میں
جاؤ گے۔ اس پر اس نے اسے معاف کر دیا۔ چنانچہ اس کے ہاتھ
پچھے بندھے ہوئے تھے اور وہ انہیں کھینچتا ہوا وہاں سے نکلا۔ اس

۱۲۶۷۔ حدثنا ابو كريب ثنا ابو معاوية عن
الاعمش عن ابى صالح عن ابى هريرة قال قتل
رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
فدفع القاتل الى وليه فقال القاتل يا رسول الله والله
صلى الله عليه وسلم والله ما اردت قتله فقال
رسول الله اما انه ان كان صادقا فقتلته دخلت
النار فحلاه الرجل وكان مكثوفاً بنسعة قال فخرج

يَحْرُسُ عَنْهُ فَكَانَ يُسَمَّى ذَا النَّسْعَةِ

کے بعد اس کا نام ذالانسعۃ پڑ گیا۔ یعنی ”تسے والا“ کیونکہ اس کے ہاتھ تسے سے بندھے ہوئے تھے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۹۳۸۔ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُثَلَّةِ

باب ۹۳۸۔ مثلہ کی ممانعت۔ (۱)

۱۲۶۸۔ حدثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن بن مهدى ثنا سفیان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميراً على جيش أو صاه في خاصة نفسه يتقوى الله و من معه من المسلمين خيراً فقال اغزوا باسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدًا وفي الحديث قصة

۱۲۶۸۔ سلیمان بن بریدہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ جب کسی شخص کو کسی لشکر کا سردار مقرر کرتے تو اسے اس کے اپنے متعلق وصیت کرتے کہ تم اللہ سے ڈرنا۔ اور اس کے ساتھ جانے والوں کو بھلائی کی وصیت کرتے پھر فرماتے جہاد کرو اللہ کے نام سے اسی کے راستے میں اس سے جو اللہ کا انکار کرتا ہے۔ جہاد کرو اور مال غنیمت میں خیانت نہ کرو، عہد شکنی نہ کرو، مثلہ نہ کرو اور کسی بچے کو قتل نہ کرو۔ اس حدیث میں طویل قصہ ہے۔

اس باب میں ابن مسعود، شداد بن اوس، مغیرہ، یعلیٰ بن مرہ اور ابویوب بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ علماء بھی مثلہ کو حرام کہتے ہیں۔

۱۲۶۹۔ حدثنا احمد بن منيع ثنا هشيم ثنا خالد عن ابى قلابة عن ابى الاشعث الصنعاني عن شداد بن اوس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كذب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة و اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته وليبرح ذبيحته

۱۲۶۹۔ حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ بھلائی کرنا فرض کر دیا ہے۔ لہذا اگر قتل کرو تو بہتر طریقے سے، ذبح کرو۔ تو آسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے (۲) چنانچہ تم میں سے جو شخص ذبح کرے وہ اپنی چھری کو تیز کر لے تاکہ جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابوالاشعث کا نام شرمیل بن آدہ ہے۔

باب ۹۳۹۔ مَا جَاءَ فِي ذِيَةِ الْحَنِينِ

باب ۹۳۹۔ حمل ضائع کر دینے کی دیت۔

۱۲۷۰۔ حدثنا الحسن بن علي الخلال ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن منصور عن ابراهيم عن عبيد بن نفل عن المغيرة بن شعبة ان امرأتين كانتا ضرتين فرمت احلاهما الاخرى بحجر او عمود

۱۲۷۰۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ دو عورتوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا تو ایک نے دوسری کو پتھر یا خیمے کی کوئی میخ وغیرہ مار دی جس سے اس کا حمل ضائع ہو گیا۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے دیت کے طور پر ایک غلام یا باندی دینے کا حکم دیا۔ اور اسے قاتل عورت کے اقرباء پر

(۱) مثلہ: جسم کے کسی عضو کو کاٹنے کو کہتے ہیں۔ (مترجم)

(۱) جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرنا اور ایک جانور کی موجودگی میں دوسرے جانور کو ذبح نہ کرنا مستحب ہے اور اسی قیبل سے ہے۔ (مترجم)

فَسَطَاطٍ فَالْقَتُّ جَنِينَهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ غُرَّةَ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ وَجَعَلَهُ عَلَى عَصَبَةِ الْمَرْأَةِ

لازم کیا۔

یہ حدیث حسن زید بن حباب سے وہ سفیان سے اور وہ منصور سے بھی نقل کرتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۲۷۱۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے جنین (محل گرانے والی) میں غلام یا باندی دینے کا فیصلہ دیا تو جس کے متعلق فیصلہ کیا تھا اس نے کہا۔ کیا ہم سے اس کی دیت دلواری ہے ہیں جس نے نہ لکھایا نہ پیا اور نہ چیخا۔ ایسی چیز کا خون تو رازیرگاں ہوتا ہے۔ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: یہ تو شاعروں کی طرح باتیں کرتا ہے۔ ہاں اس میں ایک غلام یا باندی بطور دیت دینی ہوگی۔

۱۲۷۱۔ حدثنا علي بن سعيد الكندي ثنا ابن ابي زائدة عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغيره عبد أو أمة فقال الذي قضى عليه أنعطى من لا شرب ولا أكل ولا صاَح فاستهَل فمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا لَيَقُولُ بِقَوْلِ الشَّاعِرِ بَلَى فِيهِ غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ

اس باب میں حمید بن مالک بن ثابتہ سے بھی حدیث منقول ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ علماء اسی پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں غلام، لونڈی یا پانچ سو درہم ادا کیے جائیں گے جب کہ بعض کہتے ہیں کہ گھوڑا یا بچہ بھی دیا جاسکتا ہے۔

باب ۹۴۰۔ مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے۔

باب ۹۴۰۔ مَا جَاءَ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

۱۲۷۲۔ حضرت ابو جحیفہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علیؓ سے کہا۔ اے امیر المؤمنین کیا آپ کے پاس کوئی ایسی چیز بھی مکتوب ہے جو قرآن میں نہیں؟ فرمایا: اس ذات کی قسم جس نے بیج کو اگایا اور روح کو وجود بخشا۔ مجھے علم نہیں کہ کوئی ایسی چیز ہو جو قرآن میں نہ ہو۔ ہاں البتہ ہمیں قرآن کی وہ سمجھ ضروری گئی ہے۔ جو کسی انسان کو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ پھر کچھ چیزیں ہمارے پاس مکتوب بھی ہیں۔ میں نے عرض کیا وہ کیا ہیں؟ فرمایا: دیت قیدیوں کی رہائی اور یہ کہ مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے۔

۱۲۷۲۔ حدثنا احمد بن منيع ثنا هشيم ثنا مطرف بن عبيد بن شعيب ثنا ابو جحيفة قال قلت لعلي يا امير المؤمنين هل عندكم سوداء في بيضاء ليس في كتاب الله قال والذي فلق الحبة وبر النسمه ما علمته الا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في الصحيفة قال قلت وما في الصحيفة قال فيها العقل وفكاك الاسير وان لا يقتل مؤمن بكافر

اس باب میں عبد اللہ بن عمرؓ سے بھی حدیث منقول ہے۔ حضرت علیؓ کی حدیث حسن صحیح ہے بعض علماء اسی پر عمل کرتے ہیں۔ شافعی، سفیان ثوری، مالک، احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں کہ مؤمن کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے۔ جب کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ معاہدہ کو قتل کرنے پر مسلمان کو بطور قصاص قتل کیا جائے۔ لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔

۱۲۷۳۔ عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مسلمان کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے اسی سند سے یہ بھی منقول ہے کہ کافر کی دیت مسلمان سے آدھی ہے۔

۱۲۷۳۔ حدثنا عيسى بن احمد ثنا ابن وهب عن اسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل

مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ دِيَّةُ عَقْلِ الْكَافِرِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُؤْمِنِ

حضرت عبداللہ بن عمرو کی اس باب میں منقول حدیث حسن ہے۔ علماء کا یہود و نصاریٰ کی دیت میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کا مسلک اسی حدیث کے مطابق ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ یہودی اور نصرانی کی دیت مسلمان سے آدھی ہے۔ امام احمد بھی اسی کے قائل ہیں۔ حضرت عمر بن خطابؓ سے منقول ہے کہ ان کی دیت چار ہزار درہم اور مجوسی کی آٹھ سو درہم ہے۔ امام مالک، شافعی اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں لیکن سفیان ثوری اور اہل کوفہ کے نزدیک یہودی اور نصرانی کی دیت بھی مسلمان کے برابر ہے۔

مسئلہ: اس مسئلے میں احناف کا مسلک یہ ہے کہ ذمی کافر کے بدلے مسلمان قتل کیا جائے گا کیونکہ آپ ﷺ سے منقول ہے کہ ”آپ ﷺ نے ایک معابد کافر کو قتل کرتے پر اس کے مسلمان قاتل کے قتل کا حکم دیا اور فرمایا: میں اس کے عہد کو پورا کرنے کا زیادہ حقدار ہوں“ اس قسم کی احادیث مختلف طرق سے منقول ہے۔ مزید یہ کہ ایسا کافر مسلمانوں کے ساتھ دارالاسلام کا باشندہ ہوتا ہے۔ اور حکومت پر اس کی جان و مال کے تحفظ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لہذا وہ مسلمانوں کے ساتھ معصوم الدم ہونے میں برابر کا شریک ہوتا ہے۔ لہذا ایک کے بدلے میں دوسرے سے قصاص لیا جائے گا۔

جہاں تک مذکورہ بالا حدیث کا تعلق ہے کہ مسلمان کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے۔ یہ حربی کافر پر محمول ہے چنانچہ احناف دونوں حدیثوں پر عمل کرتے ہیں۔

یہاں دوسرا مسئلہ ذمی کافر اور مسلمان کی دیت کی مقدار کا ہے چنانچہ احناف کے نزدیک دونوں کی دیت برابر ہے اس لیے کہ حضرت ربیعہ بن ابی عبدالرحمن سے منقول ہے کہ ذمی کی دیت آنحضرت ﷺ کے زمانے میں مسلمان کے برابر ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح حضرت ابو بکرؓ اور عمرؓ کے دور میں بھی یہی معمول تھا۔ عبدالرزاق بھی حضرت ابن مسعودؓ سے نقل کرتے ہیں کہ ہر ذمی کی دیت مسلمان کی دیت کے برابر ہے پھر مسلمان کی طرح ذمی بھی معصوم الدم ہے۔ جیسے کہ اوپر ذکر کیا گیا لہذا اس کی دیت بھی پوری ہوگی۔ ان دلائل کے علاوہ قرآن کریم میں بھی جہاں دیت کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے وہاں بھی دیت کے مکمل دینے کا حکم ہے مسلمان اور ذمی میں کوئی تفریق نہیں کی چنانچہ ارشاد ہے ”وان كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله“ یعنی اگر تمہارے اور کسی دوسری قوم کے درمیان معاہدہ ہو تو مقتول کے ورثاء کو پوری دیت ادا کی جائے۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۹۴۱۔ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ عَبْدَهُ

باب ۹۴۱۔ اگر کوئی شخص اپنے غلام کو قتل کر دے۔

۱۲۷۴۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ ثَنَا ابُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ

۱۲۷۴۔ حضرت سمرہؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اگر کسی نے اپنے غلام کو قتل کیا تو ہم اس کے بدلے اسے قتل کریں گے اور جس نے اپنے غلام کی ناک کاٹ دی ہم بھی اس کی ناک کاٹ دیں گے۔

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ بعض علماء تابعین اور ابراہیم نخعی کا یہی مذہب ہے جب کہ بعض کے نزدیک سید کے اپنے غلام کو قتل کرنے میں قصاص نہیں۔ لیکن اگر غلام کسی اور کا ہو تو اس کے بدلے آزاد کو بھی قتل کیا جائے گا۔ یہ سفیان ثوری کا بھی قول ہے۔ بعض علماء مطلقاً آزاد اور غلام کے درمیان قصاص کو صحیح نہیں کہتے چاہے وہ جان کا ہو یا اس سے کم۔ امام احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں۔

باب ۹۴۲۔ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ تَرْتُّ مِنْ دِيَّةِ زَوْجِهَا

باب ۹۴۲۔ بیوی کو اس کے شوہر کی دیت میں سے ترکہ ملے گا۔

۱۲۷۵۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ فرمایا کرتے تھے کہ دیت عاقلہ پر واجب ہوتی ہے اور عورت کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا یہاں تک کہ ضحاک بن سفیان کلابی نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے انہیں لکھا کہ اشیم ضبابی کی بیوی کو ان کے شوہر کی دیت میں سے ورش دو۔

۱۲۷۵۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ وَ ابُو عَمَارٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا ثَنَا سَفِيْنُ بِنِ عِيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ الدِّيَةُ عَلٰى الْعَاقِلَةِ وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا حَتّٰى اَخْبِرَهُ الضَّحَّاكُ بِنُ سَفِيَّانَ الْكِلَابِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ اِلَيْهِ اَنَّ وَرِثَ امْرَاةً اَشِيْمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر علماء کا عمل ہے۔

باب ۹۴۳۔ قصاص کے متعلق۔

باب ۹۴۳۔ مَا جَاءَ فِي الْقِصَاصِ

۱۲۷۶۔ حضرت عمران بن حصینؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کے ہاتھ پر دانتوں سے کاٹ دیا۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچا تو اس کے دودانت گر گئے۔ پھر وہ دونوں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں پیش ہوئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تم لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اپنے بھائی کو اونٹ کی طرح کاٹتے ہیں۔ جاؤ تمہارے لیے کوئی دیت نہیں پھر یہ آیت نازل ہوئی ”والجروح قصاص“۔ زخموں کا بدلہ بھی دیا جائے۔

۱۲۷۶۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ زُرَّارَةَ بِنَ اَوْفَى يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَنَزَعَ يَدَهُ فَوَقَعَتْ نَيْبَتَاهُ فَاخْتَصَمُوا اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَعْضُّ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ كَمَا يَعْضُّ لَا دِيَةَ لَكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَالْجُرُوْحَ قِصَاصًا

اس باب میں یعلیٰ بن امیہؓ اور سلمہ بن امیہؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں اور یہ دونوں آپس میں بھائی ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۹۴۴۔ طرم کو قید کرنا۔

باب ۹۴۴۔ مَا جَاءَ فِي الْحَبْسِ فِي التُّهْمَةِ

۱۲۷۷۔ حضرت بہز بن حکیم اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ایک شخص کو کسی تہمت کی وجہ سے قید کیا تھا پھر بعد میں اسے چھوڑ دیا۔

۱۲۷۷۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ سَعِيْدِ الْكِنْدِيِّ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِي تُّهْمَةٍ ثُمَّ خَلَّى عَنْهُ

اس باب میں حضرت ابو ہریرہؓ بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ بہز بن حکیم کی حدیث حسن ہے اور اسلمیل بن ابراہیمؓ بھی بہز بن حکیم سے اس سے طویل حدیث نقل کرتے ہیں۔

باب ۹۴۵۔ جو اپنے مال کے لیے مارا جائے وہ شہید ہے۔

باب ۹۴۵۔ مَا جَاءَ فِيْمَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

۱۲۷۸۔ سعید بن زید، عمرو بن نفیل سے نقل کرتے ہیں۔ کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: جو اپنے مال کے لیے قتل کیا گیا وہ شہید ہے۔

۱۲۷۸۔ حَدَّثَنَا سَلْمَةُ بْنُ شَيْبِ بْنِ حَاتِمِ بْنِ سِيَاهِ الْمُرُوْزِيِّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا ثَنَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ

عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ

عبدالرحمن بن عمرو بن سَهْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ
عَمْرٍو بْنِ نُفَيْلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ محمد بن بشار، ابو عامر عقدی سے وہ عبدالعزیز بن عبدالمطلب سے وہ عبداللہ بن حسن سے وہ ابراہیم بن محمد بن طلحہ سے وہ عبداللہ بن عمرو سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: جو اپنے مال کے لیے قتل کیا گیا وہ شہید ہے۔ اس باب میں علی، سعید بن زید اور ابو ہریرہ، ابن عمر، ابن عباس اور جابرؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو کی حدیث حسن ہے اور انہی سے کئی سندوں سے منقول ہے۔ علماء اپنی جان و مال کے دفاع کے لئے لڑنے کی اجازت دیتے ہیں ابن مبارک کہتے ہیں کہ خواہ وہ دو درہم ہی ہوں۔

۱۲۷۹۔ حدثنا محمد بن بشار ثنا ابو عامر العقدی
ثنا عبدالعزیز بن المطلب عن عبداللہ بن الحسن
عن ابراہیم بن مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ
أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقِّ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ

۱۲۷۹۔ حضرت عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
اگر کسی سے اس کا مال ناحق چھیننے کی کوشش کی گئی اور وہ دفاع کرتے
ہوئے مارا گیا تو وہ شہید ہے۔

یہ حدیث صحیح ہے اور محمد بن بشار سے عبدالرحمن بن مہدی سے وہ سفیان سے وہ عبداللہ بن حسن سے وہ ابراہیم بن محمد بن طلحہ سے وہ عبداللہ بن عمرو سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے مثل نقل کرتے ہیں۔

۱۲۸۰۔ حضرت سعید بن زید کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو
فرماتے ہوئے سنا کہ جو اپنے مال کے لیے مارا جائے وہ شہید ہے۔ جو
اپنی جان بچاتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے اور جو اپنا دین بچاتے
ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے اور جو اپنے گھر والوں کی جان بچاتے
ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔

۱۲۸۰۔ حدثنا عبد بن حمید قال اخبرني يعقوب
بن ابراهيم بن سعد ثنا ابى عن ابىه عن ابى عبيدة
بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبد الله
بن عوفٍ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ
شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ
دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسے کئی راوی ابراہیم بن سعد سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ اور یعقوب بن یعقوب بن ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبدالرحمن بن عوف زہری ہیں۔

باب ۹۴۶۔ قسامت کے متعلق۔ (۱)

باب ۹۴۶۔ مَا جَاءَ فِي الْقَسَامَةِ

(۱) قسامت: اس کی تعریف یہ ہے کہ اگر کسی محلے یا آبادی میں یا اس کے قرب و جوار میں کوئی متوکل پایا جائے اور قاتل کا پتہ نہ چلے تو حکومت تحقیق کرے اور اگر پھر بھی قاتل کا پتہ نہ چلے تو وہاں کے باشندوں میں سے پچاس آدمیوں سے حلف لیا جائے کہ نہ اس نے خود اسے قتل کیا ہے اور نہ ہی اسے قاتل کا علم ہے اس میں صرف دیت واجب ہوتی ہے۔ (مترجم)

۱۲۸۱۔ حضرت رافع بن خدیج اور ہبل بن ابی حثمہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن ہبل بن زید اور حبیصہ بن مسعود بن زید سفر میں ایک ساتھ روانہ ہوئے لیکن خیبر میں وہ دونوں الگ ہو گئے۔ پھر حبیصہ نے عبداللہ بن ہبل کو مقتول پایا اور آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے ان کے ساتھ حبیصہ بن مسعود اور عبدالرحمن بن ہبل بھی تھے جو سب سے چھوٹے تھے۔ عبدالرحمن نے اپنے ساتھی سے پہلے گفتگو شروع کرنے کا ارادہ کیا تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا: برے کا ادب ملحوظ رکھو چنانچہ وہ خاموش ہو گئے۔ اور ان کے دونوں ساتھیوں نے بات شروع کی۔ پھر عبدالرحمن بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اس طرح انہوں نے آنحضرت ﷺ کے سامنے عبداللہ بن ہبل کے قتل کا قصہ بیان کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تم پچاس قسمیں کھا سکتے ہو کہ انہیں فلاں نے قتل کیا ہے۔ تاکہ تم اپنے ساتھی کی دیت یا قصاص لینے کے مستحق ہو جاؤ (یا فرمایا اپنے مقتول کی) انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! ہم نے دیکھا نہیں تو کیسے قسم کھالیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: پھر یہودی پچاس قسمیں کھا کر بری ہو جائیں گے۔ عرض کیا یا رسول اللہ! ہم کیسے کافر قوم کی قسموں کا اعتبار کر لیں۔ چنانچہ جب آپ ﷺ نے یہ معاملہ دیکھا تو اس کی دیت ادا کر دی۔

۱۲۸۱۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ قَالَ يَحْيَىٰ وَحَسِبْتُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ وَسَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّهُمَا قَالَا خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ وَمُحِيْصَةُ بْنُ مَسْعُوْدِ بْنِ زَيْدٍ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ بِخَيْبَرَ تَفَرَّقَا فَبِئْسَ مَا هُنَاكَ ثُمَّ إِنَّ مُحِيْصَةَ وَجَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ سَهْلِ قَتِيْلًا قَدْ قُتِلَ فَأَقْبَلَ إِلَىٰ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ وَخُوَيْصَةُ بْنُ مَسْعُوْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلِ وَكَانَ أَصْغَرَ الْقَوْمِ ذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِيَتَكَلَّمَ قَبْلَ صَاحِبِهِ قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ كَبِيْرَ الْكُبَرَىٰ فَصَمَّتْ وَتَكَلَّمَ صَاحِبَاهُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مَعَهُمَا فَذَكَرُوا الرِّسُوْلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتَلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلِ فَقَالَ لَهُمْ أَتَحْلِفُونَ خَمْسِيْنَ يَمِيْنًا فَتَسْتَحِقُّوْنَ صَاحِبِكُمْ أَوْ قَاتِلِكُمْ قَالُوا كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ قَالَ فَتَبَرُّوْكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِيْنَ يَمِيْنًا قَالُوا وَكَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمِ كُفَّارٍ فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَىٰ عَقْلَهُ

علی بن خلال بھی زید بن ہارون سے وہ یحییٰ بن سعید سے وہ بشیر بن یسار سے وہ ہبل بن ابی حثمہ اور رافع بن خدیج سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض فقہائے مدینہ قسامت میں قصاص کو بھی جائز قرار دیتے ہیں لیکن اہل کوفہ کے نزدیک قسامت میں صرف دیت ہی ہوتی ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حدود کے متعلق رسول اکرم ﷺ سے

منقول احادیث کے ابواب

باب ۹۴۷۔ جن پر حدود واجب نہیں ہوتی۔

۱۲۸۲۔ حضرت علیؑ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تین شخص شرع کے احکام کے مکلف نہیں۔ ۱۔ سوما ہوا شخص جب تک جاگ نہ جائے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَبْوَابُ الْحُدُوْدِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب ۹۴۷۔ مَا جَاءَ فِيمَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ

۱۲۸۲۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ الْقَطْعِيُّ ثَنَا بِنُ عَمْرُو ثَنَا هَمَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنِ

عَلَيْهِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ زُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشَبَّ وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ

۲: بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے۔ ۳: پاگل یہاں تک کہ اس کی عقل لوٹ آئے۔

اس باب میں حضرت عائشہؓ سے بھی حدیث منقول ہے حضرت علیؓ کی حدیث اس سند سے حسن غریب ہے اور انہی سے کئی سندوں سے منقول ہے بعض راوی اس میں یہ الفاظ نقل کرتے ہیں ”و عن الغلام حتى يحتلم“ یعنی لڑکے پر بالغ ہونے تک کوئی تکلیف نہیں۔ ہمیں علم نہیں کہ حسن نے علیؓ سے کچھ سنا ہو۔ یہ حدیث عطاء بن سائب سے بھی منقول ہے وہ ابوظہیان سے اور وہ حضرت علیؓ سے اسی کے مثل مرفوعاً نقل کرتے ہیں پھر اعمش بھی یہی حدیث ابوظہیان سے وہ ابن عباسؓ سے اور وہ حضرت علیؓ سے نقل کرتے ہیں یہ موقوف ہے۔ بعض علماء اسی پر عمل کرتے ہیں۔ ابوظہیان کا نام حصین بن جندب ہے۔

باب ۹۴۸۔ حدود کو رفع کرنے سے متعلق۔

باب ۹۴۸۔ مَا جَاءَ فِي ذُرِّ الْحُدُودِ

۱۲۸۳۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مسلمانوں سے بقدر استطاعت حدود کو دور کرو۔ (یعنی جہاں تک ہو سکے) پھر اگر اس کی رہائی کی کوئی صورت نظر آئے تو اسے رہا کر دو کیونکہ امام کا معاف کرنے میں غلطی کرنا اس سے بہتر ہے کہ سزا دینے میں غلطی کرے۔

۱۲۸۳۔ حَدَّثَنَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ وَابُو عَمْرٍو الْبَصْرِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ ثَنَا يَزِيدُ زِيَادُ الْمَشَقِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْرَأُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ

ہناد، کعب سے وہ یزید بن زیاد سے اور وہ محمد بن ربیعہ سے اسی کے مثل نقل کرتے ہیں لیکن یہ غیر مرفوع ہے۔ اس باب میں ابو ہریرہؓ اور عبد اللہ بن عمروؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ حضرت عائشہؓ کی حدیث کو ہم صرف محمد بن ربیعہ کی سند سے مرفوع جانتے ہیں۔ وہ یزید بن زیاد دمشق سے نقل کرتے ہیں۔ وہ زہری سے وہ عروہ سے وہ حضرت عائشہؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتی ہیں۔ پھر کعب بھی یزید بن زیاد سے اسی طرح کی حدیث غیر مرفوعاً نقل کرتے ہیں اور یہ زیادہ صحیح ہے۔ کئی صحابیوں سے اسی کے مثل منقول ہے۔ یزید بن زیاد دمشق ضعیف ہیں۔ اور یزید بن ابوزیاد کوئی ان سے اجتناب اور اقدم ہیں۔

باب ۹۴۹۔ مسلمان کے عیوب کی پردہ پوشی۔

باب ۹۴۹۔ مَا جَاءَ فِي السِّرِّ عَلَى الْمُسْلِمِ

۱۲۸۴۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کسی نے کسی مسلمان کی دنیا کی ایک مصیبت دور کی، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی مصیبت اس سے دور کر دیں گے اور جس نے مسلمان کی پردہ پوشی کی۔ اللہ تعالیٰ اس کی دنیا و آخرت میں پردہ پوشی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد کرتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔

۱۲۸۴۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ ثَنَا ابُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سِتْرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

اس باب میں عقبہ بن عامر اور ابن عمرؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث کو کئی راوی اعمش سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ اعمش، ابوصالح سے وہ ابو ہریرہؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے ابو عوانہ ہی کی حدیث کی طرح نقل کرتے ہیں۔ پھر اسباط بن محمد، اعمش سے وہ ابوصالح سے وہ ابو ہریرہؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ ہم سے یہ حدیث عبید بن اسباط اپنے والد کے واسطے سے اعمش سے نقل کرتے ہیں۔

۱۲۸۵۔ حضرت سالم اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مسلمان، مسلمان کا بھائی ہے لہذا اسے چاہئے کہ وہ اس پر ظلم نہ کرے اور اسے ہلاکت میں نہ ڈالے جس نے اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کی اللہ اس کی حاجت پوری کریں گے۔ اور جو شخص کسی مسلمان کی کسی مصیبت کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت دور کر دیں گے۔ اسی طرح جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیوب کو پوشیدہ رکھیں گے۔

۱۲۸۵۔ حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلِ بْنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

یہ حدیث ابن عمرؓ کی روایت سے حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۹۵۰۔ حدود میں تلقین سے متعلق۔

۱۲۸۶۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ماعز سے فرمایا: کیا تمہاری جو خیر ہم تک پہنچی ہے وہ صحیح ہے؟ عرض کیا: کیا؟ فرمایا: مجھے خبر ملی ہے کہ تم نے فلاں قبیلے کی لڑکی کے ساتھ زنا کیا ہے۔ عرض کیا جی ہاں۔ پھر ماعز نے چار مرتبہ اقرار کیا اور آپ ﷺ نے ان کے رجم کا حکم دیا۔

باب ۹۵۰۔ مَا جَاءَ فِي التَّلْقِينِ فِي الْحَدِّ ۱۲۸۶۔ حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَمَاقِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ أَحَقُّ مَا بَلَغْنِي عَنْكَ قَالَ مَا بَلَغَكَ عَنِّي قَالَ بَلَغْنِي أَنَّكَ وَقَعْتَ عَلَيَّ جَارِيَةَ الْفُلَانِ قَالَ نَعَمْ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَأَمَرَّ بِهِ فَرُجِمَ

اس باب میں ساجب بن یزید بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ کی حدیث حسن ہے۔ شعبہ یہ حدیث سماک بن حرب سے اور وہ سعید بن جبیر سے مرسل نقل کرتے ہیں۔ ابن عباسؓ کا ذکر نہیں کرتے۔

باب ۹۵۱۔ اگر مقترف اپنے اقرار سے رجوع کر لے تو حد ساقط ہو جاتی ہے۔

باب ۹۵۱۔ مَا جَاءَ فِي دَرْءِ الْحَدِّ عَنِ الْمُعْتَرِفِ

۱۲۸۷۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ ماعز اسلمی آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ انہوں نے زنا کیا ہے آپ ﷺ نے ان سے منہ پھیر لیا۔ وہ دوسری طرف سے حاضر ہوئے اور پھر عرض کیا کہ میں نے زنا کیا ہے۔ آپ ﷺ نے پھر منہ پھیر لیا۔ وہ پھر اس

۱۲۸۷۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ ثَنَا عَبْدِ بَنِ سَلِيمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ مَاعِزُ الْأَسْلَمِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ زَنَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَ

مِنَ الشَّقِ الْأَخْرَ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ زَنَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَ مِنَ الشَّقِ الْأَخْرَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ زَنَى فَأَمَرَبِهِ فِي الرَّابِعَةِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْحَرَّةِ فُرْجَمَ بِالْحِجَارَةِ فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ فَرِيشتَهُ حَتَّى مَرَّ بِرَجُلٍ مَعَهُ لَحْيٌ جَمَلٍ فَضْرَبَهُ بِهِ وَضْرَبَهُ النَّاسُ حَتَّى مَاتَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَرَّ حَيْنٌ وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ وَمَسَّ الْمَوْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَّا تَرَ كُتْمُوهُ

طرف آئے اور اسی طرح عرض کیا پھر آپ ﷺ نے چوتھی مرتبہ ان کے رجم کا حکم دیا تو انہیں حرہ کے مقام کی طرف لے جایا گیا اور پتھروں سے سنگسار کرنا شروع کیا۔ جب پتھر لگے تو بھاگ کھڑے ہوئے یہاں تک کہ ایک شخص کے قریب پہنچے تو اس کے ہاتھ میں اونٹ کی داڑھ کی ہڈی تھی اس نے انہیں اس ہڈی سے مارا اور پھر لوگوں نے بھی مارا یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے۔ جب یہ قصہ آنحضرت ﷺ کے سامنے بیان کیا گیا کہ پتھر پڑتے اور موت کا مزہ چکھتے ہی، ماعز بھاگ کھڑے ہوئے تھے تو آپ ﷺ نے فرمایا: تم لوگوں نے انہیں چھوڑ کیوں نہیں دیا۔

یہ حدیث حسن ہے اور ابو ہریرہؓ سے کئی سندوں سے منقول ہے ابوسلمہ بھی یہ حدیث جابر بن عبد اللہ سے مرفوعاً اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ توضیح: آپ ﷺ کے اس فرمان سے معلوم ہوا کہ اگر معترف بھاگ جائے تو یہ اس کا جرم سمجھا جائے گا اور اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن یہ صرف اقرار کرنے والے سے متعلق ہے۔ اگر کسی پر گواہی کے ذریعے تہمت ثابت ہوئی تو اسے نہیں چھوڑا جائے گا۔ (مترجم)

۱۲۸۸۔ حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص قبیلہ بنی اسلم کا آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور زنا کا اعتراف کیا۔ آپ ﷺ نے اس سے منہ پھیر لیا۔ یہاں تک کہ اس نے چار مرتبہ اقرار کیا پھر آپ ﷺ نے اس سے پوچھا کیا تم پاگل ہو؟ عرض کیا: نہیں۔ فرمایا: کیا تم شادی شدہ ہو؟ عرض کیا: جی ہاں۔ پھر آپ ﷺ نے حکم دیا اور اسے عید گاہ میں سنگسار کیا گیا لیکن جب اسے پتھر لگے تو بھاگ کھڑا ہوا اور پھر لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور سنگسار کر دیا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو آپ ﷺ نے اس کے حق میں کلمہ خیر فرمایا: لیکن نماز جنازہ نہیں پڑھی۔

۱۲۸۸۔ حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن ابى سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله ان رجلاً من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع شهادات فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبك جنون قال لا قال أحصنت قال نعم فأمر به فرجم في المصلى فلما أدلقته الحجارة فرأه فأدرك فرجم حتى مات فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيراً ولم يوصل عليه

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض علماء اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اقرار کرنے والے کے لیے چار اقرار کرنا ضروری ہے۔ پھر اس پر حد جاری کی جائے۔ احمد اور اسحاق بھی اس کے قائل ہیں۔ بعض علماء کا مسلک یہ ہے کہ ایک مرتبہ اقرار کرنے پر ہی حد جاری کر دی جائے۔ مالک اور شافعی کا بھی یہی قول ہے۔ اہلبائی دلیل حضرت ابو ہریرہؓ اور زید بن خالد کی حدیث ہے کہ وہ شخص آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک نے عرض کیا کہ میرے بیٹے نے اس کی بیوی سے زنا کیا ہے یہ حدیث طویل ہے پھر آپ ﷺ نے حضرت انیس کو حکم دیا کہ صبح اس کی بیوی کے پاس جاؤ اگر وہ اقرار کر لے تو اسے سنگسار کر دو۔ چنانچہ آپ ﷺ نے یہ نہیں فرمایا: کہ اگر چار بار اقرار کرے تو سنگسار کرنا۔

باب ۹۵۲۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَشْفَعَ فِي الْحَدِّ

۱۲۸۹۔ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّتُهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَحْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حُبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مَنْ حُدِّدَ مِنَ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَاحْتَطَبَ فَقَالَ إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَ أَيْمَ اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

باب ۹۵۲۔ حدود میں سفارش کی ممانعت

۱۲۸۹۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ قریش قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت کے چوری کرنے پر رنجیدہ ہوئے اور کہنے لگے: کون رسول اللہ ﷺ سے اس کی سفارش کر سکتا ہے؟ کہا گیا کہ اسامہ بن زیدؓ کے علاوہ کوئی اس کی جرات نہیں کر سکتا۔ آنحضرت ﷺ سے بات کی تو آپ ﷺ نے فرمایا: تم اللہ کی حدود میں سفارش کرتے ہو۔ پھر کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا اس میں فرمایا: تم لوگوں سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہوئے کہ اگر ان میں سے کوئی شریف چوری کرتا تو اسے معاف کر دیا جاتا اور اگر کوئی ضعیف چوری کرتا تو اس پر حد جاری کر دی جاتی۔ اللہ رب العزت کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔

اس باب میں مسعود بن عجماء بھی حدیث نقل کرتے ہیں انہیں ابن اعمم بھی کہتے ہیں۔ پھر ابن عمرؓ اور جابرؓ سے بھی احادیث منقول

ہیں۔ حضرت عائشہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۹۵۳۔ مَا جَاءَ فِي تَحْقِيقِ الرَّجْمِ

۱۲۹۰۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عْتَبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ وَ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَ كَانَ فِيهَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ رَجَمْنَا بَعْدَهُ وَ إِنِّي خَائِفٌ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ فَيَقُولَ قَاتِلٌ لَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيُضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةِ أَنْزَلَهَا اللَّهُ الْآ وَ إِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصِنَ وَ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ حَمْلًا أَوْ الْإِعْتِرَافَ

باب ۹۵۳۔ رجم کی تحقیق۔

۱۲۹۰۔ حضرت عمر بن خطابؓ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد (ﷺ) کو حق کے ساتھ بھیجا اور آپ ﷺ پر کتاب نازل فرمائی اس کتاب میں رجم کی آیت بھی تھی۔ پھر آپ ﷺ نے رجم کیا اور ہم نے بھی آپ ﷺ کے بعد ایسا ہی کیا۔ مجھے ڈر ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کوئی یہ نہ کہنے لگے کہ قرآن مجید میں رجم کا ذکر نہیں اور وہ لوگ ایک فرض چیز کو چھوڑ دینے کی وجہ سے گمراہ نہ ہو جائیں جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ جان لو کہ اگر کوئی شخص شادی شدہ ہو اور زنا کرے تو اس پر رجم کی حد جاری کرنا ضروری ہے۔ بشرطیکہ گواہ موجود ہوں یا وہ خود اعتراف کرے یا حمل کی صورت میں ظاہر ہو۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۲۹۱۔ حضرت عمر بن خطابؓ نے فرمایا: آنحضرت ﷺ نے رجم کیا پھر

ان کے بعد ابوبکرؓ نے رجم کیا اور ان کے بعد میں نے رجم کیا۔ اور اگر میں قرآن میں زیادتی کو مکروہ نہ سمجھتا ہوتا تو مصحف میں لکھوا دیتا۔ اس

۱۲۹۱۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا اسْحَقُ بْنُ يُونُسَ

الْأَزْرَقِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَرَجَمَ أَبُو بَكْرٍ وَرَجِمَتْ وَلَوْ لَا أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَزِيدَ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَكُنْتُ فِي الْمُصْحَفِ قَائِمِي قَدْ حَشَيْتُ أَنْ يَجِيءَ أَقْوَامٌ فَلَا يَجِدُونَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَكْفُرُونَ بِهِ

اس باب میں حضرت علیؑ بھی حدیث نقل کرتے ہیں حضرت عمرؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور انہی سے کئی سندوں سے منقول ہے۔

باب ۹۵۴۔ مَا جَاءَ فِي الرَّجْمِ عَلَى النَّبِيِّ

۱۲۹۲۔ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا ثَنَا سَفِيَانُ بْنُ عَيِّنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشَيْبَةَ أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَاهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فَقَامَ إِلَيْهِ أَحَدُهُمَا فَقَالَ أَنْشُدْكَ اللَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَقْفَهُ مِنْهُ أَجَلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِفْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَذَنْ لِي فَاتَكَلَّمْتُ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَمِيسًا عَلَى هَذَا فَرَزْنِي بِأَمْرَاتِهِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَقَضَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ ثُمَّ لَقِيتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَزَعَمُوا أَنَّ عَلَى ابْنِي جِلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبَ عَامٍ وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ مِائَةَ شَاةٍ وَالْخَادِمَ رَدًّا عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جِلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبَ عَامٍ وَاعْدُدْ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمَهَا فَعَلَى عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَارْجَمَهَا

باب ۹۵۳۔ رجم صرف شادی شدہ پر ہے

۱۲۹۲۔ حضرت عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہؓ، زید بن خالدؓ اور شبلیؓ سے سنا کہ وہ آنحضرت ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ دو شخص بھگڑا کرتے ہوئے حاضر خدمت ہوئے ان میں سے ایک آپ ﷺ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور عرض کیا: میں آپ ﷺ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ آپ ﷺ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ فرمائیں اس پر اس کا حریف بھی بول اٹھا جو اس سے زیادہ سمجھ دار تھا کہ جی ہاں یا رسول اللہ! ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ فرمائیے اور مجھے اجازت دیجئے کہ میں عرض کروں میرا بیٹا اس کے پاس مزدوری کرتا تھا اس نے اس کی بیوی کے ساتھ زنا کر لیا۔ مجھے بتایا گیا کہ میرے بیٹے پر رجم ہے تو میں نے سو بکریاں فدیے کے طور پر دیں اور ایک غلام آزاد کیا۔ پھر میری چند علماء سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے پر سو کوڑے اور ایک سال جلا وطنی کی سزا ہے اور اس کی بیوی پر رجم ہے۔ آپ نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ میں تمہارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق ہی فیصلہ کروں گا۔ وہ سو بکریاں اور غلام واپس لے لو۔ تمہارے بیٹے پر سو کوڑے اور ایک سال جلا وطنی کا حکم لاگو ہوگا۔ اور اے انیس کل صبح اس کی بیوی کے پاس جاؤ۔ اگر وہ اقرار کر لے تو اسے رجم کر دو۔ وہ دوسرے دن گئے تو اس نے اعتراف کر لیا اس پر انہوں نے اسے سنگسار کیا۔

اسلم بن موسیٰ انصاری بھی معن سے وہ مالک سے وہ ابن شہاب سے وہ عبید اللہ بن عبد اللہ سے اور وہ حضرت ابو ہریرہؓ اور زید بن خالد جنہی سے مرفوعاً اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ قتیبہ بھی لیث سے اور وہ ابن شہاب سے اسی سند سے مالک کی حدیث کے مثل نقل کرتے ہیں۔ اس باب میں ابو بکرؓ، عبادہ بن صامتؓ، ابو ہریرہؓ، ابوسعیدؓ، ابن عباسؓ، جابر بن سمرہؓ، ہزالؓ، بریدہؓ، سلمہ بن محبتؓ، ابو ہریرہؓ اور عمران بن حصینؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ اور زید بن خالد کی حدیث حسن صحیح ہے۔ مالک بن انس، معمر اور کئی راوی بھی یہ حدیث زہری سے وہ عبید اللہ بن عبد اللہ سے وہ ابو ہریرہؓ اور زید بن خالد سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی طرح یہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ اسی سند سے یہ بھی منقول ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: کہ اگر باندی زنا کرے تو اسے سو کوڑے مارو اگر چار مرتبہ زنا کرے تو چوتھی مرتبہ اسے

بیچ ڈالو خواہ بالوں کی رسی کے عوض ہی بیچو۔ سفیان بن عیینہ بھی زہری سے وہ عبید اللہ سے اور وہ حضرت ابو ہریرہؓ، زید بن خالد اور شبلؓ سے نقل کرتے ہیں کہ ہم آنحضرت ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ..... انا ابن عیینہ نے دونوں حدیثیں ان تینوں حضرات سے نقل کی ہیں اور اس میں وہم ہے اور وہ یہ کہ سفیان بن عیینہ نے ایک حدیث کے الفاظ دوسری میں داخل کر دیئے ہیں۔ صحیح حدیث وہی ہے جو زبیدی یونس بن زید اور زہری کے بیچے ان سے، وہ عبید اللہ سے وہ ابو ہریرہؓ اور زید بن خالدؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ اگر باندی زنا کرے تو..... انا زہری جو حدیث عبید اللہ سے وہ شبل بن خالد سے وہ عبید اللہ بن مالک اوسی سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ کہ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی باندی زنا کرے تو..... انا یہ حدیث محدثین کے نزدیک صحیح ہے۔ شبل بن خالد صحابی نہیں ہیں۔ وہ عبید اللہ بن مالک اوسی کے واسطے سے آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ ابن عیینہ کی حدیث غیر محفوظ ہے ان سے منقول ہے کہ فرمایا: شبل بن حامد جب کہ صحیح شبل بن خالد صحابی نہیں ہیں۔ وہ عبید اللہ بن مالک اوسی کے واسطے سے آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ ابن عیینہ کی حدیث غیر محفوظ ہے ان سے منقول ہے کہ فرمایا: شبل بن حامد جب کہ صحیح شبل بن خالد ہے انہیں شبل بن خلید بھی کہا جاتا ہے۔

۱۲۹۳۔ حدثنا قتيبة ثنا هشيم عن منصور بن زاذان عن الحسن بن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مائة ثم الرحم ونفي سنة

۱۲۹۳۔ حضرت عباده بن صامتؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھ سے یہ بات ذہن نشین کر لو کہ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے لیے راستہ نکال دیا ہے۔ چنانچہ اگر زانی شادی شدہ ہوں تو انہیں سو کوڑے مارنے کے بعد سنگسار کر دیا جائے اور اگر غیر شادی شدہ ہوں تو سو کوڑے اور ایک سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا۔

یہ حدیث صحیح ہے۔ بعض علماء صحابہ اسی پر عمل پیرا ہیں۔ علی بن ابی طالبؓ، ابی بن کعبؓ اور عبید اللہ بن مسعودؓ بھی انہی میں شامل ہیں ان کا کہنا ہے کہ محسن (شادی شدہ) کو پہلے کوڑے مارے جائیں پھر سنگسار کیا جائے۔ بعض علماء اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ جب کہ بعض علماء صحابہ، ابو بکرؓ اور عمرؓ وغیرہ کا مسلک یہ ہے کہ محسن کو صرف سنگسار کیا جائے کوڑے نہ مارے جائیں کیونکہ آپ ﷺ سے کئی احادیث میں منقول ہے کہ صرف رجم کا حکم دیا کوڑے مارنے کا حکم نہ دیا جیسے کہ ماعز کا قصہ وغیرہ۔ بعض علماء شافعی، ثوری، ابن مبارک اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

باب ۹۵۵۔ اسی سے متعلق۔

باب ۹۵۵۔ مِنْهُ

۱۲۹۴۔ حضرت عمران بن حصینؓ فرماتے ہیں کہ ایک جہنی عورت نے آنحضرت ﷺ کے سامنے زنا کا اعتراف کیا اور بتایا کہ وہ حمل سے ہے آپ ﷺ نے اس کے ولی کو بلایا اور حکم دیا کہ اسے اچھی طرح رکھو اور جب بچہ پیدا ہو جائے تو مجھے بتا دینا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ پھر آپ ﷺ نے حکم دیا تو اس کے کپڑے اس کے بدن کے ساتھ باندھ دیئے گئے (تاکہ بے پردگی نہ ہو) اور آپ ﷺ نے اسے سنگسار کرنے کا حکم دیا اس طرح اسے رجم کیا گیا پھر آپ نے اسے رجم کیا اور پھر اس پر نماز بھی پڑھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اہل

۱۲۹۴۔ حدثنا الحسن بن علي ثنا عبدالرزاق ثنا معمر عن يحيى بن ابي كثير عن ابي قلابة عن ابي المهلب عن عمران بن حصين ان امرأة من جهينة اعترفت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا وقالت انا حبلتي فدعى النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال احسن اليها فاذا وضعت حملها فاخبريني ففعل فامر بها فشدت عليها ثيابها ثم امر برجمها فرجمت ثم صلى الله عليه فقال له عمر بن

الْحَطَّابِ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجِمْتَهَا ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ
لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قَسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ
الْمَدِينَةِ وَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتُ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنْ أَنْ
حَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ

مدینہ میں ستر اشخاص پر تقسیم کر دی جائے تو ان کیلئے بھی کافی ہے پھر کیا
اس سے بہتر بھی کوئی چیز تمہاری نظر میں ہے کہ اس نے اپنی جان اللہ
کیلئے خرچ کر دی۔

یہ حدیث صحیح ہے جمہور علماء کا یہی مسلک ہے کہ رجم کیے جانے والے پر نماز جنازہ پڑھی جائے۔

باب ۹۵۶۔ مَا جَاءَ فِي رَجْمِ أَهْلِ الْكِتَابِ

۱۲۹۵۔ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ ثَنَا
مَعْنُ ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً

۱۹۵۶۔ اہل کتاب کے رجم سے متعلق۔

۱۲۹۵۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک یہودی
اور یہودیہ کو رجم کیا۔

اس حدیث میں ایک قصہ ہے اور یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ہناد، شریک سے وہ سماک بن حرب سے اور وہ جابر بن سمرہ سے نقل کرتے
ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ایک یہودی مرد اور عورت کو رجم کیا۔ اس باب میں عمر، جابر، براء، ابن ابی اوفی، عبداللہ بن حارث بن جزاء اور
ابن عباس سے بھی احادیث منقول ہیں۔ ان احادیث میں سے جابر کی حدیث ان کی سند سے حسن غریب ہے۔ اکثر علماء اسی پر عمل کرتے
ہوئے کہتے ہیں کہ اگر یہود و نصاریٰ اپنے مقدمات مسلمانوں کی عدالتوں میں دائر کریں تو ان کا فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق کیا جائے۔
احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں جب کہ بعض کے نزدیک ان پر زنا کی حد قائم نہ کی جائے۔ لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔

باب ۹۵۷۔ مَا جَاءَ فِي النَّفْيِ

۱۲۹۶۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ وَيَحْيَى ابْنُ أَكْثَمٍ قَالَا ثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَدْرِيسَ عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ
عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ وَعَرَبَ وَ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَعَرَبَ وَأَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ وَعَرَبَ

۱۲۹۶۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے کوڑے بھی
مارے اور جلاوطن بھی کیا اسی طرح ابو بکرؓ نے بھی کوڑے اور جلاوطنی
کی سزا دی۔

اس باب میں ابو ہریرہ، زید بن خالد اور عبادہ بن صامت بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ ابن عمر کی حدیث غریب ہے اسے کئی راوی
عبداللہ بن ادریس سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں۔ بعض راوی یہ حدیث عبداللہ بن ادریس سے وہ عبید اللہ سے وہ نافع سے اور وہ ابن عمر سے
نقل کرتے ہیں کہ ابو بکرؓ نے غیر شادی شدہ زانی کو سو کوڑے مارے اور جلاوطن کیا۔ اسی طرح عمرؓ نے بھی ایسے ہی کیا۔ ہم سے یہ حدیث
ابوسعید اشج نے بحوالہ عبداللہ بن ادریس نقل کی ہے۔ پھر یہ حدیث ان کے علاوہ بھی اسی طرح منقول ہے محمد بن اسحاق بھی نافع سے اور وہ
ابن عمر سے نقل کرتے ہیں کہ ابو بکرؓ نے کوڑے بھی مارے اور جلاوطن بھی کیا۔ عمرؓ نے بھی کوڑے اور جلاوطنی کی سزا ایک ساتھ دی لیکن اس
میں آنحضرت ﷺ کے کوڑے مارنے اور جلاوطن کرنے کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن یہ آنحضرت ﷺ سے ثابت ہے۔ اسے ابو ہریرہ، زید بن خالد
اور عبادہ بن صامت نقل کرتے ہیں۔ علماء صحابہ، ابو بکرؓ، عمرؓ، علیؓ، ابی بن کعبؓ، عبداللہ بن مسعودؓ اور ابو ذرؓ وغیرہ اسی پر عمل کرتے ہیں۔ کئی
فقہاء تابعین، سفیان ثوری، مالک، ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

باب ۹۵۸۔ مَا جَاءَ أَنَّ الْحُدُودَ كَفَّارَةٌ لِأَهْلِهَا

۹۵۸۔ حدود جن پر جاری کی جائیں ان کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں۔

۱۲۹۷۔ حضرت عبادہ بن صامتؓ کہتے ہیں کہ ہم حضور اکرم ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ فرمایا: مجھ سے بیعت کرو کہ تم اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراؤ گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے پھر اسی سے متعلق آیت پڑھی اور فرمایا: جس نے اپنے اس عہد کو پورا کیا اس کا اجر اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اور جو اس میں سے کسی گناہ کا مرتکب ہو اور اسے سزا دے دی گئی تو یہ اس کے لیے کفارے کی طرح ہوگا۔ اور اگر کوئی ایسے گناہ کا مرتکب ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کو پوشیدہ رکھا تو وہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے تو معاف کر دے۔

اس باب میں علی، جریر بن عبد اللہ اور خزیمہ بن ثابت بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامتؓ کی حدیث حسن صحیح ہے امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث سے بہتر اس باب میں کوئی حدیث نہیں دیکھی۔ کہ حدود اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں مزید کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کو پوشیدہ رکھے تو اسے خود بھی چاہئے کہ وہ اسے ظاہر نہ کرے بلکہ اللہ سے توبہ کرے اس طرح کہ اس کے اور رب ہی کے درمیان ہو۔ ابو بکرؓ و عمرؓ سے بھی اسی طرح منقول ہے کہ اپنے عیب چھپائے جائیں۔

باب ۹۵۹۔ باندیوں پر حدود قائم کرنا۔

۱۲۹۸۔ حضرت عبد الرحمن سلمیٰ کہتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: اے لوگو! اپنے غلاموں وغیرہ پر حدود جاری کرو خواہ وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ۔ ایک مرتبہ حضور ﷺ کی ایک باندی نے زنا کیا تو مجھے حکم دیا کہ اسے کوڑے ماروں جب میں اس کے پاس گیا تو پتہ چلا کہ اسے ابھی نفاس کا خون آیا ہے۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ میں اسے کوڑے ماروں تو یہ مرجائے یا فرمایا کہیں قتل نہ کروں۔ میں آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بتایا تو فرمایا: تم نے اچھا کیا۔

۱۲۹۹۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تم میں سے کسی کی باندی زنا کرے تو وہ اسے تین مرتبہ اللہ کی کتاب کے مطابق کوڑے مارے اور اگر چوتھی مرتبہ پھر زنا کرے تو اسے بیچ دے خواہ بالوں کی ایک رسی کے عوض بیچے۔

۱۲۹۷۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ سَفِيَّانَ بْنِ عَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابِي اَدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَبَايَعُونِي عَلَيَّ اَنْ لَا تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ وَلَا تُسْرِقُوْا وَلَا تَزْنُوْا فَرَّاعِلَيْهِمْ الْاَيَةُ فَمَنْ وَفِيَ مِنْكُمْ فَاجْرُهُ عَلَيَّ وَاللّٰهُ وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَهُوَ اِلَيَّ اللّٰهُ اِنْ شَاءَ عَذْبَةٌ وَاِنْ شَاءَ غَفْرَةٌ

باب ۹۵۹۔ مَا جَاءَ فِيْ اِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيَّ الْاِمَاءِ

۱۲۹۸۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَالُ ثَنَا اَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ثَنَا زَائِدَةُ عَنِ السَّدِيِّ عَنِ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ حَطَبَ عَلِيٌّ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اُقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَيَّ اِرْقَائِكُمْ مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ وَاِنْ اَمَةٌ لِيَرْسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَنَتْ فَاَمْرُنِيْ اَنْ اُجْلِدَهَا فَاتَيْتُهَا فَاِذَا هِيَ حَدِيْثَةٌ عَهْدٍ بِنَفْسٍ فَخَشِيْتُ اِنْ اَنَا جَلَدْتُهَا اَنْ اَقْتُلَهَا اَوْ قَالَ تَمُوْتُ فَاتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ اَحْسَنْتَ

یہ حدیث صحیح ہے۔

۱۲۹۹۔ حَدَّثَنَا اَبُو سَعِيْدٍ الْاَشْجِ ثَنَا اَبُو خَالِدٍ الْاَحْمَرُ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِي صَالِحٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا زَنَتْ اَمَةٌ اَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا ثَلَاثًا بِكِتَابِ اللّٰهِ فَاِنْ عَادَ فَلْيَبِعْهَا

وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعْرٍ

اس باب زید بن خالد اور شبل بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ شبل، عبداللہ بن مالک اسی سے نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور انہی سے کئی سندوں سے منقول ہے۔ بعض علماء صحابہ وغیرہ اسی پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنے غلام یا باندی پر حد جاری کرنے کے لیے حاکم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے جب کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اسے حاکم کے سپرد کر دے خود حد نہ مارے لیکن پہلا قول صحیح ہے۔

باب ۹۶۰۔ مَا جَاءَ فِي حَدِّ السُّكْرَانِ

۱۳۰۰۔ حضرت ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے چالیس جوتے مارنے کی حد مقرر کی۔ مسعر کہتے ہیں: میرا خیال ہے کہ وہ شراب پر تھی۔

۱۳۰۰۔ حَدَّثَنَا سَفِيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ ثَنَا أَبِي عَنْ مَسْعَرٍ عَنْ زَيْدِ الْعَمِيِّ عَنْ أَبِي الصَّدِّيقِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ الْحَدَّ بِتَعْلِينَ أَرْبَعِينَ قَالَ مَسْعَرٌ أَظُنُّهُ فِي الْخَمْرِ

اس باب میں علیؓ، عبدالرحمن بن ازہرؓ، ابو ہریرہؓ، سائب بن عباسؓ اور عقبہ بن حارثؓ سے بھی احادیث منقول ہیں حضرت ابو سعید کی حدیث حسن ہے اور ابو صدیق ناجی کا نام بکر بن عمرو ہے۔

۱۳۰۱۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے پاس ایک شخص کو لایا گیا اس نے شراب پی لی تھی۔ تو آپ ﷺ نے اسے کھجور کی دو چھڑیاں چالیس کے قریب ماریں۔ ابو بکرؓ نے بھی اسی پر عمل کیا۔ پھر حضرت عمرؓ نے لوگوں سے مشورہ کیا تو عبدالرحمن بن عوفؓ نے فرمایا: سب سے بلکنی حد اسی کوڑے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے اسی کا حکم دے دیا۔

۱۳۰۱۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أُنِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَضْرَبَهُ بِحَجْرَيْنِ نَحْوِ الْأَرْبَعِينَ وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ كَأَحْفَى الْحُدُودِ ثَمَانِينَ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر علماء صحابہ وغیرہ کا عمل ہے کہ نشہ کرنے والے کی حد اسی کوڑے ہے۔

باب ۹۶۱۔ اِذَا كُوِيَ شَرَابٌ بِسَيْفٍ تَوَاسَعَتْ كُوْزَةً مَرَّةً وَارًا اِذَا جَرَّ مَرْتَبَةً اِيسَا هِي كَرَّةٌ تَوَاسَعَتْ قَتْلًا كَرْدُوْ-

باب ۹۶۱۔ مَا جَاءَ مِنْ شَرِبِ الْخَمْرِ فَاجْلِدُوْهُ فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوْهُ

۱۳۰۲۔ حضرت معاویہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی شخص شراب پیئے تو اسے کوڑے مارو اور اگر چوتھی مرتبہ بھی پیئے تو اسے قتل کر دو۔

۱۳۰۲۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيْبٍ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوْهُ فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوْهُ

اس باب میں ابو ہریرہؓ، شریک، شریحیل بن اوسؓ، جریرؓ، ابو برد بلویؓ اور عبداللہ بن عمرؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث ثوری بھی عاصم سے وہ ابوصالح سے وہ معاویہ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ ابن جریرؓ اور معمرؓ بھی سہیل بن ابوصالح سے وہ اپنے والد سے وہ ابو ہریرہؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں امام بخاری کے نزدیک ابوصالح کی معاویہ کے حوالے سے منقول

حدیث بواسطہ ابو ہریرہ منقول حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔ یہ حکم اسلام کے ابتدائی زمانے میں تھا پھر منسوخ ہو گیا محمد بن اسحاق بھی ابن منکدر سے وہ جابر بن عبد اللہ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: جو شخص شراب پئے اسے کوڑے مارو اور چوتھی مرتبہ اسے قتل کر دو۔ جابر کہتے ہیں کہ پھر ایک شخص کو آپ ﷺ کے پاس لایا گیا جس نے چوتھی مرتبہ شراب پی تھی تو آپ ﷺ نے اسے کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ قتل نہیں کیا۔ زہری بھی قبیسہ بن ذویب سے اور وہ حضور ﷺ سے اسی طرح نقل کرتے ہیں یعنی اس طرح قتل کا حکم اٹھایا گیا جس کی پہلے اجازت تھی۔

تمام علماء اس مسئلے میں متفق ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ اس مذہب کی تائید یہ حدیث بھی کرتی ہے کہ ”کسی مسلمان کا خون تین چیزوں کے علاوہ حلال نہیں۔ بشرطیکہ وہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ وہ تین چیزیں یہ ہیں۔ قصاص، شادی شدہ زانی اور مرتد۔“

باب ۹۶۲۔ کتنی قیمت کی چیز چوری کرنے پر ہاتھ کاٹا جائے۔

باب ۹۶۲۔ مَا جَاءَ فِي كَمْ يُقَطَّعُ السَّارِقُ

۱۳۰۳۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ چوتھائی دینار یا اس سے زیادہ کے عوض ہاتھ کاٹا کرتے تھے۔

۱۳۰۳۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ ثَنَا سَفِيَانُ بْنُ عَيِّنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرْتَهُ عُمَرَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْطَعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ قِصَاصًا

یہ حدیث حسن ہے اور عمر و سے کئی سندوں سے منقول ہے وہ اسے بعض مرتبہ حضرت عائشہ سے مرفوعاً اور بعض مرتبہ موقوفاً نقل کرتے ہیں۔

۱۳۰۴۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کا ہاتھ ایک ڈھال چرانے کے جرم میں کاٹا جس کی قیمت تین درہم تھی۔

۱۳۰۴۔ حَدَّثَنَا قَبِيْبَةُ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَطَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَحَنٍ قِيَمَتَهُ ثَلَاثَةَ دِرَاهِمٍ

اس باب میں سعد، عبد اللہ بن عمر، ابن عباس، ابو ہریرہ اور ام ایمن سے بھی احادیث منقول ہیں۔ حضرت ابن عمر کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اور اسی پر بعض علماء صحابہ وغیرہ کا عمل ہے۔ ابو بکر صدیق نے پانچ درہم کی چوری پر ہاتھ کاٹا۔ ابو ہریرہ اور ابو سعید سے بھی منقول ہے کہ پانچ درہم کے عوض ہاتھ کاٹا جائے۔ بعض فقہاء تابعین، مالک، شافعی، احمد اور اسحاق بھی کہتے ہیں کہ چوتھائی دینار یا اس سے زیادہ کی چیز چوری کرنے پر ہاتھ کاٹا جائے لیکن ابن مسعود سے منقول ہے کہ ایک دینار یا دس درہم سے کم کی چیز میں ہاتھ کاٹا جائے۔ یہ حدیث مرسل ہے اسے قاسم بن عبد الرحمن ابن مسعود سے نقل کرتے ہیں۔ لیکن قاسم کا ابن مسعود سے سماع نہیں۔ بعض علماء، سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا بھی یہی قول ہے۔

باب ۹۶۳۔ چور کا ہاتھ کاٹ کر گلے میں لٹکانا۔

باب ۹۶۳۔ مَا جَاءَ فِي تَعْلِيْقِ يَدِ السَّارِقِ

۱۳۰۵۔ حضرت عبد الرحمن بن محیرز کہتے ہیں کہ میں نے فضالہ بن عبید سے چور کی گردن میں ہاتھ لٹکانے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ رسول اکرم ﷺ کے پاس ایک چور کو لایا گیا۔ اور اس کا ہاتھ کاٹا گیا۔ آپ ﷺ نے حکم دیا کہ یہ ہاتھ اس کی گردن میں لٹکا دیا جائے۔

۱۳۰۵۔ حَدَّثَنَا قَبِيْبَةُ ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَقْدُمِيُّ ثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَيَّرِزٍ قَالَ سَأَلْتُ فَضَالَهَ بْنَ عَبِيْدٍ عَنْ تَعْلِيْقِ الْيَدِ فِي عُنُقِ السَّارِقِ أَمِنْ السُّنَّةِ هُوَ قَالَ أَيْ رَبِّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَارِقٍ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَعُلِقَتْ

فِي عُنُقِهِ

یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم اسے صرف عمر بن علی مقدمی کی حدیث سے ہی پہچانتے ہیں۔ وہ حجاج بن ارطاة سے نقل کرتے ہیں۔
عبدالرحمن بن محیریز، عبداللہ بن محیریز شامی کے بھائی ہیں۔

باب ۹۶۴۔ مَا جَاءَ فِي الْخَائِنِ وَالْمُخْتَلِسِ وَالْمُنْتَهَبِ

۱۳۰۶۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ
عَنْ ابْنِ جَرِيحٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا
مُنْتَهَبٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطُّعٌ

باب ۹۶۳۔ خَائِنٌ، اِطْلَعَهُ اُورْدَاكُو كَمَا تَمَلَّقُ

۱۳۰۶۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: خائِن، اچکے اور ڈاکو کی سزا ہاتھ کاٹنا نہیں۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے بعض علماء اسی پر عمل کرتے ہیں۔ مغیرہ بن مسلم، ابو زبیر سے وہ جابر سے اور وہ رسول اللہ ﷺ سے ابن جریج ہی
کی حدیث کی طرح نقل کرتے ہیں۔ مغیرہ بن مسلم بصری، علی بن مدینی کے قول کے مطابق عبدالعزیز زمہلی کے بھائی ہیں۔

باب ۹۶۵۔ مَا جَاءَ لَا قَطُّعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثِيرٍ

۱۳۰۷۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ
حَبَانَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا قَطُّعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثِيرٍ

باب ۹۶۵۔ پھلوں اور کھجور کے خوشوں کی وجہ سے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔

۱۳۰۷۔ حضرت رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
پھلوں اور کھجور کے خوشوں کی چوری کرنے پر ہاتھ نہ کاٹا جائے۔

بعض راوی یحییٰ بن سعید سے وہ محمد بن حبان سے وہ اپنے چچا واسع بن حبان سے اور وہ حضور ﷺ سے اسی حدیث کے
مثل نقل کرتے ہیں۔ مالک اور کئی راوی بھی یہ حدیث یحییٰ بن سعید سے وہ محمد بن یحییٰ بن حبان سے وہ رافع بن خدیج سے اور وہ آنحضرت
ﷺ سے نقل کرتے ہیں اور اس میں واسع بن حبان کا ذکر نہیں کرتے۔

باب ۹۶۶۔ مَا جَاءَ أَنْ لَا يُقَطَّعَ الْأَيْدِيُّ فِي الْعَزْوِ

۱۳۰۸۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عِيَّاشِ بْنِ
عَبَّاسٍ عَنْ شَيْمِ بْنِ بِنِيَّانٍ عَنْ حَنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمِيَّةَ عَنْ
بُسْرَةَ بِنْتِ مَرْطَاةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُقَطَّعُ الْأَيْدِيُّ فِي الْعَزْوِ

باب ۹۶۶۔ جہاد کے دوران چور کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔

یہ حدیث غریب ہے اسے ابن لہیعہ کے علاوہ اور راوی بھی اسی سند سے نقل کرتے ہیں۔ لیکن وہ بشر بن ارطاة بھی کہتے ہیں۔ بعض
علماء اور اوزاعی اسی پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دشمن سے مقابلے کے وقت حدود قائم نہ کی جائیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ دشمن کے ساتھ
جاٹے۔ ہاں جب دارالخراب سے دارالاسلام واپس آئیں تو جس پر حد جاری کرنی ہو جاری کریں۔

باب ۹۶۷۔ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ

باب ۹۶۷۔ جو شخص اپنی بیوی کی باندی سے زنا کرے۔

۱۳۰۹۔ حبیب بن سالم کہتے ہیں کہ نعمان بن بشیر کے سامنے ایک شخص کو پیش کیا گیا جس نے اپنی بیوی کی باندی سے زنا کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا: میں تمہارے درمیان آنحضرت ﷺ کے فیصلے کے مطابق فیصد کروں گا اگر اس کی بیوی نے اس کے لیے یہ باندی حلال کر دی تھی تو اسے سو کوڑے مارے جائیں اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو اس کو رجم (سنگسار) کیا جائے۔

۱۳۰۹۔ حدثنا علي بن حجر ثنا هشيم عن سعيد بن ابي عروبہ وايوب بن مسكين عن قتادة عن حبيب بن سالم قال رفع الى النعمان ابن بشير رجل وقع على حارية امرأته فقال لأفضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن كانت آحلتها له لأجلذنه مائة وإن لم تكن آحلتها له رجمته

علی بن حجر، بشیر سے وہ ابو بشر سے وہ حبیب بن سالم سے اور وہ نعمان بن بشیر سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ اس باب میں سلمہ بن محقق سے بھی حدیث منقول ہے۔ نعمان کی حدیث میں اضطراب ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ قتادہ اور ابو بشر دونوں نے یہ حدیث حبیب بن سالم سے نہیں سنی بلکہ خالد بن عرفطہ سے سنی ہے۔ علماء کا ایسے شخص کے حکم میں اختلاف ہے جو اپنی بیوی کی باندی سے صحبت کرے۔ کئی صحابہ علیؑ اور ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ اسے رجم کیا جائے۔ لیکن ابن مسعودؓ کے نزدیک اس پر حد نہیں تعزیر ہے۔ احمد اور اسحاق کا عمل نعمان بن بشیر کی حدیث پر ہے۔

باب ۹۶۸۔ اگر کسی عورت سے زنا بالجبر کیا جائے۔

باب ۹۶۸۔ ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا ۱۳۱۰۔ حدثنا علي بن حجر ثنا معمر بن سلمان الرقي عن الحجاج بن أوطاة عن عبد الجبار بن وائل بن ححر عن أبيه قال استكرهت امرأة علي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذراً رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها الحد وأقامه على الذي أصابها ولم يذكر أنه جعل لها مهراً

۱۳۱۰۔ عبد الجبار بن وائل بن ححر اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حضور ﷺ کے زمانے میں ایک عورت کے ساتھ زبردستی زنا کیا گیا۔ چنانچہ آپ ﷺ نے اس سے حد رفع کر دی اور اس شخص پر جاری کی جس نے اس سے زنا کیا تھا۔ راوی نے ذکر نہیں کیا کہ آپ ﷺ نے اس کے لیے مہر وغیرہ مقرر کیا ہو۔

یہ حدیث غریب ہے اس کی سند متصل نہیں۔ لیکن اور سند سے بھی منقول ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ عبد الجبار نے نہ اپنے والد سے ملاقات کی ہے اور نہ ہی ان سے کچھ سنا ہے بلکہ بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ اپنے والد کی وفات کے کئی ماہ بعد پیدا ہوئے۔ علماء صحابہ وغیرہ اسی پر عمل کرتے ہیں کہ زنا بالجبر میں حد نہیں۔

۱۳۱۱۔ علقمہ بن وائل کنندی اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے زمانے میں ایک عورت نماز کے لیے نکلی تو راستے میں ایک شخص نے اسے پکڑ لیا اور اپنی حاجت پوری کر کے چل دیا۔ وہ چیختی رہ گئی۔ پھر اس کے پاس سے ایک اور شخص گزرا تو اس نے اسے بتایا کہ اس شخص نے اس کے ساتھ اس طرح کیا ہے پھر مہاجرین کی ایک جماعت وہاں سے گزری تو انہیں بھی بتایا۔ وہ لوگ دوڑے اور اس شخص کو پکڑ لیا جس کے متعلق اس عورت کا خیال تھا کہ اس نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے

۱۳۱۱۔ حدثنا محمد بن يحيى ثنا محمد بن يوسف عن اسراييل ثنا سماك بن حرب عن علقمة بن وائل الكندي عن أبيه أن امرأة خرجت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد الصلوة فتلقها رجل فتجملها ففضى حاجته منها فصاحت فابتلق ومربها رجل فقالت إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا ومرت ببعضا من المهاجرين فقالت

جب اسے اس کے سامنے لائے تو اس نے کہا ہاں یہی ہے چنانچہ اسے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پیش کیا گیا اور آپ ﷺ نے اس کے رجم کا حکم صادر فرمایا۔ اسی وقت ایک اور شخص کھڑا ہوا جس نے درحقیقت اس عورت کے ساتھ زنا کیا تھا اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں نے اس کے ساتھ زنا کیا تھا (اس نے نہیں) آپ ﷺ نے اس عورت سے فرمایا: تم جاؤ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا۔ اور جس شخص کو مہاجرین کی جماعت پکڑ کر لائی تھی اسے تسلی دی۔ پھر اصل زانی کے رجم کا حکم دیا اور فرمایا: اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اہل مدینہ کے سب ایسی توبہ کریں تو بخش دیئے جائیں۔

باب ۹۶۹۔ جو شخص جانور سے بدکاری کرے۔

۱۳۱۲۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تم ایسا شخص دیکھو جس نے جانور کے ساتھ بدکاری کی ہے تو اسے قتل کر دو اور ساتھ ہی جانور کو بھی۔ ابن عباسؓ سے کہا گیا: جانور کو کیوں قتل کیا جائے؟ انہوں نے فرمایا: اس کے متعلق میں نے آنحضرت ﷺ سے کچھ نہیں سنا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ آنحضرت ﷺ نے بہتر نہیں سمجھا کہ جس جانور کے ساتھ ایسا فعل کیا گیا ہو اس کا گوشت کھایا جائے یا اس سے کوئی فائدہ حاصل کیا جائے۔

إِنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذًّا وَكَذًّا فَانْطَلَقُوا فَأَخَذُوا الرَّجُلَ الَّذِي ظَنَنْتُ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا فَاتَوْهَا فَقَالَتْ نَعَمْ هُوَ هَذَا فَاتَوْا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَمَرَ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَمَرَ بِهِ لِيُرْجَمَ قَامَ صَاحِبُهَا الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا صَاحِبُهَا فَقَالَ أَذْهَبِي فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لِكَ وَقَالَ لِلرَّجُلِ قَوْلًا حَسَنًا وَقَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا ارْجُمُوهُ وَقَالَ لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَ بِهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَقَبِلَ مِنْهُمْ

باب ۹۶۹۔ مَا جَاءَ فِي مَنْ يَبْعُ عَلَى الْبَيْهِيَةِ

۱۳۱۲۔ حدثنا محمد بن عمرو السواق ثنا عبدالعزيز بن محمد عن عمرو بن ابى عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد ثموم وقع على البهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة فليل لابن عباس ماشان البهيمة فقال ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا ولكن اراى رسول الله صلى الله عليه وسلم كره ان يوكل من لحمها او ينتفع بها وقد عمل بها ذلك العمل

اس حدیث کو ہم صرف عمرو بن عمرو کی روایت سے جانتے ہیں وہ عکرمہ سے وہ ابن عباس سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ سفیان ثوری، عاصم سے وہ ابن رزین سے اور وہ ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: کہ جانور کے ساتھ بدکاری کرنے والے پر حد نہیں۔ ہم سے یہ حدیث محمد بن بشار نے بیان کی ہے وہ عبدالرحمن بن مہدی سے اور وہ سفیان ثوری سے نقل کرتے ہیں۔ یہ پہلی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔ علماء اسی پر عمل کرتے ہیں احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

باب ۹۷۰۔ لواطت کرنے والے کی سزا۔

۱۳۱۳۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تم کسی کو قوم لوط کا فعل یعنی لواطت کرتے ہوئے پاؤ تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔

باب ۹۷۰۔ مَا جَاءَ فِي حَدِّ اللُّوطِي

۱۳۱۳۔ حدثنا محمد بن عمرو السواق ثنا عبدالعزيز بن محمد عن محمد بن عمرو بن ابى عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد ثموم وقع على البهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة فليل لابن عباس ماشان البهيمة فقال ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا ولكن اراى رسول الله صلى الله عليه وسلم كره ان يوكل من لحمها او ينتفع بها وقد عمل بها ذلك العمل

عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ بِهِ

اس باب میں جابرؓ اور ابو ہریرہؓ سے بھی احادیث کو ہم ابن عباسؓ کی روایت سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ محمد بن اسحاق یہ حدیث عمرو بن ابی عمرو سے نقل کرتے ہوئے یہ الفاظ زیادہ کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جو شخص قوم لوط والا فعل کرے وہ ملعون ہے۔ اس میں قتل کا ذکر نہیں۔ پھر اس میں یہ بھی ہے کہ جو چوپائے سے جماع کرے وہ بھی ملعون ہے۔ عاصم بن عمرو بھی سہیل بن ابی صالح سے وہ اپنے والد سے اور وہ ابو ہریرہؓ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اقتلو الفاعل والمفعول بہ، یعنی فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو لیکن اس کی سند میں کلام ہے ہمیں نہیں معلوم کہ عاصم بن عمر العمری کے علاوہ کوئی اور بھی اسے سہیل بن ابی صالح سے نقل کرتا ہے اور عاصم ضعیف ہیں۔ پھر اس مسئلہ میں علماء کا اختلاف ہے۔ یعنی لوطی کی سزا میں بعض حضرات کہتے ہیں کہ اسے رجم کیا جائے خواہ وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ۔ امام مالکؒ، شافعیؒ، احمدؒ اور اسحاقؒ کا بھی یہی قول ہے۔ بعض علماء و فقہاء تابعین، حسن بصریؒ، ابراہیم نخعیؒ اور عطاء بن ابی رباحؒ کہتے ہیں کہ لواطت کے مرتکب پر زنا ہی کی طرح حد جاری کی جائے ثوری اور اہل کوفہ بھی اسی کے قائل ہیں۔

۱۳۱۴۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ

۱۳۱۴۔ حضرت عبداللہ بن محمد بن عقیل کہتے ہیں کہ انہوں نے جابر سے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس چیز کے متعلق میں اپنی امت کے بتلا ہونے سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ قوم لوط کا فعل ہے۔

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

باب ۹۷۱۔ مردہ کے متعلق۔

باب ۹۷۱۔ مَا جَاءَ فِي الْمَرْتَدِ

۱۳۱۵۔ حضرت عکرمہؓ فرماتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے بعض مرتدوں کو جلا دیا۔ یہ خبر جب ابن عباسؓ کو پہنچی تو فرمایا: اگر ان کی جگہ میں ہوتا تو میں انہیں قتل کرتا (یعنی مرتدین کو) کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو اپنا دین تبدیل کر لے اسے قتل کر دو۔ چنانچہ میں انہیں آگ میں نہ جلاتا اس لیے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم اللہ کے خاص عذاب کی طرح عذاب نہ دو۔ جب یہ حضرت علیؓ کو بتایا گیا تو فرمایا: ابن عباسؓ نے سچ کہا۔

۱۳۱۵۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الضَّيْبِيِّ ثنا عبد الوهاب الثقفي ثنا أيوب عن عكرمة أن علياً حرق قوماً ارتدوا عن الإسلام فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لقتلتهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ولم أكن لأحرقهم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعدبوا بعذاب الله فبلغ ذلك علياً فقال صدق ابن عباس

یہ حدیث حسن صحیح ہے علماء اسی پر عمل کرتے ہیں کہ مرتد کو قتل کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی عورت مرتد ہو جائے تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ چنانچہ اوزاعیؒ، احمدؒ، اسحاقؒ اور علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ اسے بھی قتل کیا جائے۔ جب کہ سفیان ثوریؒ اور اہل کوفہ اور علماء کی ایک جماعت کا مسلک یہ ہے کہ اسے قید کیا جائے قتل نہ کیا جائے۔

باب ۹۷۲۔ جو شخص مسلمانوں پر ہتھیار نکالے۔

باب ۹۷۲۔ مَا جَاءَ فِي مَنْ شَهَّرَ السَّلَاحَ

۱۳۱۶۔ حضرت ابو موسیٰؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص ہم

۱۳۱۶۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ وَابُو السَّائِبِ قَالَا ثنا

ابو اسامة عن بريد بن عبد الله بن ابي بردة عن جدّه
ابى بردة عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه
وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا

اس باب میں ابن عمر، ابن زبیر، ابو ہریرہ اور سلمہ بن اکوع بھی احادیث نقل کرتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۹۷۳۔ ماجاء في حد الساجر

۱۳۱۷۔ حدثنا احمد بن منيع ثنا ابو معاوية عن

۱۳۱۷۔ حضرت جناب کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جادو گر کی

اسماعيل بن مسلم عن الحسن بن جندب قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساجر
ضربة بالسيف

سزا یہ ہے کہ اسے تلوار سے قتل کر دیا جائے۔

اس حدیث کو ہم صرف اسماعیل بن مکی کی سند سے مرفوع جانتے ہیں اور وہ حافظہ کی وجہ سے ضعیف ہیں اسماعیل بن مسلم عبد بصری کو
کج ثقہ کہتے ہیں۔ یہ روایت حسن سے بھی منقول ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث جناب سے موقوفاً منقول ہے۔ بعض صحابہ اور دوسرے
علماء اسی پر عمل کرتے ہیں۔ امام مالک کا بھی یہی قول ہے۔ شافعی کہتے ہیں کہ جادو گر اگر ایسا جادو کرے کہ کفر تک پہنچتا ہو تو اس صورت میں
اسے قتل کیا جائے ورنہ نہیں۔

باب ۹۷۴۔ جوفض غنيمت كامال چرائے۔

۱۳۱۸۔ حدثنا محمد بن عمرو ثنا عبدالعزيز بن

۱۳۱۸۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تم کسی شخص کو

محمد عن صالح بن محمد بن زائدة عن سالم بن
عبدالله بن عمر عن عبد الله بن عمر أنّ رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه غلّ في
سبيل الله فأحرقوا متاعه قال صالح قد خلت على
مسلمة ومعه سالم بن عبد الله فوجد رجلاً قد غلّ
فحدّثت سالم بهذا الحديث فأمر به فأحرق متاعه
مصحف فقال سالم بع هذا وتصدق بتمنه

غنيمت كامال چوری کرتے ہوئے دیکھو تو اس کا سامان جلا دو۔ صالح
کہتے ہیں کہ میں مسلم کے پاس گیا تو ان کے ساتھ سالم بن عبد اللہ بھی
تھے۔ انہوں نے ایک شخص کو مال غنیمت میں چوری کا مرتکب پایا تو یہ
حدیث بیان کی اس پر مسلم نے اس شخص کا سامان جلانے کا حکم دیا۔ اس
کے سامان میں سے ایک قرآن مجید نکالا تو سالم نے فرمایا: اسے سچ کر
اس کی قیمت صدقہ کر دو۔

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں بعض علماء اسی پر عمل کرتے ہیں۔ اوزاعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول
ہے۔ میں نے امام بخاری سے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو فرمایا: ہم سے یہ حدیث ابو واقد لیثی صالح بن محمد بن زبیر نے بیان کی ہے
اور وہ منکر الحدیث ہیں۔ مزید کہتے ہیں کہ کئی احادیث اس ضمن میں منقول ہیں لیکن کسی میں بھی اس کے سامان کو جلانے کا حکم نہیں۔ یہ
حدیث غریب ہے۔

باب ۹۷۵۔ جوفض کسی کو بخش کہہ کر پکارے

باب ۹۷۵۔ ماجاء فيمن يقول للاخر يا مخرجت

۱۳۱۹۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کسی

۱۳۱۹۔ حدثنا محمد بن رافع ثنا ابن ابي فديك

شخص نے دوسرے کو یہودی یا مجنث کہہ کر پکارا اسے بیس کوڑے لگاؤ اور جو شخص کسی محرم عورت سے زنا کرے اسے قتل کر دو۔

عن ابراهيم بن اسمعيل بن ابى حبيبة عن داؤد بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال للرجل يا يهودي فاضربوه عشرين و إذا قال يا مجنث فاضربوه عشرين ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه

اس حدیث کو ہم صرف ابراہیم بن اسماعیل کی سند سے جانتے ہیں اور وہ ضعیف ہیں۔ براء بن عازب، قرہ بن ایاس مزنئی سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کیا تو نبی اکرم ﷺ نے اس کے قتل کا حکم دیا یہ حدیث کئی سندوں سے منقول ہے ہمارے اصحاب اسی پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو شخص جانتے ہوئے کسی محرم عورت سے صحبت کرے اسے قتل کر دیا جائے۔

باب ۹۷۶۔ تعزیر کے متعلق۔

باب ۹۷۶۔ مَا جَاءَ فِي التَّعْزِيرِ

۱۳۲۰۔ حضرت ابو بردہ بن نیار کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حدود کے علاوہ دس کوڑوں سے زیادہ نہ مارے جائیں۔

۱۳۲۰۔ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بَكِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ سَلِيمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَّارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلْدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

یہ حدیث ابن لہیعہ، بکیر سے نقل کرتے ہوئے غلطی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عبدالرحمن بن جابر بن عبداللہ سے روایت ہے اور وہ اپنے والد سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں لیکن یہ صحیح نہیں۔ صحیح حدیث وہی ہے جو لیث بن سعد سے منقول ہے یعنی عبدالرحمن بن جابر بن عبداللہ، ابو بردہ بن نیار سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث بھی غریب ہے ہم اسے صرف بکیر بن اشج کی روایت سے جانتے ہیں۔ علماء کا تعزیر کے متعلق اختلاف ہے اور اس باب میں منقول احادیث میں سب سے بہتر یہی حدیث ہے۔

توضیح: تعزیر اس سزا کو کہا جاتا ہے جو قاضی یا حکومت کسی شخص کو دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین نہیں ہوتی جیسے کہ حدود اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہیں ان میں کوئی تصرف و تبدل جائز نہیں۔ پھر قابل تعزیر مجرم کو کسی مصلحت کی وجہ سے معاف بھی کیا جاسکتا ہے۔ جب کہ حد میں ایسا ممکن نہیں۔ واللہ اعلم۔ (مترجم)

شکار کے متعلق آنحضرت ﷺ سے

أَبْوَابُ الصَّيْدِ عَنْ

منقول احادیث کے ابواب

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب ۹۷۷۔ کتے کے شکار میں سے کیا کھانا جائز ہے اور کیا ناجائز

باب ۹۷۷۔ مَا جَاءَ مَا يُؤْكَلُ مِنْ صَيْدِ الْكَلْبِ وَمَا لَا يُؤْكَلُ

۱۳۲۱۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ!

۱۳۲۱۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ ثَنَا قَبِيصَةُ ثَنَا

اللہ! ہم اپنے سکھائے ہوئے شکاری کتوں کو شکار کے لیے بھیجتے ہیں۔

سَفِيَّانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ

فرمایا: وہ جس شکار کو پکڑ لیں تم اسے کھا سکتے ہو میں نے عرض کیا اگر وہ اسے مار ڈالے تب بھی؟ فرمایا: ہاں بشرطیکہ کوئی دوسرا کتا اس کے ساتھ شریک نہ ہو۔ پھر میں نے عرض کیا: ہم معراض (۱) سے بھی شکار کو مارتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جو لوگ سے پھٹ جائے اسے کھالو اور جو اس کی چوٹ لگنے سے مرے اسے نہ کھاؤ۔

الْحَارِثُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُرْسِلُ كِلَابًا لَنَا مُعَلَّمَةٌ قَالَ كُلُّ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ قَتَلَنَ قَالَ وَإِنْ قَتَلَنَ مَا لَمْ يَشْرُكْهَا كَلْبٌ مِّنْ غَيْرِهَا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ قَالَ مَا حَرَقَ فَكُلْ وَمَا أَصَابَ بَعْرُضِهِ فَلَا تَأْكُلْ

محمد بن یحییٰ، محمد بن یوسف سے وہ سفیان ثوری سے اور وہ منصور سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں لیکن اس میں یہ الفاظ ہیں ”وعن المعراض“ یعنی آپ ﷺ سے معراض کے متعلق سوال کیا گیا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۳۲۲۔ عائد اللہ بن عبد اللہ، ابو ثعلبہ حشنی سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم شکاری لوگ ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر تم نے اپنا کتا بھیجتے وقت بسم اللہ پڑھی اور کتے نے شکار پکڑ لیا تو تم اسے کھا سکتے ہو۔ میں نے عرض کیا ہم تیرا نڈ لوگ ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جو چیز تمہارے تیرے مر جائے وہ کھا سکتے ہو۔ پھر میں نے عرض کیا ہم سفر بھی زیادہ کرتے ہیں اور اس دوران یہود و نصاریٰ اور مجوسیوں پر گزر ہوتا ہے جہاں ان کے برتنوں کے علاوہ اور برتن نہیں ہوتے: فرمایا: اگر ان کے علاوہ برتن نہ ہوں تو انہیں پانی سے دھو کر ان میں کھاپی سکتے ہو۔

۱۳۲۲۔ حدثنا احمد بن منيع ثنا يزيد بن هارون ثنا الحجاج عن مكحول عن ابى ثعلبة والحجاج عن الوليد ابن ابى مالك عن عائذ الله بن عبد الله انه سمع ابا ثعلبة الحشني قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اهل صيد فقال اذا ارسلت كلبك و ذكرت اسم الله عليه فامسك عليك فكل قلت و ان قتل قال و ان قتل انا اهل رمي قال ما ردت عليك قوسك فكل قال قلت انا اهل سفر نمر باليهود والنصارى والمجوس فلا نجد غير ابيتهم قال فان لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها واشربوا

اس باب میں عدی بن حاتم بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور عائد اللہ: ابو ادریس خولانی ہیں۔

باب ۹۷۸۔ مجوسی کے کتے سے شکار کرنا۔

باب ۹۷۸۔ مَا جَاءَ فِي صَيْدِ الْكَلْبِ الْمَجُوسِيِّ

۱۳۲۳۔ حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں مجوسی کے کتے کے شکار سے منع کیا گیا۔

۱۳۲۳۔ حدثنا يوسف بن عيسى ثنا وكيع ثنا شريك عن الحجاج عن القاسم بن برزة عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبد الله قال نهينا عن صيد المجوسيين

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں اکثر علماء اسی پر عمل کرتے ہوئے کلب مجوسی سے شکار کی اجازت نہیں دیتے۔ قاسم بن ابوبرزہ: قاسم بن نافع کی ہیں۔

(۱) اس کے معنی باب نمبر ۹۸۲ کے حاشیے پر ملاحظہ کریں۔ (مترجم)

باب ۹۷۹- فِي صَيْدِ الْبَرَاةِ

باب ۹۷۹- باز کے شکار کے متعلق

۱۳۲۴- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَهْنَادُو أَبُو عِمَارٍ قَالُوا
ثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ مَجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ
عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْبَارِي فَقَالَ مَا أَمْسَنْتُ عَلَيْكَ فَكُلْ

۱۳۲۳- حضرت عدی بن حاتمؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ
ﷺ سے باز کے شکار کے متعلق پوچھا تو فرمایا: جو چیز وہ تمہارے لیے
پکڑے اسے کھا سکتے ہو۔

اس حدیث کو ہم صرف مجالد کی روایت سے جانتے ہیں اور وہ شعبی سے نقل کرتے ہیں علماء اسی پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ باز اور
صفور کے شکار ہیں کوئی مضائقہ نہیں۔ مجاہد کہتے ہیں کہ: بزاة وہ پرندہ ہے جو شکار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہ آیت کریمہ میں مذکور
جوارج میں شامل ہے "ما علمتم من الجوارح" یعنی اس جوارج سے مراد وہ کتے اور پرندے ہیں جن سے شکار کیا جاتا ہے۔ علماء باز سے
شکار کی اجازت دیتے ہیں۔ اگرچہ وہ اس میں سے کھا بھی جائے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس کی تعلیم صرف یہی ہے کہ وہ حکم کی تعمیل کریں جب کہ
حضرات اسے مکروہ کہتے ہیں۔ لیکن اکثر علماء کے نزدیک اگر وہ اس میں سے کھا بھی جائے۔ تب بھی اس کے شکار میں سے کھانا جائز ہے۔

باب ۹۸۰- فِي الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَغِيبُ عَنْهُ

باب ۹۸۰- کوئی شخص شکار پر تیر چلائے اور شکار غائب ہو جائے۔

۱۳۲۵- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا
شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بَشْرٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جَبْرِ
يُحَدِّثُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
أَرْمِي الصَّيْدَ فَأَجِدُ فِيهِ مِنَ الْعَدِي سَهْمِي قَالَ إِذَا
عَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ وَلَمْ تَرَ فِيهِ أَثَرَ سَبَعِ فَكُلْ

۱۳۲۵- حضرت عدی بن حاتمؓ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ
ﷺ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں تیر چلاتا ہوں لیکن شکار دوسرے دن
ملتا ہے اور اس میں میرا تیر پیوست ہوتا ہے آپ ﷺ نے فرمایا: اگر
تمہیں یقین ہو کہ وہ تمہارے تیر ہی سے ہلاک ہوا ہے کسی درندے نے
اسے ہلاک نہیں کیا تو تم اسے کھا سکتے ہو۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے علماء اسی پر عمل کرتے ہیں۔ شعبہ یہی حدیث ابو بشیر اور عبد الملک بن میسرہ سے وہ سعید بن جبیر سے اور وہ عدی
بن حاتم سے نقل کرتے ہیں۔ یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ اس باب میں ابو ثعلبہ خشی سے بھی حدیث منقول ہے۔

باب ۹۸۱- مَا جَاءَ فِي مَنْ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَجِدُهُ مِثْلًا فِي الْمَاءِ

باب ۹۸۱- جو شخص تیر لگنے کے بعد شکار کو پانی میں پائے۔

۱۳۲۶- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ
أَخْبَرَنِي عَاصِمُ الْأَحْوَلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ
حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ صَيْدٍ فَقَالَ إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَأَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ
فَأَنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قُتِلَ فَكُلْ إِلَّا أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي
مَاءٍ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي الْمَاءُ
قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ

۱۳۲۶- حضرت عدی بن حاتمؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ
ﷺ سے شکار کے متعلق سوال کیا تو فرمایا: جب تم تیر چلاؤ تو بسم اللہ پڑھو پھر اگر
شکار اس سے مر جائے تو اسے کھاؤ لیکن اگر وہ شکار پانی میں مردہ حالت
میں پاؤ تو نہ کھاؤ
کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ تمہارے تیر سے ہلاک ہوا یا پانی میں گرنے
کی وجہ سے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۳۲۷- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَمْرٍ ثَنَا سَفِيَّانُ عَنْ مَجَالِدٍ

۱۳۲۷- حضرت عدی بن حاتمؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ

ﷺ سے سکھائے ہوئے شکار کتے کے شکار کا حکم پوچھا تو فرمایا: اگر تم نے اپنا سکھایا ہوا کتابھیجا اور بھیجتے وقت بسم اللہ پڑھی تو اس صورت میں اگر اس نے شکار کو تمہارے لیے پکڑا ہے تو تم اسے کھا سکتے ہو لیکن اگر وہ خود اس میں سے کھانے لگے تو مت کھاؤ کیونکہ اس نے شکار اپنے لیے پکڑا ہے۔ میں نے عرض کیا: اگر ہمارے کتے کے ساتھ کچھ اور کتے بھی شامل ہو جائیں تو کیا کیا جائے؟ فرمایا: تم نے اپنے کتے کو بھیجتے وقت بسم اللہ پڑھی تھی دوسرے کتوں پر نہیں۔ سفیان کہتے ہیں کہ اس شکار کا کھانا صحیح نہیں۔

عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْكُنْبِ الْمُعْلَمِ قَالَ إِذَا أُرْسِلَتْ كَلْبُكَ الْمُعْلَمِ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ خَالَطَتْ كِلَابًا بَنَى كِلَابٌ أُخْرَى قَالَ إِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْ عَلَى غَيْرِهِ قَالَ سَفِيَانٌ كَرِهَ لَهُ الْكُلَّةَ

بعض صحابہ وغیرہ شکار اور ذبح وغیرہ کے احکام میں اسی پر عمل کرتے ہیں اگر جانور پانی میں گر جائے تو اسے کھانا صحیح نہیں۔ لیکن بعض علماء کا کہنا ہے کہ اگر ذبح کئے جانے والے جانور کا حلقوم کٹ جانے کے بعد وہ پانی میں گر کر مرے تو اس کا کھانا جائز ہے۔ ابن مبارک کا بھی یہی قول ہے۔ ہاں کتے کے شکار میں علماء کا اختلاف ہے کہ اگر وہ خود اس میں سے کھانے لگے تو کیا حکم ہے؟ اکثر علماء سفیان ثوری، ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق کا قول یہی ہے کہ اس شکار کا کھانا صحیح نہیں جب کہ بعض صحابہ اور بعض دوسرے علماء اس کی اجازت دیتے ہیں۔

باب ۹۸۲۔ مَا جَاءَ فِي صَيْدِ الْمُعْرَاضِ

باب ۹۸۲۔ معراض سے شکار کا حکم۔ (۱)

۱۳۲۸۔ حضرت عدی بن حاتمؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے معراض سے شکار کا حکم پوچھا تو فرمایا: اگر شکار اس کی نوک سے مرے تو اسے کھا سکتے ہو اور اس کی چوٹ سے مرے تو وہ جائز نہیں۔

۱۳۲۸۔ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَيْسَى ثَنَا وَكَيْعُ ثَنَا زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْمُعْرَاضِ فَقَالَ مَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَمَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَفِيْدٌ

ابن ابی عمر، سفیان سے وہ زکریا سے وہ شععی سے وہ عدی بن حاتم سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی طرح نقل کرتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے اور علماء اسی پر عمل پیرا ہیں۔

باب ۹۸۳۔ فِي الذَّنْحِ بِالْمَرْوَةِ

باب ۹۸۳۔ پتھر سے ذبح کرنے کا حکم۔

۱۳۲۹۔ حضرت جابر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ ان کی قوم کے ایک شخص نے ایک یاد خرگوشوں کا شکار کیا اور انہیں پتھر سے ذبح کیا اور انہیں لٹکا دیا یہاں تک کہ آنحضرت ﷺ سے ملاقات ہوئی تو آپ ﷺ سے اس کا حکم پوچھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اسے کھا سکتے ہو۔

۱۳۲۹۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ قَتَادَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ صَادَ أَرْنَبًا أَوْ ائْتَسِينَ فَذَبَحَهُمَا بِمَرْوَةٍ فَتَعَلَّقَهُمَا حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهِمَا

(۱) معراض: اس لاشھی کو کہتے ہیں جو بھاری بھی ہو اور اس کے کنارے پر نوکدار لوہا بھی لگا ہوا ہو۔ اس کا حکم یہی ہے کہ اگر نوک لگنے سے جانور مر جائے یعنی اس کا خون بہہ جائے تو جائز ہے ورنہ نہیں۔ (مترجم)

اس باب میں محمد بن صفوان، رافع اور عدی بن حاتم بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ بعض علماء پتھر سے ذبح کرنے اور خرگوش کا گوشت کھانے کی اجازت دیتے ہیں اکثر علماء کا یہی قول ہے جب کہ بعض علماء خرگوش کے گوشت کو مکروہ کہتے ہیں اس حدیث کی روایت میں شععی کے ساتھیوں کا اختلاف ہے۔ داؤد بن ابی ہند، شععی سے بحوالہ محمد بن صفوان اور عاصم احوال بحوالہ صفوان بن محمد یا محمد بن صفوان نقل کرتے ہیں اور محمد بن صفوان زیادہ صحیح ہے۔ جابر جعفی بھی شععی سے وہ جابر بن عبد اللہ سے قنادہ ہی کی حدیث کی طرح نقل کرتے ہیں۔ احتمال ہے کہ شععی نے ان دونوں سے نقل کیا ہو۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ شععی کی جابر سے منقول حدیث غیر محفوظ ہے

باب ۹۸۴۔ مَا حَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَكْلِ الْمَضْبُورَةِ

باب ۹۸۴۔ بندھے ہوئے جانور پر تیر چلا کر ہلاک کرنے کے بعد اسے کھانا منع ہے۔

۱۳۳۰۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجسمہ کھانے سے منع فرمایا: مجسمہ وہ جانور ہے جسے باندھ کر تیر چلائے جائیں۔ یہاں تک کہ وہ مر جائے۔

۱۳۳۰۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ ثَنَا عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ سَلِيمَانَ عَنْ أَيُّوبَ الْفَرِيقِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سَلِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْمُجَمَّمَةِ وَهِيَ الَّتِي تُصَبَّرُ بِالنَّبْلِ

اس باب میں عرباض بن ساریہ، انس، ابن عمر، ابن عباس، جابر اور ابو ہریرہ بھی احادیث نقل کرتے ہیں یہ حدیث غریب ہے۔

۱۳۳۱۔ وہب بن خالد کہتے ہیں کہ مجھے ام حبیبہ بنت عرباض بن ساریہ نے اپنے والد کے حوالے سے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے غزوة خیبر کے موقع پر ہر دانتوں والے درندے ہر بچوں والے پرندے، پالتو گدھوں، مجسمہ اور خلیسہ کے کھانے سے منع فرمایا۔ اور اس سے بھی منع فرمایا کہ حاملہ باندیوں کے ساتھ بچ پیدا ہونے سے پہلے جماع کیا جائے۔ محمد بن یحییٰ کہتے ہیں کہ اس سے مراد غیر حاملہ عورتوں کے ساتھ حیض سے پہلے جماع نہ کیا جانا بھی ہے۔ پھر ابو عاصم سے سوال کیا گیا۔ مجسمہ کیا ہے تو فرمایا: مجسمہ یہ ہے کہ کسی چیز یا پرندے وغیرہ کو سامنے باندھ کر تیر چلائے جائیں پھر ان سے خلیسہ کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا: خلیسہ وہ جانور ہے جسے کوئی شخص کسی بھیڑیے یا درندے وغیرہ سے چھین لے اور وہ اس کے ذبح کرنے سے پہلے ہی مر جائے۔

۱۳۳۱۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ الْعَرَبِيَّاتِ بِنْتُ سَارِيَةَ عَنْ أَبِيهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ وَعَنْ الْمُجَمَّمَةِ وَعَنْ الْخَلِيسَةِ وَأَنَّ تَوَطُّأَ الْجِبَالِي حَتَّى يَضَعَنَّ مَافِي بَطُونِهِنَّ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى هُوَ الْقَطْعِيُّ سُئِلَ أَبُو عَاصِمٍ عَنِ الْمُجَمَّمَةِ فَقَالَ أَنْ يُصَبَّ الطَّيْرُ أَوْ الشَّيْءُ فَيُرْمَى وَ سُئِلَ عَنِ الْخَلِيسَةِ فَقَالَ الذَّبُّ أَوْ السَّبْعُ يُدْرِكُهُ الرَّجُلُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ فَيَمُوتُ فِي يَدِهِ قَبْلَ أَنْ يُدَكِّيَهَا

۱۳۳۲۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے کسی جاندار چیز کو نشانہ بازی کے لیے منتخب کرنے سے منع فرمایا۔

۱۳۳۲۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَالِي ثَنَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنِ سَمَّاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَّخَذَ شَيْءٌ فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۹۸۵۔ فی ذکوة الجنین

باب ۹۸۵۔ جنین کو ذبح کرنا۔

۱۳۳۳۔ حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد عن مجالد ح وثنا محمد بن عبد الاعلى ثنا حفص بن عياث عن مجالد عن ابي وداك عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكوة الجنين ذكاة أمه

۱۳۳۳۔ حضرت ابو سعیدؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ماں کے ذبح کرنے سے اس کے پیٹ کا بچہ (جنین) بھی حلال ہو جاتا ہے۔

اس باب میں جابر، ابوامامہ، ابودرداء اور ابو ہریرہؓ سے بھی احادیث نقل کرتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور کئی سندوں سے ابو سعیدؓ سے منقول ہے علماء صحابہ وغیرہ اسی پر عمل کرتے ہیں۔ سفیان، ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ ابوالود کا نام جبیر بن نوف ہے۔

باب ۹۸۶۔ ما جاء في كراهية كل ذي ناب ومخلب

باب ۹۸۶۔ ذی ناب اور ذی مخلب کی حرمت

۱۳۳۴۔ حدثنا احمد بن الحسن ثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن انس عن ابن شهاب عن ابي ادريس الخولاني عن ابي ثعلبة الخشني قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع

۱۳۳۴۔ حضرت ابو ثعلبہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہر ذی ناب درندے کے کھانے سے منع فرمایا۔ (۱)

سعد بن عبدالرحمن اور کئی راوی سفیان سے اور وہ زہری سے اسی سند سے اسی کے مثل نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے۔ اور ابو سعید خولانی کا نام عائد بن عبداللہ ہے۔

۱۳۳۵۔ حدثنا محمود بن غيلان ثنا ابو النصر ثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن جابر قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم خيبر الخمر الانسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير

۱۳۳۵۔ حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے غزوہ خیبر کے موقع پر پالتو گدھوں، خچروں کے گوشت، ذی ناب درندوں اور پٹنجے والے پرندوں (یعنی جو پرندے اپنے پنجوں سے شکار کرتے ہیں مثلاً باز) کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔

اس باب میں ابو ہریرہؓ، عمر باض بن ساریہ اور ابن عباسؓ سے بھی احادیث منقول ہیں حضرت جابرؓ کی حدیث حسن غریب ہے۔

۱۳۳۶۔ حدثنا قتيبة ثنا عبد العزيز بن محمد بن عمر عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع

۱۳۳۶۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ہر کچلی والا درندہ حرام کیا ہے مثلاً شیر اور کتا وغیرہ۔

(۱) ذی ناب سے مراد کچلی والا درندہ ہے جو اپنے شکار کو اپنے دانتوں سے پکڑتا ہے۔ (مترجم)

یہ حدیث حسن ہے اکثر علماء صحابہ اسی پر عمل کرتے ہیں ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

باب ۹۸۷- مَا جَاءَ مَا قُطِعَ مِنَ الْبَحْيِ فَهُوَ مَيْتٌ

باب ۹۸۷- زندہ جانور سے کاٹا جانے والا عضو مردہ کے حکم میں ہے۔

۱۳۳۷- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَلِيِّ الصَّنَعَانِيُّ نَا

۱۳۳۷- حضرت ابو واقد لیسٹی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب مدینہ

سَلْمَةُ بْنُ رَجَاءٍ ثَنَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ

تشریف لائے تو وہ لوگ اونٹوں کی کوبان اور ذنبوں کی چکیاں بغیر ذبح

عَنْ زَيْدِ بْنِ اسْلَمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَّارٍ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ

کیے کاٹ لیا کرتے تھے چنانچہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اگر کسی زندہ

الْبَيْهِيِّ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ

جانور کا کوئی حصہ کاٹ لیا تو وہ حصہ مردار کے حکم میں آجاتا ہے۔

وَهُمْ يُحِبُّونَ أَنْ سَنِمَةَ الْإِبِلِ وَيَقْطَعُونَ الْبَيَاتِ الْعَنَمِ

فَقَالَ مَا يُقْطَعُ مِنَ الْبَيْهِيَّةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ

ابراہیم بن یعقوب بھی ابوالنصر سے اور وہ عبدالرحمن بن عبداللہ بن دینار سے اسی طرح نقل کرتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے ہم

اسے صرف زید بن اسلم کی روایت سے جانتے ہیں ابو واقد لیسٹی کا نام حارث بن عوف ہے۔

باب ۹۸۸- فِي الذُّكُورِ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ

باب ۹۸۸- حلق اور لبہ سے ذبح کرنا چاہئے۔

۱۳۳۸- حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَلَاءِ قَالَ ثَنَا

۱۳۳۸- ابو عشاء اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا۔

وَكَيْعٌ عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلْمَةَ ح وَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا

یا رسول اللہ! جانوروں کو صرف حلق اور لبہ ہی سے ذبح کیا جاسکتا ہے۔

يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ أَبِي الْعُشْرَاءِ

آپ ﷺ نے فرمایا: اگر تم اس کی ران میں بھی نیزہ مار دو تو بھی کافی ہے

عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا تَكُونُ الذُّكُورُ إِلَّا

احمد بن منیع، یزید بن ہارون کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ حکم ضرورت

فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ قَالَ لَوْ طَعَنْتُ فِي فَحْدِهَا لَأَجْزَأَ

کے وقت کا ہے۔

عَنْكَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ هَذَا

فِي الضُّرُورَةِ

اس باب میں رافع بن خدیج سے بھی حدیث غریب ہے ہم اسے صرف حماد بن سلمہ کی روایت سے جانتے ہیں۔ ابو عشاء کی اپنے

والد سے اس کے علاوہ کوئی حدیث منقول نہیں۔ ان کے نام میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ ان کا نام اسامہ بن قحطم ہے جب کہ بعض

یبار بن بزر، بعض ابن بلز اور بعض عطارد کہتے ہیں۔

باب ۹۸۹- فِي قَتْلِ الْوَرِغِ

باب ۹۸۹- چھپکلی کو مارنا۔

۱۳۳۹- حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سَفِيَّانٍ عَنْ

۱۳۳۹- حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس

سَهِيلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ

نے چھپکلی کو ایک ہی ضرب سے مار دیا اس کے اتنی نیکیاں ہیں۔ اور جس

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ وَرَغَةً بِالضَّرْبَةِ

نے دوسری ضرب میں مارا اس کے لیے اتنا اجر ہے اور تیسری ضرب

الْأُولَى كَانَ لَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً فَإِنْ قَتَلَهَا فِي

میں مارنے پر بھی اتنا اتنا ثواب ہے۔ یعنی دوسری چوٹ میں پہلی مرتبہ

الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ كَانَ لَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً فَإِنْ قَتَلَهَا

سے کم اور تیسری میں دوسری سے بھی کم)

فِي الضَّرْبَةِ الثَّلَاثَةِ كَانَ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً

اس باب میں ابن مسعود، سعد، عائشہ اور ام شریک سے بھی احادیث منقول ہیں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۹۹۰۔ فی قتل الحیات

باب ۹۹۰۔ سانپ کو قتل کرنا

۱۳۴۰۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ سَهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْتُلُوا الْحَيَاتِ وَأَقْتُلُوا ذَا الطَّفَيْتَيْنِ وَالْأَبْتَرُ فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصْرَ وَيَسْقُطَانِ الْحَبْلَ

۱۳۴۰۔ حضرت سالم بن عبد اللہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں۔ کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سانپوں کو قتل کرو۔ اس سانپ کو بھی مار ڈالو جس کی پشت پر سیاہ نقطے ہوتے ہیں اسی طرح چھوٹی دم والے سانپ کو بھی قتل کرو کیونکہ یہ دونوں بینائی کو زائل اور حمل کو گرا دیتے ہیں۔

اس باب میں ابن مسعود، عائشہ، ابو ہریرہ اور سہیل بن سعد بھی احادیث نقل کرتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے ابن عمر، ابولبابہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے پتلے پتلے سانپوں کو مارنے سے منع فرمایا جو گھروں میں رہتے ہیں۔ انہیں عوام کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن عمر اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ایسے سانپ کو قتل کرنا بھی مکروہ ہے جو پتلا اور چاندی کی طرح ہوتا ہے۔ وہ جب چلتا ہے تو سیدھا چلتا ہے۔ عبد اللہ بن مبارک سے بھی یہی منقول ہے۔

۱۳۴۱۔ حَدَّثَنَا هِنَادٌ ثَنَا عُبَيْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِبَنِي تَكْمَ عُمَارًا فَحَرِّجُوا عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا فَإِنْ بَدَأَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَأَقْتُلُوهُ

۱۳۴۱۔ حضرت ابوسعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تمہارے گھروں میں گھریلو سانپ رہتے ہیں۔ انہیں تین مرتبہ متنبہ کر دو اور اگر اس کے بعد بھی نظر آئیں تو قتل کر دو۔

عبد اللہ بن عمر بھی صحفی سے اور وہ ابوسعید سے یہ حدیث اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ مالک بن انس بھی صحفی سے وہ ہشام بن زہرہ کے مولیٰ ابوسائب سے اور وہ ابوسعید سے نقل کرتے ہیں اس حدیث میں ایک قصہ بھی نقل کیا گیا ہے۔ ہم سے یہ حدیث انصاری نے نقل کی ہے وہ معن سے اور وہ مالک سے نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث عبد اللہ بن عمرو کی حدیث زیادہ صحیح ہے، محمد بن عجلان بھی صحفی سے مالک کی حدیث کے مثل نقل کرتے ہیں۔

۱۳۴۲۔ حَدَّثَنَا هِنَادٌ ثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ قَالَ أَبُو لَيْلَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ظَهَرَتِ الْحَيَّةُ فِي الْمَسْكَنِ فَقُولُوا لَهَا إِنَّا نَسْتَلْتُكَ بِعَهْدِ نُوحٍ وَبِعَهْدِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ أَلَّا تُؤْذِنَا فَإِنْ عَادَتْ فَأَقْتُلُوَهَا

۱۳۴۲۔ عبد الرحمن بن ابی لیلی، ابولیلی سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اگر کسی کے گھر میں سانپ نظر آجائے تو اس سے کہو کہ ہم تجھ سے حضرت نوح اور داؤد کا واسطہ دے کر یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمیں اذیت نہ پہنچا۔ اگر وہ اس کے بعد بھی نظر آئے تو اسے قتل کر دو۔

یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم اسے ثابت بنانی کی روایت سے صرف ابن ابی لیلی کی روایت سے جانتے ہیں۔

باب ۹۹۱۔ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْكِلَابِ

باب ۹۹۱۔ کتوں کو مارنا۔

۱۳۴۳۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا هَشِيمٌ ثَنَا مَنصُورُ بْنُ

۱۳۴۳۔ حضرت عبد اللہ بن مغفل کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

زاذان و یونس عن الحسن عن عبد اللہ بن معقل قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو لا ان الکلاب امة من الامم لامرت بقتلها فاقتلوا منها کل اسود بهیم

اگر کتے اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق نہ ہوتے تو میں ان سب کے قتل کا حکم دے دیتا۔ لیکن ہر کالے سیاہ کتے کو قتل کر دو۔

اس باب میں جابر، ابن عمر، ابورافع اور ابویوب بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ کالے سیاہ رنگ کا کتا شیطان ہے یعنی جس میں بالکل سفیدی نہ ہو۔ علماء اس سے شکار کرنے کو مکروہ کہتے ہیں۔

باب ۹۹۲۔ مَنْ اَمْسَكَ كَلْبًا مَا يَنْقُصُ مِنْ اَجْرِهِ

۱۳۴۴۔ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ عَنِ اَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَفْتَنِي كَلْبًا اَوْ اتَّخَذَ كَلْبًا لَيْسَ بِضَاوِرٍ لَا كَلْبَ مَا شَبِهَ نَقِصَ مِنْ اَجْرِهِ كُلِّ يَوْمٍ فَيُرَاطُ

باب ۹۹۲۔ کتاپالنے والے کی نیکیاں کم ہوتی ہیں۔

۱۳۴۴۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے کتاپالایا رکھا اس کے ثواب میں ہر روز دو قیراط کم کر دیے جاتے ہیں۔ بشرطیکہ وہ کتا شکاریا جانوروں کی حفاظت کے لیے نہ ہو۔

اس باب میں عبد اللہ بن معقل، ابو ہریرہ اور سفیان بن ابوزبیر سے بھی احادیث منقول ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ آپ ﷺ سے یہ بھی منقول ہے کہ فرمایا: ”او کلب زرع“ یا کھیت کی حفاظت کے لیے ہو۔ یعنی اس کا پالنا بھی جائز ہے۔

۱۳۴۵۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ اِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ اَوْ كَلْبَ مَا شَبِهَ قَالَ قِيلَ لَهُ اِنَّ اَبَاهِرِيْرَةَ يَقُوْلُ اَوْ كَلْبَ زُرْعٍ فَقَالَ اِنَّ اَبَاهِرِيْرَةَ لَهُ زُرْعٌ

۱۳۴۵۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے شکاری کتوں اور جانوروں کی حفاظت کے لیے رکھے جانے والے کتوں کے علاوہ سب کتوں کو مارنے کا حکم دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ ابن عمر سے کہا گیا کہ ابو ہریرہ کھیت کے کتے کی بھی استثناء کرتے ہیں تو فرمایا: ابو ہریرہ کے کھیت تھے۔

۱۳۴۶۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا ثَنَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ ثَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ اَبِي سَلْمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ اَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَتَّخَذَ كَلْبًا اِلَّا كَلْبَ مَا شَبِهَ اَوْ صَيْدٍ اَوْ زُرْعٍ اَنْتَقِصَ مِنْ اَجْرِهِ كُلِّ يَوْمٍ فَيُرَاطُ

۱۳۴۶۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص کتاپالتا ہے اس کے اجر میں سے روزانہ ایک قیراط کم ہو جاتا ہے بشرطیکہ وہ جانوروں یا زراعت کی حفاظت اور شکار کے لیے نہ ہو۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ عطاء بن ابی رباح سے منقول ہے کہ انہوں نے اس شخص کو بھی کتاپالنے کی اجازت دی ہے جس کے پاس صرف ایک بکری ہو یہ حدیث اسحاق بن منصور، حجاج بن محمد سے وہ ابن جریج سے اور وہ عطاء سے نقل کرتے ہیں۔

۱۳۴۷۔ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اَسْبَاطَ بْنِ مُحَمَّدِ الْقُرَشِيِّ ثَنَا اَبِي عَنِ اَلْاَعْمَشِ عَنِ اِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ

۱۳۴۷۔ حضرت عبد اللہ بن معقل فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے آنحضرت ﷺ کے خطبہ دیتے وقت آپ ﷺ کے

چہرے سے درخت کی ٹہنیاں اٹھا رکھی تھیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر کتے اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق میں سے ایک مخلوق نہ ہوتے تو میں ان کے قتل کا حکم دیتا۔ لہذا کالے سیاہ کتے کو قتل کر دو۔ کوئی گھروالے ایسے نہیں کہ وہ کتابا نہ دھ کر رھیں اور ان کے اجر میں سے رواز نہ ایک قیراط کم نہ ہوتا ہو لیکن بھینٹی اور جانوروں کی حفاظت یا شکاری کتا رکھنے کی اجازت ہے۔

الْحَسَنُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ قَالَ إِنِّي لَمَمَّنْ يَرْفَعُ أَغْصَانُ الشَّجَرَةِ عَنْ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَحْطُبُ فَقَالَ لَوْ لَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ اسْوَدَّ بَيْهِيمٍ وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَرْتَبِطُونَ كَلْبًا إِلَّا نُقِصَ مِنْ عَمَلِهِمْ كُلُّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ إِلَّا كَلْبٌ صَيْدٍ أَوْ كَلْبٌ حَرَبٍ أَوْ كَلْبٌ عَنَمٍ

یہ حدیث حسن ہے اور کئی سندوں سے حسن ہی سے منقول ہے وہ عبد اللہ بن مغفل سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔

باب ۹۹۳۔ بانس وغیرہ سے ذبح کرنا۔

باب ۹۹۳۔ فِي الذِّكْوَةِ بِالْقَصَبِ وَغَيْرِهِ

۱۳۴۸۔ حضرت رافع بن خدیجؓ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم کل دشمن سے مقابلہ کریں گے اور ہمارے پاس چھری نہیں ہے (یعنی جانور ذبح کرنے کے لیے) آپ نے فرمایا: جس چیز سے خون بہہ جائے اور اللہ کے نام سے ذبح کی جائے اسے کھاؤ، بشرطیکہ وہ دانت یا ناخن نہ ہو۔ ان دونوں چیزوں کے بارے میں میں تمہیں بتاتا ہوں۔ جہاں تک دانت کا تعلق ہے تو یہ ہڈی ہے اور ناخن جیشیوں کی چھری ہے۔

۱۳۴۸۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ ثَنَا ابُو الْاِحْوَصِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عُبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اِنَّا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَنَيْسَتْ مَعَنَا مَدْيٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا مَا لَيْمَ يَكُنْ سِنَّ أَوْ طُفْرًا وَسَاحِدٌ تُكْمُ عَنْ ذَلِكَ أَمَا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَا الطُّفْرُ فَمَدْيُ الْحَبَشَةِ

یہ حدیث محمد بن بشار، یحییٰ بن سعید سے وہ سفیان ثوری سے وہ اپنے والد سے وہ عبایہ بن رافع سے اور وہ رافع سے نقل کرتے ہیں علماء اسی پر عمل کرتے ہوئے دانت اور ناخن سے ذبح کرنے کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔

مسئلہ: یہاں یہ امر وضاحت طلب ہے کہ اگر ناخن اور دانت اپنی جگہ پر ہوں نکالے نہ گئے ہوں تو باجماع ان سے ذبح کرنا جائز نہیں لیکن جو منزوع یعنی نکالے ہوئے ہیں ان کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے چنانچہ حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ ان سے ذبح جائز ہے۔ کیونکہ آپ ﷺ نے فرمایا: ہر وہ چیز جس سے خون بہہ جائے اس سے ذبح کرنا جائز ہے۔ اور ان دونوں چیزوں سے یہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے بشرطیکہ وہ انگلی اور منہ میں نہ لگے ہوئے ہوں۔ جہاں تک مذکورہ بالا حدیث باب کا تعلق ہے تو یہ حدیث اس دانت اور ناخن پر محمول ہے جو الگ نہ کیا گیا ہو۔ یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ حنفیہ کے نزدیک ان دونوں چیزوں سے ذبح کرنا جائز تو ہے لیکن مکروہ ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

۱۳۴۹۔ حضرت رافعؓ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ کے ساتھ سفر میں تھے کہ ایک اونٹ بھاگ گیا۔ ہمارے پاس گھوڑے بھی نہیں تھے تاکہ اسے پکڑ سکیں چنانچہ ایک شخص نے تیر چلایا تو اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو روک دیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ان چوپایوں میں سے بعض

۱۳۴۹۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ ثَنَا ابُو الْاِحْوَصِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عُبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَافِعٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَتَدَّ بَعِيرٌ مِنْ اِبِلِ الْقَوْمِ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ

وحشی جانوروں کی طرح بھگوزے ہوتے ہیں اگر ان میں سے کوئی اس طرح کرے تو تم بھی اس کے ساتھ ایسے ہی کیا کرو۔

خَطْلٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَسَنَهُ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِهَذَا الْبَهَائِمِ نَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا فَعَلَ مِنْهَا هَذَا فَأَفْعَلُوا بِهِ هَكَذَا
اِحْرَابُ الْوَابِ الصَّيْدِ

شکار کے ابواب اختتام پذیر ہوئے۔

محمود بن غیلان، کبج سے وہ سفیان سے وہ اپنے والد سے وہ عبایہ بن رفاعہ سے وہ اپنے دادا رافع بن خدیج سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے مثل نقل کرتے ہیں۔ لیکن اس میں عبایہ کی ان کے والد سے روایت کا ذکر نہیں کرتے یہی زیادہ صحیح ہے علماء اسی پر عمل پیرا ہیں شعبہ بھی یہ حدیث سعید بن مسروق سے اُروہ سفیان سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔

قریبانیوں کے متعلق رسول اللہ ﷺ سے

أَبْوَابُ الْأَضَاحِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ

منقول احادیث کے ابواب

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب ۹۹۳۔ قریبانی کی فضیلت

باب ۹۹۴۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْأَضْحِيَّةِ

۱۳۵۰۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یوم نحر (دس ذوالحجہ) کو اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں۔ (یعنی قریبانی سے) وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت بارگاہِ خداوندی میں آئے گا۔ اس حالت میں کہ اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قبول کر لیا جائے گا۔ اس خوشخبری سے اپنے دلوں کو مطمئن کر لو۔

۱۳۵۰۔ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو مُسْلِمُ بْنُ عَمْرٍو الْحَدَّادُ الْمَدِينِيُّ ثَنَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ نَافِعِ الصَّانِعِ عَنْ أَبِي الْمَثْنَى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا عَمِلَ آدَمِيُّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَيَّ اللَّهُ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ إِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَاشْعَارِهَا وَ أَظْلَافِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَطَيَّبُوا بِهَا نَفْسًا

اس باب میں عمران بن حصین اور زید بن ارقم سے بھی احادیث منقول ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے ہشام بن عروہ کی روایت سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ ابوشی کا نام سلیمان بن یزید ہے ان سے ابوفدیک روایت کرتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ سے یہ بھی منقول ہے کہ قریبانی کرنے والے کو جانور کے ہر بال کے برابر ایک نیکی دی جاتی ہے۔ بعض روایات میں سینگوں کے متعلق بھی فرمایا گیا ہے۔

باب ۹۹۵۔ دو مینڈھوں کی قریبانی۔

باب ۹۹۵۔ فِي الْأَضْحِيَّةِ بِكَيْشَيْنِ

۱۳۵۱۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے دو مینڈھوں کی قریبانی کی جن کے سینگ تھے اور ان کا رنگ سفید و سیاہ تھا آپ ﷺ نے انہیں ذبح کرتے وقت بسم اللہ، اللہ اکبر پڑھا اور اپنا پاؤں اس کی گردن پر رکھا۔

۱۳۵۱۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ ضَحَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَيْشَيْنِ أَقْرَبَيْنِ أَمْلَحَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى كَبْرًا وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَا جِهَمًا

اس باب میں حضرت علیؑ، عائشہؓ، ابو ہریرہؓ، جابرؓ، ابو ایوبؓ، ابودرداءؓ، ابورافعؓ، ابن عمرؓ اور ابو بکرہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۳۵۲۔ حضرت علیؑ ہمیشہ دو مینڈھوں کی قربانی کیا کرتے تھے ایک آنحضرت ﷺ کی طرف سے اور ایک اپنی طرف سے۔ ان سے پوچھا گیا۔ کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو فرمایا: آنحضرت ﷺ نے مجھے اس کا حکم دیا۔ لہذا میں کبھی یہ عمل نہیں چھوڑوں گا۔

۱۳۵۲۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمُحَارِبِيِّ الْكُوفِيُّ ثنا شريك عن ابن الحسنة عن الحكم عن حنث عن علي أنه كان يصحني بكبشيين أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه فقيل له فقال أمرني به يعني النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدعه أبداً

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف شریک کی روایت سے جانتے ہیں بعض علماء میت کی طرف سے قربانی کی اجازت دیتے ہیں جب کہ بعض کے نزدیک یہ جائز نہیں۔ عبد اللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میرے نزدیک میت کی طرف سے صدقہ دینا افضل ہے قربانی نہ کرے اور کسی کی طرف سے کرے تو اس میں سے خود کچھ نہ کھائے بلکہ پورا گوشت صدقہ کر دے۔

باب ۹۹۶۔ جس جانور کی قربانی مستحب ہے۔

باب ۹۹۶۔ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْأَضَاحِيِّ

۱۳۵۳۔ حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے سینگوں والے مینڈھے کی قربانی کی جوڑ تھا۔ اس کا منہ، چاروں پیر اور آنکھیں سیاہ تھیں۔

۱۳۵۳۔ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجِيُّ ثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه سعيد الخدري قال صحني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشيين أقرن فحيايا يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے ہم اسے صرف حفص بن غیاث کی روایت سے جانتے ہیں۔

باب ۹۹۷۔ جس جانور کی قربانی جائز نہیں

باب ۹۹۷۔ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الْأَضَاحِيِّ

۱۳۵۴۔ حضرت براء بن عازبؓ مروفا نقل کرتے ہیں کہ ایسے لنگڑے جانور کی قربانی نہ کی جائے جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو اور ایسے کانے جانور کی بھی قربانی نہ کی جائے جس کا کان پین ظاہر ہو۔ اسی طرح مریض اور بالکل کمزور جانور کی بھی قربانی جائز نہیں جس کا مرض ظاہر ہو۔ یا دوسری صورت میں اس کی ہڈیوں میں گودانہ ہو۔

۱۳۵۴۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ ثنا جرير عن محمد بن اسحق عن يزيد بن ابى حبيب عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن قيس عن البراء بن عازب رفته قال لا يصحني بالعرجاء بين ظلعتها ولا بالعوراء بين عورها ولا بالمریضة بين مرضها ولا بالحنفاء التي لا تنقي

ہناد، ابو زائدہ سے وہ شعبہ سے وہ سلمان بن عبد الرحمن سے وہ عبید بن قیس سے وہ براء سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے ہم معنی حدیث نقل کرتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ہم اسے صرف عبید بن قیس کی روایت سے جانتے ہیں۔ علماء اسی حدیث پر عمل پیرا ہیں۔

باب ۹۹۸۔ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْأَضَاحِي

۱۳۵۵۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنْ شَرِيحِ بْنِ النُّعْمَانَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ أَمَرْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ وَأَنْ لَا نُضْجِيَ بِمُقَابِلَةٍ وَلَا مُدَابِرَةٍ وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ

باب ۹۹۸۔ جس جانور کی قربانی مکروہ ہے

۱۳۵۵۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ قربانی کے جانور کی آنکھ اور کان کو اچھی طرح دیکھ لیں تاکہ کوئی نقص نہ ہو۔ اور ہمیں منع فرمایا کہ کئے ہوئے کان والے جانور یا شرقاء یا خرقاء سے قربانی کریں۔

حسن بن علی، عبید اللہ بن موسیٰ سے وہ اسرائیل سے وہ اسحاق سے وہ شریح بن نعمان سے وہ علی سے اور وہ حضور اکرم ﷺ سے اسی کے مثل حدیث نقل کرتے ہیں لیکن اس میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ راوی نے کہا ”مقابلہ وہ جانور ہے جس کے کان کا ایک کنارہ کٹا ہوا ہو، مدابره وہ جس کا کان کان ہی کی جانب سے کٹا ہوا ہو، شرقاء وہ ہے جس کا کان پرا ہوا ہو، اور خرقاء وہ جس کا کان چھدا ہوا ہو“۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ شریح بن نعمان صاندی کوئی ہیں اور شریح بن حارث کندی بھی کوفہ ہی کے رہنے والے ہیں ان کی کنیت شریح بن امیہ ہے۔ شریح بن ہانی بھی کوئی ہیں اور یہ صحابی بھی اور یہ تینوں حضرت علیؓ کے اصحاب میں سے ہیں۔

باب ۹۹۹۔ چھ ماہ کی بھیر کی قربانی۔

باب ۹۹۹۔ فِي الْجَدْعِ مِنَ الضَّانِ فِي الْأَضَاحِي

۱۳۵۶۔ حضرت ابو کناشؓ کہتے ہیں کہ میں چھ مہینے کے ... دے دیتے مدینہ منورہ قربانی کے موقع پر بیچنے کے لیے لے گیا۔ لیکن وہ تہ پک سکے۔ اچانک میری ملاقات ابو ہریرہؓ سے ہو گئی تو میں نے ان سے پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ: بہترین قربانی چھ ماہ کی بھیر کی ہے۔ اس پر لوگ جلدی جلدی سب خرید لے گئے۔ راوی کو شک ہے کہ ”نعم“ فرمایا، یا ”نعمت“ دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔

۱۳۵۶۔ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عِيسَى ثَنَا وَكَيْعُ ثَنَا عَثْمَانُ بْنُ وَقْدٍ عَنْ كِدَامِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي كَبَاشٍ قَالَ جَلَبْتُ غَنَمًا جَدْعًا إِلَى الْمَدِينَةِ فَكَسَدَتْ عَلَيَّ فَلَقِيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نِعْمٌ أَوْ نِعْمَتٌ الْأَضْحِيَّةِ الْجَدْعُ مِنَ الضَّانِ قَالَ فَانْتَهَبَهُ النَّاسُ

اس باب میں امین عباس، ام بلال بنت ہلال (یہ اپنے والد سے نقل کرتی ہیں) جابر، عقبہ بن عامر اور ایک اور صحابی سے بھی حدیث منقول ہے۔ یہ حدیث غریب ہے اور ابو ہریرہؓ ہی سے موقوفاً بھی منقول ہے۔ علماء صحابہ وغیرہ کے نزدیک چھ ماہ کی بھیر کی قربانی درست ہے۔

۱۳۵۷۔ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے انہیں بکریاں دیں تاکہ انہیں صحابہ میں قربانی کے لیے بانٹ دیں ان میں سے ایک بکری باقی رہ گئی جو عتود یا جدی تھی (یعنی یا ایک سال کی تھی یا چھ ماہ کا بچہ) میں نے آپ ﷺ سے اس کا ذکر کیا تو فرمایا: اس سے تم قربانی کر لو۔

۱۳۵۷۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْطَاهُ غَنَمًا يُقْسِمُهَا فِي أَصْحَابِهِ ضَحَايَا فَبَقِيَ عَتُودٌ أَوْ جَدْيٌ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَحَّ بِهَ أَنْتَ

اس باب میں ابن عباس، ام بلال بنت ہلال (یہ اپنے والد سے نقل کرتی ہیں) جابر، عقبہ بنی عامر اور ایک اور صحابی سے بھی حدیث منقول ہے۔ یہ حدیث غریب ہے اور ابوالہریرہؓ ہی سے موقوفاً بھی منقول ہے۔ علماء صحابہ وغیرہ کے نزدیک چھ ماہ کی بھینڑ کی قربانی درست ہے۔

باب ۱۰۰۰۔ ماجاء فی الاشتراك فی الأضحیة

باب ۱۰۰۰۔ قربانی میں شراکت۔

۱۳۵۸۔ حدثنا ابو عمار والحسين بن حريث ثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن علباء ابن احمر عن عكرمة عن ابن عباس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركتنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة

۱۳۵۸۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم آنحضرت ﷺ کے ساتھ سفر میں تھے کہ عید الاضحی آگئی چنانچہ ہم گائے میں سات اور اونٹ میں دس دس حصے دار بنے۔

اس باب میں ابویوب اور ابواشد اسلمی بھی اپنے والد سے حدیث نقل کرتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف فضل بن موسیٰ کی روایت سے جانتے ہیں۔

۱۳۵۹۔ حدثنا قتيبة ثنا مالك عن انس عن أبي الزبير عن جابر قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة

۱۳۵۹۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر آنحضرت ﷺ کے ساتھ قربانی کی تو گائے اونٹ دونوں میں سات سات آدمی شریک ہوئے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے علماء صحابہ وغیرہ اسی پر عمل پیرا ہیں۔ ابن مبارک، ثوری، شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ اسحاق کے نزدیک اونٹ دس آدمیوں کے لیے بھی کافی ہے۔ ان کی دلیل حضرت ابن عباسؓ کی مذکورہ بالا حدیث ہے۔

۱۳۶۰۔ حدثنا علي بن حجر ثنا شريك عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي عن علي قال البقرة عن سبعة قلت فإن ولدت قال اذبح ولدها معها قلت فالعرجاء قال إذا بلغت المنسك قلت فمكسورة القرن قال لا بأس أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العينين والأذنين

۱۳۶۰۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ گائے سات آدمیوں کے لیے کافی ہے۔ راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا۔ اگر وہ خریدنے کے بعد بچے جنے تو؟ فرمایا: اس کو بھی ساتھ ذبح کرو۔ میں نے عرض کیا: عرجاء یعنی لنگڑی کا کیا حکم ہے؟ فرمایا: اگر قربان گاہ تک پہنچ جائے تو جائز ہے۔ میں نے عرض کیا: اگر اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو تو فرمایا: اس میں کوئی مضائقہ نہیں اس لیے کہ ہمیں حکم دیا گیا۔ یا فرمایا ہمیں آنحضرت ﷺ نے حکم دیا کہ کانوں اور آنکھوں کو اچھی طرح دیکھ لیں۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور سفیان ثوری اسے سلمہ بن کہیل سے نقل کرتے ہیں۔

۱۳۶۱۔ حدثنا هناد ثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن جري بن كليب النهدي عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى

۱۳۶۱۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ٹوٹے ہوئے سینگ اور کٹے ہوئے کان والے جانور کی قربانی سے منع فرمایا۔ قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن مسیب سے اس کا تذکرہ کیا تو فرمایا:

سینگ اگر آدھے تک ٹوٹا ہوا ہو تو اس کی ممانعت ہے ورنہ نہیں۔

بِأَعْضَبِ الْقَرْنِ وَالْأُدُنِ قَالَ فَتَادَهُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ الْعَضْبُ مَا بَلَغَ النِّصْفَ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۰۰۱۔ ایک بکری ایک گھر کے لیے کافی ہے۔

باب ۱۰۰۱۔ مَا جَاءَ أَنَّ الشَّاةَ الْوَاحِدَةَ تُجْزَى عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ

۱۳۶۲۔ عطاء بن یسار کہتے ہیں کہ میں نے ابو ایوب سے آنحضرت ﷺ کے عہد مبارک میں قربانیوں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا: کہ ایک آدمی ایک بکری اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کیا کرتا تھا۔ چنانچہ وہ لوگ خود بھی کھاتے اور لوگوں کو بھی کھلایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ لوگ فخر کرنے لگے اور اس طرح ہو گیا جس طرح تم آج کل دیکھ رہے ہو۔ کہ ایک گھر میں کئی قربانیاں کی جاتی ہیں۔

۱۳۶۲۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى ثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ ثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عَثْمَانَ قَالَ ثَنَى عِمَارَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ كَيْفَ كَانَتْ الصَّحَابِيَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعَمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَتْ كَمَا تَرَى

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ عمارہ بن عبد اللہ مدینی ہیں ان سے مالک احادیث نقل کرتے ہیں۔ بعض علماء اسی پر عمل کرتے ہیں۔ احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ ان کی دلیل وہی حدیث ہے کہ آپ ﷺ نے ایک بھیڑ کی قربانی کی اور فرمایا: یہ میری امت میں سے ہر اس شخص کی طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں کی بعض علماء کا مسلک یہ ہے کہ ایک بکری ایک ہی آدمی کے لیے کافی ہے۔ ابن مبارک اور بعض دوسرے علماء کا بھی یہی قول ہے۔

۱۳۶۳۔ جلد بن حیم کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ابن عمر سے قربانی کے متعلق پوچھا کہ واجب ہے یا نہیں؟ انہوں نے فرمایا: آنحضرت ﷺ اور مسلمانوں نے قربانی کی اس نے دوبارہ پوچھا کہ کیا یہ واجب ہے؟ فرمایا: تم سمجھتے نہیں کہ آنحضرت ﷺ اور مسلمانوں نے قربانی کی۔

۱۳۶۳۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا هُشَيْمٌ ثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْأُضْحِيَّةِ أَوْاجِبَةٌ هِيَ فَقَالَ ضَحِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ فَقَالَ اتَّعَقِلْ ضَحِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ

یہ حدیث حسن ہے اور اسی پر علماء عمل کرتے ہیں۔ کہ قربانی واجب نہیں بلکہ سنت ہے اس کی ادائیگی مستحب ہے۔ سفیان ثوری اور ابن مبارک اسی کے قائل ہیں۔

۱۳۶۴۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ مدینہ منورہ میں دس سال رہے اور ہر سال قربانی کی۔

۱۳۶۴۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَهَنَادٌ قَالَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ اِرْطَاةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ يُضَحِّي

یہ حدیث حسن ہے۔

باب ۱۰۰۲۔ فی الذَّبْحِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

۱۳۶۵۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَطَبْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ نَحَرَ فَقَالَ لَا تَذْبَحَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُصَلِّيَ قَالَ فَقَامَ خَالِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا يَوْمٌ أَلْلَحْمُ فِيهِ مَكْرُوهٌ إِنِّي عَجَلْتُ نَسِيكَتِي لِأَطْعِمَ أَهْلِي وَأَهْلَ دَارِي أَوْ جِيرَانِي قَالَ فَأَعِدْ ذَبْحَكَ بِأَخْرَ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي عَنَاقٌ لَيْسَ خَيْرٌ مِنْ شَاتِي لَحْمٌ أَفَأَذْبِئُهَا قَالَ نَعَمْ وَهُوَ خَيْرٌ نَسِيكَتِكَ وَلَا تَجْرِي جَدْعَةٌ بَعْدَكَ

باب ۱۰۰۲۔ نماز کے بعد قربانی کرنا۔

۱۳۶۵۔ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فجر کے دن خطبہ دیا اور فرمایا: تم میں سے کوئی نماز سے پہلے جانور ذبح نہ کرے۔ براء کہتے ہیں کہ میرے ماموں کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! یہ ایسا دن ہے کہ لوگ اس دن گوشت سے جلدی اکتا جاتے ہیں میں نے یہ سوچ کر اپنی قربانی جلدی کر لی کہ اپنے گھر والوں اور پڑوسیوں کو کھلا دوں۔ آپ ﷺ نے حکم دیا کہ تم دوبارہ قربانی کرو۔ انہوں نے عرض کیا: میرے پاس ایک بکری ہے جو دودھ بھی دیتی ہے۔ لیکن اس کی عمر ایک سال سے کم ہے اس کے باوجود وہ گوشت میں دو بکریوں سے بہتر ہے کیا میں اسے ذبح کر دوں؟ فرمایا: ہاں وہ تمہاری قربانیوں میں سے بہترین قربانی ہے اور تمہارے بعد کسی کے لیے جذع کافی نہیں (یعنی اس عمر کی بکری کی قربانی جائز نہیں)۔

اس باب میں جابر، جناب، عویمر بن اشقر اور ابو زید انصاری بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے علماء اسی پر عمل کرتے ہیں کہ شہر میں عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے قربانی نہ کی جائے۔ جب کہ بعض علماء گاؤں میں رہنے والوں کو طلوع فجر کے بعد قربانی کی اجازت دیتے ہیں۔ ابن مبارک کا بھی یہی قول ہے۔ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ چھ مہینے کا صرف دنبہ قربانی میں ذبح کیا جاسکتا ہے بکری وغیرہ نہیں۔

باب ۱۰۰۳۔ تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانا مکروہ ہے۔

۱۳۶۶۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص اپنی قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ نہ کھائے۔

باب ۱۰۰۳۔ فِي كَرَاهِيَةِ أَكْلِ الْأَضْحِيَّةِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
۱۳۶۶۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

اس باب میں انس اور عائشہ سے بھی احادیث منقول ہیں یہ حدیث حسن ہے لیکن یہ حکم ابتدائے اسلام میں تھا بعد میں اس کی اجازت دے دی گئی۔

باب ۱۰۰۴۔ تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے کی اجازت۔

۱۳۶۷۔ حضرت سلیمان بن بريدة اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں نے تمہیں قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ کھانے سے منع کیا تھا تا کہ استطاعت والے لوگ اپنے سے غریب لوگوں پر کثادگی کریں لیکن اب تم جس طرح چاہو کھا بھی سکتے

باب ۱۰۰۴۔ فِي الرُّخْصَةِ فِي أَكْلِهَا بَعْدَ ثَلَاثِ
۱۳۶۷۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمَحْمُودُ بْنُ غِيْلَانَ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ قَالُوا ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ ثَنَا سَفِينٌ عَنْ عُلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ
ثَلَاثٍ لِتَسْبِعَ ذُو الطَّوْلِ عَلَيَّ مَنْ لَا طَوْلَ لَهُ فَكُلُوا مَا
بَدَا لَكُمْ وَأَطِعُوا وَأَدَّ جُرُؤًا

اس باب میں ابن مسعود، عائشہ، نبیؐ، ابوسعید، قنادہ بن نعمان، انس اور ام سلمہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ بریدہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ علماء صحابہ اسی پر عمل پیرا ہیں۔

۱۳۶۸۔ حضرت عابس بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ ﷺ قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرماتے تھے؟ فرمانے لگیں: نہیں۔ لیکن اس وقت بہت کم لوگ قربانی کیا کرتے تھے۔ اس لیے آپ ﷺ نے چاہا کہ قربانی کرنے والے لوگ قربانی نہ کرنے والوں کو بھی کھلائیں۔ ہم لوگ تو ایک ران رکھ دیا کرتے تھے اور اسے دس دن بعد کھایا کرتے تھے۔

۱۳۶۸۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ ثَنَا ابُو الْاِحْوَصِ عَنْ اَبِي اسْحَقَ عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ قُلْتُ لَامَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ لُحُوْمِ الْاَضَاحِيِّ قَالَتْ وَلَكِنْ قُلَّ مَنْ كَانَ يَضْحَى مِنْ النَّاسِ فَاَحَبَّ اَنْ يُطْعِمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ يَضْحَى فَلَقَدْ كُنَّا نَرْفَعُ الْكُرَاعَ فَنَأْكُلُهُ بَعْدَ عَشْرَةِ اَيَّامٍ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ام المؤمنین: حضرت عائشہ صدیقہ زوجہ مطہرہ ہیں یہ حدیث ان سے کئی سندوں سے منقول ہے۔

باب ۱۰۰۵۔ فرغ اور عمیرہ۔

باب ۱۰۰۵۔ فِي الْفَرْعِ وَالْعَمِيْرَةِ

۱۳۶۹۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اسلام میں نہ فرغ ہے اور نہ عمیرہ، فرغ: جانور کے پہلے بچے کو کہتے ہیں جسے کافر اپنے بتوں کے لیے ذبح کیا کرتے تھے۔

۱۳۶۹۔ حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غِيْلَانَ ثَنَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ ثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا فَرْعَ وَلَا عَمِيْرَةَ وَالْفَرْعُ اَوَّلُ النَّسَاجِ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ فَيْدٌ بِحَوْنِهِ

اس باب میں نبیؐ اور مخنف بن سلیم بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ عمیرہ وہ جانور ہے جسے رجب کے مہینے میں اس کی تعظیم کے لیے ذبح کیا جاتا تھا کیونکہ اشہر حرام میں سے پہلا مہینہ ہے۔ اور اشہر حرام: رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہیں۔ جب کہ اشہر حج: شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے دن ہیں۔ بعض صحابہ اسی طرح بیان کرتے ہیں۔

باب ۱۰۰۶۔ فرغ اور عمیرہ۔

باب ۱۰۰۶۔ مَا جَاءَ فِي الْعَقِيْقَةِ

۱۳۷۰۔ حضرت یوسف بن ماہک فرماتے ہیں کہ ہم حفصہ بنت عبد الرحمن کے ہاں داخل ہوئے اور عقیقہ کے متعلق پوچھا: انہوں نے فرمایا: کہ عائشہ نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے عقیقہ میں لڑکے کی طرف سے ایسی دو بکریاں ذبح کرنے کا حکم دیا جو عمر میں برابر ہوں اور لڑکی کے عقیقہ میں ایک بکری ذبح کرنے کا حکم دیا۔

۱۳۷۰۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلْفِ ثَنَا بَشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَثْمَانَ ابْنِ حُنَيْمٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهِكِ اَنْهُمْ دَخَلُوْا عَلَيَّ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَسَالُوْا عَنِ الْعَقِيْقَةِ فَاَخْبَرَهُمْ اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرْتَهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَهُمْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً

مِنْبَرِهِ فَأَتَى بِكَبَشٍ فَذَبَحَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَيْدِهِ وَقَالَ بِسْمِ اللهِ وَاللهُ اَكْبَرُ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُصَحَّ مِنْ اُمَّتِي

امت میں سے ہر اس شخص کی طرف سے ہے جو قربانی نہ کرے۔

یہ حدیث اس سند سے غریب ہے علماء اسی پر عمل پیرا ہیں کہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جائے۔ ابن مبارک کا بھی یہی قول ہے کہا جاتا ہے کہ مطلب بن عبد اللہ بن حطب کا جاہل سے سماع ثابت نہیں۔

۱۳۷۹۔ حدثنا علي بن حجر ثنا علي بن مسهر عن اسمعيل بن مسلم عن الحسن بن سمره قال قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ

۱۳۷۹۔ حضرت سرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لڑکا اپنے عقیقے کے ساتھ مرعبط ہوتا ہے لہذا چاہئے کہ ساتویں دن اس کا عقیقہ کر دیا جائے اور پھر اس کا نام رکھ کر سر منڈوایا جائے۔

حسن بن علی ظلال، زید بن ہارون سے وہ سعید بن ابی عمرو سے وہ قتادہ سے وہ حسن سے وہ سرہ بن جناب سے اور وہ نبی اکرم ﷺ سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے علماء اسی پر عمل کرتے ہوئے عقیقہ ساتویں دن کرنے کو مستحب کہتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو سکے تو چودھویں دن اور اگر اس دن بھی میسر نہ ہو تو اکیسویں دن کیا جائے۔ عقیقے میں بھی جانور کے لیے وہی شروط ہیں جو قربانی میں ہوتی ہیں۔

۱۳۸۰۔ حدثنا احمد بن الحكم البصرى ثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن مالك ابن انس عن عمرو و عمر بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَأَى هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَ أَرَادَ أَنْ يُصَحِّي فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ

۱۳۸۰۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے ذوالحجہ کا چاند دیکھ لیا اور اس کا قربانی کا ارادہ ہے تو وہ اپنے بال اور ناخن قربانی کرنے تک نہ کاٹے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ عمرو بن مسلم سے محمد بن عمرو بن علقمہ اور کئی راوی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث سعید بن مسیب، ام سلمہ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اس حدیث کے علاوہ بھی اسی طرح نقل کرتی ہیں۔ بعض علماء کا یہی قول ہے۔ سعید بن مسیب بھی اسی کے قائل تھے۔ احمد اور اسحاق بھی اسی پر عمل کرتے ہیں۔ جب کہ بعض علماء ہال منڈوانے اور ناخن تراشنے کی ان ایام میں بھی اجازت دیتے ہیں۔ امام شافعی کا بھی یہی قول ہے ان کی دلیل حضرت عائشہ سے منقول حدیث ہے کہ آنحضرت ﷺ اپنی قربانی مدینہ سے بھیجا کرتے تھے اور کسی ایسی چیز سے پرہیز نہیں کیا کرتے تھے جن سے محرم پرہیز کرتے ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

أَبْوَابُ النَّذْرِ وَالْإِيْمَانِ عَنْ

رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب ۱۰۰۸۔ مَا جَاءَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا نَذْرَ فِيْ مَعْصِيَةٍ

۱۳۸۱۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ ثَنَا ابُو صَفْوَانَ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَذْرَ فِيْ مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةٌ بِيَمِيْنٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نذروں اور قسموں کے متعلق آنحضرت ﷺ سے

منقول احادیث کے ابواب

باب ۱۰۰۸۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی صورت میں نذر ماننا صحیح نہیں۔

۱۳۸۱۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نذر ماننا صحیح نہیں اور اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے۔

اس باب میں ابن عمرؓ، جابرؓ اور عمران بن حصینؓ بھی احادیث بیان کرتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح نہیں اس لیے کہ ابوسلمہ سے زہری نے یہ حدیث نہیں سنی۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ حدیث کئی حضرات سے منقول ہے جن میں موسیٰ بن عقبہ اور ابن ابی عتیق بھی شامل ہیں۔ یہ زہری سے وہ سلیمان بن ارقم سے وہ یحییٰ بن ابی کثیر سے وہ ابوسلمہ سے وہ حضرت عائشہؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا..... الخ امام بخاری کہتے ہیں کہ حدیث تو یہی ہے۔ ابواسامیل محمد بن اسماعیل بن یوسف ترمذی ایوب بن سلیمان بن بلال سے وہ ابوبکر بن ادريس سے وہ سلمان بن بلال سے وہ موسیٰ بن عقبہ اور عبد اللہ بن ابی عتیق سے وہ زہری سے وہ سلیمان بن ارقم سے وہ یحییٰ بن ابی کثیر سے وہ ابوسلمہؓ سے وہ حضرت عائشہؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے یہی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث غریب ہے اور ابوصفوان کی یونس سے منقول حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔ ابوصفوان: سنی ہیں اور ان کا نام عبد اللہ بن سعید ہے۔ ان سے حمید اور کئی بڑے محدثین احادیث نقل کرتے ہیں۔ بعض علماء صحابہ اور دیگر علماء کہتے ہیں کہ اس چیز کی نذر صحیح نہیں۔ جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو اور اس کا کفارہ قسم کے ہی کفارہ کی طرح ہے۔ احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے ان کی دلیل زہری کی ابوسلمہؓ سے منقول حدیث ہے جو وہ حضرت عائشہؓ سے نقل کرتے ہیں۔ جب کہ بعض علماء صحابہ اور دوسرے علماء کے نزدیک ایسی نذر بھی صحیح نہیں اور اس میں کوئی کفارہ بھی نہیں مالک اور شافعی کا بھی یہی قول ہے۔

۱۳۸۲۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نذرمانی اسے چاہئے کہ اسے پورا کرے اور جو اللہ کی نافرمانی کے لیے نذر مانے وہ اس کی نافرمانی نہ کرے۔ (یعنی اسے پورا نہ کرے بلکہ کفارہ ادا کرے)۔

۱۳۸۲۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ بِنِ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْاَيْلِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللّٰهُ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللّٰهُ فَلَا يَعْصِهِ

حسن بن علی خلّال، عبد اللہ بن نمیر سے وہ عبید اللہ بن عمر سے وہ طلحہ بن عبد الملک ابلی سے وہ قاسم بن محمد سے وہ حضرت عائشہؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے مثل حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اسے یحییٰ بن ابی کثیر بھی قاسم بن محمد سے نقل کرتے ہیں۔ بعض علماء صحابہ اور دوسرے علماء کا یہی قول ہے مالک اور شافعی بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ لیکن اگر کوئی نافرمانی کی نذر مانتا ہے تو اس پر کفارہ لازم نہیں آتا۔

باب ۱۰۰۹۔ جو چیز آدمی کی ملکیت نہیں اس کی نذر ماننا صحیح نہیں۔
۱۳۸۳۔ حضرت ثابت بن ضحاک کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو چیز انسان کی ملکیت میں نہ ہو اس کی نذر نہیں ہوتی۔

باب ۱۰۰۹۔ لَا نَذْرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ
۱۳۸۳۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا اسْحَقُ بْنُ يُوْسُفَ
عَنْ هِشَامِ الدُّسْتَوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ
أَبِي قَالِبَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ

اس باب میں عبد اللہ بن عمرو اور عمران بن حصین بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۰۱۰۔ غیر معین نذر کا کفارہ
۱۳۸۴۔ حضرت عقیب بن عامر کہتے ہیں۔ کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
غیر معین نذر کا کفارہ بھی قسم کا کفارہ ہی ہے۔

باب ۱۰۱۰۔ فِي كَفَّارَةِ النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ
۱۳۸۴۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشَ
قَالَ ثَنِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى الْمَغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ ثَنِي
كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ حَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَّارَةُ
النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ كَفَّارَةُ يَمِينٍ

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

توضیح: اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اگر میری یہ مراد پوری ہوگئی تو مجھ پر نذر ہے۔ (مترجم)

باب ۱۰۱۱۔ اگر کوئی شخص کسی کام کے کرنے کی قسم کھائے اور اس قسم کو توڑنے میں ہی بھلائی ہو تو اسے توڑ دے۔

باب ۱۰۱۱۔ فِي مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا
خَيْرًا مِنْهَا

۱۳۸۵۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
اے عبد الرحمن امارت بھی طلب نہ کرو اس لیے کہ اگر یہ تمہارے مانگنے
سے عطا کی جائے گی تو تم تائید خداوندی سے محروم رہو گے اور اگر
تمہارے طلب کیے بغیر عطا کی گئی ہوگی تو اس پر خدا کی طرف سے
تمہاری مدد کی جائے گی۔ اور اگر تم کسی کام کے کرنے کی قسم کھاؤ اور پھر
معلوم ہو کہ اس قسم کے توڑ دینے میں ہی بھلائی ہے تو اسے دو اور اپنی قسم
کا کفارہ ادا کرو۔

۱۳۸۵۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ
سَلِيمَانَ عَنْ يُونُسَ ثَنَا الْحُسَيْنُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا
عَبْدَ الرَّحْمَنِ الْإِمَارَةُ فَإِنَّكَ إِنْ أَتَيْتَكَ عَنْ
مَسْئَلَةٍ وَكَلَّتْ إِلَيْهَا وَ إِنَّكَ إِنْ أَتَيْتَكَ مِنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ
أُعْنَتْ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ وَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا
مِنْهَا فَأَتِ الْدِيَّ هُوَ خَيْرٌ وَالتَّكْفِيرُ عَنْ يَمِينِكَ

اس باب میں عدی بن حاتم، ابودرداء، انس، عائشہ، عبد اللہ بن عمر، ابو ہریرہ، ام سلمہ اور ابو موسیٰ سے بھی احادیث منقول ہیں۔
حضرت عبد الرحمن بن سمرہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۰۱۲۔ کفارہ قسم توڑنے سے پہلے دے۔

۱۳۸۶۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی
شخص کسی کام کی قسم کھائے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام اسے بہتر نظر

باب ۱۰۱۲۔ فِي الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ
۱۳۸۶۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ سَهْلِ
بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى
غَيْرَهَا خَيْرًا مِمَّنْهَا فَلْيَكْفُرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلْ

اس باب میں ام سلمہ بھی حدیث نقل کرتی ہیں۔ اکثر علماء صحابہ اور دیگر علماء اسی حدیث پر عمل کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ قسم توڑنے سے پہلے اس کا کفارہ ادا کر دینے سے کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ مالک، شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے جب کہ بعض علماء کے نزدیک قسم توڑنے سے پہلے کفارہ دینا جائز نہیں۔ سفیان ثوری کہتے ہیں کہ اگر بعد میں دے تو میرے نزدیک مستحب ہے لیکن پہلے دینا بھی جائز ہے۔

باب ۱۰۱۳۔ فی الاستِئْثَاءِ فِي الْيَمِينِ

باب ۱۰۱۳۔ قسم میں انشاء اللہ کہنا۔

۱۳۸۷۔ حدثنا محمود بن غيلان ثنا عبد الصمد
بن عبد الوارث قال حدثني ابي وحماد بن سلمة
عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين
فقال ان شاء الله فلا جناح عليه

۱۳۸۷۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص کسی چیز پر قسم کھائے اور ساتھ ہی انشاء اللہ بھی کہہ دے تو اس کی قسم منعقد نہیں ہوتی (لہذا اس کے خلاف عمل کر لینے سے کفارہ واجب نہیں ہوگا)۔

اس باب میں ابو ہریرہؓ بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابن عمرؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ عبید اللہ بن عمروؓ وغیرہ تابع سے اور وہ ابن عمرؓ سے یہی حدیث موقوفاً نقل کرتے ہیں۔ سالم بھی اسی طرح موقوف ہی نقل کرتے ہیں۔ ہمیں علم نہیں کہ اسے ایوب سختیانی کے علاوہ کسی اور نے مرفوعاً نقل کیا ہے اسماعیل بن ابراہیم کہتے ہیں کہ ایوبؓ کبھی اس حدیث کو مرفوع اور کبھی غیر مرفوع نقل کیا کرتے تھے۔ اہل علم صحابہ وغیرہ اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انشاء اللہ کہنے پر قسم توڑ دینے سے کفارہ لازم نہیں آتا۔ (کیونکہ وہ قسم منعقد ہی نہیں ہوتی) سفیان ثوری، اوزاعی، مالک، عبد اللہ بن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

۱۳۸۸۔ حدثنا يحيى بن موسى ثنا عبد الرزاق ثنا
معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابي هريرة ان
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف
فقال ان شاء الله لم يحنث

۱۳۸۸۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص قسم کھاتے ہوئے انشاء اللہ کہہ لے تو اس کی وہ قسم منعقد نہیں ہوتی۔

میں نے امام بخاری سے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو فرمایا: اس حدیث میں عبد الرزاق نے غلطی کی ہے۔ وہ اسے معمر سے مختصر روایت کرتے ہیں وہ ابن طاووس سے وہ اپنے والد سے وہ ابو ہریرہؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ: سلیمان بن داؤد نے فرمایا: آج کی رات میں ستر بیویوں سے جماع کروں گا۔ پھر ہر عورت ایک بیٹا جنے گی۔ پھر انہوں نے اپنی عورتوں کا طواف کیا لیکن ان میں سے ایک کے علاوہ کسی کے ہاں بیٹا پیدا نہیں ہوا اور وہ بھی نصف۔ پھر آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اگر سلیمان علیہ السلام انشاء اللہ کہہ دیتے تو جیسے انہوں نے کہا تھا ویسے ہی ہو جاتا۔ عبد الرزاق بھی معمر سے وہ ابن طاووس سے اور وہ اپنے والد سے یہی طویل روایت نقل کرتے ہوئے اس میں ستر عورتوں کا ذکر کرتے ہیں یہ حدیث آپ ﷺ سے بواسطہ ابو ہریرہؓ کئی سندوں سے منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ سلیمان بن داؤد نے فرمایا: میں آج کی رات سو عورتوں پر طواف کروں گا..... الخ۔

باب ۱۰۱۴۔ فی كَرَاهِيَةِ الْحَلْفِ بِغَيْرِ اللَّهِ

باب ۱۰۱۴۔ غیر اللہ کی قسم کھانا حرام ہے۔

۱۳۸۹- حضرت سالم اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آباء کی قسم کھانے سے منع فرماتا ہے۔ عمرؓ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد کبھی اپنے باپ کی قسم نہیں کھائی نہ اپنی طرف سے اور نہ کسی دوسرے کی طرف سے۔

۱۳۸۹- حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ ثَنَا سَفِيَّانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُمَرُ وَهُوَ يَقُولُ وَأَبِي فَقَالَ أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَاءِكُمْ فَقَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ ذَا كِرًا وَلَا إِثْرًا

اس باب میں ثابت بن ضحاک، ابن عباس، ابو ہریرہ، قتیبہ اور عبد الرحمن بن سمرہ سے بھی احادیث منقول ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ ولا آثراً کا مطلب یہی ہے کہ میں نے کسی اور سے بھی باپ کی قسم نقل نہیں کی۔

۱۳۹۰- حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عمرؓ کو ایک قافلے میں باپ کی قسم کھاتے ہوئے پایا تو فرمایا: اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آباء کی قسم کھانے سے منع فرماتا ہے اگر کوئی قسم کھانا چاہے تو اللہ ہی کی قسم کھائے ورنہ خاموش رہے۔

۱۳۹۰- حَدَّثَنَا هِنَادٌ ثَنَا عُبَيْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْرَكَ عُمَرَ وَهُوَ فِي رَكْبٍ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ لِيَحْلِفَ خَالِفٌ بِاللَّهِ أَوْ لَيْسُ كُنْتُ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۳۹۱- سعد بن عبیدہ کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے ایک شخص کو کعبہ کی قسم کھاتے ہوئے سنا تو فرمایا: غیر اللہ کی قسم نہیں کھانی چاہئے کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا جو غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے۔ بے شک وہ کفر یا شرک کرتا ہے۔

۱۳۹۱- حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لَا وَالْكَعْبَةِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَحْلِفُ بِغَيْرِ اللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ لِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ

یہ حدیث حسن ہے بعض علماء اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ تغلیظ ہے۔ یعنی حضرت ابن عمرؓ کی حدیث اس باب میں حجت ہے اور اس حدیث میں کفر اور شرک کا ذکر تنبیہا کیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے منقول حدیث میں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ جو شخص لات یا عزی کی قسم کھالے اسے چاہئے کہ لا الہ الا اللہ کہے یہ بھی اسی طرح ہے جیسے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ریا کاری شرک ہے۔ بعض علماء آیت کریمہ ”من كان يرجو اللقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا“ کی تفسیر میں بھی یہی کہتے ہیں کہ اس سے مراد ریا کاری ہے۔ یعنی یہ بھی تنبیہ کے طور پر فرمایا گیا ہے۔

باب ۱۰۱۵- جو شخص چلنے کی استطاعت نہ ہونے کے باوجود چلنے کی قسم کھالے۔

باب ۱۰۱۵- فَيَمْنُ يَحْلِفُ بِالشَّمْسِ وَلَا يَسْتَطِيعُ

۱۳۹۲- حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے قسم کھائی کہ وہ بیت اللہ تک چل کر جائے گی۔ جب آپ ﷺ سے اس کا حکم پوچھا گیا تو فرمایا: اللہ تعالیٰ اس کے پیدل چلنے کا محتاج نہیں۔ اسے کہو کہ سوار ہو جائے۔

۱۳۹۲- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُوسُ بْنُ مَعْمَرٍ الْعَطَارُ الْبَصْرِيُّ ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ نَذَرْتُ امْرَأَةٌ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فَسُئِلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ

فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ مَشِيهَا مُرُوها فَلْتَرَ كَبُ

اس باب میں ابو ہریرہ، عقبہ بن عامر اور ابن عباس سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

۱۳۹۳۔ حدثنا ابو موسیٰ محمد بن المثنیٰ ثنا
 خالد بن الحارث ثنا حمید عن ثابت عن أنس قال
 مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيخ كبير
 يهادى بين ابنيه فقال ما بال هذا قالوا نذر يارسول الله
 ان يمسي قال ان الله لغني عن تعذيب هذا
 نفسه قال فامر ان يركب

۱۳۹۲۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ کا ایک بوڑھے شخص پر
 نذر ہوا جو اپنے دونوں بیٹوں کے سچ چل رہا تھا۔ آپ ﷺ نے اس
 کے متعلق پوچھا تو بتایا گیا کہ اس نے چلنے کی نذر مانی ہے۔ آنحضرت
 ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس کے اپنے نفس کو عذاب میں مبتلا کرنے سے
 مستغنی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے اسے سوار ہو کر جانے کا
 حکم دیا۔

محمد بن ثنیٰ بھی ابو عدی سے وہ حمید سے اور وہ انس سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے بعض علماء اسی پر عمل
 کرتے ہیں کہ اگر عورت پیدل جانے کی نذر مانے تو اسے چاہئے کہ ایک بکری ذبح کرے یعنی قربانی کرے اور سوار ہو کر جائے۔

باب ۱۰۱۶۔ فی کراهية النذر

۱۳۹۴۔ حدثنا قتيبة ثنا عبدالعزيز بن محمد عن
 العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال
 رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنذروا فإن
 النذر لا يعنى من القدر وإنما يستخرج به من البحيل

۱۳۹۳۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نذر نہ
 مانو کیونکہ اس سے تقدیر کی کوئی چیز دو نہیں ہو سکتی ہاں البتہ بخیل کا کچھ
 مال ضرور خرچ ہو جاتا ہے۔

اس باب میں ابن عمر سے بھی حدیث منقول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث حسن صحیح ہے بعض اہل علم صحابہ وغیرہ اسی پر عمل کرتے
 ہوئے نذر کو مکروہ کہتے ہیں۔ ابن مبارک کہتے ہیں کہ اس کی ممانعت کے معنی یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص اطاعت خداوندی میں نذر مانے اور
 اسے پورا کرے تو اسے اس کا اجر ملے گا لیکن نذر ماننا مکروہ تھا۔

باب ۱۰۱۷۔ فی وفاء النذر

۱۳۹۵۔ حدثنا اسحاق بن منصور ثنا يحيى بن سعيد
 القطان عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن
 عمر قال يارسول الله اني كنت نذرت ان اعتكف
 ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية قال اوف بندرك

۱۳۹۵۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے
 زمانہ جاہلیت میں نذر مانی تھی کہ مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف
 کروں گا آپ ﷺ نے فرمایا: اپنی نذر پوری کرو۔

اس باب میں عبد اللہ بن عمر اور ابن عباس سے بھی احادیث منقول ہیں۔ حضرت عمر کی حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض اہل علم اسی حدیث
 پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اسلام لائے اور اس پر اللہ کی اطاعت ہی میں کوئی نذر ہو تو وہ اسے پورا کرے۔ جب کہ بعض
 علماء صحابہ اور دیگر علماء کہتے ہیں کہ اعتکاف کے ساتھ روزے رکھنا ضروری ہے لیکن بعض بغیر روزوں کے بھی اعتکاف کو جائز قرار دیتے
 ہیں۔ الایہ کہ وہ خود اپنے اوپر واجب کر لے ان حضرات کی دلیل حضرت عمر کی مذکورہ بالا حدیث باب ہے۔ کہ آپ نے حضرت عمر کو
 اعتکاف کرنے کا حکم دیا روزے کا نہیں۔ احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

باب ۱۰۱۸۔ آنحضرت ﷺ کس طرح قسم کھایا کرتے تھے۔
 ۱۰۱۸۔ كَيْفَ كَانَ يَمِينُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۱۳۹۶۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اکثر ان الفاظ سے قسم کھایا کرتے تھے۔ ”لا ومقلب القلوب“۔ یعنی دلوں کے بدلنے والے کی قسم ہے۔

۱۳۹۶۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ ثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عَقِبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَثِيرًا مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْلِفُ بِهَذِهِ الْيَمِينِ لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۰۱۹۔ غلام آزاد کرنے کا ثواب۔

۱۰۱۹۔ فِي ثَوَابِ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً

۱۳۹۷۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی شخص کسی مؤمن غلام کو آزاد کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کے ہر عضو کو اس غلام (یا باندی) وغیرہ کے ہر عضو کے بدلے میں دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیں گے یہاں تک کہ اس کی شرمگاہ کو بھی اس کی شرمگاہ کے بدلے میں آزاد کر دیں گے۔

۱۳۹۷۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْجَانَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ حَتَّى يُعْتِقَ فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ

اس باب میں ماہشہ عمر بن عبداللہؓ، ابن عباسؓ، واہلہ بن اسحقؓ، ابوامامہؓ، کعب بن مرہؓ اور عقبہ بن عامرؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔ ابن ہاد کا نام یزید بن عبداللہ بن اسامہ ہادیؓ ہے وہ ثقہ ہیں ان سے مالک بن انس اور کئی علماء احادیث نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۰۲۰۔ جو شخص اپنے خادم کو طمانچہ مارے۔

۱۰۲۰۔ فِي الرَّجُلِ يَلْطَمُ خَادِمَهُ

۱۳۹۸۔ حضرت سوید بن مقرنؓ مزیٰ کہتے ہیں کہ ہم سات بھائی تھے اور ہمارا ایک ہی خادم تھا ہم میں سے ایک نے اسے طمانچہ مار دیا اس پر آنحضرت ﷺ نے ہمیں اس کو آزاد کرنے کا حکم دیا۔

۱۳۹۸۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ ثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَصِينِ بْنِ هَلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ مِقْرَانَ الْمُزَنِيِّ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا سَمِعَ إِخْوَةَ مَالِنَا خَادِمَ الْأُحَدَّةِ فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُعْتِقَهَا

اس باب میں ابن عمرؓ بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے یہی حدیث کئی راوی حسین بن عبدالرحمن سے بھی نقل کرتے ہیں لیکن اس میں باندی کو طمانچہ مارنے کا ذکر ہے۔

۱۳۹۹۔ حضرت ثابت بن ضحاکؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کی جھوٹی قسم کھاتا ہے وہ اسی طرح ہو جاتا ہے۔

۱۳۹۹۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا اسْحَقُ بْنُ يَوْسُفَ الْأَزْرَقِ عَنْ هِشَامِ الدِّسْتَوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ
بِجَلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ علماء اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ اگر کوئی کسی دوسرے مذہب کی قسم کھائے اور یہ کہے کہ اگر اس نے فلاں کام کیا تو وہ یہودی یا نصرانی ہو جائے گا۔ اور بعد میں وہی کام کرنے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا لیکن اس پر کفارہ نہیں۔ ابو عبیدہ، مالک اور بعض علماء کا بھی یہی قول ہے جب کہ بعض صحابہ اور تابعین کے نزدیک اسے کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ سفیان ثوری، احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں۔

۱۴۰۰۔ حدثنا محمود بن غيلان ثنا وكيع عن
سفيان عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر عن
ابن سعيد الرعي عن عبد الله بن مالك اليحصبي
عن عقبه بن عامر قال قلت يا رسول الله إن أختي
نذرت أن تمشي إلى البيت حافية غير محتمرة
فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يصنع
بشقاء أختك فلتركب ولتحتمر ولتصم ثلاثة أيام

۱۴۰۰۔ حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میری بہن نے نذر مانی تھی کہ بیت اللہ ننگے پاؤں اور بغیر چادر کے چل کر جائے گی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کو تمہاری بہن کی اس سختی کو جھیلنے کی ضرورت نہیں۔ لہذا اسے چاہئے کہ سوار ہو اور چادر اوڑھ کر جائے اور تین روزے رکھے۔

اس باب میں ابن عباس سے بھی حدیث منقول ہے یہ حدیث حسن ہے بعض علماء اسی پر عمل کرتے ہیں۔ احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

۱۴۰۱۔ حدثنا اسحق بن منصور ثنا ابو المغيرة ثنا
الاوزاعي ثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن
ابن هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من حلف منكم فقال في حلفه واللات والعزى
فليقل لا إله إلا الله ومن قال تعالى أقامرك فليصدق

۱۴۰۱۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی شخص لات اور عزریٰ کی قسم کھائے تو اسے چاہئے کہ ”لا الہ الا اللہ“ کہے۔ اور اگر کوئی کسی سے کہے کہ آؤ جو اٹھیلیں تو اسے صدقہ دینا چاہئے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابو نعیمہ: خولانی تمیمی ہیں ان کا نام عبد القدوس بن حجاج ہے۔

باب ۲۱۔ ۹۰۔ قضاء النذر عن الميت

باب ۲۱۔ ۱۰۲۔ میت کی طرف سے نذر پوری کرنا

۱۴۰۲۔ حدثنا قتيبة ثنا الليث عن ابن شهاب عن
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن
سعد بن عبادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تَوَقَّيْتُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْضِهِ عَنْهَا

۱۴۰۲۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ سعد بن عبادہ نے آنحضرت ﷺ سے پوچھا کہ میری والدہ نے نذر مانی تھی اور وہ اسے پورا کرنے سے پہلے فوت ہو گئیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا تم ان کی طرف سے وہ نذر پوری کرو۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۰۲۲۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ مَنْ اعْتَقَ

۱۴۰۳۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَلِيِّ ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ عِيْنَةَ وَهُوَ اخُو سَفِيَانَ بْنِ عِيْنَةَ عَنْ حَصِيْنِ عَنْ سَالِمِ بْنِ الْجَعْدِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِكَاهُكَ مِنَ النَّارِ يُجْزِي كُلُّ عَضْوٍ مِنْهُ عَضْوًا مِنْهُ وَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ اعْتَقَتْ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ كَانَتَا فِكَاهُكَ مِنَ النَّارِ يُجْزِي كُلُّ عَضْوٍ مِنْهُمَا عَضْوًا مِنْهُ وَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ اعْتَقَتْ امْرَأَةً مُسْلِمَةً كَانَتْ فِكَاهُكَ مِنَ النَّارِ يُجْزِي كُلُّ عَضْوٍ مِنْهَا عَضْوًا مِنْهَا

یہ حدیث اسی سند سے حسن صحیح غریب ہے۔

أَبْوَابُ السَّيْرِ عَنْ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب ۱۰۲۳۔ مَا جَاءَ فِي الدَّعْوَةِ قَبْلَ الْقِتَالِ

۱۴۰۴۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ ثَنَا ابُو عَوَانَةَ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ الشَّائِبِ عَنْ أَبِي الْبَحْرِيِّ أَنَّ جَيْشًا مِنْ جَبُوشِ الْمُسْلِمِيْنَ كَانَ أَمِيْرُهُمْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ حَاصِرُوا قَصْرًا مِنْ قُصُورِ فَارِسَ فَقَالُوا يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْآ نَهْدُ إِلَيْهِمْ قَالَ دَعُونِي أَدْعُوهُمْ كَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوهُمْ فَاتَاهُمْ سَلْمَانٌ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّمَا أَنَا رَجُلٌ مِنْكُمْ فَارِسِيٌّ تَرَوْنَ الْعَرَبَ يُطِيعُونِي فَإِنْ أَسْلَمْتُمْ فَلَكُمْ مِثْلُ الَّذِي لَنَا وَعَلَيْكُمْ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَا وَإِنْ أَبَيْتُمْ إِلَّا دِينَكُمْ تَرَكْنَاكُمْ عَلَيْهِ وَأَعْطَوْنَا الْحِزْبَةَ عَنْ يَدَيْكُمْ صَاغِرُونَ قَالَ وَرَطْنٌ إِلَيْهِمْ بِالْفَارِسِيَّةِ وَأَنْتُمْ غَيْرُ مَحْمُودِيْنَ وَإِنْ أَبَيْتُمْ نَأْتِدُنْكُمْ عَلَيَّ سَوَاءٌ قَالُوا مَا نَحْنُ بِالْبُدِيِّ يُعْطَى الْحِزْبَةَ وَلَكِنَّا نَقَاتِلُكُمْ فَقَالُوا يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْآ

باب ۱۰۲۲۔ گردنیں آزاد کرنے کی فضیلت

۱۴۰۳۔ حضرت ابوامامہ اور بعض صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص کسی مسلمان غلام کو آزاد کرے گا اس کے بدلے اس آزاد کرنے والے کا ہر عضو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا جائے گا اور جو شخص دو مسلمان باندیوں کو آزاد کرے گا ان کے تمام اعضاء اس شخص کے ہر عضو کا دوزخ کی آگ سے فدیہ ہو جائیں گے اور کوئی عورت کسی مسلمان عورت کو آزاد کرے گی تو اس آزاد کی جانے والی عورت کا ہر عضو اس عورت کے ہر عضو کا دوزخ کی آگ سے فدیہ ہوگا۔

جہاد کے متعلق رسول اللہ ﷺ سے

منقول احادیث کے ابواب

باب ۱۰۲۳۔ جنگ سے پہلے اسلام کی دعوت دینا۔

۱۴۰۴۔ ابو بختری کہتے ہیں کہ سلمان فارسی کی قیادت میں ایک لشکر نے فارس کے ایک قلعے کا محاصرہ کیا تو لوگوں نے عرض کیا: اے ابوعبداللہ! ان پر دھاوا نہ بول دیں؟ فرمایا: مجھے ان کو دعوت دے لینے دو جیسے کہ رسول اللہ ﷺ دعوت دیا کرتے تھے۔ چنانچہ سلمان ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا: دیکھو میں بھی تمہاری لوگوں میں سے ہوں اور فارس ہی کا رہنے والا ہوں۔ تم دیکھ رہے ہو کہ عرب میری اطاعت کر رہے ہیں۔ لہذا اگر تم لوگ اسلام لے آؤ تو تمہارے لیے بھی وہی کچھ ہے جو ہمارے لیے ہے اور تم پر بھی وہی کچھ ہے جو ہم پر ہے۔ لیکن اگر تم لوگ اپنے دین پر ہی قائم رہنے پر مصر ہو تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں بشرطیکہ تم لوگ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ سلمان نے یہ تقریر فارسی میں کی اور پھر یہ بھی کہا کہ اگر تم لوگ انکار کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ ہم تم لوگوں کو آگاہ کرنے کے بعد جنگ کریں گے۔ انہوں نے کہا: ہم ان لوگوں میں

تَنْهَدُوا إِلَيْهِمْ قَالَ لَا قَالَ فَدَعَاهُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَىٰ مِنبَلٍ هَذَا ثُمَّ قَالَ أَنهَدُوا إِلَيْهِمْ قَالَ فَهَنَدْنَا إِلَيْهِمْ فَفَتَحْنَا ذَلِكَ الْقَصْرَ

سے نہیں جو تمہیں جزیہ دے دیں بلکہ ہم جنگ کریں گے لشکروالوں نے عرض کیا: اے ابو عبد اللہ! ان پر ہلہ نہ بول دیں؟ فرمایا: نہیں پھر تین دن تک انہیں اسی طرح اسلام کی دعوت دیتے رہے اور اس کے بعد ہلہ بولنے کا حکم دیا۔ ہم لوگوں نے حملہ کر دیا اور وہ قلعہ فتح کر لیا۔

اس باب میں بریدہ، نعمان بن مقرن، ابن عمر، ابن عباس سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے ہم اسے صرف عطاء بن سائب کی روایت سے جانتے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ابو بکر نے حضرت سلمان کا زمانہ نہیں پایا کیونکہ حضرت علی سے بھی ان کا سماع ثابت نہیں اور سلمان، علی سے پہلے فوت ہو گئے تھے۔ بعض علماء اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے جنگ سے پہلے دعوت کا حکم دیتے ہیں اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر پہلے سے دعوت دی جائے تو اس سے اور زیادہ ہیبت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں دعوت کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ امام احمد کہتے ہیں: مجھے علم نہیں کہ آج بھی کسی کو دعوت کی ضرورت ہے۔ امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ دعوت دینے سے پہلے جنگ نہ شروع کی جائے۔ ہاں اگر وہ خود مسلمانوں پر حملہ کر دیں تو پھر انہیں دعوت نہ دینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔

۱۴۰۵۔ حدثنا محمد بن يحيى العدنى المكي ويكنى بابي عبدالله الرجل الصالح هو ابن ابي عمر ثنا سفيان بن عيينة عن مساجق عن ابن عيصم المزيبي وكانت له صحبة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا أو سرية يقول لهم إذا رأيتم مسلحدا أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا

یہ حدیث حسن غریب ہے اور ابن عیینہ سے منقول ہے۔

باب ۱۰۲۳۔ شب خون مارنے اور حملہ کرنے کے متعلق۔

باب ۱۰۲۴۔ فی البیات والغارات

۱۴۰۶۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب غزوہ خیبر کے لیے نکلے تو وہاں رات کو پہنچے۔ آپ ﷺ کا معمول تھا کہ اگر کسی قوم کے پاس رات کو پہنچتے تو صبح ہونے سے پہلے حملہ نہیں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ صبح ہوئی تو یہودی اپنے پھاڑے اور تھیلے وغیرہ لے کر آپ ﷺ کی آمد سے بے خبر کھیتی باڑی کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ لیکن جب آپ ﷺ کو دیکھا تو کہنے لگے محمد آگئے۔ خدا کی قسم محمد ﷺ لشکر لے کر آگئے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ اکبر! خیبر برباد ہو گیا۔ ہم لوگ جب کسی قوم کے میدان جنگ میں اترتے ہیں تو اس ڈرائی گئی قوم کی صبح بڑی بڑی ہوتی ہے۔

۱۴۰۶۔ حدثنا الانصاري ثنا معن ثنى مالك بن انس عن حميد عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج الى خيبر اتاه ليلًا وكان إذا جاء قومًا بليل لم يغز عليهم حتى يصبح فلما أصبح خرجت يهود بمساجيهم ومكاتبهم فلما رأوه قالوا محمد وافق والله محمد بن الحميم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر أنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين

۱۴۰۷۔ حدثنا قتيبة و محمد بن بشار فالاننا معاذ بن معاذ عن سعيد بن ابى عروبة عن قتادة عن أنس عن ابى طلحة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا ظهر على قوم أقام بعرضتهم ثلاثاً

۱۴۰۷۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ کسی قوم پر فتح حاصل کر لیتے تو ان کے میدان جنگ میں تین دن تک قیام کرتے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور حضرت انس کی حدیث بھی حسن صحیح ہے۔ بعض علماء رات کو حملہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں جب کہ بعض اسے مکروہ کہتے ہیں۔ احمد اور اسحاق کہتے ہیں کہ دشمن پر شب خون مارنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ ”وافق محمد الخمیس“ کا مطلب یہ ہے کہ محمد کے ساتھ لشکر بھی ہے۔

باب ۱۰۲۵۔ فی التَّحْرِيقِ وَالتَّخْرِيبِ

باب ۱۰۲۵۔ کفار کے گھروں کو آگ لگانا اور برباد کرنا۔

۱۴۰۸۔ حدثنا قتيبة ثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البؤيرة فانزل الله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين

۱۴۰۸۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے قبیلہ بنو نضیر کے کھجوروں کے درخت جلا اور کٹوا دیئے۔ جو بویرا کے مقام پر تھے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ”ما قطعتم من لينة“..... الآية۔ ترجمہ: جو کھجور کے درخت آپ نے کاٹ ڈالے یا انہیں ان کی جڑوں پر چھوڑ دیا تو یہ اللہ کے حکم سے ہوا تاکہ نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کریں۔

اس باب میں ابن عباس سے بھی حدیث منقول ہے۔ حضرت ابن عمر کی حدیث حسن صحیح ہے اور اہل علم کی ایک جماعت قلعوں کو برباد کرنے اور درختوں کو کاٹ ڈالنے کی اجازت دیتی ہے جبکہ بعض کے نزدیک ایسا کرنا مکروہ ہے اور زانی کا بھی یہی قول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے پھل دار درخت کو کاٹنے اور گھروں کو برباد کرنے سے منع فرمایا چنانچہ ان کے بعد مسلمانوں نے اسی پر عمل کیا۔ امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ دشمن کے علاقے میں درخت و پھل کاٹنے اور آگ لگا دینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ امام احمد کہتے ہیں کہ بوقت ضرورت ایسا کرنے کی اجازت ہے بلا ضرورت نہیں۔ اسحاق کا کہنا ہے کہ اگر کافراں سے ذلیل ہوں تو آگ لگانا سنت ہے۔

باب ۱۰۲۶۔ مال غنیمت کے متعلق۔

ب۔ ۱۰۲۶۔ ما جاء في الغنيمه

۱۴۰۹۔ حدثنا محمد بن عبيد المحاربى ثنا اسباط بن محمد عن سليمان التيمي عن سيار عن ابى امامه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ان الله فضلى على الانبياء أو قال أمتى على الأمم وأحل لنا الغنائم

۱۴۰۹۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء پر فضیلت بخشی یا فرمایا میری امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی اور ہمارے لیے مال غنیمت کو حلال کیا۔

اس باب میں علیؓ، ابو ذرؓ، عبد اللہ بن عمروؓ اور ابن عباسؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور یہ سیر، بنی معاویہ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ سلیمان تمیمی، عبد اللہ بن بکیر اور کئی راوی ان سے احادیث نقل کرتے ہیں۔

۱۴۱۰۔ حدثنا علي بن حجر ثنا اسمعيل بن جعفر

۱۴۱۰۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھے انبیاء

پر چھ فضیلتیں عطا کی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا۔
دوسری یہ کہ مجھے رعب عطا کیا گیا تیسری یہ کہ مال غنیمت میرے لیے
حلال کر دیا گیا چوتھی یہ کہ پوری زمین میرے لیے مسجد اور طہور (پاک
کرنے والی) بنا دی گئی۔ پانچویں مجھے پوری مخلوق کے لیے بھیجا گیا اور
چھٹی یہ کہ مجھ پر انبیاء کا خاتمہ کر دیا گیا۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ بہت کم اور معانی بہت زیادہ ہوں۔

باب ۱۰۲۷۔ گھوڑے کا مال غنیمت میں حصہ

۱۳۱۱۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مال غنیمت تقسیم
کرتے وقت گھوڑے کو دو اور آدمی کو ایک حصہ دیا۔

باب ۱۰۲۷۔ فِی سَهْمِ الْخَيْلِ

۱۴۱۱۔ حدثنا احمد بن عبدة الضبي وحميد بن مسعدة قالانا ثنا سليم بن اخضر عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس بسهمين وللرجل بسهم

محمد بن بشر بھی عبد الرحمن بن مہدی سے اور وہ سلیم بن اخضر سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ ابن عمر کی حدیث حسن صحیح ہے اکثر علماء اسی پر عمل پیرا ہیں۔ ثوری، اوزاعی، مالک، شافعی، ابن مبارک اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے کہ گھڑ سوار کو تین حصے دیئے جائیں ایک اس کا اور دو گھوڑے کے۔ جب کہ بیدل لڑنے والے کو ایک حصہ دیا جائے۔

باب ۱۰۲۸۔ لشکروں کے متعلق۔

۱۳۱۲۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بہترین صحابہ چار، بہترین لشکر چار سوار، بہترین فوج چار ہزار جوانوں کی ہے۔
خبردار بارہ ہزار آدمی قلت کی وجہ سے شکست نہ کھائیں۔

باب ۱۰۲۸۔ مَا جَاءَ فِي السَّرَايَا

۱۴۱۲۔ حدثنا محمد بن يحيى الازدي البصري وابوعمار وغير واحد قالوا ثنا وهب بن جرير عن ابيه عن يونس بن يزيد عن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصحابة اربعة وخير السرايا اربع مائة وخير الحيوش اربعة الاف ولا يغلب اثنا عشر الفا من قلة

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ اسے جریر بن حازم کے علاوہ کسی بڑے محدث نے مرفوع نہیں کیا۔ زہری یہ حدیث آنحضرت ﷺ سے مرسل بھی نقل کرتے ہیں۔ جہان بن علی غزالی بھی یہ حدیث عقیل سے وہ زہری سے وہ عبید اللہ بن عبد اللہ سے وہ ابن عباس سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ لیث بن سعد نے یہ حدیث بواسطہ عقیل آنحضرت ﷺ سے مرسل نقل کی ہے۔

باب ۱۰۲۹۔ فی کامال کے دیا جائے۔

۱۳۱۳۔ یزید بن ہریر کہتے ہیں کہ نجدہ حروری نے ابن عباس کو لکھا کہ کیا رسول اللہ ﷺ جہاد کے لیے عورتوں کو ساتھ لے جایا کرتے اور انہیں

باب ۱۰۲۹۔ مَنْ يُعْطَى الْفَيْءُ

۱۴۱۳۔ حدثنا قتيبة ثنا حاتم بن اسمعيل عن جعفر بن محمد عن ابيه عن يزيد بن هرمز ان نجدة

مال غنیمت میں سے حصہ دیا کرتے تھے؟ تو ابن عباسؓ نے انہیں لکھا کہ تم نے مجھ سے پوچھا ہے کہ کیا آنحضرت ﷺ عورتوں کو جہاد میں ساتھ رکھتے تھے، یا نہیں؟ ہاں رسول اللہ ﷺ انہیں ساتھ لے جا کرتے تھے اور یہ بیماروں کی مرہم پٹی اور علاج وغیرہ کیا کرتی تھیں اور انہیں مال غنیمت میں سے بطور انعام کچھ دے دیا جاتا تھا لیکن ان کے لیے کوئی خاص حصہ مقرر نہیں کیا گیا۔

الْحُرُورِيُّ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُوا بِالنِّسَاءِ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ هَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ كَتَبْتُ إِلَيْكَ تَسْأَلُنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُوا بِالنِّسَاءِ وَكَانَ يَغْزُو بِهِنَّ قَيْدًا وَبِالْمَرَضِيِّ وَيُحْدِثُنَّ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَأَمَّا السَّهْمُ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ بِسَهْمٍ

اس باب میں انسؓ اور ام عطیہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اکثر علماء اسی حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ سفیان ثوری اور شافعی کا بھی یہی قول ہے۔ جب کہ انہیں علماء کے نزدیک عورت اور لڑکی کو بھی حصہ دیا جائے۔ اوزاعی بھی اسی کے قائل ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خیبر میں بچوں کا بھی حصہ مقرر کیا اور ائمہ نے مسلمانوں کے ہر مولود کا حصہ مقرر کیا جو میدان جنگ میں پیدا ہوا۔ اسی طرح آنحضرت ﷺ نے خیبر میں عورتوں کا بھی حصہ مقرر کیا۔ چنانچہ مسلمانوں نے آپ ﷺ کی وفات کے بعد اسی پر عمل کیا۔ اوزاعی کا یہ قول علی بن خشرم، عیسیٰ بن یونس سے اور وہ اوزاعی سے نقل کرتے ہیں۔ ”یحدین من الغنیمۃ“ سے مراد یہ ہے کہ انہیں مال غنیمت میں سے بطور انعام کچھ دے دیا جاتا تھا۔

باب ۱۰۳۰۔ کیا غلام کو بھی حصہ دیا جائے گا؟

باب ۱۰۳۰۔ لَمْ يُسْأَلْ لِّلْعَبْدِ

۱۴۱۴۔ ابوم کے مولیٰ عمیر کہتے ہیں کہ میں خیبر میں اپنے آقاؤں کے ساتھ شریک تھا۔ انہوں نے آنحضرت ﷺ سے میرے متعلق بات کی اور بتایا کہ میں غلام ہوں۔ آپ ﷺ نے حکم دیا تو میرے بدن پر ایک تلوار لٹکادی گئی۔ میں کوتاہ قامت ہونے کی وجہ سے اسے کھینچتا ہوا چلتا تھا۔ چنانچہ آپ ﷺ نے میرے لیے مال غنیمت میں سے کچھ گھریلو اشیاء دینے کا حکم دیا۔ پھر میں نے آنحضرت ﷺ کے سامنے ایک دم بیان کیا جو میں پاگل لوگوں پر پڑھ کر پھونکا کرتا تھا تو آپ ﷺ نے مجھے اس میں سے کچھ الفاظ چھوڑ دینے اور کچھ یاد رکھنے کا حکم دیا۔

۱۴۱۴۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ ثَنَا بَشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عُمَيْرِ مَوْلَى ابِي اللَّحْمِ قَالَ شَهِدْتُ خَيْبَرَ مَعَ سَادَتِي فَكَلَّمُونِي فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَلَّمُونِي أَنِّي مَمْلُوكٌ قَالَ فَأَمَرَنِي فَقَبِلْتُ السِّيفَ فَإِذَا أَنَا أَجْرُهُ فَأَمَرَنِي بِشَيْءٍ مِنْ خُرْبِيِّ الْمَتَاعِ وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ رُقِيَّةً كُنْتُ أَرْقِي بِهَا الْمُحَانِيْنَ فَأَمَرَنِي بِطَرْحِ بَعْضِهَا وَحَبْسِ بَعْضِهَا

اس باب میں ابن عباسؓ سے بھی حدیث منقول ہے۔ مذکورہ بالا حدیث حدیث حسن صحیح ہے۔ علماء اسی پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ غلام کو بطور انعام کچھ دے دیا جائے۔ ثوری، شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

باب ۱۰۳۱۔ ذمی اگر مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شریک ہوں تو کیا انہیں بھی مال غنیمت میں سے حصہ دیا جائے؟

باب ۱۰۳۱۔ مَا جَاءَ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ يَغْزُونَ مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ هَلْ يُسْأَلُ لَهُمْ

۱۴۱۵۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جنگ بدر کے لیے

۱۴۱۵۔ حَدَّثَنَا الْانصَارِيُّ ثَنَا مَعْنُ ثَنَا مَالِكُ بْنُ

نکلے اور حرۃ الوبر کے مقام پر پہنچے تو ایک مشرک آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا جو دیر ی میں مشہور تھا۔ آپ ﷺ نے اس سے پوچھا کیا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر جاؤ میں کسی مشرک سے مدد نہیں لینا چاہتا۔ اس حدیث میں اور بھی کلام ہے۔

انس عن الفضیل ابن ابی عبداللہ عن عبداللہ بن دینار الا سلمی عن عروۃ عن عائشۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج الی بدر حتی اذا کان بحرۃ الوبر لحقہ رجل من المشرکین یدکر منہ جرأۃ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو من باللہ ورسولہ قال لا قال فارجع فلن استعین بمشرک و فی الحدیث کلام اکثر من هذا

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض علماء اسی پر عمل کرتے ہیں کہ مشرک اگر مسلمانوں کے ساتھ لڑائی میں شریک بھی ہو تو بھی مال غنیمت میں اس کا کوئی حصہ نہیں جب کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اسے حصہ دیا جائے۔ زہری سے منقول ہے کہ آنحضرت ﷺ نے یہودیوں کی ایک جماعت کو حصہ دیا جو آپ ﷺ کے ساتھ جنگ میں شریک تھے۔ یہ حدیث قمیمہ، عبدالوارث بن سعید سے وہ عروہ سے اور وہ زہری سے نقل کرتے ہیں۔

۱۴۱۶۔ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں خیبر کے اشعریوں کی جماعت کے ساتھ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ﷺ نے ہمارے لیے بھی خیبر فتح کرنے والوں کے ساتھ حصہ مقرر کیا۔

۱۴۱۶۔ حدثنا ابو سعید الاشج ثنا حفص بن ابی بردۃ عن ابی موسی قال قیدت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نفر من الأشعریین حبیبر فاستہم لنا مع الذی افتحوها

یہ حدیث سن صحیح غریب ہے۔ اہل علم اسی پر عمل کرتے ہیں۔ اوزاعی کہتے ہیں کہ جو مسلمانوں سے غنائم کی تقسیم سے پہلے ملے۔ اسے بھی حصہ دیا جائے۔

باب ۱۰۳۲۔ مشرکوں کے برتن استعمال کرنا۔

۱۴۱۷۔ حضرت ابو ثعلبہ خشی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے مجوسیوں کی بانڈیوں کا حکم پوچھا گیا تو فرمایا: انہیں دھو کر صاف کر لو اور پھر ان میں پکارا۔ اور آپ ﷺ نے چکی والے درندوں کو کھانے سے منع فرمایا۔

باب ۱۰۳۲۔ ما جاء فی الانتفاع باینۃ المشرکین
۱۴۱۷۔ حدثنا زید بن احزم الطائی ثنا ابو قتیبۃ سلم ابن قتیبۃ ثنا شعبۃ عن ایوب عن ابی قلابۃ عن ابی ثعلبۃ الحُسنی قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قُدورِ المَجُوسِ قال انقُوها غسلاً واطبَحُوها فیہا و نَهی عن کُلِّ سَعِ ذی ناب

یہ حدیث ابو ثعلبہ سے اور بھی کئی سندوں سے منقول ہے۔ یہ حدیث ابودریس خولانی بھی ابو ثعلبہ سے نقل کرتے ہیں۔ ابو قلابہ کا ابو ثعلبہ سے سماع ثابت نہیں وہ اسے ابواسماء کے واسطے سے نقل کرتے ہیں۔

۱۴۱۸۔ حضرت ابودریس خولانی عائد اللہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ثعلبہ خشی سے سنا کہ: میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! تم اہل کتاب کی زمین پر سے اور انہی کے برتنوں میں کھاتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر ان سے ملاوۃ

۱۴۱۸۔ حدثنا ہناد ثنا ابن المبارک عن حیوۃ بن شریح قال سمعت ربیعۃ بن یزید الدمشقی یقول أخبرنی ابو ادریس الخولانی عن عائذ اللہ بن عبید اللہ قال سمعت ابا ثعلبۃ الحُسنی یقول اتیت رسول اللہ

اور برتن موجود ہوں تو ان میں نہ کھایا کرو۔ لیکن اگر اور برتن نہ ہوں تو انہیں دھو کر ان میں کھا سکتے ہو۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ فُومٍ هَذَا الْكِتَابِ نَأْكُلُ فِي أَيْتِهِمْ قَالَ إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ أَيْتِهِمْ فَلَا تَأْكُلُوا فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاعْسِلُوا وَكُلُوا فِيهَا
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۰۳۳۔ نفل کے متعلق۔

باب ۱۰۳۳۔ فی النفل

۱۴۱۹۔ حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ابتداء جہاد میں چوتھائی مال غنیمت تقسیم کر دیا کرتے تھے اور تہائی حصہ لوٹتے وقت تقسیم کرتے۔

۱۴۱۹۔ حدثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن بن مهدى ثنا سفین عن عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى عن أبي أمامة عن عبادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنْفِلُ فِي الْبِدَاةِ الرَّبْعَ وَفِي الْقُفُولِ الثَّلَاثَ

اس باب میں ابن عباسؓ، حبیب بن مسلمہؓ، معن بن یزیدؓ، ابن عمرؓ اور سلمہ بن اوعؓ سے بھی احادیث نقل کی گئی ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے اور ابو سلام سے بھی ایک صحابی کے واسطے سے آنحضرت ﷺ سے منقول ہے۔

۱۴۲۰۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے بدر کے موقع پر اپنی تلوار ذوالفقار نفل میں لی اور احد کے موقع پر اس کے متعلق خواب دیکھا۔

۱۴۲۰۔ حدثنا هناد ثنا ابن ابى الزناد عن ابیه عن عبیداللہ بن عبد اللہ بن عتبۃ عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تنفل سيفه ذالفقار يوم بدر وهو الذي رآه الرويا يوم احد

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف ابو زناد کی روایت سے جانتے ہیں۔ علماء کاشم غنیمت میں سے نفل دینے میں اختلاف ہے۔ امام مالک کہتے ہیں: ہمیں یہ خبر نہیں پہنچی کہ آنحضرت ﷺ نے ہر جہاد میں نفل تقسیم کیا ہو۔ ہاں بعض غزوات میں ایسا ہوا۔ لہذا یہ امام کی رائے کی طرف تفویض کر دیا جائے گا کہ جس طرح مناسب سمجھے تقسیم کرے شروع میں یا آخر میں۔ منصور کہتے ہیں میں نے احمد سے پوچھا کہ کیا نبی کریم ﷺ نے جہاد میں نفل کے وقت خمس کے بعد چوتھائی تقسیم کیا اور لوٹنے وقت خمس کے بعد تہائی مال تقسیم کیا؟ فرمایا: آنحضرت ﷺ مال غنیمت میں سے پانچواں حصہ نکال کر باقی میں سے ٹکٹ تک تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ جب نہ سعید بن مسیب کا مسلک یہ ہے کہ نفل خمس میں داخل ہے۔ اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

توضیح: امام وقت کے لیے جائز ہے کہ وہ مال غنیمت میں سے کسی کو بوجہ مصلحت زیادہ دے دے چنانچہ آنحضرت ﷺ بھی بعض غازیوں کو ان کے حصے سے زیادہ دیا کرتے تھے۔ علماء کا اس مال کی ادائیگی میں اختلاف ہے کہ کیا وہ اصل مال غنیمت میں سے دی جائے گی یا اس اس سے جس کی تفصیل اوپر مذکور ہے جب کہ حدیث ۱۴۱۹ میں چوتھائی مال غنیمت تقسیم کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب جنگ کے شروع میں کوئی دستہ دشمنوں پر ٹوٹ پڑتا..... تو آپ ﷺ ان سے غنیمت کے چوتھائی حصے کا وعدہ فرماتے اور باقی تین حصے لشکر میں تقسیم کرتے۔ اور جب لشکر لوٹتا اور ایک گروہ دوبارہ اس کے مقابلے کے لیے جاتا تو اس کو مال غنیمت کا تیسرا حصہ دیتے اس لیے کہ ایک مرتبہ لڑائی کے بعد دوبارہ مقابلہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۱۰۳۴۔ مَا جَاءَ فِي مَنْ قُتِلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلْبُهُ
 ۱۴۲۱۔ حدثنا الانصاری ثنا معن ثنا مالك بن
 انس عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن افلح
 عن ابی محمد مولی ابی قتادة عن ابی قتادة قال
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا
 له عليه بيعة فله سلبه وفي الحديث قصة

ابن عمر، سفیان سے وہ یحییٰ بن سعید سے اسی سند سے اسی کے مثل حدیث نقل کرتے ہیں۔ اس باب میں عوف بن مالک، خالد بن
 ولید، انس اور سرہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو محمد کا نام نافع ہے اور وہ ابو قتادہ کے مولیٰ ہیں۔ بعض علماء صحابہ
 وغیرہ اسی حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اوزاعی، شافعی اور احمد کا بھی یہی قول ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ امام سلب میں سے خنس نکالے ثوری کہتے
 ہیں کہ تنقیل یہی ہے کہ امام کہدے جو کچھ بھی کافروں سے کوئی چھینے گا وہ اس میں سے خنس لے سکتا ہے جیسے کہ عمر نے کیا۔

باب ۱۰۳۵۔ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقَسَمَ
 ۱۴۲۲۔ حدثنا هناد ثنا حاتم بن اسماعيل عن
 جهضم بن عبد الله عن محمد بن ابراهيم عن
 محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن ابی سعيد
 الخدری قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
 عن شراء المغانم حتى تقسم

اس باب میں ابو ہریرہ سے بھی حدیث منقول ہے یہ حدیث غریب ہے۔
 باب ۱۰۳۶۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ وَطِي الْحَبَالِي مِنَ
 السَّبَايَا
 ۱۴۲۳۔ حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري ثنا
 ابو عاصم النبيل عن وهب بن ابی خالد قال
 حدثتني ام حبيبة بنت عرياض بن سارية ان رسول
 الله صلى الله عليه وسلم نهى ان توطأ السبايا حتى
 يضعن ما في بطونهن

اس باب میں روثع بن ثابت بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ عرباض کی حدیث غریب ہے۔ اہل علم اسی پر عمل کرتے ہیں۔ اوزاعی
 کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب سے منقول ہے کہ اگر کوئی باندی خرید لیا جائے اور وہ حاملہ ہو تو اس سے بچہ پیدا ہونے سے پہلے صحبت نہ کی جائے۔
 مزید کہتے ہیں کہ آزاد عورتوں میں تو معروف ہے کہ وہ عدت پوری کریں۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث علی بن خشرم، عیسیٰ ابن یونس
 سے اور وہ اوزاعی سے نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۰۳۷۔ مَا جَاءَ فِي طَعَامِ الْمُشْرِكِينَ

۱۴۲۴۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَخْبَرْنِي سَمَاكُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ قَبِيصَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ طَعَامِ النَّصَارَى فَقَالَ لَا يَتَخَلَّجَنَّ فِي صَدْرِكَ طَعَامٌ ضَارَعَتْ فِيهِ النَّصْرَانِيَّةُ

باب ۱۰۳۷۔ مشرکین کے کھانے کا حکم۔

۱۴۲۴۔ حضرت قبیسہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے طعام نصاری کا حکم پوچھا تو فرمایا ایسا کھانا جس میں نصرا نیت کی مشابہت ہو تمہارے سینے میں شک پیدا نہ کرے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ محمود اور عبید اللہ بن موسیٰ بھی اسرا نیل سے وہ سماک سے وہ قبیسہ سے اور وہ اپنے والد سے اسی طرح کی حدیث مرفوعاً نقل کرتے ہیں۔ پھر محمود اور وہب، شعبہ سے وہ سماک سے وہ مری بن قطری سے وہ عدی بن حاتم سے اور وہ رسول اللہ ﷺ سے اسی کے مثل روایت بیان کرتے ہیں۔ علماء اسی پر عمل کرتے ہوئے اہل کتاب کے طعام کو کھانے کی اجازت دیتے ہیں۔

باب ۱۰۳۸۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ السَّبْيِ

۱۴۲۵۔ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ الشَّيْبَانِيُّ نَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي حَسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُبَلِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَفَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

باب ۱۰۳۸۔ قیدیوں کے درمیان تفریق کرنا۔

۱۴۲۵۔ حضرت ابو ایوب کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے بیٹے اور ماں کے درمیان تفریق کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اور اس کے دوستوں کے درمیان تفریق کر دیں گے۔ (تفریق بمعنی جدائی)۔

اس باب میں علیؑ سے بھی حدیث منقول ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے اہل علم صحابہ اور دیگر علماء اسی پر عمل پیرا ہیں۔ ان حضرات کے نزدیک قیدیوں میں بیٹے اور ماں کے درمیان جدائی ڈالنا مکروہ ہے یہی کہیے، باپ اور بھائیوں کا بھی ہے۔ یعنی تقسیم اور بیچنے وقت۔

باب ۱۰۳۹۔ قیدیوں کو قتل کرنے اور فدیہ لینے سے متعلق

باب ۱۰۳۹۔ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْأَسَارَى وَالْفِدَاءِ

۱۴۲۶۔ حضرت علیؑ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ جبریلؑ آئے اور فرمایا کہ اپنے صحابہ کو بدر کے قیدیوں کے قتل اور فدیہ کے متعلق اختیار دے دیجئے۔ اگر یہ لوگ فدیہ اختیار کریں گے تو آئندہ سال ان میں سے ان قیدیوں کے برابر آدمی قتل ہو جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے فدیہ اختیار کیا اور یہ کہ ہم میں سے آئندہ سال قتل کیے جائیں۔

۱۴۲۶۔ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ وَاسْمُهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَمْدَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ قَالَا ثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ جِبْرِيْلَ هَبَطَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ خَيْرُهُمْ يَعْنِي أَصْحَابَكَ فِي أَسَارَى بَدْرِ الْقَتْلُ أَوْ الْفِدَاءُ عَلَيَّ أَنْ يُقْتَلَ مِنْهُمْ قَابِلٌ مِثْلَهُمْ قَالُوا الْفِدَاءُ وَيُقْتَلَ مِنَّا

اس باب میں ابن مسعودؓ، انسؓ، ابو بزرہؓ اور جبیر بن مطعمؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث ثوری کی روایت سے حسن غریب ہے ہم اسے صرف ابن ابی زائدہ کی روایت سے جانتے ہیں۔ ابواسامہ، ہشام سے وہ ابن سیرین سے وہ عبیدہ سے وہ علیؑ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔ ابن عون بھی ابن سیرین سے وہ علیؑ سے اور وہ رسول اللہ ﷺ سے مرسل نقل کرتے ہیں۔ ابوداؤد حضری کا نام عمر بن سعد ہے۔

۱۴۲۷۔ حدثنا ابن ابی عمر ثنا سفیان ثنا ایوب عن ابی قلابہ عن عمہ عن عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَى رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

۱۴۲۷۔ حضرت عمران بن حصینؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک مشرک کے بدلے دو مسلمانوں کو قید سے آزاد کرایا۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے ابو قلابہ کے چچا کی کنیت ابوالمہلب اور ان کا نام عبدالرحمن بن عمرو ہے۔ انہیں معاویہ بن عمرو بھی کہتے ہیں ابو قلابہ کا نام عبداللہ بن زید جری ہے۔ اکثر علماء صحابہ اور دیگر علماء یہی کہتے ہیں کہ امام کو اختیار ہے کہ قیدیوں میں سے جسے چاہے قتل کرے، جسے چاہے مفت چھوڑ دے اور جسے چاہے کچھ مال لے کر چھوڑے۔ بعض علماء قتل ہی کو اختیار کرتے ہیں۔ اوزاعی کہتے ہیں کہ مجھے خبر ملی ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ ”فاما منا بعد واما فداء“ یعنی اس کی تاح قال کا حکم دینے والی آیت ہے کہ ”فافتلواہم حیث ثقفتموہم“ ہم سے اوزاعی کا یہ کلام ہنار نے ابن مبارک کے حوالے سے نقل کیا۔ اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے احمد سے کہا: جب قیدی قید میں ہوں تو کیا کیا جائے انہیں قتل کر دیا جائے یا فدیہ لے کر چھوڑے جائیں۔ انہوں نے فرمایا: اگر کفار فدیہ دینے پر قادر ہوں تو کوئی مضائقہ نہیں اور اگر قتل کر دیئے جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں۔ اسحاق کہتے ہیں کہ خون بہانا میرے نزدیک افضل ہے بشرطیکہ اکثر لوگوں کی رائے فدیہ لینے کی نہ ہو۔

باب ۱۰۴۰۔ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ

باب ۱۰۴۰۔ عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے کی ممانعت

۱۴۲۸۔ حدثنا قتيبة ثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أنّ امرأةً وجدت في بعض معازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولةً فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان

۱۴۲۸۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ایک عورت ایک مرتبہ جہاد میں مقتول پائی گئی۔ رسول اللہ ﷺ نے اسے پسند نہیں کیا اور بچوں و عورتوں کو قتل کرنے سے منع فرمادیا۔

اس باب میں بریدہؓ، رباحؓ (انہیں رباح بن ربیعہ کہتے ہیں)، اسود بن سرج، ابن عباس اور صعّب بن جثامہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ علماء صحابہ و دیگر علماء اسی پر عمل کرتے ہوئے عورتوں اور بچوں کے قتل کو حرام قرار دیتے ہیں ثوری اور شافعی کا بھی یہی قول ہے۔ جب کہ بعض علماء شیخون میں ان کے قتل کی اجازت دیتے ہیں۔ احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں۔

۱۴۲۹۔ حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثنا سفیان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال أخبرني الصعّب بن جثامة قال قلت يا رسول الله إن خيلنا أو طقت من نساء المشركين أو لآديهم قال هم من آباؤهم

۱۴۲۹۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ صعّب بن جثامہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمارے گھوڑوں نے کفار کی عورتوں اور بچوں کو روند ڈالا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ اپنے باپ دادا ہی میں سے ہیں۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۴۳۰۔ حدثنا قتيبة ثنا الليث عن بكير بن عبد الله

۱۴۳۰۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں ایک

لشکر میں بھیجا اور حکم دیا کہ اگر قریش کے فلاں فلاں شخص کو پاؤ تو انہیں آگ سے جلا دو۔ پھر جب ہم لوگ نکلنے لگے تو فرمایا: میں نے تمہیں فلاں اور فلاں کو آگ میں جلانے کا حکم دیا تھا۔ لیکن آگ سے عذاب صرف اللہ تعالیٰ دیتے ہیں لہذا اگر تمہیں یہ آدمی مل جائیں تو انہیں قتل کر دینا۔

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَّارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْثٍ فَقَالَ إِنَّ وَجَدْتُمْ فَلَانًا وَفَلَانًا لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ فَأَحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِئْنَا أَرْضَنَا الْخُرُوجِ إِنِّي كُنْتُ أَمْرُكُمْ أَنْ تَحْرِقُوا فَلَانًا وَفَلَانًا بِالنَّارِ وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَأَقْتُلُوهُمَا

اس باب میں ابن عباس اور حمزہ بن عمرو سلمی سے بھی حدیثیں منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ علماء اسی پر عمل پیرا ہیں۔ محمد بن اسحاق اپنی حدیث میں سلمان بن یسار اور ابو ہریرہ کے درمیان ایک راوی کا اضافہ کرتے ہیں۔ اور کئی راوی لیث کی حدیث کے مثل نقل کرتے ہیں یہ اشبہ اور اصح ہے۔

باب ۱۰۴۱۔ غلول کے متعلق۔ (۱)

باب ۱۰۴۱۔ مَا جَاءَ فِي الْغُلُولِ

۱۳۳۱۔ حضرت ثوبانؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص تکبر، قرض اور غلول سے بری ہو کر فوت ہو وہ جنت میں داخل ہوا۔

۱۴۳۱۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنَ الْكِبْرِ وَالْغُلُولِ وَالذَّيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

اس باب میں ابو ہریرہ اور زید بن خالد جہنی سے بھی احادیث منقول ہیں۔

۱۳۳۲۔ حضرت ثوبانؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص کی روح اس کے جسم سے اس حالت میں جدا ہوئی کہ وہ تین چیزوں سے بری ہے۔ کتز (۲)، غلول اور قرض تو وہ جنت میں داخل ہوا۔ سعید "کتز" اور ابو عوانہ اپنی حدیث میں "الکبر" کا لفظ نقل کرتے ہیں اور اپنی روایت میں معدان کا ذکر نہیں کرتے۔ جب کہ سعید کی روایت زیادہ صحیح ہے۔

۱۴۳۲۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثنا ابن ابی عدی عن سعید عن قتادة عن سالم بن ابی الجعد عن معدان بن ابی طلحة عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الروح الجسد وهو برى من ثلث الكنز والغلول والدين دخل الجنة هكذا قال سعيد الكنز وقال ابو عوانة في حديثه الكبر ولم يذكر فيها عن معدان ورواية سعيد اصح

۱۴۳۳۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا عكرمة ابن عمار ثنا عكرمة ابن عمار ثنا سماك ابو زميل الحنفى قال سمعت

۱۳۳۳۔ حضرت عمر بن خطابؓ فرماتے ہیں کہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ فلاں شخص شہید ہو گیا۔ فرمایا: ہرگز نہیں میں نے اسے ایک مہلک مال غنیمت میں سے چرا لینے کے عوض جہنم میں دیکھا۔ پھر فرمایا: عمر!

(۱) غلول: مال غنیمت میں سے کوئی چیز چرانے کو کہتے ہیں۔ (مترجم)

(۱) کتز سے مراد وہ مال ہے جو نصاب کے بقدر ہونے کے باوجود اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے۔ (مترجم)

عَبَّاسٍ يَقُولُ نَبِيُّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
 إِنَّ فَلَانًا قَدِ اسْتَشْهَدَ قَالَ كَلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ
 بَعِيَاءَ قَدْ غَلَّهَا قَالَ قُمْ يَا عُمَرُ فَتَادِ إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ
 الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ ثَلَاثًا
 یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۱۰۴۲۔ مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْحَرْبِ
 ۱۴۳۴۔ حدثنا بشر بن هلال الصواف ثنا جعفر بن
 سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس قال كان رسول الله
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُوا بِأَمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةِ مَعَهَا
 مِنَ الْأَنْصَارِ لِيُسْقِينَ الْمَاءَ وَيَدَا وَيُنَ الْحَرْخِي
 باب ۱۰۴۳۔ عورتوں کا جنگ میں شریک ہونا۔
 ۱۳۳۳۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جہاد میں ام سلیم اور
 بعض انصاری عورتوں کو ساتھ رکھا کرتے تھے تاکہ وہ پانی وغیرہ پلائیں
 اور زخمیوں کا علاج کریں۔

اس باب میں ربیع بنت معوذ سے بھی حدیث منقول ہے۔ حضرت انسؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۰۴۳۔ فِي قُبُولِ هَدَايَا الْمُشْرِكِينَ
 ۱۴۳۵۔ حدثنا علي بن سعيد الكندي ثنا
 عبدالرحيم بن سليمان عن اسراييل عن ثوير عن أبيه
 عن علي بن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ كَسْرَى
 أَهْدَى لَهُ فَقَبِلَ وَأَنَّ الْمَلُوكَ أَهْدَوْا إِلَيْهِ فَقَبِلَ مِنْهُمْ
 باب ۱۰۴۳۔ مشرکین کے ہدایا قبول کرنا
 ۱۳۳۵۔ حضرت علیؓ، رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ کسریٰ نے
 آپ ﷺ کی خدمت میں ہدیہ بھیجا تو آپ ﷺ نے قبول کر لیا اسی طرح
 ملوک جب ہدایا بھیجتے تو آپ ﷺ قبول کیا کرتے تھے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں جابر سے بھی حدیث منقول ہے۔ اور ثور، ابوفاختہ کے بیٹے ہیں ان کا نام سعید بن علاقہ اور
 کنیت ابوہم ہے۔

۱۴۳۶۔ حدثنا محمد بن بشار ثنا ابو داؤد عن
 عمران القطان عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن
 الشَّخِيرِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ أَنَّهُ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةً لَهُ أَوْ نَاقَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْلَمْتَ فَقَالَ لَا فَقَالَ إِنِّي نُهَيْتُ عَنْ
 زَيْدِ الْمُشْرِكِينَ
 ۱۳۳۶۔ حضرت عیاض بن حمارؓ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ
 کی خدمت میں کوئی ہدیہ یا اونٹ بطور ہدیہ بھیجا (راوی کو شک
 ہے) تو آپ ﷺ نے پوچھا: کیا تم اسلام لائے ہو؟ (عرض کیا نہیں۔
 فرمایا: مجھے مشرکین سے ہدایا لینے سے منع کیا گیا ہے۔

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ آنحضرت ﷺ سے منقول ہے کہ آپ ﷺ مشرکین کے ہدایا قبول کیا کرتے تھے اور یہ
 بھی مذکور ہے کہ آپ ﷺ مکروہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ احتمال ہے کہ شروع میں قبول کر لیتے ہوں لیکن بعد میں منع کر دیا گیا ہو۔

(۱) یہ صحابی ہیں اور اس قصہ کے بعد اسلام لے آئے تھے۔ شاید ان کا ہدیہ قبول نہ کرنے کی وجہ انہیں اسلام کی طرف رغبت دلانا ہو۔ خطابی کہتے ہیں کہ شاید یہ
 حدیث منسوخ ہے، اس لئے کہ آپ ﷺ کا مشرکین کا ہدایا قبول کرنا بہت سے احادیث میں وارد ہوا ہے۔ واللہ اعلم۔ (مترجم)

باب ۱۰۴۴۔ مَا جَاءَ فِي سَحْدَةِ الشُّكْرِ

باب ۱۰۴۳۔ سجدہ شکر

۱۴۳۷۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ثَنَا
بِكَارِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَاهُ أَمْرٌ فَسَرَّ بِهِ فَحَرَّ سَاجِدًا

۱۳۳۷۔ حضرت ابو بکرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کو ایک خوشخبری
سنائی گئی تو آپ ﷺ خوش ہو گئے اور سجدے میں گر گئے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ اکثر علماء اسی پر عمل کرتے ہوئے سجدہ شکر کو مشروع قرار دیتے ہیں

باب ۱۰۴۵۔ فِي أَمَانِ الْمَرْأَةِ أَوْ الْعَبْدِ

باب ۱۰۴۵۔ عورت اور غلام کا امان دینا۔

۱۴۳۸۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَكْثَمِ ثَنَا عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي
حَازِمٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَرْأَةَ
لَتَأْخُذَ لِلْقَوْمِ يَعْنِي تَحِيْرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ

۱۳۳۸۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
عورت کسی قوم کو پناہ دینے کا حق رکھتی ہے۔ یعنی مسلمان سے پناہ
دلاوا سکتی ہے۔

یہ حدیث حسن غریب ہے اور اس باب میں ام ہانی سے بھی حدیث منقول ہے۔

۱۴۳۹۔ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ
مُسْلِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذُئْبٍ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبَرِيِّ
عَنْ أَبِي مَرَّةٍ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أُمِّ هَانِيَةَ
أَنَّهَا قَالَتْ أَحْرَثَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَحْمَائِي فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ آمَنَّا مِنْ آمْنَتِ

۱۳۳۹۔ حضرت ام ہانیؓ فرماتی ہیں میں نے اپنے شوہر کے عزیزوں
میں سے دو شخصوں کو پناہ دلائی چنانچہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ہم نے
بھی اسے پناہ دی جسے تم نے پناہ دی۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے علماء اسی پر عمل کرتے ہوئے عورت کے پناہ دینے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ احمد اور اسحاق بھی عورت اور غلام
دونوں کے امان کو جائز قرار دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطابؓ سے بھی یہی منقول ہے کہ انہوں نے غلام کے امان کو تسلیم کیا۔ ابو مرہ، عقیل
بن ابی طالب کے مولیٰ ہیں انہیں ام ہانی کے مولیٰ بھی کہا جاتا ہے ان کا نام زید ہے۔ یہ حضرت علیؓ اور حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے نقل
کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا مسلمانوں کا ذمہ ایک ہی ہے۔ جس کے ساتھ ہر ادنیٰ شخص بھی چلتا ہے علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ
ہے کہ مسلمانوں میں سے جس کسی نے بھی کسی شخص کو امان دی تمام مسلمانوں کو اس کو امان دینا ضروری ہے۔

باب ۱۰۴۶۔ مَا جَاءَ فِي الْعَدْرِ

باب ۱۰۴۶۔ دھوکہ دہی سے متعلق

۱۴۴۰۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ انْبِيَانَا
شُعْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْفَيْضِ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَ بْنَ
عَامِرٍ يَقُولُ كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ أَهْلِ الرُّومِ عَهْدٌ
وَكَانَ يَسِيرُ فِي بِلَادِهِمْ حَتَّى إِذَا انْقَضَى الْعَهْدُ أَغَارَ
عَلَيْهِمْ فَإِذَا رَجُلٌ عَلَى دَابَّةٍ أَوْ عَلَى فَرَسٍ وَهُوَ يَقُولُ
اللَّهُ أَكْبَرُ وَفَاءٌ لِعَدْرِ فَإِذَا هُوَ عَمْرُؤُنْ عَبَسَةَ فَسَأَلَهُ

۱۳۴۰۔ سلیم بن عامر کہتے ہیں کہ معاویہؓ اور اہل روم کے درمیان معاہدہ صلح
تھا۔ اور معاویہؓ ان کے علاقے کی طرف اس ارادے سے پیش قدمی
کرنے لگے کہ جیسے ہی صلح کی مدت پوری ہو ان پر حملہ کر دیں اسی اثنا میں
ایک سواریا گھڑ سوار (رادی کو شک ہے) یہ کہتا ہوا آیا کہ: اللہ اکبر! تم
لوگوں کو وفاء عہد کرنا ضروری ہے عہد شکنی نہیں دیکھا گیا تو وہ عمرو بن عبسہؓ
تھے۔ چنانچہ معاویہؓ نے ان سے پوچھا تو فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو

فرماتے ہوئے سنا کہ جس کا کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہو تو وہ اس کی معینہ مدت تک نہ اسے توڑے اور نہ اس میں تبدیلی کرے یا پھر اس عہد کو ان کی طرف پھینک دے تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ ہمارے اور ان کے درمیان صلح نہیں رہی۔ اس پر حضرت معاویہؓ نے ہنسی لے گئی۔

مُعَاوِيَةٌ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَحِلُّنَّ عَهْدًا وَلَا يَشُدُّنَّهُ حَتَّى يَمْضِيَ أَمَدُهُ أَوْ يُبْنَدَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ قَالَ فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ بِالنَّاسِ
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۰۴۷۔ قیامت کے دن ہر عہد شکن کے لیے ایک جھنڈا ہوگا۔
۱۲۴۱۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن ہر عہد شکن کے لیے جھنڈا گاڑا جائے گا۔
(یہ کتنا یہ ہے اس کی ذلت اور رسوائی سے)۔

باب ۱۰۴۷۔ مَا جَاءَ أَنْ لِكُلِّ غَادِرٍ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ
۱۴۴۱۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثنا اسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ ثَنِي صَحْرُ بْنُ جَوْبِرَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ

اس باب میں ابن مسعودؓ، ابو سعید خدریؓ اور انسؓ سے بھی احادیث نقل کی گئی ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۰۴۸۔ کسی حکم پر پورا اترنا۔
۱۲۴۲۔ حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر سعد بن معاذؓ کو تیر لگ گیا جس سے ان کی اکل یا اکل کی رگ کٹ گئی چنانچہ آنحضرت ﷺ نے اسے آگ سے داغا تو ان کا ہاتھ سوج گیا۔ انہوں نے جب یہ معاملہ دیکھا تو دعا کی کہ یا اللہ میری روح اس وقت تک نہ نکلے جب تک تو نبی قریظہ سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچا دے۔ یعنی ان کا فیصلہ دیکھ لوں۔ اس پر ان کی رگ سے خون بہنا بند ہو گیا اور ایک قطرہ بھی نہ ٹپکا۔ یہاں تک کہ ان لوگوں نے سعد بن معاذؓ کو حکم تسلیم کیا۔ یعنی (یہودیوں نے) آنحضرت ﷺ نے انہیں پیغام بھیجا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے مرد قتل کر دیئے جائیں اور عورتیں زندہ رکھی جائیں تاکہ مسلمان ان سے مدد حاصل کر سکیں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ان کے معاملے میں تمہارا فیصلہ اللہ کے فیصلے کے مطابق ہو گیا۔ وہ لوگ چار سو تھے۔ جب آنحضرت ﷺ ان کے قتل سے فارغ ہوئے تو سعدؓ کی رگ دوبارہ کھل گئی اور خون بہنے لگا یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے۔

باب ۱۰۴۸۔ مَا جَاءَ فِي النُّزُولِ عَلَى الْحُكْمِ
۱۴۴۲۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ رُمِيَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَطَّعُوا أَكْحَلَهُ وَأَبْجَلَهُ فَحَسَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّارِ فَانْتَفَخَتْ يَدُهُ فَتَرَكَهُ فَتَرَكَهُ الدَّمُ فَحَسَمَهُ أُخْرَى فَانْتَفَخَتْ يَدُهُ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَ اللَّهُمَّ لَا تَخْرُجْ نَفْسِي حَتَّى تُقَرَّ عَيْنِي مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ فَاسْتَمْسَكَ عِرْقُهُ فَمَا قَطَرَ قِطْرَةً حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَحَكَمَ أَنْ يُقْتَلَ رِجَالُهُمْ وَتُسْتَحَى نِسَاءُهُمْ يَسْتَعِينُ بِهِنَّ الْمُسْلِمُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَبَتْ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ وَكَانُوا أَرْبَعَ مِائَةٍ فَلَمَّا فَرَّغَ مِنْ قَتْلِهِمْ انْفَتَحَ عِرْقُهُ فَمَاتَ

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں عطیہ قرظی سے بھی حدیث منقول ہے۔

۱۲۴۳۔ حضرت سرہ بن جندبؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مشرکین کے بوڑھوں کو قتل کر دو اور ان کے نابالغ بچوں کو زندہ رکھو۔

۱۴۴۳۔ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الدَّمَسَقِيُّ ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بِشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ

سَمَرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَقْتُلُوا شُبُوحَ الْمُشْرِكِينَ وَاسْتَحْيُوا شَرَحَهُمْ وَالشَّرِخُ الْعِلْمَانُ الَّذِينَ لَمْ يُنْبِتُوا

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ حجاج بن ارطاة بھی قادیہ سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔

۱۴۴۴۔ حدثنا هناد ثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عطيّة الفرطية قال عرّضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القريظة فكان من أثبت قتل ومن لم يُنبت خلى سبيله فكننت في من لم يُنبت فخلّى سبيلي

۱۳۳۳۔ حضرت عطیہ قرظیؓ کہتے ہیں کہ ہم یوم قرظہ کے موقع پر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ حکم یہ تھا کہ جس کے زیر ناف بال اگ چکے ہوں اسے قتل کر دیا جائے اور جس کے ابھی ناگے ہوں اسے چھوڑ دیا جائے میں بھی ناگے والوں میں سے تھا لہذا چھوڑ دیا گیا۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے بعض علماء اسی پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زیر ناف بالوں کا نکلنا بلوغ کی علامت ہے اگرچہ اس کا حکم ہونا یا اس کی عمر کا علم نہ ہو۔ احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

باب ۱۰۴۹۔ حلف کے متعلق۔ (۱)

باب ۱۰۴۹۔ مَا جَاءَ فِي الْحَلْفِ

۱۴۴۵۔ حدثنا حميد بن مسعدة ثنا يزيد بن زريع ثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته أوفوا بعهدي الجاهلية فإنه لا يزيدني يعني الإسلام إلا شدة ولا تحذثوا حلفا في الإسلام

۱۳۳۵۔ عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: زمانہ جاہلیت کی قسمیں پوری کرو کیونکہ اسلام کو اس سے اور زیادہ تقویت ملے گی لیکن اب نئے حلف نہ کرو۔

اس باب میں عبدالرحمن بن عوف، ام سلمہ، جبیر بن مطعم، ابو ہریرہ اور قیس بن عاصم سے بھی حدیثیں نقل کی جاتی ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۰۵۰۔ مجوسیوں سے جزیہ لینا۔

باب ۱۰۵۰۔ فِي اخذ الجزية من المجوسية

۱۴۴۶۔ حدثنا احمد بن منيع ثنا ابو معاوية ثنا الحجاج بن ارطاة عن عمرو بن دينار عن بحالة بن عبدة قال كنت كاتباً لجزء بن معاوية على منازل فجاءنا كتاب عمر انظر مجوس من قبلك فخذ منهم الجزية فان عبد الرحمن بن عوف اخبرني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس هجر

۱۳۳۶۔ حضرت بحالہ بن عبدہ کہتے ہیں کہ میں جزء بن معاویہ کا مناذر کے مقام پر کاتب مقرر تھا۔ ہمیں حضرت عمرؓ کا ایک خط ملا۔ جس میں یہ مکتوب تھا کہ اپنے علاقے کے مجوس سے جزیہ وصول کرو۔ کیونکہ مجھے عبدالرحمن بن عوفؓ نے بتایا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہجر (ایک مقام) کے مجوس سے جزیہ وصول کیا تھا۔

(۱) حلف: جاہلیت کے دور میں عرب ایک دوسرے سے لڑائی کے وقت مدد کرنے کا حلف لیتے تھے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ پچھلی قسموں کو پورا کرو کیونکہ اس میں اسلام کی مضبوطی اور نیک نامی ہے کہ مسلمان وفائے عہد کرتے ہیں۔ لیکن نئے حلف نہ لے جائیں۔ واللہ اعلم۔ (مترجم)

یہ حدیث حسن ہے۔

۱۳۳۷۔ حضرت بجالہ کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ مجوس سے جزیہ وصول نہیں کیا کرتے تھے یہاں تک کہ انہیں عبدالرحمن بن عوفؓ نے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجوس بجز سے جزیہ وصول کیا۔ اس حدیث میں اور چیزوں کا بھی تذکرہ ہے۔

۱۴۴۷۔ حدثنا ابن ابی جمر ثنا سفین عن عمرو بن دینار عن بجالہ ان عمر کان لا یأخذ الجزیة من الممجوس حتی اخبره عبد الرحمن بن عوف ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ الجزیة من مجوس ہجر وفي الحدیث کلام اکثر من هذا
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۰۵۱۔ ذمیوں کے مال میں سے کیا حلال ہے؟

۱۳۳۸۔ حضرت عقبہ بن عامرؓ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمارا ایسی قوم پر گذر ہوتا ہے جو ہماری مہمان نوازی نہیں کرتے۔ اور ہمارا جوان پر حق ہے وہ ادا نہیں کرتے یعنی میزبانی نہیں کرتے۔ اور نہ ہی ہم ان سے کچھ لیتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر وہ لوگ انکار کریں تو زبردستی ان سے لے لیا کرو۔

باب ۱۰۵۱۔ مَا جَاءَ مَا يَجُلُّ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ
۱۴۴۸۔ حدثنا قتيبة ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن ابی حبيب عن ابی الخیر عن عقبة بن عامر قال قلت یارسول اللہ اننا نمر بقوم فلا هم یضیفون ولا هم یؤدون مالنا علیہم من الحق ولا نحن نأخذ منهم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابوا الا ان تأخذوا کرہا فخذوا

یہ حدیث حسن ہے۔ یہ حدیث لیث بن سعد بھی یزید بن حبیب سے نقل کرتے ہیں۔ اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ صحابہ جہاد کے لیے نکلے تو ایسے لوگوں سے گزر ہوتا کہ جو کھانا بیچنے سے انکار کر دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت ﷺ نے حکم دیا کہ اگر وہ لوگ نہ قیمت سے دیں اور نہ ہی بغیر قیمت کے تو زبردستی لے لو۔ بعض احادیث میں یہی حدیث اس تفسیر کے ساتھ بھی منقول ہے۔ عمر بن خطابؓ سے بھی یہی منقول ہے کہ وہ بھی اسی طرح حکم دیا کرتے تھے کہ اگر کوئی قوم کھانا دینے سے انکار کر دے تو مجاہدان سے زبردستی لے لیں۔

باب ۱۰۵۲۔ ہجرت کے متعلق۔

باب ۱۰۵۲۔ مَا جَاءَ فِي الْهَجْرَةِ

۱۳۳۹۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا: اس فتح کے بعد ہجرت کے بعد ہجرت کا حکم ختم ہو گیا۔ لیکن جہاد اور نیت باقی رہ گئی۔ جب تمہیں جہاد کے لیے طلب کیا جائے تو نکل کھڑے ہو۔

۱۴۴۹۔ حدثنا احمد بن عبدة الضبی ثنا زیاد بن عبد اللہ ثنا منصور بن المعتمر عن مجالد عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم فتح مکة لا ہجرة بعد الفتح ولكن جہاد و نية و اذا استنفرتم فانفروا

اس باب میں ابوسعیدؓ، عبداللہ بن عمروؓ اور عبداللہ بن جحشؓ سے بھی احادیث نقل کی گئی ہیں۔

توضیح: یہ خطاب صرف اہل مکہ کے لیے تھا کہ مکہ اب دارالاسلام بن گیا ہے لہذا یہاں سے ہجرت کرنا فرض نہیں لیکن کسی بھی دارالحرب میں اگر آدمی مامون نہ ہو تو اس پر ہجرت واجب ہو جاتی ہے ورنہ مستحب ہے۔ واللہ اعلم۔ (مترجم)

باب ۱۰۵۳۔ مَا جَاءَ فِي بَيْعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب ۱۰۵۳۔ رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ پر بیعت۔

۱۴۵۰۔ حضرت جابر بن عبد اللہ ارشاد باری تعالیٰ "لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة" کے متعلق فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ پر راہ فرار اختیار نہ کرنے پر بیعت کی تھی موت کی نہیں۔

۱۴۵۰۔ حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الامرى ثنا عيسى ابن يونس عن الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن جابر بن عبد الله في قوله تعالى لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة قال جابر بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان لا نفر ولا نبايعه على الموت

آیت کا ترجمہ: اللہ تعالیٰ (اس وقت) مؤمنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ اس باب میں سلمہ بن اکوع، ابن عمر، عبادہ اور جریر بن عبد اللہ سے بھی احادیث نقل کی جاتی ہیں۔ یہ حدیث عیسیٰ بن یونس بھی اوزاعی سے وہ یحییٰ بن ابی کثیر سے اور وہ جابر بن عبد اللہ سے بلا واسطہ نقل کرتے ہیں۔ ابوسلمہ کا ذکر نہیں کرتے۔

۱۴۵۱۔ یزید بن ابی عبید کہتے ہیں کہ میں نے سلمہ بن اکوع سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر آنحضرت ﷺ سے کس چیز پر بیعت کی تھی؟ فرمایا: موت پر۔

۱۴۵۱۔ حدثنا قتيبة ثنا حاتم بن اسمعيل عن يزيد بن ابي عبيد قال قلت لسلمة بن الأكوع على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قال على الموت

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۴۵۲۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ سے سنے اور اطاعت کرنے پر بیعت کیا کرتے تھے اور آپ ﷺ فرماتے۔ بقدر استطاعت۔

۱۴۵۲۔ حدثنا علي بن حجر ثنا اسمعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فيقول لنا فيما استطعتم

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۴۵۳۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ سے موت پر بیعت نہیں کی تھی بلکہ اس پر کہ بھاگ نہ کھڑے ہوں۔

۱۴۵۳۔ حدثنا احمد بن منيع ثنا سفين بن عيينة عن ابي الزبير عن جابر قال لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت إنما بايعناه على ان لا نفر

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور دونوں حدیثوں کے معنی صحیح ہیں۔ ایک جماعت نے موت پر بیعت کی تھی کہ ہم آپ ﷺ کے ساتھ موت تک لڑیں گے اور دوسری جماعت نے فرار نہ ہونے اور ثابت قدم رہنے پر بیعت کی تھی۔

باب ۱۰۵۴۔ بیعت توڑنے سے متعلق

باب ۱۰۵۴۔ فی نكث البيعة

۱۴۵۴۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تین

۱۴۵۴۔ حدثنا ابو عمار ثنا وكيع عن الاعمش عن

شخصوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات کریں گے اور نہ انہیں پاک کریں گے بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے امام کے ہاتھ پر بیعت کی اور پھر اگر امام نے اس کو کچھ دیا تو اس کی اطاعت کی ورنہ نہیں۔

أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا فَإِنْ أَعْطَاهُ وَفِي لَهُ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۰۵۵۔ غلام کی بیعت۔

باب ۱۰۵۵۔ مَا جَاءَ فِي بَيْعَةِ الْعَبْدِ

۱۳۵۵۔ حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ ایک غلام آیا اور رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ پر ہجرت کی بیعت کر لی۔ آپ ﷺ کو علم نہیں تھا کہ وہ غلام ہے پھر اس کا مالک بھی آ گیا۔ اس پر آپ ﷺ نے اسے کہا: کہ تم یہ غلام مجھے فروخت کر دو۔ چنانچہ آپ ﷺ نے اسے دو سیاہ قام غلاموں کے بدلے میں خرید لیا۔ لیکن اس کے بعد کسی سے بیعت کرتے وقت اس سے پوچھ لیتے تھے کہ کیا وہ غلام ہے؟

۱۴۵۵۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْهَجْرَةِ وَلَا يَشْعُرُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنِيهِ فَأَشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ وَلَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَهُ عَبْدٌ هُوَ

اس باب میں ابن عباسؓ بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت جابرؓ کی حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ ہم اسے صرف ابن زبیر کی روایت سے جانتے ہیں۔

باب ۱۰۵۶۔ عورتوں کی بیعت۔

باب ۱۰۵۶۔ مَا جَاءَ فِي بَيْعَةِ النِّسَاءِ

۱۳۵۶۔ حضرت امیرہ بنت رقیقہ کہتی ہیں میں نے کئی عورتوں کے ساتھ آپ ﷺ سے بیعت کی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جتنی تمہاری استطاعت اور طاقت ہو۔ میں نے کہا: اللہ اور اللہ کے رسول ہماری جانوں پر ہم سے بھی زیادہ مہربان ہیں۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم سے بیعت لے لیجئے۔ سفیان نے کہا: اس کا مقصد مصافحہ ہے اس پر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میرا سو عورتوں کو کہا جانے والا قول ایک عورت کو کہے جانے والا قول ہی کی طرح ہے۔ یعنی مصافحہ کی ضرورت نہیں قول ہی سے بیعت کافی ہے۔

۱۴۵۶۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ ثَنَا سَفِيْنٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ أُمَيْمَةَ بِنْتَ رُقَيْقَةَ تَقُولُ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ فَقَالَ لَنَا فِي مَا اسْتَطَعْتُنَّ وَاطَّقْتُنَّ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايَعْنَا قَالَ سُفْيَانُ تَعْنِي صَافِحْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا قَوْلِي لِإِمَاءَةٍ أَمْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِأَمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ

اس باب میں حضرت عائشہؓ، عبد اللہ بن عمرو اور اسماء بنت یزید سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے ہم اسے صرف محمد بن منکدر کی روایت سے جانتے ہیں۔ سفیان ثوری، مالک بن انس اور کئی راوی محمد بن منکدر سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۰۵۷۔ بدر میں لڑنے والوں کی تعداد۔

باب ۱۰۵۷۔ فِي عِدَّةِ أَصْحَابِ بَدْرٍ

۱۳۵۷۔ حضرت براءؓ کہتے ہیں کہ جنگ بدر میں شریک ہونے والوں کی تعداد طالوت کے ساتھیوں کے برابر تھی۔ یعنی تین سو تیرہ۔

۱۴۵۷۔ حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْكُوفِيُّ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَاشٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا

تَتَحَدَّثُ أَنَّ أَصْحَابَ بَدْرِ لِعِدَّةِ أَصْحَابِ طَالُوتَ
ثَلَاثَ مِائَةٍ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں ابن عباسؓ سے بھی حدیث منقول ہے ثوری وغیرہ ابواسحاق سے یہی حدیث نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۰۵۸۔ خمس کے متعلق

باب ۱۰۵۸۔ مَا جَاءَ فِي الْخُمْسِ

۱۲۵۸۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے عبدالقیس کے قاصدوں کو حکم دیا کہ غنیمت کا پانچواں حصہ ادا کریں۔

۱۴۵۸۔ حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ ثَنَا عِبَادُ بْنُ عِبَادٍ الْمُهَلَّبِيُّ عَنْ
أَبِي جَمْرَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ فِدَ عَبْدُ الْقَيْسِ أَمْرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا خُمْسَ
مَا غَنِمْتُمْ

اس حدیث میں ایک قصہ ہے اور یہ حسن صحیح ہے قتیبہ بھی حماد بن زید سے وہ ابوہزہ سے اور وہ ابن عباس سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۰۵۹۔ تقسیم سے پہلے مال غنیمت میں سے کچھ لینا۔

باب ۱۰۵۹۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّهْيَةِ

۱۲۵۹۔ حضرت رافعؓ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ کے ساتھ سفر میں تھے کہ تیز چلنے والے لوگ آگے بڑھ گئے اور مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے اس میں سے لے کر پکانا شروع کر دیا۔ جب کہ رسول اللہ ﷺ پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ تھے۔ جب آپ ﷺ دیگوں پر سے گزرے تو انہیں آپ ﷺ کے حکم سے اٹھیل دیا گیا۔ پھر آپ ﷺ نے مال غنیمت تقسیم کیا اور ایک اونٹ کو دس بکریوں کے مقابلے میں تقسیم کیا۔

۱۴۵۹۔ حَدَّثَنَا هِنَادٌ ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
مَسْرُوقٍ عَنْ عُبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ
قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
سَفَرٍ فَتَقَدَّمَ سَرْعَانُ النَّاسِ فَتَعَجَّلُوا مِنَ الْغَنَائِمِ
فَأَطْبَحُوا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
أُخْرَى النَّاسِ فَمَرَّ بِالْقُدُورِ فَأَمْرِيهَا فَأَكْفَيْتُ ثُمَّ قَسَمَ
بَيْنَهُمْ فَعَدَلَ بَعِيرًا بِعَشْرِ شِيَاءٍ

سفيان ثوری بھی اپنے والد سے وہ عبایہ سے اور وہ اپنے دادا رافع بن خدیج سے یہ حدیث نقل کرتے ہوئے ان کے والد کا ذکر نہیں کرتے۔ یہ حدیث محمود بن غیلان، کعب سے اور وہ سفيان سے نقل کرتے ہیں اور یہ زیادہ صحیح ہے۔ عبایہ بن رافع کا اپنے دادا رافع بن خدیج سے سماع ثابت ہے۔ اس باب میں ثعلبہ بن حکمؓ، انسؓ، ابو ریحانہؓ، ابو درداءؓ، عبد الرحمن بن سمرہؓ، زید بن خالدؓ، ابو ہریرہؓ اور ابویوبؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔

۱۳۶۰۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے اس میں سے کچھ لے لیا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔

۱۴۶۰۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ
عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ نَابِثٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا
یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۱۰۶۰۔ اہل کتاب کو سلام کرنا۔

باب ۱۰۶۰۔ مَا جَاءَ فِي التَّسْلِيمِ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ

۱۳۶۱۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہود و نصاریٰ کو سلام کہنے کی ابتداء نہ کرو اور اگر ان میں سے کسی سے سر راہ

۱۴۶۱۔ حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ ثَنَا عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
سَهِيلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبَدُّوْا الْيَهُودَ
وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ وَإِذَا لَقَيْتُمْ أَحَدَهُمْ فِي الطَّرِيقِ
فَاضْطَرُّوْهُ إِلَىٰ أُصْبِقِهِ

اس باب میں ابن عمر، انس، ابوبصرہ غفاری (صحابی) سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ تم خود ان سے سلام نہ کرو بلکہ جواب دو جیسا کہ آگے آرہا ہے۔ اس لیے کہ سلام میں ابتداء کرنا تعظیم کے لیے ہوتا ہے۔ اور مسلمانوں کو ان کی تذلیل کا حکم دیا گیا ہے اور اسی طرح اگر راستے میں وہ ملیں تو ان کے لیے راستہ خالی نہ کیا جائے کیونکہ اس میں بھی تعظیم ہے۔

۱۴۶۲۔ حدثنا علي بن حجر ثنا اسمعيل بن جعفر
عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود إذا سلم عليكم
أحدكم فأنما يقول السام عليك فقل عليك
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۳۶۲۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہود جب تم لوگوں کو سلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں السام علیک لہذا تم جواب میں کہو علیک۔ (۱)

باب ۱۰۶۱۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْمَقَامِ بَيْنَ أَظْهَرِ
الْمُشْرِكِينَ

۱۴۶۳۔ حدثنا هناد ثنا معاوية عن اسمعيل بن ابي
خالد عن قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله ان
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى
خثعم فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم القتل
فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم
ببضف العقيل وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم
بين أظهر المشركين قالوا يا رسول الله ولم قال
لأنرايا ناراهما

ہناد، عبدہ سے وہ اسماعیل بن ابی خالد سے اور وہ قیس بن ابی حازم سے ابو معاویہ کی حدیث کے مثل نقل کرتے ہیں۔ اور اس میں جریر کا ذکر نہیں کرتے یہی زیادہ صحیح ہے۔ اس باب میں سرہ سے بھی حدیث منقول ہے۔ اسماعیل کے اکثر اصحاب اسماعیل سے اور وہ قیس بن ابی حازم سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک لشکر بھیجا۔ اور اس میں جریر کا نام ذکر نہیں کیا، حماد، حجاج بن ارطاة سے وہ اسماعیل بن ابی خالد سے وہ قیس سے اور وہ جریر سے ابو معاویہ کی حدیث کی طرح نقل کرتے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ قیس کی آنحضرت ﷺ سے منقول مرسل حدیث صحیح ہے۔ سرہ بن جناب بھی رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ مشرکوں کے ساتھ مت رہو اور نہ ہی ان کے ساتھ اکٹھے ہو کیونکہ جو ان کے ساتھ رہے گا یا ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا۔ وہ انہی کی طرح ہو جائے گا۔

(۱) السام علیک کے معنی یہ ہیں کہ تجھ پر موت آئے۔ (مترجم)

باب ۱۰۶۲۔ مَا جَاءَ فِي إِخْرَاجِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ

۱۴۶۴۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ ثنا ابو عاصم و عبد الرزاق قالنا ثنا ابن جريح ثنا أبو الزبير أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ يَقُولُ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا أُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ فَلَا أَتْرُكُ فِيهَا إِلَّا مُسْلِمًا
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۴۶۵۔ حَدَّثَنَا مُوسَى ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكِنْدِيُّ ثنا زيد بن حباب ثنا سفيان الثوري عن ابي الزبير عن جابر عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَنَّ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِأَخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ
باب ۱۰۶۳۔ مَا جَاءَ فِي تَرْكَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۱۴۶۶۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثنا ابو الوليد ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَتْ فَاطِمَةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَتْ مَنْ يَرِيئُكَ قَالَ أَهْلِي وَوَلَدِي قَالَتْ فَمَا لِي لَا أَرِيئُ أَبِي فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُؤْرَثُ وَلَكِنِّي أَعُولُ مَنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُهُ وَانْفَقَ عَلَيَّ مَنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ

باب ۱۰۶۲۔ یہود و نصاریٰ کو جزیرہ عرب سے نکال دینے کے متعلق

۱۳۶۴۔ حضرت جابرؓ، حضرت عمرؓ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں یہود و نصاریٰ کو جزیرہ عرب سے نکال دوں گا اور یہاں صرف مسلمان کو رہنے دوں گا۔

۱۳۶۵۔ حضرت عمر بن خطابؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر میں زندہ رہا تو انشاء اللہ یہود و نصاریٰ کو جزیرہ عرب سے نکال دوں گا۔

باب ۱۰۶۳۔ آنحضرت ﷺ کے ترکہ کے متعلق۔

۱۳۶۶۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہؓ، حضرت ابو بکر صدیقؓ کے پاس آئیں اور پوچھا کہ آپ کا وارث کون ہوگا؟ فرمایا: میرے گھر والے اور میری اولاد حضرت فاطمہؓ نے فرمایا: مجھے کیا ہے؟ میں کیوں اپنے والد کی وارث نہیں ہوں؟ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ”کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا“۔ لیکن رسول اللہ ﷺ جس کو روٹی کپڑا دیتے تھے میں بھی اسے دوں گا اور جس پر آپ ﷺ خرچ کیا کرتے تھے میں بھی اس پر خرچ کروں گا۔

اس باب میں عمرؓ، طلحہؓ، زبیرؓ، عبد الرحمن بن عوفؓ، سعد اور عائشہؓ سے بھی احادیث نقل کی گئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ اسے اس سند سے صرف حماد بن سلمہ اور عبد الوہاب بن عطاء نے مرفوع کیا ہے۔ یہ دونوں محمد بن عمر سے وہ ابو سلمہ سے اور وہ ابو ہریرہؓ سے نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث کئی سندوں سے حضرت ابو بکر صدیقؓ سے منقول ہے وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔

۱۳۶۷۔ حضرت مالک بن اوس بن حدثان فرماتے ہیں کہ میں عمر بن خطابؓ کے پاس داخل ہوا تو عثمان بن عفانؓ، زبیر بن عوامؓ، عبدالرحمن بن عوفؓ اور سعد بن ابی وقاصؓ بھی داخل ہوئے اتنے میں علیؓ اور عباسؓ بھی آپس میں تکرار کرتے ہوئے آگئے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا: میں تمہیں اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے حکم سے آسمان وزمین قائم ہیں کیا تمہیں علم ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے ان سب نے فرمایا: ہاں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا: جب آنحضرت ﷺ کی وفات ہوئی تو ابوبکرؓ نے کہا کہ میں رسول اللہ ﷺ کا خلیفہ ہوں اس وقت آپ اور یہ (علیؓ اور عباسؓ) دونوں ابوبکر صدیقؓ کے پاس آئے اور آپ اپنے بھتیجے کی اور یہ اپنی بیوی کی میراث طلب کرنے لگے۔ اس پر ابوبکرؓ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ”ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا ہم جو کچھ چھوڑ دیں وہ صدقہ ہے“ اور اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ سچے اور سچی کی راہ پر چلے اور حق کی اتباع کرنے والے تھے۔ اس حدیث میں طویل قصہ ہے۔

۱۴۶۷۔ حدثنا الحسن بن علی الخلال ثنا بشر بن عمر ثنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن مالك بن اوس بن الحدثان قال دخلت على عمر بن الخطاب و دخل عليه عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص ثم جاء علي والعباس يختصمان فقال عمر لهم انشدكم بالله الذي ياذبه تقوم السماء والارض اتعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة قالوا نعم قال ابوبكر انا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمت انت وهذا الى ابي بكر تطلب انت ميراثك من ابن اخيك وتطلب هذا ميراث امرأته من ابن اخيك وتطلب هذا ميراث امرأته من ابيها فقال ابوبكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة والله يعلم انه صادق بار راشد تابع للحق وفي الحديث قصة طويلة

یہ حدیث حضرت مالک بن انس کی روایت سے حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۱۰۶۲۔ آنحضرت ﷺ کا فتح مکہ کے موقع پر فرمان کہ آج کے بعد مکہ میں جہاد نہیں کیا جائے گا۔

باب ۱۰۶۴۔ ماجاء قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ان هذه لا تغزى بعد اليوم

۱۳۶۸۔ حضرت حارث بن مالک بن برصاء فرماتے ہیں کہ میں نے فتح مکہ کے دن آنحضرت ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آج کے بعد قیامت تک اس پر چڑھائی نہیں کی جائے گی یعنی یہ کبھی دارالحرب اور دارالکفر نہیں ہوگا۔

۱۴۶۸۔ حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا زكريا بن ابي زائدة عن الشعبي عن الحارث بن مالك بن برصاء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقول لا تغزى هذه بعد اليوم الى يوم القيمة

اس باب میں ابن عباسؓ، سلیمان بن صرد اور مطہرؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

باب ۱۰۶۵۔ ماجاء في ساعة التي تستحب فيها القتال

۱۳۶۹۔ حضرت نعمان بن مقرن فرماتے ہیں کہ میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ غزوات میں شریک ہوا۔ آپ ﷺ طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک لڑائی روک دیتے۔ پھر جب سورج نکل جاتا لڑائی شروع کرتے اور نصف النہار کے وقت پھر روک دیتے یہاں تک کہ آفتاب ڈھل جاتا۔ پھر زوال آفتاب سے عصر تک لڑتے اور پھر عصر کی نماز کے لیے ٹھہر جاتے اور پھر لڑائی شروع کر دیتے۔ اس وقت کے متعلق کہا جاتا تھا کہ مدد الہی کی ہوا چلتی ہے اور مؤمنین نمازوں میں اپنے لشکروں کیلئے دعا بھی کیا کرتے تھے۔

۱۴۶۹۔ حدثنا محمد بن بشار ثنا معاذ بن هشام قال ثنی ابی عن قتادة عن النعمان بن مقرن قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان اذا طلعت الفجر أمسك حتى تطلع الشمس فاذا طلعت قاتل فاذا انتصف النهار أمسك حتى تزول الشمس فاذا زالت الشمس قاتل حتى العصر ثم أمسك حتى يصلي العصر ثم يقابل وكان يقال عند ذلك تهيج رياح النصر ويدعو المؤمنون لحيوشهم في صلوتهم

یہ حدیث نعمان بن مقرن سے بھی منقول ہے اور یہ سند زیادہ متصل ہے۔ نعمان کی وفات حضرت عمرؓ کے دور خلافت میں ہوئی قنادہ نے ان سے احادیث نہیں سیں۔ حسن بن علی ظلال، عفان اور حجاج سے وہ حماد بن سلمہ سے وہ ابو عمران جونی سے وہ علقمہ سے اور (وہ معقل بن یسار سے نقل کرتے ہیں کہ عمرؓ نے نعمان بن مقرن ہرمزان کی طرف بھیجا اور پھر طویل حدیث نقل کی۔ نعمانؓ نے فرمایا: ”میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوا۔ آپ ﷺ اگر دن کے شروع میں لڑائی نہ کرتے تو زوال آفتاب، مدد کے نزول اور نصر الہی کی ہواؤں کا انتظار کرتے) یہ حدیث حسن صحیح ہے اور علقمہ بن عبد اللہ، بکر بن عبد اللہ مہزنی کے بھائی ہیں۔

باب ۱۰۶۶۔ طیرہ کے متعلق۔

باب ۱۰۶۶۔ ما جاء في الطيرة

۱۳۷۰۔ حضرت عبد اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بدفالی شرک۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جسے بدفالی کا خیال نہ آتا ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ اسے توکل کی وجہ سے ختم کر دیتے ہیں۔

۱۴۷۰۔ حدثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زر عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة من الشرك وما منا ولكن الله يذهب بالتوكل

امام ترمذی کہتے ہیں کہ امام بخاری، سلیمان بن حرب کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک ”وما منا“..... الخ قول عبد اللہ بن مسعودؓ کا ہے۔ اس باب میں سعد بن ابو ہریرہؓ، جابر بن عبد اللہ، عائشہؓ اور ابن عمرؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ہم اسے صرف سلمہ بن کہیل کی روایت سے جانتے ہیں۔ شعبہ بھی مسلم سے یہی حدیث نقل کرتے ہیں۔

۱۳۷۱۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عدوی (یعنی متعدی بیماریاں) اور بدفالی (اسلام میں) نہیں اور میں فال کو پسند کرتا ہوں۔ پوچھا: یا رسول اللہ ﷺ فال کیا ہے؟ فرمایا: اچھی بات۔

۱۴۷۱۔ حدثنا محمد بن بشار ثنا ابن ابي عدي عن هشام عن قتادة عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل قالوا يا رسول الله وما الفأل قال الكلمة الطيبة

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۳۷۲- حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب اپنے کسی کام کے لیے نکلتے تو یہ الفاظ سننا پسند کیا کرتے یا راشد (۱) یا حج (۲)

۱۴۷۲- حدثنا محمد بن رافع ثنا ابو عامر العقدي عن حماد بن سلمة عن حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ أَنْ يُسْمَعَ يَارَاشِدُ يَا نَحِيحُ
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۰۶۷- جنگ کے متعلق آنحضرت ﷺ کی وصیت۔

باب ۱۰۶۷- مَا جَاءَ فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقِتَالِ

۱۳۷۳- حضرت بریدہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب کسی شخص کو کسی لشکر کا امیر مقرر کرتے تو اسے تقویٰ اور پرہیزگاری کی وصیت کرتے اور اس کے ساتھ جانے والے مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کا حکم دیتے اور فرماتے: اللہ کے نام سے اور اسی کے راستے میں جہاد کرو اور ان کے ساتھ جنگ کرو جو اللہ کے مگر ہیں، مال غنیمت میں چوری نہ کرو، عہد شکنی نہ کرو، مثلہ (ہاتھ پاؤں کاٹنا) نہ کرو اور بچوں کو قتل نہ کرو۔ پھر جب تمہارا دشمن کے ساتھ آنا سامنا ہو تو انہیں تین چیزوں کی دعوت دو اگر وہ لوگ اس میں سے ایک پر بھی راضی ہوں تو تم بھی اسے قبول کر لو اور ان سے جنگ نہ کرو چنانچہ انہیں اسلام کی دعوت دو اور کہو کہ وہ لوگ اپنے علاقے سے مہاجرین کے علاقے کی طرف ہجرت کریں اور انہیں بتا دو اگر وہ لوگ ایسا کریں گے تو ان کے لیے بھی وہی کچھ ہے جو مہاجرین کے لیے ہے (یعنی دین کی نصرت و تائید) لیکن اگر وہ لوگ ہجرت سے انکار کریں تو وہ بھی دیہاتی مسلمانوں کی طرح ہوں گے اور ان پر بھی وہی احکام منطبق ہوں گے جو ان پر ہوتے ہیں یعنی غنیمت اور مال فنی میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ الا یہ کہ وہ لوگ جہاد میں شریک ہوں لیکن اگر وہ لوگ اس سے بھی انکار کریں تو اللہ سے مدد مانگتے ہوئے ان سے جنگ کرو۔ پھر اگر کسی قلعے کا محاصرہ کرو اور قلعے والے اللہ اور رسول ﷺ کی پناہ مانگیں تو انہیں مت دوہاں اپنی اور اپنے لشکر کی پناہ دے سکتے ہو۔ کیونکہ اگر بعد میں تم عہد شکنی کرو تو اپنے لشکر کی پناہ دے

۱۴۷۳- حدثنا محمد بن بشار ثنا عبدالرحمن بن مهدى عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميراً على جيش أو صاه في خاصة نفسه يتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً وقال اغزوا باسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولا تغفلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو جلال أيتها آجأوك فاقبل منهم وكف عنهم أذعهم إلى الإسلام والتحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فإن لهم مال المهاجرين وعليهم ما على المهاجرين وإن أبوا أن يتحولوا فأخبرهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين يجرى عليهم ما يجرى على الأعراب ليس لهم في الغنيمية والفيء شيء إلا أن يجهدوا فإن أبوا فاستعين بالله عليهم وقاتلهم وإذا أحاصرت حصناً فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه واجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك

(۱) راشد کے معنی ہدایت یافتہ کے ہیں۔ (مترجم)

(۲) حج کے معنی صاحب رائے کے ہیں یعنی رائے رکھنے والا۔ آنحضرت ﷺ ان اسماء سے نیک فال مروایا کرتے تھے۔ (مترجم)

فَانْتُمْ اَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّتَكُمْ وَذِمَّةَ اصْحَابِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ
مِنْ اَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللّٰهِ وَذِمَّةَ رَسُوْلِهِ وَاِذَا حَاصِرَتْ
اَهْلَ حِصْنٍ فَارَادُوْكَ اَنْ تُنْزِلُوْهُمْ عَلٰى حُكْمِ اللّٰهِ فَلَا
تُنْزِلُوْهُمْ وَلٰكِنْ اَنْزِلْهُمْ عَلٰى حُكْمِكَ فَاِنَّكَ لَا تَدْرِي
اَتُصِيبُ حُكْمَ اللّٰهِ فِيْهِمْ اَمْ لَا اَوْ نَحْوَ ذٰلِكَ

سکتے ہو۔ کیونکہ اگر بعد میں تم عہد شکنی کرو تو اپنے عہد و پیمانہ کو توڑنا اللہ
اور رسول ﷺ کے عہد و پیمانہ کو توڑنے سے بہتر ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ
لوگ چاہیں کہ تم اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرو تو ایسا نہ کرنا بلکہ اپنے
حکم پر فیصلہ کرنا کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اللہ کا کیا حکم ہے تم اس کے
مطابق فیصلہ کر رہے ہو یا نہیں یا اسی طرح کچھ فرمایا۔

اس باب میں نعمان بن مقرنؓ بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت بریدہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ محمد بن بشار، ابواحمد سے وہ سفیان
سے اور وہ علقمہ سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ اس حدیث میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ ”اگر وہ اسلام سے انکار کریں تو ان سے جزیہ
وصول کرو اور اگر اس سے بھی انکار کریں تو اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے ان کے خلاف اعلان جنگ کر دو۔ کج وغیرہ بھی سفیان سے اسی
طرح نقل کرتے ہیں۔ محمد بن بشار کے علاوہ اور لوگوں نے بھی عبدالرحمن بن مہدی سے یہی حدیث نقل کرتے ہوئے جزیہ کا ذکر کیا ہے۔

۱۴۷۴۔ حدثنا الحسن بن علي الخلال ثنا عفان
ثنا حماد بن سلمة ثنا ثابت عن أنس بن مالك قال
كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير إلا عند
صلوة الفجر فإن سمع أذاناً أمسك وإلا أعار
وأستمع ذات يوم فسمع رجلاً يقول الله أكبر الله
أكبر فقال على الفطرة فقال أشهد أن لا إله إلا الله
قال خرجت من النار

۱۴۷۴۔ حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ صرف
فجر کی نماز کے وقت حملہ کیا کرتے تھے۔ پھر اگر اذان سنتے تو رُک
جاتے ورنہ جاری رکھتے۔ ایک مرتبہ آپ ﷺ نے اذان سنی جب
مؤذن نے ”اللہ اکبر، اللہ اکبر“ کہا تو فرمایا: فطرت انسانی اسی پر ہے
پھر جب اس نے یہ الفاظ کہے ”اشھدان لا الہ الا اللہ“ کہا تو آپ
ﷺ نے فرمایا: تم دوزخ کی آگ سے نکل گئے۔

حسن ولید سے اور وہ حماد سے اسی سند سے اسی حدیث کے مثل نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

فضیلت جہاد سے متعلق آنحضرت ﷺ سے

منقول احادیث کے ابواب

باب ۱۰۶۸۔ جہاد کی فضیلت

۱۴۷۵۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ ﷺ
جہاد کے برابر کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا: تم لوگ اسکی استطاعت
نہیں رکھتے۔ دو تین مرتبہ لوگوں نے اسی طرح پوچھا آپ ﷺ ہر مرتبہ
یہی جواب دیتے کہ تم لوگ اسکی استطاعت نہیں رکھتے۔ تیسری مرتبہ
آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال اس
روزے دار اور نمازی کی سی ہے جو نماز و روزہ میں کوئی فتور (نقص
نہیں آنے دیتا۔ یہاں تک کہ مجاہد جہاد سے واپس آجائے۔

أَبْوَابُ فَضَائِلِ الْجِهَادِ عَنِ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب ۱۰۶۸۔ فَضْلُ الْجِهَادِ

۱۴۷۵۔ حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا ابو عوانة عن
سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة قال قيل
يا رسول الله ما يعبد الجهاد قال انكم لا
تستطيعونه فردوا عليه مرتين اولنا كل ذلك
يقول انكم لاتستطيعونه فقال في الثالثة مثل
المجاهد في سبيل الله مثل الصائم القائم الذي لا
يفتر من صلوة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في

سَبِيلِ اللَّهِ

اس باب میں شفاء، عبداللہ بن حبشی، ابو موسیٰ، ابوسعیدؓ، ام مالک، بہزیر اور انس بن مالکؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور آنحضرت ﷺ سے بواسطہ ابو ہریرہؓ کی سندوں سے منقول ہے۔

۱۴۷۶۔ حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ میری راہ میں جہاد کرنے والے کی ذمہ داری مجھ پر ہے اگر میں اس کی روح قبض کرتا ہوں تو اسے جنت کا وارث بناتا ہوں اور اگر اسے زندہ واپس بھیجتا ہوں تو مال غنیمت اور ثواب کے ساتھ۔

۱۴۷۶۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ ثَنَا مَعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا مَرْزُوقُ أَبُو بَكْرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِي هُوَ عَلَيَّ ضَمَانٌ إِنْ قَبَضْتَهُ أَوْرَثْتَهُ الْجَنَّةَ وَإِنْ رَجَعْتَهُ رَجَعْتَهُ بِأَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ

یہ حدیث اسی سند سے صحیح غریب ہے۔

باب ۱۰۶۹۔ جہاد میں چوکیداری کی فضیلت

۱۴۷۷۔ حضرت فضالہ بن عبیدؓ، رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ہر مرنے والے کی زندگی کے ساتھ ہی اس کے اعمال پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ لیکن اللہ کی راہ میں چوکیداری کے فرائض انجام دینے والے شخص کے اعمال قیامت تک بڑھتے رہتے ہیں۔ اور وہ فتنہ قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ نیز میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس میں مجاہدہ کرے یعنی اپنے نفس کی پیروی نہ کرے۔

باب ۱۰۶۹۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا

۱۴۷۷۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ثَنَا حَبِيبَةُ بْنُ شَرِيحٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِيَةَ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّ عَمْرُو بْنَ مَالِكِ الْجَنْبِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالََةَ بْنَ عَبِيدٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ كُلُّ مَيِّتٍ يُحْتَمَ عَلَيَّ عَمَلِهِ إِلَّا الَّذِي مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُنْمَى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيَا مَنْ فِتْنَةُ الْقَبْرِ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ

اس باب میں عقبہ بن عامر اور جابرؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۰۷۰۔ جہاد کے دوران روزہ رکھنے کی فضیلت۔

۱۴۷۸۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے جہاد کے دوران ایک روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ سے ستر برس کی مسافت تک دور کر دیں گے۔ ایک راوی ستر اور دوسرے چالیس برس کہتے ہیں۔

باب ۱۰۷۰۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّوْمِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

۱۴۷۸۔ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ إِنَّهُمَا جَدَّاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ زَحَّحَهُ اللَّهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا أَحَدُهُمَا يَقُولُ سَبْعِينَ وَالْآخَرُ يَقُولُ أَرْبَعِينَ

یہ حدیث اس سند سے غریب ہے۔ ابو الاسود کا نام محمد بن عبدالرحمن بن نوفل اسدی ہے یہ مدنی ہیں اس باب میں ابوسعیدؓ، انسؓ،

عقبہ بن عامر اور ابوامامہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔

۱۳۷۹۔ حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ستر برس کی مسافت تک آگ سے دور کر دیتے ہیں۔

۱۴۷۹۔ حدثنا سعيد بن عبد الرحمن ثنا عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان الثوري ح ثنا محمود بن غيلان ثنا عبيد الله بن الزرقني عن أبي سعيد بن الخديري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصوم عبد يوما في سبيل الله باعد ذلك اليوم النار عن وجهه سبعين خريفاً
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۳۸۰۔ حضرت ابوامامہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے جہاد کے دوران ایک روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایسی خندق بنا دیتے ہیں جیسے کہ زمین و آسمان کے مابین فاصلہ ہے۔

۱۴۸۰۔ حدثنا زياد بن ايوب ثنا يزيد بن هارون ثنا الوليد بن جميل عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوماً في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقاً كما بين السماء والأرض
یہ حدیث ابوامامہؓ کی روایت سے غریب ہے۔

باب ۱۰۷۱۔ جہاد میں مالی معاونت کی فضیلت

۱۳۸۱۔ حضرت خرم بن فاکتؓ کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی شخص جہاد میں کچھ خرچ کرتا ہے تو ایک کے بدلے سات سو گنا لگے جاتا ہے۔

باب ۱۰۷۱۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
۱۴۸۱۔ حدثنا ابو كريب ثنا حسين الجعفي عن زائدة عن الركين بن الربيع عن ابيه عن يسير بن عميلة عن خريم بن فاتك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انفق نفقة في سبيل الله كتبت له سبع مائة ضعف
اس باب میں ابو ہریرہؓ بھی حدیث نقل کرتے ہیں مذکورہ بالا حدیث حسن ہے ہم اسے صرف رکیبن بن ربیع کی روایت سے جانتے ہیں۔

باب ۱۰۷۲۔ مجاہدین کی خدمت کرنے کی فضیلت

۱۳۸۲۔ حضرت عدی بن حاتم طائیؓ نے آنحضرت ﷺ سے پوچھا کہ کون سا صدقہ افضل ہے۔ فرمایا: اللہ کی راہ میں خادم دینا یا خیمے کا سا مہیا کرنا یا جوان اونٹنی اللہ کی راہ میں دینا۔

باب ۱۰۷۲۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْخِدْمَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
۱۴۸۲۔ حدثنا محمد بن رافع ثنا زيد بن حباب ثنا معاوية ابن صالح عن كثير بن الحارث عن القاسم ابي عبد الرحمن عن عدي بن حاتم الطائي انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل قال خادمة عبد في سبيل الله أو ظل فسطة أو طروقة فحل في سبيل الله
باب ۱۰۷۲۔ مجاہدین کی خدمت کرنے کی فضیلت

معاویہ بن صالح سے یہ حدیث مرسلہ منقول ہے اس سند میں زید کے متعلق اختلاف ہے۔ ولید بن جمیل یہ حدیث قاسم ابو عبد الرحمن سے وہ ابوامامہ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث ہم سے زیاد بن ایوب، یزید بن ہارون کے واسطے سے وہ ولید بن جمیل سے وہ قاسم ابی عبد الرحمن سے وہ ابوامامہ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ افضل ترین صدقہ جہاد میں خیمے کا سایہ مہیا کرنا، خادم دینا یا اونٹنی دینا ہے۔
یہ حدیث حسن صحیح ہے اور معاویہ بن ابی صالح کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔

باب ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۳۔ غازی کی تجہیز

باب ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۳۔ مَا جَاءَ فِيمَنْ جَهَّزَ غَازِيَا

۱۴۸۳۔ حدثنا ابو زكريا يحيى بن درست ثنا ابواسمعهيل ثنا يحيى بن ابى كثير عن ابى سلمة عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازیاً في سبيل الله فقد غزى ومن خلف غازیاً في أهله فقد غزى

۱۳۸۳۔ حضرت زید بن خالد جہنیؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص اللہ کی راہ میں جانے والے غازی کا سامان تیار کرے گا وہ بھی جہاد کرنے والوں کے حکم میں شامل ہوگا اور جو شخص مجاہدین کے اہل و عیال کی نگہبانی کرے گا وہ بھی انہی کے حکم میں شامل ہوگا۔

۱۴۸۳۔ حدثنا ابو زكريا يحيى بن درست ثنا ابواسمعهيل ثنا يحيى بن ابى كثير عن ابى سلمة عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازیاً في سبيل الله فقد غزى ومن خلف غازیاً في أهله فقد غزى

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس سند کے علاوہ بھی کئی سندوں سے منقول ہے۔ ابن عمر، سفیان سے وہ ابن ابی لیلیٰ سے وہ عطاء سے اور وہ زید بن خالد جہنی سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث بھی حسن صحیح ہے۔ اسے محمد بن بشار، عبد الرحمن بن مہدی سے وہ حرب سے وہ یحییٰ بن ابی کثیر سے وہ ابی سلمہ سے وہ بسر بن سعید سے وہ زید بن خالد جہنی سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جس نے غازی کی تیاری کرائی گویا کہ اس نے جہاد کیا۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ پھر محمد بن بشار، یحییٰ بن سعید سے وہ عبد الملک سے وہ عطاء سے وہ زید بن خالد جہنی سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۴۔ جس شخص کے قدم جہاد میں گرد آلود ہوں۔

باب ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۴۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ مَنْ اغْبَرَتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

۱۴۸۴۔ حدثنا ابوعمار ثنا الوليد بن مسلم عن زيد بن ابي مریم قال لِحَقْنِي عَبَايَةَ بْنِ رَفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ وَ أَنَا مَاشٍ إِلَى الْحُمَعَةِ فَقَالَ أَبِشْرُ فَإِنَّ خَطَاكَ هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَمِعْتُ أَبَا عَبَسٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اغْبَرَتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُمَا حَرَامٌ عَلَى النَّارِ

۱۳۸۳۔ یزید بن ابومریم کہتے ہیں کہ عبایہ بن رفاعہ بن رافع مجھے جمعہ کی نماز کے لیے جاتے ہوئے ملے تو فرمایا: خوشخبری سن لو تمہارے اللہ کی راہ میں اٹھنے والے یہ قدم میں نے ابوعبس سے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ جس کے قدم اللہ کی راہ میں گرد آلود ہوتے ہیں وہ آگ پر حرام ہو جاتے ہیں۔

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ ابوعبس کا نام عبد الرحمن بن جبیر ہے اس باب میں ابوبکرؓ، ایک صحابی اور یزید بن ابومریم سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ شامی ہیں۔ ولید بن مسلم، یحییٰ بن حمزہ اور کئی راوی ان سے احادیث نقل کرتے ہیں اور یزید بن ابومریم کوئی کے والد صحابی ہیں ان کا نام مالک بن ربیع ہے۔

باب ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۵۔ جہاد کے غبار کی فضیلت۔

باب ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۵۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْغُبَارِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

۱۳۸۵۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص

۱۴۸۴۔ حدثنا هناد ثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن

بن عبد اللہ المسعودی عن محمد بن عبد الرحمن
عن عیسیٰ بن طلحة عن ابی ہریرة قال قال رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یلج النار رجل یکی من
خشية اللہ حتی یعود اللبن فی الضرع ولا یجتمع
غبار فی سبیل اللہ ودخان جہنم

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ محمد بن عبد الرحمن، آل طلحہ مدینی کے مولیٰ ہیں۔

باب ۱۰۷۶۔ مَا جَاءَ مِنْ شَابٍ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ

۱۴۸۶۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ أَبِي مَعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ
عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ أَنَّ شُرْحَبِيلَ
بْنَ السَّمِطِ (قَالَ يَا كَعْبُ بْنُ مُرَّةَ حَدَّثَنَا عَنْ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخَذَ) قَالَ سَمِعْتُ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي
الْإِسْلَامِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

باب ۱۰۷۶۔ جو شخص جہاد کرتے ہوئے بوڑھا ہو جائے۔

۱۳۸۶۔ حضرت سالم بن ابی جعد، شرحبیل بن سمط سے نقل کرتے ہیں
کہ کعب بن مرہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے
فرمایا: جو شخص اسلام میں بوڑھا ہو گیا وہ اس کے لیے قیامت کے دن
نور ہوگا۔ (یعنی جہاد کرتے ہوئے)۔

اس باب میں فضالہ بن عبید اللہ بن عمر سے بھی حدیثیں نقل کی گئی ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ اعمش بھی عمرو بن مرہ سے اسی طرح نقل
کرتے ہیں۔ پھر یہ حدیث منصور، سالم بن ابی جعد سے بواسطہ ایک شخص بھی نقل کرتے ہیں۔ کعب بن مرہ کو مرہ بن کعب بہزی بھی کہا جاتا
ہے۔ اور یہی مشہور ہے۔ انہوں نے آنحضرت ﷺ سے بہت سی احادیث نقل کی ہیں۔

۱۴۸۷۔ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا حِيَوَةَ بْنِ
شَرِيحٍ عَنْ بَقِيَّةَ عَنْ بَحِيرِ بْنِ مَسْعَدَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ
مَعْدَانَ عَنْ كَثِيرٍ عَنْ مُرَّةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَابَ شَيْبَةً
فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

۱۳۸۷۔ عمرو بن عبسہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص اللہ کی
راہ میں جہاد کرتے ہوئے بوڑھا ہو گیا قیامت کے دن اس کے لیے نور
ہوگا۔

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے اور حیوۃ بن شریح، یزید حمصی کے بیٹے ہیں۔

باب ۱۰۷۷۔ مَا جَاءَ مَنْ ارْتَبَطَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

۱۴۸۸۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ ثَنَا عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
سَهْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَيْلُ مَعْقُودَةٌ فِي
نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْخَيْلُ لِثَلَاثَةِ هِيَ

باب ۱۰۷۷۔ جہاد کی نیت سے گھوڑا رکھنے کی فضیلت

۱۳۸۸۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: گھوڑوں
کی پیشانی میں قیامت تک خیر بندھی ہوئی ہے اور گھوڑے تین قسم کے
ہیں۔ ایک تو آدمی کے لیے اجر کا باعث دوسرے پردہ پوشی کا باعث اور
تیسرے آدمی کے لیے بار ہیں یعنی عذاب و گناہ کا باعث ہیں۔ جہاں

(۱) یعنی یہ ناممکن ہے۔ (مترجم)

لِرَجُلٍ أَجْرٌ وَهِيَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ وَهِيَ عَلَى رَجُلٍ وَزُرٌّ
فَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ فَالَّذِي يَتَّخِذُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَيَعُدُّهَا لَهُ هِيَ لَهُ أَجْرٌ لَا يَغِيبُ فِي بُطُونِهَا شَيْئًا إِلَّا
كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرًا

تک پہلی قسم کا تعلق ہے تو وہ ایسے گھوڑے کے متعلق ہے کہ اس کا مالک
اسے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے رکھے اور تیار کرے وہ اس کے لیے
اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ اس کے چارہ وغیرہ کھانے پر بھی اجر و
ثواب لکھا جاتا ہے۔ (۱)

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسے مالک، زید بن اسلم سے وہ ابوصالح سے اور وہ ابو ہریرہ سے اسی کے مثل نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۰۷۸۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الرَّمِيِّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
۱۴۸۹۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ
ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي
حُسَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ
اللَّهَ لَيَدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةَ مِنَ الْجَنَّةِ صَانِعَهُ
يَحْتَسِبُ فِي صُنْعِهِ الْخَيْرَ وَالرَّامِيَ بِهِ وَالْمُمِدُّ بِهِ
قَالَ ارْمُوا وَارْكَبُوا وَلَا تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مَنْ أَنْ
تُرْكَبُوا مَا يَلْهُوُ بِهِ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ بَاطِلٌ إِلَّا رَمِيَهُ
بِقَوْسٍ وَتَادِيَةِ فَرَسِهِ وَمَلَاعِبَتِهِ أَهْلُهُ فَإِنَّهُمْ مِنَ الْحَقِّ

باب ۱۰۷۸۔ جہاد میں تیر اندازی کی فضیلت۔
۱۳۸۹۔ حضرت عبد اللہ بن عبد الرحمن بن ابی حسینؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ
ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ایک تیر کی وجہ سے تین اشخاص کو جنت میں
داخل کرے گا۔ اس کا ثواب کی نیت سے بنانے والا، تیر انداز اور اس
کے لے تیروں کو اٹھا کر رکھے اور اسے دینے والا پھر فرمایا: تیر اندازی
اور سواری سیکھو اور تمہارا تیر پھینکنا میرے نزدیک سواری سے زیادہ بہتر
ہے پھر ہر وہ کھیل جس سے مسلمان کھیلتا ہے باطل ہے سوائے تیر
اندازی، اپنے گھوڑے کو ادب سکھانا اور اپنی بیوی کے ساتھ کھیلتا۔ یہ
تینوں صحیح ہیں۔

احمد بن منیع، زید بن ہارون سے وہ ہشام سے وہ یحییٰ بن ابی کثیر سے وہ ابوسلام سے وہ عبد اللہ بن ازرق سے وہ عقبہ بن عامر سے اور
وہ نبی اکرم ﷺ سے اسی کے مثل نقل کرتے ہیں۔ اس باب میں کعب بن مرہ، عمرو بن عبسہ اور عبد اللہ بن عمرؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔
یہ حدیث حسن ہے۔

۱۴۹۰۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مَعَاذُ بْنُ هِشَامٍ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ
مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي نَجِيحِ السَّلْمِيِّ قَالَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ
رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ لَهُ عِدْلُ مُحَرَّرٍ

۱۳۹۰۔ ابونجیح سلمیٰ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے
ہوئے سنا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں تیر پھینکتا ہے تو اس کا ایک تیر پھینکنا
ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابونجیح کا نام عمرو بن عبسہ سلمیٰ ہے جب کہ عبد اللہ بن ازرق، عبد اللہ بن زید ہیں۔

باب ۱۰۷۹۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْحَرَسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
۱۴۹۱۔ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا بَشْرُ بْنُ

باب ۱۰۷۹۔ جہاد میں پہرہ دینے کی فضیلت
۱۳۹۱۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دو

(۱) یہاں دوسری دو قسموں کا تذکرہ نہیں ہے جنہیں امام مسلم نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے چنانچہ دوسری قسم ان گھوڑوں کی ہے جنہیں اللہ کی راہ میں رکھا ہوا ہو
اور اللہ تعالیٰ کا حق نہ جو لے اور اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رکھے ہوئے استعمال کرے جب کہ تیسری قسم اس گھوڑے کی ہے جو فخر اور یا کاری کے لیے رکھا
جائے چنانچہ وہ اس پر بار ہوتا ہے (مترجم)

آنکھیں ایسی ہیں کہ انہیں آگ نہیں چھو سکتی۔ ایک وہ جو اللہ کے خوف سے روئی اور دوسری وہ جس نے اللہ کی راہ میں پہرہ دیتے ہوئے رات گزار دی۔

عمر ثنا شعيب بن زريق ابو شبة ثنا العطار الخراساني عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسها النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله

اس باب میں عثمان اور ابوریحانہ سے بھی احادیث منقول ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف شعیب بن زریق کی روایت سے جانتے ہیں۔

باب ۱۰۸۰۔ مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ الشَّهِيدِ

باب ۱۰۸۰۔ شہید کے ثواب کے متعلق

۱۳۹۲۔ حضرت کعب بن مالکؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: شہداء کی روحوں سبز پرندوں میں جنت کے پھلوں میں سے کھاتی پھرتی ہیں۔ راوی کو شک ہے کہ ”درخت“ فرمایا ”پھل“

۱۴۹۲۔ حدثنا ابن ابي عمرو ثنا سفيان بن عينة عن عمرو بن دينار عن الزهري عن ابن كعب بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ارواح الشهداء في طير خضر تعلق من ثمر الجنة او شجر الجنة،
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۳۹۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: میرے سامنے وہ تین شخص پیش کیے گئے جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک شہید دوسرا حرام سے بچنے اور شہادت سے پرہیز کرنے والا اور تیسرا وہ بندہ جو اچھی طرح عبادت کرے اور اپنے مالک کی بھی اچھی طرح خدمت کرے۔

۱۴۹۳۔ حدثنا محمد بن بشار ثنا عثمان بن عمر ثنا علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير عن عامر العقيلي عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي اول ثلاثة يدخلون الجنة شهيد و عفيف متعفف و عبد احسن عبادة الله و نصح لمواليه
یہ حدیث حسن ہے

۱۳۹۴۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا ہر گناہ کا کفارہ ہے جبریلؑ نے فرمایا: قرض کے علاوہ۔ چنانچہ آپ ﷺ نے بھی فرمایا: قرض کے علاوہ۔

۱۴۹۴۔ حدثنا يحيى بن طلحة الكوفي ثنا ابوبكر بن عياش عن حميد عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القتل في سبيل الله يكفر كل خطيئة فقال جبرئيل الا الذين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الذين

اس باب میں کعب بن عمرؓ، ابو ہریرہؓ اور ابوقنادہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث غریب ہے ہم اسے ابوبکرؓ کی روایت سے صرف اسی نسخ کی سند سے جانتے ہیں۔ امام بخاری بھی اسے نہیں پہچانتے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ امام بخاری کا اس حدیث کی طرف اشارہ ہو جو حمید انسؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: اہل جنت میں سے کوئی دینا کی طرف لوٹنا پسند نہیں کرے گا سوائے شہید کے۔ اس کی وجہ وہ اکرام ہوگا جو شہادت کی وجہ سے کیا جائے گا۔

۱۳۹۵۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوئی بندہ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی موت کے بعد اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمائیں اور وہ دنیا میں واپس جانا پسند کرے اگرچہ اسے اس بھلائی (جنت) کے عوض دنیا و ما فیہا عطا کر دی جائے۔ ہاں البتہ شہید، شہادت کی فضیلت اور مرتبہ کی وجہ سے ضرور یہ خواہش کرے گا کہ دنیا میں جائے اور دوبارہ قتل کر دیا جائے۔

۱۴۹۵۔ حدثنا علی بن حجر ثنا اسمعيل بن جعفر عن حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوتُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَأَنَّ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا إِلَّا الشَّهِيدُ لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى
یہ حدیث صحیح ہے۔

باب ۱۰۸۱۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہداء کی فضیلت

۱۳۹۶۔ حضرت عمر بن خطابؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: شہداء کی چار قسمیں ہیں۔ پہلا وہ مؤمن جس کا ایمان مضبوط ہو، وہ دشمن سے مقابلہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے شہید کر دیا جائے۔ اس کے لیے ایسا مرتبہ ہے کہ قیامت کے دن لوگ اسے اس طرح دیکھیں گے۔ پھر آپ ﷺ نے ایسا سر بلند فرمایا یہاں تک کہ آپ ﷺ کی ٹوپی گر گئی۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھے علم نہیں کہ ٹوپی آنحضرت ﷺ کی گری یا عمرؓ کی، دوسرا وہ مؤمن بندہ جو قوی الایمان ہو اور دشمن سے مقابلہ میں خوف کی وجہ سے گویا کہ اس کی جلد کو کانٹوں سے چھنی کر دیا گیا ہو (۱) پھر ایک تیر آئے اور اسے قتل کر دے۔ تیسرا وہ مؤمن جس کے نیک اور بد اعمال خلط ملط ہو گے ہوں اور دشمن سے ملاقات کے وقت اللہ رب العزت سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے قتل کر دیا جائے یہ تیسرا درجہ ہے چوتھا وہ مؤمن جو گنہگار ہوتے ہوئے دشمن سے مقابلے کے وقت ذات باری تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے قتل کر دیا گیا اور یہ چوتھا درجہ ہے۔ (۲)

باب ۱۰۸۱۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الشَّهَادَةِ عِنْدَ اللَّهِ
۱۴۹۶۔ حدثنا قتيبة ثنا ابولهيعة عن عطاء بن دينار عن ابى يزيد الخولاني انه سمع فضالة بن عبيد يقول سمعتُ عمر بن الخطاب يقول يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهداء أربعة رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذاك الذي يرفع الناس إليه أعينهم يوم القيمة هكذا ورفع رأسه حتى وقعت قلنسوته فلا أدري قلنسوة عمر أراد أم قلنسوة النبي صلى الله عليه وسلم قال ورجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فكأنما ضرب جلده بشوك طلع من الجنب آتاه سهم عرب فقتله فهو في الدرجة الثانية ورجل مؤمن خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذاك في الدرجة الثالثة ورجل مؤمن أسرف على نفسه لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذاك في الدرجة الرابعة

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف عطاء بن دینار کی روایت سے جانتے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں: یہ حدیث سعید بن ابی ایوب بھی عطاء بن دینار سے اور وہ شیوخ خولانی سے نقل کرتے ہیں لیکن اس میں یزید کا ذکر نہیں کرتے اور عطاء بن دینار کی روایت میں کوئی حرج نہیں۔

(۱) یہاں خوف اور کھپکھپاہٹ طاری ہونا مراد ہے کہ اس کا رداں کھڑا ہو گیا۔ (مترجم)
(۲) اس تقسیم کا ملخص یہ ہے کہ ایک مؤمن متقی اور شجاع، دوسرا متقی غیر شجاع، تیسرا شجاع غیر متقی اور چوتھا بھی شجاع غیر متقی لیکن اس کے گناہ پہلے والے سے زیادہ ہیں۔ پھر ان کے درجات بھی بالترتیب ہیں۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۱۰۸۲۔ مَا جَاءَ فِي غَزْوِ الْبَحْرِ

۱۴۹۷۔ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْانصَارِيُّ ثَنَا
مَعْنُ ثَنَا مَالِكُ عَنْ اسْحَقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ
عَنْ أَنَسِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ عَلَى أُمَّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ
فَتَطْعِمُهُ وَكَانَتْ أُمَّ حَرَامٍ تَحْتِ عِبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ
فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا
فَأَطَعَمَتْهُ وَحَبَسَتْهُ تَقْلِي رَأْسَهُ فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَتْ
فَقُلْتُ مَا يَضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَأْسٌ مِنْ أُمَّتِي
عَرَضُوا عَلَيَّ غَزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَرَكِبُونَ نَبَجَ هَذَا
الْبَحْرِ مُلُوكٌ عَلَى الْأَسِيرَةِ أَوْ مِثْلُ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِيرَةِ
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَدَعَى
لَهَا ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ
فَقُلْتُ لَهُ مَا يَضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَأْسٌ مِنْ
أُمَّتِي عَرَضُوا عَلَيَّ غَزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ نَحْوَمَا قَالَ فِي
الْأَوَّلِ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي
مِنْهُمْ قَالَ أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ فَرَكِبْتُ أُمَّ حَرَامِ الْبَحْرِ
فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا
جِئْنَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ

باب ۱۰۸۲۔ سمندر میں جہاد

۱۳۹۷۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ عبادہ بن صامت کی بیوی ام حرام
بنت ملحان کے یہاں آنحضرتؐ جایا کرتے تھے اور وہ آپؐ کو
کھانا کھلایا کرتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ آنحضرتؐ ان کے ہاں
داخل ہوئے تو انہوں نے آپؐ کو کھانا کھلایا اور آپؐ کے سر
مبارک کی جوئیں دیکھنے کے لیے آپؐ کو روک لیا۔ آپؐ اسی
اثناء میں سو گئے پھر جب جاگے تو ہنسنے لگے۔ انہوں نے عرض کیا: یا
رسول اللہ! کس بات پر ہنس رہے ہیں؟ فرمایا: میری امت کے چند
لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے جو سمندر میں اللہ کی راہ میں جہاد
کرنے کے لیے سوار ہیں۔ گویا کہ وہ لوگ تختوں پر بادشاہ ہیں یا فرمایا:
کہ بادشاہوں کی طرح تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ام حرام نے عرض
کیا: یا رسول اللہ! دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی انہی میں سے
کر دیں۔ اس پر آپؐ نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ پھر دوبارہ سر
مبارک رکھا اور سو گئے اور اسی طرح ہنسنے ہوئے اٹھے۔ انہوں نے پھر
عرض کیا کہ اب کس چیز پر ہنس رہے ہیں؟ فرمایا: میرے سامنے کچھ
جہاد پیش کیے گئے جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے ہیں۔ پھر اسی
طرح فرمایا: جس طرح پہلی مرتبہ فرمایا تھا۔ انہوں نے دوبارہ دعا کے
لیے درخواست کی۔ تو آپؐ نے فرمایا: تم ان لوگوں میں سے اولین
میں سے ہو۔ پھر حضرت معاویہ بن ابوسفیانؓ کے زمانہ خلافت میں
ام حرام سمندر میں سوار ہوئیں اور جب نکلیں تو اپنی سواری سے گر گئیں اور
شہید ہو گئیں۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ام حرام بنت ملحان، ام سلیم کی بہن اور انس بن مالک کی خالہ ہیں۔

باب ۱۰۸۳۔ جو شخص ریا کاری یا دنیا کے لیے جہاد کرے۔

باب ۱۰۸۳۔ مَا جَاءَ مِنْ يَفَاتِلِ رِيَاءٍ أَوْ لِلدُّنْيَا

۱۴۹۸۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ اَبِى مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ
شَقِيقِ بْنِ اَبِي دُوَسْلَى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُفَاتِلُ شُجَاعَةً وَيُقَاتِلُ
رِيَاءً فَأَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ
كَلِمَةَ اللَّهِ مِنْ اَنْعَلِيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

۱۳۹۸۔ حضرت ابو موسیٰؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہؐ سے اس شخص
کے متعلق پوچھا گیا۔ جو ریا کاری، غیرت یا اظہار شجاعت کے لیے
جہاد کرتا ہے کہ ان میں سے کون اللہ کی راہ میں ہے؟ فرمایا: جو شخص اعلاء
کلمۃ اللہ کے لیے جہاد کرے وہ اللہ کی راہ میں ہے۔

اس باب میں عمرؓ سے بھی حدیث منقول ہے حضرت ابوموسیٰؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۴۹۹۔ حدثنا محمد بن المثنی ثنا عبد الوہاب الثقفی عن یحیی بن سعید عن محمد بن ابراہیم عن علقمة بن وقاص اللیثی عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِأَمْرِيءٍ مَّا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

۱۳۹۹۔ حضرت عمر بن خطابؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو نیت کے مطابق ہی ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ جس نے اللہ اور رسول (ﷺ) کے لیے ہجرت کی اس نے اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) کے لیے کی اور جس نے دنیا کے حصول یا کسی عورت سے شادی کی غرض سے ہجرت کی اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس کے لیے اس نے کی ہے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسے مالک بن انس، سفیان ثوری اور کئی ائمہ حدیث بخاری بن سعید سے نقل کرتے ہیں ہم اسے صرف بخاری بن سعید ہی کی روایت سے جانتے ہیں۔

باب ۱۰۸۲۔ جہاد میں صبح و شام چلنے کی ہدایت۔

۱۵۰۰۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ کی راہ میں صبح یا شام کو چلنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے اور ایک کمان یا ایک ہاتھ کے برابر جنت کی جگہ دینا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہے۔ اگر جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت دنیا میں آجائے تو آسمان و زمین کے مابین پوری کائنات روشن اور خوشبو سے بھر جائے۔ یہاں تک کہ اس کے سر کی اوڑھنی بھی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔

باب ۱۰۸۴۔ مَا جَاءَ فِي الْعُدُوِّ وَالرَّوَّاحِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

۱۵۰۰۔ حدثنا علی بن حجر ثنا اسمعیل بن جعفر عن حمید عن أنس أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعْدُوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رُوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَقَابٌ قَوْسٍ أَحَدِكُمْ أَوْ مَوْضِعٌ يَدِهِ فِي الْحَنْةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْحَنْةِ أَطْلَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ لِأَصْنَاءِ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَّتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيْحًا وَلَنْصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۵۰۱۔ حضرت اہل بن سعد ساعدیؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ کی راہ میں ایک صبح چلنا دنیا و ما فیہا سے بہتر اور جنت میں ایک کوڑا رکھنے کے برابر جگہ دینا و ما فیہا سے بہتر ہے۔

۱۵۰۱۔ حدثنا قتيبة ثنا العطار بن خالد المنخزومي عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَمَوْضِعٌ سَوِطٍ فِي الْحَنْةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

اس باب میں ابو ہریرہؓ، ابن عباسؓ، ابوالیوبؓ اور انسؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۵۰۲۔ حضرت ابو ہریرہؓ اور ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے

۱۵۰۲۔ حدثنا ابو سعید الأشج ثنا ابو خالد الاحمر

فرمایا: جہاد میں ایک صبح یا ایک شام چلنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔

عن ابن عجلان عن أبي حازم عن أبي هريرة وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غدوة في سبيل الله أو راحة خير من الدنيا وما فيها

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ابو حازم، غرہ اشجیہ کے مولیٰ ہیں ان کا نام سلیمان ہے اور یہ کوئی ہیں۔

۱۵۰۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کا ایک گھائی پر گزر ہوا اس میں بیٹھے پانی کا ایک چھوٹا سا چشمہ تھا۔ یہ جگہ انہیں بے حد پسند آئی اور تمنا کی کہ کاش کہ میں لوگوں سے جدا ہو کر اس گھائی میں رہتا۔ لیکن میں آنحضرت ﷺ سے اجازت لیے بغیر کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ چنانچہ جب آپ ﷺ سے اس بات کا تذکرہ کیا تو فرمایا: ایسا نہ کرنا اس لیے کہ تم میں سے کسی کا ایک مرتبہ جہاد کے لیے کھڑے ہونا اس کے اپنے گھر میں ستر سال تک نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ کیا تم لوگ نہیں چاہتے کہ اللہ رب العزت تم لوگوں کی مغفرت فرمائیں اور تمہیں جنت میں داخل کریں لہذا اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ جس نے فواق ناذہ کے برابر بھی جہاد کیا اس پر جنت واجب ہوگی۔ (۱)

۱۵۰۳۔ حدثنا عبيد بن اسباط بن محمد ثنا ابی عن هشام بن سعد بن ابی ہلال عن ابن ابی دُبَابٍ عن أبي هريرة قال مر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عينة من ماء عذبة فاعجبته لطيبها فقال لواءتزلت الناس فاقمت في هذا الشعب ولكن فعل حتى استاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلواته في بيته سبعين عاما ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويُدخلكم الجنة أغزوا في سبيل الله من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة

یہ حدیث حسن ہے۔

باب ۱۰۸۵۔ بہترین لوگ کون ہیں؟

باب ۱۰۸۵۔ مَا جَاءَ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ

۱۵۰۴۔ حضرت ابن عباسؓ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا میں تمہیں بہترین آدمی کے متعلق نہ بتاؤں؟ بہترین شخص وہ ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے گھوڑے کی لگام پکڑتا ہے۔ اور کیا میں تمہیں اس کے بعد کے درجے والا شخص نہ بتاؤں؟ وہ وہ شخص ہے جو اپنی بکریاں لے کر مخلوق سے جدا ہو گیا ہے لیکن اس میں سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتا ہے (۲) اور کیا میں تمہیں بدترین شخص کے متعلق نہ بتاؤں؟ بدترین شخص وہ ہے جو اللہ کے نام پر سوال کرتا ہے اور اسے نہیں عطا کیا جاتا۔

۱۵۰۴۔ حدثنا قتيبة ثنا ابن لهيعة عن بكير بن الأشج عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الناس رجلاً ممسكاً بعنان فرسه في سبيل الله ألا أخبركم بالذي يتلوه رجل معتزل في غيمة له يودى حق الله فيها ألا أخبركم بشر الناس رجلاً يسئل بالله ولا يعطى به

(۱) فواق ناذہ: اونٹنی کا دو دو دو ہونے کے دوران ایک دھار سے دوسری کے درمیانی وقفے کو فواق ناذہ کہتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے۔ کہ تھن کو ایک مرتبہ ہاتھ سے

دبا کر چھوڑنے اور دوبارہ دبانے کے درمیانی وقفے کو کہتے ہیں۔ (مترجم)

(۲) یہاں صورت میں ہے کہ جہاد فرض کفایہ ہو۔ (مترجم)

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور کئی سندوں سے ابن عباسؓ کے واسطے سے مرفوعاً منقول ہے۔

باب ۱۰۸۶۔ مَا جَاءَ فِيمَنْ سَأَلَ الشَّهَادَةَ

باب ۱۰۸۶۔ جو شخص شہادت کی دعا کرے

۱۵۰۵۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا رُوحُ بْنُ عِبَادَةَ ثَنَا

۱۵۰۵۔ حضرت معاذ بن جبلؓ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ

ابن جریج عن سليمان بن سليمان عن موسى عن مالك بن

فرمایا: جس شخص نے خلوص دل کے ساتھ اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی

نحاس السكسكي عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ

دعا کی اللہ تعالیٰ اسے شہید کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الْقَتْلَ فِي

سَبِيلِ اللَّهِ صَادِقًا مِنْ قَلْبِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ أَجْرَ الشَّهِيدِ

یہ حدیث حسن ہے۔

۱۵۰۶۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ بْنُ عَسْكَرٍ ثَنَا الْقَاسِمُ

۱۵۰۶۔ حضرت سہیل بن حنیفؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

بْنُ كَثِيرٍ ثَنَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ شَرِيحٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ

جو شخص صدق دل سے اللہ تعالیٰ سے شہادت طلب کرے گا اللہ تعالیٰ

أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اسے شہید کے مراتب پر فائز فرمائیں گے خواہ وہ بستر پر ہی فوت ہو۔

وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ مِنْ قَلْبِهِ صَادِقًا بَلَّغَهُ

اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے اس سند سے صرف عبدالرحمن بن شریح کی روایت سے جانتے ہیں۔ عبداللہ بن صالح بھی یہ

حدیث عبدالرحمن بن شریح سے نقل کرتے ہیں۔ ان کی کثیت ابو شریح ہے اور یہ اسکندرانی ہیں اس باب میں معاذ بن جبلؓ سے بھی حدیث

منقول ہے۔

باب ۱۰۸۷۔ مَا جَاءَ فِي الْمُجَاهِدِ وَالْمُكَاتِبِ

باب ۱۰۸۷۔ مجاہد، مکاتب اور نکاح کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی

وَالنَّائِكِ وَعَوْنِ اللَّهِ إِيَّاهُمْ

مدد و نصرت۔

۱۵۰۷۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ

۱۵۰۷۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ

سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ الْمُقْبَرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ

نے تین شخصوں کی معاونت اپنے ذمے لی ہے ایک مجاہد فی سبیل اللہ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ حَقَّ عَلَى اللَّهِ

دوسرا مکاتب جو ادا ہوگی قیمت کا ارادہ رکھتا ہو اور تیسرا وہ نکاح کرنے

عَوْنُهُمُ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُكَاتِبُ الَّذِي

والا جو پرہیزگاری کی نیت سے نکاح کرے۔

يُرِيدُ الْآدَاءَ وَالنَّائِكُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ

یہ حدیث حسن ہے۔

۱۵۰۸۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا رُوحُ بْنُ عِبَادَةَ

۱۵۰۸۔ حضرت معاذ بن جبلؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

بْنِ جَرِيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مَالِكِ بْنِ يَخْضَمٍ

جس مسلمان نے فواق ناکہ کے برابر بھی اللہ کی راہ میں جہاد کیا جنت

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اس پر واجب ہوگی اور جس شخص کو جہاد کے دوران ایک زخم یا کوئی

چوٹ بھی لگ گئی وہ شخص قیامت کے دن بڑے سے بڑا زخم لے کر آئے گا اس کا رنگ زعفران کی طرح اور خوشبو مشک جیسی ہوگی۔

قَالَ مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فُوقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْحَنَّةُ وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ نَكِبَ نَكِبَةً فَإِنَّهَا يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَعْزَمًا كَانَتْ لُونُهَا الزُّعْفَرَانُ وَرِيحُهَا كَالْمِسْكِ

یہ حدیث حسن ہے۔

باب ۱۰۸۸۔ جہاد میں زخمی ہو جانے کی فضیلت۔

۱۵۰۹۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں میں سے زخمی ہونے والوں کو اچھی طرح جانتے ہیں اور کوئی زخمی مجاہد ایسا نہیں کہ قیامت کے دن خون کے رنگ اور مشک کی سی خوشبو کے ساتھ حاضر نہ ہو۔

باب ۱۰۸۸۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ مَنْ يُكَلِّمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۱۵۰۹۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ ثَنَا عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهِيلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُكَلِّمُ فِي سَبِيلِهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِّ وَالرَّيْحُ رِيْحُ الْمِسْكِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور کئی سندوں سے حضرت ابو ہریرہؓ ہی کے واسطے سے آنحضرت ﷺ سے منقول ہے۔

باب ۱۰۸۹۔ کون سا عمل افضل ہے۔

۱۵۱۰۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل اور بہتر ہے؟ فرمایا: اللہ اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان لانا۔ عرض کیا گیا: پھر؟ فرمایا: جہاد افضل ترین عمل ہے عرض کیا گیا: اس کے بعد؟ فرمایا: حج مقبول۔

باب ۱۰۸۹۔ مَا جَاءَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ۱۵۱۰۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيْبٍ ثَنَا عُبَيْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

عَمْرٍو ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سِئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ وَأَيُّ الْأَعْمَالِ خَيْرٌ فَقَالَ إِيْمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ ثُمَّ أَيُّ شَيْءٍ قَالَ الْجِهَادُ سِنَامَ الْعَمَلِ قِيلَ ثُمَّ أَيُّ شَيْءٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ حَجٌّ مَبْرُورٌ

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور آنحضرت ﷺ سے کئی سندوں سے بواسطہ ابو ہریرہؓ منقول ہے۔

۱۵۱۱۔ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جنت کے دروازے تلواروں کے سائے تلے ہیں“۔ ایک شخص جو کہ مفلوک الحال تھا کہنے لگا کیا آپ نے خود یہ حدیث رسول اللہ ﷺ سے سنی ہے؟ فرمایا: ہاں۔ راوی کہتے ہیں: پھر وہ شخص اپنے دوستوں میں واپس گیا اور کہا: میں تمہیں سلام کرتا ہوں پھر اپنی تلوار کی میان توڑ ڈالی اور کافروں کو قتل کرنے لگا یہاں تک کہ قتل ہو گیا۔

۱۵۱۱۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَلِيْمَانَ الضَّبْعِيُّ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ رَبُّنَا الْهَيْبَةُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ قَالَ أَلْقُرءُ عَلَيْكُمْ السَّلَامَ وَكَسَرَ حَقَنَ سَيْفِهِ فَضْرَبَ بِهِ حَتَّى قُتِلَ

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف جعفر بن سلمان کی روایت سے جانتے ہیں۔ ابو عمران جوئی کا نام عبد الملک بن حبیب، اور ابو بکر بن موسیٰ کا نام بقول احمد بن حنبل ”عمریا عامر“ ہے۔

باب ۱۰۹۰۔ مَا جَاءَ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ

۱۵۱۲۔ حَدَّثَنَا أَبُو عَمَارٍ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ دَاخُدْرِيِّ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ قَالَ رَجُلٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالُوا ثُمَّ مَنْ قَالَ مُؤْمِنٌ فِي شُعْبٍ مِنَ الشُّعَابِ يَتَّقِي رَبَّهُ وَيَدْعُ النَّاسَ مِنْ شِرَّةٍ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۵۱۳۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثَنَا نَعِيمُ بْنُ حَمَادٍ ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ سِتُّ حِصَالٍ يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَرْعِ الْأَكْبَرِ وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ وَيُسْفَعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ

یہ حدیث صحیح غریب ہے۔

۱۵۱۴۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مَعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ ثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَسْرُهُ أَنْ يَرْجَعَ إِلَى الدُّنْيَا غَيْرَ الشَّهِيدِ فَإِنَّهُ يُجِبُّ أَنْ يَرْجَعَ إِلَى الدُّنْيَا يَقُولُ حَتَّى أَقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِمَّا يَرَى مَا أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنَ الْكِرَامَةِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے اسے محمد بن بشار نے محمد بن جعفر سے انہوں نے شعبہ سے انہوں نے قتادہ سے انہوں نے انسؓ سے اور انہوں

نے آنحضرت ﷺ سے اسی کے ہم معنی بیان کیا ہے۔

۱۵۱۵۔ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي النُّضْرِ ثَنَا أَبُو النُّضْرِ

باب ۱۰۹۰۔ کون سا آدمی افضل ہے۔

۱۵۱۲۔ حضرت ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا گیا کہ کون سا شخص افضل ہے؟ فرمایا: اللہ کی راہ کا مجاہد۔ عرض کیا گیا: پھر؟ فرمایا: وہ مؤمن جو گھائٹوں میں سے کسی گھائٹی میں رہتا ہو۔ اپنے رب سے ڈرتا اور لوگوں کو اپنے شر سے دور رکھتا ہو۔

۱۵۱۳۔ حضرت مقدم بن معدیکربؓ کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: شہید کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس چھ انعامات ہیں۔ (۱) خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ (۲) اسے اس کا جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔

(۳) عذاب قبر سے محفوظ اور قیامت کے دن کی بھیانگ وحشت سے مامون کر دیا جاتا ہے۔

(۴) اس کے سر پر ایسے یاقوت سے جڑا ہوا وقار کا تاج رکھا جاتا ہے جو دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔

(۵) اور اس کی بہتر (۷۲) حوروں کے ساتھ شادی کر دی جاتی ہے اور

(۶) ستر قرابت داروں کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔

۱۵۱۴۔ حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: کوئی بھی جنتی دنیا میں واپس آنے کی خواہش نہیں کرے گا ہاں البتہ شہید ضرور اس بات کا خواہش مند ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں واپس جائے۔ چنانچہ وہ کہے گا کہ میں اللہ کی راہ میں دس مرتبہ قتل کر دیا جاؤں اور اس کی وجہ انعام و اکرام ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے۔

۱۵۱۵۔ حضرت اہل بن سعدؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حدود

کی ایک رات چوکیداری کرنا دینا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے پھر ایک صبح یا ایک شام اللہ کی راہ میں چلنا بھی دینا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ بھی دینا و ما فیہا سے بہتر ہے۔

ثنا عبدالرحمن بن عبداللہ بن دینار عن ابی حازم عن سہل بن سعید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہا والروحۃ یروحہا العبد فی سبیل اللہ والغدوۃ خیر من الدنیا وما علیہا وموضع سوط احدکم فی الحنۃ خیر من الدنیا وما علیہا
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۵۱۶۔ محمد بن منکدر کہتے ہیں کہ سلمان فارسیؓ، شرمیل کے پاس سے گزرے وہ اپنے مرابط میں تھے جن میں رہنا ان کے لیے شاق گزر رہا تھا۔ سلمان نے فرمایا: اے شرمیل کیا میں تمہیں رسول اللہ ﷺ کی حدیث نہ سناؤں۔ کہنے لگے: کیوں نہیں۔ فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ اللہ کی راہ میں ایک دن پہرے داری کے فرائض انجام دینا ایک ماہ کے روزے رکھنے اور رات کو نمازیں پڑھنے سے افضل یا فرمایا بہتر ہے۔ اور جو ای دوران مر جائے اسے فتنہ قبر سے نجات دے دی جائے گی اور اس کے نیک اعمال قیامت تک بڑھتے رہیں گے۔

۱۵۱۶۔ حدثنا ابن ابی عمر ثنا سفیان ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ مَرَّ سَلْمَانَ الْفَارِسِيُّ بِشَرْمِيلِ بْنِ السَّمْطِ وَهُوَ فِي مَرَابِطٍ لَهُ وَقَدْ شَقَّ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَلَا أُحَدِّثُكَ يَا بْنَ السَّمْطِ بِحَدِيثٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَلَىٰ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ وَرُبَّمَا قَالَ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ وَمَنْ مَاتَ فِيهِ وَقِيَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَنَمِيَ لَهُ عَمَلُهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۵۱۷۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہاد کے اثر کے بغیر ملاقات کرے گا گویا کہ وہ اپنے دین میں کمی کے ساتھ اللہ رب العزت سے ملاقات کرے گا۔

۱۵۱۷۔ حدثنا علی بن حجر ثنا الولید بن مسلم عن اسمعيل بن رافع عن سمی عن ابی صالح عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ لَقِيَ اللَّهَ بِغَيْرِ آثَرٍ مِنْ جِهَادٍ لَقِيَ اللَّهَ وَفِيهِ ثَلَمَةٌ
یہ حدیث مسلم کی اسماعیل بن رافع کی روایت سے غریب ہے کیونکہ اسماعیل کو بعض محدثین ضعیف کہتے ہیں جب کہ امام بخاری انہیں ثقہ اور مقارب الحدیث کہتے ہیں۔ یہ حدیث ایک اور سند سے بھی حضرت ابو ہریرہؓ سے مرفوعاً منقول ہے۔ سلمان فارسیؓ کی حدیث کی سند بھی متصل نہیں کیونکہ محمد بن منکدر کی سلمان فارسیؓ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ابو موسیٰؓ بھی یہ حدیث مکحول سے وہ شرمیل بن سمط سے وہ سلمان سے اور وہ آنحضرت ﷺ اسی کے مثل نقل کرتے ہیں۔

۱۵۱۸۔ حضرت عثمان بن عفانؓ کے مولیٰ ابو صالحؓ کہتے ہیں کہ میں نے عثمان کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ: میں نے تم لوگوں سے آنحضرت ﷺ کی ایک حدیث چھپائی ہوئی تھی تاکہ تم لوگ مجھ سے متنفر نہ ہو جاؤ۔

۱۵۱۸۔ حدثنا الحسن بن علی الخلال ثنا هشام بن عبد الملك ثنا الليث بن سعد ثنا ابو عقيل زهره بن معبد عن ابی صالح مولى عثمان بن عفان قال

پھر میں نے سوچا کہ میں اسے بیان کر دوں اور جس کا جو جی چاہے کر لے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ کی راہ میں ایک دن کی چوکیداری (سرحدوں کی حفاظت) ایسے ایک ہزار دنوں سے بہتر ہے جو گھروں میں گزرے ہوں۔

سَمِعْتُ عُثْمَانَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ إِنِّي كَتَمْتُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرَاهِيَةً تَفَرَّقُكُمْ عَنِّي ثُمَّ بَدَأَ: أَنْ أَحَدْتُكُمْ مَوْهَ لِيَخْتَارَ امْرَأًا لِنَفْسِهِ مَا بَدَأَهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِي مَا سِوَاهُ مِنَ الْمَنَازِلِ

یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں: ابوصالح کا نام ترکان ہے۔

۱۵۱۹۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: شہید قتل کی صرف اتنی تکلیف محسوس کرتا ہے جتنی چیونٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔

۱۵۱۹۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاحْمَدُ بْنُ نَصْرَانَ نَيْسَابُورِيٌّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَيْسَى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ مَسِّ الْقَتْلِ إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَسِّ الْقَرْصَةِ

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

۱۵۲۰۔ حضرت ابوامامہؓ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: اللہ کے نزدیک دو قطروں اور دو اثروں سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں۔ ایک وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے آنسو بن کر نکلے اور دوسرا وہ خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں ہے۔ جہاں تک اثروں کا تعلق ہے تو ایک وہ اثر جو جہاد میں چوٹ وغیرہ لگنے سے ہو اور دوسرا وہ جو اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے کوئی فرض ادا کرتے ہوئے ہو۔

۱۵۲۰۔ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ جَمِيلٍ عَنِ الْقَاسِمِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ اللَّهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَأَثَرَيْنِ قَطْرَةٌ دَمُوعٌ مِنْ حَشْيَةِ اللَّهِ وَقَطْرَةٌ دَمٌ تَهْرَأَقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمَّا الْأَثَرَانِ فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَثَرٌ فِي قَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

آنحضرت ﷺ سے جہاد کے متعلق

منقول احادیث کے ابواب

باب ۱۰۹۱۔ اہل عذر کو جہاد میں عدم شرکت کی اجازت

۱۵۲۱۔ حضرت براء بن عازبؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوئی ہڈی یا تختی وغیرہ لاؤ۔ پھر آپ ﷺ نے حکم دیا کہ اس پر لکھا جائے

أَبْوَابُ الْجِهَادِ عَنِ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب ۱۰۹۱۔ فِي أَهْلِ الْعُذْرِ فِي الْقُعُودِ

۱۵۲۱۔ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ بْنُ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ

الْبِرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتْتُونِي بِالْكَتِفِ أَوِ اللَّوْحِ فَكَتَبَ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَعَمْرُو بْنُ أُمِّ مَكْنُومٍ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَقَالَ هَلْ لِي رُحْصَةٌ فَزَلَّتْ غَيْرُ أَوْلَى الضَّرِّ

کہ ”لايستوى القاعدون من المؤمنين“ الایۃ یعنی جہاد میں شریک نہ ہونے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس وقت عمرو بن ام مکتوم آپ ﷺ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے عرض کیا: کیا میرے لیے اجازت ہے؟ چنانچہ ”غیر اولى الضرر“ الایۃ نازل کی گئی۔ یعنی اہل اعذار وغیرہ جن کے بدن میں کوئی نقص ہو۔ (عمرو بن ام مکتوم نابینا تھے۔ مترجم)

اس باب میں ابن عباسؓ، جابرؓ اور زید بن ثابتؓ سے بھی احادیث نقل کی گئی ہیں یہ حدیث سلیمان تمیمی کی ابو اسحاق سے نقل کی گئی روایت سے حسن صحیح غریب ہے۔ شعبہ اور ثوری بھی اسے ابو اسحاق سے نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۰۹۲۔ مَا جَاءَ فِيمَنْ خَرَجَ إِلَى الْعَزْوِ وَتَرَكَ أَبَوَيْهِ
۱۵۲۲۔ حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد
عن سفيان وشعبة عن حبيب بن ابي ثابت عن ابي
العباس عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى
النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد
فقال ألك والدان قال نعم قال ففیهما فجاهد

باب ۱۰۹۲۔ جو شخص والدین کو چھوڑ کر جہاد میں جائے۔
۱۵۲۲۔ حضرت عبداللہ بن عمروؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص آنحضرت ﷺ سے جہاد کی اجازت لینے کے لیے حاضر ہوا آپ ﷺ نے پوچھا کہ کیا تمہارے والدین ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں آپ ﷺ نے فرمایا: تو پھر انہی کی خدمت کرو۔

اس باب میں ابن عباسؓ بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ ابن عمروؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو عباسؓ: کئی شاعر ہیں جو نابینا تھے۔ ان کا نام سائب بن فروخ ہے۔

باب ۱۰۹۳۔ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُبْعَثُ سَرِيَّةً وَوَحْدَهُ
۱۵۲۳۔ حدثنا محمد بن يحيى ثنا الحجاج بن
محمد قال قال ابن جريج في قوله: ”أطيعوا الله
والرسول وأولى الأمر منكم“ قال عبد الله بن
حذافة بن قيس بن عدي السهمي بعثه رسول الله
صلى الله عليه وسلم سرية أخبرني يعلى بن مسلم
عن سعيد بن جبيرة عن ابن عباس

باب ۱۰۹۳۔ ایک شخص کو بطور لشکر بھیجا۔
۱۵۲۳۔ حجاج بن محمد کہتے ہیں کہ ابن جریجؓ نے ارشاد بانی: ”اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم“ کی تفسیر میں فرمایا: کہ عبداللہ بن حذافہ بن قیس بن عدیؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے انہیں بطور لشکر بھیجا (یعنی وہ چھوٹا لشکر جو لشکر میں سے الگ کر کے بھیجا جائے) یہ حدیث یعلیٰ بن مسلم، سعید بن جبیر سے اور وہ ابن عباسؓ سے بیان کرتے ہیں۔

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے ہم اسے صرف ابن جریجؓ کی روایت سے جانتے ہیں۔

باب ۱۰۹۴۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يُسَافِرَ الرَّجُلُ وَوَحْدَهُ
۱۵۲۴۔ حدثنا احمد بن عبدة الضبي البصري ثنا
سفيان عن عاصم بن محمد عن ابيه عن ابن عمر
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن

باب ۱۰۹۴۔ اکیلے سفر کرنے کی کراہت
۱۵۲۴۔ حضرت ابن عمرؓ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: اگر لوگ تنہائی کے نقصان کے متعلق وہ کچھ جانتے ہوتے جو میں جانتا ہوں تو کبھی کوئی اکیلا رات کو سفر نہ کرتا۔

النَّاسَ يَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ مِنَ الْوَحْدَةِ مَا سَارَ رَاكِبٌ
بَلِيلٍ يَعْنِي وَحْدَهُ

۱۵۲۵۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے
نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: رات کو ایک یا دو سفر کرنے
والے شیطان ہیں اور تین لشکر (جماعت) کی مانند ہیں۔

۱۵۲۵۔ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْإِنصَارِيُّ ثَنَا
مَعْنُ ثَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّكِيْبُ شَيْطَانٌ وَالرَّكِيْبَانِ
شَيْطَانَانِ وَالثَّلَاثَةُ رَكِيْبٌ

یہ حدیث حسن صحیح ہے ہم اسے صرف اس سند سے جانتے ہیں۔ عاصم: عاصم بن محمد بن زید بن عبد اللہ بن عمر ہیں۔ حضرت ابن عمرؓ کی
حدیث بھی حسن ہے۔

باب ۱۰۹۵۔ جنگ میں جھوٹ اور فریب کی اجازت

باب ۱۰۹۵۔ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْكَيْدِ
وَالْخَدِيْعَةِ فِي الْحَرْبِ

۱۵۲۶۔ حضرت جابر بن عبد اللہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
جنگ فریب کا نام ہے۔

۱۵۲۶۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَنُصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَا
ثَنَا سَفِيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ
عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْحَرْبُ خُدْعَةٌ

اس باب میں علیؓ، زید بن ثابتؓ، عائشہؓ، ابن عباسؓ، ابو ہریرہؓ، اسماء بنت یزیدؓ، کعب بن مالکؓ اور انس بن مالکؓ بھی حدیث نقل
کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۰۹۶۔ آنحضرت ﷺ کے غزوات کی تعداد

باب ۱۰۹۶۔ مَا جَاءَ فِي غَزَوَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۱۵۲۷۔ حضرت ابو اسحاق کہتے ہیں کہ میں زید بن ارقمؓ کے ساتھ تھا کہ
ان سے آنحضرت ﷺ کے غزوات کی تعداد پوچھی گئی۔ انہوں نے
فرمایا: (۱۹) انیس جنگیں۔ میں نے عرض کیا آپ کتنی جنگوں میں
آنحضرت ﷺ کے ساتھ شریک ہوئے؟ فرمایا: سترہ (۱۷) میں۔
میں نے عرض کیا پہلی جنگ کون سی تھی؟ فرمایا: ذات العسیراء یا فرمایا
ذات العسیراء۔

۱۵۲۷۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ
وَأَبُو دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ كُنْتُ إِلَى
جَنْبِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ فَقِيلَ لَهُ كَمْ غَزَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةٍ قَالَ تِسْعَ عَشْرَةَ فَقُلْتُ كَمْ
غَزَوْتَ أَتَتْ مَعَهُ قَالَ سَبْعَ عَشْرَةَ قُلْتُ مَا آيْتُهُنَّ كَانَ
أَوَّلُ قَالَ ذَاتُ الْعُسَيْرِ أَوْ الْعُسَيْرِ أَوْ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۰۹۷۔ جنگ میں صف بندی اور ترتیب کے متعلق

باب ۱۰۹۷۔ مَا جَاءَ فِي الصَّفِّ وَالتَّعْبِئَةِ عِنْدَ الْقِتَالِ

۱۵۲۸۔ حضرت عبد الرحمن بن عوفؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے

۱۵۲۸۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمِيدٍ الرَّازِيُّ ثَنَا سَلْمَةُ

بن الفضل عن محمد بن اسحاق عن عكرمة عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال عبانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ليلاً

غزوة بدر کے موقع پر ہمیں رات ہی سے مناسب مقامات پر کھڑا کر دیا تھا۔

اس باب میں ابویوب بھی حدیث نقل کرتے ہیں یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ امام بخاری سے میں نے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے اسے نہیں پہچانا۔ ان کا کہنا ہے کہ محمد بن اسحاق نے عکرمہ سے احادیث سنی ہیں۔ میں نے انہیں محمد بن حیدر رازی کو بہتر سمجھتے ہوئے دیکھا لیکن بعد میں وہ انہیں ضعیف کہنے لگے۔

باب ۱۰۹۸۔ جنگ کے وقت دعا کرنا

باب ۱۰۹۸۔ مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ الْقِتَالِ

۱۵۲۹۔ ابن ابی اوفی، آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے غزوة خندق کے موقع پر کفار کے لشکروں کے لیے بددعا کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے: اللهم..... الخ یعنی اے اللہ، کتاب کو اتارنے والے اور جلد حساب کرنے والے ان لشکروں کو شکست دے اور ان کے قدم اکھاڑ دے۔

۱۵۲۹۔ حدثنا احمد بن منيع ثنا يزيد بن هارون ثنا اسمعيل بن أبي خالد عن ابن أبي أوفى قال سمعته يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم احزمهم وزلزلهم

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں ابن مسعود بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۰۹۹۔ جھنڈوں کے متعلق

باب ۱۰۹۹۔ مَا جَاءَ فِي الْأَلْوِيَةِ

۱۵۳۰۔ حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب مکہ میں داخل ہوئے تھے تو آپ ﷺ کا جھنڈا سفید رنگ کا تھا۔

۱۵۳۰۔ حدثنا ابو كريب و محمد بن عمر بن الوليد الكندي و محمد بن رافع قالوا ثنا يحيى بن ادم عن شريك عن عمار هو الدهني عن ابي الزبير عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة ولواءه ابيض

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف یحییٰ بن آدم کی شریک سے منقول حدیث سے جانتے ہیں میں نے امام بخاری سے پوچھا تو انہوں نے بھی اسے اس سند سے نہیں جانا۔ کئی راوی شریک سے وہ عمار سے وہ ابو زبیر سے اور وہ جابرؓ سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں کہ جب آنحضرت ﷺ مکہ میں داخل ہوئے تو آپ ﷺ کے سرمبارک پر کالے رنگ کی پگڑی تھی۔ امام بخاری نے فرمایا: حدیث یہی ہے وہ بن قبیله بجیلہ کا ایک بطن ہے اور عمار وہنی، معاویہ وہنی کے بیٹے ہیں ان کی کنیت ابو معاویہ ہے اور یہ کوفہ کے رہنے والے ہیں۔ محدثین انہیں ثقہ کہتے ہیں۔

باب ۱۱۰۰۔ جھنڈوں کے متعلق (۱)

باب ۱۱۰۰۔ فِي الرَّايَاتِ

۱۵۳۱۔ محمد بن قاسم کے آزاد کردہ یونس بن عبید کہتے ہیں کہ مجھے محمد بن قاسم نے براء بن عازب کے پاس آنحضرت ﷺ کے جھنڈے کے متعلق پوچھنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے فرمایا: آنحضرت ﷺ کا جھنڈا

۱۵۳۱۔ حدثنا احمد بن منيع ثنا يحيى بن زكريا بن ابي زائدة ثنا ابو يعقوب الثقفي ثنا يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم قال بعثني محمد بن

(۱) رایہ لشکر کے جھنڈے کو کہتے ہیں یہ لواء سے بڑا ہوتا ہے۔ (مترجم)

الْقَاسِمِ إِلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَسْأَلَهُ عَنْ رَأْيِهِ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَأَنَّكَ سَوْدَاءٌ مُرْبَعَةٌ
مِنْ نَمْرَةٍ

اس باب میں علیؓ، حارث بن حسانؓ اور ابن عباسؓ سے بھی احادیث منقول ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف ابو زائدہ کی روایت سے جانتے ہیں۔ ابویوب ثقفی کا نام اسحاق بن موسیٰ ہے۔ ان سے عبید اللہ بن موسیٰ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔

۱۵۳۲۔ حدثنا محمد بن رافع ثنا يحيى بن اسحاق هو السالحي ثنا يزيد عن حيان قال سمعت ابا مخرمة لا حق بن حميد يحدث عن ابن عباس قال كانت راية النبي صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه ابيض

۱۵۳۲۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا بڑا جھنڈا کالا اور چھوٹا جھنڈا سفید تھا۔

یہ حدیث ابن عباسؓ کی روایت سے غریب ہے۔

باب ۱۱۰۱۔ شعار کے متعلق۔ (۱)

۱۵۳۳۔ مهلب بن صفره كسى ايسى شخص سے نقل کرتے ہیں کہ جس نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ: اگر رات کے وقت تم لوگوں پر حملہ کر دیا جائے تو تمہارا شعار یہ ہے۔ ”حم لا ينصرون“

۱۱۰۱۔ مَا جَاءَ فِي الشَّعَارِ

۱۵۳۳۔ حدثنا محمود بن غيلان ثنا وكيع ثنا سفيان عن أبي اسحق عن المهلب بن أبي صفرة عن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن يترككم العدو فقولوا حم لا ينصرون

اس باب میں سلمہ بن اکوعؓ بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ بعض راوی بھی ابویوب اسحاق سے یہ حدیث ثوری کی حدیث کے مثل بیان کرتے ہیں جب کہ اس طرح بھی روایت کی گئی ہے کہ مہلب بن ابی صفرہ، آنحضرت ﷺ سے مرسل نقل کرتے ہیں۔

۱۱۰۲۔ مَا جَاءَ فِي صَفَةِ سَيْفِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۱۱۰۲۔ آنحضرت ﷺ کی تلوار کی صفت

۱۵۳۴۔ حدثنا محمد بن شجاع البغدادي ثنا ابو عبيدة الحداد عن عثمان بن سعد عن ابن سيرين قال صنعت سيفي على سيف سمره وزعم سمره انه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حنفيًا

۱۵۳۴۔ حضرت ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے اپنی تلوار سمرہ کی تلوار جیسی بنائی تھی اور آپ ﷺ کی تلوار بنو حنیف کی تلواروں کی طرح کی تھی۔

یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ یحییٰ بن سعید قطان، عثمان بن سعد کاتب کو حافظے کی وجہ سے ضعیف قرار دیتے ہیں۔

(۱) شعار سے مراد وہ الفاظ جو ایک دوسرے کو جاننے کیلئے آپس میں بولے جاتے ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارا ہی آدمی ہے (مترجم)

باب ۱۱۰۳۔ فی الْفِطْرِ عِنْدَ الْقِتَالِ

۱۵۳۵۔ حدثنا احمد بن محمد بن موسى ثنا
عبدالله بن المبارك ثنا سعيد بن عبدالعزيز عطية بن
قيس عن فرعة عن ابي سعيد الخدري قال لما بلغ
النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح مر الظهران
فادتنا بلفاء العدو فامرنا بالفطر فافطرننا اجمعين
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۱۰۳۔ جنگ کے وقت افطار کرنا۔

۱۵۳۵۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر جب
رسول اللہ ﷺ مر ظہران کے قریب پہنچے تو ہمیں دشمن کے ساتھ جنگ کا
بتایا اور حکم دیا کہ ہم لوگ افطار کر لیں۔ چنانچہ ہم سب نے افطار کیا۔

باب ۱۱۰۴۔ ماجاء في الخروج عند الفزع

۱۵۳۶۔ حدثنا محمود بن غيلان ثنا ابو داود
الطيالسي ابانا شعبة عن قتادة ثنا انس بن مالك
قال ركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لابي
طلحة يقال له مندوب فقال ما كان من فزع وان
وجدناه لبحرا

باب ۱۱۰۴۔ گھبراہٹ کے وقت نکلنا۔

۱۵۳۶۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ابو طلحہ
کے گھوڑے پر سوار ہوئے جسے مندوب کہتے تھے۔ پھر فرمایا: اس
میں کوئی گھبراہٹ نہیں تھی۔ ہم نے اسے دریا کے پانی کی طرح
سبک رفتار پایا۔

اس باب میں عمرو بن عاص سے بھی حدیث منقول ہے۔ مذکورہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۵۳۷۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ مدینہ میں کچھ بے اطمینانی کی
کیفیت پیدا ہوئی تو آنحضرت ﷺ نے ہمارا گھوڑا استعارہ لیا۔ جسے
مندوب کہتے تھے پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ہم نے اسے دہشت زدہ
ہوتے نہیں دیکھا۔ بلکہ اسے دریا کی مانند تیز رفتار پایا۔

۱۵۳۷۔ حدثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن
جعفر و ابن ابي عدی و ابو داود قالوا ثنا شعبة عن
قتادة عن انس قال كان فزع بالمدينة فاستعار
رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لنا يقال له
مندوب فقال ما رأينا من فزع وان وجدناه لبحرا
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۱۰۵۔ جنگ کے وقت ثابت قدم رہنا

۱۵۳۸۔ حضرت براء بن عازب سے کسی شخص نے کہا: اے ابو عمار کیا تم
لوگ آنحضرت ﷺ کے پاس سے فرار ہو گئے تھے۔ انہوں نے فرمایا:
نہیں اللہ کی قسم صرف چند جلد باز لوگوں نے فرار کی راہ اختیار کی تھی
آنحضرت ﷺ نے نہیں۔ اور جن لوگوں نے فرار کی راہ اختیار کی تھی ان
سے ہوازن کے تیراندازوں نے مقابلہ کیا۔ آپ ﷺ اپنے خنجر پر سوار
تھے اور ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب اس کی لگام پکڑے ہوئے
تھے۔ آپ ﷺ یہ اعلان فرما رہے تھے میں نبی ہوں اس میں کوئی

باب ۱۱۰۵۔ فی الْإِسْتِقَامَةِ عِنْدَ الْقِتَالِ

۱۵۳۸۔ حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد
ثنا سفيان ثنا أبو اسحق عن البراء بن عازب قال له
رجل أقررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا
أبا عمارة قال لا والله ما ولي رسول الله صلى الله
عليه وسلم ولكن ولي سرعان الناس تلقتهم هوازن
بالنبل ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته
وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب أخذ

بِلِحَامِهَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

جھوٹ نہیں اور عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔

۱۵۳۹۔ حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي
ثني ابي عن سفیان بن حسين عن عبيدالله بن عمر
عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا يَوْمَ حُنَيْنٍ وَإِنَّ
الْفِئْتَيْنِ لَمَوْلِيَتَانِ وَمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مِائَةٌ رَجُلٍ

۱۵۳۹۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ ہم نے غزوہ حنین کے موقع پر اپنی
دونوں جماعتوں کو فرار کی راہ اختیار کرتے ہوئے دیکھا آپ ﷺ کے
ساتھ صرف سو (۱۰۰) آدمی باقی رہ گئے۔

اس باب میں علیؓ اور ابن عمرؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

توضیح: حضرت براء کے جواب کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ لشکر کے امیر تھے۔ جب آپ ﷺ فرار نہیں ہوئے تو چند جلد باز
لوگوں کے فرار ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ واللہ اعلم (مترجم)

۱۵۴۰۔ حدثنا قتيبة ثنا حماد بن زيد عن ثابت عن
أنس قال كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ
النَّاسِ وَأَجْوَدَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ قَالَ وَلَقَدْ فَرَعَ
أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَيْلَةَ سَمِعُوا صَوْتًا قَالَ فَتَلَفَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ عُرْيٍ وَهُوَ
مُتَقَلِّدٌ سَيْفَهُ فَقَالَ لَمْ تُرَاعُوا لَمْ تُرَاعُوا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثَهُ بَحْرًا يَعْنِي الْفَرَسَ

۱۵۴۰۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ بہترین انسان، سخی
ترین اور سب لوگوں سے زیادہ بہادر تھے۔ ایک رات اہل مدینہ نے
ایک آواز سنی تو خوف زدہ ہو گئے۔ آپ ﷺ ابو طلحہؓ کے گھوڑے پر تنگی
پیٹھ پر سوار ہوئے اور اپنی تلوار کو لڑکا کر لوگوں کو عدم خوف کی تلقین کرنے
لگے۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: میں نے اس گھوڑے کو سمندر کے پانی کی
طرح پایا۔

یہ حدیث عبد اللہ کی روایت سے حسن صحیح غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

باب ۱۱۰۶۔ مَا جَاءَ فِي السُّيُوفِ وَحَلِيَّتِهَا

باب ۱۱۰۶۔ تلواریں اور ان کی زینت

۱۵۴۱۔ حدثنا محمد بن صدران ابو جعفر
البصري ثنا طالب بن حجير عن هود وهو ابن
عبدالله بن سعد عن جده مزينة قال دخل رسول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى سَيْفِهِ
ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ قَالَ طَالِبٌ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفِضَّةِ فَقَالَ
كَانَتْ قَبِيْعَةُ السَّيْفِ فِضَّةً

۱۵۴۱۔ حضرت مزینہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فتح مکہ کے روز مکہ
داخل ہوئے تو آپ ﷺ کی تلوار پر سونا اور چاندی لگی ہوئی تھی۔ طالب
کہتے ہیں میں نے ان سے چاندی کے متعلق پوچھا تو فرمایا: تلوار کا قبضہ
چاندی کا تھا۔

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم ابھی قنادہ سے اور وہ انسؓ سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ بعض راوی قنادہ سے اور وہ سعید بن
ابو حسنؓ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی تلوار کی مٹھی چاندی سے بنی ہوئی تھی۔

باب ۱۱۰۷۔ زره کے متعلق

باب ۱۱۰۷۔ مَا جَاءَ فِي الدِّرْعِ

۱۵۴۲۔ حضرت زبیر بن عوام فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر آپ ﷺ کے جسم مبارک پر دو زبر ہیں تھیں۔ چنانچہ آپ ﷺ جب پتھر پر چڑھنے لگے تو نہ چڑھ سکے۔ پھر طلحہ کو بٹھایا اور اس طرح اس پتھر پر چڑھ کر سیدھے ہو گئے۔ پھر میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ طلحہ کے لیے اس عمل کی وجہ سے (شفاعت یا جنت) واجب ہوگی۔

۱۵۴۲۔ حدثنا ابو سعید الاشج ثنا یونس بن بکیر عن محمد بن اسحاق عن یحیی بن عباد بن عبد اللہ بن الزبیر عن ابیہ عن جدہ عبد اللہ بن الزبیر عن الزبیر بن العوام قال کان علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم درعان یوم أحد فنهض إلى الصخرة فلم يستطع فاقعد طلحة تحته فصعد النبي صلی اللہ علیہ وسلم حتی استوی علی الصخر فقال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم یقول أو جب طلحة

اس باب میں صفوان بن امیہ اور سائب بن یزید بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے اور ہم اسے صرف محمد بن اسحاق کی روایت سے جانتے ہیں۔

باب ۱۱۰۸۔ خود کے متعلق

۱۵۴۳۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ فتح مکہ کے لیے داخل ہوئے تو آپ ﷺ کے سر مبارک پر خود تھا (جسے ضرب وغیرہ سے بچنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے) آپ ﷺ سے کہا گیا کہ ابن نطل کعبہ کے پردوں میں لپٹا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا: اسے قتل کر دو۔

باب ۱۱۰۸۔ مَا جَاءَ فِي الْمَغْفَرِ

۱۵۴۳۔ حدثنا قتيبة ثنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال دخل النبي صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح وعلی رأسه المغفر فقبل له ابن خطيل متعلقًا بأستار الكعبة قال اقتلوه

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ہم اسے مالک کی زہری سے روایت کے علاوہ کسی بڑے محدث کی روایت سے نہیں جانتے۔

باب ۱۱۰۹۔ گھوڑوں کی فضیلت

۱۵۴۴۔ حضرت عروہ بارتی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک خیر بندھی ہوئی ہے۔ اور وہ اجر اور نعمت ہے۔

باب ۱۱۰۹۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْخَيْلِ

۱۵۴۴۔ حدثنا هناد ثنا عبث بن القاسم عن حصين عن الشعبي عن عروة البرقي قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الخیر معقود فی نواصي الخيل إلى يوم القيمة الأجر والمغنى

اس باب میں ابن عمر، ابو سعید، جریر، ابو ہریرہ، اسماء بنت یزید، مغیرہ بن شعبہ اور جابر سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور عروہ، ابو جہد بارتی کے بیٹے ہیں۔ انہیں عروہ بن جہد بھی کہتے ہیں۔ امام احمد کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جہاد قیامت تک باقی رہے گا۔

باب ۱۱۱۰۔ بہتر گھوڑوں کے متعلق

۱۵۴۵۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: گھوڑوں میں سے سرخ رنگ کے گھوڑوں میں برکت ہے۔

باب ۱۱۱۰۔ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْخَيْلِ

۱۵۴۵۔ حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري ثنا يزيد بن هارون ثنا شيبان هو ابن عبد الرحمن ثنا عن أبيه عن ابن عباس قال قال

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمِّنُ الْخَيْلَ
فِي الشُّقْرِ

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف شیبان کی روایت سے جانتے ہیں۔

۱۵۴۶۔ حضرت ابو قتادہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بہترین گھوڑے وہ ہیں جو سیاہ رنگ کے ہیں جن کی پیشانی اور ناک کے قریب تھوڑی سی سفیدی ہو اور پھر وہ گھوڑے جن کے دونوں ہاتھ، پیر اور پیشانی سفید ہوں سوائے دائیں ہاتھ کے اور پھر اگر کالے رنگ کے نہ ہوں تو اسی صورت کا کیت یعنی جس میں سیاہی اور سرخی ملی ہوئی ہو، یا اس کے ایال (گردن) کے نام اور دم سیاہ اور باقی سرخ ہو۔

۱۵۴۶۔ حدثنا احمد بن محمد ثنا عبد الله بن المبارك ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن ابي حبيب عن علي بن رباح عن ابي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الخيل الادمم الافرح الازنم ثم الافرح المحجل طلق اليمين فان لم يكن ادهم فكهيت على هذه

محمد بن بشار، وہب سے وہ اپنے والد سے وہ یحییٰ بن ایوب سے اور وہ یزید بن حبیب سے اسی کے ہم معنی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۱۱۱۱۔ گھوڑوں کی ناپسندیدہ قسم

باب ۱۱۱۱۔ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخَيْلِ

۱۵۴۷۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایسے گھوڑے کو پسند نہیں کرتے تھے جس کے دائیں ہاتھ اور بائیں پاؤں پر سفیدی ہو یا دائیں پاؤں اور بائیں ہاتھ پر سفیدی ہو۔

۱۵۴۷۔ حدثنا محمد بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا سفيان ثنا مسلم ابن عبد الرحمن عن ابي زرعة بن عمرو بن جرير عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كره الشكال في الخيل

یہ حدیث حسن صحیح ہے شعبہ یہ حدیث عبد اللہ سے وہ ابو زرعة سے اور وہ ابو ہریرہ سے اسی کے مثل حدیث نقل کرتے ہیں۔ ابو زرعة، عمرو بن جریر کے بیٹے ہیں اور ان کا نام ہرم ہے۔ محمد بن حمید رازی، جریر سے اور وہ عمارہ بن قحطاع سے نقل کرتے ہیں کہ ابراہیم نخعی نے مجھ سے کہا کہ جب تم مجھ سے حدیث بیان کرو تو ابو زرعة کی حدیث بیان کیا کرو کیونکہ ان کا حافظ اتا قوی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے ان سے ایک حدیث سنی اور پھر کئی برس کے بعد دوبارہ پوچھی تو انہوں نے حرف بحرف سنادی اس میں ایک حرف بھی نہیں چھوڑا۔

باب ۱۱۱۲۔ گھڑ دوڑ۔

باب ۱۱۱۲۔ مَا جَاءَ فِي الرَّهَانِ

۱۵۴۸۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مضمّر گھوڑوں کی حقیاء سے شمیۃ الوداع تک گھڑ دوڑ کروائی۔ جو تقریباً چھ میل کا فاصلہ ہے۔ اور غیر مضمّر گھوڑوں کے درمیان شمیۃ الوداع سے مسجد نبی زریق تک دوڑ کروائی یہ ایک میل کا فاصلہ ہے۔ میں بھی ان لوگوں میں شریک تھا چنانچہ میرا گھوڑا مجھے لے کر ایک دیوار پھلانگ گیا۔

۱۵۴۸۔ حدثنا محمد بن الوزير ثنا اسحاق بن يوسف الازرق عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجرى المضممر من الخيل من الحفياء الى نبيّة الوداع وبينهما ستة أميال وما لم يضممر من الخيل من نبيّة الوداع الى مسجد بني زريق وبينهما ميل وكنت فيمن أجرى فوثب بي فرسي جدارا

اس باب میں ابو ہریرہؓ، جابرؓ، انسؓ اور عائشہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث ثوری کی روایت سے حسن غریب ہے۔

۱۵۴۹۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: انعام کی شرط صرف تین چیزوں میں جائز ہے۔ تیر اندازی، گھڑ دوڑ اور اونٹوں کی دوڑ۔ (یعنی ان میں سے جو پہلے پہنچ جائے اس کو انعام دینا جائز ہے)۔

باب ۱۱۱۳۔ گھوڑی پر گدھا چھوڑنے کی کراہت

۱۵۴۹۔ حدثنا ابو کریب ثنا وکیع عن ابن ابی ذئب عن نافع بن ابی نافع عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا سبق الا فی نصل او حفر او حافر

باب ۱۱۱۳۔ ماجاء فی کراہیۃ ان تنزی الحمرة علی الخیل

۱۵۵۰۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ بندہ مامور تھے۔ آپ ﷺ نے ہمیں (اہل بیت کو) کسی چیز کے ساتھ مخصوص نہیں کیا۔ ہاں تین چیزوں کا ضرور حکم دیا ایک یہ کہ وضو اچھی طرح کریں دوسرے یہ کہ صدقہ نہ کھائیں اور تیسرے یہ کہ گھوڑی پر گدھا نہ چھوڑیں۔

۱۵۵۰۔ حدثنا ابو کریب ثنا اسمعیل بن ابراہیم ثنا موسی بن سالم ابو جہضم عن عبد اللہ بن عبد اللہ ابن عباس عن ابن عباس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبدا ما موراً ما اخصنا ذون الناس بشئ الا بثلث امرنا ان نسیغ الوضوء و ان لا ناکل الصدقة و ان لا ننزی حمرا علی فرس

اس باب میں علیؓ سے بھی حدیث منقول ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ثوری بھی جہضم سے وہ عبید اللہ بن عبد اللہ سے اور وہ ابن عباسؓ سے یہی حدیث نقل کرتے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں ثوری کی حدیث غیر محفوظ ہے۔ اس میں ثوری نے وہم کیا ہے صحیح حدیث وہی ہے جو اسماعیل بن علیا اور عبد الوارث بن سعید، ابو جہضم سے وہ عبید اللہ بن عبد اللہ بن عباسؓ سے اور وہ ابن عباسؓ سے نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۱۱۴۔ فقراء مسلمین سے دعائے خیر کرانا

باب ۱۱۱۴۔ ماجاء فی الاستفتاح بصعاليك المسلمین

۱۵۵۱۔ حضرت ابو درداءؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھے اپنے ضعیفوں میں تلاش کرو کیونکہ تم لوگوں کو رزق اور مدد و شفاء ہی کی وجہ سے ملتی ہے۔

۱۵۵۱۔ حدثنا احمد بن محمد ثنا ابن المبارک ثنا عبد الرحمن بن یزید بن جابر حدثنی زید بن ارطاة عن جابر بن نفیر عن ابی الدرداء قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ابغونی فی ضعیفائکم فانما ترزقون و تنصرون بضعفاؤکم یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۱۱۵۔ گھوڑوں کے گلے میں گھنٹیاں لگانا۔

باب ۱۱۱۵۔ ماجاء فی الاجراس علی الخیل

۱۵۵۲۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: فرشتے

۱۵۵۲۔ حدثنا قتیبة ثنا عبد العزیز بن محمد بن

(۱) اہل گھر کے سنی یہ بیان کیے گئے ہیں کہ پہلے گھوڑے کو خوب کھلا پنا کر طاق اور موٹا کر دیا جائے اور پھر اس کا کھانا بتدریج کم کیا جائے یہاں تک کہ وہ اصلی خوراک پر آجائے اور پھر اسے ایک بند باند رکھا جائے تاکہ پسینہ آئے۔ اس کے بعد وہ گھوڑا سبک رفتار ہو جاتا ہے۔ (مترجم)

ان رفقاء کے ساتھ نہیں ہوتے جن کے ساتھ کتابیا گھنٹی ہو۔

سهیل بن ابی صالح عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةَ رُقْفَةً فِيهَا كَلْبٌ وَلَا جَرَسٌ

اس باب میں عمر، عائشہ، ام حبیبہ اور ام سلمہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔

باب ۱۱۱۶۔ مَنْ يُسْتَعْمَلُ عَلَى الْحَرْبِ

باب ۱۱۱۶۔ جنگ کا امیر مقرر کرنا۔

۱۵۵۳۔ حدثنا عبد الله بن ابي زياد ثنا الاحوص

۱۵۵۳۔ حضرت براہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے دو اشکر بھیجے

بن جواب ابوالجواب عن يونس بن ابي اسحق

ایک کا امیر علی بن ابی طالب کو اور دوسرے کا خالد بن ولید کو مقرر کیا

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اور فرمایا: جب لڑائی ہو تو علی امیر ہوں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ

وَسَلَّمَ بَعَثَ جَيْشَيْنِ وَ أَمَرَ عَلَى أَحَدِ هِمَا عَلَى بَنِ

حضرت علی نے ایک قلعہ فتح کیا اور اس میں سے ایک باندی لے

أَبِي طَالِبٍ وَعَلَى الْآخَرِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَقَالَ إِذَا

لی۔ اس پر خالد نے میرے ہاتھ آنحضرت ﷺ کو خط بھیجا۔ جس

كَانَ الْقِتَالِ فَعَلِيٌّ قَالَ فَافْتَحَ عَلِيٌّ حِصْنًا فَأَخَذَ مِنْهُ

میں حضرت علی کے اس فعل کا تذکرہ کیا یعنی چغلی کی۔ جب میں

جَارِيَةً فَكَتَبَ مَعِيَ خَالِدٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

آنحضرت ﷺ کے پاس پہنچا تو آپ ﷺ نے خط پڑھا اور آپ ﷺ

وَسَلَّمَ يَشِي بِهِ فَقَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَرَأَ الْكِتَابَ

کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا پھر فرمایا: تم اس شخص میں کیا دیکھتے ہو جس

فَتَغَيَّرَ لَوْنُهُ ثُمَّ قَالَ مَا تَرَى فِي رَجُلٍ يُحِبُّ اللَّهَ

سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ اور رسول

وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قُلْتُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ

سے محبت کرتا ہے؟ میں نے عرض کیا میں اللہ اور اس کے رسول کے

غَضَبِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنَّمَا أَنَا رَسُولٌ فَسَكَتَ

غصے سے اللہ کی پناہ کا طلبگار ہوں میں صرف پیغمبر ہوں۔ اس پر

آپ ﷺ خاموش رہے۔

اس باب میں ابن عمر سے بھی حدیث منقول ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف احوص بن جواب کی روایت سے

جاتے ہیں اور ”یشی بہ“ کے معنی چغلی خوری کے ہیں۔

باب ۱۱۱۷۔ مَا جَاءَ فِي الْإِمَامِ

باب ۱۱۱۷۔ امام کے متعلق۔

۱۵۵۴۔ حدثنا قتيبة ثنا الليث عن نافع عن ابن

۱۵۵۴۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں

عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُتُّكُمْ

سے ہر ایک چرواہے کی مانند ہے اور ہر شخص اپنی رعیت کا مسئول ہے

رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى

چنانچہ لوگوں کا امیر اپنی رعیت کا چرواہا ہے اس سے اس کی رعیت کے

النَّاسِ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى

بارے میں پوچھا جائے گا مرد اپنے گھر کا چرواہا ہے وہ ان کا مسئول

النَّاسِ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى

ہے۔ عورت اپنے شوہر کے گھر میں اسے چرانے والی ہے وہ بھی مسئول

أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ

ہے اور اسی طرح غلام اپنے آقا کے مال کا چرواہا ہے وہ اس کا مسئول

بُعْلِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ

ہے۔ بے شک تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے اور ہر ایک سے اس کی

وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا كُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ

رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا۔

عَنْ رَعِيْتِهِ

اس باب میں ابو ہریرہؓ، انسؓ اور ابو موسیٰؓ سے بھی احادیث نقل کی گئی ہیں۔ حضرت ابن عمرؓ کی حدیث حسن صحیح ہے جب کہ ابو موسیٰؓ اور انسؓ کی احادیث غیر محفوظ ہیں۔ یہ حدیث ابراہیم بن بشار لومادی، سفیان سے وہ بریدہ سے وہ ابو بردہ سے وہ ابو موسیٰؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ مجھے یہ حدیث محمد بن ابراہیم بن بشار نے سنائی۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ کئی راوی سفیان سے اور وہ بریدہ بن ابو بردہ سے مرسل نقل کرتے ہیں۔ اور یہ زیادہ صحیح ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں: اسحاق بن ابراہیم، معاذ بن ہشام سے وہ اپنے والد سے وہ قتادہ سے وہ انسؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: اللہ تعالیٰ ہر چرواہے سے اس کے چرانے والی چیز کا حال پوچھے گا۔ امام بخاری کہتے ہیں یہ غیر محفوظ ہے۔ صحیح یہ ہے کہ معاذ بن ہشام اپنے والد سے وہ قتادہ سے اور وہ حسن سے مرسل نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۱۱۸۔ امام کی اطاعت

باب ۱۱۱۸۔ مَا جَاءَ فِي طَاعَةِ الْإِمَامِ

۱۰۵۵۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَوْسُفَ ثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي اسْحَقَ عَنِ الْعِزَّارِ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أُمِّ الْحُسَيْنِ الْأَحْمَسِيَّةِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَعَلَيْهِ بَرْدٌ قَدِ انْعَطَفَ بِهِ مِنْ تَحْتِ ابْطِهِ قَالَتْ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى عَضَلَةِ عَضُدِهِ تَرْتَجُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ أَمَرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبِشِيٌّ مُجَدِّعٌ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا مَا أَقَامَ لَكُمْ كِتَابَ اللَّهِ

۱۵۵۵۔ حضرت ام حنین احمیہ کہتی ہیں میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر آنحضرت ﷺ کا خطبہ سنا۔ آپ ﷺ اپنی چادر کو اپنی بغل کے نیچے سے لپیٹے ہوئے تھے۔ کہتی ہیں: میں رسول اللہ ﷺ کے بازو کے گوشت کو دیکھ رہی تھی جو پھڑک رہا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اے لوگو! اللہ سے ڈرو اور اگر کسی حبشی کو بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے جو اگرچہ کٹا ہی کیوں نہ ہو تم لوگوں پر اس کی بات سننا اور اطاعت کرنا واجب ہے بشرطیکہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق احکام جاری کرے۔

اس باب میں ابو ہریرہؓ اور عرابش بن ساریہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور کئی سندوں سے ام حنین سے منقول ہے۔

باب ۱۱۱۹۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔

باب ۱۱۱۹۔ مَا جَاءَ لِطَاعَةِ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

۱۵۵۶۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مسلمان شخص پر سننا اور ماننا واجب ہے خواہ وہ اسے پسند کرے یا ناپسند۔ بشرطیکہ اسے اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دیا جائے۔ اور اگر نافرمانی کا حکم دیا جائے تو نہ سننا واجب ہے اور نہ ہی اطاعت کرنا۔

۱۵۵۶۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ عَلَيْهِ وَلَا طَاعَةَ

اس باب میں علیؓ، عمران بن حصینؓ اور حکم بن عمروؓ کی بھی احادیث نقل کرتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۱۲۰۔ مَا جَاءَ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَ النَّبِيِّينَ

باب ۱۱۲۰۔ جانوروں کو لڑانا اور چہرہ داغنا۔

وَالْوَسْمُ فِي الْوَجْهِ

۱۵۵۷- حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے جانوروں کو لڑانے سے منع فرمایا۔

۱۵۵۷- حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ ثَنَا يَحْيَى ابْنِ آدَمَ عَنْ قُطَيْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ

محمد بن ثنی بھی عبدالرحمن بن مہدی سے وہ سفیان سے وہ اعمش سے وہ ابویحییٰ سے اور وہ مجاہد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے جانوروں کو لڑانے سے منع فرمایا۔ یہ زیادہ صحیح ہے۔ یہ حدیث شریک، اعمش سے وہ مجاہد سے وہ ابن عباس سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی طرح نقل کرتے ہیں اس باب میں طلحہ، جابر، ابوسعید اور عکراش بن ذویب سے بھی احادیث نقل کی گئی ہیں۔ ابو معاویہ بھی اعمش سے وہ مجاہد سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔

۱۵۵۸- حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے منہ پر داغنے اور مارنے سے منع فرمایا۔

۱۵۵۸- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا رُوحُ بْنُ جَرِيحٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ وَالضَّرْبِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۱۲۱- بلوغ کی حد اور مال غنیمت میں حصہ دینا۔

باب ۱۱۲۱- مَا جَاءَ فِي حَدِيثِ بُلُوغِ الرَّجُلِ وَمَتَى يُفْرَضُ لَهُ

۱۵۵۹- حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ مجھے چودہ برس کی عمر میں ایک لشکر میں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ ﷺ قبول نہیں کیا۔ پھر آئندہ سال بھی اسی طرح ایک لشکر میں پیش کیا گیا۔ اس وقت میں پندرہ سال کا تھا اس مرتبہ آپ ﷺ نے مجھے اجازت دے دی۔ نافع کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ حدیث عمر بن عبدالعزیز کو سنائی تو انہوں نے فرمایا: یہ چھوٹے اور بڑے کے درمیان حد فاصل ہے۔ پھر اپنے عمال کو لکھا کہ پندرہ سال کی عمر والوں کو مال غنیمت میں سے حصہ دیا جائے۔

۱۵۵۹- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيرِ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا اسْحَقُ بْنُ يَوْسُفَ عَنْ سَفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عَرَضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَيْشٍ وَنَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ فَلَمْ يَقْبَلْنِي ثُمَّ عَرَضْتُ عَلَيْهِ مِنْ قَابِلٍ فِي حَيْشٍ وَأَنَا ابْنُ حَمْسِ عَشْرَةَ فَقَبِلْنِي قَالَ نَافِعٌ فَحَدَّثْتُ بِهِذَا الْحَدِيثِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ حَدِّثْنَا بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ثُمَّ كَتَبَ أَنْ يُفْرَضَ لِمَنْ تَلَعَ الْحَمْسَ عَشْرَةَ

یہ حدیث ابن عمرؓ بھی سفیان بن عیینہ سے اور وہ سعید اللہ سے اسی کے ہم معنی نقل کرتے ہیں لیکن اس میں صرف اتنا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے فرمایا: یہ لڑنے والوں اور نہ لڑنے والوں کے درمیان حد ہے اور اسحاق بن یوسف کی حدیث سفیان ثوری کی حدیث سے حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۱۱۲۲- شہید کے قرض کے متعلق

باب ۱۱۲۲- مَا جَاءَ فِيْمَنْ يُسْتَشْهَدُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ

۱۵۶۰- حضرت ابوقادہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے درمیان

۱۵۶۰- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ

کھڑے ہوئے اور فرمایا: جہاد اور ایمان باللہ افضل ترین اعمال ہیں۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! اگر میں جہاد میں قتل ہو جاؤں تو کیا میری خطائیں معاف کر دی جائیں گی؟ فرمایا: ہاں اگر تم جہاد میں شہید ہو جاؤ اور تم صابر، ثواب کے طلبگار، آگے بڑھنے والے اور پیچھے نہ رہنے والے ہو تو پھر فرمایا: تم نے کیا کہا تھا؟ اس نے دوبارہ عرض کیا کہ اگر میں جہاد میں شہید ہو جاؤں تو کیا میرے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں بشرطیکہ تم صابر، ثواب کی نیت رکھنے والے یعنی خلوص دل رکھنے والے، آگے بڑھنے والے اور پیچھے ہٹنے والے نہ ہو۔ ہاں البتہ قرض معاف نہیں کیا جائے گا۔ جبرئیل نے مجھے یہ بات بتائی۔

ابن سعید عن عبد اللہ بن ابی قتادۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قام فیہم فذکر لہم ان الجہاد فی سبیل اللہ والایمان باللہ افضل الاعمال فقام رجل فقال یا رسول اللہ ارایت ان قتلت فی سبیل اللہ یکفر عنی خطایای فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم ان قتلت فی سبیل اللہ وانت صابر محتسب مقبل غیر مدبر ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف قلت قال ارایت ان قتلت فی سبیل اللہ یکفر عنی خطایای فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم وانت صابر محتسب مقبل غیر مدبر الا الدین فان جبرئیل قال لی ذلک

اس باب میں انس، محمد بن جحش اور ابو ہریرہؓ سے بھی احادیث نقل کی گئی ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور بعض راوی اسے سعید مقبری سے اور وہ ابو ہریرہؓ سے اسی طرح مرفوعاً نقل کرتے ہیں۔ یحییٰ بن سعید اور کئی راوی بھی سعید مقبری سے وہ عبداللہ بن ابی قتادہ سے، وہ اپنے والد سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ یہ سعید مقبری کی ابو ہریرہؓ سے منقول حدیث زیادہ صحیح ہے۔

باب ۱۱۲۳۔ شہداء کی تدفین۔

۱۵۶۱۔ حضرت ہشام بن عامرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے غزوہ احد میں لگنے والے زخموں کی شکایت کی گئی۔ آپ ﷺ نے حکم دیا کہ قبر کھودو اور اسے کشادہ کرو اور اچھی طرح صاف کرو پھر دو دو تین تین کو ایک قبر میں دفن کرو اور جسے قرآن زیادہ یاد ہو اسے آگے رکھو۔ راوی کہتے ہیں میرے والد بھی فوت ہو گئے تو انہیں دو آدمیوں کے آگے دفن کیا گیا۔

باب ۱۱۲۳۔ مَا جَاءَ فِي دَفْنِ الشُّهَدَاءِ

۱۵۶۱۔ حدثنا اذھر بن مروان البصری ثنا عبدالوارث بن سعید عن ایوب عن حمید بن ہلال عن ابی الدہماء عن ہشام بن عامر قال شکی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجراحات یوم احد فقال احفروا واوزعوا واحسنوا وادفنوا الاثین والثلاثة فی قبر واحد وقدموا اکثرهم قرانا فمات ابی فقدم بین یدی رجلین

اس باب میں خیاب، جابرؓ اور انسؓ بھی حدیثیں بیان کرتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور سفیان وغیرہ اسے ایوب سے وہ حمید بن ہلال سے وہ ہشام بن عامر سے اور وہ ابو ہریرہؓ سے نقل کرتے ہیں ان کا نام قرف بن ہمیس یا ہیس ہے۔

باب ۱۱۲۴۔ مشورے کے متعلق۔

باب ۱۱۲۴۔ مَا جَاءَ فِي الْمَشُورَةِ

۱۵۶۲۔ حضرت عبداللہؓ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب قیدیوں کو لایا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: تم لوگ ان قیدیوں کے متعلق کیا کہتے ہو۔ اور پھر طویل قصہ ذکر کرتے ہیں۔

۱۵۶۲۔ حدثنا ہناد ثنا ابو معاویة عن الاعمش عن عمر بن مرہ عن ابی عبیدۃ عن عبد اللہ قال لما کان یوم بدر وجئی بالاساری فقال رسول اللہ صلی

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَقُولُونَ فِي هَوْلَاءِ الْأَسَارَى
وَذَكَرَ قِصَّةَ طَوَيْلَةَ

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف حکم کی روایت سے جانتے ہیں، حجاج بن ارطاة بھی یہ حدیث حکم ہی سے نقل کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل ابن ابی لیل کی حدیث کو قابل احتجاج نہیں سمجھتے۔ امام بخاری ان کی توثیق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کی صحیح اور ستیم احادیث کے درمیان تفریق نہیں ہوتی اس لیے میں ان سے روایت نہیں کرتا۔ ابن ابی لیلیٰ فقیہ اور صدوق ہیں لیکن اسناد میں وہ ہم کر جاتے ہیں۔ نصر بن علی، عبداللہ بن داؤد سے اور وہ سفیان سے نقل کرتے ہیں کہ ہمارے فقہاء ابن ابی لیلیٰ اور عبداللہ بن شبرمہ ہیں

باب ۱۱۲۵۔ مَا جَاءَ لَا تَفَادَى جِيْفَةَ الْأَسِيرِ

۱۵۶۳۔ حدثنا محمود بن غيلان ثنا ابو احمد ثنا سفیان عن ابن ابی لیلی عن الحكم عن مِقْسَمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ أَرَادُوا أَنْ يَشْتَرُوا جَسَدَ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَبَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَهُمْ

باب ۱۱۲۶۔ مَا جَاءَ فِي الْفِرَارِ مِنَ الرَّحْفِ

۱۵۶۴۔ حدثنا ابن ابی عمر ثنا سفیان عن يزيد ابن ابی زياد عن عبدالرحمن بن ابی لیلی عن ابن عمر قَالَ فَبَعَثْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ فَحَاصَّ النَّاسُ حَيْضَةَ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَاخْتَبَأْنَا بِهَا وَقَلْنَا هَلَكْنَا ثُمَّ آتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَحْنُ الْفَرَارُونَ قَالَ بَلْ أَنْتُمْ الْعَاكِرُونَ وَأَنَا فِتْنَتُكُمْ

باب ۱۱۲۶۔ جہاد سے فرار ہونا۔

۱۵۶۳۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں ایک لشکر میں بھیجا لیکن ہم لوگ میدان جنگ میں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور جب مدینہ واپس آئے تو شرم کے مارے چھپتے پھرتے اور کہتے کہ ہم ہلاک ہو گئے۔ پھر ہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! ہم لوگ بھگوڑے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں بلکہ تم لوگ دوبارہ پلٹ کر حملہ کرنے والے ہو (یعنی اپنے سردار سے مدد لینے کے بعد) اور میں تم لوگوں کو مدد فراہم کرنے والا۔

یہ حدیث حسن ہے ہم اسے صرف یزید بن ابوزیاد کی روایت سے جانتے ہیں۔

۱۵۶۵۔ حدثنا محمود بن غيلان ثنا ابو داؤد ثنا شعبة عن الاسود بن قيس قال سمعت نبيحا العنزي يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ جَاءَتْ عَمَّتِي بِأَبِي لِتَدْفِنَهُ فِي مَقَابِرِنَا فَتَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُدُّوا الْقَتْلَى إِلَى مَضَاجِعِهَا

باب ۱۱۲۷۔ مَا جَاءَ فِي تَلْقَى الْعَائِبِ إِذَا قَدِمَ

۱۵۶۵۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن میری چھو بھئی میرے والد کو ہمارے قبرستان میں دفن کرنے کے لیے لائیں۔ چنانچہ ایک شخص نے آنحضرت ﷺ کی طرف سے اعلان کیا کہ مقتولوں کو ان کی مقل میں واپس لے جاؤ اور وہیں دفن کرو۔

باب ۱۱۲۷۔ سفر سے واپس آنے والے کا استقبال۔

۱۵۷۲۔ حدثنا محمود بن غيلان ثنا وكيع ثنا
سفيان عن أبي إسحاق عن البراء قال ما رأيت من
ذئ لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى
الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين
المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل

۱۵۷۲۔ حضرت براءؓ کہتے ہیں کہ میں نے کسی لمبے بالوں والے شخص کو
سرخ جوڑا پہنے ہوئے آنحضرت ﷺ سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا۔
آپ ﷺ کے بال مبارک شانوں تک تھے اور شانے چوڑے تھے اور
آپ ﷺ کا قد نہ چھوٹا تھا اور نہ لمبا۔

اس باب میں جابر بن سمرہ، ابورمہ اور ابو جحیفہ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۱۳۳۔ ماجاء في كراهية المعصفر للرجال
۱۵۷۳۔ حدثنا قتيبة ثنا مالك بن انس عن نافع عن
ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي قال
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس
القيسي والمعصفر

باب ۱۱۳۳۔ کسم کے رنگے ہوئے کپڑے کی مرد کے لیے کراہت
۱۵۷۳۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے کسم کے رنگے
ہوئے کپڑے اور ریشمی کپڑے پہننے سے منع فرمایا:

اس باب میں انس اور عبداللہ بن عمر بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت علیؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۱۳۴۔ ماجاء في لبس الفراء

۱۵۷۴۔ حدثنا اسمعيل بن موسى الفزاري ثنا
سيف بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي
عثمان عن سلمان قال سئل رسول الله صلى الله
عليه وسلم عن السمن والحبن والفراء فقال
الاحلال ما احل الله في كتابه والحرام ما حرم الله
في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه

باب ۱۱۳۴۔ پوستین پہننا۔ (۱)
۱۵۷۴۔ حضرت سلمانؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے گھی پتیر اور
پوستین کے متعلق پوچھا گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: حلال اور حرام وہی
ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال یا حرام کیا ہے اور جس سے
خاموشی اختیار کی گئی ہے وہ معاف ہے۔

اس باب میں مغیرہؓ سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں سفیان وغیرہ بھی تمیمی سے وہ
ابو عثمان سے اور وہ سلمان سے موقوف نقل کرتے ہیں یعنی انہی کا قول زیادہ صحیح ہے۔

باب ۱۱۳۵۔ ماجاء في جلود الميتة اذا دُبغت

۱۵۷۵۔ حدثنا قتيبة ثنا الليث عن يزيد بن ابى
حبيب عن عطاء بن ابى رباح قال سمعت ابن
عباس يقول ماتت شاة فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم لا هلهما الا نزعتم جلد هاتم دبغتموه
فاستمعتم به

باب ۱۱۳۵۔ وباغت کے بعد مردار جانور کی کھال کا حکم۔
۱۵۷۵۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بکری مر گئی
آنحضرت ﷺ نے بکری والوں سے کہا تم لوگوں نے اس کی کھال کیوں
نہ اتاری تاکہ وباغت کے بعد اسے کسی کام میں لے سکتے۔

(۱) پوستین کھال کے کوٹ کو کہتے ہیں۔ (مترجم)

اس باب میں سلمہ بن محییٰ میمونہ اور عائشہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابن عباسؓ سے کئی سندوں سے منقول ہے۔ اور پھر ابن عباسؓ، میمونہؓ کے واسطے سے بھی اور بلا واسطہ بھی نقل کرتے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ شاید ابن عباس نے دونوں طرح نقل کی ہو۔ اکثر اہل علم اسی پر عمل پیرا ہیں۔ سفیان ثوری، ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں۔

۱۵۷۶۔ حدثنا قتيبة ثنا سفیان بن عيينة و عبد العزيز ابن محمد عن زيد بن اسلم عن عبد الرحمن بن وعلّة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب ذُبغ فقد طهر

۱۵۷۶۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو چمڑا دباغت کیا گیا وہ پاک ہو گیا۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اکثر اہل علم اسی پر عمل کرتے ہیں کہ مردار جانوروں کی کھالیں دباغت کے بعد پاک ہو جاتی ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ کتے اور سور کے علاوہ تمام کھالیں دباغت سے پاک ہو جاتی ہیں۔ بعض علماء درندوں کی کھالوں کو مکروہ اور اسے پہننے میں تشدد کا مذہب اختیار کرتے ہیں۔ اسحاق بن ابراہیم کہتے ہیں کہ دباغت کے بعد کھالوں کے پاک ہوجانے سے حلال جانوروں کی کھال ہی مراد ہے۔ نصر بن شمیل بھی اس حدیث کی یہی تفسیر کرتے ہیں لیکن ابن مبارک، احمد، اسحاق اور حمیدی درندوں کی کھال پہن کر نماز پڑھنے کو مکروہ کہتے ہیں۔

۱۵۷۷۔ حدثنا محمد بن طريف الكوفي ثنا محمد بن فضيل عن الاعمش والشيباني عن الحكم عن عبد الرحمان بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال اتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا تتفغوا من الميتة باهاب ولا عصب

۱۵۷۷۔ حضرت عبد اللہ بن عکیمؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں لکھا کہ مردار کی کھال یا اس کے پٹھوں سے کوئی فائدہ حاصل نہ کیا جائے۔

یہ حدیث حسن ہے اور عبد اللہ بن عکیم سے کئی شیوخ کے واسطے سے منقول ہے۔ اکثر علماء اس حدیث پر عمل پیرا ہیں۔ یہ حدیث عبد اللہ بن عکیم سے اس طرح بھی منقول ہے کہ ہمیں آنحضرت ﷺ کی وفات سے دو ماہ قبل آپ ﷺ کا خط پہنچا..... الخ امام احمد اسی پر عمل کرتے ہوئے مردار جانوروں کی کھال کے استعمال کی ممانعت کرتے تھے اس لیے کہ اس میں مذکور ہے کہ آپ ﷺ نے یہ حکم وفات سے صرف دو ماہ پہلے دیا۔ لہذا یہ پہلے حکم کو منسوخ کر دیتا ہے۔ لیکن بعد میں انہوں نے اس حدیث میں اضطراب کی وجہ سے اسے ترک کر دیا۔ بعض راوی اسے عبد اللہ بن عکیم سے اور وہ جہینہ کے شیوخ سے روایت کرتے ہیں۔

باب ۱۱۳۶۔ کپڑاٹخنوں سے نیچا رکھنے کی ممانعت۔

باب ۱۱۳۶۔ فی کراهية جرا الإزار

۱۵۷۸۔ حدثنا الانصاري ثنا معن ثنا مالك ح وثنا قتيبة عن مالك عن نافع و عبد الله بن دينار و زيد بن اسلم كلهم يخبر عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء

۱۵۷۸۔ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اس شخص کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں جو اپنے تہبند (یا شلوار وغیرہ) کو تکبیر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔

۱۵۷۸۔ حدثنا الانصاري ثنا معن ثنا مالك ح وثنا قتيبة عن مالك عن نافع و عبد الله بن دينار و زيد بن اسلم كلهم يخبر عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء

اس باب میں حدیث ابو سعید، ابو ہریرہ، سمرہ، ابو ذر، عائشہ اور وہیب بن مغفل سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۱۳۷۔ مَا جَاءَ فِي ذُبُولِ النِّسَاءِ

باب ۱۱۳۷۔ عورتوں کے دامن کی لمبائی

۱۵۷۹۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءَ بِذُبُولِهِنَّ قَالَ يُرْحِنَنَّ شَبْرًا فَقَالَتْ إِذَا تَنَكَّشْتُ أَقْدَا مُهْنٌ قَالَ فَيَرَّ حَيْنَةً فِرَاعًا لَا يَرُدُّنَّ عَلَيْهِ

۱۵۷۹۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے اپنا تہبند وغیرہ تکبر کرتے ہوئے ٹخنوں سے نیچے رکھا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر بھی نہیں کریں گے۔ ام سلمہ نے عرض کیا: عورتیں اپنے کپڑوں کا کیا کریں؟ فرمایا: وہ ایک بالشت لٹکا کر رکھیں۔ انہوں نے عرض کیا: اس صورت میں بھی اس کے پاؤں منکشف ہونے کا احتمال ہے چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا تو پھر ایک ہاتھ تک لٹکا سکتی ہیں اس سے زیادہ نہیں۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس میں عورتوں کو کپڑے لٹکانے کی اجازت ہے کیونکہ اس میں زیادہ پردہ ہے۔

۱۵۸۰۔ حَدَّثَنَا اسحاق بن منصور ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أم الحسن أنّ أم سلمة حَدَّثَتْهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبْرًا لِفَاطِمَةَ شَبْرًا مِنْ نَطَاقِهَا

۱۵۸۰۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فاطمہ کے لیے ایک بالشت نطاق انداز آئیایا۔

بعض راوی یہ حدیث حماد بن سلمہ سے وہ علی بن زید سے وہ حسن سے وہ اپنی والدہ سے اور وہ ام سلمہ سے نقل کرتی ہیں۔

باب ۱۱۳۸۔ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الصُّوفِ

باب ۱۱۳۸۔ اون کے کپڑے پہننا

۱۵۸۱۔ حَدَّثَنَا احمد بن منيع ثنا اسمعيل بن ابراهيم ثنا ايوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قَالَ أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ كِسَاءً مَلْبَدًا أَوْ إِزَارًا غَلِيظًا فَقَالَتْ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَيْنِ

۱۵۸۱۔ حضرت ابو بردہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے ہمیں ایک صوف کی موٹی چادر اور ایک موٹے کپڑے کا تہبند دکھایا اور فرمایا: کہ رسول اکرم ﷺ نے انہی دو کپڑوں میں وفات پائی۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں علی اور ابن مسعود سے بھی احادیث منقول ہیں۔

۱۵۸۲۔ حَدَّثَنَا علي بن حجر ثنا خلف بن خليفة عن حميد الاعرج عن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ مُوسَى يَوْمَ كَلَّمَهُ رَبُّهُ كِسَاءً صُوفٍ وَجُبَّةً صُوفٍ وَكُمَّةً صُوفٍ وَسَرَاوِيلَ صُوفٍ وَكَانَتْ

۱۵۸۲۔ حضرت ابن مسعود آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو شرفِ تکلم عطا کیا اس روزان کے جسم پر ایک اون کی چادر، ایک اون کا جبہ اور اسی کی شلوار تھی۔ اور ان کے پاؤں کی جوتیاں مردہ گدھے کی کھال سے بنی ہوئی تھیں۔

نَعْلَاهُ مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ مَيِّتٍ

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف حمید اعرج کی روایت سے جانتے ہیں یہ علی اعرج کے بیٹے اور منکر الحدیث ہیں جب کہ حمید بن قیس اعرج کی جو مجاہد کے ساتھی ہیں ثقہ ہیں۔ ”الکلمہ“ چھوٹی ٹوپی کو کہتے ہیں۔

باب ۱۱۳۹۔ سیاہ عمامہ۔

باب ۱۱۳۹۔ مَا جَاءَ فِي الْعِمَامَةِ السُّودَاءِ

۱۵۸۳۔ حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ فتح مکہ کے موقع پر

۱۵۸۳۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

مکہ میں داخل ہوئے تو آپ ﷺ سیاہ عمامہ لگائے ہوئے تھے۔

مَهْدِي عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلْمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ

قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ

الْفَتْحِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ

اس باب میں عمرو بن حریش، ابن عباسؓ اور رکانہ بھی احادیث نقل کرتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۵۸۴۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب عمامہ

۱۵۸۴۔ حَدَّثَنَا هَارُونَ بْنُ اسْحَقَ الْهَمْدَانِيُّ ثَنَا

باندھتے تو عمامے کے شلے کو دونوں کندھوں کے درمیان لٹکایا کرتے

يُحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدِينِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ

تھے۔ نافع کہتے ہیں میں نے ابن عمرؓ کو بھی اسی طرح کرتے ہوئے

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ

دیکھا اور عبید اللہ کا کہنا ہے کہ میں نے قاسم اور سالم کو بھی اسی طرح

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اعْتَمَّ سَدَلَ عِمَامَتَهُ

کرتے ہوئے دیکھا۔

بَيْنَ كَتِفَيْهِ قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْدُلُ عِمَامَتَهُ

بَيْنَ كَتِفَيْهِ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَرَأَيْتُ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا

يَفْعَلَانِ ذَلِكَ

اس باب میں علیؓ سے بھی حدیث منقول ہے لیکن یہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں۔

باب ۱۱۴۰۔ سونے کی انگوٹھی کی ممانعت

باب ۱۱۴۰۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ خَاتَمِ الذَّهَبِ

۱۵۸۵۔ حضرت علی بن ابی طالبؓ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ ﷺ

۱۵۸۵۔ حَدَّثَنَا سَلْمَةُ بْنُ شَيْبَةَ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ

نے سونے کی انگوٹھی، ریشم کے کپڑے پہننے، کسم کے رنگے ہوئے

الْخِلَالَ وَغَيْرِ وَاحِدٍ قَالُوا ثَنَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ ثَنَا مَعْمَرُ

کپڑے پہننے اور رکوع و سجود میں قرآن کی تلاوت کرنے سے منع فرمایا۔

عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ حُنَيْنٍ عَنْ

أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّخْتُمِ بِالذَّمْبِ وَعَنِ

لِبَاسِ الْقَيْسِيِّ وَعَنِ الْفِرَاءِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

وَعَنِ لُبْسِ الْمُعْصَفْرِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۵۸۶۔ حضرت عمران بن حصینؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے

۱۵۸۶۔ حَدَّثَنَا يَوْسُفُ بْنُ حَمَادٍ الْمَعْنِيُّ الْبَصْرِيُّ ثَنَا

سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔

عبدالوارث بن سعید عن ابن التياح ثنا حفص الليثي
قَالَ أَشْهَدُ عَلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّخْتُمِ بِالذَّهَبِ

اس باب میں علی، ابن عمر، ابو ہریرہ اور معاویہ بھی احادیث نقل کرتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابو التیاح کا نام یزید بن حمید ہے۔

باب ۱۱۴۱۔ چاندی کی انگوٹھی

باب ۱۱۴۱۔ مَا جَاءَ فِي خَاتَمِ الْفِضَّةِ

۱۵۸۷۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی انگوٹھی چاندی

۱۵۸۷۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

کی اور اس میں حبشی نگینہ جڑا ہوا تھا۔

وَهَبَ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ
خَاتَمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَرِقٍ
وَكَانَ فِضَّةً حَبَشِيًّا

یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے اور اس باب میں ابن عمر اور بریدہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔

باب ۱۱۴۲۔ چاندی کا نگینہ

باب ۱۱۴۲۔ مَا جَاءَ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ قِصْرِ الْخَاتَمِ

۱۵۸۸۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی انگوٹھی چاندی کی

۱۵۸۸۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ

تھی اور اس کا نگینہ بھی چاندی ہی کا تھا۔

عَمْرٍو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الطَّنَافِسي ثَنَا زُهَيْرُ أَبُو حَيْثَمَةَ عَنْ
حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ خَاتَمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِضَّةٍ فَضَّةً مِنْهُ

یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۱۱۴۳۔ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا

باب ۱۱۴۳۔ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْخَاتَمِ فِي الْيَمِينِ

۱۵۸۹۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے سونے کی

۱۵۸۹۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمُحَارِبِ ثَنَا

انگوٹھی بٹوا کر دائیں ہاتھ میں پہنی اور پھر منبر پر تشریف فرما ہونے کے

عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ

بعد فرمایا: میں نے یہ انگوٹھی اپنے داہنے ہاتھ میں پہنی تھی پھر آپ ﷺ نے

نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اسے پھینک دیا۔ لہذا لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں پھینک دیں۔

صَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَتَخَتَّمَتْ بِهِ فِي يَمِينِهِ ثُمَّ

جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ اتَّخَذْتُ هَذَا

الْخَاتَمَ فِي يَمِينِي ثُمَّ نَبَذَهُ وَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِمَهُمْ

اس باب میں علی، جابر، عبداللہ بن جعفر، ابن عباس، عائشہ اور انس سے بھی احادیث منقول ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور نافع سے

بواسطہ ابن عمر بھی اسی سند سے اسی طرح نقل کی گئی ہے لیکن اس میں داہنے ہاتھ میں پہننے کا ذکر نہیں۔

۱۵۹۰۔ حضرت صلت بن عبداللہ بن نوفل فرماتے ہیں کہ میں نے ابن

۱۵۹۰۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمِيدٍ الرِّزَّاءِ ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ

عباس کو داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنے ہوئے دیکھا میرے خیال میں انہوں

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الصَّلْتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُوْفَلٍ قَالَ

نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنے

رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ وَلَا إِحْوَالَهُ إِلَّا قَالَ رَأَيْتُ

ہوئے دیکھا ہے۔

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخْتَمُ فِي يَمِينِهِ

امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۵۹۱۔ حضرت جعفر بن محمد اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حسنؓ اور حسینؓ اپنے بائیں ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہنا کرتے تھے۔

۱۵۹۱۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَتَخْتَمَانِ فِي يَسَارِهِمَا
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۵۹۲۔ حضرت حماد بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن ابی رافع کو دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنے ہوئے دیکھا تو ان سے پوچھا۔ انہوں نے فرمایا: میں نے عبداللہ بن جعفرؓ کو دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے کے بعد یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ ﷺ اپنے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔

۱۵۹۲۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ بَنَ أَبِي رَافِعٍ يَتَخْتَمُ فِي يَمِينِهِ فَسَأَلْتُهُ قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ يَتَخْتَمُ فِي يَمِينِهِ وَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخْتَمُ فِي يَمِينِهِ

امام بخاری کہتے ہیں: یہ حدیث اس باب میں سب سے زیادہ صحیح ہے۔

باب ۱۱۴۴۔ انگوٹھی پر کچھ نقش کرانا

باب ۱۱۴۴۔ مَا جَاءَ فِي نَقْشِ الْخَاتَمِ

۱۵۹۳۔ حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی انگوٹھی پر تین سطریں نقش تھیں ایک میں ”محمد“ دوسری میں ”رسول“ اور تیسری میں ”اللہ“ لکھا ہوا تھا۔ محمد بن یحییٰ یہ حدیث نقل کرتے ہوئے تین سطروں کے الفاظ ذکر نہیں کرتے۔

۱۵۹۳۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ ثَنَىٰ أَبِي عَنْ ثَمَامَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ مُحَمَّدٌ سَطْرٌ وَرَسُولٌ سَطْرٌ وَاللَّهُ سَطْرٌ وَكَمْ يَقُلُ مُحَمَّدٌ يَحْيَىٰ فِي حَدِيثِهِ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ

اس باب میں ابن عمرؓ سے بھی حدیث منقول ہے۔ حضرت انسؓ کی حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

۱۵۹۴۔ حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ایک چاندی کی انگوٹھی بنوا کر اس میں ”محمد رسول اللہ“ کے الفاظ کندہ کرائے اور فرمایا: کوئی شخص اپنی انگوٹھی پر یہ الفاظ نقش نہ کرائے۔

۱۵۹۴۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ ثَنَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ ثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ خَاتَمًا مِنْ وَرَقٍ فَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ لَا تَنْقُشُوا عَلَيْهِ
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۵۹۵۔ حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب بیت الخلاء جاتے تو اپنی انگوٹھی اتار دیا کرتے تھے۔

۱۵۹۵۔ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ وَالْحِجَّاجُ بْنُ مَنْهَالٍ قَالَا ثَنَا هَمَامُ عَنْ بَنِ جَرِيحٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْحَلَاءَ نَزَعَ خَاتَمَهُ

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۱۱۴۵۔ مَا جَاءَ فِي الصُّورَةِ

باب ۱۱۳۵۔ تصویر کے متعلق

۱۵۹۶۔ حدثنا احمد بن منيع ثنا روح بن عباد ثنا

ابن جريج ثنا أبو الزبير عن جابر قال نهى رسول الله

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصُّورَةِ فِي الْبَيْتِ

وَنَهَى أَنْ يُصْنَعَ ذَلِكَ

اس باب میں علیؑ، ابوطلمح، عائشہؓ، ابو ہریرہؓ اور ابو ایوبؓ سے بھی احادیث منقول ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۵۹۷۔ حضرت عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ کہتے ہیں کہ وہ ابوطلمح

النصارى کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے تو ان کے پاس سہل بن حنیفؓ

بھی موجود تھے۔ پھر ابوطلمح نے ایک شخص کو بلایا اور کہا کہ میرے نیچے

سے چادر نکال لو۔ سہل نے پوچھا: کیوں؟ فرمایا: اس لیے کہ اس میں

تصویریں ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کے متعلق

کیا فرمایا ہے۔ سہل نے کہا: کیا آپ ﷺ نے یہ نہیں فرمایا: کہ جو کپڑے

میں تم ہوں ان کی اجازت ہے ابوطلمح نے فرمایا: ہاں صحیح ہے لیکن

میرے نزدیک یہ زیادہ بہتر ہے کہ عزیمت پر عمل کروں اور اجازت کو

ترک کروں۔

۱۵۹۷۔ حدثنا اسحق بن موسى الانصاري ثنا

معن ثنا مالك عن أبي النضر عن عبید اللہ بن

عبد اللہ بن عتبہ انه دخل على ابي طلحة الانصاري

يعودته فوجد عنده سهل ابن حنيف قال فدعى

ابو طلحة انسانا ينزع نمطا تحته فقال له سهل لم

تنزعها قال لان فيها تصاوير وقال فيه النبي صلى الله

عليه وسلم ما قد علمت قال سهل اولم يقل الا

ما كان رقما في ثوب قال بلى ولكنك اطيب لنفسى

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۱۴۶۔ مَا جَاءَ فِي الْمَصُورِينَ

باب ۱۱۳۶۔ مصوروں کے متعلق

۱۵۹۸۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص

تصویر بنائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اس وقت تک عذاب

میں مبتلا رکھیں گے جب تک وہ اس میں روح نہیں ڈالے گا اور وہ اس

میں کبھی روح نہیں ڈال سکے گا۔ اور جو شخص کسی قوم کی باتیں چھپ

کرنے کا اور وہ لوگ اسے پسند نہ کرتے ہوں گے تو قیامت کے دن

اس کے کان میں گھسلا ہو اور سیرہ ڈالا جائے گا

اس باب میں عبد اللہ بن مسعودؓ، ابو ہریرہؓ، ابو جحیفہؓ، عائشہؓ اور ابن عمرؓ سے بھی احادیث منقول ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۱۳۷۔ خضاب کے متعلق

باب ۱۱۴۷۔ مَا جَاءَ فِي الْخِضَابِ

۱۵۹۹۔ حدثنا قتيبة ثنا ابو عوانة عن عمر بن ابي سلمة عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود

۱۵۹۹۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بڑھاپے کی صورت تبدیل کر دو (یعنی خضاب لگا کر سفید بالوں کی سفیدی کو تم کر دو) اور یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو۔

اس باب میں زبیر، ابن عباس، جابر، ابو ذر، انس، ابو مرثد، جہدہ، ابو طفیل، جابر بن سمرہ، ابو حنیفہ اور ابن عمر سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابو ہریرہ ہی سے کئی سندوں سے مرفوعاً منقول ہے۔

۱۶۰۰۔ حدثنا سويد بن نصر ثنا ابن المبارك عن الاجلح عن عبد الله بن بريدة عن ابي الاسود عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احسن ما غير به الشيب الجناء والكنه

۱۶۰۰۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بڑھاپے میں تبدیل کرنے کی بہترین چیز مہندی اور تیل کے پتے ہیں۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابو اسود دلی کا نام ظالم بن عمرو بن سفیان ہے۔

باب ۱۱۴۸۔ لے بال رکھنا۔

باب ۱۱۴۸۔ مَا جَاءَ فِي الْجُمَّةِ وَاتِّخَاذِ الشَّعْرِ

۱۶۰۱۔ حدثنا حميد بن مسعدة ثنا عبد الوهاب عن حميد عن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالظويين ولا بالقصير حسن الجسم اسمر اللون وكان شعره ليس بجعد ولا سبط اذا مشى يتكفأ

۱۶۰۱۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ درمیانے قد کے تھے زیادہ لمبے اور نہ کوتاہ قد سڈول جسم اور گندنی رنگت سے متصف تھے۔ آپ ﷺ کے بال نہ گھٹھکھریا تھے اور نہ سیدھے یعنی درمیانے تھے اور جب آپ ﷺ چلتے تو گویا کہ بلندی سے پستی کی طرف اتر رہے ہیں۔

اس باب میں عائشہ، براء، ابو ہریرہ، ابن عباس، ابو سعید، وائل بن حجر، جابر اور ام ہانی سے بھی احادیث منقول ہیں۔ حضرت انس کی حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔

۱۶۰۲۔ حدثنا هناد ثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واجيد وكان له شعر فوق الجمة وذون الوفرة

۱۶۰۲۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ ﷺ ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے آپ ﷺ کے بال مبارک کندھوں سے اوپر اور کانوں کے نو سے نیچے تک تھے۔

یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔ حضرت عائشہ سے کئی سندوں سے منقول ہے کہ میں اور آنحضرت ﷺ ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے لیکن ان حدیثوں میں بالوں کے متعلق یہ الفاظ مذکور نہیں ہیں۔ یہ الفاظ صرف عبدالرحمن بن ابی الزناد سے نقل کیے ہیں اور یہ ثقہ، حافظ ہیں۔

باب ۱۱۴۹۔ روزانہ کنگھی کرنے کی ممانعت

باب ۱۱۴۹۔ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّرْجُلِ الْاَغْبَا

۱۶۰۳۔ حدثنا علي بن حشرم ثنا عيسى بن يونس عن هشام عن الحسن بن عبد الله بن مغفل قال نهى

۱۶۰۳۔ حضرت عبداللہ بن مغفل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے روزانہ کنگھی کرنے سے منع فرمایا ہے۔

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ إِلَّا غَبَا

محمد بن بشر بھی یحییٰ بن سعید سے اور وہ ہشام سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں انس سے بھی حدیث منقول ہے۔

باب ۱۱۵۰۔ سرمہ لگانا

باب ۱۱۵۰۔ مَا جَاءَ فِي الْإِكْتِحَالِ

۱۶۰۴۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اشم (۱) کا سرمہ لگایا کرو اس سے بینائی تیز اور بال اگتے ہیں۔ مزید فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے پاس ایک سرمہ دانی تھی اور آپ ﷺ ہر رات اس سے سرمہ لگایا کرتے تھے۔ تین سلایاں ایک آنکھ میں اور تین دوسری آنکھ میں۔

۱۶۰۴۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمِيدٍ ثَنَا ابُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ عِبَادِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَكْنَحِلُوا بِالْإِيمِدِ فَإِنَّهُ يَجْلُوا الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَهُ مَكْحَلَةٌ يَكْنَحِلُ بِهَا كُلَّ لَيْلَةٍ ثَلَاثَةَ فِي هَذِهِ وَثَلَاثَةَ فِي هَذِهِ

علی بن حجر اور محمد بن یحییٰ بھی یزید بن ہارون سے اور وہ عباد بن منصور سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں اس باب میں جابر اور ابن عمر سے بھی احادیث منقول ہیں یہ حدیث حسن ہے ہم اسے اس لفظ سے صرف عباد بن منصور کی روایت سے جانتے ہیں اس کے علاوہ بھی کئی سندوں سے آنحضرت ﷺ سے منقول ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: تم لوگ ضرور اشم کا سرمہ استعمال کیا کرو اس سے بینائی تیز ہوتی ہے اور پلکوں کے بال اگتے ہیں۔

باب ۱۱۵۱۔ صماء اور ایک کپڑے میں احتیاء کی ممانعت

باب ۱۱۵۱۔ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ اسْتِعْمَالِ الصَّمَاءِ

وَالِإِحْتِيَاءِ بِالثُّوبِ الْوَاحِدِ

۱۶۰۵۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے دو لباسوں سے منع فرمایا۔ ایک صماء (یعنی ایک چادر لے کر اسے کندھوں پر ڈالا جائے اور پھر دائیں کونے کو بائیں کندھے اور بائیں کونے کو دائیں کندھے پر ڈال دیا جائے اور دونوں ہاتھ بھی اسی میں لپٹے ہوئے ہوں) اور دوسرے یہ کہ کوئی اکڑوں ہو کر اپنے کولہوں پر بیٹھے اور ایک ہی کپڑے کو گھٹنوں اور کمر پر لپیٹ لے بشرطیکہ اس کے ستر پر کوئی اور کپڑا نہ ہو۔

۱۶۰۵۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَهِيلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسَتَيْنِ الصَّمَاءِ وَ أَنَّ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ بِثَوْبِهِ لَيْسَ عَلَيْهِ قَرَجٌ مِنْهُ شَيْءٌ

باب ۱۱۵۲۔ مصنوعی بال جوڑنا

باب ۱۱۵۲۔ مَا جَاءَ فِي مُوَاصَلَةِ الشَّعْرِ

۱۶۰۶۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے بالوں کے ساتھ دوسرے بال لگانے والی، لگوانے والی اور گودنے یا گروانے والی سب پر لعنت بھیجی ہے۔ نافع کہتے ہیں کہ گدوانا لاش میں ہوتا ہے۔

۱۶۰۶۔ حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ ثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ قَالَ نَافِعٌ

(۱) اشم: ایک سرمے کا نام ہے جو صرف مکہ میں پایا جاتا ہے۔ (مترجم)

الْوَشْمُ فِي اللَّيْلَةِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے اس باب میں ابن مسعود، عائشہ، اسماء بنت ابی بکر، معقل بن یسار، ابن عباس اور معاویہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔

باب ۱۱۵۳۔ ریشی زین پوشی کی ممانعت

باب ۱۱۵۳۔ مَا جَاءَ فِي رُكُوبِ الْمَيَاتِرِ

۱۶۰۷۔ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے

۱۶۰۷۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَسْهَرٍ ثَنَا

(ریشی) زین پوشی پر سوار ہونے سے منع فرمایا۔ (۱)

ابو اسحق الشيباني عن اشعث بن ابي الشعثاء عن معاوية

بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب قال نهى

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رُكُوبِ الْمَيَاتِرِ

اس باب میں علی اور معاویہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ شعبہ بھی اشعث بن ابی شعشاء سے اسی طرح کی

حدیث نقل کرتے ہیں۔ اس حدیث میں ایک قصہ بھی ہے۔

باب ۱۱۵۴۔ آنحضرت ﷺ کا بستر مبارک

باب ۱۱۵۴۔ مَا جَاءَ فِي فِرَاشِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۱۶۰۸۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ جس بستر پر سویا

۱۶۰۸۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَسْهَرٍ

کرتے تھے وہ چمڑے کا تھا اور اس میں کھجور کے درخت کی چھال بھری

عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت إنما

ہوئی تھی۔

كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي

يَنَامُ عَلَيْهِ آدَمُ حَشْوُهُ لَيْفٌ

یہ حدیث حسن صحیح ہے اس باب میں حفصہ اور جابر سے بھی حدیث منقول ہے۔

باب ۱۱۵۵۔ آنحضرت ﷺ کی قمیص کے متعلق

باب ۱۱۵۵۔ مَا جَاءَ فِي الْقَمِيصِ

۱۶۰۹۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ کو لباسوں میں سے

۱۶۰۹۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمِيدٍ الرَّازِيُّ ثَنَا

قمیص سب سے زیادہ پسند تھی۔

ابو تميلة والفضل بن موسى وزيد بن حباب عن

عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم

سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَمِيصُ

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف عبد المؤمن بن خالد کی روایت سے جانتے ہیں وہ اسے نقل کرنے میں منفرد ہیں اور وہ

مروزی ہیں۔ جب کہ بعض حضرات اسے ابو تمیلہ سے وہ عبد المؤمن بن خالد سے وہ عبد اللہ بن بریدہ سے وہ اپنی والدہ سے اور وہ ام سلمہ

سے نقل کرتی ہیں (کہ آنحضرت ﷺ کرتے/قمیص) کو تمام لباسوں سے زیادہ پسند کرتے تھے) پھر علی بن حجر بھی فضل بن موسیٰ سے وہ

عبد المؤمن بن خالد سے وہ عبد اللہ بن بریدہ سے اور وہ ام سلمہ سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتی ہیں علی بن نصر بن علی الجعفی بھی

عبد الصمد سے وہ عبد الوارث سے وہ شعبہ سے وہ عمش سے وہ ابو صالح سے اور وہ ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ جب گرتا پینتے

تو دائی طرف سے شروع کرتے۔ کئی راوی یہ حدیث شعبہ سے اسی سند سے غیر مرفوع نقل کرتے ہیں جبکہ عبد الصمد کی حدیث مرفوع ہے۔

(۱) زین پوشی: اس کپڑے کو کہتے ہیں جو زین کے اوپر ڈالا جاتا ہے۔ (مترجم)

۱۶۱۰۔ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ كَانَ كُمْ يَدْرُسُونَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الرَّسْعِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۱۵۶۔ مَا يَقُولُ إِذَا لَبَسَ ثَوْبًا جَدِيدًا

۱۶۱۱۔ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ ثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ الْحَرِيرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَحَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ عِمَامَةً أَوْ قَمِيصًا أَوْ رِدَاءً ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ

۱۶۱۰۔ حضرت اسماء بنت یزید السکنیہ انصاریہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی قمیص کے بازو گٹوں تک تھے۔

باب ۱۱۵۶۔ نئے کپڑے پہننے کی دعا۔

۱۶۱۱۔ حضرت ابوسعیدؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب کوئی نیا کپڑا پہنتے تو اس کا نام لیتے مثلاً عمامہ یا قمیص یا تہبند اور پھر اللہم سے آخر تک دعا پڑھتے۔ ترجمہ: اے اللہ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ تو نے ہی مجھے یہ پہنایا ہے لہذا میں تجھ سے اس کی بھلائی اور جس بھلائی کے لیے یہ بنایا گیا ہے اس کا طلبگار ہوں اور اس کے شر اور جس شر کے لیے یہ بنایا گیا ہے اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

اس باب میں ابن عمرؓ اور عمرؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ ہشام بھی قاسم بن مالک مزنی سے اور وہ جریر سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔

باب ۱۱۵۷۔ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْجُبَّةِ

۱۶۱۲۔ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي اسْحَقَ عَنِ اسْحَقَ بْنِ عِيسَى ثَنَا وَكَيْعُ ثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي اسْحَقَ عَنِ اسْحَقَ بْنِ عِيسَى ثَنَا وَكَيْعُ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَسَ جُبَّةً رُومِيَّةً ضَيِّقَةً الْكُمَيْنِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۱۵۷۔ جبہ پہننا

۱۶۱۲۔ حضرت مغیرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے تنگ بازوؤں والا رومی جبہ پہنا۔

۱۶۱۳۔ حضرت مغیرہ بن شعبہؓ فرماتے ہیں کہ وجیہ کلبی نے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں موزے پیش کیے اور آپ ﷺ نے انہیں پہننا اسرائیل جابر سے اور وہ عامر سے نقل کرتے ہیں کہ موزوں کے ساتھ جبہ بھی تھا۔ آپ ﷺ نے یہ دونوں چیزیں زیب تن فرمائیں یہاں تک کہ وہ پھٹ گئیں۔ آپ ﷺ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کسی مذبح یا جانور کی ہیں یا غیر مذبح کی۔

۱۶۱۳۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ ثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ الْحَسَنِ

بْنِ عِيْنَانَ عَنِ ابْنِ اسْحَقَ هُوَ الشَّيْبَانِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ أَهْدَى دِحْيَةَ الْكَلْبِيَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُفَّيْنِ فَلَبَسَهُمَا وَقَالَ إِسْرَاءُ بِلُ عَنْ حَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ وَحُتَّةٍ فَلَبَسَهُمَا حَتَّى تَحَرَّقَا لَا يَأْتِرِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذْيُ كَيْ هُمَا نَمَ لَا

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ابواسحاق جو اس حدیث کو شخصی سے نقل کرتے ہیں۔ وہ ابواسحاق شیبانی ہیں ان کا نام سلیمان ہے۔ اور حسن بن عیاش، ابوبکر بن عیاش کے بھائی ہیں۔

باب ۱۱۵۸۔ دانت پر سونا چڑھانا

باب ۱۱۵۸۔ مَا جَاءَ فِي شِدِّ الْأَسْنَانِ بِالذَّهَبِ

۱۶۱۴۔ حضرت عرفہ بن اسعد فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں کلاب کی جنگ کے موقع پر میری ناک کٹ گئی۔ میں نے چاندی سے ایک ناک بنوایا لیکن اس میں سے بد بو آنے لگی چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے حکم دیا کہ سونے کی ناک بنالوں۔

۱۶۱۴۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ بْنِ الْبَرِيدِ وَابُو سَعْدٍ الصَّنَعَانِيُّ عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرْفَةَ عَنْ عُرْفَةَ بْنِ أَسْعَدٍ قَالَ أُصِيبَ أَنْفِي يَوْمَ الْكَلَابِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاتَّخَذْتُ أَنْفًا مِنْ وَرَقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيَّ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ

علی بن حجر، ربیع بن بدر اور محمد بن یزید واسطی سے اور وہ ابوشہب سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے ہم اسے صرف عبد الرحمن بن طرفہ کی روایت سے جانتے ہیں۔ سلم بن زریز بھی عبد الرحمن بن طرفہ سے ابوالاشہب ہی کی حدیث کی طرح نقل کرتے ہیں۔ ابن مہدی انہیں سلم بن زریز کہتے ہیں۔ لیکن یہ وہم ہے اور صحیح زریزی ہے۔

باب ۱۱۵۹۔ درندوں کی کھال کے استعمال کی ممانعت۔

باب ۱۱۵۹۔ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ جُلُودِ السَّبَاعِ

۱۶۱۵۔ ابولہج اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے درندوں کی کھال بچھانے سے منع فرمایا۔

۱۶۱۵۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ جُلُودِ السَّبَاعِ أَنْ تَقْتَرَبَ

محمد بن بشار بھی یحییٰ بن سعید سے وہ سعید سے وہ قتادہ سے وہ ابولہج سے اور وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے درندوں کی کھال سے منع فرمایا۔ ہمیں علم نہیں کہ سعید بن ابی عروبہ کے علاوہ بھی کوئی راوی ابولہج کے والد کے ذریعے سے نقل کرتے ہوں۔ محمد بن بشار، محمد بن جعفر سے بھی وہ شعبہ سے وہ یزید رشک سے اور وہ ابولہج سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے درندوں کی کھال سے منع فرمایا (یعنی اس کے استعمال سے) اور یہ زیادہ صحیح ہے۔

باب ۱۱۶۰۔ آنحضرت ﷺ کی چپل کے متعلق۔

باب ۱۱۶۰۔ مَا جَاءَ فِي نَعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۱۶۱۶۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے جوتے تھے والے تھے۔

۱۶۱۶۔ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا حَبَابُ بْنُ هَلَالٍ ثَنَا هَمَامٌ ثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ نَعْلَاهُ لهُمَا قِبَالَانَ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۱۶۱۔ ایک چپل پن کر چلنے کی کراہت۔

باب ۱۱۶۱۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْمَشْيِ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ

النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ

۱۶۱۷۔ حدثنا قتيبة عن مالك ح وثنا الانصاري ثنا معن ثنا مالك عن ابى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمْسِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ لِيُتَعْلَمَهَا جَمِيعًا أَوْ لِيُخْفِيَهَا جَمِيعًا

۱۶۱۷۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی ایک چپل پہن کر نہ چلے یا تو دونوں پاؤں پہنے یا ننگے پاؤں چلے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں جاہل سے بھی حدیث منقول ہے۔

۱۶۱۸۔ حدثنا أزهر بن مروان البصرى اخبرنا الحارث بن نبهان عن معمر عن عمار بن أبى عمارة عن أبى هريرة قال نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ وَهُوَ قَائِمٌ

۱۶۱۸۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے کھڑے ہو کر جوتے پہننے سے منع فرمایا۔

یہ حدیث غریب ہے۔ عبید اللہ بن عمرو ترقی یہ حدیث معمر سے وہ قتادہ سے اور وہ انسؓ سے نقل کرتے ہیں لیکن محدثین کے نزدیک یہ دونوں حدیثیں صحیح نہیں۔ کیونکہ حارث بن نبهان ان کے نزدیک حافظ نہیں ہیں۔ جب کہ قتادہ کی انس سے منقول حدیث کی کوئی اصل نہیں۔ ابو جعفر سمعانی اسے سلیمان بن عبید اللہ ورتی سے وہ عبید اللہ بن عمرو سے وہ معمر سے وہ قتادہ سے اور وہ انسؓ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے کھڑے کھڑے چپل پہننے سے منع فرمایا۔ یہ حدیث غریب ہے۔ امام بخاری ان دونوں حدیثوں کو صحیح نہیں سمجھتے۔

باب ۱۱۶۲۔ مَا جَاءَ فِي الرَّحْصَةِ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ

۱۶۱۹۔ حدثنا القاسم بن دينار الكوفي اسحاق بن منصور السلولي كوفي ثنا هريرم وهو ابن سفيان البجلي عن ليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت ربما مشى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ

باب ۱۱۶۲۔ ایک چپل پہن کر چلنے کی اجازت۔

۱۶۱۹۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ کبھی ایک چپل پہن کر بھی چلا کرتے تھے۔

احمد بن منيع، سفيان بن عيينه سے وہ عبد الرحمن بن قاسم سے وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ ایک چپل پہن کر چلیں۔ یہ زیادہ صحیح ہے۔ سفيان ثوري بھی اسے عبد الرحمن بن قاسم سے موقوفاً اسی طرح نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۱۶۳۔ مَا جَاءَ بِأَيِّ رَجُلٍ يَبْدَأُ إِذَا انْتَعَلَ

۱۶۲۰۔ حدثنا الانصاري ثنا معن ثنا مالك ح وثنا قتيبة عن مالك عن ابى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ

باب ۱۱۶۳۔ چپل کون سے پاؤں میں پہلے پہنی جائے۔

۱۶۲۰۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تم میں سے کوئی چپل پہننے لگے تو دائیں پاؤں کو مقدم رکھے اور جب اتارے تو بائیں پاؤں سے پہلے اتارے یعنی دایاں پیر پہننے میں پہلے ہو اور اتارنے میں پیچھے۔

فَلْيَكُنَّ الْيَمِينُ أَوْ لَهْمَا تَنْعَلُ وَاحِرُهُمَا تَنْزَعُ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۱۶۴۔ مَا جَاءَ فِي تَرْفِيعِ النَّوْبِ

۱۶۲۱۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَوْسَى ثَنَا سَعِيدُ بْنُ

مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ وَابُو يَحْيَى الْحِمَانِيُّ قَالَا ثَنَا صَالِحُ

بْنِ حَسَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أَرَدْتَ اللَّحُوقَ

بِي فَلْيُكْفِكَ مِنَ الدُّنْيَا كَرَادِ الرَّايِكِبِ وَإِيَّاكَ

وَمَجَالَسَةَ الْأَغْنِيَاءِ وَلَا تَسْتَخْلِقِي تَوْبًا حَتَّى تَرْفَعِيهِ

باب ۱۱۶۳۔ کپڑوں میں پیوند لگانا۔

۱۶۲۱۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: اگر

تم (آخرت میں) مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو تمہارے لیے دنیا تو شہ سفر

کے بقدر ہی کافی ہے اور ہاں امیر لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے پرہیز

کرنا اور کسی کپڑے کو اس وقت تک پہننا نہ چھوڑنا جب تک اس میں

پیوند نہ لگالو۔

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف صالح بن حسان کی روایت سے جانتے ہیں اور امام بخاری انہیں منکر الحدیث کہتے

ہیں۔ اور صالح بن ابی حسان جن سے ابن ابی ذئب احادیث نقل کرتے ہیں۔ وہ ثقہ ہیں۔ ”ایاک ومجالسة الاغنياء“ کا مفہوم

حضرت ابو ہریرہؓ سے منقول اس حدیث کی طرح ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جو شخص اپنے سے بہتر صورت یا زیادہ مالدار کی

طرف دیکھے تو اسے اپنے سے کمتر آدمی کو دیکھنا چاہئے جس پر اسے فضیلت دی گئی۔ یقیناً اس سے اس کی نظر میں اللہ کی نعمت

حقیر نہیں ہوگی۔ عون بن عبد اللہ سے بھی منقول ہے کہ میں نے اغنیاء کی صحبت اختیار کی تو اپنے سے زیادہ عمکین کسی کو نہیں

دیکھا۔ کیونکہ ان کی سواری میری سواری سے بہتر اور ان کے کپڑے میرے کپڑوں سے بہتر ہوتے تھے۔ پھر جب میں نے

فقراء کی صحبت اختیار کی تو راحت حاصل ہوئی۔

۱۶۲۲۔ حضرت ام ہانئ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب مکہ مکرمہ میں

داخل ہوئے تو آپ ﷺ کی چار چوٹیاں تھیں۔

۱۶۲۲۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَمْرٍَا ثَنَا سَفِيانُ بْنُ عِينَةَ عَنْ ابْنِ

أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أُمِّ هَانِيَةَ قَالَتْ قَدِمَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِنِّي مَكَّةَ وَلَهُ أَرْبَعُ عَدَائِرٍ

یہ حدیث غریب ہے۔

باب ۱۶۲۳۔ حضرت ام ہانئ سے منقول ہے کہ آنحضرت ﷺ مکہ میں

داخل ہوئے تو آپ ﷺ کی چار چوٹیاں تھیں۔

باب ۱۶۲۳۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ

بْنِ مَهْدِيٍّ ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ الْمَكِّيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي

نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أُمِّ هَانِيَةَ قَالَتْ قَدِمَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِنِّي مَكَّةَ وَلَهُ أَرْبَعُ ضَفَائِرٍ

یہ حدیث حسن ہے اور عبد اللہ بن ابی نوح کی ہیں۔ ابونوح کا نام یسار ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ مجاہد کے ام ہانئ سے سماع کا مجھے علم نہیں۔

۱۶۲۴۔ حضرت عبد اللہ بسر کہتے ہیں کہ میں نے ابو کبیرہؓ نمازی سے

سنا کہ رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کی ٹوپیاں کھلی اور سروں کے ساتھ ملی

۱۶۲۴۔ حَدَّثَنَا حَمِيدُ بْنُ مَسْعُودَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

حَمْرَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرِ قَالَ

سَمِعْتُ أَبَا كَثِيئَةَ الْأَنْمَارِيَّ يَقُولُ كَانَتْ كِمَامٌ
أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطْحَا

یہ حدیث منکر ہے۔ اور عبداللہ بن بسر بصری محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں۔ یحییٰ بن سعید وغیرہ انہیں ضعیف کہتے ہیں۔

۱۶۲۵۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا ابُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي
أَسْحَقَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ أَخَذَ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ لَبَدٍ سَاقِي
أَوْ سَاقِيهِ وَقَالَ هَذَا مَوْضِعُ الْأَزَارِ فَإِنْ آيَتِ فَاسْفَلْ
فَإِنْ آيَتِ فَلَا حَقَّ لِلْأَزَارِ فِي الْكَعْبِيِّينَ

۱۶۲۵۔ حضرت حذیفہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی پنڈلی یا
میری پنڈلی پکڑ کر فرمایا: شلو اور وغیرہ کی اصل جگہ یہاں تک ہے لیکن اگر
دل نہ مانے تو اس سے تھوڑی نیچے کر لو اور اگر اب بھی دل نہ مانے تو
ٹخنوں سے نیچے کرنے کا کوئی حق نہیں (یعنی ٹخنوں سے اوپر تک رکھنے کی
اجازت ہے۔)

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ شعبہ اور ثوری اسے ابواسحاق سے نقل کرتے ہیں۔

۱۶۲۶۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِي
الْحَسَنِ الْعَسْقَلَانِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رُكَّانَةَ
عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رُكَّانَةَ صَارَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَصَرَغَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُكَّانَةَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنْ
فَرَّقَ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ الْعَمَائِمُ عَلَى الْقَلَابِيسِ

۱۶۲۶۔ حضرت ابو جعفر بن محمد بن رکانہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ
رکانہ نے آنحضرت ﷺ کے ساتھ کشتی کی تو آپ ﷺ نے انہیں پچھاڑ
دیا۔ حضرت رکانہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا ﷺ کو فرماتے
ہیں ہوئے سنا کہ ہمارے اور مشرکوں کے درمیان صرف ٹوپوں پر عمامہ
لگانے کا فرق ہے۔

یہ حدیث غریب ہے۔ اس کی سند قوی نہیں۔ ابو الحسن عسقلانی اور ابن رکانہ کو ہم نہیں جانتے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین

بغیر ٹوپی کے عمامہ باندھتے ہیں اور ہم ٹوپی پر۔

باب ۱۱۶۵۔ لوہے کی انگوٹھی

باب ۱۱۶۵۔ فِي خَاتَمِ الْحَدِيدِ

۱۶۲۷۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمِيدٍ ثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَابٍ
وَأَبُو تَمِيْلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ مَالِي أَرَى
عَلَيْكَ جِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ ثُمَّ جَاءَهُ وَوَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ
صُفْرِ فَقَالَ مَالِي أَحَدٌ مِنْكَ رِيحَ الْأَصْنَامِ ثُمَّ آتَاهُ وَ
عَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ مَالِي أَرَى عَلَيْكَ جِلْيَةَ
أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ آتَيْتَهُ قَالَ مِنْ وَرِقٍ

۱۶۲۷۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ایک
شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو اس کی انگی میں لوہے
کی انگوٹھی تھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا بات ہے میں تمہارے ہاتھوں
میں اہل دوزخ کا زیور دیکھ رہا ہوں۔ جب وہ دوبارہ حاضر ہوا تو اس
کے ہاتھ میں پیتل کی انگوٹھی تھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا بات ہے میں تم
سے بتوں کی بو پارہا ہوں۔ چنانچہ جب وہ تیسری مرتبہ حاضر ہوا تو اس
کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا بات ہے میں
تمہارے جسم پر اہل جنت کا زیور دیکھ رہا ہوں۔ اس نے عرض کیا تو کس

(۱) کمام، کمرہ کی جمع ہے اور اس صورت میں اس سے مراد ٹوپیاں ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ”کَمَّ“ کی جمع ہے اس صورت میں اس کے معنی یہ ہوں گے کہ

صحابہ کے کپڑوں کے بازو کھلے اور ڈھیلے تھے۔ واللہ اعلم (مترجم)

وَلَا تُتِمَّةٌ مِثْقَالًا

چیز کی انگوٹھی بناؤں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: چاندی کی اور وہ بھی ایک
مثقال سے کم ہو۔

یہ حدیث غریب ہے۔ عبد اللہ بن مسلم: ابو طیبہ مروزی ہیں۔

باب ۱۶۲۸۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے مجھے ریشمی
کپڑا پہننے، سرخ زین پوش پر سوار ہونے اور شہادت یا اس کے ساتھ
والی انگلی میں انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا:

باب ۱۶۲۸۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ثَنَا سَفِيَانُ عَنْ
عَاصِمِ بْنِ كَلِيبٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا
يَقُولُ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ
الْقَسْبِيِّ وَالْمَيْفِرَةِ الْحَمْرَاءِ وَأَنَّ أَلَيْسَ خَاتَمِي فِي
هَذِهِ وَفِي هَذِهِ وَأَشَارَ إِلَى السَّبَابَةِ وَالْوَسْطَى

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابن ابی موسیٰ، ابو بردہ بن ابی موسیٰ ہیں ان کا نام عامر ہے۔

باب ۱۱۶۶۔ بلا عنوان

باب ۱۱۶۶۔

۱۶۲۹۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے نزدیک پسندیدہ
ترین لباس دھاری دار چادر تھا۔

۱۶۲۹۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مَعَاذُ بْنُ هِشَامٍ
ثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَيَّ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبِسُهَا الْجَبِرَّةَ

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کھانوں کے متعلق آنحضرت ﷺ سے نقل کی گئی

أَبْوَابُ الْأَطْعِمَةِ عَنْ

احادیث کے ابواب

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب ۱۱۶۷۔ آنحضرت ﷺ کس چیز پر کھانا کھایا کرتے تھے۔

باب ۱۱۶۷۔ مَا جَاءَ عَلِيٌّ مَا كَانَ يَأْكُلُ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۱۶۳۰۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے نہ کبھی خوان پر
کھانا کھایا اور نہ ہی چھوٹی پلیٹوں میں اور نہ ہی آپ ﷺ کے لیے تیلی
چپاتی پکائی گئی۔ میں نے قتادہ سے پوچھا کہ لوگ کس چیز پر کھانا کھایا
کرتے تھے تو فرمایا: انہی دسترخوانوں پر۔

۱۶۳۰۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مَعَاذُ بْنُ هِشَامٍ
ثَنِي أَبِي عَنْ يُونُسَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا أَكَلَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ حِوَانًا وَلَا سُكْرُجِيَّةً
وَلَا أُخْبِزِلَةَ مَرْفُوقٌ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ فَعَلَى مَا كَانُوا يَأْكُلُونَ
قَالَ عَلِيٌّ هَذِهِ السُّفْرُ

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ محمد بن بشار کہتے ہیں کہ یونس جو یہاں مذکور ہیں وہ یونس اسکاف ہیں۔ عبدالوارث بھی سعید بن ابی
عروب سے وہ قتادہ سے اور وہ انسؓ سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۱۶۸۔ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الْأَرْزَبِ

باب ۱۱۶۸۔ خرگوش کھانا

۱۶۳۱۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا
شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ
أَنْفَجْنَا أَرْزَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَى أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهَا فَأَدْرَكْتُهَا فَأَخَذْتُهَا
فَاتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا بِمَرْوَةِ فَبَعَثَ مَعِيَ
بِفَجْدِهَا أَوْ بِوَرَكِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَأَكَلَهُ فَقُلْتُ أَكَلَهُ قَالَ قَبْلَهُ

۱۶۳۱۔ حضرت ہشام بن زید کہتے ہیں کہ ہم نے مرظہ ان کے مقام پر
ایک خرگوش کا پچھا کیا۔ چنانچہ جب صحابہ اس کے پیچھے دوڑے تو میں نے
اس کو پکڑ لیا اور ابو طلحہ کے پاس لے آیا۔ انہوں نے اسے پھر سے ذبح
کیا اور مجھے اس کی ران یا کوہے کا گوشت دے کر آنحضرت ﷺ کی
خدمت میں بھیجا۔ آپ ﷺ نے اسے کھالیا: میں نے پوچھا کیا آپ
ﷺ نے اسے کھالیا؟ فرمایا: آپ ﷺ نے اسے قبول کر لیا۔

اس باب میں جابر، عمار، محمد بن صفوان اور محمد بن صفی بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اکثر اہل علم اسی پر عمل پیرا
ہیں کہ خرگوش کھانے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ جب کہ بعض حضرات اسے مکروہ کہتے ہیں کیونکہ اسے حیض آتا ہے۔

باب ۱۱۶۹۔ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الضَّبِّ

باب ۱۱۶۹۔ گویہ کھانا۔

۱۶۳۲۔ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سُئِلَ عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ فَقَالَ لَا أَكُلُهُ وَلَا أُحْرِمُهُ

۱۶۳۲۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے گویہ کھانے
کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا: میں نہ اسے کھاتا ہوں اور نہ ہی حرام کرتا
ہوں۔

اس باب میں عمر، ابوسعید، ابن عباس، ثابت بن وہب، جابر اور عبدالرحمن بن حسنہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح
ہے اور گویہ کھانے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض اہل علم صحابہ اس کی اجازت دیتے ہیں جب کہ بعض حضرات اسے مکروہ کہتے ہیں۔ ابن
عباس سے منقول ہے کہ آنحضرت ﷺ کے دسترخوان پر گویہ کھائی گئی لیکن آپ ﷺ نے نفرت طبعی کی وجہ سے اسے نہیں کھایا نہ کہ حرمت شرعی
کی وجہ سے۔

باب ۱۱۷۰۔ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الضَّبْعِ

باب ۱۱۷۰۔ بچو کھانے کے متعلق

۱۶۳۳۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ثَنَا ابْنُ جَرِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ
عَنْ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِجَابِرِ الضَّبْعِ أَصِيدُ هِيَ
قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَكَلْتُهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَقَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ

۱۶۳۳۔ حضرت ابن ابی عمار کہتے ہیں کہ میں نے جابر سے پوچھا کہ کیا
بچو شکار کیے جانے والے جانوروں کے زمرے میں آتا ہے؟ تو فرمایا:
ہاں۔ میں نے عرض کیا: کیا میں اسے کھالوں؟ فرمایا: ہاں میں نے عرض
کیا: کیا آنحضرت ﷺ کا یہی حکم ہے؟ فرمایا: ہاں۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض علماء اسی پر عمل پیرا ہیں کہ چرخ کھانا جائز ہے احمد اور اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں آنحضرت ﷺ سے
اس کی کراہت میں بھی ایک حدیث منقول ہے لیکن اس کی سند قوی نہیں۔ لہذا بعض علماء اسے مکروہ کہتے ہیں۔ ابن مبارک کا بھی یہی قول
ہے۔ یحییٰ بن سعید قطان کہتے ہیں کہ جریر بن حازم یہ حدیث عبداللہ بن عبید بن عمیر سے وہ ابن ابی عمار سے وہ جابر سے اور وہ عمر سے انہی
کا قول نقل کرتے ہیں۔ لیکن ابن جریج کی حدیث زیادہ صحیح ہے۔

۱۶۳۳۔ حضرت خزیمہ بن جزء فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے بچو کا حکم پوچھا تو فرمایا: کوئی ایسا بھی ہے جو بچو کھاتا ہو؟ پھر میں نے بھیڑیے کے متعلق پوچھا تو فرمایا کیا کوئی نیک آدمی بھی بھیڑیا کھا سکتا ہے؟

۱۶۳۴۔ حدثنا هناد ثنا ابو معاوية عن اسمعيل بن مسلم عن عبد الكريم ابى امية عن جيان بن جزء عن اخيه خزيمه بن جزء قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضبع قال أويأكل الضبع أحد وسألته عن أكل الذئب قال ويأكل الذئب أحد فيه خير

اس حدیث کی سند قوی نہیں۔ ہم اسے صرف اسماعیل بن مسلم کی عبد الکریم ابی امیہ کی روایت سے جانتے ہیں۔ اور بعض محدثین اسماعیل اور عبد الکریم کے متعلق کلام کرتے ہیں اور عبد الکریم: عبد الکریم بن قیس بن ابی مخارق ہیں۔ لیکن عبد الکریم جزری ثقہ ہیں۔

باب ۱۱۷۱۔ گھوڑوں کا گوشت کھانا

۱۶۳۵۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں گھوڑے کا گوشت کھلایا اور گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔

باب ۱۱۷۲۔ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ

۱۶۳۵۔ حدثنا قتيبة و نصر بن علي قالنا ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر قال أطمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر

اس باب میں اسماء بنت ابی بکر بھی حدیث نقل کرتی ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور کئی راویوں سے اسی طرح منقول ہے۔ یہ حضرات عمرو بن دینار سے اور وہ جابر سے نقل کرتے ہیں۔ حماد بن زید بھی عمرو بن دینار سے وہ محمد بن علی سے اور وہ جابر سے نقل کرتے ہیں اور ابن عیینہ کی حدیث زیادہ صحیح ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ سفیان بن عیینہ، حماد بن زید سے زیادہ حافظ ہیں۔

باب ۱۱۷۲۔ پالتو گدھوں کے گوشت کا حکم

۱۶۳۶۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے غزوہ خیبر کے زمانے میں متعہ اور پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔

باب ۱۱۷۳۔ مَا جَاءَ فِي لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ

۱۶۳۶۔ حدثنا محمد بن بشار ثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد الانصاري عن مالك بن انس عن الزهري ح وثنا ابن ابى عمر ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء زمن خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية

سعید بن عبد الرحمن، سفیان سے وہ زہری سے اور وہ عبد اللہ اور حسن (یہ دونوں محمد بن علی کے بیٹے ہیں) سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ زہری کے نزدیک ان دونوں میں سے پسندیدہ ترین شخصیت حسن بن محمد ہیں۔ سعید کے علاوہ راوی، ابن عیینہ سے نقل کرتے ہیں کہ ان میں زیادہ بہتر عبد اللہ بن محمد ہیں۔

۱۶۳۷۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے غزوہ خیبر کے موقع پر ہر بچکلی والے درندے، وہ جانور جسے باندھ کر اس کو نشانہ بنایا

۱۶۳۷۔ حدثنا ابو كريب ثنا حسين بن علي عن زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ يَوْمَ حَبِيرٍ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ الْمُحْتَمَّةِ وَالْحِمَارِ الْأَنْسِيِّ

اس باب میں علیؓ، جابرؓ، براءؓ، ابن ابی اوفیؓ، انسؓ، عرباض بن ساریہؓ، ابو ثعلبہؓ، ابن عمرؓ اور ابو سعیدؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ عبدالعزیز بن محمد وغیرہ اسے محمد بن عمرو سے نقل کرتے ہوئے صرف کچلی والے درندوں کا حکم بیان کرتے ہیں۔

باب ۱۱۷۳۔ کفار کے برتنوں میں کھانا کھانا

۱۶۳۸۔ حضرت ابو ثعلبہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے مجوسیوں کی ہانڈیوں کا حکم پوچھا گیا تو فرمایا: ان کو دھو کر صاف کرنے کے بعد ان میں پکاؤ اور ہر کچلی والے درندے سے منع فرمایا۔

باب ۱۱۷۳۔ مَا جَاءَ فِي الْأَكْلِ فِي آيَةِ الْكُفَّارِ
۱۶۳۸۔ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَحْزَمِ الطَّائِيُّ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ قَتِيْبَةَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قُدْوَرِ الْمُجُوسِ قَالَ أَنْفُوها عَسَلًا وَأَطْبَحُوا فِيهَا وَنَهَى عَنْ كُلِّ سَبْعِ ذِي نَابٍ

یہ حدیث ابو ثعلبہ کی روایت سے مشہور ہے اور ان سے کسی سندوں سے منقول ہے ان کا نام جرثوم ہے اور انہیں جرم اور ناشب بھی کہا جاتا ہے۔ پھر یہی حدیث ابو قلابہؓ بھی ابی اسماعیلؓ سے اور وہ ابو ثعلبہؓ سے نقل کرتے ہیں۔

۱۶۳۹۔ حضرت ابو قلابہؓ، ابواسامہؓ جرجی سے اور وہ ابو ثعلبہؓ حسنی سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! ہم لوگ اہل کتاب کے علاقے میں رہتے ہیں۔ لہذا ان کی ہانڈیوں میں پکاتے اور ان کے برتنوں کو پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا: اگر اس کے علاوہ کوئی اور برتن نہ ہوں تو انہیں پانی سے دھولیا کر دو پھر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! وہاں شکار بھی بہت ہوتا ہے اسکے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا: اگر تم نے اپنا تربیت یافتہ کتا چھوڑا اور بسم اللہ پڑھی پھر کتے نے اسے مار دیا تو تم اسے کھا سکتے ہو اور اگر وہ غیر تربیت یافتہ تھا تو اس شکار کو ذبح کرنا ضروری ہے۔ اور اگر تم اپنا تیر چلاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لو اور اس سے شکار مر جائے تو اسے کھا سکتے ہو۔

۱۶۳۹۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيْسَى بْنِ يَزِيدِ الْبَغْدَادِيُّ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْقُرَشِيِّ ثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ أَيُّوبَ وَقَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحْبِيِّ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْحُسَيْنِيِّ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بَارِضٌ أَهْلُ كِتَابٍ فَتَطْبُخُ فِي قُدُورِهِمْ وَتَشْرَبُ فِي آيَتِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوا بِالْمَاءِ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بَارِضٌ صَيْدٌ فَكَيْفَ نَصْنَعُ قَالَ إِذَا أَرَسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُكَلَّبَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَقَتَلَ فَكُلْ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُكَلَّبٍ فَزَيِّجِي فَكُلْ وَإِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَقَتَلَ فَكُلْ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۱۷۴۔ اگر چوہا گھی میں گر کر مر جائے

۱۶۴۰۔ حضرت میمونہؓ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک چوہا گھی میں گر کر مر گیا تو آپ ﷺ سے اس کے متعلق دریافت کیا گیا۔ آپ ﷺ نے

باب ۱۱۷۴۔ مَا جَاءَ فِي الْفَارَةِ تَمُوتُ فِي السَّمْنِ
۱۶۴۰۔ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَابُو عَمَارٍ قَالَا ثَنَا سَفِيانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ عَنْ مِيمُونََةَ أَنَّ فَارَةَ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَا تَتْ
فَسَبَّلَ عَنْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْقَوُّهَا
وَمَا حَوْلَهَا فَكُلُّوهُ

فرمایا: اسے اور اس کے ارد گرد کے گھی کو نکال کر پھینک دو اور باقی کھاؤ۔

اس باب میں ابو ہریرہؓ سے بھی حدیث منقول ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور زہری اسے عبید اللہ سے وہ ابن عباس سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ سے کسی نے سوال کیا: یعنی اس میں میمونہ کا تذکرہ نہیں۔ جب کہ ابن عباس کی میمونہ سے نقل کردہ حدیث زیادہ صحیح ہے۔ معمر بھی زہری سے وہ سعید بن مسیب سے وہ ابو ہریرہؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں لیکن یہ غیر محفوظ ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ اس میں خطا ہے اور صحیح حدیث وہی ہے جو زہری عبید اللہ سے وہ ابن عباس سے اور وہ میمونہ سے نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۱۷۵۔ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ
بِالشَّمَالِ

باب ۱۱۷۵۔ بائیں ہاتھ سے کھانا پینا

۱۶۴۱۔ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
نَمِيرٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي
بَكْرٍ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَأْكُلُ
أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشْرَبُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ
بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ

۱۶۴۱۔ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص بائیں ہاتھ سے نہ کھائے پیے اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے۔

اس باب میں جابر، عمر بن ابی سلمہ، سلمہ بن اکوع، انس بن مالک اور حفصہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ مالک اور ابن عیینہ بھی اسے زہری سے وہ ابو بکر بن عبید اللہ سے اور وہ ابن عمرؓ سے نقل کرتے ہیں جب کہ معمر اور عقیل زہری سے وہ سالم سے اور وہ ابن عمرؓ سے نقل کرتے ہیں لیکن مالک اور ابن عیینہ کی حدیث زیادہ صحیح ہے۔

باب ۱۱۷۶۔ الْكَلْبَايَا چائنا

۱۶۴۲۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي
الشَّوَارِبِ ثَنَا عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُحْتَارِ عَنْ سَهِيلِ بْنِ
أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ
أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ تِهْنٍ الْبُرْكَةُ

۱۶۴۲۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو اسے کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لینی چاہئیں اس لیے کہ اسے یہ معلوم نہیں کہ ان میں سے کس میں برکت ہے۔

اس باب میں جابر، کعب بن مالک اور انسؓ سے بھی حدیث منقول ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

باب ۱۱۷۷۔ مَجَاءُ فِي اللَّقْمَةِ تَسْفُطُ

باب ۱۱۷۷۔ گر جانے والے لقمے کے متعلق

باب ۱۱۷۷۔ مَجَاءُ فِي اللَّقْمَةِ تَسْفُطُ

۱۶۴۳۔ حدثنا قتيبة نا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاماً فسقطت لقمته فليمط مآراً به منها ليطعمها ولا يدعها للشيطان

اس باب میں انس سے بھی حدیث منقول ہے

۱۶۴۴۔ حدثنا الحسن بن علي الخلال ثنا عفان بن مسلم ثنا حماد بن سلمة ثنا ثابت عن أنس أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاماً لعق أصابعه الثلاث وقال إذا وقعت لقمه أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان وأمرنا أن نسأل الصفحة وقال إنكم لاتدرون في أي طعامكم البركة

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۶۴۵۔ حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثنا المعلى بن راشد ابو اليمان قال حدثني جدتي أم عاصم وكانت أم ولد لسنان بن سلمة قالت دخل علينا نبیئنا الحیر ونحن نأكل فی قسعة فحدثنا أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل فی قسعة ثم لحسها استغفرت له القسعة

۱۶۴۵۔ حضرت ام عاصم جو سنان بن سلمہ کی ام ولد ہیں فرماتی ہیں کہ نبیؐ خیر ہمارے ہاں داخل ہوئی تو ہم لوگ ایک پیالے میں کھانا کھا رہے تھے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص کسی پیالے میں کھانا کھانے کے بعد اسے چاٹ لے تو پیالہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔

یہ حدیث غریب ہے اسے ہم صرف معلیٰ بن راشد کی روایت سے جانتے ہیں۔ یزید بن ہارون اور کنی النعمہ حدیث اسے معلیٰ بن راشد سے نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۱۷۸۔ ماجآء فی کراهية الأكل من وسط الطعام ۱۶۴۶۔ حدثنا ابورحاء ثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه

باب ۱۱۷۸۔ کھانے کے درمیان سے کھانا کھانے کی کراہت۔ ۱۶۴۶۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: برکت کھانے کے درمیان میں ہوتی ہے لہذا کناروں سے کھانا کھاؤ۔ درمیان میں سے نہیں۔

یہ حدیث حسن ہے اور صرف عطاء بن سائب کی روایت سے معروف ہے۔ شعبہ اور ثوری بھی اسے عطاء بن سائب ہی سے نقل کرتے ہیں۔ اس باب میں ابن عمر سے بھی حدیث منقول ہے۔

باب ۱۱۷۹۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَكْلِ الثُّومِ وَالْبَصْلِ
 ۱۶۴۷۔ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ
 سَعِيدِ الْقَطَّانِ عَنْ ابْنِ جَرِيحٍ نَسَاءَ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ
 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكَلَ
 مِنْ هَذِهِ قَالَ أَوْلَ مَرَّةٍ الثُّومِ ثُمَّ قَالَ الثُّومِ وَالْبَصْلِ
 وَالْكَرَاثِ فَلَا يَقْرَبُنَا فِي مَسَاجِدِنَا

باب ۱۱۷۹۔ لہسن اور پیاز کھانے کی کراہت۔

۱۶۴۷۔ حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے لہسن کھایا۔ (پہلی مرتبہ راوی نے صرف لہسن کا اور دوسری مرتبہ لہسن، پیاز اور گند نے کا ذکر کیا) وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں عمرؓ، ابو ہریرہؓ، ابو ایوبؓ، ابوسعیدؓ، جابر بن سمرہؓ، قرہ اور ابن عمرؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔

باب ۱۱۸۰۔ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي أَكْلِ الثُّومِ
 مَطْبُوحًا

باب ۱۱۸۰۔ پکا ہوا لہسن کھانے کی اجازت

۱۶۴۸۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ ثَنَا ابوداؤد اباننا
 شعبة عن سماك بن حرب سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمْرَةَ
 يَقُولُ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى
 أَبِي أَيُّوبَ وَكَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا بَعَثَ إِلَيْهِ بِفَضْلِهِ
 فَبَعَثَ إِلَيْهِ يَوْمًا بِطَعَامٍ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا آتَى أَبُو أَيُّوبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ فِيهِ الثُّومُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحْرَامٌ هُوَ قَالَ
 لَا وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ مِنْ أَجْلِ رِيحِهِ
 یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۶۴۸۔ حضرت جابر بن سمرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب ابو ایوبؓ کے ہاں ٹھہرے تو جب کھانا کھاتے تو جو بیچ جاتا اسے ابو ایوبؓ کے پاس بھیج دیا کرتے۔ ایک مرتبہ آپ ﷺ نے انہیں کھانا بھیجا جس میں سے آپ ﷺ نے نہیں کھایا تھا۔ چنانچہ جب ابو ایوبؓ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس بات کا تذکرہ کیا تو فرمایا، اس میں لہسن ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! کیا یہ حرام ہے؟ فرمایا: نہیں لیکن میں اس کی بو کی وجہ سے اسے مکروہ سمجھتا ہوں۔

۱۶۴۹۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ کچا ٹوم کھانے سے منع کیا گیا یعنی پکا ہوا کھانے کی اجازت ہے۔

۱۶۴۹۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَدْيُونَةَ ثَنَا مسدد ثَنَا
 الجراح بن مليح عن ابى اسحق عن شريك بن
 حنبل عن علي قال نهى عن أكل الثوم إلا مطبوخًا

یہ حضرت علیؓ سے موثوقاً بھی منقول ہے۔ ہناد، کعب سے وہ اپنے والد سے وہ ابواسحاق سے وہ شریک بن حنبل سے اور وہ حضرت علیؓ سے نقل کرتے ہیں کہ کچے ہوئے لہسن کے علاوہ لہسن کھانا مکروہ ہے۔ اس حدیث کی سند قوی نہیں۔ شریک بن حنبل اسے آنحضرت ﷺ سے مسلاً بھی نقل کرتے ہیں۔

۱۶۵۰۔ حضرت ام ایوبؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ان کے ہاں تشریف لائے تو ان لوگوں نے (یعنی ہجرت کے موقع پر) آپ ﷺ کے لیے بعض سبزیوں سے کھانا تیار کیا۔ آپ ﷺ نے صحابہ سے فرمایا:

۱۶۵۰۔ حَدَّثَنَا الحسن بن الصباح البزار ثَنَا سفيان
 بن عيينة عن عبد الله بن ابى يزيد عن أبيه عن أم
 أيوب أخبرته أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ

عَلَيْهِمْ فَتَكَلَّفُوا لَهُ طَعَامًا فِيهِ مِنْ بَعْضِ هَذِهِ الْقَوْلِ فَكَّرَهُ أَكَلَهُ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ كُلُّوهُ فَإِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أُؤَذَى صَاحِبِي

تم لوگ اسے کھا لو کیونکہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں اور مجھے اندیشہ ہے کہ اس سے فرشتے کو تکلیف نہ پہنچے۔

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ ام ایوبؓ، حضرت ابویوبؓ کی بیوی ہیں۔ محمد بن حمید، زید بن حباب سے وہ ابوخلدہ سے اور وہ ابو عالیہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: بسن بھی ایک پاکیزہ رزق ہے۔ اور ابوخلدہ کا نام خالد بن دینار ہے۔ یہ ثقہ ہیں۔ ان کی انس بن مالک سے ملاقات ہے اور ان سے احادیث بھی سنی ہیں۔ ابو عالیہ کا نام رفیع ریاحی ہے۔ عبدالرحمن بن مہدی کہتے ہیں کہ ابوخلدہ بہترین مسلمان تھے۔

باب ۱۱۸۱۔ ماجاء فی تَحْمِيرِ الْإِنَاءِ وَأَطْفَاءِ السِّرَاجِ وَالنَّارِ عِنْدَ الْمَنَامِ

باب ۱۱۸۱۔ سوتے وقت برتنوں کو ڈھکنا اور چراغ و آگ بجھا کر سونا۔

۱۶۵۱۔ حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْلِقُوا الْبَابَ وَ أَوْكُوا السِّقَاءَ وَأَكْفُوا الْإِنَاءَ أَوْخَمِرُوا الْإِنَاءَ وَأَطْفِئُوا الْمِصْبَاحَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ غَلْقًا وَلَا يَحُلُّ وِكَاءً وَلَا يَكْشِفُ انْبِيَةً فَإِنَّ الْفُؤَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى النَّاسِ بَيْتَهُمْ

۱۶۵۱۔ حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (سونے سے پہلے) دروازہ بند کرو۔ مشک باندھ دو، برتنوں کو ڈھک دو یا انہیں الٹا کر کے رکھو اور چراغ بجھا دو۔ اس لیے کہ شیطان بند دروازہ نہیں کھولتا اور نہ ہی بندھی ہوئی چیزوں کو کھولتا یا برتنوں کو سیدھا کرتا ہے اور اس لیے کہ چھوٹا فاسق (چوہا) لوگوں کے گھر جلا دیتا ہے۔ (۱)

اس باب میں ابن عمرؓ، ابو ہریرہؓ اور ابن عباسؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور کئی سندوں سے جابرؓ سے منقول ہے۔

۱۶۵۲۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا ثنا سفيان عن الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتْرَكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ

۱۶۵۲۔ حضرت سالمؓ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ نہ چھوڑو یعنی بجھا کر سوؤ۔

باب ۱۱۸۲۔ ماجاء فی كَرَاهِيَةِ الْقُرْآنِ بَيْنَ التَّمْرَيْنِ

باب ۱۱۸۲۔ دو دو کھجوریں ایک ساتھ کھانے کی کراہت۔

۱۶۵۳۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ ثنا ابو احمد الزبير وعبيد الله عن الثوري عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن بين التمرتين حتى يستأذن صاحبه

۱۶۵۳۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے ساتھی سے اجازت لیے بغیر دو دو کھجوریں ایک ایک مرتبہ میں کھانے سے منع فرمایا۔

اس باب میں حضرت ابوبکرؓ کے مولیٰ سعدؓ بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۱۸۲۔ ماجاء فی اسْتِحْبَابِ التَّمْرِ

باب ۱۱۸۳۔ کھجور کی فضیلت۔

(۱) چراغ بجھانے کا حکم اس لیے ہے کہ چوہا جلتے ہوئے چراغ کو کھینچ لیتا ہے جس سے آگ لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ (مترجم)

۱۶۵۴۔ حدثنا محمد بن سهل بن عسكر و
عبدالله بن عبدالرحمن قال ثنا يحيى بن حسان ثنا
سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن
عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نيت لا
تمر فيه جياغ أهله

اس باب میں ابورافع کی بیوی سلمیٰ سے بھی حدیث منقول ہے یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے ہم اسے ہشام بن عروہ کی روایت سے اسی سند سے جانتے ہیں۔

باب ۱۱۸۴۔ ماجاء في الحمد على الطعام إذا فرغ منه
۱۶۵۵۔ حدثنا هناد و محمود بن غيلان قال ثنا
ابواسامة عن زكريا بن ابي زائدة عن سعيد بن ابي
بردة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة
أو يشرب الشربة فيحمده عليها

اس باب میں عقبہ بن عامر، ابوسعید، عائشہ، ابویوب اور ابو ہریرہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ کئی راوی اسے زکریا بن ابی زائدہ سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

باب ۱۱۸۵۔ ماجاء في الأكل مع المجدوم
۱۶۵۶۔ حدثنا احمد بن سعيد الاشقر و ابراهيم
ابن يعقوب قال ثنا يونس بن محمد ثنا المفضل
بن فضالة عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن
المنكدر عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم أخذ بيد مجذوم فأدخله معه في القصة ثم
قال كل بسم الله ثقة بالله وتوكلأ عليه

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے یونس بن محمد کی مفضل بن فضالہ سے نقل کردہ حدیث سے جانتے ہیں اور یہ مفضل بن فضالہ بصری ہیں۔ جب کہ مفضل بن فضالہ مصری دوسرے شخص ہیں وہ ان سے زیادہ ثقہ اور مشہور ہیں۔ شعبہ یہ حدیث حبیب بن شہید سے اور وہ ابن بریدہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے ایک کوڑھی کے مریض کا ہاتھ پکڑا امیر نے نزدیک شعبہ کی حدیث اشبہ اور زیادہ صحیح ہے۔

باب ۱۱۸۶۔ مومن ايك آنت میں کھاتا ہے۔
۱۶۵۷۔ حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد
ثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى
باب ۱۱۸۶۔ مومن ايك آنت میں کھاتا ہے۔
۱۶۵۷۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کافرسات آنتوں میں اور مومن ایک آنت میں کھاتا ہے۔

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءَ
وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مَعَى وَاحِدٍ

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں ابو ہریرہؓ، ابوسعیدؓ، ابو نصرہؓ، ابو موسیٰؓ، جہاجہ انفاریؓ، میمونہؓ اور عبد اللہ بن عمروؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔

۱۶۵۸۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک کافر آنحضرت ﷺ کے ہاں مہمان بن کر آیا۔ آپ ﷺ نے اس کے لیے ایک بکری کا دودھ نکالنے کا حکم دیا پھر دوسری کا دودھ نکالنے کا حکم دیا۔ چنانچہ دودھ نکالا گیا اور وہ پی گیا پھر اور بکری کا دودھ نکالا گیا۔ وہ اسے بھی پی گیا۔ یہاں تک کہ اس نے سات بکریوں کا دودھ پی لیا۔ دوسرے روز وہ اسلام لے آیا۔ آپ ﷺ نے اس کے لیے دودھ دوہنے کا حکم دیا۔ اس نے اس بکری کا دودھ پی لیا۔ پھر آپ ﷺ نے دوسری بکری کا دودھ نکالنے کا حکم دیا لیکن وہ اسے پورا نہ پی سکا۔ اس موقع پر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: مؤمن ایک آنت میں پیتا ہے، اور کافر سات آنتوں میں۔

۱۶۵۸۔ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ مُوسَى ثَنَا مَعْنُ ثَنَا مَالِكُ
عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَافَهُ ضَيْفٌ كَافِرٌ
فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ
فَحَلَبَتْ فَشَرِبَ ثُمَّ أُخْرِي فَحَلَبَتْ فَشَرِبَهُ ثُمَّ أُخْرِي
فَشَرِبَهُ حَتَّى شَرِبَ حِلَابَ سَبْعِ شِيَاةٍ ثُمَّ أَصْبَحَ مِنَ
الْغَدِ فَأَسْلَمَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِشَاةٍ فَحَلَبَتْ فَشَرِبَ حِلَابَهَا ثُمَّ أُخْرِي فَلَمْ
يَسْتَيْمَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِي مَعَى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي
سَبْعَةِ أَمْعَاءَ

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

اس حدیث میں مراد قلت و کثرت ہے یعنی مسلمان کم اور کافر زیادہ حرص رکھتا ہے اور یہ اغلب و کثرت کے اعتبار سے ہے۔ یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ اس مخصوص شخص کی حالت بیان کرنا مراد ہو۔ یا یہ بھی ممکن ہے کہ کم کھانے والے سے مراد مؤمن کامل ہو اور زیادہ کھانے والے سے مراد کافر ہو۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۱۱۸۷۔ ایک شخص کا کھانا دو شخصوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔
۱۶۵۹۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دو آدمیوں کا کھانا تین آدمیوں کے لیے اور تین کا چار آدمیوں کے لیے کافی ہے۔

باب ۱۱۸۷۔ مَا جَاءَ فِي طَعَامِ الْوَاحِدِ يَكْفِي الْإِثْنَيْنِ
۱۶۵۹۔ حَدَّثَنَا الْإِنصَارِيُّ ثَنَا مَعْنُ ثَنَا مَالِكُ ح وَ ثَنَا
قَتِيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامُ
الْإِثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ وَ طَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ

اس باب میں ابن عمرؓ اور جابرؓ بھی حدیث نقل کرتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت جابرؓ، آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی کا کھانا دو کے لیے اور چار کا آٹھ کے لیے کافی ہے۔ محمد بن بشارؓ یہ حدیث عبد الرحمن بن مہدیؓ سے وہ سفیانؓ سے وہ اعمشؓ سے وہ ابوسفیانؓ سے وہ جابرؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۱۸۸۔ بڑی کھانے کے متعلق

باب ۱۱۸۸۔ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الْحَرَادِ

۱۶۶۰۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی کہتے ہیں کہ ان سے منڈی کھانے کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ چھ غزوات میں شرکت کی۔ اس دوران ہم منڈی کھاتے رہے۔

۱۶۶۰۔ حدثنا احمد بن منيع ثنا سفين عن ابى يعفور العبدى عن عبد الله بن ابي اوفى انه سئل عن الجراد فقال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بست غزوات ناكل الجراد

سفیان ثعلبیین، ابو یعفرور سے یہی حدیث نقل کرتے ہوئے چھ غزوات کا اور سفیان ثوری بھی ابو یعفرور ہی سے نقل کرتے ہوئے سات غزوات بیان کرتے ہیں۔ اس باب میں ابن عمر اور جابر بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابو یعفرور کا نام واقعہ ہے۔ انہیں وقدان بھی کہتے ہیں۔ جب کہ دوسرے ابو یعفرور کا نام عبدالرحمن بن عبید بن نطاس ہے۔ محمود بن غیلان یہ حدیث ابو احمد اور مول سے وہ سفیان سے وہ ابو یعفرور سے اور وہ ابن ابی اوفی سے نقل کرتے ہیں کہ ہم نے آنحضرت ﷺ کے ساتھ سات جہاد کیے..... الخ شعبہ بھی یہی حدیث ابو یعفرور سے وہ ابن ابی اوفی سے اس طرح نقل کرتے ہیں کہ ہم نے آنحضرت ﷺ کے ساتھ کئی جہاد کیے..... الخ ہم سے یہ حدیث محمد بن بشار، محمد بن جعفر سے اور وہ شعبہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۱۸۹۔ جلالہ کے دودھ اور گوشت کا حکم۔ (۱)

۱۶۶۱۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے جلالہ کے دودھ اور گوشت کے استعمال سے منع فرمایا۔

باب ۱۱۸۹۔ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ لُحُومِ الْحَلَالَةِ وَالْبَانِيهَا
۱۶۶۱۔ حدثنا هناد ثنا عبدة عن محمد بن اسحاق عن ابى نجيح عن مجاهد عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل الحلاله والبانها

اس باب میں عبداللہ بن عباس بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ابن ابی نجیح بھی مجاہد سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے مرسل یہی حدیث نقل کرتے ہیں۔

۱۶۶۲۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایسے جانور کا گوشت کھانے سے منع فرمایا جسے باندھ کر تیروں کا نشانہ بنایا جائے۔ نیز جلالہ کا دودھ پینے اور مشک کے منہ سے پانی پینے سے بھی منع فرمایا۔ (یعنی اس سے منہ لگا کر)

۱۶۶۲۔ حدثنا محمد بن بشار ثنا معاذ بن هشام ثنى ابى عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الممخمة وعن لبن الحلاله وعن الشرب من فى السقاء

محمد بن بشار بھی ابن ابی عدی سے وہ سعید بن ابی عمرو سے وہ قتادہ سے وہ عکرمہ سے وہ ابن عباس سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں عبداللہ بن عمرو سے بھی حدیث منقول ہے۔

باب ۱۱۹۰۔ مرغی کھانا

باب ۱۱۹۰۔ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الدَّجَاجِ

۱۶۶۳۔ زہدم جرمی کہتے ہیں کہ میں ابو موسیٰ کے ہاں گیا تو وہ مرغی کھا رہے تھے۔ فرمایا: قریب ہو جاؤ اور کھاؤ میں نے رسول اللہ ﷺ کو مرغی کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔

۱۶۶۳۔ حدثنا زيد بن احزم ثنا ابو قتيبة عن ابى العوام عن قتادة عن زهدم بالحرمي قال دخلت على ابي موسى وهو يأكل دجاجة فقال اذن فكل

(۱) جلالہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کی خوراک کا اکثر حصہ نجاسات ہوں۔ (مترجم)

فَاتَيْتُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُهُ

یہ حدیث حسن ہے اور کئی سندوں سے انہی سے منقول ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ ابوالنعوم کا نام عمران قطان ہے۔

۱۶۶۴۔ حدثنا هناد ثنا وكيع عن سفيان عن ايوب

۱۶۶۳۔ حضرت ابوموسیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو مرغی کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔

عن ابي قلابه عن زهيد بن عمار عن ابي موسى قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ لَحْمَ دَجَاجٍ

اس حدیث میں تفصیل ہے اور یہ حسن صحیح ہے۔ اسے ایوب سختیانی قاسم سے وہ ابوقلابہ سے اور زہید جری سے نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۱۹۱۔ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الْحَبَّازِي

باب ۱۱۹۱۔ سرخاب کا گوشت کھانا۔

۱۶۶۵۔ حدثنا الفضل بن سهل الاعرج البغدادي

۱۶۶۵۔ حضرت ابراہیم بن عمر بن سفینہ اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سرخاب کا گوشت کھایا۔

ثنا ابراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي عن ابراهيم بن عمر بن سيفينة عن ابيه عن جده قال اكلت مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمَ حَبَّازِي

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ ابراہیم بن عمر بن سفینہ، عمر بن ابی ندیک سے روایت کرتے ہیں۔

انہیں برید بن عمر بن سفینہ بھی کہتے ہیں۔

باب ۱۱۹۲۔ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الشَّوَاءِ

باب ۱۱۹۲۔ بھنا ہوا گوشت کھانا۔

۱۶۶۶۔ حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا

۱۶۶۶۔ حضرت ام سلمہ نے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں بھنا ہوا بازو پیش کیا۔ چنانچہ آپ ﷺ اسے کھانے کے بعد نماز کے لیے تشریف لے گئے اور وضو نہیں کیا۔

حجاج بن محمد قال قال ابن جريح اخبرني محمد بن يوسف ان عطاء بن يسار اخبره ان ام سلمة اخبرته انها قرئت الي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جتنا مشويا فاكل منه ثم قام الي الصلوة وما توضحا

اس باب میں عبد اللہ بن حارث مغیرہ اور ابورافع سے بھی احادیث منقول ہیں یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۱۱۹۳۔ تکیہ لگا کر کھانے کی کراہت

باب ۱۱۹۳۔ فِي كَرَاهِيَةِ الْأَكْلِ مُتَكِيًا

۱۶۶۷۔ حضرت ابوجحیفہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں تکیہ لگا کر نہیں کھاتا۔

۱۶۶۷۔ حدثنا قتيبة ثنا شريك عن علي بن الأقرم عن أبي جحيفة قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا أَنَا فَلَا أَكُلُ مُتَكِيًا

اس باب میں علیؓ، عبد اللہ بن عمروؓ اور عبد اللہ بن عباسؓ بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ہم اسے صرف علی ابن اقرم

کی روایت سے جانتے ہیں زکریا بن ابی زائدہ، سفیان بن سعید اور کئی راوی یہ حدیث علیؓ بن اقرم سے نقل کرتے ہیں۔ شعبہ بھی اسے ثوری سے اور وہ علی ابن اقرم سے نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۱۹۴۔ مَا جَاءَ فِي حُبِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُلُوءَ وَالْعَسَلَ

۱۶۶۸۔ حدثنا سلمة بن شبيب ومحمود بن غيلان واحمد بن ابراهيم الدورقي قالوا ثنا ابو اسامة عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْحُلُوءَ وَالْعَسَلَ

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ علی بن مسہر بھی اسے ہشام بن عروہ سے نقل کرتے ہیں اور اس میں تفصیل ہے۔

باب ۱۱۹۵۔ شور بازیاہ کرنا۔

۱۶۶۹۔ حدثنا محمد بن عمر بن علي المقلمي ثنا مسلم بن ابراهيم ثنا محمد بن فضال ثنا ابي عن علقمة بن عبد الله المزني عن ابيه قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشترى أحدكم لحماً فليكثر مرقة فإن لم يجد لحماً أصاب مرقة وهو أحد اللحمين

اس باب میں ابو ذر بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف محمد بن فضال کی روایت سے اسی سند سے جانتے ہیں۔ محمد بن فضال تعبیر بتانے والے ہیں۔ سلیمان بن حرب ان پر اعتراض کرتے ہیں اور علقمہ، بکر بن عبد اللہ مزنی کے بھائی ہیں۔

۱۶۷۰۔ حدثنا الحسين بن علي بن الاسود البغدادي ثنا عمرو بن محمد بن العنقري ثنا اسراييل عن صالح بن رستم ابي عامر الخزاز عن ابي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَلِئْ أَخَاهُ بَوَجْهِ طَلِيقٍ وَإِذَا اشترت لحماً أو طبخت قدراً فأكثِرْ مرقة وأغرف لحارك منه

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ شعبان سے ابو عمران جونی سے نقل کرتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔

باب ۱۱۹۶۔ ٹرید کی فضیلت

باب ۱۱۹۶۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ التَّرِيدِ

۱۶۷۱۔ حدثنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن ابي موسى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

۱۶۷۱۔ حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مردوں میں سے بہت سے لوگ کامل گزرے ہیں لیکن عورتوں میں سے مریم بنت عمران، فرعون کی بیوی آسیہ اور عائشہ کے علاوہ کوئی کامل نہیں۔ اور

كَمَلُ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَرِيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَاسِيَّةُ امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ

عائشہ کی تمام عورتوں پر اس طرح فضیلت ہے۔ جیسے ثرید کی تمام کھانوں پر

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں عائشہ اور انسؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔

باب ۱۱۹۷۔ مَا جَاءَ فِي نَهْشِ اللَّحْمِ
 ۱۶۷۲۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا سَفِيانُ بْنُ عيينة
 عن عبد الكريم أبي أمية عن عبد الله بن الحارث
 قَالَ زَوْجَنِي أَبِي فَدَعَا أَنَسًا فِيهِمْ صَفْوَانُ بْنُ أُمِيَّةٍ
 فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 أَنَهَشُوا اللَّحْمَ نَهَشًا فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ

باب ۱۱۹۷۔ گوشت نوج کرکھانا
 ۱۶۷۲۔ حضرت عبد اللہ بن حارثؓ کہتے ہیں کہ میرے والد نے میری شادی کے موقع پر دعوت کا اہتمام کیا جس میں صفوان بن امیہؓ بھی شامل تھے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ گوشت دانٹوں سے نوج کرکھایا کرو کیونکہ یہ اس طرح کھانے سے زیادہ لذیذ اور زود ہضم ہوتا ہے۔

اس باب میں عائشہ اور ابو ہریرہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں اس حدیث کو ہم صرف عبد اللہ کریم معلم کی روایت سے جانتے ہیں۔ بعض علماء ان کے حافظے پر اعتراض کرتے ہیں جن میں ایوب سختیانی بھی شامل ہیں۔

باب ۱۱۹۸۔ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 مِنَ الرَّحْصَةِ فِي قَطْعِ اللَّحْمِ بِالسِّنِّينِ

باب ۱۱۹۸۔ چھری سے گوشت کاٹ کر کھانے کی اجازت

۱۶۷۳۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ ثَنَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ ثَنَا
 معمر عن الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري
 عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَرَمِنَ
 كَيْفِ شَاةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ مَضَى إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

۱۶۷۳۔ حضرت عمرو بن امیہ ضمریؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو بکری کے شانے سے چھری کے ساتھ گوشت کاٹ کر کھاتے ہوئے دیکھا۔ پھر آپ ﷺ وضو کیے بغیر نماز کے لیے تشریف لے گئے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں مغیرہ بن شعبہؓ سے بھی حدیث منقول ہے۔

توضیح: جن روایات میں چھری سے کاٹنے کی ممانعت آئی ہے وہ احادیث بلا ضرورت چھری کے استعمال پر محمول ہیں۔ چنانچہ ضرورت کے وقت اس کی اجازت ہے۔ (مترجم)

باب ۱۱۹۹۔ مَا جَاءَ أَيُّ اللَّحْمِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب ۱۱۹۹۔ آئحضرت ﷺ کو کون سا گوشت پسند تھا۔

۱۶۷۴۔ حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
 الفضيل عن ابى حيان التيمي عن ابى زرعة بن
 عمرو بن جرير عن ابى هريرة قال أتى النبي صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بلحمٍ فدفع إليه الذراع وكان
 يُعجبه فنَهَشَ مِنْهَا

۱۶۷۴۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں گوشت پیش کیا گیا تو آپ ﷺ کو دستی کا گوشت دیا گیا۔ جو آپ ﷺ کو بہت پسند تھا۔ لہذا آپ ﷺ نے اسے دانٹوں سے نوج کرکھایا۔

اس باب میں ابن مسعود، عائشہ، عبداللہ بن جعفر اور ابو عبیدہ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو جہان کا نام یحییٰ بن سعید جہان یحییٰ اور ابو زرعد بن عمرو بن جریر کا نام ہرم ہے۔

۱۶۷۵۔ حدثنا الحسن بن محمد الزعفرانی ثنا يحيى بن عباد ابو عباد ثنا فليح بن سليمان عن عبد الوهاب بن يحيى من ولد عباد بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير عن عائشة الخ قَالَتْ مَا كَانَ الذَّرَاعُ أَحَبَّ اللَّحْمِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ كَانَ لَا يَجِدُ اللَّحْمَ إِلَّا غَيًّا فَكَانَ يُعَجِّلُ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ أَعْجَلَهَا نَضْجًا

۱۶۷۵۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ کو دستی کا گوشت زیادہ پسند نہیں تھا بلکہ بات یہ تھی کہ گوشت ایک دن کے ناغے کے ساتھ ملا کر تاکھا لہذا آپ ﷺ اسے کھانے میں جلدی کرتے تھے اور یہی حصہ جلدی گل سکتا ہے۔

اس حدیث کو ہم صرف اسی روایت سے جانتے ہیں۔

باب ۱۲۰۰۔ مَا جَاءَ فِي الْخَلِّ

باب ۱۲۰۰۔ سر کے کے متعلق

۱۶۷۶۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سر کے کتنا بہترین سالن ہے۔

۱۶۷۶۔ حدثنا الحسن بن عرفة ثنا مبارك بن سعيد اخو سفيان بن سعيد عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نِعَمَ الْأَذْمُ الْخَلِّ

عبدۃ بن عبداللہ خزاعی بصری بھی معاویہ سے وہ سفیان سے وہ محارب بن دثار سے اور وہ جابر سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سر کے کتنا اچھا سالن ہے۔ اس باب میں عائشہ اور ام ہانی سے بھی احادیث منقول ہیں۔ اور یہ مبارک بن سعید کی حدیث سے زیادہ صحیح ہیں۔ محمد بن سہل، یحییٰ بن حسان سے وہ سلمان سے وہ ہشام سے وہ اپنے والد سے اور وہ عائشہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سر کے بہترین سالن ہے۔ عبداللہ بن عبدالرحمن بھی یحییٰ سے اور وہ سلیمان سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ لیکن اس میں راوی کو ”ادام“ یا ”ادم“ کے الفاظ میں شک ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے اور ہشام بن عروہ کی سند سے صرف سلیمان بن بلال ہی کی روایت سے معروف ہے۔

۱۶۷۷۔ حضرت ام ہانی بنت ابی طالب فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ میرے ہاں تشریف لائے اور پوچھا: کیا کچھ ہے؟ عرض کیا نہیں۔ البتہ چند سوکھی روٹی کے ٹکڑے اور سر کے ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: لاؤ۔ وہ گھر جس میں سر کے ہو، سالن کا محتاج نہیں۔

۱۶۷۷۔ حدثنا ابو كريب ثنا ابو بكر بن عياش عن ابي حمزة الثمالي عن الشعبي عن أم هانئ بنت أبي طالب قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ فَقُلْتُ لَا إِلَّا كِسْرًا يَا بَسَّةً وَخَلٌّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرِيبُهُ فَمَا أَقْرَبِيَّتٍ مِنْ أَدْمٍ فِيهِ خَلٌّ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ہم اسے ام ہانی کی نقل کردہ حدیث سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ ان کا انتقال حضرت علیؑ کے بعد ہوا۔

باب ۱۲۰۱۔ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الْبَطِيخِ بِالرُّطْبِ
 ۱۶۷۸۔ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَزَاعِيُّ ثَنَا
 معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروة عَنْ
 أَبِي عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
 يَأْكُلُ الْبَطِيخَ بِالرُّطْبِ
 باب ۱۲۰۱۔ تربوز کے ساتھ تر کھجوریں کھانا
 ۱۶۷۸۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ تربوز کھجوروں کے
 ساتھ کھایا کرتے تھے۔

اس باب میں انسؓ سے بھی حدیث منقول ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ بعض راوی اسے ہشام بن عروہ سے وہ اپنے والد سے
 اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ یعنی حضرت عائشہؓ کا ذکر نہیں کرتے۔ پھر یزید بن رومان بھی یہ حدیث حضرت عائشہؓ سے نقل
 کرتے ہیں۔

باب ۱۶۰۲۔ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الْقِنَاءِ بِالرُّطْبِ
 ۱۲۷۹۔ حَدَّثَنَا اسْمَعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ ثَنَا
 ابراهيم بن سعد عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ
 كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الْقِنَاءَ بِالرُّطْبِ
 یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف ابراہیم بن سعد کی روایت سے جانتے ہیں۔
 باب ۱۶۰۲۔ گلزی تر کھجوروں کے ساتھ کھانا
 ۱۲۷۹۔ حضرت عبد اللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ گلزی
 کھجوروں کے ساتھ کھایا کرتے تھے۔

باب ۱۲۰۳۔ مَا جَاءَ فِي شُرْبِ آبِ الْإِبِلِ
 ۱۶۸۰۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ثَنَا
 عفان ثنا حماد بن سلمة ثنا حميد وثابت و قتادة
 عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ
 فَاجْتَوَوْهَا فَبَعَثَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَقَالَ اشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا
 یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ پھر یہی حدیث انسؓ سے بھی کئی سندوں سے منقول ہے ان سے ابو قلابہ نقل کرتے ہیں۔ سعید بن ابی
 عروبہ بھی قتادہ سے اور وہ انسؓ سے نقل کرتے ہیں۔
 باب ۱۲۰۳۔ اونٹوں کا پیشاب پینے کے متعلق
 ۱۶۸۰۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ عرینہ کے کچھ لوگ مدینہ آئے تو
 وہاں کی آب و ہوا ان لوگوں کو موافق نہ آئی۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے
 انہیں صدقے کے اونٹوں میں بھیج دیا اور فرمایا: اونٹوں کا دودھ اور
 پیشاب پیو۔ (۱)

باب ۱۲۰۴۔ الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَهُ
 ۱۶۸۱۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
 نمير ثنا قيس بن الربيع ح وثنا قتيبة ثنا عبد الكريم
 الحرجاني عن قيس بن الربيع المعنى واحد عن
 ابى هشام عن زاذان عن سلمان قال قرأت في
 یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ پھر یہی حدیث انسؓ سے بھی کئی سندوں سے منقول ہے ان سے ابو قلابہ نقل کرتے ہیں۔ سعید بن ابی
 عروبہ بھی قتادہ سے اور وہ انسؓ سے نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۲۰۳۔ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد وضو کرنا۔
 ۱۶۸۱۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں: میں نے تو رات میں پرسھا کہ
 کھانے کے بعد ہاتھ منہ دھونا طعام میں برکت کا باعث ہے۔ پھر میں
 نے آنحضرت ﷺ سے اس کا تذکرہ کیا تو فرمایا: کھانے سے پہلے اور
 بعد میں ہاتھ منہ دھونے سے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔

(۱) اس مسئلے کی تفصیل باب نمبر ۵۵۔ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے کے پیشاب کا حکم میں گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر ۶۳۔ (مترجم)

التَّورَاتِ أَنْ بَرَكَتِ الطَّعَامِ الْوُضُوءَ بَعْدَهُ فَذَكَرْتُ
ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَرَأْتُ
فِي التَّوْرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَرَكَتُ الطَّعَامِ الْوُضُوءَ قَبْلَهُ وَالْوُضُوءَ بَعْدَهُ

اس باب میں انسؓ اور ابو ہریرہؓ سے بھی حدیثیں منقول ہیں۔ اس حدیث کو ہم صرف قیس بن ربیع کی روایت سے جانتے ہیں اور وہ ضعیف ہیں۔ ابو ہاشم زمرانی کا نام بھی بن دینار ہے۔

باب ۱۲۰۵۔ فَبِي تَرْكِ الْوُضُوءِ قَبْلَ الطَّعَامِ

۱۶۸۲۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا اسْمَعِيلُ بْنُ
ابِرَاهِيمَ عَنِ ابِي بَرَكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنَ
الْحَلَاءِ فَقَرَّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فَقَالُوا أَلَا نَأْتِيكَ بِوُضُوءٍ
قَالَ إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ

باب ۱۲۰۵۔ کھانے سے پہلے وضو نہ کرنا۔

۱۶۸۲۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک مرتبہ بیت الحلاء سے نکلے تو کھانا حاضر کر دیا گیا۔ لوگوں نے عرض کیا: کیا آپ ﷺ کے لیے وضو کا پانی لائیں؟ فرمایا: مجھے وضو کا حکم صرف نماز کے وقت دیا گیا ہے۔

یہ حدیث حسن ہے۔ عمرو بن دینار سے سعید بن حورث سے اور وہ ابن عباسؓ سے نقل کرتے ہیں۔ علی بن مدینی، یحییٰ بن سعید سے نقل کرتے ہیں کہ سفیان ثوری کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے اور پیالے کے نیچے روٹی رکھنا مکروہ سمجھتے تھے۔

باب ۱۲۰۶۔ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الدُّبَاءِ

۱۶۸۳۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ مَعَاوِيَةَ بْنِ
صَالِحٍ عَنْ أَبِي طَالُوتٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ
مَالِكٍ وَهُوَ يَأْكُلُ الْفُرْعَ وَهُوَ يَقُولُ يَا لَكَ شَجَرَةً مَا
أَحْبَبْتُ إِلَيَّ لِحَبِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكَ

باب ۱۲۰۶۔ کدو کھانے کے متعلق۔

۱۶۸۳۔ ابو طلحہؓ کہتے ہیں کہ میں انس بن مالکؓ کے ہاں پہنچا تو وہ کدو کھاتے ہوئے فرما رہے تھے کہ اے درخت میں تجھ سے کس قدر محبت کرتا ہوں اس لیے کہ حضور اکرم ﷺ تجھے پسند فرماتے تھے۔

اس باب میں حکیم بن جابر بھی اپنے والد سے حدیث نقل کرتے ہیں یہ حدیث اس سند سے غریب ہے۔

۱۶۸۴۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونِ الْمَكِّيُّ ثَنَا سَفِينُ
بْنِ عَيْنَةَ قَالَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ سَلْحَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّبِعُ فِي الصُّحُفَةِ يَعْغِي الدُّبَاءَ
فَلَا أَرَأَى أَحَبُّهُ

۱۶۸۴۔ حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو پیٹ میں کدو تلاش کرتے ہوئے دیکھا جب سے میں بھی اسے پسند کرتا ہوں۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور کئی سندوں سے حضرت انسؓ سے منقول ہے۔

باب ۱۲۰۷۔ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الزَّيْتِ

باب ۱۲۰۷۔ تیل کھانا

۱۶۸۵۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
زیتون کا تیل لگاؤ اور کھاؤ۔ یہ مبارک درخت سے ہے۔

۱۶۸۵۔ حدثنا يحيى بن موسى ثنا عبد الله بن ابي عمار عن
معمربن زيد بن اسلم عن ابيه عن ابي عبد الله عن ابي
الحظبات قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
كلوا الزيت وادهنوا به فانه من شجرة مباركة

اس حدیث کو ہم صرف عبدالرزاق کی معمر سے روایت سے جانتے ہیں۔ اور عبدالرزاق اسے بیان کرنے میں مضطرب تھے۔ ابھی وہ
حضرت عمرؓ کے واسطے سے نقل کرتے اور ابھی کہتے کہ میرے خیال میں حضرت عمرؓ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں اور ابھی زید بن اسلم
سے بحوالہ ان کے والد مرسل نقل کرتے۔ ابوداؤد یہ حدیث معمر سے وہ زید بن اسلم سے وہ اپنے والد سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اس کی
طرح حدیث نقل کرتے ہیں اور اس میں عمر کا ذکر نہیں کرتے۔

۱۶۸۶۔ حضرت ابواسیدؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: زیتون
کھاؤ اور اس کا تیل لگاؤ۔ یہ مبارک درخت سے ہے۔

۱۶۸۶۔ حدثنا محمود بن غيلان ثنا ابو احمد
الزبيرى و ابو نعيم قال ثنا يسمان بن عبد الله بن
عيسى عن رجل يقال له عصاه من اهل الشام عن
ابى اسيد قال قال النبى صلى الله عليه وسلم كلوا
من الزيت وادهنوا به فانه شجرة مباركة

یہ حدیث اس سند سے غریب ہے ہم اسے صرف عبداللہ بن مسعود کی روایت سے جانتے ہیں۔

باب ۱۲۰۸۔ باندی یا غلام کے ساتھ کھانا کھانا۔

باب ۱۲۰۸۔ مَا جَاءَ فِي الْأَكْلِ مَعَ الْمَمْلُوكِ

۱۶۸۷۔ حضرت ابو ہریرہؓ بیان کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے
فرمایا: جب تم میں سے کسی کا خادم اس کے لیے کھانا تیار کرتے ہوئے
گرمی اور دھواں برداشت کرے تو اسے چاہئے کہ خادم کا ہاتھ پکڑ کر
اسے اپنے ساتھ بٹھالے۔ اور اگر وہ انکار کرے تو نغمہ لے اور اسے
کھلائے۔

۱۶۸۷۔ حدثنا نصر بن علي ثنا سفیان عن
اسماعيل بن ابي خالد عن ابيه عن ابي هريرة
يخبرهم بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حره ودخاناه
فليأخذ بيده فليضعه معه فإن أباي فلناخذ نفسه
فليضعه أياها

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو خالد کا نام سعد ہے اور یہ اسمائیل کے والد ہیں۔

باب ۱۲۰۹۔ کھانا کھلانے کی فضیلت

باب ۱۲۰۹۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ أَطْعَامِ الطَّعَامِ

۱۶۸۸۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اسلام کو
رواج دو لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور کافروں کو قتل کرو اس طرح تم لوگ جنت
کے وارث ہو جاؤ گے۔

۱۶۸۸۔ حدثنا يوسف بن حماد ثنا عثمان بن
عبدالرحمن الجمحي عن محمد بن زياد عن ابي
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افسوا
السلام واطعموا الطعام واحبروا الهام تورثوا الجنان

اس باب میں عبداللہ بن عمر، ابن عمر، انس، عبداللہ بن سلام، عبدالرحمن بن عائش اور شریح بن بانہ بھی اپنے والد سے احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث ابو ہریرہ کی سند سے حسن صحیح غریب ہے۔

۱۶۸۹۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: رحمن کی عبادت کرو۔ اور سام کو رواج دو تاکہ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔

۱۶۸۹۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ ابِي الْحَوْصِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْبُدُوا الرَّحْمَنَ وَأَطْعَمُوا الطَّعَامَ وَأَقْسُوا السَّلَامَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۲۱۰۔ رات کے کھانے کی فضیلت

۱۶۸۹۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: رات کا کھانا ضرور کھایا کرو اگرچہ ایک منھی (انی) کھجور ہی سہی۔ اس لیے کہ رات کا کھانا ترک کرنا بڑھاپے کا موجب ہے۔

باب ۱۲۱۰۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْعِشَاءِ

۱۶۸۹۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى الْكُوفِيُّ ثَنَا عَنَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَلَّاقٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَشُّوا وَلَوْ بِكَفِّ مِنْ حَشْفٍ فَإِنَّ تَرَكَ الْعِشَاءَ مَهْرَمَةٌ

یہ حدیث منکر ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ اور عنبرہ ضعیف اور عبدالملک بن علق مجہول ہیں۔

باب ۱۲۱۱۔ کھانے کے وقت بسم اللہ کہنا۔

۱۶۹۰۔ حضرت عمرو بن ابی سلمہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول خدا ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ﷺ کے سامنے کھانا رکھا، ہوا تھا آپ ﷺ نے فرمایا: بیٹے قریب ہو جاؤ، بسم اللہ پڑھو، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے آگے سے کھاؤ۔

باب ۱۲۱۱۔ مَا جَاءَ فِي التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ

۱۶۹۰۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْهَاشِمِيُّ ثَنَا عَبْدِ الْعَالِي عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ طَعَامٌ قَالَ اذْءُ يَا بَنِيَّ فَسَمَّ اللَّهُ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ

ہشام بن عروہ کے ساتھی اس حدیث کو نقل کرنے میں اختلاف کرتے ہیں اور ابو ہریرہ سعدی کا نام بزید بن عبید سے۔

۱۶۹۲۔ حضرت کراش بن ذویب فرماتے ہیں کہ مجھے نومرہ بن عبید نے اپنی زکوٰۃ کا مال دیکر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں بھیجا جب میں مدینہ پہنچا تو دیکھا کہ آنحضرت ﷺ مہاجرین اور انصار کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر رسول خدا ﷺ نے میرا ہاتھ پکڑا اور ام سلمہ کے ہاں لے گئے اور فرمایا: کھانے کیلئے کچھ ہے، چنانچہ ایک بڑا پیالہ لایا گیا جس میں بہت سا ترید اور بونیاں تھیں ہم نے کھانا شروع کر دیا اور میں

۱۶۹۲۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي السُّوَيْبِ أَبُو الْهَدَيْلِ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عِكْرَاسٍ عَنْ أَبِيهِ عِكْرَاسِ بْنِ ذُوَيْبٍ قَالَ بَعَثَنِي بَنُو مُرَّةَ ابْنُ عُيَيْدٍ بِصِنْدَقَاتِ أَمْوَالِهِمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ الْمَدِينَةَ فَوَجَدْتُهُ جَالِسًا بَيْنَ

اپنا ہاتھ کناروں میں مارنے لگا۔ جب کہ آپ ﷺ اپنے سامنے سے کھا رہے تھے۔ آپ ﷺ نے اپنے بائیں ہاتھ سے میرا دایاں ہاتھ پکڑا اور فرمایا: عکراش ایک جگہ سے کھاؤ پورا ایک ہی قسم کا کھانا ہے۔ پھر ایک ٹرے لائی گئی جس میں کھجور یا فرمایا ترکھجوروں کی کئی اقسام تھیں (عبید اللہ کوشک ہے) میں نے اپنے سامنے سے کھانا شروع کر دیا جب کہ آنحضرت ﷺ کا ہاتھ مبارک ٹرے میں گھومنے لگا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: عکراش جہاں سے جی چاہے کھاؤ اس لیے کہ یہ ایک قسم کی نہیں ہیں۔ پھر پانی لایا گیا اور آپ ﷺ نے اس سے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے۔ پھر گیلے ہاتھ چہرہ مبارک، بازوؤں اور سر پر مل لئے اور فرمایا: عکراش جو چیز آگ پر پکی ہوئی ہو اس سے اس طرح وضو کیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں ایک قصہ ہے

الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ قَالَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَأَنْطَلَقَ بِي إِلَى بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ هَلْ مِنْ طَعَامٍ فَأَتَيْنَا بِحَفْنَةٍ كَثِيرَةٍ الشَّرِيدِ وَالْوَدْرِ فَأَقْبَلْنَا نَأْكُلُ مِنْهَا فَحَبَطَتْ بِيَدِي فِي نَوَاحِيهَا وَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ فَقَبَضَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى يَدِي الْيُمْنَى ثُمَّ قَالَ يَا عِكْرَاشُ كُلْ مِنْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ طَعَامٌ وَاحِدٌ ثُمَّ أَتَيْنَا بِطَبَقٍ فِيهِ أَلْوَانُ التَّمْرِ وَالرُّطَبِ شَكَّ عَبْدُ اللَّهِ فَجَعَلْتُ أَكُلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَحَالَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الطَّبَقِ قَالَ يَا عِكْرَاشُ كُلْ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ فَإِنَّهُ غَيْرُ لَوْنٍ وَاحِدٍ ثُمَّ أَتَيْنَا بِمَاءٍ فَغَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ وَمَسَحَ بِلَلِّ كَفَيْهِ وَجْهَهُ وَذَرَا عَلَيْهِ وَرَأْسَهُ وَقَالَ يَا عِكْرَاشُ هَذَا الْوَضُوءُ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ

۱۶۹۳۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تم میں سے کوئی کھانے لگے تو بسم اللہ پڑھے اور اگر بھول جائے تو کہے: "بسم اللہ فی اولہ و آخرہ"۔ اسی سند سے حضرت عائشہؓ سے منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک مرتبہ اپنے چھ صحابہؓ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے کہ ایک دیہاتی آیا۔ اور پورا کھانا دو ہاتھوں میں کھا گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر اس نے بسم اللہ پڑھی ہوتی تو یہ کھانا تم سب کے لیے کافی تھا۔

۱۶۹۳۔ حدثنا ابو بکر محمد بن ابان ثنا وكيع ثنا هشام الدستوائي عن بدیل بن ميسرة العُقَيْلِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أُمِّ كَلْثُومٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلْتَ أَحَدَكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ فَإِنَّ نَسِيَّ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ وَبِهَذَا الْأَسْنَادِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ طَعَامًا فِي سِتَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَأَكَلَ بِلِقْمَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّهُ لَوْ سَمِيَ لَكَفَأْتُمْ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۲۱۲۔ ہاتھ میں چکنائی کی بو ہونے کے باوجود سوجانا۔
۱۶۹۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: شیطان بہت حساس اور جلد ادراک کرنے والا ہے۔ لہذا اپنی جانوں کو اس سے

باب ۱۲۱۲۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْبَيْتُوتَةِ وَفِي يَدِهِ رِيحٌ غَمِيرٌ
۱۶۹۴۔ حدثنا احمد بن منيع ثنا يعقوب بن الوليد المدني عن ابن ابى ذئب عن المقبري عن أبي

بچا کر رکھا کرو۔ اور جو شخص ہاتھ سے چکنائی کی بوزاں کے بغیر سو گیا اور پھر اسے کچھ ہو گیا تو اپنے نفس کے علاوہ کسی چیز کو ملامت نہ کرے۔

هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ حَسَّاسٌ لِحَاسٍ فَاحْذَرُوهُ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ رِيحٌ عَمِرٍ فَاصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ

یہ حدیث اس سند سے حسن ہے اور اسے سہیل بن ابی صالح اپنے والد سے وہ ابو ہریرہؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ محمد بن اسحاق، ابوبکر بغدادی سے وہ محمد بن جعفر سے وہ منصور بن ابی اسود سے وہ اعمش سے وہ ابوصالح سے اور وہ ابو ہریرہؓ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ جو شخص چکنائی لگے ہاتھوں کے ساتھ سو جائے وہ اپنے نفس ہی کو ملامت کرے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم اسے اعمش کی احادیث میں سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

کھانے کے ابواب ختم ہو گئے۔

پینے کی اشیاء کے ابواب

باب ۱۲۱۳۔ شراب پینے والے کے متعلق

۱۶۹۵۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے لہذا جو شخص دنیا میں شراب پئے گا اور اس کا عادی ہونے کی حالت میں مرے گا وہ آخرت میں شراب نہیں پی سکے گا۔ (یعنی جنت کی)

أَبْوَابُ الْأَشْرَبَةِ

باب ۱۲۱۳۔ مَا جَاءَ فِي شَرَابِ الْخَمْرِ

۱۶۹۵۔ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ابْنُ دُرَيْسٍ أَبُو زَكَرِيَّا ثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي يُوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْعِيهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ

اس باب میں ابو ہریرہؓ، ابوسعیدؓ، عبداللہ بن عمرؓ، عبادہؓ، ابومالکؓ اشعری اور ابن عباسؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابن عمرؓ ہی سے اسی سند سے کئی طرح منقول ہے۔ مالک بن انس اسے نافع سے اور وہ ابن عمرؓ سے موقوفاً نقل کرتے ہیں۔

۱۶۹۶۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے شراب پی اللہ تعالیٰ اس کی چالیس دن تک نماز قبول نہیں کریں گے۔ پھر اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے اور پھر اگر وہ دوبارہ پئے گا تو پھر چالیس روز تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ پھر اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے۔ اسی طرح آپ ﷺ نے چار مرتبہ فرمایا: اور چوتھی مرتبہ فرمایا کہ اب اگر وہ توبہ بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں فرمائیں گے اور اسے کچھڑی نہر سے پلائیں گے۔ لوگوں نے کہا: ابو عبد الرحمنؓ (عبداللہ بن عمر) کچھڑی نہر کیا ہے؟ فرمایا: دو زخیوں کی پیپ۔

۱۶۹۶۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَمِيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةُ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةَ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةَ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةَ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ لَمْ يَتَبَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَقَاهُ مِنْ

نَهْرُ الْحَبَالِ قَبْلِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَا نَهْرُ الْحَبَالِ
فَالْ نَهْرُ مِنْ صَدِيدِ أَهْلِ النَّارِ

یہ حدیث حسن ہے۔ ابن عباسؓ اور ابن عمرؓ دونوں آنحضرت ﷺ سے اسی کے مثل احادیث بیان کرتے ہیں۔

باب ۱۲۱۳۔ ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔

۱۶۹۷۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے شہد کی شراب کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا: ہر وہ پینے والی چیز جو نشہ کرتی ہے وہ حرام ہے۔

۱۶۹۸۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔

باب ۱۲۱۴۔ مَا جَاءَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

۱۶۹۷۔ حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري ثنا
معن ثنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن ابي
سلمة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم
سئل عن البتخ فقال كل شراب اسكر فهو حرام
۱۶۹۸۔ حدثنا عبيد بن اسباط بن محمد القرشي
وابو سعيد الاشج قالانا ثنا عبدالله بن ادريس عن
محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابن عمر قال
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل
مسكر حرام

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں عمرؓ، علیؓ، ابن مسعودؓ، ابوسعیدؓ، ابو موسیٰؓ، اشج عصریؓ، دیلمؓ، عائشہؓ، میمونہؓ، ابن عباسؓ، قیس بن سعدؓ، نعمان بن بشیرؓ، معاویہؓ، عبداللہ بن مغفلؓ، ام سلمہؓ، بریدہؓ، ابو ہریرہؓ، وائل بن حجرؓ اور قرہ حزقیؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابوسلمہؓ سے بھی بواسطہ ابو ہریرہؓ اسی طرح کی حدیث مروفاً منقول ہے۔

باب ۱۲۱۵۔ جس چیز کی بہت سی مقدار نشہ دے اس کا تھوڑا سا استعمال بھی حرام ہے۔

۱۶۹۹۔ حضرت جابر بن عبداللہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ دیتی ہے اس کی تھوڑی سی مقدار استعمال کرنا بھی حرام ہے۔

باب ۱۲۱۵۔ مَا جَاءَ مَا اسْكُرَ كَثِيرًا فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

۱۶۹۹۔ حدثنا قتيبة ثنا اسمعيل بن جعفر ح و ثنا
علي بن حجر ثنا اسمعيل بن جعفر عن داود بن
بكر بن ابي الفرات عن محمد بن المنكدر عن
جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال ما اسكر كثيرا فقليله حرام

اس باب میں سعدؓ، عائشہؓ، عبداللہ بن عمروؓ، ابن عمرؓ اور خوات بن جبیرؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث جابرؓ کی روایت سے

حسن غریب ہے۔

۱۷۰۰۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہرنشہ آور چیز حرام ہے خواہ ”فرق“ (ایک پیمانہ ہے اس سے مراد زیادہ پینے پر نشہ

۱۷۰۰۔ حدثنا محمد بن بشار ثنا عبدالاعلی بن
عبدالاعلی عن هشام بن حسان عن مهدی بن

دینا ہے) کی مقدار نشہ دہی ہو۔ اس کا ایک چلو بھی پینا حرام ہے۔

میسون ح وثنا عبد الله بن معاوية الحمصي حدثنا
مهدي بن ميمون المعنى واحد عن ابي عثمان
الاصباري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر
حرام ما أسكر الفرق منه فملا الكف منه حرام

عبداللہ یا محمد میں سے کسی نے اپنی حدیث میں گھونٹ کے الفاظ نقل کیے ہیں یعنی ایک گھونٹ پینا بھی حرام ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ اسے لیث بن ابی سلیم اور ربیع بن صبیح، ابو عثمان انصاری سے مہدی کی حدیث کے مثل نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۲۱۶۔ منکوں میں نبیذ بنانا۔ (۱)

۱۷۰۱۔ حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ ایک شخص ابن عمرؓ کے پاس حاضر ہوا اور پوچھا: رسول اللہ ﷺ نے منکوں کی نبیذ سے منع فرمایا ہے؟ فرمایا: ہاں۔ طاؤس نے کہا: اللہ کی قسم میں نے بھی ان سے سنا ہے۔

باب ۱۲۱۶۔ ما جاء في نبذ الحجر
۱۷۰۱۔ حدثنا احمد بن منيع ثنا ابن عليه ويزيد
بن هارون قالوا ثنا سليمان التيمي عن طاؤس ان
رجلا اتى ابن عمر فقال نهى رسول الله صلى الله
عليه وسلم عن نبذ الحجر فقال نعم فقال طاؤس
والله اني سمعته منه

اس باب میں ابن ابی اوفی، سعید، سوید، عائشہ، ابن زبیر اور ابن عباسؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔

باب ۱۲۱۷۔ کدو کے توبے، سبز لاکھی گھڑے اور لکڑی (کھجور کی) کے برتن میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا۔

باب ۱۲۱۷۔ في كراهية أن يُنذ في الدباء والنقيير
والحتم

۱۷۰۲۔ حضرت عمرو بن مرہ، زاذان سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے ابن عمرؓ سے ان برتنوں کے متعلق پوچھا جن کے استعمال سے آنحضرت ﷺ نے منع فرمایا۔ اور کہا کہ ہمیں اپنی زبان میں ان برتنوں کے متعلق بتا کر ہماری زبان میں ان کی تفسیر کیجئے۔ ابن عمرؓ نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ نے ”حلتہ“ یعنی مکے، ”دباء“ یعنی کدو کے توبے، ”تھیر“ یعنی (لکڑی سے بنے ہوئے) دراصل جو کھجور کی جز سے بنا ہوا ہوتا ہے اسے اندر سے خرا د کر لیا جاتا ہے یا فرمایا اس کا چھلکا اتار کر اسے صاف کر لیا جاتا ہے اور ”مزفت“ یعنی لاکھی کے برتن میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا اور حکم دیا کہ منکوں میں نبیذ بنائی جائے۔

۱۷۰۲۔ حدثنا ابو موسى محمد بن المشي ثنا
ابوداؤد الطيالسي ثنا شعبة عن عمرو بن مرقال
سمعت زاذان يقول سألت ابن عمر عن ما نهى
عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوعية
وأخبرناه بلغيتكم وفيسره لنا بلغيتنا قال نهى رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن الحتمة وهي الحرة
ونهى عن الدباء وهي القرعة ونهى عن النقيير وهي
أصل النحل يُنقر نقرًا أو يُنسخ نسجًا ونهى عن
المزفت وهو المقير وأمر أن يُنذ في الأسقية

(۱) نبیذیہ شربت کی ایک قسم ہے جو کھجور یا انگور کو پانی میں بھلو کر کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ اس میں ہلکی سی تیزی اور تغیر پیدا ہو جائے۔ لیکن اگر اتنا

ہو جائے کہ نشہ دینے لگے تو وہ حرام ہے۔ (مترجم)

اس باب میں عمرؓ علیؓ، ابن عباسؓ، ابوسعیدؓ، ابو ہریرہؓ، عبدالرحمن بن میسرہؓ، انسؓ، عائشہؓ، عمران بن حصینؓ، عائذ بن عمروؓ، حکم غفاریؓ اور میمونؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

توضیح: ان برتنوں میں نبیذ بنانے سے منع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کی جلد سڑ جاتی ہے اور اس زمانے میں یہ برتن خاص طور پر شراب بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ اور مشکوں میں نبیذ بنانے کی اجازت کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس میں نشہ پیدا ہوگا تو مشک پھٹ جائے گی۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۱۲۱۸۔ مَا جَاءَ فِي الرَّخِصَةِ أَنْ يُتَبَدَّ فِي الظُّرُوفِ

۱۷۰۳۔ حدثنا محمد بن بشار و الحسن بن علي و محمود بن غيلان قالوا ثنا ابو عاصم ثنا سفيان عن علقمه بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنني كنت نهيتكم عن الظروف وإن ظرفاً لا يجعل شيئاً ولا يحرمه وكل مسكر حرام

۱۷۰۳۔ حضرت بريدةؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں نے تمہیں (چند) برتنوں میں نبیذ بنانے سے منع کیا تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ برتن کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں کرتا۔ لہذا ہر وہ چیز ہی حرام ہے جس میں نشہ ہے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۷۰۴۔ حدثنا محمود بن غيلان ثنا ابو داود الحفري عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف فشكت إليه الأنصار فقالوا ليس لنا وعاء قال فلا إذا

۱۷۰۴۔ حضرت جابر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے (مخصوص) برتنوں (میں نبیذ بنانے) سے منع فرمایا۔ چنانچہ انصار نے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے پاس اور برتن نہیں ہیں۔ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: تو پھر میں اس سے منع نہیں کرتا۔

اس باب میں ابن مسعودؓ، ابو ہریرہؓ، ابوسعیدؓ اور عبداللہ بن عمرؓ سے بھی احادیث منقول ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔
توضیح: ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے باب میں چند برتنوں میں نبیذ بنانے کی ممانعت ان احادیث سے منسوخ ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۱۲۱۹۔ مَا جَاءَ فِي الْإِنْتَابِ فِي السِّقَاءِ

۱۷۰۵۔ حدثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الوهاب الثقفي عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري عن أمه عن عائشة قالت كنا نبيذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكأ أغلاؤه له عزلاء نبيذ غدوة ويشربته عشاءاً ونبيذ عشاءاً ويشربته غدوة

۱۷۰۵۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ہم آنحضرت ﷺ کے لیے مشک میں نبیذ بنانا کرتے تھے۔ اور اس کا اوپر کا منہ باندھ دیتے تھے جب کہ اس کے نیچے بھی ایک چھوٹا منہ تھا۔ ہم اگر مریج بھگوئے تو آپ ﷺ کو بی لیتے اور اگر شام کو بھگوئی جاتی تو صبح بیا کرتے تھے۔

باب ۱۲۱۹۔ مشک میں نبیذ بنانا۔

۱۷۰۵۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ہم آنحضرت ﷺ کے لیے مشک میں نبیذ بنانا کرتے تھے۔ اور اس کا اوپر کا منہ باندھ دیتے تھے جب کہ اس کے نیچے بھی ایک چھوٹا منہ تھا۔ ہم اگر مریج بھگوئے تو آپ ﷺ کو بی لیتے اور اگر شام کو بھگوئی جاتی تو صبح بیا کرتے تھے۔

اس باب میں جابر ابو سعیدؓ اور ابن عباسؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم اسے یونس بن عبدی کی روایت سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں پھر یہ حدیث حضرت عائشہؓ سے اور سند سے بھی مقبول ہے۔

باب ۱۲۲۰۔ مَا جَاءَ فِي الْخُبُوبِ الَّتِي يُتَّخَذُ مِنْهَا الْخَمْرُ
 ۱۷۰۶۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَوْسُفَ
 ثَنَا اسْرَائِيلُ ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهَاجِرٍ عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ عَنْ
 الثُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ الْجِنَطَةِ خَمْرًا وَمِنَ الشَّعِيرِ خَمْرًا وَمِنَ
 التَّمْرِ خَمْرًا وَمِنَ الزَّبِيبِ خَمْرًا وَمِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا

باب ۱۲۲۰۔ ان اشیاء کے متعلق جن سے شراب بنتی تھی۔
 ۱۷۰۶۔ حضرت نعمان بن بشیرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
 گیسوں، جو، کھجور، انگور اور شہد سب سے شراب بنتی ہے۔

اس باب میں ابو ہریرہؓ سے بھی حدیث منقول ہے۔ یہ حدیث غریب ہے اسے حسن بن علی خلال، یحییٰ بن آدم سے اور وہ اسرائیل سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ ابو حیان تمیمی بھی یہ حدیث شعی سے وہ ابن عمرؓ سے اور وہ عمرؓ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: ”بیشک گیسوں سے شراب بنتی ہے۔“ پھر یہ حدیث ذکر کی۔ اسے ہم سے احمد بن منیع، عبد اللہ بن ادریس کے حوالے سے وہ ابو حیان تمیمی سے وہ شعی سے وہ ابن عمرؓ سے اور وہ عمر بن خطابؓ سے نقل کرتے ہیں کہ شراب گیسوں سے ہی ہوتی ہے اور یہ ابراہیم کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔ علی بن مدینی کہتے ہیں کہ ابراہیم بن مہاجر یحییٰ بن سعید کے نزدیک قوی نہیں۔

باب ۱۲۰۷۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنُ
 الْمُبَارَكِ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ وَعِكْرَمَةُ بْنُ عَمَارٍ قَالَا ثَنَا
 أَبُو كَثِيرٍ السُّحَيْمِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاهُ زَيْدَةَ يَقُولُ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَمْرُ مِنْ
 هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةِ وَالْعَنْبَةِ

۱۷۰۷۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: شراب
 ان دو درختوں سے ہے یعنی کھجور اور انگور۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو کثیر تمیمی، غمری ہیں اور ان کا نام یزید بن عبد الرحمن بن غفیلہ ہے۔

باب ۱۲۲۱۔ مَا جَاءَ فِي خَلِيطِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ
 ۱۷۰۸۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ
 أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُتَّبَدَ الْبُسْرُ وَالرُّطْبُ جَمِيعًا
 یہ حدیث صحیح ہے۔

باب ۱۲۲۱۔ گدرا اور تر کھجور کو ملا کر نبیذ بنانا۔
 ۱۷۰۸۔ حضرت جابر بن عبد اللہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے کھجوں
 اور کھجوروں کو ملا کر نبیذ بنانے سے منع فرمایا۔

باب ۱۲۰۹۔ حَدَّثَنَا سَفِيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ
 سَلِيْمَانَ التَّمِيْمِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ
 لَيْبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ أَنْ
 ۱۷۰۹۔ حضرت ابو سعیدؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے کھجوں
 اور کھجور کو ملا کر، کھجور اور انگور کو ملا کر نبیذ بنانے اور منکوں میں نبیذ تیار
 کرنے سے منع فرمایا۔

يُخْلَطُ بَيْنَهُمَا وَنَهَى عَنِ الرَّيْبِ وَالسَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَ
بَيْنَهُمَا وَنَهَى عَنِ الْجِرَارِ أَنْ يُتَشَدَّ فِيهَا

اس باب میں انس، جابر، ابوقادہ، ابن عباس، ام سلمہ اور معبد بن لعب سے بھی حدیثیں نقل کی گئی ہیں۔ معبد اپنی والدہ سے نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۲۲۲۔ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الشُّرْبِ فِي اِنْبِيَةِ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

۱۷۱۰۔ حَدَّثَنَا بِنْدَارٌ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ
عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يُحَدِّثُ أَنَّ
حَدِيْفَةَ اسْتَسْفَى فَاَتَاهُ اِنْسَانٌ بِاِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ
قَالَ اِنِّي كُنْتُ قَدْ نَهَيْتُهُ قَابِي اَنْ يَنْتَهِيَ اِنَّ رَسُوْلَ
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي اِنْبِيَةِ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَبَسَ الْحَرِيْرَ وَالذِّيْبَاجَ وَقَالَ هِيَ
لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْاٰخِرَةِ

اس باب میں ام سلمہ، براء اور عائشہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۲۲۳۔ مَاجَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا

۱۷۱۱۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا ابْنُ اَبِي عَدِي
عَنْ سَعِيدِ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى اَنْ يُشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا فِقِيلُ
الْاَكْلِ قَالَ ذَاكَ اَشَدُّ
یہ حدیث صحیح ہے۔

۱۷۱۲۔ حَدَّثَنَا حَمِيدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ

الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ اَبِي مُسْلِمٍ
الْحَدْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْعَلَاءِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا

اس باب میں ابوسعید، ابو ہریرہ اور انس سے بھی حدیثیں منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ اور اسے کئی راوی سعید سے وہ

قتادہ سے وہ ابومسلم سے وہ جارود سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: کسی مسلمان کی گری ہوئی چیز اٹھا لینا دوزخ میں جلتے کا سبب ہے۔ (بشرطیکہ اسے پہنچانے کی نیت نہ ہو) جارود بن معطلی کو ابن علاء بھی کہتے ہیں۔ صحیح ابن معطلی ہی ہے۔

باب ۱۲۲۲۔ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے کی ممانعت۔

۱۷۱۰۔ حضرت حکم کہتے ہیں کہ میں نے ابن ابی لیلیٰ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ حدیفہ نے پانی مانگا تو ایک شخص چاندی کے برتن میں پانی لے کر حاضر ہوا۔ انہوں نے اسے پھینک دیا اور فرمایا: میں نے اس سے منع کیا تھا لیکن یہ باز نہیں آیا۔ جب کہ رسول اللہ ﷺ نے سونے اور چاندی کے برتنوں میں پینے سے منع فرمایا اور اسی طرح ریشم اور دیباچ کا لباس پہننے سے بھی منع کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ تم لوگوں کیلئے آخرت میں ہے اور ان لوگوں کے لیے دنیا میں۔

باب ۱۲۲۳۔ کھڑے ہو کر پانی پینے کی ممانعت۔

۱۷۱۱۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا تو پوچھا گیا کہ کھانے کا کیا حکم ہے؟ فرمایا: وہ تو اس سے بھی بُرا ہے۔

۱۷۱۲۔ حضرت جارود بن علاء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے

کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا۔

اس باب میں ابوسعید، ابو ہریرہ اور انس سے بھی حدیثیں منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ اور اسے کئی راوی سعید سے وہ

قتادہ سے وہ ابومسلم سے وہ جارود سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: کسی مسلمان کی گری ہوئی چیز اٹھا لینا دوزخ میں جلتے کا سبب ہے۔ (بشرطیکہ اسے پہنچانے کی نیت نہ ہو) جارود بن معطلی کو ابن علاء بھی کہتے ہیں۔ صحیح ابن معطلی ہی ہے۔

باب ۱۲۲۴۔ مَا جَاءَ فِي الرَّحْصَةِ فِي الشُّرْبِ قَائِمًا
 ۱۷۱۳۔ حَدَّثَنَا أَبُو النَّسَائِبِ سَلَمُ بْنُ جِنَادَةَ بْنِ سَلَمِ
 الْكُوفِيِّ تَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
 عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَكُنُّ عَلَيْنَا عَهْدَ
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَمَشِي
 وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ

باب ۱۲۲۴۔ کھڑے ہو کر پینے کی اجازت
 ۱۷۱۳۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے زمانے
 میں چلتے پھرتے اور کھڑے کھایا پیا کرتے تھے۔

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے یعنی عبید اللہ بن عمر کی نافع سے اور ان کی ابن عمر کی روایت سے عمران بن حدیر بھی یہ حدیث ابو بزری
 سے اور انہوں نے ابن عمر سے نقل کی ہے۔ اور ابو بزری کا نام یزید بن عطار ہے۔

۱۷۱۴۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ تَنَا هَشِيمُ تَنَا عَاصِمُ
 الْأَحْوَلُ وَمَغِيرَةُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ وَهُوَ قَائِمٌ
 اس باب میں علیؑ، سعدؓ، عبداللہ بن عمرؓ اور عائشہؓ بھی احادیث نقل کرتی ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۷۱۵۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ تَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ
 حَسَنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
 جَدِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا
 حضرت عمرو بن شعیب سے یہ حدیث ہے اور وہ ان سے روایت
 نقل کرتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ کو کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر
 پیتے ہوئے دیکھا۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔
 توضیح: ان احادیث میں سے بعض حضرات ممانعت والی احادیث کو کھڑے ہو کر پینے کی کراہت تشریح پر محمول کرتے ہیں۔ اور عدم
 ممانعت والی احادیث کو اس کے جواز پر ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ ان میں اس طرح بھی تو بین ممکن ہے کہ کھڑے ہو کر پینا زمرم کے پانی
 کے ساتھ یا وضو سے بچے ہوئے پانی کے ساتھ مخصوص کر دیا جائے اور اس کے علاوہ بیٹھ کر پیا جائے۔ واللہ اعلم۔ (مترجم)

باب ۱۲۲۵۔ مَا جَاءَ فِي التَّنْفُسِ فِي الْإِنَاءِ
 ۱۷۱۶۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ وَيُوسُفُ بْنُ حَمَادٍ قَالَا تَنَا
 عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عِصَامٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ
 مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَفَّسُ
 فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا وَيَقُولُ هُوَ أَمْرًا وَكُرْوَى

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہشام دستوائی اسے ابو عصام سے اور وہ انس سے نقل کرتے ہیں۔ عزہ بن ثابت بھی ہشام سے اور وہ انس سے
 نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ پانی برتن میں پیتے وقت تین مرتبہ سانس لیا کرتے تھے۔ ہندار یہ حدیث عبدالرحمن بن مہدی سے وہ عزہ سے
 اور وہ ہشام بن انس سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ برتن میں پانی پیتے وقت تین مرتبہ سانس لیا کرتے تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

۱۷۱۷۔ حدثنا ابو كريب ثنا وكيع عن يزيد بن سنان
الجزري عن ابن العطاء بن ابي رباح عن ابيه عن ابن
عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا تشربوا واحدا كشرب البعير ولكن اشربوا متنى
وثلاث وسموا اذا اتم شربتم واحملوا اذا اتم رفعتم

یہ حدیث غریب اور یزید بن سنان جزری کی کثرت ابو فروہ راوی ہے۔

باب ۱۲۲۶۔ مَا جَاءَ فِي الشُّرْبِ بِنَفْسَيْنِ

۱۷۱۸۔ حدثنا علي بن حشرم حدثنا عيسى بن يونس
عن رشدين بن كريب عن ابيه عن ابن عباس ان النبي
صلى الله عليه وسلم كان اذا شرب يتنفس مرتين

باب ۱۲۲۶۔ دو سانسوں میں پانی پینا

۱۷۱۸۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب پانی پیتے
تو دو مرتبہ سانس لیتے۔

یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرف رشدین بن کربیب کی روایت سے جانتے ہیں امام ترمذی کہتے ہیں میں نے عبد اللہ بن
عبد الرحمن سے رشدین بن کربیب کے متعلق پوچھا۔ میں نے کہا یہ زیادہ قوی ہیں یا محمد بن کربیب۔ انہوں نے فرمایا: دونوں قریب قریب
ہیں لیکن رشدین میرے نزدیک زیادہ راجح ہیں۔ پھر میں نے امام بخاری سے پوچھا تو انہوں نے محمد کو رشدین پر ترجیح دی۔ جب کہ
میرے نزدیک ابو محمد عبد اللہ بن عبد الرحمن کا قول زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے کہ رشدین بڑے ہیں اور ابن عباس سے ملاقات کر چکے ہیں۔
مزید یہ کہ یہ دونوں بھائی ہیں اور ان کی منکر احادیث بھی ہیں۔

باب ۱۲۲۷۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّفْخِ فِي الشُّرَابِ

۱۷۱۹۔ حدثنا علي بن حشرم ثنا عيسى بن يونس عن
مالك بن انس عن ايوب وه ابن حبيب انه سمع ابا
المثنى الجهني يذكر عن ابي سعيد بن الخدري ان النبي
صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب فقال
رجل القنأة اراها في الإناء فقال اهرقها فقال فاتي
لازوي من نفس واحد قال فابن القدح اذا عن فيك

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۲۲۷۔ پینے کی چیز میں پھونکنے سے منع

۱۷۱۹۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے پینے کی
چیز میں پیتے وقت پھونکنے سے منع فرمایا: ایک شخص نے عرض کیا:
اگر اس میں کوئی کوڑا وغیرہ ہو تو؟ فرمایا: اسے گرا دو۔ اس نے عرض کیا:
میں ایک سانس میں سیر نہیں ہوتا۔ فرمایا: تو جب سانس لو تو پیالہ اپنے
منہ سے ہٹا دو۔

۱۷۲۰۔ حدثنا ابن ابي عمر ثنا سفيان عن

عبدالكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس ان
النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتنفس في الإناء
وان ينفخ فيه

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۷۲۰۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے برتن میں
سانس لینے اور اس میں پھونکنے سے منع فرمایا۔

باب ۱۲۲۸۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّنَفُّسِ فِي الْإِنَاءِ
 ۱۷۲۱۔ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا عَبْدِ الصَّمَدِ
 بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ ثَنَا هِشَامُ الدِّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ
 أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَرِبَ
 أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ
 یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۲۲۹۔ مَا جَاءَ فِي اخْتِنَانِ الْأَسْقِيَةِ
 ۱۷۲۲۔ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ ثَنَا سَفِيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ
 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَوَايَةً أَنَّهُ نَهَى
 عَنْ اخْتِنَانِ الْأَسْقِيَةِ
 اس باب میں جابر، ابن عباس اور ابو ہریرہ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۲۳۰۔ مَا جَاءَ فِي الرُّخَصَةِ فِي ذَلِكَ
 ۱۷۲۳۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى ثَنَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ ثَنَا
 عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَيْسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ
 قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ إِلَى قُرْبَةِ
 مُعَلَّقَةٍ فَخَنَّثَهَا ثُمَّ شَرِبَ مِنْ فِيهَا
 اس باب میں ام سلمہ بھی حدیث نقل کرتی ہیں لیکن اس کی سند صحیح نہیں اور عبد اللہ بن عمر حافظے کی وجہ سے ضعیف ہیں مجھے یہ بھی نہیں
 معلوم کہ ان کا عیسیٰ سے سماع ہے یا نہیں۔

باب ۱۲۳۱۔ مَا جَاءَ فِي الْإِنَاءِ
 ۱۷۲۴۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَمْرٍو ثَنَا سَفِيَانُ عَنْ يَزِيدِ بْنِ
 يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ
 جَدِّتِهِ كَبِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَرِبَ مِنْ فِي قُرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ فَأَيْمًا فَقُمْتُ
 إِلَى فِيهَا فَقَطَعْتُهَا
 اس باب میں ام سلمہ بھی حدیث نقل کرتی ہیں لیکن اس کی سند صحیح نہیں اور عبد اللہ بن عمر حافظے کی وجہ سے ضعیف ہیں مجھے یہ بھی نہیں
 معلوم کہ ان کا عیسیٰ سے سماع ہے یا نہیں۔

باب ۱۲۳۲۔ مَا جَاءَ فِي الْإِنَاءِ
 ۱۷۲۵۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَمْرٍو ثَنَا سَفِيَانُ عَنْ يَزِيدِ بْنِ
 يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ
 جَدِّتِهِ كَبِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَرِبَ مِنْ فِي قُرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ فَأَيْمًا فَقُمْتُ
 إِلَى فِيهَا فَقَطَعْتُهَا
 یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ اور یزید بن یزید، عبد الرحمن بن یزید کے بیٹے ہیں اور یزید، عبد الرحمن سے پہلے
 فوت ہوئے۔

باب ۱۲۳۱۔ مَا جَاءَ أَنَّ الْأَيْمَنِينَ أَحَقُّ بِالشَّرْبِ
 ۱۷۲۶۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَمْرٍو ثَنَا سَفِيَانُ عَنْ يَزِيدِ بْنِ
 يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ
 جَدِّتِهِ كَبِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَرِبَ مِنْ فِي قُرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ فَأَيْمًا فَقُمْتُ
 إِلَى فِيهَا فَقَطَعْتُهَا
 اس باب میں ام سلمہ بھی حدیث نقل کرتی ہیں لیکن اس کی سند صحیح نہیں اور عبد اللہ بن عمر حافظے کی وجہ سے ضعیف ہیں مجھے یہ بھی نہیں
 معلوم کہ ان کا عیسیٰ سے سماع ہے یا نہیں۔

باب ۱۲۳۲۔ مَا جَاءَ فِي الْإِنَاءِ
 ۱۷۲۷۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَمْرٍو ثَنَا سَفِيَانُ عَنْ يَزِيدِ بْنِ
 يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ
 جَدِّتِهِ كَبِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَرِبَ مِنْ فِي قُرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ فَأَيْمًا فَقُمْتُ
 إِلَى فِيهَا فَقَطَعْتُهَا
 اس باب میں ام سلمہ بھی حدیث نقل کرتی ہیں لیکن اس کی سند صحیح نہیں اور عبد اللہ بن عمر حافظے کی وجہ سے ضعیف ہیں مجھے یہ بھی نہیں
 معلوم کہ ان کا عیسیٰ سے سماع ہے یا نہیں۔

باب ۱۲۳۳۔ مَا جَاءَ فِي الْإِنَاءِ
 ۱۷۲۸۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَمْرٍو ثَنَا سَفِيَانُ عَنْ يَزِيدِ بْنِ
 يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ
 جَدِّتِهِ كَبِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَرِبَ مِنْ فِي قُرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ فَأَيْمًا فَقُمْتُ
 إِلَى فِيهَا فَقَطَعْتُهَا
 اس باب میں ام سلمہ بھی حدیث نقل کرتی ہیں لیکن اس کی سند صحیح نہیں اور عبد اللہ بن عمر حافظے کی وجہ سے ضعیف ہیں مجھے یہ بھی نہیں
 معلوم کہ ان کا عیسیٰ سے سماع ہے یا نہیں۔

باب ۱۲۳۴۔ مَا جَاءَ فِي الْإِنَاءِ
 ۱۷۲۹۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَمْرٍو ثَنَا سَفِيَانُ عَنْ يَزِيدِ بْنِ
 يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ
 جَدِّتِهِ كَبِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَرِبَ مِنْ فِي قُرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ فَأَيْمًا فَقُمْتُ
 إِلَى فِيهَا فَقَطَعْتُهَا
 اس باب میں ام سلمہ بھی حدیث نقل کرتی ہیں لیکن اس کی سند صحیح نہیں اور عبد اللہ بن عمر حافظے کی وجہ سے ضعیف ہیں مجھے یہ بھی نہیں
 معلوم کہ ان کا عیسیٰ سے سماع ہے یا نہیں۔

باب ۱۲۳۵۔ مَا جَاءَ فِي الْإِنَاءِ
 ۱۷۳۰۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَمْرٍو ثَنَا سَفِيَانُ عَنْ يَزِيدِ بْنِ
 يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ
 جَدِّتِهِ كَبِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَرِبَ مِنْ فِي قُرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ فَأَيْمًا فَقُمْتُ
 إِلَى فِيهَا فَقَطَعْتُهَا
 اس باب میں ام سلمہ بھی حدیث نقل کرتی ہیں لیکن اس کی سند صحیح نہیں اور عبد اللہ بن عمر حافظے کی وجہ سے ضعیف ہیں مجھے یہ بھی نہیں
 معلوم کہ ان کا عیسیٰ سے سماع ہے یا نہیں۔

۱۷۲۵۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پانی ملا ہوا دودھ پیش کیا گیا۔ آپ ﷺ کی وہی طرف ایک دیہاتی اور بائیں طرف ابوبکرؓ تھے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے خود پینے کے بعد دیہاتی کو دیا اور فرمایا: داہنے والا زیادہ مستحق ہے۔

باب ۱۲۳۲۔ پلانے والا خود آخر میں پئے۔

۱۷۲۶۔ حضرت ابوقادہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: پلانے والے کو سب سے آخر میں پینا چاہئے۔

اس باب میں ابن ابی اونی بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۲۳۳۔ مشروبات میں سے آنحضرت ﷺ کون سا مشروب زیادہ پسند کرتے تھے؟

۱۷۲۷۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میٹھی اور ٹھنڈی چیز آنحضرت ﷺ مشروبات میں سب سے زیادہ پسند کیا کرتے تھے۔

۱۷۲۶۔ حدثنا قتیبة ثنا حماد بن زید عن ثابت البنانی عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَأَلِي الْقَوْمَ إِحْرَهُمْ شَرَبًا

۱۷۲۷۔ حدثنا ابن ابی عمر ثنا سفیان بن عیینة عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قلت كان أحب الشرب إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۱۷۲۸۔ حدثنا احمد بن محمد ثنا عبد الله بن المبارك ثنا معمر و بونس عن الزهري أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل عن الشرب أطلب قال الحلو البارد

۱۷۲۹۔ حدثنا بندار ثنا يحيى بن سعيد ثنا بهز بن

یہ حدیث کئی راوی ابن عیینہ سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ یعنی ابن عیینہ، زہری سے وہ عروہ سے اور وہ ام المؤمنین عائشہؓ سے لیکن صحیح وہی ہے جو زہری آنحضرت ﷺ سے مرسل نقل کرتے ہیں۔

۱۷۲۸۔ زہریؓ نبی اکرم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ سے پوچھا گیا کہ کون سا مشروب سب سے عمدہ ہے۔ فرمایا: ٹھنڈا اور میٹھا۔

۱۷۲۹۔ حدثنا بندار ثنا يحيى بن سعيد ثنا بهز بن

عبدالرزاق بھی عمر سے اسی طرح نقل کرتے ہیں یعنی عمر، زہری سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اور یہ حدیث ابن عیینہ کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

والدین کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کے متعلق

أَبْوَابُ الْبِرِّ وَالصَّلَاةِ عَنْ

آنحضرت ﷺ سے منقول احادیث کے ابواب

رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب ۱۲۳۳۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک

باب ۱۲۳۴۔ مَا جَاءَ فِي بَرِّ الْوَالِدَيْنِ

۱۷۲۹۔ حضرت حکیم اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا

۱۷۲۹۔ حدثنا بندار ثنا يحيى بن سعيد ثنا بهز بن

رسول اللہ ﷺ کون بھلائی (حسن سلوک) کا زیادہ مستحق ہے۔ فرمایا: تمہاری والدہ۔ میں نے عرض کیا پھر کون؟ فرمایا: تمہاری والدہ۔ عرض کیا: ان کے بعد؟ فرمایا: تمہاری والدہ۔ میں نے چوتھی مرتبہ عرض کیا۔ ان کے بعد کون زیادہ مستحق ہے تو اس مرتبہ آپ ﷺ نے فرمایا: تمہارے والد اور ان کے بعد اقرباء میں سے جو سب سے زیادہ قریبی ہو اور اسی طرح درجہ بدرجہ۔

اس باب میں حضرت ابو ہریرہؓ، عبد اللہ بن عمروؓ، عائشہؓ، ابو برداءؓ اور بہز بن حکیم جو معاویہ بن عبد القیس کے بیٹے ہیں بھی حدیث نقل کرتے ہیں اور یہ حدیث سنن ہے اور شعبہ نے بہز بن حکیم کے بارے میں کلام کیا ہے۔ لیکن محمد شین کے نزدیک وہ ثقہ ہیں اور ان سے معمر، سفیان ثوری، حماد بن سلمہ اور بہت سے ائمہ روایت کرتے ہیں۔

باب -

باب منہ۔

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا بس میں نے دریافت کیا رسول اللہ کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا: نماز اپنے وقت پر۔ تو میں نے کہا، اس کے بعد یا رسول اللہ؟ فرمایا: والدین سے اچھا سلوک کرنا۔ پھر میں نے پوچھا، پھر کونسا یا رسول اللہ؟ فرمایا: جہاد فی سبیل اللہ۔ پھر آپ ﷺ خاموش ہو گئے اور اگر میں زیادتی کرتا تو آپ ﷺ بھی مزید جواب فرماتے۔

حدثنا احمد بن محمد ثنا عبد الله بن المبارك عن المسعودی عن الوليد بن العيزار عن ابی عمرو الشیبانی عن ابن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اى الاعمال افضل قال الصلوة لميقاتها قلت ثم ماذا يا رسول الله قال يرثو لدين قال قلت ثم ماذا يا رسول الله قال الجهاد فى سبيل الله ثم سكت عنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزدنى

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسے شیبانی، شعبہ اور کئی راوی ولید بن عیزار سے نقل کرتے ہیں اور پھر کئی سندوں سے ابو عمر و شیبانی سے بھی بواسطہ ابن مسعود منقول ہے۔ ابو عمر و شیبانی کا نام سعد بن ایاس ہے۔

باب ۱۲۳۵۔ والدین کے راضی ہونے کی فضیلت۔
۱۷۳۰۔ حضرت ابو برداءؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میری والدہ مجھے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا حکم دیتی ہیں۔ ابو برداءؓ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ وہ جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے بند یا ہوا اس کی حفاظت کر دو، ورنہ اسے ضائع کر دو سفیان بھی والدہ کا ذکر کرتے ہیں اور بھی والد کا۔

باب ۱۲۳۵۔ مَا جَاءَ مِنَ الْفَضْلِ فِي رِضَا الْوَالِدَيْنِ
۱۷۳۰۔ حدثنا ابن ابی عمير ثنا سفیان عن عطاء بن السائب عن ابی عبد الرحمن السُّلَمِيِّ عَنْ ابی الدَّرْدَاءِ قَالَ اَنَّ رَجُلًا اَتَاهُ فَقَالَ اِمْرَاةٌ مِنْ اُمَّيْ قَامُرُنِي بِطَلَاقِهَا فَقَالَ اَبُو الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ الْوَالِدُ اَسْطُ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَاِنْ شِئْتَ فَاَصْبَحْ ذَلِكَ الْبَابُ وَاحْفَظْهُ وَرُبَّمَا قَالَ اِنَّ اُمَّيْ وَرُبَّمَا قَالَ ابِي

یہ حدیث صحیح ہے اور عبد الرحمن سلمیٰ کا نام عبد اللہ بن حبیب ہے۔

عن سهیل بن ابی صالح عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والد الا ان يحدده مملوكا فيشتره فيعتقه

اپنے والد کا حق ادا نہیں کر سکتا ہاں البتہ یہ اس صورت میں ممکن ہے کہ اگر وہ اپنے والد کو غلام پائے اور اسے خرید کر آزاد کر دے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اسے ہم صرف سهیل بن ابی صالح کی روایت سے جانتے ہیں۔ سفیان اور کئی راوی بھی سهیل سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۲۳۰۔ قطع رحمی کرنا۔

۱۷۳۹۔ حدثنا ابن ابی عمرو وسعيد بن عبدالرحمن المنزومي قالانا ثنا سفیان بن عيينة عن الزهري عن ابی سلمة قال اشتكى ابوالدرداء فعاده عبدالرحمن بن عوف فقال خيرهم واوصلهم ما علمت ابو محمد فقال عبدالرحمن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى انا الله وانا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته

۱۷۳۹۔ حضرت عبدالرحمنؓ، آنحضرت ﷺ سے حدیث قدسی نقل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ ”میں اللہ ہوں، میں رحمن ہوں میں نے ہی رحم کو پیدا کیا اور پھر اسے اپنے نام سے چیرا لہذا جو شخص صلہ رحمی کرے گا میں اسے ملاؤں گا اور جو قطع رحمی کرے گا۔ میں اسے کاٹوں گا۔“

باب ۱۲۴۰۔ ما جاء في قطيعة الرحم

اس باب میں ابوسعیدؓ، ابن ابی اوفیؓ، عامر بن ربیعؓ، ابو ہریرہؓ اور جبیر بن مطعمؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ سفیان کی زہری سے منقول حدیث صحیح ہے۔ اسے معمر، زہری سے وہ ابوسلمہ سے وہ رذادیشی سے اور وہ عبدالرحمن بن عوف سے نقل کرتے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ معمر کی حدیث غلط ہے۔

باب ۱۲۳۱۔ صلہ رحمی کی فضیلت۔

۱۷۴۰۔ حدثنا ابن ابی عمرو وسعيد بن عبدالرحمن المنزومي قالانا ثنا سفیان بن عيينة عن الزهري عن ابی سلمة قال اشتكى ابوالدرداء فعاده عبدالرحمن بن عوف فقال خيرهم واوصلهم ما علمت ابو محمد فقال عبدالرحمن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى انا الله وانا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته

۱۷۴۰۔ حضرت عبداللہ بن عمروؓ، آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو کسی قرابت دار کی نیکی کے بدلے نیکی کرے بلکہ وہ ہے جو قطع رحمی کے باوجود اسے ملائے اور صلہ رحمی کرے۔

باب ۱۲۴۱۔ ما جاء في صلة الرحم

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں سلمانؓ اور عائشہؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔

۱۷۴۱۔ حدثنا ابن ابی عمرو وسعيد بن عبدالرحمن المنزومي قالوا ثنا سفیان عن الزهري عن محمد بن جبیر بن مطعم عن ابيه قال

۱۷۴۱۔ حضرت جبیر بن مطعمؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ابن ابی عمرؓ بھی سفیان سے یہی نقل کرتے ہیں کہ اس سے مراد قطع رحم کرنے والا ہے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں سلمانؓ اور عائشہؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِي قَاطِعَ رَجِمَ .
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۲۴۲۔ مَا جَاءَ فِي حُبِّ الْوَلَدِ

۱۷۴۲۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسِرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي سُوَيْدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ زَعَمَتِ الْمَرَاةُ الصَّالِحَةُ حَوْلَةَ بِنْتُ حَكِيمٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مُحْتَضِرٌ أَحَدَ ابْنَيْ ابْنَتِهِ هُوَ وَيَقُولُ إِنَّكُمْ لَتَبْخَلُونَ وَتُحِبُّونَ وَتُجْهَلُونَ وَإِنَّكُمْ لَمِنْ رِيحَانِ اللَّهِ

باب ۱۲۴۳۔ بیٹے کی محبت۔

۱۷۴۳۔ حضرت خولہ بنت حکیمؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک مرتبہ اپنے ایک نواسے کو گود میں لے کر نکلے اور فرمایا: بے شک تم لوگ (بچے) انسان کو بخیل کر دیتے ہو، بزدل کر دیتے ہو، جاہل کر دیتے ہو اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تم اللہ کے عطا کردہ خوشبودار پودوں میں سے ہو۔

اس باب میں ابن عمرؓ اور اشعث بن قیسؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ ابن عیینہ کی ابراہیم بن میسرہ سے منقول حدیث کو ہم صرف انہی کی سند سے جانتے ہیں۔ اور عمر بن عبدالعزیز کے خولہ سے سماع کا ہمیں علم نہیں۔

باب ۱۲۴۳۔ مَا جَاءَ فِي رَحْمَةِ الْوَلَدِ

۱۷۴۳۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبْصَرَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُقْبَلُ الْحَسَنَ وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْحَسَيْنِ أَوْ الْحَسَنَ فَقَالَ إِنَّ لِي مِنَ الْوَلَدِ عَشْرَةَ مَا قَبِلْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يَرْحَمُ

باب ۱۲۴۳۔ بچوں پر شفقت کرنا۔

۱۷۴۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ اقرع بن حابس نے رسول اللہ ﷺ کو حضرت حسنؓ کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا۔ ابن ابی عمیر اپنی بیان کردہ حدیث میں حسنؓ یا حسینؓ کا ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ اقرع نے کہا: میرے دس بیٹے ہیں میں نے کبھی ان کا بوسہ نہیں لیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔

اس باب میں انس اور عائشہؓ سے بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ اور ابوسلمہ بن عبدالرحمن کا نام عبد اللہ ہے۔ یہ حدیث صحیح حسن ہے۔

باب ۱۲۴۴۔ لڑکیوں کی پرورش کی فضیلت۔

باب ۱۲۴۴۔ مَا جَاءَ فِي النَّفَقَاتِ عَلَيَّ الْبَنَاتِ

۱۷۴۴۔ حضرت ابوسعد خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس کسی کی تین بیٹیاں یا تین بہنیں یا دو بیٹیاں یا دو بہنیں تھیں۔ اور اس نے اچھی طرح ان کی پرورش کی۔ پھر اس دوران اللہ سے ڈرتا رہا اس کے لیے جنت ہے۔

۱۷۴۴۔ حَدَّثَنَا اِحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ الْمُبَارَكِ ثَنَا ابْنُ عِيْنَةَ عَنْ سَهِيلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ اَيُّوبَ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ الْأَعْمَشِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْخَدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثُ

عَنْهُ أَنْ يُوسِعُوا لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَفَقَتْ أَوْ بَرَّءُ كَأَحْتِرَامِ نَهْ كَرَّءِ اس كَاهِمِ سَعِ كُوْلِي تَعْلُقِ نَهْيَسِ -
لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُؤَفِّرْ كَبِيرَنَا

اس باب میں عبد اللہ بن عمرؓ، ابو ہریرہؓ، ابن عباسؓ اور ابوامامہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں یہ حدیث غریب ہے۔ اور زربی کی حضرت انسؓ وغیرہ سے منکر حدیثیں ہیں۔ ابو بکر محمد بن ابان، محمد بن فضیل سے وہ محمد بن اسحاق سے وہ عمرو بن شعیب سے وہ اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم اور بڑے کا احترام نہیں کرے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ ابو بکر محمد بن ابان ہی یزید بن ہارون سے وہ شریک سے وہ لیث سے وہ عکرمہ سے اور وہ ابن عباسؓ سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جو ہمارے چھوٹوں پر رحم، بڑوں کا ادب، نیکی کا حکم اور برائی سے منع نہیں کرے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ حدیث حسن غریب اور عمرو بن شعیب کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اور عبد اللہ بن عمرو ہی سے اور سندوں سے بھی منقول ہے۔ بعض علماء ”وہ ہم میں سے نہیں“ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ہماری سنت اور ادب کے خلاف ہے۔ علی بن مدینی، یحییٰ بن سعید سے نقل کرتے ہیں کہ سفیان ثوری اس تفسیر کو قبول نہیں کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ہماری طرح نہیں ہے۔

باب۔ لوگوں پر رحم کرنے کے بارے میں۔

باب۔ ماجاء فی رحمة الناس۔

۱۷۵۲۔ حضرت جریر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو لوگوں پر رحم نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کریں گے۔

۱۷۵۲۔ حدثنا بندار ثنا يحيى بن سعيد عن اسمعيل بن ابي خالد ثنا قيس بن ابي حازم ثنا جريير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يرحم الناس لا يرحمه الله

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں عبد الرحمن بن عوفؓ، ابو سعیدؓ، ابن عمرؓ، ابو ہریرہؓ اور عبد اللہ بن عمروؓ سے بھی روایت ہے۔

۱۷۵۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ میں نے ابوقاسمؓ کو فرماتے ہوئے سنا کہ شقی القلب کو رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔

۱۷۵۳۔ حدثنا محمود بن غيلان ثنا ابو داود ثنا شعبة قال كتبت به الى منصور وقراته عليه سمع ابا عثمان مولى المغيرة بن شعبه عن ابي هريرة قال سمعت ابا القاسم يقول لا تنزع الرحمة الا من شقي

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو عثمان کا نام مجھے نہیں معلوم۔ کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ بن ابوعثمان کے والد ہیں جن سے ابو زناد نقل کرتے ہیں۔ ابو زناد، موسیٰ بن ابوعثمان سے وہ اپنے والد سے اور آنحضرت ﷺ سے کئی احادیث نقل کرتے ہیں۔

۱۷۵۴۔ حضرت عبد اللہ بن عمروؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: رحم کرنے والوں پر رحمت بھی رحم کرتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ رحم بھی رحمت کی شاخ ہے جس نے اس کو جوڑا اللہ تعالیٰ بھی اس سے رشتہ جوڑ لیں گے اور جو اسے قطع کرے گا۔ اللہ بھی اس سے قطع تعلق کر لیں گے۔

۱۷۵۴۔ حدثنا ابن ابي عمر ثنا سفیان عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء الرحم شحنة من الرحمن فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعته الله

ابن ماجہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک عورت آئی دوڑ کیوں کو لے کر آپ نے اس کو تین کھجوریں عنایت کیں اور اس نے پہلے ایک ایک دونوں کو دی پھر ایک کو چیر کر دونوں پر تقسیم کر دیا، پھر آنحضرت ﷺ تشریف لائے اور فرمایا اچھا کام کیا اس نے داخل ہوگئی وہ بسبب اس حسنہ کے جنت میں اور عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے سنا آنحضرت ﷺ کو فرماتے تھے جس کی تین بیٹیاں ہوں وہ ان کی پرورش پر صبر کرے اور ان کو کھلاوے پلاوے اور پہناوے اپنے مقدر کے موافق اس کے لیے پردہ ہوں گی وہ دوزخ کی آگ سے قیامت کے دن اور ابن عباس سے مروی ہے کہ جس کی دوڑ کیاں ہوں پس اچھی طرح اس نے ان کا ساتھ دیا داخل کریں گی وہ اس کو جنت میں غرض فضائل بیٹیوں کی پرورش کے اس لیے زیادہ آئے ہیں کہ اس میں ماں باپ کو صبر کرنا پڑتا ہے اول پرورش میں بعد جوانی کے سودا مادوں کے غم و زیادتی پر اور بہر حال سوائے صبر و ثبات کے کچھ چارہ نہیں ہوتا اور سوائے بار کے کسی طرح کی امید اعانت کی ان سے نہیں ہوتی۔

باب ۱۲۴۵۔ مَا جَاءَ فِي رَحْمَةِ النَّبِيِّمْ وَكَفَالَتِهِ

باب ۱۲۳۵۔ یتیم پر رحم کرنا اور اس کی کفالت کرنا۔

۱۷۴۹۔ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالِقَانِيُّ ثَنَا

۱۷۴۹۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص

الْمُعْتَمِرُ بْنُ سَلِيمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَحْدُثُ عَنْ

مسلمانوں میں سے کسی یتیم کو اپنے کھانے پینے میں شامل کرے گا۔ اللہ

حَنَسٌ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

تعالیٰ بلا شک و شبہ اسے جنت میں داخل کریں گے الا یہ کہ وہ کوئی ایسا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَضَىٰ يَتِيمًا مِنْ بَيْنِ الْمُسْلِمِينَ

گناہ کرے جو معاف نہ کیا جاتا ہو۔

إِلَىٰ طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ النَّبْتَةَ إِلَّا أَنْ

يَعْمَلَ ذَنْبًا لَا يُغْفَرُ

اس باب میں مرہ فہرئی، ابو ہریرہ، ابوامامہ اور سہل بن سعد بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ حش کا نام حسین بن قیس اور کنیت ابوعلی رجبی ہے۔ سلیمان تمیمی کہتے ہیں کہ حش محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں۔

۱۷۵۰۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ ابُو الْقَاسِمِ

۱۷۵۰۔ حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں

الْمَكِّي الْقُرَشِيُّ ثَنَا عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ

جنت میں یتیم کی اس طرح کفالت کرنے والا ہوں اور پھر اپنی دونوں

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

انگلیوں سے اشارہ کیا۔ یعنی شہادت اور بیچ کی انگلی۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ

وَأَشَارَ بِأَصْبَعَيْهِ يَعْنِي السَّبَابَةَ وَالْوَسْطَىٰ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

توضیح: اس طرح کی احادیث سے مراد اس شخص کی بلندی درجات ہے نہ یہ کہ وہ انبیاء و مرسلین کے مقام پر فائز ہو جائے گا۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۱۲۴۶۔ مَا جَاءَ فِي رَحْمَةِ الصَّبِيَّانِ

باب ۱۲۳۶۔ بچہ پر رحم کرنا۔

۱۷۵۱۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقِ الْبَصْرِيُّ ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ

۱۷۵۱۔ حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص

وَأَقْبَدَ عَنْ زُرَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ

آنحضرت ﷺ سے ملاقات کی غرض سے حاضر ہوا۔ لوگوں نے اسے

جَاءَ شَيْخٌ يُرِيدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبْطَأَ الْقَوْمُ

راستہ دینے میں تاخیر کی تو آپ ﷺ نے فرمایا: جو شخص کسی چھوٹے پر

أَخْوَاتٍ أَوْ ابْنَتَانِ أَوْ أُخْتَانِ فَأَحْسَنَ صُحَّتَهُنَّ
وَأَتَقَى اللَّهَ فِيهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ

۱۷۴۵۔ حدثنا قتيبة ثنا عبدالعزيز بن محمد عن سهيل بن ابى صالح عن سعيد بن عبد الرحمن عن ابى سعيد بن الخدرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكون لآحدكم ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة

۱۷۴۶۔ حدثنا العلاء بن مسلمة ثنا عبدالمجيد بن عبدالعزيز عن معمر بن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتلى بشيء من البنات فصبر عليهن كن له حجاباً من النار

۱۷۴۷۔ حدثنا احمد بن محمد ثنا عبد الله بن المبارك ثنا معمر عن ابن شهاب ثنا عبد الله بن ابى بكر بن حزم عن عروة عن عائشة قالت دخلت امرأة معها ابنتان لها فسألت فلم تجد عندي شيئاً غير تمر فاعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت ودخل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلى بشيء من هذه البنات كن له ستراً من النار

۱۷۴۸۔ حدثنا محمد بن وزير الواسطي ثنا محمد بن عبيد ثنا محمد بن عبدالعزيز الراسبي عن ابى بكر بن عبيد الله بن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كها تين وأشار بإصبعيه

۱۷۴۵۔ روایت ہے ابی سعید خدری سے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نہیں کسی کی تین بیٹیاں یا تین بہنیں پھر احسان کرے ان پر مگر داخل ہوگا جنت میں۔

۱۷۴۶۔ روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا جو گرفتار ہو ان لڑکیوں کے بلا میں پھر صبر کرے ان کی پرورش کی مصیبتوں پر ہو ویں گی وہ اس کا پردہ دوزخ کی آگ سے۔

۱۷۴۷۔ روایت ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا انہوں نے کہ آئی میرے پاس ایک عورت کہ اس کے ساتھ دو لڑکیاں تھیں پھر سوال کیا اس نے سونہ پایا اس نے میرے پاس سے کچھ سو ایک کھجور کے پھر دے دی میں نے اس کو اور اس نے بانٹ دی اپنی دونوں لڑکیوں کو اور آپ نہ کھائی پھر اٹھ کر چلی گئی اور تشریف لائے میرے پاس نبی ﷺ اور خبر دی میں نے آپ کو سو فرمایا نبی ﷺ نے جو گرفتار ہو ان لڑکیوں میں یہ اس کے لیے دوزخ سے پردہ ہوں گی۔

۱۷۴۸۔ روایت ہے انس بن مالک سے کہ فرمایا رسول خدا ﷺ نے جو پالے دو لڑکیوں کو داخل ہوں گا میں اور وہ جنت میں مانند ان کی اور اشارہ کیا آپ ﷺ نے اپنی دو انگلیوں سے یعنی کلمہ اور بیچ کی انگلی سے۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ سُفْيَانٌ يَعْنِي قَاطِعُ رَحِمٍ
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۲۴۲۔ مَا جَاءَ فِي حُبِّ الْوَالِدِ

باب ۱۲۴۲۔ بیٹے کی محبت۔

۱۷۴۲۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ اِبْرَاهِيمَ
بن میسرہ قال سمعت ابن ابی سوید یقول سمعت
عمر بن عبدالعزیز یقول زعمت المرأة الصالحة
..... خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مُحْتَضِرٌ أَحَدَ ابْنَيْ
أَبْتِهِ هُوَ وَيَقُولُ إِنَّكُمْ لَتُبَخِّلُونَ وَتُجْبِنُونَ وَتُجْهَلُونَ
وَإِنَّكُمْ لَمَنْ رِيحَانِ اللَّهِ

۱۷۴۲۔ حضرت خولہ بنت حکیم فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک مرتبہ اپنے ایک نواسے کو گود میں لے کر نکلے اور فرمایا: بے شک تم لوگ (بچے) انسان کو بخیل کر دیتے ہو، بزدل کر دیتے ہو، جاہل کر دیتے ہو اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تم اللہ کے عطا کردہ خوشبودار پودوں میں سے ہو۔

اس باب میں ابن عمر اور اشعث بن قیس سے بھی احادیث منقول ہیں۔ ابن عیینہ کی ابراہیم بن میسرہ سے منقول حدیث کو ہم صرف انہی کی سند سے جانتے ہیں۔ اور عمر بن عبدالعزیز کے خولہ سے سماع کا ہمیں علم نہیں۔

باب ۱۲۴۳۔ مَا جَاءَ فِي رَحْمَةِ الْوَالِدِ

باب ۱۲۴۳۔ بچوں پر شفقت کرنا۔

۱۷۴۳۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَسَعِيدُ بْنُ
عبدالرحمن قال ثنا سفیان عن الزهري عن أبي
سَلْمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبْصَرَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُقْبَلُ الْحَسَنَ وَقَالَ
ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْحَسَيْنِ أَوْ الْحَسَنَ فَقَالَ إِنَّ لِي مِنَ
الْوَالِدِ عَشْرَةَ مَا قَبِلْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يَرْحَمُ

۱۷۴۳۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اقرع بن حابس نے رسول اللہ ﷺ کو حضرت حسن کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا۔ ابن ابی عمیر نے بیان کردہ حدیث میں حسن یا حسین کا ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ اقرع نے کہا: میرے دس بیٹے ہیں میں نے کبھی ان کا بوسہ نہیں لیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔

اس باب میں انس اور عائشہ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ اور ابوسلمہ بن عبدالرحمن کا نام عبد اللہ ہے۔ یہ حدیث صحیح حسن ہے۔

باب ۱۲۴۴۔ مَا جَاءَ فِي النَّفَقَاتِ عَلَى الْبَنَاتِ

باب ۱۲۴۴۔ لڑکیوں کی پرورش کی فضیلت۔

۱۷۴۴۔ حَدَّثَنَا اِحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ
المبارك ثنا ابن عيينة عن سهيل بن ابی صالح
عن ايوب بن بشير عن سعيد الأعشى عن أبي
سَعِيدِ بْنِ الْخَدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثُ

۱۷۴۴۔ حضرت ابوسعد خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس کسی کی تین بیٹیاں یا تین بہنیں یا دو بیٹیاں یا دو بہنیں تھیں۔ اور اس نے اچھی طرح ان کی پرورش کی۔ پھر اس دوران اللہ سے ڈرتا رہا اس کے لیے جنت ہے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۲۴۷۔ ماجاء فی النَّصِيْحَةِ

باب ۱۲۴۷۔ نصیحت کے متعلق

۱۷۵۵۔ حدثنا بندار ثنا صفوان بن عيسى عن محمد بن عجلان عن الفقعاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ثلاث مرار قالوا يا رسول الله لمن قال لله ولكتابه ولائمة المسلمين وعامتهم

۱۷۵۵۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے تین مرتبہ فرمایا: دین نصیحت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! کس کے لیے؟ فرمایا: اللہ، اس کی کتاب، مسلمان اہل اقتدار اور عام مسلمانوں کے لیے۔

یہ حدیث حسن ہے۔ اور اس باب میں ثوبان، ابن عمر، تمیم، جریر اور حکیم بن ابوزید سے بھی احادیث منقول ہیں۔ حکیم اپنے والد سے نقل کرتے ہیں۔

توضیح: نصیحت ایسا کلمہ ہے جو نصیحت کیے جانے والے شخص کو ارادہ خیر کے لئے کہا جاتا ہے۔ اللہ کے لیے نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح اعتقاد رکھا جائے صرف اسی کی عبادت کی جائے اس کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے۔ اور ہر عمل خالصہ ذات باری تعالیٰ ہی کے لیے کیا جائے۔ اس کی کتاب کے ساتھ نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تصدیق کی جائے۔ اور اس پر عمل کیا جائے۔ ارباب اقتدار کے لیے نصیحت سے مراد یہ ہے کہ حق چیزوں میں ان کی اطاعت کی جائے اور بغاوت نہ کی جائے۔ اور اس کے بعد عام مسلمانوں کے لیے نصیحت کے معنی یہ ہیں کہ انہیں ان کے مصالح کے متعلق صحیح مشورے دیئے جائیں۔ واللہ اعلم (مترجم)

۱۷۵۶۔ حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد عن اسمعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاة واتباء الزكوة والنصح لكل مسلم

۱۷۵۶۔ حضرت جابر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ سے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کو نصیحت کرنے پر بیعت کی۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۲۴۸۔ ماجاء فی شَفَقَةِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ

باب ۱۲۴۸۔ مسلمان کا مسلمان پر شفقت کرنا۔

۱۷۵۷۔ حدثنا عبيد بن اسباط بن محمد القرشي ثنا ابي عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحذبه ولا يكذبه ولا يحذله كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه التقوى ههنا بحسب امرىء من الشر ان يحقر أخاه المسلم

۱۷۵۷۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مسلمان، مسلمان کا بھائی ہے۔ لہذا وہ اس کے ساتھ خیانت کا معاملہ نہ کرے، جھوٹ نہ بولے اور اسے اپنی مدد و نصرت سے محروم نہ کرے۔ ہر مسلمان کی دوسرے مسلمان پر عزت، مال اور خون حرام ہے۔ تقویٰ یہاں ہے یعنی دل میں (آپ ﷺ نے اشارہ کیا) کسی شخص کے بُرے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتا ہے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۷۵۸- حدثنا الحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا ثنا ابواسامة عن بريد بن عبد الله بن ابني بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا

یہ حدیث صحیح ہے اس باب میں علیؑ اور ابوبؑ سے بھی احادیث منقول ہیں۔

۱۷۵۹- حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی (مسلمان) کے لیے آئینے کی مانند ہے۔ لہذا اگر کوئی کسی میں عیب دیکھے تو اسے دور کر دے۔ یعنی اسے بتائے۔

۱۷۵۹- حدثنا احمد بن محمد ثنا عبد الله بن المبارك ثنا يحيى بن عبيد الله عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احدكم مرآة اخيه فان رأى به اذى فليمطه عنه

شعبہ، یحییٰ بن عبید اللہ کو ضعیف قرار دیتے ہیں اور اس باب میں انسؓ بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۲۴۹- مسلمانوں کی پردہ پوشی کرنا۔

باب ۱۲۴۹- مَا جَاءَ فِي السِّرِّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ

۱۷۶۰- حضرت ابو ہریرہؓ، آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ سرور کونین ﷺ نے فرمایا: جس کسی نے کسی مسلمان کی ایک دنیاوی تکلیف دور کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف دور کر دیں گے۔ اور جو شخص کسی تنگ دست پر دنیا میں آسانی و سہولت کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر دنیا و آخرت میں آسانی کریں گے۔ اور جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کی ستر پوشی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کی دنیا و آخرت میں ستر پوشی کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے

۱۷۶۰- حدثنا عميد بن اسباط القرشي ثنا ابني ثناء الاعمش قال حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مسلم كربة من كربة من الدنيا فمن يسر الله عنه كربة من كربة من القيمة ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والأخرة ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والأخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه

اس باب میں ابن عمرؓ اور عقبہ بن عامرؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے۔ ابو عوانہ اور کئی راوی یہ حدیث اعمش سے وہ ابوصالح سے وہ ابو ہریرہؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہوئے اعمش کے اس قول کا ذکر نہیں کرتے کہ ابو صالح سے روایت ہے۔

باب ۱۲۵۰- مسلمان سے عیب دور کرنا

باب ۱۲۵۰- مَا جَاءَ فِي الذَّبِّ عَنِ الْمُسْلِمِ

۱۷۶۱- حضرت ابو درداءؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص اپنے بھائی کی عزت سے اس چیز کو دور کرے گا۔ جو اسے عیب دار کرتی ہو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے منہ سے دوزخ کی آگ دور کر دیں گے۔

۱۷۶۱- حدثنا احمد بن محمد ثنا عبد الله بن ابني بكر النهشلي عن مرزوق ابني بكر التيمي عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه

النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

اس باب میں اسماء بنت یزید بھی حدیث نقل کرتی ہیں یہ حدیث حسن ہے۔

باب ۱۲۵۱۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْهَجْرِ لِلْمُسْلِمِ

۱۷۶۲۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ثَنَا سَفِيَانُ ثَنَا الزُّهْرِيُّ ح وَ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثَنَا سَفِيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجِلُّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَهْجَرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ ثَلَاثِ يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ

باب ۱۲۵۱۔ ترک ملاقات کی ممانعت۔

۱۷۶۲۔ حضرت ابو ایوب انصاریؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کسی مسلمان کے لیے اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ تین دن سے زیادہ بات نہ کرنا حلال نہیں اس حالت میں کہ وہ دونوں راستے میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں اور وہ ایک دوسرے سے اعراض کریں پھر ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔

اس باب میں عبد اللہ بن مسعود، انس، ابو ہریرہ، ہشام بن عامر اور ابو ہند داریؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے۔

باب ۱۲۵۲۔ مَا جَاءَ فِي مُوَاَسَاةِ الْأَخِ

۱۷۶۳۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا اسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ قَالَ لَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ بِالْمَدِينَةِ أَخَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ لَهُ هَلُمَّ أَقَا سَمَكَ مَالِي يَصْفَيْنِ وَلِيْ أَمْرَاتَانِ فَأَطْلِقْ أَحَدَهُمَا فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجْهَا فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَا لِكَ ذُلُّوْنِي عَلَى السُّوقِ فَذَلُّوهُ عَلَى السُّوقِ فَمَا رَجَعَ يَوْمَئِذٍ إِلَّا وَمَعَهُ شَيْءٌ مِنْ أَقِطٍ وَ سَمِنٍ قَدْ اسْتَفْضَلَهُ فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ وَضْرٌ صُفْرَةٌ قَالَ مَهْمِمٌ فَقَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ فَمَا أَصْدَقْتُهَا قَالَ نَوَاةٌ قَالَ حُمَيْدٌ أَوْ قَالَ وَزْنٌ نَوَاةٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ أَوْلِمُ وَلَوْ بِشَاةٍ

باب ۱۲۵۲۔ بھائی کے ساتھ مروت کے ساتھ پیش آنا۔

۱۷۶۳۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ جب عبد الرحمن بن عوفؓ مدینہ منورہ تشریف لائے تو آنحضرت ﷺ نے انہیں سعد بن ربیعؓ کا بھائی بنا دیا۔ سعد نے کہا: آؤ میں اپنا مال دو حصوں میں تقسیم کر دوں میرے پاس وہ بیویاں بھی ہیں لہذا میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں۔ جب اس کی عدت پوری ہو جائے تو تم اس سے شادی کر لینا۔ عبد الرحمن نے کہا: اللہ تعالیٰ تمہارے اہل و مال میں برکت عطا فرمائے تم مجھے بازار کا راستہ بتا دو۔ انہیں بازار کا راستہ بتا دیا گیا۔ جب وہ اس روز بازار سے واپس آئے تو ان کے پاس اقط (ایک چیز کا نام) اور تھوڑا سا گھی تھا۔ جسے انہوں نے منافع کے طور پر کمایا تھا۔ پھر (تھوڑے دن بعد) آنحضرت ﷺ نے انہیں دیکھا تو ان پر زردی کا نشان تھا۔ آپ ﷺ نے پوچھا: یہ کیا ہے؟ عرض کیا: میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کر لی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا مہر مقرر کیا ہے؟ عرض کیا: ایک گنٹھلی کے برابر سونا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ولیمہ کرو۔ اگرچہ ایک بکری سے ہی کرو۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ گنٹھلی بھر سونا: تین اور ثلث درہم کے برابر ہوتا ہے۔ یعنی ۳ ۱/۳ جب کہ اسحاق پانچ

درہم کے برابر کہتے ہیں۔ مجھے احمد بن حنبل کا یہ قول اسحاق بن منصور نے اسحاق کے حوالے سے بتایا ہے۔

باب ۱۲۵۳۔ غیبت کے متعلق

باب ۱۲۵۳۔ مَا جَاءَ فِي الْغَيْبَةِ

۱۷۶۳- حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا: غیبت کیا ہے؟ فرمایا: تمہارا اپنے بھائی کو اس طرح یاد کرنا کہ وہ اسے پسند نہ کرتا ہو۔ عرض کیا: اگر وہ عیب واقعی اس میں موجود ہو تو؟ فرمایا: اگر تم اس عیب کا تذکرہ کرو۔ جو واقعی اس میں ہے تو یہ غیبت ہے ورنہ تو پہتان ہو جائے گا۔

اس باب میں ابو ہریرہؓ، ابو ہریرہؓ، ابن عمرؓ اور عبد اللہ بن عمروؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۲۵۳- حسد کے متعلق

۱۷۶۵- حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ملنا جلنا ترک نہ کرو، کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی نہ کرو۔ کسی سے بغض نہ رکھو اور کسی سے حسد نہ کرو۔ اور خالص اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بن جاؤ۔ کسی مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ تین دن سے زیادہ قطع کلامی جائز نہیں۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں ابو بکر صدیقؓ، زبیر بن عوامؓ، ابن عمرؓ، ابن مسعودؓ اور ابو ہریرہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔

۱۷۶۶- روایت ہے سالم سے وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے کہ فرمایا آنحضرت ﷺ نے رشک نہ کرنا چاہئے مگر دو شخصوں پر ایک وہ مرد کہ دیا اللہ تعالیٰ نے اسے مال اور وہ خرچ کرتا ہے اس میں سے رات کے وقتوں میں اور دن کے وقتوں میں اور دوسرا مرد کہ دیا اللہ نے اس کو قرآن اور وہ ادا کرتا ہے اس کے حق کورات کے وقتوں میں اور دن کے وقتوں میں۔

باب ۱۲۵۵- آپس میں بغض رکھنے کی برائی میں۔

۱۷۶۷- روایت ہے جابر سے کہ فرمایا رسول خدا ﷺ نے کہ شیطان مایوس ہو گیا اس سے کہ پوچھیں اسے نمازی لوگ، لیکن لڑائی جھگڑا ڈالے گا ان میں۔

باب ۱۲۵۶- آپس میں صلح کے بیان میں

۱۷۶۸- روایت ہے اسماء بنت یزید سے کہا کہ رسول خدا ﷺ فرمایا حلال نہیں ہے جھوٹ مگر تین مقاموں میں ایک تو بات کرے آدمی اپنی

۱۷۶۴- حدثنا قتيبة ثنا عبدالعزيز بن محمد عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله ما الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره قال أرايت إن كان فيه ما نقول قال إن كان فيه ما نقول فقد اغتبتته وإن لم يكن فيه ما نقول فقد بهتته

باب ۱۲۵۴- ما جاء في الحسد

۱۷۶۵- حدثنا عبد الجبار بن العلاء ابن عبد الجبار العطار وسعيد بن عبدالرحمن قالنا ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباعضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث

۱۷۶۶- حدثنا ابن أبي عمير ثنا سفيان الزهري عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنين رجل اتاه الله مالا فهو ينفق منه إناء الليل وإناء النهار ورجل اتاه الله القرآن فهو يقوم به إناء الليل وإناء النهار

باب ۱۲۵۵- ما جاء في التباعد

۱۷۶۷- حدثنا هناد ثنا ابو معاوية عن الاعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبد المصلون ولكن في التحريش بينهم

باب ۱۲۵۶- ما جاء في إصلاح ذات البين

۱۷۶۸- حدثنا محمد بن بشار ثنا ابو احمد ثنا سفيان ح وثنا محمود بن غيلان ثنا بشر بن

عورت سے تاکہ راضی کرے اس کو اور دوسرے جھوٹ بولنا لڑائی میں اور تیسرے جھوٹ بولنا تاکہ صلح کرے آدمیوں میں اور محمود نے اپنی روایت میں کہا درست نہیں جھوٹ مگر تین جگہ میں۔

السرى وابو احمد قالالا ثنا سفیان عن ابن خثیم عن شَهْرِبْنِ حَوْشِبٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجُلُ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ يُحَدِّثُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لِيُرْضِيَهَا وَالْكَذِبُ فِي الْحَرْبِ وَالْكَذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ وَقَالَ مَحْمُودٌ فِي حَدِيثِهِ لَا يَصْلِحُ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ

اس حدیث کو نہیں پہچانتے ہم اسماء کی روایت سے مگر ابن خثیم کی سند سے اور روایت کی داؤد بن ابی ہند نے یہ حدیث شہر بن حوشب سے انہوں نے نبی ﷺ سے اور نہیں ذکر کیا اس میں اسماء کا خبر دی ہم کو اس کی ابو کریب نے انہوں نے روایت کی ابن ابی زائدہ سے انہوں نے داؤد بن ابی ہند سے اور اس باب میں ابو بکرؓ سے بھی روایت ہے۔

۱۷۶۹۔ حضرت ام کلثوم بنت عقبہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ جو شخص لوگوں میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولے وہ جھوٹا نہیں بلکہ وہ نیک بات کہنے والا یا اچھائی کو فروغ دینے والا ہے۔

۱۷۶۹۔ حدثنا احمد بن منيع ثنا اسمعيل بن ابراهيم عن معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم بنت عقبة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نما خيرا
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۲۵۷۔ خیانت اور دھوکہ دہی کے متعلق۔

باب ۱۲۵۷۔ مَا جَاءَ فِي الْخِيَانَةِ وَالْعِشِّ

۱۷۷۰۔ حضرت ابو صرمدؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو کسی کو ضرر یا تکلیف پہنچانے کا اللہ بھی اسے ضرر اور تکلیف پہنچائیں گے۔

۱۷۷۰۔ حدثنا قتيبة ثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى ابن جبان عن لؤلؤة عن أبي صرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صار الله به ومن شاق شاق الله عليه

یہ حدیث حسن غریب ہے اور اس باب میں ابو بکرؓ بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔

۱۷۷۱۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے کسی مومن کو ضرر پہنچایا، یا اس کے ساتھ فریب کیا وہ ملعون ہے۔

۱۷۷۱۔ حدثنا عبد بن حميد ثنا زيد بن حباب العكلى ثنا ابوسلمة الكندي ثنا فرقد السنجي عن مرة بن شراحيل الهمداني وهو الطيب عن أبي بكر بن الصديق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من صار مؤمنا أو مكر به

یہ حدیث غریب ہے۔

باب ۱۲۵۸۔ مَا جَاءَ فِي حَقِّ الْحَوَارِ

باب ۱۲۵۸۔ پڑوسی کا حق۔

۱۷۷۲۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَلِيِّ ثَنَا سَفِيَانُ
عَنْ دَاوُدَ بْنِ شَابُورٍ وَبِشِيرِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُجَاهِدٍ
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو ذُبِحَتْ لَهُ شَاةٌ فِي أَهْلِهِ فَلَمَّا
جَاءَ قَالَ أَهَدَيْتُمْ لِحَارِنَا الْيَهُودِيَّ أَهَدَيْتُمْ لِحَارِنَا
الْيَهُودِيَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ مَا زَالَ جِبْرِئِيلُ يُوصِينِي بِالْحَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ
أَنَّهُ سَيُورُنِي

۱۷۷۲۔ مجاہد کہتے ہیں کہ عبد اللہ بن عمروؓ کے گھر میں ان کے لیے ایک
بکری ذبح کی گئی۔ جب وہ آئے تو دو مرتبہ پوچھا: کیا تم لوگوں نے
ہمارے یہودی پڑوسی کو گوشت وغیرہ بھیجا ہے۔ اس لیے کہ میں نے
رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: جبریلؑ مجھے ہمیشہ پڑوسی کے ساتھ
بھلائی اور احسان کی وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ میں سمجھا کہ وہ
اسے وارث کر دیں گے۔

اس باب میں عائشہؓ، ابن عباسؓ، عقبہ بن عامرؓ، ابو ہریرہؓ، انسؓ، عبد اللہ بن عمروؓ، مقداد بن اسودؓ، ابو شریحؓ اور ابو امامہؓ سے بھی
احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے اور مجاہد سے بھی ابو ہریرہؓ اور عائشہؓ کے واسطے سے منقول ہے۔

۱۷۷۳۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى
بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو بِن
حِزْمٍ عَنْ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا زَالَ جِبْرِئِيلُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ
يُوصِينِي بِالْحَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورُنِي

۱۷۷۳۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جبریلؑ
ہمیشہ مجھے پڑوسی کے متعلق نصیحت کرتے رہے یہاں تک کہ میں گمان
کرنے لگا کہ وہ اسے وارث بنا دیں گے۔

۱۷۷۴۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
الْمُبَارَكِ عَنْ حَبِيْبَةَ بِنِ شَرِيْحٍ عَنْ شَرْحِبِيْلِ بْنِ شَرِيْحٍ
عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ وَخَيْرُ
الْحَيْرَانِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِحَارِهِ

۱۷۷۴۔ حضرت عبد اللہ بن عمروؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ساتھی وہ ہے۔ جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر
ہے اور بہتر پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہے۔

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ابو عبد الرحمن حبلی کا نام عبد اللہ بن زید ہے۔

باب ۱۲۵۹۔ مَا جَاءَ فِي الْإِحْسَانِ إِلَى الْخَادِمِ

باب ۱۲۵۹۔ خادم پر احسان کرنے کے متعلق

۱۷۷۵۔ حَدَّثَنَا بِنْدَارٌ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا
سَفِيْنٌ عَنْ وَاصِلٍ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخْوَانُكُمْ
حَعْلَهُمُ اللَّهُ فَنِيَّةٌ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ

۱۷۷۵۔ حضرت ابو ذرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (یہ بھی)
تمہارے بھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے ہاتھوں کے نیچے جو ان
کر دیا ہے۔ لہذا جس کے ماتحت اس کا بھائی (خادم) ہوا ہے چاہے
کہ وہ اسے اپنے کھانے میں سے کھانا کھلائے اپنے لباس جیسا لباس

تَحْتَ يَدِهِ فَلْيَطْعَمَهُ مِنْ طَعَامِهِ وَلْيَلْبَسَهُ مِنْ لِبَاسِهِ
وَلَا يَكْلِفُهُ مَا يُغْلِبُهُ فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يُغْلِبُهُ فَلْيُعِنَهُ

پہنائے اور اسے ایسے کام کا مکلف نہ کرے جسے وہ نہ کر سکتا ہو لیکن اگر
کبھی ایسا ہو جائے تو خود بھی اس کی اعانت کرے

اس باب میں علیؑ، ام سلمہؓ، ابن عمرؓ، ابو ہریرہؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۷۷۶۔ حدثنا احمد بن منيع ثنا يزيد بن هارون
عن همام بن يحيى عن فرقد عن مرة عن أبي بكر
ن الصَّيْتِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا
يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّءُ الْمَلَكَةِ

۱۷۷۶۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ، رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ
آپ ﷺ نے فرمایا: بد اخلاق آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

یہ حدیث غریب ہے۔ ابواب سختیانی اور کئی راوی فرقد سخی پر اعتراض کرتے ہیں کہ ان کا حافظ قوی نہیں۔

باب ۱۲۶۰۔ النَّهْيُ عَنِ ضَرْبِ الْخُدَّامِ وَشْتَمِهِمْ
۱۷۷۷۔ حدثنا احمد بن محمد ثنا عبد الله عن
فضيل بن غزوان عن ابن ابي نعيم عن أبي هريرة قال
قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم نبى التوبة من
قدف مملوكه بريئا مما قال له أقام الله عليه الحد
يوم القيامة إلا أن يكون كما قال

باب ۱۲۶۰۔ خادموں کو مارنے اور گالی دینے کی ممانعت۔
۱۷۷۷۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ تو بہ کی صفت سے متصف نبی
البرقاسم ﷺ نے فرمایا: جو اپنے غلام یا لونڈی پر زنا کی تہمت لگائے گا اور وہ
اس سے بری ہوں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر حد جاری
کریں گے۔ الایہ کہ اس کا الزام صحیح ہو۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اس باب میں سوید بن مقرنؓ اور عبد اللہ بن عمرؓ بھی حدیثیں نقل کرتے ہیں۔ اور ابن ابی نعیم کا نام عبد الرحمن بن
ابی نعیم جلی اور کنیت ابوالحکم ہے۔

۱۷۷۸۔ حدثنا محمود بن غيلان ثناء مؤمل ثنا
سفيان عن الاعمش عن ابراهيم التيمي عن أبيه عن
أبي مسعود قال كنت أضرب مملوكا فسمعت
قائلا من خلفي يقول أعلم أبا مسعود أعلم
أبا مسعود قالت فت فإذا أنا برسول الله صلى الله
عليه وسلم فقال لله أقدر عليك منك عليه قال
أبو مسعود فما ضربت مملوكا لي بعد ذلك

۱۷۷۸۔ حضرت ابو مسعودؓ کہتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا کہ
میرے پیچھے سے ایک آواز آئی۔ خبردار ابو مسعود جان لو ابو مسعود! میں
نے مڑ کر دیکھا تو اچانک آپ ﷺ میرے سامنے کھڑے تھے۔ فرمایا:
اللہ تعالیٰ تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ ابو مسعود ٹھراتے ہیں کہ
اس کے بعد میں نے کبھی کسی خادم کو نہیں مارا۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابراہیم تمیمی، یزید بن شریک کے بیٹے ہیں۔

باب ۱۲۶۱۔ مَا جَاءَ فِي آدَبِ الْخَادِمِ
۱۷۷۹۔ حدثنا احمد بن محمد ثنا عبد الله عن
سفيان عن ابي هارون العبدي عن ابي سعيد قال

باب ۱۲۶۱۔ خادم کو ادب سکھانا
۱۷۷۹۔ حضرت ابو سعیدؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تم میں
سے کوئی اپنے خادم کو مار رہا ہو اور وہ اللہ کو یاد کرنے لگے تو اسے فوراً اپنا

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ قَارَ فَعُوا أَيْدِيَكُمْ

ابو ہارون عبدی: عمارہ بن جوین ہے۔ یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ شعبہ نے ابو ہارون عبدی کو ضعیف قرار دیا ہے۔ یحییٰ مزید کہتے ہیں کہ ابن عون اپنے انتقال تک ابو ہارون سے احادیث نقل کرتے رہے۔

باب۔ ماجاء فی العفو عن الخادم۔

باب۔ غلام کو معاف کرنا۔

۱۷۸۰۔ حدثنا قتيبة ثنا راشد بن سعد عن ابي هاتمي الحولاني عن عباس بن جليل الأحجري عن عبد الله بن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم أعفوا عن الخادم فصمت عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كم أعفوا عن الخادم قال كل يوم سبعين مرة

۱۷۸۰۔ حضرت عبد اللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک شخص آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ کتنی مرتبہ اپنے خادم کو معاف کروں؟ آپ ﷺ چپ رہے۔ اس نے دوبارہ وہی سوال عرض کیا تو فرمایا: ہر دن ستر مرتبہ۔

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ عبد اللہ بن وہب اسے ابو ہانی خولانی سے اسی سند سے اسی طرح نقل کرتے ہیں اور بعض راوی اسی سند سے یہ حدیث نقل کرتے ہوئے عبد اللہ بن عمرو سے روایت کرتے ہیں۔

باب ۱۲۶۲۔ ماجاء فی آداب الولد

باب ۱۲۶۲۔ اولاد کو ادب سکھانا

۱۷۸۱۔ حدثنا قتيبة ثنا يحيى بن يعلى عن ناصح عن سمالك عن جابر بن سمره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع

۱۷۸۱۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کسی کا اپنے بیٹے کو ادب سکھانا ایک صاع (ایک پیانہ) صدقہ دینے سے بہتر ہے۔

یہ حدیث غریب ہے۔ ناصح بن علاء کوئی محدثین کے نزدیک قوی نہیں اور اسی سند سے معروف ہے جب کہ ناصح بصری ایک دوسرے محدث ہیں جو عمار بن ابی عمار وغیرہ سے نقل کرتے ہیں اور یہ ان سے اثبت ہیں۔

۱۷۸۲۔ حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثنا عامر بن أبي عامر الخزاز ثنا أيوب بن موسى عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من آداب حسن

۱۷۸۲۔ حضرت ایوب بن موسیٰ اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ کسی باپ نے اپنے بیٹے کو حسن ادب سے بہتر انعام نہیں دیا۔

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں اور ایوب بن موسیٰ: ابن عمرو بن سعید بن عاص ہیں۔ یہ روایت مرسل ہے۔

باب ۱۲۶۳۔ ماجاء فی قبول الهدية والمكافاة عليها

باب ۱۲۶۳۔ ہدیہ قبول کرنا اور اس کے بدلے میں کچھ دینا۔

۱۷۸۳۔ حدثنا يحيى بن اكنم وعلی بن حشرم

۱۷۸۳۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہدیہ قبول کرتے اور

قالا ثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن
أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
يقبل الهدية ويثيب عليها

اس باب میں جاہز، ابو ہریرہ، انسؓ اور ابن عمرؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے، ہم اسے صرف عیسیٰ بن
یونس کی روایت سے مرفوع جانتے ہیں۔

باب ۱۲۶۴۔ مَا جَاءَ فِي الشُّكْرِ لِمَنْ أَحْسَنَ إِلَيْكَ

باب ۱۲۶۳۔ احسان کرنے والے کا شکر یہ ادا کرنا۔
۱۷۸۴۔ حدثنا احمد بن محمد ثنا عبد الله بن
المبارك ثنا الربيع بن مسلم ثنا محمد بن زياد عن
أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من لا يشكر الناس لا يشكر الله

۱۷۸۴۔ حدثنا احمد بن محمد ثنا عبد الله بن
المبارك ثنا الربيع بن مسلم ثنا محمد بن زياد عن
أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من لا يشكر الناس لا يشكر الله

یہ حدیث صحیح ہے۔

۱۷۸۵۔ حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔

۱۷۸۵۔ حدثنا هناد ثنا ابو معاوية عن ابن ابي لیلی
ح وثنا سفيان بن وكيع ثنا حميد بن عبد الرحمن
الرواسی عن ابن ابي لیلی عن عطية عن ابي سعيد
الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من لم يشكر الناس لم يشكر الله

اس باب میں ابو ہریرہ، اشعث بن قیسؓ اور نعمان بن بشیرؓ سے بھی احادیث منقول ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۲۶۵۔ مَا جَاءَ فِي صَنَائِعِ الْمَعْرُوفِ

۱۷۸۶۔ حضرت ابو ذرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تمہارا اپنے
بھائی کے سامنے مسکرانا، اسے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا سب
صدقہ ہے۔ پھر کسی بھولے بھٹکے کو راہ بتا دینا، تاجینے کے ساتھ چلنا،
راستے سے پتھر، کانٹا یا ہڈی وغیرہ ہٹا دینا اور اپنی بالٹی سے اپنے بھائی کی
بالٹی میں پانی ڈال دینا بھی صدقے ہی کے زمرے میں آتا ہے۔

۱۷۸۶۔ حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري ثنا
النضر بن محمد الحرشي اليمامي ثنا عكرمة بن
عمار ثنا ابو زميل عن مالك بن مرثد عن ابيه عن
أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
تَسْمُوكَ فِي وَجْهِ أَحِبَّتْ لَكَ صَدَقَةٌ وَ أَمْرُكَ
بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَ إِرْسَادُكَ
الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ وَ بَصْرُكَ لِلرَّجُلِ
الرَّدِيِّ الْبَصْرَ لَكَ صَدَقَةٌ وَ إِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَ الشُّوكَ
وَ الْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ وَ إِفْرَاطُكَ مِنْ دَلْوِكَ
فِي دَلْوِ أَحِبِّكَ لَكَ صَدَقَةٌ

اس باب میں ابن مسعود، جابر، حدیف، عائشہ اور ابو ہریرہ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے اور ابوزریل کا نام سماک بن ولید حنفی اور نصر بن محمد جریشی، یمامی ہیں۔

باب ۱۲۶۶۔ مَا جَاءَ فِي الْمَنِيحَةِ

باب ۱۲۶۶۔ منیجہ کے متعلق۔ (۱)

۱۷۸۷۔ حدثنا ابو كريب ثنا ابراهيم بن يوسف بن ابى اسحق عن ابيه عن ابى اسحق عن طلحة بن مصرف قال سمعت عبدالرحمن بن عوسجة يقول سمعت البراء بن عازب يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من منح منيحة لبن أو ورق أو هدى رقاقا كان له مثل عتق رقبة

۱۷۸۷۔ حدثنا ابو كريب ثنا ابراهيم بن يوسف بن ابى اسحق عن ابيه عن ابى اسحق عن طلحة بن مصرف قال سمعت عبدالرحمن بن عوسجة يقول سمعت البراء بن عازب يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من منح منيحة لبن أو ورق أو هدى رقاقا كان له مثل عتق رقبة

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ ابوالحق اسے طلحہ بن مصرف سے نقل کرتے ہیں اور ہم اسے اسی سند سے جانتے ہیں۔ پھر منصور بن معتمر اور شعبہ بھی طلحہ بن مصرف سے نقل کرتے ہیں۔ اس باب میں نعمان بن بشیر سے بھی حدیث منقول ہے۔

باب ۱۲۶۷۔ مَا جَاءَ فِي إِمَاطَةِ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ

باب ۱۲۶۷۔ راستہ میں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔

۱۷۸۸۔ حدثنا قتيبة عن مالك بن انس عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في الطريق إذ وجد غصن شوك فأخذه فشكر الله له فغفر له

۱۷۸۸۔ حدثنا قتيبة عن مالك بن انس عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في الطريق إذ وجد غصن شوك فأخذه فشكر الله له فغفر له

اس باب میں ابوزرہ، ابن عباس اور ابوزر بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۲۶۸۔ مَا جَاءَ أَنَّ الْمَحَالِسَ بِالْأَمَانَةِ

باب ۱۲۶۸۔ مجالس میں امانت کی اہمیت

۱۷۸۹۔ حدثنا احمد بن محمد ثنا عبد الله بن المبارك عن ابن ابى ذئب قال اخبرني عبدالرحمن بن عطاء عن عبد الملك بن جابر بن عتيك عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة

۱۷۸۹۔ حدثنا احمد بن محمد ثنا عبد الله بن المبارك عن ابن ابى ذئب قال اخبرني عبدالرحمن بن عطاء عن عبد الملك بن جابر بن عتيك عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة

یہ حدیث حسن ہے اور صرف ابن ابی ذئب کی روایت سے معروف ہے۔

باب ۱۲۶۹۔ مَا جَاءَ فِي السَّخَاءِ

باب ۱۲۶۹۔ سخاوت کے متعلق۔

۱۷۹۰۔ حدثنا ابو الخطاب زياد بن يحيى

۱۷۹۰۔ حدثنا ابو الخطاب زياد بن يحيى

(۱) منیجہ: دودھ کا منیجہ اسے کہتے ہیں کہ کسی کو اونٹنی یا بکری وغیرہ سے فائدہ حاصل کرنے کیلئے اس شرط پر دی جائے کہ وہ جب تک چاہے اسے استعمال کرے اور پھر مالک کو واپس کر دے۔ جب کہ چاندی کا منیجہ یہ ہے کہ کسی کو بطور قرض پیسے دیئے جائیں۔ واللہ اعلم (مترجم)

میرے پاس جو کچھ بھی ہے زیر ہی کی کمائی سے ہے کیا میں اس میں سے صدقہ، خیرات دے سکتی ہوں۔ فرمایا: ہاں دے سکتی ہو بلکہ مال کو روک کے نہ رکھو ورنہ تم سے بھی روک لیا جائے گا۔

الحسانی البصری ثنا حاتم بن وردان ثنا ایوب عن ابن ابی مُلَیْکَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي مِنْ شَيْءٍ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ فَأَعْطَى قَالَ نَعَمْ لَا تُؤَكِّدِي فَيُؤَكِّدِي عَلَيْكَ يَقُولُ لَا تَحْضِي فَيُحْضِي عَلَيْكَ

اس باب میں عائشہ اور ابو ہریرہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور بعض اسے اسی سند سے ابن ابی سلیمہ سے وہ عباد بن عبد اللہ سے اور وہ حضرت اسماء سے نقل کرتے ہیں جب کہ کئی راوی اسے ایوب سے نقل کرتے ہوئے عباد بن عبد اللہ بن زیر کو حذف کر دیتے ہیں۔

۱۷۹۱۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بخئی اللہ سے بھی قریب ہوتا ہے، جنت سے بھی اور لوگوں سے بھی۔ جب کہ جہنم سے دور ہوتا ہے۔ البتہ بخیل اللہ تعالیٰ سے، جنت سے اور لوگوں سے دور اور جہنم سے قریب ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے نزدیک جاہل بخئی، بخیل عابد سے زیادہ محبوب ہے۔

۱۷۹۱۔ حدثنا الحسن بن عرفة ثنا سعيد بن محمد الوراق عن يحيى بن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السخي قريب من الله قريب من الجنة قريب من الناس بعيد من النار والبخيل بعيد من الله بعيد من الجنة بعيد من الناس قريب من النار والجاهل السخي أحب إلى الله من عابد بخيل

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف یحییٰ بن سعید کی اعرج سے روایت سے پہچانتے ہیں۔ ابو ہریرہ سے یہ حدیث صرف سعید بن محمد کی سند سے منقول ہے۔ اس حدیث کی روایت میں اختلاف کیا گیا ہے کیونکہ سعید، یحییٰ بن سعید سے نقل کرتے ہیں اور وہ حضرت عائشہ سے کچھ احادیث مسلا بھی نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۲۷۰۔ بخل کے متعلق۔

باب ۱۲۷۰۔ مَا جَاءَ فِي الْبُخْلِ

۱۷۹۲۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دو خصلتیں ایسی ہیں کہ ایک مؤمن میں جمع نہیں ہو سکتیں۔ بخل اور بد اخلاقی۔

۱۷۹۲۔ حدثنا ابو حفص عمرو بن علي ثنا ابو داود ثنا صدقة بن موسى ثنا مالك بن دينار عن عبد الله بن غالب الخُدَري عن أبي سعيد الخُدَري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حصلتان لا تجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق

اس باب میں ابو ہریرہ سے بھی حدیث منقول ہے۔ ہم اسے صدقہ بن موسیٰ کی روایت سے ہی جانتے ہیں اور یہ حدیث غریب ہے۔

۱۷۹۳۔ حضرت ابو بکر صدیق، رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: قریب کرنے والا، بخیل اور احسان نہ کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔

۱۷۹۳۔ حدثنا احمد بن منيع ثنا يزيد بن هارون ثنا صدقة بن موسى عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر بن الصديق عن النبي صلى الله عليه

وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَبٌّ وَلَا بَخِيلٌ وَلَا مَنَانٌ

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

۱۷۹۴۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مؤمن بھولا اور کریم ہوتا ہے جب کہ فاجر، فریبی اور بخیل ہوتا ہے۔

۱۷۹۴۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ثنا عبد الرزاق عن بشر بن رافع عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن غير كريم والفاجر حب لئيم هم یہ حدیث صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

باب ۱۲۷۱۔ گھروالوں پر خرچ کرنا۔

باب ۱۲۷۱۔ مَا جَاءَ فِي النَّفَقَةِ عَلَى الْأَهْلِ

۱۷۹۵۔ حضرت ابو مسعودؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کسی شخص کا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔

۱۷۹۵۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا عبد الله بن المبارك عن شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن ابي مسعود الانصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفقة الرجل على اهله صدقة

اس باب میں عبد اللہ بن عمروؓ، عمرو بن امیہؓ اور ابو ہریرہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۷۹۶۔ حضرت ثوبانؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بہترین دینار وہ ہے جسے کوئی شخص اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے یا پھر وہ دینار جسے وہ جہاد میں جانے کے لیے اپنی سواری پر یا اپنے دوستوں پر پی سبیل اللہ خرچ کرتا ہے۔ ابو قلابہؓ کہتے ہیں کہ راوی نے عیال کا شروع میں ذکر کیا اور پھر فرمایا: اور اس شخص سے زیادہ کسے ثواب مل سکتا ہے۔ جو اپنے چھوٹے بچوں پر خرچ کرتا ہے۔ جنہیں اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے محنت و مشقت کرنے سے بچا لیتا ہے اور انہیں مستغنی کر دیتا ہے۔

۱۷۹۶۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثنا حماد بن زيد عن ابي عن ابي قلابة عن ابي أسماء عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدينار دينار يُنفقه الرجل على عياله ودينار يُنفقه الرجل على دابته في سبيل الله ودينار يُنفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله قال أبو قلابة بدأ بالعيال ثم قال وأى رجل أعظم أجراً من رجل يُنفق على عياله له صغار يُعفهم الله به ويغنيهم الله به

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۲۷۲۔ مہمان کا اکرام۔

باب ۱۲۷۲۔ مَا جَاءَ فِي الضِّيَافَةِ وَعَايَةِ الضِّيَافَةِ كَمْ هُوَ

۱۷۹۷۔ حضرت ابو شریحؓ عدویٰ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے آنحضرت ﷺ کو دیکھا اور کانوں نے سنا کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہئے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے اور اسے ضیافت دے صحابہ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ!

۱۷۹۷۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثنا الليث بن سعد عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي شريح العدوي أنه قال أبصرت عيناى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعتة أذناى حين تكلم به قال من كان

ضیافت کیا ہے؟ فرمایا: ایک دن اور رات پر تکلف ضیافت کرنا پھر فرمایا کہ ضیافت تین دن تک ہے اور اسکے بعد صدقہ ہے اور جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے اچھی بات ہی کہنی چاہئے۔ ورنہ خاموش رہنا چاہئے۔

يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ صَبِيغَةَ حَايِزَتَهُ قَالُوا وَمَا حَايِزَتُهُ قَالَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ قَالَ وَالصَّبَاغَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لَيْسُكَتْ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۷۹۸۔ حضرت ابو شریح کعمیؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ضیافت تین دن تک اور پر تکلف ضیافت ایک دن و رات ہوتی ہے اس کے بعد جو کچھ مہمان پر خرچ کیا جائے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اس کے پاس زیادہ وقت تک ٹھہرا رہے یہاں تک کہ اسے حرج ہونے لگے۔ اس کے معنی یہی ہیں کہ مہمان، میزبان کے پاس اتنا طویل نہ کرے۔ کہ اس پر شاق گزرنے لگے اور حرج میں نہ ڈالنے سے مراد یہی ہے کہ اسے تنگ نہ کرے۔

۱۷۹۸۔ حدثنا ابن ابی عمر ثنا سفیان عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصباغة ثلاثة أيام وحايزته يوم وليلة وما انفق عليه بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يتوى عنده حتى يخرجه ومعنى قوله لا يتوى عنده يعني الضيف لا يقيم عنده حتى يشتد على صاحب المنزل والخرج هو الضيق إنما قوله حتى يخرجه ويقول حتى يضيق عليه

اس باب میں عائشہ اور ابو ہریرہؓ سے بھی احادیث نقل کی گئی ہیں۔ مالک بن انس اور لیث بن سعد بھی یہ حدیث سعید مقبری سے نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابو شریح خزاعی: کعمی عدوی ہیں۔ ان کا نام خویلہ بن عمرو ہے۔

باب ۱۲۷۳۔ تیموں اور بیواؤں کے لیے کوشش کرنا۔
۱۷۹۹۔ حضرت صفوان بن سلیم مروفاً نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ مسکین یا بیواؤں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کوشش کرنے والا جہاد کرنے والے مجاہد کی طرح ہے یا پھر ایسے شخص کی طرح جو دن میں روزہ رکھتا اور رات کو نمازیں پڑھتا ہے۔

باب ۱۲۷۳۔ مَا جَاءَ فِي السَّعْيِ عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْيَتِيمِ
۱۷۹۹۔ حدثنا الانصاري ثنا معن ثنا مالك عن صفوان بن سليم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالأدي يصوم النهار ويقوم الليل

انصاری، معن سے وہ مالک سے وہ ثور بن زید سے وہ ابو غیث سے اور وہ ابو ہریرہؓ سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے اور ابو غیث کا نام سالم ہے وہ عبد اللہ بن مطیح کے مولیٰ ہیں۔ پھر ثور بن زید: شامی اور ثور بن زید مدنی ہیں۔

باب ۱۲۷۴۔ کشاہ پیشانی اور بشاش چہرے کے ساتھ ملاقات کرنا۔
۱۸۰۰۔ حضرت جابر بن عبد اللہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر نیک کام صدقہ ہے۔ اور یہ بھی نیکیوں میں سے ہے کہ تم اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے (خوش ہو کر) ملو اور اپنی بالٹی میں سے پانی اس کی بالٹی

باب ۱۲۷۴۔ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ الْوَجْهِ وَحُسْنِ الْبَشْرِ
۱۸۰۰۔ حدثنا قتيبة ثنا المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف

صَدَقَةٌ وَإِنْ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَنْ تَلْفِي أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ
وَأَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِيَّاءِ أَخِيكَ

اس باب میں ابو ذرؓ سے بھی حدیث منقول ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۲۷۵۔ مَا جَاءَ فِي الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ

باب ۱۲۷۵۔ سچ اور جھوٹ کے متعلق۔

۱۸۰۱۔ حَدَّثَنَا هِنْدَانُ أَبُو معاوية عن الاعمش عن
شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق
يهدى إلى البر وإن البر يهدى إلى الجنة وما يزال
الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله
صديقاً وإياكم والكذب فإن الكذب يهدى إلى
الفجور وإن الفجور يهدى إلى النار وما يزال العبد
يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً

۱۸۰۱۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ سچ کا دامن تھامے رہو کیونکہ سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے۔ اور یہ راستہ جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ جو شخص ہمیشہ سچ بولتا اور اسی کی تلاش میں رہتا ہے وہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ بڑائی کا راستہ دکھاتا ہے اور بڑائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے جو شخص ہمیشہ جھوٹ بولتا اور اسی کو تلاش کرتا رہتا ہے وہ اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔

اس باب میں ابو بکرؓ، عمرؓ، عبداللہ بن شخیرؓ اور ابن عمرؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۸۰۲۔ حَدَّثَنَا يحيى ابن موسى قال قلت لعبد
الرحيم بن هارون الغساني حدثكم عبد العزيز بن
ابى رواد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله
عليه وسلم قال إذا كذب العبد تباعد عنه المملك
مَيْلًا مِنْ تَنْبِي مَا جَاءَ بِهِ

۱۸۰۲۔ حضرت ابن عمرؓ رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کی بدبو کی وجہ سے ایک میل دور ہو جاتا ہے۔

یہی کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ حدیث عبدالرحیم بن ہارون سے بیان کی تو انہوں نے فرمایا: ہاں یہ حدیث حسن، جید اور غریب ہے۔ ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

باب ۱۲۷۶۔ مَا جَاءَ فِي الْفُحْشِ

باب ۱۲۷۶۔ فحش گوئی کے متعلق

۱۸۰۳۔ حَدَّثَنَا محمد بن عبد الاعلى الصنعاني
وغير واحد قالوا ثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت
عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ وَمَا كَانَ الْحَيَاءُ
فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ

۱۸۰۳۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: فحش گوئی کسی چیز میں شامل ہو جائے تو اسے خراب کر دیتی ہے جب کہ حیا کسی چیز کی زینت کو دو بالا کر دیتی ہے۔

اس باب میں حضرت عائشہؓ بھی حدیث نقل کرتی ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف عبدالرزاق کی روایت سے جانتے ہیں۔

۱۸۰۴۔ حضرت عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کا اخلاق سب سے بہتر ہے اور آنحضرت ﷺ نہ کبھی فحش گوئی کرتے اور نہ ہی یہ ان کی عادات میں سے تھا۔

۱۸۰۴۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ بْنِ أَبِي حَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَحْلَاقًا وَلَمْ يُكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۲۷۔ لعنت بھیجنے کے متعلق۔

باب ۱۲۷۷۔ مَا جَاءَ فِي اللَّعْنَةِ

۱۸۰۵۔ حضرت سرہ بن جندب کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آپس میں ایک دوسرے پر اللہ یا اس کے غصے کی لعنت نہ بھیجا کرو اور نہ ہی کسی سے اس طرح کہا کرو کہ تم جہنم میں جاؤ۔

۱۸۰۵۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا هِشَامُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بِنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلَا عَنْوًا بِلَعْنَةِ اللَّهِ وَلَا بَعْضِيهِ وَلَا بِالنَّارِ

اس باب میں ابن عباسؓ، ابو ہریرہؓ، ابن عمرؓ اور عمران بن حصینؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۸۰۶۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: طعن کرنے والا، کسی پر لعنت بھیجنے والا، فحش گوئی کرنے والا اور بدتمیزی کرنے والا مؤمن نہیں ہے۔

۱۸۰۶۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْإِزْدِيُّ الْبَصْرِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبِدِيِّ

یہ حدیث حسن غریب ہے اور عبداللہ بن مسعودؓ ہی سے کئی سندوں سے منقول ہے۔

۱۸۰۷۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول خدا ﷺ کے سامنے ہوا پر لعنت بھیجی آپ ﷺ نے فرمایا: ہوا پر لعنت نہ بھیجو یہ تو مامور ہے اور جو شخص کسی ایسی چیز پر لعنت بھیجتا ہے جو اس کی مستحق نہیں تو وہ لعنت اسی پر واپس آتی ہے۔

۱۸۰۷۔ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَحْزَمٍ الطَّائِي الْبَصْرِيُّ ثَنَا بَشْرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي بَانٍ عَنْ يَزِيدَ عَنِ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا لَعَنَ الرِّيحَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَلْعَنُ الرِّيحَ فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ وَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتْ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف بشر بن عمر کی روایت سے مرفوع جانتے ہیں۔

باب ۱۲۷۸۔ نسب سیکھنے کے متعلق۔

باب ۱۲۷۸۔ مَا جَاءَ فِي تَعْلَمِ النَّسَبِ

۱۸۰۸۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: نسب

۱۸۰۸۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

کے متعلق اتنا کچھ بیکھو کہ اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کر سکو اس لیے کہ رشتے داروں سے حسن سلوک کرنا۔ اپنے گھر والوں میں محبت کا موجب، مال کی زیادتی اور موت میں تاخیر کا موجب ہے۔

المبارك عن عبد الملك بن عيسى الثقفي عن يزيد بن مولى المنعب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم فإن صلة الرحم محبة في الأهل مثراً في المال منسأة في الأثر

باب ۱۲۷۹۔ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنا۔

باب ۱۲۷۹۔ مَا جَاءَ فِي دَعْوَةِ الْآخِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ

۱۸۰۹۔ حضرت عبداللہ بن عمروؓ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: غائب کی کسی غائب کے لیے دعا کے علاوہ کوئی دعا ایسی نہیں جو اس طرح جلدی قبول ہوتی ہو۔

۱۸۰۹۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنِ حَمِيدٍ ثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا دَعْوَةٌ أَسْرَعُ إِجَابَةً مِنْ دَعْوَةِ غَائِبٍ لِعَائِبٍ

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں اور افریقی کا نام عبدالرحمن بن زیاد بن انعم افریقی ہے۔ یہ ضعیف ہیں۔

باب ۱۲۸۰۔ گالی گلوچ کے متعلق۔

باب ۱۲۸۰۔ مَا جَاءَ فِي الشَّتْمِ

۱۸۱۰۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دو گالی گلوچ کرنے والوں کا وبال ان دونوں میں سے شروع کرنے والے پر ہے الا یہ کہ مظلوم کی طرف سے زیادتی نہ ہو۔ (یعنی وہ اس سے بڑھ کر گالی گلوچ نہ کرے)۔

۱۸۱۰۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ ثَنَا عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْتَبَانَ مَا قَالَ فَعَلَى الْبَادِي مِنْهُمَا مَا لَمْ يُعْتَدِ الْمَظْلُومُ

اس باب میں سعد، ابن مسعود اور عبداللہ بن مغفلؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۸۱۱۔ حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مرجانے والوں کو گالی نہ دیا کرو کیونکہ اس سے زندہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔

۱۸۱۱۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ ثَنَا ابُو دَاوُدَ الْحَضْرَى عَنْ سَفْيَانَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَتُؤْذُوا الْأَحْيَاءَ

اس حدیث کو نقل کرنے میں سفیان کے ساتھیوں کا اختلاف ہے۔ بعض اسے حضرت کی روایت کی طرح نقل کرتے ہیں جب کہ بعض سفیان سے اور وہ زیاد بن علاقہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے مغیرہ بن شعبہ کے پاس ایک آدمی کو آنحضرت ﷺ سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہوئے سنا۔

۱۸۱۲۔ حضرت عبداللہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کسی مسلمان کو گالی دینا فسق اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔ زبید کہتے ہیں کہ میں نے ابو وائل سے پوچھا: کیا آپ نے خود یہ حدیث عبداللہ سے سنی تو فرمایا: ہاں۔

۱۸۱۲۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ ثَنَا وَكَيْعُ ثَنَا سَفْيَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقَتْلُهُ كُفْرٌ قَالَ زَيْدٌ قُلْتُ

لَا بِي وَآئِلٍ أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۲۸۱۔ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ الْمَعْرُوفِ

۱۸۱۳۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَسْهَرٍ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ
عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّ فِي الْحَنَةِ غُرْفًا تَرَى ظُهُورَهَا مِنْ بُطُونِهَا
وَبُطُونِهَا مِنْ ظُهُورِهَا فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ لِمَنْ هِيَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ وَأَطَعَمَ الطَّعَامَ
وَأَدَامَ الصِّيَامَ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ

یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف عبدالرحمن بن اسحاق کی روایت سے جانتے ہیں۔

باب ۱۲۸۲۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْمَمْلُوكِ الصَّالِحِ

۱۸۱۴۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَمْرٍو ثَنَا سَفِيَانُ عَنِ
الْإِعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نِعَمَ مَا لَأَحَدِهِمْ أَنْ
يُطِيعَ اللَّهَ وَيُؤَدِّيَ حَقَّ سَيِّدِهِ يَعْنِي الْمَمْلُوكَ وَقَالَ
كَعْبٌ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

اس باب میں ابوموسیٰ اور ابن عمر بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۸۱۵۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنِ سَفِيَانِ عَنِ
أَبِي الْيَقْظَانَ عَنْ زَادَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ عَلَى كُتُبَانِ الْمِسْكِ
أَرَاهُ قَالَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوْلِيهِ
وَرَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ وَرَجُلٌ يُنَادِي
بِالصَّلَاةِ الْخَمْسِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف ابوسفیان کی روایت سے جانتے ہیں۔ ابوالیقظان کا نام عثمان بن قیس ہے۔

باب ۱۲۸۳۔ مَا جَاءَ فِي مُعَاشَرَةِ النَّاسِ

۱۸۱۶۔ حَدَّثَنَا بِنْدَارٌ ثَنَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا

باب ۱۲۸۲۔ معاشرت کے متعلق

۱۸۱۶۔ حضرت ابو ذرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا:

باب ۱۲۸۱۔ قول معروف کے متعلق۔

۱۸۱۳۔ حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جنت میں
ایسے بالا خانے ہیں جن کا بیرونی اندر سے اور اندرونی منظر باہر سے
صاف نظر آئے گا۔ ایک دیہاتی کھڑا ہوا اور پوچھا: وہ کس کے لیے
ہوں گے؟ یا رسول اللہ ﷺ فرمایا: جو اچھی طرح بات کرے گا، لوگوں کو
کھانا کھلائے گا۔ اکثر روزے رکھے گا اور رات کے وقت جب لوگ
سو جاتے ہیں وہ نماز میں مشغول رہے گا۔

باب ۱۲۸۲۔ نیک مملوک کی فضیلت

۱۸۱۴۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کتنا
بہترین ہے وہ شخص جو اللہ کی بھی اطاعت کرے اور اپنے آقا کا بھی حق
ادا کرے۔ یعنی غلام یا ندی۔ کعب کہتے ہیں: اللہ اور اس کے رسول ﷺ
نے سچ کہا ہے۔

۱۸۱۵۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تین شخص
مسک کے نیلوں پر ہوں گے۔ ابن عمرؓ کہتے ہیں: میرا خیال ہے کہ
”قیامت کے دن“ بھی فرمایا۔ ایک وہ شخص جو اللہ کا حق ادا کرنے کے
ساتھ ساتھ اپنے مالک کا حق بھی ادا کرے گا۔ دوسرا وہ امام جس سے
اس کے مقتدی راضی ہوں اور تیسرا وہ شخص جو پانچوں نمازوں کے لیے
اذان دیتا ہے۔

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف ابوسفیان کی روایت سے جانتے ہیں۔ ابوالیقظان کا نام عثمان بن قیس ہے۔

باب ۱۲۸۳۔ معاشرت کے متعلق

۱۸۱۶۔ حضرت ابو ذرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا:

جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو اور برائی کے بعد بھلائی کرو تا کہ وہ اسے
مٹا دے اور لوگوں کے ساتھ خوش خلقی سے ملو۔

سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ميمون بن ابي
شبيب عن ابي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله
عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت واتبع السنة
الحسنة تمحها وخالف الناس بخلق حسن

اس باب میں ابو ہریرہؓ بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ محمود بن غنیان، ابو احمد اور ابو نعیم سے وہ سفیان سے اور
وہ حبیب سے اسی سند سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ وکیع بھی سفیان سے وہ حبیب سے وہ میمون سے وہ معاذ بن جبل سے اور وہ
آنحضرت ﷺ سے اسی کے مثل نقل کرتے ہیں۔ محمود کہتے ہیں کہ صحیح حدیث ابو ذرؓ کی ہے۔

باب ۱۲۸۴۔ ماجاء فی ظن السوء

باب ۱۲۸۴۔ ماجاء فی ظن السوء

۱۸۱۷۔ حضرت ابو ہریرہؓ رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ
نے فرمایا: بدگمانی سے پرہیز کیونکہ یہ سب سے زیادہ چھوٹی بات ہے۔

۱۸۱۷۔ حدثنا ابن ابي عمر ثنا سفيان عن ابي
الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال اياكم والظن فان الظن
اكذب الحديث

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ میں نے عبد بن حمید کو سفیان کے بعض ساتھیوں سے نقل کرتے ہوئے سنا کہ سفیان کہا کرتے تھے: گمان دو
قسم کا ہے ایک گناہ ہے اور دوسرا نہیں۔ گناہ یہ ہے کہ بدگمانی دل میں بھی کرے اور زبان پر بھی آئے۔ جب کہ صرف دل ہی میں بدگمانی
کرنا گناہ نہیں۔

باب ۱۲۸۵۔ خوش طبعی کے متعلق۔

باب ۱۲۸۵۔ ماجاء فی المزاج

۱۸۱۸۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ سے گھل مل جایا
کرتے تھے۔ یہاں تک کہ میرے چھوٹے بھائی سے فرماتے۔ اے
ابوعبیر: بغیر نے کیا کیا۔ (بغیر ایک پرندے کا نام ہے)۔

۱۸۱۸۔ حدثنا عبد الله بن الوضاح الكوفي ثنا
عبد الله بن ادريس عن شعبة عن ابي التياح عن
انس قال ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
ليخالطنا حتى ان كان ليقول لآخ لي صغير يا ابا
عمير ما فعل النغير

ہناد بھی وکیع سے وہ شعبہ سے وہ ابو تیاح سے اور وہ حضرت انسؓ سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔
اور ابو تیاح کا نام یزید بن حمید ہے۔

۱۸۱۹۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ
! آپ ﷺ ہم سے خوش طبعی کرتے ہیں۔ فرمایا: میں سچ کے علاوہ
کچھ نہیں کہتا۔

۱۸۱۹۔ حدثنا العباس بن محمد الدوري ثنا علي
بن الحسن ثنا عبد الله بن المبارك عن اسامة بن زيد
عن سعيد المقبري عن ابي هريرة قال قالوا يا
رسول الله انك تذاعبنا قال ايتي لا اقول الا حقا
یہ حدیث حسن ہے اور مذاعبنا سے مراد مذاق ہی ہے۔

۱۸۲۰۔ حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے انہیں فرمایا: اے دوکان والے! محمود، اسامہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ حضرت انسؓ کا مقصد یہی تھا کہ آپ ﷺ نے مذاق کیا۔

۱۸۲۱۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے سواری مانگی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میں تمہیں اونٹنی کے بچے پر سوار کروں گا۔ اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! میں اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا اونٹوں کو اونٹنیوں کے علاوہ بھی کوئی جتنا ہے۔ (یعنی تمام اونٹ اونٹنیوں ہی کے بچے ہیں)۔

باب ۱۲۸۶۔ تکرار کے متعلق

۱۸۲۲۔ حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے ایسا جھوٹ تکرار چھوڑ دیا جو باطل تھا تو اس کے لیے جنت کے کنارے ایک مکان بنایا جائے گا۔ اور جس نے حق پر ہوتے ہوئے اسے چھوڑ دیا اس کے لیے جنت کے درمیان مکان بنایا جائے گا۔ پھر جو شخص اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے گا۔ اس کے لیے اونچی جگہ پر مکان بنایا جائے گا۔ (جنت ہی میں)۔

یہ حدیث حسن ہے ہم اسے صرف سلمہ بن وردان کی روایت سے جانتے ہیں اور وہ انسؓ سے نقل کرتے ہیں۔

۱۸۲۳۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہمیشہ جھگڑتے رہنے کا گناہ ہی تمہارے لیے کافی ہے۔

۱۸۲۴۔ حضرت ابن عباسؓ، رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کرو، نہ اس سے گل لگی کرو اور نہ ہی ایسا وعدہ کرو۔ جسے تم پورا نہ کر سکو۔

۱۸۲۰۔ حدثنا محمود بن غيلان ثنا ابو أسامة عن شريك عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ذا الأذنين قال محمود قال أبو أسامة إنما يعنى به أنه يمازحه

۱۸۲۱۔ حدثنا قتيبة ثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن حميد عن أنس أن رجلاً استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني حاملك على ولد ناقه فقال يا رسول الله ما اصنع بولد الناقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تلد الايل الا النوقى

یہ حدیث صحیح غریب ہے۔

باب ۱۲۸۶۔ ما جاء في المرآء

۱۸۲۲۔ حدثنا عقبه بن مكرم العمى البصرى ثنا بن ابى فديك قال اخبرنى سلمة بن وردان الليثي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الكذب وهو باطل بئى له فى رضى الجنة ومن ترك المرآء وهو محق بئى له فى وسطها ومن حسن خلقه بئى له فى أعلاها

۱۸۲۳۔ حدثنا فضالة بن الفضل الكوفى ثنا ابو بكر بن عياش عن ابن وهب بن منبه عن ابيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بك إثماً أن لا تزال مُحاصِماً

یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

۱۸۲۴۔ حدثنا زياد بن ايوب البغدادي ثنا المحاربي عن ليث وهو ابن ابى سليم عن عبد الملك عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمار أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعداً فتخلفه

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے پہچانتے ہیں۔

باب ۱۲۸۷۔ مَا جَاءَ فِي الْمُدَارَاةِ

۱۸۲۵۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ثَنَا سَفِيَانُ بْنُ عَيِّنَةَ عَنْ
مَحْمُودِ بْنِ الْمُنْكَدَرِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ إِسْتَاذَنَ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَأَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ بِنُفْسِ ابْنِ الْعَشِيرَةِ
أَوْ أَحْوَالَ عَشِيرَةٍ ثُمَّ أَدْنَى لَهُ فَلَا نَ لَهُ الْقَوْلَ فَلَمَّا خَرَجَ
قُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتُ لَهُ مَا قُلْتَ ثُمَّ أَلَسْتُ لَهُ
الْقَوْلَ قَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ
النَّاسُ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۲۸۸۔ فِي الْإِفْتِصَادِ فِي الْحُبِّ وَالْبُغْضِ

۱۸۲۶۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ ثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرٍو
الْكَلْبِيُّ عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلْمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ سَيْرُوثٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَرَاهُ رَفَعَهُ قَالَ
أَحَبُّ حَبِيبِكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِضُكَ
يَوْمًا مَا وَأَبْغَضُ بَغِضُكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ
يَكُونَ حَبِيبِكَ يَوْمًا مَا

باب ۱۲۸۷۔ حسن سلوک کے متعلق۔

۱۸۲۵۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ میں آپ ﷺ کے پاس تھی آپ ﷺ نے فرمایا: قبیلہ زادہ کتنا بُرا ہے؟ یا فرمایا: قبیلہ برادر۔ پھر اس شخص کو اجازت دے دی اور اس کے ساتھ نرم روی کے ساتھ باتیں کیں۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ پہلے تو آپ ﷺ نے اسے بُرا کہا اور پھر اس سے نرمی کے ساتھ بات کی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: عائشہ! بدترین شخص وہ ہے۔ جسے اس کی نفس گوئی کی وجہ سے لوگوں نے چھوڑ دیا ہو۔

باب ۱۲۸۸۔ محبت اور بغض میں میانہ روی اختیار کرنا۔

۱۸۲۶۔ حضرت ابو ہریرہؓ شاید مرفوعاً نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اپنے دوست کے ساتھ میانہ روی کا معاملہ رکھو۔ شاید کسی دن وہ تمہارا دشمن بن جائے۔ اور دشمن کے ساتھ دشمنی میں بھی میانہ روی ہی رکھو کیونکہ ممکن ہے کہ کل وہی تمہارا دوست بن جائے۔

یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ پھر یہ حدیث ایوب سے بھی ایک اور سند سے منقول ہے۔ حسن بن ابی جعفر بھی اسے نقل کرتے ہیں یہ بھی ضعیف ہے۔ حسن بھی اپنی سند حضرت علیؓ کے حوالے سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں۔ لیکن یہ بھی موقوف ہی ہے۔

باب ۱۲۸۹۔ مَا جَاءَ فِي الْكِبْرِ

۱۸۲۷۔ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامِ الرَّفَاعِيُّ نَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ
عِيَّاشَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ
خَرَدَلٍ مِنْ كِبَرٍ وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ
مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ إِيْمَانٍ

باب ۱۲۸۹۔ تکبر کے متعلق۔

۱۸۲۷۔ حضرت عبداللہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص کے دل میں رائی کے ایک دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اور جس شخص کے دل میں دانے کے برابر ایمان ہوگا۔ وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا۔

اس باب میں ابو ہریرہؓ، ابن عباسؓ، سلمہ بن اکوعؓ اور ابوسعیدؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۸۲۸۔ حضرت عبداللہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا۔ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا۔ راوی کہتے ہیں: ایک شخص نے عرض کیا: میں پسند کرتا ہوں کہ میرے کپڑے اور جوتے اچھے ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں جب کہ تکبر یہ ہے کہ کوئی شخص حق کو رد اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔

۱۸۲۸۔ حدثنا محمد بن المثنیٰ وعبدالله بن عبدالرحمن قالوا ثنا يحيى بن حماد ثنا شعبة عن ابان بن تغلب عن فضيل بن عمرو عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان قال فقال رجل انه يعجبني ان يكون نوبى حسنا ونعلی حسنا قال ان الله يحب الجمال ولكن الكبر من بطل الحق وعمص الناس

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

۱۸۲۹۔ حضرت سلمہ بن اکوعؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص اپنے نفس کو اس کے مرتبے سے اونچالے جاتا اور تکبر کرتا ہے تو وہ جہارین میں لکھ دیا جاتا ہے اور اسے بھی اسی عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے جس میں وہ مبتلا ہوتے ہیں۔

۱۸۲۹۔ حدثنا ابو كريب ثنا ابو معاوية عن عمرو بن راشد عن اياس بن سيلم بن الاكوع عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما اصابهم

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

۱۸۳۰۔ حضرت جبیر بن مطعمؓ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھ میں تکبر ہے حالانکہ میں گدھے پر سوار ہوا۔ موئی چادر لباس کے طور پر استعمال کی اور بکری کا دودھ دوہا۔ اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے یہ کام کیے اس میں بالکل تکبر نہیں۔

۱۸۳۰۔ حدثنا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي ثنا شابة بن سوار عن القاسم بن عباس عن نافع بن جبیر بن مطعم عن ابيه قال يقولون لي في التيه وقد ركبت الحمار وكبست الشملة وقد حلبت الشاة وقد قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل هذا فليس فيه من الكبر شيء

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

باب ۱۲۹۰۔ اچھے اخلاق کے متعلق۔

باب ۱۲۹۰۔ ماجاء في حُسن الخلق

۱۸۳۱۔ حضرت ابودرداءؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن مومن کے میزان میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی اس لیے کہ بے حیا اور فحش گوشخص سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتے ہیں۔

۱۸۳۱۔ حدثنا ابن ابی عمر ثنا سفیان ثنا عمرو بن دينار عن ابن ابی ملیكة عن يعلى بن مملك عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه

وَسَلَّمَ قَالَ مَا شِئْتُ أَنْقَلَ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَدِيَّ

اس باب میں عائشہؓ، ابو ہریرہؓ، انسؓ اور اسامہ بن شریکؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۸۳۲۔ حضرت ابو درداءؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا: اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی عمل نہیں۔ یعنی قیامت کے دن حساب و کتاب کے وقت۔ اور اچھے اخلاق والا روزے رکھنے اور نمازیں پڑھنے والے کے درجے کو پہنچاتا ہے۔

۱۸۳۲۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ ثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ مَطْرِفٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أُمِّ دَرْدَاءٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ شَيْءٍ يُوَضَّعُ فِي الْمِيزَانِ أَنْقَلَ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ

یہ حدیث اس سند سے غریب ہے۔

۱۸۳۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ سے پوچھا گیا کہ: کس عمل کی وجہ سے لوگ زیادہ جنت میں داخل ہوں گے۔ فرمایا: اللہ کے خوف اور حسن اخلاق سے۔ پھر پوچھا گیا کہ زیادہ تر لوگ جہنم میں کن اعمال کی وجہ سے جائیں گے۔ فرمایا: منہ اور شرمگاہ کی وجہ سے۔

۱۸۳۳۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ نَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اِدْرِيسَ ثَنِي أَبِي عَنْ جَدِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَهَنَّمَ قَالَ تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ قَالَ الْفَمُّ وَالْفَرْجُ

یہ حدیث صحیح غریب ہے۔ عبداللہ بن ادریس، یزید بن عبدالرحمن اودی کے بیٹے ہیں۔

۱۸۳۴۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ حسن خلق یہ ہے کہ خندہ پیشانی سے ملے، بھلائی کے کاموں پر خرچ کرے اور تکلیف دینے والی چیز کو دور کرے۔

۱۸۳۴۔ حَدَّثَنَا اِحْمَدُ بْنُ اِحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اَحْمَدَ بْنِ مَنِيعٍ وَمَحْمُودُ بْنُ غِيْلَانَ قَالُوا نَا اِبُو اِحْمَدَ عَنْ سَفِيَانَ أَبِي اِسْحٰقَ عَنْ أَبِي الْاَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ اَمْرٌ بِهِ فَلَا يَفْرِيْنِي وَلَا يُضَيِّقُنِي فَيَمْرُبِيْ اَفَاَجْزِيْهِ قَالَ لَا اَفْرِهِ قَالَ وَرَانِي رَثَ النَّيَابِ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ قَالَ قُلْتُ مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَدْ اَعْطَانِي اللَّهُ مِنْ

باب ۱۲۹۱۔ مَا جَاءَ فِي الْاِحْسَانِ وَالْعَفْوِ

۱۸۳۵۔ ابو احوص اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! اگر میں کسی شخص کے پاس جاؤں اور وہ میری میزبانی اور ضیافت نہ کرے اور پھر کسی وقت وہ میرے پاس آئے تو کیا میں بھی اس کے بدلے میں اسی طرح کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں بلکہ اس کی میزبانی کرو۔ آپ ﷺ نے مجھے میلے کپڑوں میں دیکھا تو دریافت فرمایا: تمہارے پاس مال ہے؟ عرض کیا: ہر طرح کا ہے۔ اللہ

۱۸۳۵۔ حَدَّثَنَا بِنْدَارٌ وَاِحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَمَحْمُودُ بْنُ غِيْلَانَ قَالُوا نَا اِبُو اِحْمَدَ عَنْ سَفِيَانَ أَبِي اِسْحٰقَ عَنْ أَبِي الْاَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ اَمْرٌ بِهِ فَلَا يَفْرِيْنِي وَلَا يُضَيِّقُنِي فَيَمْرُبِيْ اَفَاَجْزِيْهِ قَالَ لَا اَفْرِهِ قَالَ وَرَانِي رَثَ النَّيَابِ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ قَالَ قُلْتُ مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَدْ اَعْطَانِي اللَّهُ مِنْ

الإِبِلِ وَالْغَنَمِ قَالَ فَلْيُرِّ عَلَيْهِكَ

تعالیٰ نے مجھے اونٹ اور بکریاں عطا کی ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تو پھر تم پر اس کا اثر ظاہر ہونا چاہئے۔ (یعنی اچھے کپڑے پہنا کرو)۔

اس باب میں عائشہؓ، جابرؓ اور ابو ہریرہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور ابواحوص کا نام عوف بن مالک بن نعلہ ہشمی ہے۔

۱۸۳۶۔ حضرت حذیفہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم لوگ ”امعہ“ نہ ہو جاؤ یعنی یہ کہنے لگو کہ اگر لوگ ہم پر احسان کریں گے تو ہم بھی احسان کریں گے اور اگر لوگ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے۔ بلکہ اپنے نفسوں کو اس چیز کا عادی کرو کہ اگر لوگ احسان کریں تو بھی تم احسان کرو اور اگر برائی کریں تب بھی ظلم نہ کرو۔

۱۸۳۶۔ حدثنا ابو هشام الرقاعی ثنا محمد بن فضیل عن الولید بن عبد اللہ بن جمیع عن ابي الطیفیل عن حذیفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكُونُوا اِمْعَةً تَقُولُونَ اِنْ اَحْسَنَ النَّاسُ اَحْسَنًا وَاِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا وَاِنْ ظَلَمُوا اَنْفُسَكُمْ اِنْ اَحْسَنَ النَّاسُ اَنْ تُحْسِنُوا وَاِنْ اَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

باب ۱۲۹۲۔ بھائیوں سے ملاقات کرنا۔

باب ۱۲۹۲۔ مَا جَاءَ فِي زِيَارَةِ الْاِخْوَانِ

۱۸۳۷۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے کسی مریض کی عیادت کی یا اللہ کے لیے اپنے کسی بھائی سے ملاقات کی۔ اسے ایک اعلان کرنے والا بلائے گا اور کہے گا کہ تمہیں مبارک ہو تمہارا چلنا مبارک ہو۔ تم نے جنت میں اپنے بھڑھرنے کی جگہ بتالی۔

۱۸۳۷۔ حدثنا محمد بن بشار والحسين بن

الجبكيشة البصرى قال ثنا يوسف بن يعقوب السدوسي نا ابوسنان القسملی عن عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُوْدَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ زَارَ أَخَاهُ فِي اللَّهِ نَادَاهُ مُنَادٍ أَنْ طَبَتْ وَطَابَ مَمَشَاكَ وَتَبَوَّأَتْ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا

یہ حدیث غریب ہے۔ ابوسنان کا نام عیسیٰ بن سنان ہے۔ حماد بن سلمہ، ابورافع سے وہ ابو ہریرہؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اس میں سے کچھ حصہ نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۲۹۳۔ حیاء کے متعلق

باب ۱۲۹۳۔ مَا جَاءَ فِي الْحَيَاءِ

۱۸۳۸۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حیاء ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کا نتیجہ جنت ہے جب کہ بے حیائی ظلم ہے اور اس کا نتیجہ جہنم ہے۔

۱۸۳۸۔ حدثنا ابو كريب نا عبدة بن سليمان وعبدالرحيم و محمد بن بشر عن محمد بن عمرو نا اَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَالْبِدْءُ مِنَ الْحَفَاءِ وَالْحَفَاءُ فِي النَّارِ

اس باب میں ابن عمرؓ، ابو بکرؓ اور ابوامامہؓ اور عمران بن حصینؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۲۹۴۔ آہستگی اور عجلت

باب ۱۲۹۴۔ مَا جَاءَ فِي التَّائِبِي وَالْعَجَلَةِ

۱۸۳۹۔ حضرت عبداللہ بن سرجس مزنی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اچھی خصلتیں، آہستہ آہستہ کام کرنا اور میانہ روی اختیار کرنا نبوت کے چوبیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔

۱۸۳۹۔ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ نَا نُوْحَ بْنَ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسِ الْمَزْنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْتُ الْحَسَنُ وَالْتَوَدُّ وَالْإِقْتِصَادُ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءٍ مِنَ النَّبُوَّةِ

اس باب میں ابن عمرؓ، ابوبکرؓ، ابوامامہ اور عمران بن حصین بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے تنبیہ اسے نوح بن قیس سے وہ عبداللہ بن عمران سے وہ عبداللہ بن سرجس سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے مانند نقل کرتے ہیں۔ اس سند میں عاصم کا ذکر نہیں۔ صحیح حدیث نصر بن علی ہی کی ہے جو اوپر مذکور ہے۔

۱۸۴۰۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے عبد قیس کے قاصداً شج سے فرمایا: تم میں دو خصلتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ برد باری اور سوچ سمجھ کر کام کرنا۔

۱۸۴۰۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيْعٍ نَا بَشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ قُرَّةِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُجِبُهُمَا اللَّهُ الْجَلْمَ وَالْأَنَاءَ

اس باب میں اشج ثمری سے بھی حدیث منقول ہے۔

۱۸۴۱۔ حضرت اہل بن سعد ساعدی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تامل (آہستگی) اللہ کی طرف سے اور عجلت شیطان کی طرف سے ہے۔

۱۸۴۱۔ حَدَّثَنَا أَبُو مَصْعَبٍ الْمَدِينِيُّ نَا عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ بْنِ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِنَاءُ مِنَ اللَّهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ

یہ حدیث غریب ہے۔ بعض علماء عبدالمہمین بن عباس کو قلت حافظ کی وجہ سے ضعیف قرار دیتے ہیں۔

باب ۱۲۹۵۔ نرم دلی کے متعلق

باب ۱۲۹۵۔ مَا جَاءَ فِي الرَّفْقِ

۱۸۴۲۔ حضرت ابودرداءؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس کی قسمت میں نرم روی آئی اسے قسمت کا بہت اچھا حصہ ملا اور جو اس سے محروم رہا وہ اچھے نصیب سے محروم رہا۔

۱۸۴۲۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَمْرٍَا سَفِيَانُ عَنْ عَمْرٍَا بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مَلِيكَةَ عَنْ يَعْلى بْنِ مَمْلُكٍ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرَّفْقِ فَقَدْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرَّفْقِ فَقَدْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ

اسی باب میں عائشہؓ، جریر بن عبداللہ اور ابو ہریرہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۲۹۶۔ مظلوم کی دعا۔

باب ۱۲۹۶۔ مَا جَاءَ فِي دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ

وَسَلَّمَ مَا عَرُتْ عَلَىٰ خَدِيجَةَ وَمَا بِيَّ أَنْ أَكُونَ
أَدْرَكْتُهَا وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِكَثْرَةِ ذِكْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا وَإِنْ كَانَ لَيُدْبَحُ الشَّاةُ فَيَتَّبِعُ
بِهَا صَدَائِقَ خَدِيجَةَ فَيُهْدِيهَا لَهُنَّ

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۱۲۹۹۔ مَا جَاءَ فِي مَعَالِي الْأَخْلَاقِ

۱۸۴۷۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشِ
الْبَغْدَادِيِّ نَاحِبَانَ بْنِ هَلَالٍ نَاحِبَ بَارِكِ بْنِ فَضَالَةَ ثَنِي
عَبْدِ رَبِيعِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ
أَحْبَبِكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
أَحَابِسُكُمْ أَحْلَا قَا وَإِنْ مِنْ أَبْغَضِكُمْ إِلَيَّ وَأَبْغَدِكُمْ
مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرَاوُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ
وَالْمُتَفِيهِقُونَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا الثَّرَارِينَ
وَالْمُتَشَدِّقِينَ فَمَا الْمُتَفِيهِقُونَ قَالَ الْمُتَكَبِّرُونَ

اس باب میں ابو ہریرہ سے بھی حدیث منقول ہے۔ یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح ہے۔

باب ۱۳۰۰۔ مَا جَاءَ فِي اللَّعْنِ وَالطَّعْنِ

۱۸۴۸۔ حَدَّثَنَا بَنْدَارُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ
عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ لَعَانًا

باب ۱۳۰۰۔ لعن و طعن کے متعلق

۱۸۴۸۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مؤمن
لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔

اس باب میں ابن مسعودؓ بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ بعض راوی اسی سند سے نقل کرتے ہیں کہ
آنحضرت ﷺ نے فرمایا: مؤمن کے لیے لائق نہیں کہ لعنت کرنے والا ہو۔

باب ۱۳۰۱۔ مَا جَاءَ فِي كَثْرَةِ الْغَضَبِ

۱۸۴۹۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ نَاحِبُ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عِيَّاشِ عَنْ
أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ
رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلِّمْنِي
شَيْئًا وَلَا تُكْثِرْ عَلَيَّ لَعَلِّي أَعِيبُهُ فَقَالَ لَا تَغْضَبْ فَرَدَّدَ
ذَلِكَ مِرَارًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا تَغْضَبْ

باب ۱۳۰۱۔ غصہ کی زیادتی۔

۱۸۴۹۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آنحضرت ﷺ کی
خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے کوئی تھوڑی سی چیز سکھائیے
شاید میں اسے یاد کر سکوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: غصہ نہ کیا کرو۔ اس
نے کئی مرتبہ آنحضرت ﷺ سے اسی طرح پوچھا اور آپ ﷺ نے ہر
مرتبہ یہی جواب دیا کہ غصہ نہ کیا کرو۔

باب ۱۲۹۹۔ اخلاق عالیہ کے متعلق۔

۱۸۴۷۔ حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے
دن میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور قریب بیٹھنے
والے لوگ وہ ہیں جو بہترین اخلاق والے ہیں۔ اور سب سے زیادہ
ناپسندیدہ اور دور رہنے والے لوگ وہ ہیں جو زیادہ باتیں کرنے والے،
بلا سوچے سمجھے اور بلا احتیاط بولنے والے اور متفہقون، لوگوں نے
عرض کیا، یا رسول اللہ پہلے تو ہم سمجھ گئے اور ”متفہقون“ کیا ہے؟
فرمایا: تکبر کے ساتھ باتیں کرنے والے۔

اس باب میں ابو ہریرہ سے بھی حدیث منقول ہے۔ یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح ہے۔

باب ۱۳۰۰۔ مَا جَاءَ فِي اللَّعْنِ وَالطَّعْنِ

۱۸۴۸۔ حَدَّثَنَا بَنْدَارُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ
عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ لَعَانًا

باب ۱۳۰۰۔ لعن و طعن کے متعلق

۱۸۴۸۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مؤمن
لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔

اس باب میں ابن مسعودؓ بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ بعض راوی اسی سند سے نقل کرتے ہیں کہ
آنحضرت ﷺ نے فرمایا: مؤمن کے لیے لائق نہیں کہ لعنت کرنے والا ہو۔

باب ۱۳۰۱۔ مَا جَاءَ فِي كَثْرَةِ الْغَضَبِ

۱۸۴۹۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ نَاحِبُ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عِيَّاشِ عَنْ
أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ
رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلِّمْنِي
شَيْئًا وَلَا تُكْثِرْ عَلَيَّ لَعَلِّي أَعِيبُهُ فَقَالَ لَا تَغْضَبْ فَرَدَّدَ
ذَلِكَ مِرَارًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا تَغْضَبْ

باب ۱۳۰۱۔ غصہ کی زیادتی۔

۱۸۴۹۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آنحضرت ﷺ کی
خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے کوئی تھوڑی سی چیز سکھائیے
شاید میں اسے یاد کر سکوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: غصہ نہ کیا کرو۔ اس
نے کئی مرتبہ آنحضرت ﷺ سے اسی طرح پوچھا اور آپ ﷺ نے ہر
مرتبہ یہی جواب دیا کہ غصہ نہ کیا کرو۔

اس باب میں ابوسعیدؓ اور سلیمان بن صردؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے اور ابو حصین کا نام عثمان عاصم اسدی ہے۔

۱۸۵۰۔ حضرت معاذ بن انسؓ چنی آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جو شخص استطاعت کے باوجود اپنے غصے کو ضبط کر لے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے تمام خلائق کے سامنے بلا کر اختیار دیں گے کہ وہ جس حور کو چاہے پسند کر لے۔

۱۸۵۰۔ حدثنا العباس بن محمد الدوري وغير واحد قالوا نا عبد الله بن يزيد المقرئ نا سعيد بن ابي ايوب ثني ابو مرحوم عبدالرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ بن انس الجهني عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم عيظا وهو يستطيع ان ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤس الخلائق حتى يخيره في اي الحور شاء
یہ حدیث حسن غریب ہے۔

باب ۱۳۰۲۔ بڑوں کی تعظیم کرنا۔

۱۸۵۱۔ حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی جوان شخص کسی بوڑھے کے بڑھاپے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کا اکرام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے میں اس کی تکریم کے لیے کسی شخص کو مقرر فرمادیں گے۔

باب ۱۳۰۲۔ مَا جَاءَ فِي إِجْلَالِ الْكَبِيرِ
۱۸۵۱۔ حدثنا محمد بن المثنى نايزيد بن بيان العقيلي ثنا ابو الرحال الأنصاري عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكرم شاب شبيحا ليسه إلا قبض الله له من بكرمه عند سنه
یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرف یزید بن بیان اور ابو رجال انصاری کی روایت سے جانتے ہیں۔

یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرف یزید بن بیان اور ابو رجال انصاری کی روایت سے جانتے ہیں۔

باب ۱۳۰۳۔ ملاقات ترک کرنے والوں کے متعلق۔

۱۸۵۲۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور ان دنوں میں ان لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے جو شرک کے مرتکب نہیں ہوتے۔ البتہ ترک ملاقات کرنے والے شخصوں کے متعلق اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ انہیں واپس کر دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کریں۔

باب ۱۳۰۳۔ مَا جَاءَ فِي الْمُتَهَاجِرِينَ
۱۸۵۲۔ حدثنا قتيبة نا عبدالعزيز بن محمد عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح ابواب الجنة يوم الإثنين والخميس فيغفر فيهما لمن لا يشرك بالله إلا المتهاجرين يقول رُدُّوا هَٰذَيْنِ حَتَّىٰ يَصْلِحَا
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض روایات میں ”ذروا“ کا لفظ آیا ہے۔ اور متہاجرین سے مراد قطع تعلق کرنے والے ہیں۔ یہ حدیث اس حدیث کی طرح ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: کسی مسلمان کے لیے اپنے بھائی کے ساتھ تین دن سے زیادہ قطع تعلق کرنا حلال نہیں۔

باب ۱۳۰۴۔ صبر کے متعلق۔

۱۸۵۳۔ حضرت ابوسعیدؓ فرماتے ہیں کہ انصار کے کچھ لوگوں نے آنحضرت ﷺ سے کچھ مانگا۔ آپ ﷺ نے انہیں دے دیا۔ انہوں نے

باب ۱۳۰۴۔ مَا جَاءَ فِي الصَّبْرِ
۱۸۵۳۔ حدثنا الانصاري نا معن نا مالك بن انس عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن ابي سعيد ان

نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوا فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ قَالَ مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّ خِرَةً عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعِنَ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَعِفَّ يُعْفِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ شَيْئًا هُوَ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ

پھر مانگا۔ آپ ﷺ نے پھر دیا اور فرمایا: اگر میرے پاس مال ہوتا ہے تو میں اسے تم لوگوں سے چھپا کر نہیں رکھتا۔ اور جو شخص مستغنی ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز کر دیتے ہیں۔ جو شخص مانگنے سے اعراض کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سوال کرنے سے بچاتے ہیں اور جو صبر کا عادی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق عطا فرمادیتے ہیں۔ اور کسی کو صبر سے بہتر اور کشادہ چیز نہیں مل سکتی۔

اس باب میں انس بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور مالک سے بھی ان الفاظ کے ساتھ منقول ہے۔ ”فلن ادخره اور فلم ادخره“۔

باب ۱۳۰۵۔ مَا جَاءَ فِي ذِي الْوَجْهِينِ

۱۸۵۴۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ أَبِي معاوية عن الاعمش عن أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَا الْوَجْهِينِ

باب ۱۳۰۵۔ ہر ایک کے منہ پر اس کی طرف داری کرنے والا۔
۱۸۵۴۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن بدترین شخص وہ ہے جو دو دشمنوں میں سے ہر ایک پر یہ ظاہر کرے کہ میں تمہارا دوست ہوں۔

اس باب میں عمارؓ اور انس بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۳۰۶۔ مَا جَاءَ فِي النَّمَامِ

۱۸۵۵۔ حَدَّثَنَا ابْنُ عمرنا سفیان عن منصور عن إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ فَقِيلَ لَهُ هَذَا يُبَلِّغُ الْأَمْرَاءَ الْحَدِيثَ عَنِ النَّاسِ فَقَالَ حُدَيْفَةُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ قَالَ سُفْيَانُ وَالْقَتَاتُ النَّمَامُ

باب ۱۳۰۶۔ چغل خوری کرنے والا۔

۱۸۵۵۔ حضرت ہمام بن حارثؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حذیفہ بن یمانؓ کے پاس سے گزرا تو انہیں بتایا گیا کہ یہ لوگوں کی باتیں امراء تک پہنچاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ ”قتات“ جنت میں نہیں جائے گا۔ سفیان کہتے ہیں کہ قتات چغل خور کو کہتے ہیں۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۳۰۷۔ مَا جَاءَ فِي الْعَبِيِّ

۱۸۵۶۔ حَدَّثَنَا احمد بن منيع نا يزيد بن هارون عن ابى غسان محمد بن مطرف عن حسان بن عطية عن ابى امامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء والعبي شعبتان من الإيمان والبداء

باب ۱۳۰۷۔ تامل کے متعلق۔

۱۸۵۶۔ حضرت ابو امامہؓ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ حياء اور تامل (۱) ایمان کی دو شاخیں ہیں جب کہ نخش گوئی اور کثرت کلام نفاق کی دو شاخیں ہیں۔

(۱) تامل کے معنی قلت کلام کے ہیں۔

وَالْبَيَانَ شُعْبَتَانِ مِنَ النِّفَاقِ

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف ابو عسان محمد بن مطرف کی روایت سے جانتے ہیں۔

باب ۱۳۰۸۔ مَا جَاءَ اَنَّ مِنَ الْبَيَانِ لِسِحْرًا

باب ۱۳۰۸۔ بعض بیان میں جادو ہے۔

۱۸۵۷۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

۱۸۵۷۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں

زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلَيْنِ قَدِمَا فِي زَمَانِ

دو شخص آئے اور دونوں نے لوگوں سے خطاب کیا جس سے لوگ حیرت

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَا فَعَجِبَ

میں پڑ گئے۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ ہم سے مخاطب ہوئے اور فرمایا:

النَّاسُ مِنْ كَلَامِهَا فَالْتَفَتْنَا إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

بعض لوگوں کا کسی چیز کو بیان کرنا جادو کی طرح ہوتا ہے۔ راوی کو شک

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا أَوْ إِنَّ بَعْضَ

ہے کہ بعض بیان فرمایا، یا من البیان فرمایا:

الْبَيَانِ سِحْرًا

الْبَيَانِ سِحْرًا

اس باب میں عمار، ابن مسعود اور عبد اللہ بن شحیرؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۳۰۹۔ مَا جَاءَ فِي التَّوَاضُّعِ

باب ۱۳۰۹۔ تواضع کے متعلق

۱۸۵۸۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

۱۸۵۸۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: صدقہ

الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ

کسی کے مال میں کمی نہیں کرتا، معاف کرنے والے کی عزت کے علاوہ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا نَقَصَتْ

کوئی چیز نہیں بڑھتی اور جو شخص اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ تعالیٰ

صَدَقَةٌ مِّنْ مَّالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ رَجُلًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا

اسے بلند کرتے ہیں۔

تَوَاضَعُ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ

تَوَاضَعُ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ

اس باب میں ابن عباسؓ، عبدالرحمن بن عوفؓ اور ابو کبشہ انماری بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۳۱۰۔ مَا جَاءَ فِي الظُّلْمِ

باب ۱۳۱۰۔ ظلم کے متعلق۔

۱۸۵۹۔ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ نَا ابُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ

۱۸۵۹۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، ظلم

عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلْمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

قیامت کے دن کی تاریکیوں کا موجب ہے۔

بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

اس باب میں عبد اللہ بن عمروؓ، ابو موسیٰؓ اور ابو ہریرہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

باب ۱۳۱۱۔ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الْعَيْبِ لِلنِّعْمَةِ

باب ۱۳۱۱۔ نعت میں عیب جوئی ترک کرنا۔

۱۸۶۰۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ نَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

۱۸۶۰۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے کبھی کسی

الْمُبَارَكِ عَنْ سَفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ

کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ اگر جی چاہتا تو کھا لیتے، ورنہ چھوڑ دیتے۔

أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ كَانَ إِذَا اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِلَّا تَرَكَهُ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو حذمہ انجلی کا نام سلمان ہے اور وہ عزاۃ اشجعیہ کے مولیٰ ہیں۔

باب ۱۳۱۲۔ مَا جَاءَ فِي تَعْظِيمِ الْمُؤْمِنِ

باب ۱۳۱۲۔ مؤمن کی تعظیم

۱۸۶۱۔ حدثنا يحيى بن اكنم والجارود بن معاذ قالنا الفضل بن موسى نا الحسين بن واقد عن اوفى بن دلهم عن نافع عن ابن عمر قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع قال يا معشر من قد اسلم بلسانه ولكم يفض الايمان الى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فانه من تتبع عورة ابيه تتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله قال ونظر ابن عمر يوما الى البيت اولى الكعبة فقال ما اعظمك واعظم حرمتك والمؤمن اعظم حرمة عند الله منك

۱۸۶۱۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ منبر پر چڑھے اور بلند آواز سے فرمایا: اے لوگوں کے وہ گروہ جو صرف زبانوں سے اسلام لائے ہیں اور ایمان ان کے دلوں میں نہیں پہنچا مسلمانوں کو ازیت نہ دو انہیں عار نہ دلاؤ اور ان میں عیوب مت تلاش کرو۔ کیونکہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیب جوئی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی عیب گیری کرتے ہیں۔ اور جس کی عیب گیری اللہ تعالیٰ کرنے لگیں وہ ذلیل ہو جائے گا۔ اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ پھر راوی کہتے ہیں کہ ایک دن ابن عمر نے بیت اللہ یا فرمایا کعبہ کی طرف نظر ڈالی اور فرمایا: تم کتنے عظیم ہو تمہاری حرمت بھی کتنی عظیم ہے۔ لیکن مؤمن کی حرمت اللہ کے نزدیک تم سے بھی زیادہ ہے۔

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف حسین بن واقد کی روایت سے جانتے ہیں۔ اسحاق بن ابراہیم سمرقندی بھی حسین بن واقد سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ پھر ابو برزہ اسلمی بھی آنحضرت ﷺ سے اسی کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۳۱۳۔ مَا جَاءَ فِي التَّحَارُبِ

باب ۱۳۱۳۔ تجربے کے متعلق۔

۱۸۶۲۔ حدثنا قتيبة نا عبدالله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج عن ابي الهيثم عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلیم الا ذو عثرة ولا حكيم الا ذو تجربة

۱۸۶۲۔ حضرت ابوسعیدؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوئی شخص اس وقت تک بردباری میں کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ ٹھوکر نہ کھائے۔ اسی طرح کوئی دانا بغیر تجربے کے دانائی میں کامل نہیں ہو سکتا۔ (۱)

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

باب ۱۳۱۴۔ مَا جَاءَ فِي الْمُشْتَبِعِ بِمَا لَمْ يُعْطَهُ

باب ۱۳۱۴۔ جو چیز اپنے پاس نہ ہو اس پر فخر کرنا۔

۱۸۶۳۔ حدثنا علي ابن حجرنا اسمعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعطى عطاء فوجد فليجز به ومن لم يجد فليئن فان من اتنى

۱۸۶۳۔ حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کسی شخص کو کوئی چیز دی گئی اور اس میں قدرت و استطاعت ہے تو اس کا بدلہ دے ورنہ اس کی تعریف کرے اس لیے کہ جس نے تعریف کی اس نے شکر ادا کیا۔ اور جس نے کسی نعمت کو چھپایا اس نے کفران نعمت کیا اور

(۱) یعنی کوئی بردبار اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک اس سے خطا وغیرہ واقع نہ ہو اور وہ شرمندگی کے بعد لوگوں سے معافی کا خواستگار نہ ہو۔ چنانچہ جب وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی غلطیاں معاف کریں تو وہ بھی معاف کرتا ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

فَقَدْ شَكَرَ وَمَنْ كَتَمَ فَقَدْ كَفَرَ وَمَنْ تَحَلَّى بِمَالِهِ
جس شخص نے کسی ایسی چیز سے اپنے آپ کو آراستہ کیا جو اسے عطا نہیں
يُعْطُهُ كَانَ كَلَابِسِ ثَوْبِي زُورٍ
کی گئی تو گویا کہ اس نے مکر کا لباس اوڑھ لیا۔ (۱)

اس باب میں اسماء بنت ابی بکر اور عائشہ بھی احادیث نقل کرتی ہیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

باب ۱۳۱۵۔ مَا جَاءَ فِي الشَّاءِ بِالْمَعْرُوفِ

۱۸۶۴۔ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ وَالْحُسَيْنُ
بن الحسن المرزوي بمكة فالانا الا حوص بن
جواب عن سعير بن الخمس عن سليمان التيمي عن
ابى عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال
لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الشفاء

باب ۱۳۱۵۔ احسان کے بدلے تعریف کرنا

۱۸۶۴۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
جس کے ساتھ کسی نے احسان کیا اور اس نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ
تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے تو اس نے اس کی پوری پوری تعریف
کردی۔

یہ حدیث حسن جید غریب ہے۔ ہم اسے اسامہ بن زید کی روایت سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

طب سے متعلق رسول اللہ ﷺ سے

أَبْوَابُ الطِّبِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ

منقول احادیث کے ابواب

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب ۱۳۱۶۔ پرہیز کے متعلق۔

باب ۱۳۱۶۔ فِي الْحَمِيَةِ

۱۸۶۵۔ حضرت ام منذر کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ حضرت علیؑ کو ساتھ
لے کر ہمارے یہاں تشریف لائے ہمارے ہاں ایک کھجور کی شاخ تنگی
ہوئی تھی۔ آپ ﷺ اور حضرت علیؑ دونوں نے کھانا شروع کر دیا۔ آپ
ﷺ نے فرمایا: علیؑ ٹھہر جاؤ تم تو ابھی بیماری سے اٹھے ہو۔ ام منذر کہتی
ہیں: اس پر علیؑ بیٹھ گئے اور آپ ﷺ کھاتے رہے۔ پھر میں ان کے لیے
چقندر اور جو تیار کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: علیؑ اس میں سے لو۔ یہ تمہاری
طبیعت کے مطابق ہے۔

۱۸۶۵۔ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ نَا يُونُسَ
بن محمد ثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن
عبد الرحمن عن يعقوب بن ابي يعقوب عن أم
المنذر قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه
وسلم ومعه علي ولنا دوالي معلقة قالت فجعل
رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ومعه علي
يأكل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي
مه مه يا علي فإنك ناقة قال فجلس علي والنبی
صلى الله عليه وسلم يأكل قالت فجعلت لهم
سلفا وشعيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا
علي من هذا فأصب فإنه أوفق لك

(۱) مثلاً کوئی شخص غیبت نہ ہوتے ہوئے اہل علم کا بادہ اوڑھ کر اپنی اصلیت کو چھپانے کی کوشش کرے۔ (مترجم)

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف فتح بن سلیمان کی روایت سے جانتے ہیں وہ ایوب بن عبد الرحمن سے نقل کرتے ہیں محمد بن بشر بھی ابوعامر اور ابوداؤد سے یہ دونوں فتح سے وہ ایوب بن عبد الرحمن سے وہ یعقوب بن ابی یعقوب سے اور وہ ام منذر سے اسی کی مانند نقل کرتے ہوئے ان الفاظ کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے“ یعنی چھتہ اور جو، محمد بن بشر اپنی حدیث میں کہتے ہیں کہ مجھ سے اسے ایوب بن عبد الرحمن نے بیان کیا ہے۔ یہ حدیث جید غریب ہے۔

۱۸۶۶۔ حدثنا محمد بن يحيى نا اسحق بن محمد الفروي نا اسمعيل بن جعفر عن عمارة بن غزوية عن عاصم بن عمر بن قتادة عن مُحَمَّدِ بْنِ لَيْبِدٍ عَنْ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا حَمَاهُ الدُّنْيَا كَمَا يَظِلُّ أَحَدُكُمْ يَحْمِي سَفِيْمَهُ الْمَاءِ

۱۸۶۶۔ حضرت قتادہ بن نعمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اسے دنیا سے اس طرح روکتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی اپنے مریض کو پانی سے روکتا ہے یعنی مرض استقاء وغیرہ میں۔

یہ حدیث حسن غریب ہے اور محمود بن لبید سے بھی منقول ہے وہ آنحضرت ﷺ سے مرسل نقل کرتے ہیں اس باب میں صہیبؓ بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ علی بن حجر بھی اسماعیل بن جعفر سے وہ عمرو بن ابی عمرو سے وہ عاصم بن عمر بن قتادہ سے اور وہ محمود بن لبید سے اسی کے مثل نقل کرتے ہوئے قتادہ بن نعمان کا ذکر نہیں کرتے۔ یہ قتادہ بن نعمان ظفری، ابوسعید خدری کے ماں شریک بھائی ہیں۔ محمود بن لبید نے یحییٰ میں آنحضرت ﷺ کی زیارت کی ہے۔

باب ۱۳۱۷۔ دو اور اس کی فضیلت۔

باب ۱۳۱۷۔ مَا جَاءَ فِي الدَّوَاءِ وَالْحَبِّ عَلَيْهِ

۱۸۶۷۔ حضرت اسامہ بن شریک کہتے ہیں کہ دیہاتوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! کیا ہم دو انہ کو کیا کریں؟ فرمایا: اللہ کے بندو، دو کیا کرو اللہ تعالیٰ نے کوئی مرض ایسا نہیں رکھا کہ اس کا علاج نہ ہو یا فرمایا دو انہ ہو۔ ہاں ایک مرض لاعلاج ہے۔ عرض کیا: وہ کیا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: بڑھاپا۔

۱۸۶۷۔ حدثنا بشر بن معاذ العقدي البصري نا ابو عوانة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قَالَ قَالَتِ الْأَعْرَابُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَتَدَاوَى قَالَ نَعَمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً أَوْ قَالَ دَوَاءً إِلَّا دَاءً وَاحِدًا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُوَ قَالَ الْهَرَمُ

اس باب میں ابن مسعود، ابن عباس، ابو ہریرہ اور ابوخرزائمہؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں (ابوخرزائمہ اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں)

یہ حدیث حسن صحیح ہے یعنی اسامہ کی۔

باب ۱۳۱۸۔ مریض کو کیا کھلایا جائے۔

باب ۱۳۱۸۔ مَا جَاءَ مَا يُطْعَمُ الْمَرِيضَ

۱۸۶۸۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ اگر آنحضرت ﷺ کے گھر والوں میں سے کسی کو بخار ہو جاتا تو آپ ﷺ ہریرہ بتانے کا حکم دیا کرتے اور پھر اس میں سے گھونٹ گھونٹ پینے کا حکم دیتے اور فرماتے یہ نمکین کے ذل کو تسکین دیتا اور اس کے دل سے بیماری کی تکلیف کو اس طرح دور

۱۸۶۸۔ حدثنا احمد بن منيع نا اسمعيل بن ابراهيم نا محمد بن السائب بن بركة عن أمية عن عائشة قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذَ أَهْلَهُ الْوَعَكُ أَمَرَ بِالْحَسَاءِ فَصَنَعَ ثُمَّ أَمَرَهُمْ

فَحَسُوا مِنْهُ وَ كَانَ يَقُولُ إِنَّهُ لَيَرْتُو فُوَادَ الْحَزْبَيْنِ
وَيَسْرُو عَنْ فُوَادِ السَّقِيمِ كَمَا تَسْرُوا إِحْدَاكُنَّ
الْوَسْخَ بِالْمَاءِ عَنْ وَجْهِهَا

کر دیتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے چہرے کے میل کو پانی کے ساتھ
دھو دیتی ہے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ زہری بھی عروہ سے وہ عائشہ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی مضمون کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ ہم سے
اسے جریری نے ابو اسحاق طالقانی کے حوالے سے انہوں نے ابن مبارک سے انہوں نے یونس سے انہوں نے زہری سے انہوں نے عروہ
سے انہوں نے عائشہ سے اور انہوں نے آنحضرت ﷺ سے نقل کی ہے ہمیں یہ بات ابو اسحاق نے بتائی۔

باب ۱۳۱۹۔ مَا جَاءَ لَا تُكْرَهُوا مَرَضَاكُمْ عَلَى
الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ

باب ۱۳۱۹۔ مریض کو کھانے پینے پر مجبور نہ کیا جائے۔

۱۸۶۹۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ نَابِكْرُ بْنُ يُونُسَ بْنِ بَكْرِ
عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ
الْحُجْنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا
تُكْرَهُوا مَرَضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ
وَتَعَالَى يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ

۱۸۶۹۔ حضرت عقبہ بن عامر جہنیؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے
فرمایا: اپنے مریضوں کو کھانے پر مجبور نہ کیا کرو۔ کیونکہ اللہ تبارک و
تعالیٰ انہیں کھلاتے پلاتے ہیں۔

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

باب ۱۳۲۰۔ كَلْوَجِيٍّ كَيْ مَتَلَقِ

۱۸۷۰۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَمْرٍ وَسَعِيدُ بْنُ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَا نَا سَفِيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْحَبَّةِ السُّودَاءِ فَإِنَّ فِيهَا
شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ وَالسَّامُ الْمَوْتُ

۱۸۷۰۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس
کالے دانے کے متعلق جان لو کہ اس میں سام کے علاوہ ہر مرض کی شفا
ہے اور سام موت کو کہتے ہیں۔

باب ۱۳۲۱۔ اَوْنُوں كَا پِيْشَابِ پِيْنِي كَيْ مَتَلَقِ

۱۸۷۱۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزُّعْفَرَانِيِّ نَا
عِفَانُ نَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ نَا حَمِيدُ وَ ثَابِتُ وَقْتَادَةُ
عَنْ أَنَسِ أَنَّ نَاسًا مِنْ غُرَيْبَةَ قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ
فَاجْتَوَوْهَا فَبَعَثَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي إِبِلِ الصَّنَقَةِ وَقَالَ اشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا

۱۸۷۱۔ اونٹوں کا پیشاب پینے کے متعلق
۱۸۷۱۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ عرینہ کے کچھ لوگ مدینہ آئے تو انہیں
مدینہ کی آب و ہوا موافق نہ آئی۔ آپ ﷺ نے انہیں صدقے و زکوٰۃ
کے اونٹوں میں بھیج دیا اور فرمایا ان کا دودھ اور پیشاب پیو۔

اس باب میں ابن عباسؓ سے بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ مذکورہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۳۲۲۔ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسِمٍّ أَوْ غَيْرِهِ

۱۳۲۲۔ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسِمٍّ أَوْ غَيْرِهِ

جس نے زہر کھا کر خودکشی کی۔

۱۸۷۲۔ حدثنا احمد بن منيع نا عبدة بن حميد عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة اراه رفعه قال من قتل نفسه بحديدة جاء يوم القيامة وحديدته في يده يتوجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا ابدا ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا ابدا

۱۸۷۳۔ حضرت ابو هريرهؓ فرمایا: جس نے لوہے سے خودکشی کی (تلوار وغیرہ) وہ قیامت کے دن اسے اپنے ہاتھ میں لے کر آئے گا۔ اور جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے اپنے پیٹ میں جھونکتا رہے گا اور جس نے زہر سے خودکشی کی ہوگی وہ بھی اس زہر کو ہاتھ میں لے کر آئے گا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے اسے پیتا رہے گا۔

۱۸۷۳۔ حدثنا محمود بن غيلان نا ابوداؤد عن شعبة عن الاعمش قال سمعت ابا صالح عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا

۱۸۷۴۔ حضرت ابو هريرهؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص کسی لوہے سے خود کو قتل کرے گا وہ اس چیز کو ہاتھ میں لے کر آئے گا اور اسے اپنے پیٹ میں بار بار مار رہا ہوگا۔ اور وہ یہ عمل جہنم کی آگ میں ہمیشہ اسی طرح کرتا رہے گا۔ اور اسی طرح خود کو زہر سے مارنے والا بھی زہر ہاتھ میں لے کر آئے گا۔ اور جہنم کی آگ میں ہمیشہ اسی طرح پیتا رہے گا۔ پھر جو شخص پہاڑ سے چھلانگ لگا کر خودکشی کرے گا وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں اسی طرح گرتا رہے گا۔

۱۸۷۴۔ حدثنا سويد بن نصر انا عبد الله بن المبارك عن يونس بن ابي اسحق عن مجاهد عن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث يعنى السم

باب ۱۳۲۳۔ ماجاء في التداوي بالمسكير

۱۸۷۵۔ حدثنا محمود بن غيلان نا ابوداؤد عن شعبة عن سماك انه سمع علقمة بن وائل عن ابيه

محمد بن علاء بھی کج اور ابو معاویہ سے وہ اعمش سے وہ ابوصالح سے وہ ابو هريرهؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے شعبہ کی اعمش سے منقول حدیث کی طرح نقل کرتے ہیں۔ اور یہ پہلی سے زیادہ صحیح ہے۔ یہ حدیث اعمش سے بواسطہ ابوصالح بھی اسی طرح منقول ہے وہ ابو هريرهؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ محمد بن عجلان، سعید مقبری سے اور وہ ابو هريرهؓ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جس نے زہر کھا کر خودکشی کی وہ جہنم کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کا ذکر نہیں۔ ابوزناد بھی اعرج سے وہ ابو هريرهؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی طرح نقل کرتے ہیں اور یہ زیادہ صحیح ہے۔ اس لیے کہ اس طرح کی متعدد روایات آئی ہیں کہ اہل توحید کو دوزخ میں عذاب دینے کے بعد نکالا جائے گا۔ یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔

۱۸۷۴۔ حضرت ابو هريرهؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے دواء خبیث کے استعمال سے منع فرمایا: یعنی زہر سے۔

باب ۱۳۲۳۔ نشأ در چیز سے علاج کرنا

۱۸۷۵۔ حضرت وائل فرماتے ہیں کہ سويد بن طارق یا طارق بن سويد نے ان کی موجودگی میں آنحضرت ﷺ سے شراب کا حکم دریافت کیا تو

آپ ﷺ نے انہیں منع فرمادیا۔ انہوں نے عرض کیا۔ ہم اس سے ملانے کرتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ دو انہیں بلکہ مرض ہے۔

أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلَهُ سُؤْيِدُ بْنُ طَارِقٍ أَوْ طَارِقُ بْنُ سُؤْيِدٍ عَنِ الْخَمْرِ فَهَاهُ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّا لَتَتَادَوَىٰ بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهَا دَاءٌ

محمود بھی نظر اور شبابہ سے اور وہ شعبہ سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ محمود کی روایت میں طارق بن سوید اور شبابہ کی سند میں سوید بن طارق ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۳۲۴۔ مَا جَاءَ فِي السَّعُوطِ وَغَيْرِهِ

باب ۱۳۲۳۔ ناک میں دوائی ڈالنے کے متعلق۔

۱۸۷۶۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تمہاری دواؤں میں سے بہترین دوا سعوط (۱) لدود (۲) پچھے لگانا اور مٹی (۳) ہے۔ پھر جب آپ ﷺ بیمار ہوئے تو صحابہؓ نے آپ ﷺ کے منہ میں دوا ڈالی جب وہ فارغ ہوئے تو آپ ﷺ نے فرمایا: ان سب کے منہ میں دوا ڈالو۔ چنانچہ سب حاضرین کے منہ میں دوا ڈالی گئی سوائے حضرت عباسؓ کے۔

۱۸۷۶۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَدْوِيَةَ نَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَادٍ نَا عَبَادَ بْنَ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خَيْرَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ السَّعُوطُ وَاللَّدُودُ وَالْحِجَامَةُ وَالْمَشِيُّ فَلَمَّا اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَدَّةَ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا فَرَعُوا قَالَ لُدُّوهُمْ قَالَ فَلُدُّوا كُلَّهُمْ غَيْرَ الْعَبَّاسِ

۱۸۷۷۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تمہاری دواؤں میں سے بہترین دوایں لدود، سعوط، پچھے لگانا اور مٹی ہے۔ (ان کی تفصیل پچھلی حدیث میں گزر چکی) جب کہ بہترین سرمہ اشمہ ہے اس سے نظر تیز ہوتی ہے اور پگلوں کے بال اگتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے پاس ایک سرمہ دانی تھی جس سے آپ ﷺ سوتے وقت ہر آنکھ میں تین سلائیاں سرمہ لگایا کرتے تھے۔

۱۸۷۷۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ نَا عَبَادَ بْنَ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خَيْرَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ اللَّدُّودُ وَالسَّعُوطُ وَالْحِجَامَةُ وَالْمَشِيُّ وَخَيْرٌ مَا اكْتَحَلْتُمْ بِهِ الْأَيْمِدُ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَ يُنْبِتُ الشَّعْرَ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ مَكْحَلَةٌ يُكْتَحِلُ بِهَا عِنْدَ النَّوْمِ ثَلَاثًا فِي كُلِّ عَيْنٍ

یہ حدیث حسن ہے۔

باب ۱۳۲۵۔ داغنے کی کراہت۔

باب ۱۳۲۵۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْكُحْيِ

۱۸۷۸۔ حضرت عمران بن حصینؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے

۱۸۷۸۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ

(۱) سعوط وہ دوا ہے جو مریض کے ناک میں چڑھائی جاتی ہے۔ (مترجم)

(۲) لدود اس دوا کو کہتے ہیں جو منہ کے ایک جانب سے اندر ڈالی جاتی ہے۔ (مترجم)

(۳) مٹی سے مراد وہ دوائیں ہیں جن سے اسہال ہوتا ہے۔ یعنی قضاے حاجت کا بکثرت ہونا۔ واللہ اعلم (مترجم)

داغنے سے منع فرمایا: چنانچہ جب ہم بیمار ہوئے تو داغ دلوایا لیکن ہم نے مرض سے چھٹکارا نہیں پایا اور نہ ہی کامیاب ہوئے۔

نا شعبة عن قتادة عن الحسن بن عمران بن حصين
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْكَيِّ
قَالَ فَأَبْتَلِينَا فَأَكْتَوَيْنَا فَمَا أَفْلَحْنَا وَلَا أُنْجَحْنَا
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۸۷۹۔ حضرت عمران بن حصین فرماتے ہیں کہ ہمیں داغنے سے منع کیا گیا۔

۱۸۷۹۔ حدثنا عبد القدوس بن محمد نا عمرو بن
عاصم نا همام عن قتادة عن الحسن بن عمران بن
حصين قال نهينا عن الكي

اس باب میں ابن مسعود، عقبہ بن عامر اور ابن عباسؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۳۲۶۔ داغنے کی اجازت۔

باب ۱۳۲۶۔ مَا جَاءَ فِي الرُّخَصَةِ فِي ذَلِكَ

۱۸۸۰۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے سعد بن زرارہ کو شوکہ کی بیماری میں داغ دیا۔

۱۸۸۰۔ حدثنا حميد بن مسعدة نا يزيد بن زريع نا
معمر عن الزهري عن أنس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَوَى سَعْدَ بْنَ زُرَّارَةَ مِنَ الشَّوْكَةِ

اس باب میں ابو ہریرہؓ اور جابرؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

توضیح: داغنے کے متعلق مختلف روایات منقول ہیں۔ بعض اس کے جواز پر دلالت کرتی ہیں اور بعض میں ممانعت آئی ہے۔ ان روایات میں ابن قیم نے اس طرح تطبیق کی ہے کہ اس کا فعل اس کے جواز پر دلالت کرتا ہے اور اسے پسند نہ کیا جاتا اس کی ممانعت پر دلالت نہیں کرتا۔ پھر اس کی ممانعت کی تعریف (جیسا کہ بعض روایات میں آتی ہے) اسکے ترک کرنے کو افضل قرار دیتی ہے جب کہ ممانعت انسان کے اختیار پر محمول ہے۔ یا پھر ایسے داغ دینے پر جو مرض لاحق ہونے سے پہلے بطور احتیاط دیا جاتا ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۱۳۲۷۔ چھپنے لگانے کے متعلق

باب ۱۳۲۷۔ مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةِ

۱۸۸۱۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے دونوں جانب کی رگوں اور شانوں کے درمیان چھپنے لگایا کرتے تھے اور یہ عمل سترہ، انیس یا کیس تاریخ کو کیا کرتے تھے۔

۱۸۸۱۔ حدثنا عبد القدوس بن محمد نا عمرو بن
عاصم نا همام وجرير بن حازم قالنا نا قتادة عن
أنس قال كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُ
فِي الْأَخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ وَكَانَ يَحْتَجِمُ لِسَبْعِ عَشْرَةَ
وَتِسْعِ عَشْرَةَ وَاحِدَيْ وَعَشْرِينَ

اس باب میں ابن عباسؓ اور معقل بن یسارؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

۱۸۸۲۔ حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے شب معراج کا قصہ سناتے ہوئے فرمایا: کہ آپ ﷺ فرشتوں کے کسی ایسے گروہ کے پاس سے نہیں گزرے جس نے آپ ﷺ کو اپنی امت کو چھپنے

۱۸۸۲۔ حدثنا احمد بن يديل بن قريش اليماني
الكوفي نا محمد بن فضيل نا عبدالرحمن بن
اسحاق عن القاسم بن عبدالرحمن هو ابن عبد الله

لگانے کا حکم دینے کا نہ کہا ہو۔

بن مسعود عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَيْلَةَ أُسْرِي بِهِ أَنَّهُ لَمْ يَمْرَ عَلَى مَلَاءٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا أَمْرُوهُ أَنْ مَرُّ أَمْتِكَ بِالْحِجَامَةِ .

یہ حدیث ابن مسعود کی روایت سے حسن غریب ہے۔

۱۸۸۳۔ حدثنا عبد بن حميد نا النضر بن شميل نا عباد بن منصور قال سمعت عكرمة قال كان لابن عباس غلمة ثلثة حجامون فكان اثنان يغلان وواحد يحجمه ويحجم اهله قال وقال ابن عباس قال نبي الله نعم العبد الحجام يذهب بالدم ويخفف الصلب ويحلوا عن البصر وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عرج به مامر على ملاء من الملائكة الا قالوا عليك بالحجامة وقال ان خير ما تحتجمون فيه يوم سبع عشرة و يوم تسع عشرة ويوم احدى وعشرين وقال ان خير ما تدأويتم به السعوط واللدود والحجامة والمشي وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لده العباس واصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لدني فكلهم امسكوا فقال لا ينطى احد ممن في البيت الا لده غير عمه العباس قال النضر اللدود الوجور

۱۸۸۳۔ حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ ابن عباسؓ کے پاس تین غلام تھے جو کچھ لگاتے تھے۔ ان میں سے دو تواجرت پر کام کیا کرتے تھے اور ایک ان کی اور ان کے گھروالوں کی حجامت (کچھ لگاتا تھا) کیا کرتا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ ابن عباسؓ، رسول اللہ ﷺ کا یہ قول نقل کرتے تھے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: حجامت کرنے والا غلام کتنا بہترین ہے۔ خون کو لے جاتا ہے، پیٹھ کو ہلکا کر دیتا ہے اور نظر کو صاف کر دیتا ہے۔ مزید فرمایا کہ جب رسول اللہ ﷺ معراج کے لیے تشریف لے گئے تو فرشتوں کے جس گروہ سے بھی گزر ہوا۔ انہوں نے یہی کہا کہ حجامت ضرور کیا کریں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کچھ لگانے کے لیے بہترین دن سترہ، انیس اور اکیس تاریخ کے دن ہیں۔ یہ بھی فرمایا کہ بہترین علاج سعوط، لدود، حجامت اور مشی ہے۔ آنحضرت ﷺ کے منہ میں عباسؓ اور دوسرے صحابہؓ نے دوا ڈالی تو فرمایا کہ ہر موجود شخص کے منہ میں (بطور قصاص) دوا ڈالی جائے (کیونکہ آپ ﷺ نے اس سے منع فرمایا تھا۔ لیکن صحابہؓ سمجھے کہ شاید آپؐ بیماری کی وجہ سے جیسے مریض دوائی سے منع کرتے ہیں اسی طرح منع کر رہے ہیں) چنانچہ آپ ﷺ کے چچا عباسؓ کے علاوہ سب حاضرین کے منہ میں دوا ڈالی گئی۔ نضر کہتے ہیں کہ لدود، وجور کو کہتے ہیں۔ ان الفاظ کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف عباد بن منصور کی روایت سے جانتے ہیں۔

باب ۱۳۲۸۔ مہندی سے دوا کرنا۔

۱۸۸۴۔ حضرت علی بن عبید اللہ اپنی دادی سے جو آنحضرت ﷺ کی خدمت کیا کرتی تھیں۔ نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا۔ آنحضرت ﷺ کو اگر کسی پتھر یا کانٹے وغیرہ سے زخم ہو جاتا تو مجھے اس زخم پر مہندی

باب ۱۳۲۸۔ ماجاء فی التداوی بالحجاء

۱۸۸۴۔ حدثنا احمد بن منيع نا حماد بن خالد الخياط نا فائد مولى لال ابي رافع عن علي بن عبيد الله عن جدته وكانت تحضم النبي صلى الله

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ مَا كَانَ يَكُونُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرِحَةٌ وَلَا نَكْبَةً إِلَّا أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَضَعَ عَلَيْهِ الْجِنَاءَ

لگانے کا حکم دیا کرتے تھے۔

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف فائدہ کی روایت سے جانتے ہیں۔ بعض راوی یہ حدیث اس طرح فائدہ سے نقل کرتے ہیں کہ فائدہ عبید اللہ بن علی سے اور وہ اپنی دادی سلمیٰ سے نقل کرتے ہیں اور عبید اللہ بن علی زیادہ صحیح ہے۔ محمد بن علاء، زید بن حباب سے وہ عبید اللہ بن علی کے مولیٰ فائدہ سے وہ اپنے آقا سے وہ اپنی دادی سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے ہم معنی حدیث نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۳۲۹۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الرُّقِيَّةِ

باب ۱۳۲۹۔ دعا پڑھ کر پھونکنے کی کراہت

۱۸۸۵۔ حَدَّثَنَا بَنْدَارٌ نَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ نَا سَفِيَانَ عَن مَنصُورٍ عَن مَجَاهِدٍ عَن عَقَّارِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بِنِ شُعْبَةَ عَن أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اكْتَوَىٰ أَوْ اسْتَرْقَىٰ فَهُوَ بَرِيءٌ مِّنَ التَّوَكُّلِ

۱۸۸۵۔ حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے داغ دلوایا، یا جھاڑ پھونک کی وہ اہل توکل کے زمرے سے نکل گیا۔

اس باب میں ابن مسعود، ابن عباس اور عمران بن حصین سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۳۳۰۔ مَا جَاءَ فِي الرُّحْصَةِ فِي ذَلِكَ

باب ۱۳۳۰۔ رقیہ (جھاڑ پھونک) کی اجازت۔

۱۸۸۶۔ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَزَاعِيُّ نَامِغُويَةً بِنِ هِشَامٍ عَن سَفِيَانَ عَن عَاصِمِ الْاِحْوَالِ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَن أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الرُّقِيَّةِ مِنَ الْحَمَةِ وَالْعَيْنِ وَالنَّمْلَةِ

۱۸۸۶۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے زہریلے جانور کے ڈنگ مارنے، نظر لگنے اور پہلی میں دانے نکلنے پر دعا پڑھ کر پھونکنے کی اجازت دی۔

۱۸۸۷۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَا يَحْيَىٰ بِنِ اِدَمٍ وَابُو نَعِيمٍ قَالَا نَا سَفِيَانَ عَن عَاصِمِ عَن يُوْسُفَ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الرُّقِيَّةِ مِنَ الْحَمَةِ وَالنَّمْلَةِ

۱۸۸۷۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے بچھو کے کاٹنے اور دانے نکلنے پر رقیہ (جھاڑ پھونک) کی اجازت دی ہے۔

امام ترمذی کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ حدیث پہلی حدیث سے زیادہ صحیح ہے اس باب میں بریدہ، عمران بن حصین، جابر، عائشہ، طلح بن علی، عمرو بن ترمذ اور ابو خزیمہ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔

۱۸۸۸۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَمْرٍَا سَفِيَانَ عَن حُصَيْنِ عَن الشَّعْبِيِّ عَن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا رُقِيَّةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حَمَةٍ

۱۸۸۸۔ حضرت عمران بن حصین کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نظر بد اور بچھو کے کاٹنے کے علاوہ رقیہ نہیں۔

شعبہ یہ حدیث شعی سے وہ حصین سے اور وہ بریدہ سے نقل کرتے ہیں۔

توضیح: اس باب میں مختلف احادیث وارد ہوئی ہیں جو رقی کی تخصیص پر دلالت کرتی ہیں جب کہ پچھلے باب میں اس کی کراہت مذکور ہے۔ ان کے علاوہ بھی کئی احادیث ہیں جن میں سے بعض جواز اور بعض عدم جواز پر دلالت کرتی ہیں لیکن ان میں کوئی تعارض نہیں۔ چنانچہ جن احادیث میں اس کے ترک کا ذکر آیا ہے ان سے مراد وہ دم (رقیہ) ہے جو عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں ہیں۔ یا کلام کفار سے ہیں یا جن کے معنی معلوم نہیں۔ کیونکہ اس میں شرک کا احتمال ہے جب کہ دوسری احادیث میں اس کا جواز مذکور ہے ان سے مراد وہ رقی ہیں جو الفاظ قرآن اور اسماء الہی سے ماخوذ ہیں۔ یہ مسنون ہیں۔ بعض علماء قرآنی آیات سے دم کرنے کے جواز پر علماء کا اجماع نقل کرتے ہیں۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۱۳۳۱۔ معوذتین پڑھ کر پھونکنا

باب ۱۳۳۱۔ مَا جَاءَ فِي الرَّقِيَّةِ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ

۱۸۸۹۔ حضرت ابو سعیدؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ”قل اعوذ برب الفلق“ اور ”قل اعوذ برب الناس“ نازل ہوئیں جب یہ نازل ہوئیں تو آپ ﷺ نے انہیں پڑھنا شروع کر دیا اور ان کے علاوہ سب کچھ ترک کر دیا۔

۱۸۸۹۔ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُونُسَ الْكُوفِيُّ نَا الْقَاسِمَ بْنِ مَالِكِ الْمَزْنِيِّ عَنِ الْجَرِيرِيِّ عَنِ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْحَيَاتِ وَعَيْنِ الْإِنْسَانِ حَتَّى نَزَلَتِ الْمُعَوِّذَتَانِ فَلَمَّا نَزَلَتَا أَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا

یہ حدیث حسن غریب ہے اور اس باب میں انسؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔

باب ۱۳۳۲۔ نظر لگ جانے پر دم کرنے کے متعلق۔

باب ۱۳۳۲۔ مَا جَاءَ فِي الرَّقِيَّةِ مِنَ الْعَيْنِ

۱۸۹۰۔ حضرت عبید بن رفاعہ زرقی فرماتے ہیں کہ اسماء بنت عمیس نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! جعفر کے بیٹوں کو جلدی نظر لگ جاتی ہے کیا میں ان پر دم کر دیا کروں؟ فرمایا: ہاں اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے سکتی ہے تو وہ نظر ہے۔

۱۸۹۰۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ نَا سَفِيَانَ عَنِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عُرْوَةَ وَهُوَ ابْنُ عَامِرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ الزُّرَقِيِّ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ وَلَدَ جَعْفَرٍ تُسْرِعُ إِلَيْهِمُ الْعَيْنُ أَفَأَسْتَرْفِي لَهُمْ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَدَرِ لَسَبَقْتَهُ الْعَيْنُ

اس باب میں عمران بن حصینؓ اور بریدہؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسے ایوب بھی عمرو بن دینار سے وہ عروہ سے وہ عبید بن رفاعہ سے وہ اسماء بنت عمیس سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتی ہیں۔ ہم سے اسے حسن بن علی خلیل نے عبدالرزاق کے حوالے سے انہوں نے معمر سے اور انہوں نے ایوب سے بیان کیا ہے۔

۱۸۹۱۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ حسنؓ اور حسینؓ

۱۸۹۱۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ

کے لیے ان الفاظ سے پناہ مانگا کرتے تھے اعید کما..... لامۃ تک یعنی میں تم دونوں کے لیے اللہ کے تمام کلمات کے وسیلے سے ہر شیطان، ہر فکر میں ڈالنے والی چیز اور ہر نظر بد سے پناہ مانگتا ہوں۔ پھر

ويعلى عن سفيان عن منصور عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبيرة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعَوِّذُ الْحَسَنَ

وَالْحُسَيْنَ يَقُولُ أُعِيدُ كَمَا بَكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَأَمَّةٍ وَيَقُولُ هَكَذَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يُعَوِّذُ إِسْحَقَ وَإِسْمَاعِيلَ

آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ ابراہیم بھی اسماعیل اور اسحاق پر اسی طرح دم کیا کرتے تھے۔

حسن بن علی خلال بھی یزید بن ہارون اور عبدالرزاق سے وہ سفیان سے اور وہ منصور سے اسی کے ہم معنی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۳۲۳۔ مَا جَاءَ أَنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ وَالْغَسْلَ لَهَا

۱۸۹۲۔ حدثنا ابو حفص عمرو بن علی نا يحيى بن كثير نا ابو غسان العنبري نا على بن المبارك عن يحيى بن ابى كثير قال ثنى حية بن حابس التميمي ثنى ابي انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا شىء فى الهام والعين حق

باب ۱۳۲۳۔ نظر لگ جانا حق ہے اور اس کے لیے غسل کرنا۔

۱۸۹۲۔ حضرت حابس التمی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہام کی جو حقیقت عرب میں مشہور ہے وہ صحیح نہیں۔ ہاں نظر لگ جانا صحیح ہے۔ (۱)

۱۸۹۳۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب ہو سکتی ہے تو وہ نظر بد ہے اور جب تمہیں لوگ غسل کرنے کا کہیں تو غسل کرو۔

۱۸۹۳۔ حدثنا احمد بن الحسن بن خرش البغدادي نا احمد بن اسحق الحضرمي نا وهيب عن ابن طاؤس عن ابيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان شىء سابق القدر لسبقته العين واذا استغسلتم فاغسلوا

اس باب میں عبداللہ بن عمرو سے بھی حدیث منقول ہے۔ مذکورہ بالا حدیث صحیح ہے اور اس سے پہلی حدیث غریب ہے اسے شعبان بخاری بن ابی کثیر سے وہ حید بن حابس سے وہ اپنے والد سے وہ ابو ہریرہ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ علی بن مبارک اور حرب بن شداد اس سند میں ابو ہریرہ کا ذکر نہیں کرتے۔

مسئلہ: نظر بد کا اثر حق ہے بہت سی روایات اس پر دلالت کرتی ہیں اس پر امت کا اجماع بھی ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۱۳۲۴۔ مَا جَاءَ فِي أَخْذِ الْأَجْرِ عَلَى التَّعْوِذِ

باب ۱۳۲۴۔ دم کر کے اجرت لینا۔

۱۸۹۴۔ حدثنا هنادنا ابو معاوية عن الاعمش عن جعفر بن اياس عن ابي نضرة عن ابي سعيد قال بعننا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سريته فنزلنا بقوم فسألناهم القرى فلم يقرؤنا فلدغ سيدهم فاتونا فقالوا هل فيكم من يرقى من العقراب قلت نعم انا ولكن لا ارفيه حتى تعطونا

۱۸۹۴۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں ایک لشکر میں بھیجا تو ہم ایک قوم کے پاس ٹھہرے اور ان سے ضیافت طلب کی لیکن انہوں نے ہماری میزبانی کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی اثناء میں ان کے سردار کو بچھونے ڈنک مار دیا۔ وہ لوگ ہمارے پاس آئے اور پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی بچھو کے کانے پر دم کرتا ہے؟ میں نے کہا ہاں لیکن میں اس صورت میں دم کروں گا کہ تم ہمیں بکریاں دو۔ انہوں

(۱) ہام۔ اس چیز کو کہتے ہیں جو کڑو غم میں ڈال دے جیسے کہ کوئی مرض یا مصیبت وغیرہ۔ (مترجم)

نے کہا ہم تمہیں تمیں بکریاں دیں گے۔ ہم نے قبول کر لیا اور پھر میں نے سات مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا اور ہم نے بکریاں لے لیں پھر ہمارے دل میں خیال آیا تو ہم نے فیصلہ کیا کہ جلدی نہ کریں یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ نہ پوچھ لیں جب آپ ﷺ کے پاس پہنچے تو میں نے پورا قصہ سنایا: آپ ﷺ نے فرمایا: تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ سے دم کیا جاتا ہے۔ بکریاں رکھ لو اور میرا بھی حصہ دو۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور ابو نضرہ کا نام منذر بن مالک بن قطعہ ہے۔ امام شافعی اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے قرآن کی تعلیم دینے پر اجرت لینے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک اسے مقرر کرنا بھی جائز ہے شعبہ، ابو عوانہ اور کئی راوی یہ حدیث ابو متوکل سے اور وہ ابو سعید سے نقل کرتے ہیں۔

۱۸۹۵۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ صحابہؓ کی ایک جماعت کا ایک بستی سے گزر ہوا۔ اس بستی والوں نے ان کی میزبانی نہیں کی اور انہیں مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔ اسی اثناء میں ان کا سردار بیمار ہو گیا تو وہ لوگ ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تمہارے پاس اس کا علاج ہے؟ ہم نے کہا: ہاں لیکن تم لوگوں نے ہمیں مہمان بنانے سے انکار کر دیا ہے اس لیے ہم اس وقت تک علاج نہیں کریں گے جب تک تم لوگ ہمارے لیے کوئی اجرت مقرر نہ کرو۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایک گاہ بکریاں اجرت میں دینا منظور کر لیا۔ پھر ہم میں سے ایک شخص نے اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونکی اور وہ ٹھیک ہو گیا پھر جب ہم آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ﷺ کے سامنے یہ قصہ بیان کیا۔ آپ ﷺ نے پوچھا: تمہیں کیسے علم ہوا کہ یہ سورہ رقیہ ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے بکریاں لینے سے منع نہیں فرمایا: بلکہ فرمایا: کھاؤ اور میرا بھی حصہ کرو۔ (۱)

یہ حدیث صحیح ہے۔ اور اعمش کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔ کئی راوی اسے ابو بشر جعفر بن ابودھیہ سے وہ ابو متوکل سے وہ ابو سعید سے نقل کرتے ہیں۔ جعفر بن ایاس، وہی جعفر بن ابی وہیہ ہیں۔

باب ۱۳۳۵۔ دم اور ادویات کے مطلق

۱۸۹۶۔ حضرت ابو خزیمہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے

عَنَّمَا قَالُوا قَاتِنَا نُعْطِيْكُمْ ثَلَاثِيْنَ شَاةً فَقَبِلْنَا فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ الْحَمْدَ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَبَرَأَ وَقَبَضْنَا الْغَنَمَ قَالَ فَعَرَضَ فِيْ اَنْفُسِنَا مِنْهَا شَيْءٌ فَقَلْنَا لَا تَعْجَلُوْا حَتَّى تَأْتُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَيْهِ ذَكَرْتُ لَهُ الَّذِي صَنَعْتُ قَالَ وَمَا عَلِمْتُ اَنْهَا رُقِيَةٌ اَقْبَضُوا الْغَنَمَ وَاضْرِبُوْا اِلَى مَعَكُمْ بِسْمِهِمْ

۱۸۹۵۔ حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث نا شعبة نا ابو بشر قال سَمِعْتُ اَبَا الْمُتَوَكِّلِ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ اَنْ نَاسًا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا بِحَيٍّ مِنَ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُؤُوْهُمُ وَلَا يُضَيِّفُوْهُمُ فَاشْتَكَى سَيِّدُهُمْ فَاتَوَّنَا فَقَالُوا هَلْ عِنْدَكُمْ دَوَاءٌ قُلْنَا نَعَمْ وَلَكِنْكُمْ لَمْ تَقْرُؤُوْنَا وَلَمْ تُضَيِّفُوْنَا فَلَا نَفْعَلُ حَتَّى تَجْعَلُوْنَا لَنَا جُعَلًا فَجَعَلُوا عَلَيَّ ذَلِكَ قَطِيْعًا مِنْ غَنَمٍ فَجَعَلَ رَجُلٌ مِّنَّا يَقْرَأُ عَلَيْهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ فَلَمَّا اَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ قَالَ وَمَا يُدْرِيْكَ اَنَّهَا رُقِيَةٌ وَلَمْ يَذْكُرْنَهَا مِنْهُ وَقَالَ كُلُّوْا وَاضْرِبُوْا اِلَى مَعَكُمْ بِسْمِهِمْ

باب ۱۳۳۵۔ مَا جَاءَ فِي الرُّقِيِّ وَالْاَدْوِيَةِ

۱۸۹۶۔ حدثنا ابن ابى عمير نا سفیان عن الزُّهْرِيِّ

(۱) اہل لغت کے نزدیک اس سے مراد دس سے لے کر چالیس تک کا عدد ہے جب کہ بعض پندرہ سے پچیس تک بھی کہتے ہیں۔ (مترجم)

رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ یہ رقیہ جس سے ہم دم وغیرہ کرتے ہیں اور یہ دوائیاں جنہیں ہم بطور علاج استعمال کرتے ہیں اور یہ پرہیز وغیرہ کیا تقدیر کو روک سکتی ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ خود اللہ کی تقدیر میں شامل ہیں۔ (یعنی فلاں بیماری فلاں کے دم سے اور فلاں فلاں دوائی وغیرہ سے دور ہوگی۔)

عَنْ أَبِي حَزَامَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رُقْيَى نَسْتَرْفِيهَا وَدَوَاءً نَتَدَاوَى بِهِ وَتَقَاءةً نَتَّقِيهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ شَيْئًا قَالَ هِيَ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سعید بن عبدالرحمن اسے سفیان سے وہ زہری سے وہ ابن ابی خزیمہ سے وہ اپنے والد سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ ابن عیینہ سے یہ دونوں احادیث منقول ہیں۔ چنانچہ بعض ابن ابی خزیمہ اور بعض ابی خزیمہ کہتے ہیں ابن عیینہ کے علاوہ دوسرے راوی اسے زہری سے وہ ابی خزیمہ سے اور وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں۔ یہ زیادہ صحیح ہے اور ابو خزیمہ کی اس حدیث کے علاوہ کسی اور حدیث کا بھی علم نہیں۔

باب ۱۳۳۶۔ عجوہ (کھجور کی ایک قسم) اور کماۃ کے متعلق۔

باب ۱۳۳۶۔ مَا جَاءَ فِي الْكُمَاءِ وَالْعَجْوَةِ

۱۸۹۷۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عجوہ جنت کے میوؤں میں سے ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے اور کماۃ من کی ایک قسم ہے (من و سلاوی وہ کھانے ہیں جو بنی اسرائیل پر اترتے تھے) اور اس کا عرق آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ (۱)

۱۸۹۷۔ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ وَمَحْمُودُ بْنُ غِيْلَانَ قَالَا ثنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَفِيهَا شِفَاءٌ مِنَ السَّمِّ وَالْكُمَاءُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاءٌ هَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ

اس باب میں سعید بن زید، ابو سعید اور جابرؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے ہم اسے محمد بن عمر کی روایت سے صرف سعید بن عامر کی سند سے جانتے ہیں۔

۱۸۹۸۔ حضرت سعید بن زید، آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: کماۃ من، میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھوں کو شفا دیتا ہے۔

۱۸۹۸۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيْبٍ نَاعِمٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الطَّنَافِسِيِّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمِيرٍ ح وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمِيرٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكُمَاءُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاءٌ هَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۸۹۹۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ صحابہؓ نے کہا کہ ”کماۃ“ زمین کے چمک ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا: کماۃ من میں سے ہے اور اس

۱۸۹۹۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَاعِمٌ عَنْ هِشَامِ ثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي

(۱) کماۃ: پودوں کی ایک قسم ہے جو خود بخود گتے ہیں۔ اس کو من کی ایک قسم قرار دینے سے یہی مراد ہے کہ جیسے بنی اسرائیل کو من عطا کیا گیا تھا۔ اسی طرح تم لوگوں کے لیے کماۃ ہے جو بغیر محنت و مشقت اور بغیر بیج بوائے حاصل ہوتا ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

کے عرق میں آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ اور عجوہ جنت کے میووں میں سے ہے اس میں زہر سے شفا ہے۔

۱۹۰۰۔ حضرت قتادہ، حضرت ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے تین، پانچ یا سات کماۃ لیے اور ان کا عرق نچوڑ کر ایک شیشی میں رکھ لیا پھر اسے ایک لڑکی کی آنکھوں میں ڈالا تو وہ صحیح ہو گئی۔

۱۹۰۱۔ قتادہ، حضرت ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: شو نیز موت کے علاوہ ہر مرض کی دوا ہے، قتادہ کہتے ہیں کہ روزانہ کلونجی کے اکیس دانے لے کر انہیں ایک کپڑے میں باندھ کر بھگودیتے اور پھر ایک دن اس کے دو قطرے دائیں طرف اور ایک قطرہ بائیں طرف ناک میں ڈالتے اور دوسرے دن دو بائیں طرف ایک دائیں طرف پھر تیسرے دن دوبارہ دو قطرے دائیں جانب اور ایک قطرہ بائیں نچھنے میں ڈالا کرتے تھے۔

باب ۱۳۳۷۔ کاہن (نبی امور کے علم کا دعویٰ دار) کی اجرت کے متعلق۔

۱۹۰۲۔ حضرت ابو مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے کتے کی قیمت لینے، زنا کی اجرت لینے اور کاہن کی مٹھائی (یعنی اس کی مزدوری دینے سے منع فرمایا۔

باب ۱۳۳۸۔ گلے میں تعویذ وغیرہ لگانا۔

۱۹۰۳۔ حضرت عیسیٰ بن عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ کہتے ہیں کہ میں عبد اللہ بن عکیم ابو معبد جہنی کے پاس ان کی عیادت کے لیے گیا تو ان کے جسم پر مرض کی سرخی تھی۔ میں نے عرض کیا آپ کوئی تعویذ کیوں نہیں گلے میں ڈال لیتے۔ انہوں نے فرمایا: موت اس سے زیادہ قریب ہے اور آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جس نے کوئی چیز لکائی وہ اس کو سوئپ دیا

هُرَيْرَةَ أَنَّ نَاسًا مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا الْكَمَاةُ جُدْرِي الْأَرْضِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَمَاةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاءُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ وَالْعَجْوَةُ مِنَ الْحَنَةِ وَهِيَ شِفَاءٌ مِنَ السَّمِّ

۱۹۰۰۔ حدثنا محمد بن بشار ثنا معاذ ثني أبي عن قتادة قال حدثت أبا هريرة قال أخذت ثلاثة أكموء أو خمسا أو سبعا فعصرتهن فجعلت ماء هن في قارورة فكحلت به جارية لي فبرأت

۱۹۰۱۔ حدثنا محمد بن بشار ثنا معاذ بن هشام ثني أبي عن قتادة قال حدثت أبا هريرة قال الشونيز دواء من كل داء إلا السام قال قتادة يأخذ كل يوم إحدى وعشرين حبة فيجعلهن في حرقفة فينقعها فيستعط به كل يوم في منخره الأيمن قطرتين وفي الأيسر قطرة والثاني في الأيسر قطرتين وفي الأيمن قطرة والثالث في الأيمن قطرتين وفي الأيسر قطرة

باب ۱۳۳۷۔ ماجاء في أجر الكاهن

۱۹۰۲۔ حدثنا قتيبة نا الليث عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي مسعود قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۳۳۸۔ ماجاء في كراهية التعليق

۱۹۰۳۔ حدثنا محمد بن مديونة نا عبيد الله عن ابن ابي ليلى عن عيسى وهو بن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال دخلت على عبد الله بن عكيم ابي معبد الجهنني اعوده وبه حمرة فقلت لا تعلق شيئا قال الموت اقرب من ذلك قال النبي صلى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وَكَلَّ إِلَيْهِ
جائے گا یعنی مدد نہیں رہے گی۔

ہم اس حدیث کو صرف ابن ابی لیلیٰ کی روایت سے جانتے ہیں۔ محمد بن بشر بھی حکیمی بن سعید سے اور وہ ابن ابی لیلیٰ سے اس کے ہم
معنی حدیث بیان کرتے ہیں۔ اس باب میں عقبہ بن عامر سے بھی حدیث منقول ہے۔

مسئلہ: شاہ ولی اللہ صاحب حجۃ اللہ البالغین لکھتے ہیں کہ جن احادیث میں تعویذ وغیرہ کی ممانعت آئی ہے وہ ان چیزوں پر محمول
ہے جن میں شرک ہو۔ لہذا اسماء الہی وغیرہ لکھ کر گلے میں لٹکانا جائز ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ اپنے بالغ لڑکوں کو ان کلمات کی تعلیم
دیا کرتے تھے "اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبه وعقابه وشر عبادہ و من همزات الشیاطین وان یحضرن" اور
تا بالغ لڑکوں کے لیے لکھ کر ان کے گلے میں لٹکا دیا کرتے تھے۔ (ابوداؤد) واللہ اعلم۔ (مترجم)

باب ۱۳۳۹۔ مَا جَاءَ فِي تَبْرِيدِ الْحُمَى بِالْمَاءِ

باب ۱۳۳۹۔ پانی سے بخار کو ہلکا کرنا

۱۹۰۴۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ

۱۹۰۴۔ حضرت رافع بن خدیجؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: بخار جوشِ جنم سے ہے اسے پانی سے ٹھنڈا کیا کرو۔

مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ

خَدِيجٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْحُمَى

قَوْرٌ هَا مِنَ النَّارِ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ

اس باب میں اسماء بنت ابی بکرؓ، ابن عمرؓ، ابن عباسؓ، عائشہؓ اور حضرت زبیرؓ کی بیوی سے بھی احادیث منقول ہیں۔

۱۹۰۵۔ حَدَّثَنَا هَارُونَ بْنُ اسْحَقَ الْهَمْدَانِيُّ نَاعِبَةً

۱۹۰۵۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بخار جنم

کے جوش سے ہے اسے پانی سے ٹھنڈا کرو۔

بِنِ سَلِيمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْحُمَى

مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ

ہارون بن اسحاق، عبدہ سے وہ ہشام بن عروہ سے وہ فاطمہ بنت منذر سے وہ اسماء بنت ابی بکرؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کی

طرح نقل کرتے ہیں اسماء کی حدیث اس سے زیادہ طویل ہے اور وہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔

۱۹۰۶۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ

۱۹۰۶۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ صحابہؓ کو بخار

اور تمام درروں پر یہ دعا بتایا کرتے تھے۔ "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اس مرض کا

دم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اور ہر پھڑکتی رگ اور آگ کی

گرمی سے اسی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو عظیم ہے۔

ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ اسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ

حُصَيْنٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِنَ الْحُمَى وَمِنْ

الْأَوْجَاعِ كُلِّهَا أَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ الْكَبِيرِ أَعُوذُ بِاللَّهِ

الْعَظِيمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عَرَقٍ نَعَارٍ وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ

یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرف ابراہیم بن اسماعیل بن ابی حبیہ کی روایت سے جانتے ہیں اور وہ صحیفہ کبگے جاتے ہیں۔ اس

حدیث میں "عرق یعار" کے الفاظ ہیں یعنی آواز کرنے والی رگ۔

باب ۱۳۴۰۔ مَا جَاءَ فِي الْعَيْلَةِ

۱۹۰۷۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ نَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ بِنْتِ وَهْبٍ وَهِيَ جَدَامَةٌ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَرَدْتُ أَنْ أَنْهِيَ عَنِ الْعِيَالِ فَإِذَا فَارِسُ وَالرُّومُ يَفْعَلُونَ وَلَا يَقْتُلُونَ أَوْلَادَهُمْ

باب ۱۳۳۰۔ بچے کو دودھ پلانے کی حالت میں بیوی سے جماع کرنا۔
۱۹۰۷۔ حضرت جدامہ بنت وہب فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ تم لوگوں کو بچے کو دودھ پلانے والی بیوی سے صحبت کرنے سے منع کروں لیکن میں نے دیکھا کہ فارس اور روم والے ایسے کرتے ہیں اور ان کی اولاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔

اس باب میں اسماء بنت یزید سے بھی حدیث منقول ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور مالک اسے ابواسود سے وہ عروہ سے وہ عائشہ سے وہ جدامہ بنت وہب سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کی مثل نقل کرتی ہیں۔ امام مالک کہتے ہیں کہ غیلہ اسے کہتے ہیں کہ آدمی اپنی بیوی سے دودھ پلانے کے زمانے میں صحبت کرے۔

باب ۱۳۴۱۔ مَا جَاءَ فِي دَوَاءِ ذَاتِ الْحَنْبِ

۱۹۰۸۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا مَعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْعَتُ الزَّيْتِ وَالْوَرْسَ مِنْ ذَاتِ الْحَنْبِ قَالَ قَتَادَةُ وَيُلْدُ مِنَ الْحَائِبِ الَّذِي يَشْتَكِيهِ

باب ۱۳۳۱۔ ذات الحجب کے علاج کے متعلق
۱۹۰۸۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ذات الحجب کے مرض میں تیل اور ورس کا علاج تجویز کیا کرتے تھے قتادہ کہتے ہیں کہ یہ دو امنہ کے اسی جانب سے اثر ملی جائے گی جس طرف شکایت ہو۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور ابو عبد اللہ کا نام میمون ہے یہ بصری بزرگ ہیں۔

۱۹۰۹۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں ذات الحجب کا علاج زیتون اور قسط بحری سے کرنے کا حکم دیا۔

۱۹۰۹۔ حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَدَوِيُّ الْبَصْرِيُّ نَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي رَزِينٍ نَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدِ الْحِذَاءِ نَا مَيْمُونُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ قَالَ أَمَرْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَدَاوِيَ مِنْ ذَاتِ الْحَنْبِ بِالْقُسْطِ الْبَحْرِيِّ وَالزَّيْتِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے ہم اسے صرف میمون کی زید بن ارقم سے روایت سے پہچانتے ہیں۔ پھر میمون سے کئی علماء یہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ ذات الحجب سے مراد سل کا مرض ہے۔

۱۹۱۰۔ حضرت عثمان بن ابی عاص فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ میرے ہاں تشریف لائے مجھے اس وقت اتنا شدید درد تھا کہ قریب تھا کہ میں اس سے ہلاک ہو جاؤں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اپنے سیدھے ہاتھ سے درد کی جگہ کو چھوؤ اور سات مرتبہ پڑھو "اعوذ سے اجد" تک میں اللہ اس

۱۹۱۰۔ باب حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْإِنصَارِيُّ نَا مَعْنُ نَا مَالِكُ عَنْ يَزِيدِ بْنِ خَصِيفَةَ عَنْ عَمْرُو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ السَّلْمِيِّ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جَبْرِ بْنِ مَطْعَمِ أَخْبَرَهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ

کی عزت و قدرت اور حکومت کے ساتھ ہر اس چیز کے شر سے جسے میں چاہتا ہوں۔ پناہ مانگتا ہوں۔ عثمان کہتے ہیں کہ میں نے یہ عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطاء فرمادی اب میں ہمیشہ اپنے گھر والوں اور دوسرے لوگوں کو یہ دعا بتاتا ہوں۔

آتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِي وَجَعٌ قَدْ كَادَ يَهْلِكُنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْسَحْ بِبَيْمِينِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَقُلْ أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ وَسُلْطَانِهِ مِنْ شَرِّمَا آجَدُ قَالَ فَفَعَلْتُ فَأَذْهَبَ اللَّهُ مَا كَانَ بِي فَلَمْ أَزَلْ أَمُرُّهُ أَهْلِي وَغَيْرَهُمْ
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۳۴۲۔ سنا سے متعلق۔

باب ۱۳۴۲۔ مَا جَاءَ فِي السِّنَا

۱۹۱۱۔ حضرت اسماء بنت عمیسؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ان سے سوال کیا کہ تم کس چیز کا مسہل لیتے ہو تو عرض کیا کہ شبرم کا۔ فرمایا: یہ تو بہت گرم اور ظالم ہے۔ کبھی میں پھر میں نے سنا کا مسہل لیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: اگر موت سے کسی چیز میں شفا ہوتی تو اس میں ہوتی۔ (۱)

۱۹۱۱۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ ثَنَا عَبْدِالْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرِ ثَنِي عْتَبَةَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهَا بِمَا تَسْتَمَشِينَ قَالَتْ بِالشُّبْرُمِ قَالَ حَارٌّ حَارٌّ قَالَتْ ثُمَّ اسْتَمَشَيْتُ بِالسِّنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ شَيْفًا كَانَ فِيهِ شِفَاءٌ مِّنَ الْمَوْتِ لَكَانَ فِي السِّنَا
یہ حدیث غریب ہے۔

باب ۱۳۴۳۔ شہد کے متعلق۔

باب ۱۳۴۳۔ مَا جَاءَ فِي الْعَسَلِ

۱۹۱۲۔ حضرت ابوسعیدؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے بھائی کو دست لگے ہوئے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا: اسے شہد پلاؤ۔ وہ دوبارہ آیا اور عرض کیا کہ میں نے اسے شہد پلایا تو دست اور زیادہ ہو گئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اسے شہد پلاؤ اس نے پھر شہد دیا اور دوبارہ آپ ﷺ کے پاس آ کر عرض کیا کہ اس سے دست مزید بڑھ گئے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ سچے ہیں اور تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ اسے پھر شہد پلاؤ۔ اس مرتبہ اس نے پلایا تو وہ صحت یاب ہو گیا۔

۱۹۱۲۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ ثَنَا شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ وَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَحْيَى اسْتَطَلَّقَ بَطْنَهُ فَقَالَ اسْقِهِ عَسَلًا فَسَقَاهُ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ سَقَيْتُهُ عَسَلًا فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتَطَلَّقَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْقِهِ عَسَلًا قَالَ فَسَقَاهُ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتَطَلَّقَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ اللَّهُ وَكَذَّبَ بَطْنُ أَخِيكَ اسْقِهِ عَسَلًا فَسَقَاهُ فَبَرَأَ
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(۱) شبرم: ایک چھوٹا درخت ہے جو قد آدم یا اس سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے۔ (مترجم)

۱۹۱۳۔ حضرت ابن عباسؓ، رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: کوئی مسلمان بندہ ایسا نہیں کہ وہ کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے اور سات بار یہ دعا پڑھے ”اسئلک“ سے ”یشفیک“ تک تو اللہ تعالیٰ اسے صحتیاب نہ کریں۔ بشرطیکہ مریض کی موت کا وقت نہ آچکا ہو۔ (ترجمہ، میں اللہ بزرگ و برتر سے جو عرش عظیم کا مالک ہے تیرے لیے شفا طلب کرتا ہوں)۔

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف منہال بن عمر کی روایت سے جانتے ہیں۔

باب۔ ۱۳۳۳

۱۹۱۳۔ حضرت ثوبانؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بخاراگ کا ایک گلڑا ہے۔ اگر تم میں سے کسی کو بخارا ہو جائے تو وہ اسے پانی سے بھائے اور بہتی نہر میں اتر کر جس طرف سے پانی آ رہا ہو اس طرف منہ کر کے یہ دعا پڑھے۔ ”بسم اللہ“ سے ”رسولک“ تک یعنی اللہ کے نام سے ابتداء کرتا ہوں۔ اے اللہ اپنے بندے کو شفا دے اور اپنے رسول کو سچا کر۔ اور فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے نہر میں اترے پھر اسے چاہیے کہ نہر میں تین غوطے لگائے اور تین دن تک یہ عمل کرے۔ اگر تین دن میں صحتیاب نہ ہو تو پانچ دن اور اگر اس میں بھی نہ ہو تو سات دن اور پھر اگر سات دنوں میں شفا نہ ہو تو نو دن تک یہ عمل کرے انشاء اللہ اس کا یہ مرض اس سے تجاوژ نہیں کرے گا۔

باب۔ ۱۳۳۵۔ راکھ سے علاج۔

۱۹۱۵۔ حضرت ابو حازم کہتے ہیں کہ ہبل بن سعدؓ سے پوچھا گیا کہ آنحضرت ﷺ کے زخم کا کس طرح علاج کیا گیا۔ ہبل نے فرمایا: اس کا مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی باقی نہیں رہا۔ حضرت علیؓ اپنی سپر میں پانی لاتے اور فاطمہؓ زخم کو دھوتیں۔ میں یوریا جلاتا اور پھر اس کی راکھ آپ ﷺ کے زخم مبارک پر چمڑک دیتے۔

۱۹۱۶۔ حضرت ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

۱۹۱۳۔ حدثنا محمد بن المنثري ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن يزيد بن خالد قال سمعت المنهال بن عمرو يحدث عن سعيد بن جبيرة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من عبد مسلم يعوذ مريضا لم يحضر اجله فيقول سبع مرات اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك الا عوفي

باب:۔ ۱۳۴۴

۱۹۱۴۔ حدثنا احمد بن سعيد الاشقر المرابطي ثنا روح عبادتنا مرزوق ابو عبد الله الشامي ثنا سعيد رجل من اهل الشام ثنا ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اصاب احدكم الحمى فان الحمى قطعة من النار فليطفها عنه بالماء فليستقع في نهر جار فليستقبل جريته فيقول بسم الله اللهم اشف عبدك وصدق رسولك بعد صلوة الصبح وقبل طلوع الشمس وليغمس فيه ثلاث غمسات ثلاثة ايام فان لم يبرأ في ثلاث فخمس فان لم يبرأ في خمس فسبع فان لم يبرأ في سبع فتسع فانها لا تكاد تهاوژ تسعا باذن الله

یہ حدیث غریب ہے۔

باب۔ ۱۳۴۵۔ التداوی بالرمد

۱۹۱۵۔ حدثنا ابن ابی عمر ثنا سفيان عن أبي حازم قال سئل سهل بن سعد وأنا اسمع بأي شيء تؤدى جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بقي احد اعلم به مني كان علي ياتي بالماء في ترسه وفاضمة تغسل عنه واحرق له حصير فحشي به جرحه

امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۹۱۶۔ حدثنا عبد الله بن سعيد الاشج ثنا عقبه بن

خالد السکونی عن موسی بن محمد بن ابراہیم التیمی
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نَ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيضِ فَنَقِسُوا لَهُ
فِي أَحْلَاهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَيُطَيِّبُ نَفْسَهُ
یہ حدیث غریب ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَبْوَابُ الْفَرَائِضِ عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مال وراثت کی تقسیم سے متعلق آنحضرت ﷺ سے
منقول احادیث کے ابواب

اس باب کے بحث میں داخل ہونے سے پہلے اس میں استعمال ہونے والی اصلاحات اور ورثاء کے حصے سے واقفیت ضروری ہے۔
جس کے پیش نظر ذیل میں مختصر ان اصطلاحات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جو اس باب میں استعمال ہوتی ہیں پھر ایک جدول بنایا گیا ہے جسے
دیکھ کر باآسانی ہر وارث کا حصہ نکالا جاسکے۔ وباللہ التوفیق۔

میراث کی اصطلاحات

۱۔ ذوی الفروض: ان ورثاء کو کہتے ہیں جن کا حصہ قرآن و سنت یا اجماع سے متعین ہے۔ ان کی تعداد بارہ ہے۔
چار مردوں میں سے ہیں۔ ۱۔ باپ۔ ۲۔ دادا۔ ۳۔ اخیانی بھائی۔ ۴۔ شوہر
جبکہ عورتوں میں سے آٹھ ذوی الفروض ہیں۔ ۱۔ بیٹی۔ ۲۔ پوتی۔ ۳۔ عینی بہن۔ ۴۔ علاقائی بہن۔ ۵۔ اخیانی بہن۔ ۶۔ بیوی۔
۷۔ ماں۔ ۸۔ جدہ صحیحہ۔

۲۔ عصبات: ذوی الفروض کے علاوہ باقی رشتہ داروں میں سے جو خود بھی مذکر ہوں اور میت کی طرف بھی بواسطہ مذکر منسوب ہوں
ان کا حصہ معین نہیں۔ ذوی الفروض کو دینے کے بعد بقیہ مال عصبہ کو دیا جائے گا۔ عصبات کو جدول میں ترتیب کے ساتھ لکھا گیا ہے۔
۳۔ ذوی الارحام: ذوی الفروض اور عصبات کے علاوہ باقی رشتہ داروں کو ذوی الارحام کہتے ہیں۔
۴۔ عینی بھائی بہن۔ سکے بہن بھائی۔

۵۔ علاقائی بھائی بہن۔ دونوں کا باپ ایک اور مائیں الگ الگ ہوں۔

۶۔ اخیانی بھائی بہن۔ جن کی ماں ایک اور باپ الگ الگ ہوں۔

۷۔ جد صحیح۔ اس سے مراد دادا ہے۔ بشرطیکہ میت کی طرف سے اس کی نسبت میں مؤنث کا واسطہ نہ ہو مثلاً باپ کا باپ باپ کے
باپ کا باپ۔

۸۔ جد فاسد۔ میت کی طرف اس کی نسبت میں مؤنث کا واسطہ ہو مثلاً ماں کا باپ (نانا) اور باپ کی ماں کا باپ۔

۹۔ جدہ صحیحہ: میت کی طرف اس کی نسبت میں جد فاسد کا واسطہ نہ ہو جیسے کہ باپ کی ماں (دادی) ماں کی ماں، دادی کی ماں اور داد

کی ماں وغیرہ۔ نیز ماں کی طرف سے صرف ایک ہی جدہ صحیحہ ہو سکتی ہے جب کہ باپ کی طرف سے زیادہ بھی ممکن ہیں۔

۱۰۔ جدہ فاسدہ۔ میت کی طرف اس کی نسبت میں جد فاسد کا واسطہ ہو مثلاً ماں کے باپ کی ماں، ماں کے باپ کی ماں اور ماں کی ماں کے باپ کی ماں وغیرہ۔

۱۱۔ ترکہ: وہ تمام جائداد، نقد مال اور سامان وغیرہ جو میت اپنے مرنے کے وقت چھوڑے۔

۱۲۔ عول: ذوی الفروض کے حصص کا مجموعہ مخرج سے بڑھ جائے۔

۶۔ مجموعہ ۷ ہو گیا جو مخرج یعنی ۶ سے بڑھ گیا۔

مثلاً	۱/۲ شوہر	۳
	۱/۲ بہن	۳
	۱/۶ ماں	۱

۱۳۔ رد: ذوی الفروض کے حصص کا مجموعہ مخرج سے کم ہو جائے۔

۱۴۔ مناسخہ: ترکے کی تقسیم سے قبل کسی وارث کی موت کی وجہ سے اس کا حصہ اس کے ورثہ کو منتقل کرنا۔

۱۵۔ اولاد: بیٹا، بیٹی، بیٹے کی اولاد، بیٹے کے بیٹے کی اولاد وغیرہ۔

جدول سمجھنے کا طریقہ: جدول کے پہلے خانے میں میت سے رشتہ مع نمبر شمار دیا گیا ہے۔ جب کہ دوسرے خانے میں جو نمبر دیئے گئے ہیں ان سے مراد وہ رشتہ دار ہیں جو پہلے خانے میں مذکور رشتہ دار کی وجہ سے میراث سے محروم کر دیئے جائیں گے۔ مثلاً ۳ نمبر سے مراد بیٹا، ۶ نمبر سے مراد پوتا اور ۹ نمبر سے مراد باپ ہے اور پھر تیسرے خانے میں اس رشتے دار کا میراث سے حصہ دیا گیا ہے۔

میراث میں وارث کا حصہ	محروم	میت سے رشتہ اور ورثہ کی تعداد
۱/۴ اگر اولاد نہ ہو ورنہ ۱/۳	--	۱ شوہر۔ ایک
۱/۸ اگر اولاد نہ ہو ورنہ ۱/۸	--	۲ بیوی۔ ایک یا زیادہ
عصبہ	۳۰۵۱۴۰۸۵۶	۳ بیٹا
۲/۳ بشرطیکہ ۳ نہ ہو	۲۳،۲۲،۸،۷	۴ بیٹیاں دو یا زیادہ
۱/۲ بشرطیکہ ۳ نہ ہو	۲۳،۲۲	۵ بیٹی۔ ایک
عصبہ	۳۰۵۱۴	۶ پوتا۔ ایک یا زیادہ
۲/۳ بشرطیکہ بیٹی نہ ہو اور اگر بیٹی ہو تو ۱/۶	۲۳،۲۲	۷ پوتیاں دو یا زیادہ
۱/۲ بشرطیکہ بیٹی نہ ہو اور اگر بیٹی ہو تو ۱/۶	۲۳،۲۲	۸ پوتی ایک

۹	باپ	۳۰ تا ۱۴، ۱۲، ۱۱	عصبہ ۶+ / ابشر طیکہ ۳ یا ۳ نہ ہو اور اگر ۳ یا ۶ ہو تو ۱/۶
۱۰	ماں	۱۳، ۱۲	اگر اولاد یادو بھائی بہن ۶/۱۔ اگر ماں، باپ، شوہر یا بیوی ہوں تو باقی ۱/۳ اور اگر ایسی کوئی صورت نہ ہو تو کل مال کا ۱/۳
۱۱	دادا	۳۰ تا ۱۳	عصبہ ۶+ / ابشر طیکہ ۳ یا ۳ نہ ہو اور اگر ۳ یا ۶ ہو تو صرف ۱/۶
۱۲	دادی ایک یا زیادہ	--	۶/۱ سب میں برابر تقسیم ہوگا
۱۳	نانی ایک یا زیادہ	--	۶/۱ سب میں برابر تقسیم ہوگا
۱۴	یعنی بھائی دو یا زیادہ	۳۰ تا ۲۳، ۲۱ تا ۱۸	عصبہ
۱۵	یعنی بھائی ایک	۳۰ تا ۲۳، ۲۱ تا ۱۸	عصبہ
۱۶	یعنی بہن دو یا زیادہ	۲۱ تا ۲۰	۵، ۴ یا ۸ کے ساتھ عصبہ ہوگی، اگر ۵ اور ۸ نہ ہو تو ۲/۳
۱۷	یعنی بہن ایک	۲۱ تا ۲۰	۵، ۴ یا ۸ کے ساتھ عصبہ ہوگی، اگر ۵ اور ۸ نہ ہو تو ۱/۲
۱۸	علاقائی بھائی دو یا زیادہ	۳۰ تا ۲۳	عصبہ
۱۹	علاقائی بھائی ایک	۳۰ تا ۲۳	عصبہ
۲۰	علاقائی بہن دو یا زیادہ	۳۰ تا ۲۳	عصبہ ۵، ۴ یا ۸ کے ساتھ عصبہ اگر ۵، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲ اور اگر ۱۷ ہو تو ۱/۶
۲۱	علاقائی بہن ایک	۳۰ تا ۲۳	۵، ۴ یا ۸ کے ساتھ عصبہ اگر ۵، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲ اور اگر ۱۷ ہو تو ۱/۶
۲۲	اخیانی بھائی بہن دو یا زیادہ	۳۰ تا ۲۳	۳/۱ سب بہن بھائیوں میں برابر تقسیم ہوگا
۲۳	اخیانی بھائی بہن ایک	۳۰ تا ۲۳	۱/۶
۲۴	یعنی بھائی کا بیٹا ایک یا زیادہ	۳۰ تا ۲۵	عصبہ
۲۵	علاقائی بھائی کا بیٹا ایک یا زیادہ	۳۰ تا ۲۶	عصبہ
۲۶	یعنی چچا ایک یا زیادہ	۳۰ تا ۲۷	عصبہ
۲۷	علاقائی چچا ایک یا زیادہ	۳۰ تا ۲۸	عصبہ
۲۸	یعنی چچا کا بیٹا ایک یا زیادہ	۳۰ تا ۲۹	عصبہ
۲۹	علاقائی چچا کا بیٹا ایک یا زیادہ	۳۰	عصبہ
۳۰	زوی الارحام	۳۰	اس کی تفصیل آگے آئے گی۔

ذوی الارحام :- جب ذوی الفروض یا عصباء میں سے بیوی یا شوہر کے علاوہ کوئی بھی وارث نہ ہو تو بیوی یا شوہر کو ان کا حصہ دینے کے بعد جو کچھ بچے گا وہ ذوی الارحام کو دیا جائے گا۔ ان کی چار قسمیں ہیں۔

(۱) جزء میت یعنی بیٹا یا پوتی کی اولاد اور اسی طرح ان سے نیچے۔

(۲) اصل میت جیسے اجداد اور جدات فاسدہ اور اسی طرح ان سے اوپر۔

(۳) باپ کا جزء جیسے یعنی علاقائی بھائیوں کی بیٹیاں، اخیانی بھائیوں اور سب بہنوں کی اولاد۔

(۴) دادا کا جزء جیسے یعنی علاقائی چچاؤں کی بیٹیاں، اخیانی چچا، پھوپھیوں، ماموں، خالائیں اور ان کی اولاد۔

ان کا حکم یہ ہے کہ ان میں سے جو منفرد ہو گا وہ پورے مال کا مستحق ہوگا۔ اور اگر چند لوگ ہوں گے تو دیکھا جائے گا کہ ان کی قرابت متحد ہے یا نہیں۔ اگر متحد ہے (یعنی ایک ہی صنف سے ہوں تو زیادہ قریبی زیادہ حق دار ہوگا۔ اور اسی پر اجماع ہے) یعنی سگا (سو تیلے سے اولی اور سو تیلہ اخیانی سے ادلی ہوگا۔ خواہ مرد ہو یا عورت) اور اگر اس میں بھی برابر ہوں تو پھر ملد کر مثل حظ الاثمنین، یعنی مرد کے دو حصے اور عورت کا ایک حصہ لیکن اگر قرابت مختلف ہے تو باپ کے قرابت داروں کے لیے دو تہائیاں اور ماں کے قرابت داروں کے لیے ایک تہائی ہوگی۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۱۳۳۶۔ مال وراثت کے حقدار وارث ہیں۔

باب ۱۳۴۶۔ مَا جَاءَ فِي مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلَوْ رَتَبَهُ

۱۹۱۷۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے مال چھوڑا وہ اس کے وارثوں کا ہے اور جس نے عیال بال بچے (بے سہارا) چھوڑے ان کی نگہداشت و پرورش میرے ذمے ہے۔

۱۹۱۷۔ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْأَمْوِيِّ ثَنَا أَبِي ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ ضَيَاعًا فَلِيَّ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ زہری اسے ابو سلمہؓ سے وہ ابو ہریرہؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں اور یہ طویل ہے۔ اس باب میں جابرؓ اور انسؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ اور ضیاعاً سے مراد وہ عیال ہے جن کی پرورش کے لیے میت نے کوئی مال وغیرہ نہ چھوڑا ہو۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میں ان کی پرورش کا انتظام کروں گا۔

باب ۱۳۳۷۔ فرائض کی تعلیم کے متعلق

باب ۱۳۴۷۔ مَا جَاءَ فِي تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ

۱۹۱۸۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: فرائض اور قرآن خود بھی سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ۔ میں (عنقریب) وفات پانے والا ہوں۔

۱۹۱۸۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْأَسَدِيُّ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دِلْهَمِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَالْقُرْآنَ وَعَلَّمُوا النَّاسَ فَإِنِّي مَقْبُوضٌ

اس حدیث میں اضطراب ہے۔ اسامہ سے عوف سے وہ سلمان بن جابر سے وہ ابن مسعود سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں ہم سے یہ حدیث حسین نے ابو اسامہ کے حوالے سے اسی کے ہم معنی بیان کی ہے۔

باب ۱۳۳۸۔ لڑکیوں کی میراث۔

باب ۱۳۴۸۔ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْبَنَاتِ

۱۹۱۹۔ حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ سعد بن ربیع کی بیوی سعد کی دو بیٹیوں کو لے کر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یہ دونوں سعد بن ربیع کی بیٹیاں ہیں۔ ان کے والد غزوہ احد کے موقع پر آپ ﷺ کے ساتھ تھے اور شہید ہو گئے۔ ان کے چچا نے ان کا سارا مال لے لیا اور ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ جب تک ان کے پاس مال نہ ہو ان کا نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس مسئلے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے۔ چنانچہ میراث کی آیت نازل ہوئی اور آپ ﷺ نے ان لڑکیوں کے چچا کو حکم بھیجا کہ سعد کی بیٹیوں کو دو ٹکٹ اور ان کی بیوی کو مال کا آٹھواں حصہ ادا کر کے باقی خود لے لیں۔

۱۹۱۹۔ حدثنا عبد بن حمید نا زکریا بن عدی نا عیبد اللہ بن عمرو عن عبد اللہ بن محمد بن عقیل عن جابر بن عبد اللہ قال جاءت امرأة سعد بن الربیع بابتنتیها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربیع قتل أبوهما معك يوم أُحُدٍ شهيدًا وإن عَمَهُمَا أَخَذَ مَا لَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا وَلَا تَنكَّحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ قَالَ يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَزَلَّتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمِّهِمَا فَقَالَ أَعْطِ بِنْتِي سَعْدَ الْثَلَاثِينَ وَأَعْطِ امْتَهُمَا الثَّمَنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ

یہ حدیث حسن صحیح ہے، ہم اسے صرف عبد اللہ بن محمد بن عقیل کی روایت سے جانتے ہیں۔ شریک بھی اسے عبد اللہ بن محمد بن عقیل سے نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۳۳۹۔ بیٹی کے ساتھ پوتیوں کی میراث۔

۱۹۲۰۔ حضرت ہزیر بن شرجیل کہتے ہیں کہ ایک شخص ابو موسیٰ اور سلیمان بن ربیعہ کے پاس آیا اور ان سے بیٹی، پوتی اور سگی بہن کی میراث پوچھی۔ انہوں نے فرمایا: بیٹی کے لیے نصف مال اور بہن کے لیے جو باقی بچ جائے گا۔ پھر ان دونوں نے اسے کہا کہ عبد اللہ کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو وہ بھی یہی جواب دیں گے۔ وہ شخص حضرت عبد اللہ کے پاس آیا اور وہی پوچھا اور ان کے قول کے متعلق بھی بتایا۔ انہوں نے فرمایا: اگر میں یہی فیصلہ دوں تو میں گمراہ ہو گیا۔ اور ہدایت پانے والا نہ ہوا۔ لیکن میں اس میں وہ فیصلہ کروں گا جو رسول اللہ ﷺ نے کیا تھا کہ بیٹی کے لیے نصف مال اور پوتی کے لیے چھٹا حصہ تاکہ یہ دونوں مل کر ٹکٹ ہو جائیں۔ جب کہ بہن کے لیے جو بچ جائے۔

باب ۱۳۴۹۔ ما جاء في ميراث بنت الأبن مع بنت الصلب
۱۹۲۰۔ حدثنا الحسن بن عرفة نا يزيد بن هارون عن سفیان الثوري عن ابی قیس الأودی عن هزیر بن شرجیل قال جاء رجل إلى ابی موسیٰ وسليمان بن ربیعة فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لاب وأم فقال لابنة النصف وللأخت من الأب والأم ما بقى وقال له انطلق إلى عبد الله فاسأله فإنه سينا بعنا فأتى عبد الله فذكر له ذلك وأخبره بما قال قال عبد الله قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ولكني أقضي فيها كما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنة النصف ولابنة الأبن السدس تكملة الثلثين وللأخت ما بقى

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو قیس اودی کا نام عبد الرحمن بن ثروان ہے اور وہ کوئی ہیں۔ شعبہ بھی یہ حدیث ابو قیس سے نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۳۵۰۔ ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم

اس موقع پر سورہ نساء کی آیت نمبر ۱۱ نازل ہوئی۔ (مترجم)

۱۹۲۱۔ حضرت علیؑ نے فرمایا کہ تم لوگ یہ آیت پڑھتے ہو "من بعد وصیة تو صون بہا وادین" جب کہ آنحضرت ﷺ نے قرض وصیت سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا۔ اور حکم دیا کہ سگے بھائی وارث ہوتے ہیں نہ کہ اخیانی (جن کے والد ایک اور ماں الگ الگ ہو) یعنی کوئی شخص اپنے بھائی کا اس صورت میں وارث نہ ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں ایک ماں اور ایک باپ سے ہوں نہ کہ دونوں کا صرف باپ ایک ہو اور ماں جدا جدا۔

بندار، یزید بن ہارون سے وہ زکریا بن ابی زائدہ سے وہ ابواسحاق سے وہ حارث سے وہ علیؑ سے مورودہ آنحضرت ﷺ سے اسی کی طرح نقل کرتے ہیں۔ ابن ابی عمر، سفیان سے وہ ابواسحاق سے وہ حارث سے اور وہ حضرت علیؑ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اور اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ اس حدیث کو ہم صرف ابواسحاق کی سند سے جانتے ہیں بعض علماء حارث پر اعتراض کرتے ہیں لیکن علماء اسی حدیث پر عمل کرتے ہیں۔

توضیح: حضرت علیؑ کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ شاید تم لوگوں کو شبہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے وصیت کو پہلے ذکر کیا ہے۔ اور قرض کو بعد میں جب کہ آپ ﷺ نے قرض کو وصیت پر مقدم کیا ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۱۳۵۱۔ بیٹوں اور بیٹیوں کی میراث

باب ۱۳۵۱۔ میراث النبیین مع البنات

۱۹۲۲۔ حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ میری عیادت کے لیے تشریف لائے نبی سلمہ کے محلے میں مر بیض تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں اپنی اولاد میں مال کو کس طرح تقسیم کروں۔ آپ ﷺ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اور یہ آیت نازل ہوئی۔ "یوصیکم اللہ"..... (آیت ترجمہ: اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے متعلق وصیت کرتا ہے کہ ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ سورہ نساء آیت ۱۱)

۱۹۲۲۔ حدثنا عبد بن حمید نا عبد الرحمن بن سعد نا عمرو بن ابی قیس عن محمد بن المنکبیر عن جابر بن عبد اللہ قال جاء نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذني وأنا مريض في نبي سلمة فقلت يانبي الله كيف أقسم على بين ولدي فلم يرده علي شيئا فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآية

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابن عیینہ سے محمد بن منکدر سے اور وہ جابر سے نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۳۵۲

باب ۱۳۵۲۔ میراث الاخوان

۱۹۲۳۔ محمد بن منکدر کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبد اللہ سے سنا کہ میں بیمار ہوا تو آنحضرت ﷺ میری عیادت کے لیے تشریف لائے اور مجھے بیہوش پایا۔ آپ ﷺ کے ساتھ ابو بکرؓ تھے اور دونوں پیدل چل کر آئے تھے پھر آپ ﷺ نے وضو کیا اور وضو کا پانی مجھ پر ڈال دیا۔ مجھے افاقہ ہوا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں اپنا مال کس طرح تقسیم کروں؟ یا عرض کیا کہ میں اپنے مال کا کیا کروں؟ آپ ﷺ خاموش رہے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ جابر کی نو

۱۹۲۳۔ حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي ثنا سفیان بن عیینة عن محمد بن المنکبیر سمع جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال مرضت فأتانی رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذني فوجدني قد أغمي علي فأتاني ومعه أبو بكر ومهما ماشيان فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي من وضوءه ففاقنت فقلت يا رسول الله كيف أفضي في

مَالِي أَوْ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي فَلَمْ يُجِبْنِي شَيْئًا وَكَانَ لَهُ تِسْعَ آخَوَاتٍ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ الْآيَةَ قَالَ جَابِرٌ فِي نَزَلَتْ
 بہنیں تھیں۔ یہاں تک کے میراث کی یہ آیت نازل ہوئی۔ ”یستفتونک.....“ آیت۔ جابر فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی۔ (۱)

یہ حدیث صحیح ہے۔

آیت کا ترجمہ: یہ آپ ﷺ سے حکم پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کا حکم بتاتے ہیں۔ (۲) اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کا کوئی بیٹا نہ ہو اور بہن ہو تو اسے مال کا آدھا حصہ دیا جائے گا۔ اور اگر (وہ بہن فوت ہو جائے اور) اس بہن کا کوئی بیٹا نہ ہو تو وہ بھائی اس کا وارث ہوگا پھر اگر وہ دو بہنیں ہوں تو انہیں دو تہائی مال دیا جائے گا۔ اور اگر کئی شخص ہوں کچھ مرد اور کچھ عورتیں (یعنی بھائی بہنیں) تو مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تم گمراہ نہ رہو۔

باب ۱۳۵۳۔ عصبہ کی میراث کے متعلق۔

باب ۱۳۵۲۔ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْعُصْبَةِ

۱۹۲۴۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اہل فرائض کو ان کا حق اور کد اور جو باقی بیچ جائے وہ اس مرد کے لیے ہے جو میت سے سب سے زیادہ قریب ہو۔

۱۹۲۴۔ حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن نا مسلم نا ابراهيم ثنا وهيب ثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر

عبد بن حمید، عبد الرزاق سے وہ عمر سے وہ ابن طاووس سے وہ اپنے والد سے وہ ابن عباس سے اور وہ نبی اکرم ﷺ سے اسی کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض راوی اسے ابن طاووس سے وہ اپنے والد سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے مرسل نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۳۵۴۔ دادا کی میراث۔

باب ۱۳۵۴۔ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْحَدِّ

۱۹۲۵۔ حضرت عمران بن حصین فرماتے ہیں کہ ایک شخص آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرا پوتا فوت ہو گیا ہے میرا اس کی میراث میں سے کیا حصہ ہے؟ آپ ﷺ نے اسے بلایا اور فرمایا: تمہارے لیے چھٹا حصہ ہوگا۔ پھر جب وہ جانے لگا تو آپ ﷺ نے اسے بلایا اور فرمایا: تمہارے لیے اور بھی چھٹا حصہ ہے۔ اور جب وہ مڑا تو دوبارہ بلایا اور فرمایا: یہ چھٹا حصہ عصبہ کی طرف سے ہے۔ مفروضہ نہیں۔

۱۹۲۵۔ حدثنا الحسن بن عرفة ثنا يزيد بن هارون عن همام بن يحيى عن قتادة عن الحسن بن عمر بن حصين قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابن ابني مات فمالي من ميراثه فقال لك السدس فلما ولي دعاه فقال لك سدس اخر فلما ولي دعاه فقال ان السدس الآخر لك طعمة

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں معقل بن یسار سے بھی روایت ہے۔

(۱) سورہ نساء آیت ۱۷۶۔ (مترجم)

(۲) کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کا نہ بیٹا ہو اور نہ باپ (مترجم)

باب ۱۳۵۵۔ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْحَدَّةِ

باب ۱۳۵۵۔ دادی، ثانی کی میراث۔

۱۹۲۶۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ثَنَا سَفِيَانُ ثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ مَرَّةً قَالَ قَبِيصَةَ وَقَالَ مَرَّةً عَنْ رَجُلٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ قَالَ جَاءَتْ الْحَدَّةُ أُمُّ الْأُمِّ أَوْ أُمُّ الْأَبِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَتْ إِنَّ ابْنَ ابْنِي أَوْ ابْنَ ابْنَتِي مَاتَ وَقَدْ أُخْبِرْتُ إِنَّ لِي فِي الْكِتَابِ حَقًّا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا أَجِدُكَ فِي الْكِتَابِ مِنْ حَقٍّ وَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى لَكَ بِشَيْءٍ وَسَأَلْتُ النَّاسَ قَالَ فَسَأَلَ النَّاسَ فَشَهِدَ الْمُغْيِرَةُ ابْنُ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا السُّدُسَ قَالَ وَمَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ ثُمَّ جَاءَتْ الْحَدَّةُ الْأُخْرَى الَّتِي تَحَالَفُهَا إِلَى عُمَرَ قَالَ سَفِيَانُ وَزَادَنِي فِيهِ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَلَمْ أَحْفَظْهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَلَكِنْ حَفِظْتَهُ مِنْ مَعْمَرٍ أَنَّ عُمَرَ قَالَ إِنْ اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ لَكُمَا وَإِتَّكَمَا انْفَرَدَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا

۱۹۲۶۔ حضرت قبیسہ بن ذویب کہتے ہیں کہ دادی یا ثانی ابو بکرؓ کے پاس آئی کہنے لگیں کہ میرا پوتا یا نواسہ فوت ہو گیا ہے اور مجھے بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید میں میرا کچھ حق مذکور ہے۔ ابو بکرؓ نے فرمایا: کتاب اللہ میں تمہارے لیے کوئی حق نہیں اور نہ ہی میں نے رسول اللہ ﷺ کو تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ دیتے ہوئے سنا ہے۔ لیکن میں لوگوں سے پوچھوں گا چنانچہ جب انہوں نے لوگوں سے پوچھا تو مغیرہ نے گواہی دی کہ آنحضرت ﷺ نے اسے چھٹا حصہ دیا ہے۔ ابو بکرؓ نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کسی نے یہ حدیث سنی ہے فرمایا: مجھ بن مسلمہ نے۔ راوی کہتے ہیں: پھر حضرت ابو بکرؓ نے اس عورت کو چھٹا حصہ دیا۔ اس کے بعد دوسری جدہ (دادی یا ثانی) حضرت عمرؓ کے پاس آئی (یعنی اس ددی یا ثانی کی شریک) سفیان کہتے ہیں کہ عمرؓ نے زہری کے حوالے سے یہ الفاظ زیادہ نقل کیے ہیں۔ میں نے انہیں زہری سے حفظ نہیں کیا بلکہ عمرؓ سے کیا ہے۔ کہ عمرؓ نے فرمایا: اگر تم دونوں اکٹھی ہو جاؤ تو چھٹا حصہ ہی تم دونوں میں تقسیم ہوگا اور اگر تم دونوں میں سے ایک ہو تو وہ حصہ اسے مل جائے گا۔

انصاری بھی معن سے وہ مالک سے وہ ابن شہاب سے وہ عثمان بن اسحاق بن خرشہ سے اور وہ قبیسہ بن ذویب سے نقل کرتے ہیں۔ کہ ایک جدہ حضرت ابو بکرؓ کے پاس آئی اور اپنی میراث طلب کی۔ انہوں نے فرمایا: تمہارے لیے قرآن کریم یا سنت نبویؐ میں کوئی حکم مذکور نہیں لیکن میں لوگوں سے پوچھوں گا۔ چنانچہ جب پوچھا تو مغیرہ بن شعبہؓ نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو جدہ کو چھٹا حصہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابو بکرؓ نے پوچھا: تمہارے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ اس پر محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے اور وہی کچھ بیان کیا جو مغیرہؓ نے کیا تھا۔ چنانچہ ابو بکرؓ نے پوچھا: تمہارے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ اس پر محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے اور وہی کچھ بیان کیا جو مغیرہؓ نے کیا تھا۔ چنانچہ ابو بکرؓ نے اس عورت کو چھٹا حصہ دے دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر ایک عورت حضرت عمرؓ کے پاس یہی مسئلہ لے کر حاضر ہوئی اور اپنی میراث طلب کی تو حضرت عمرؓ نے فرمایا: تمہارے لیے چھٹے حصے کے علاوہ کتاب میں مذکور نہیں۔ پھر اگر تم دونوں (دادی یا ثانی) جمع ہو جاؤ تو چھٹا حصہ ہے۔ اور اگر تم دونوں میں سے کوئی ایک اکیلی ہو تو وہ حصہ اس کو مل جائے گا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور ابن عیینہ کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔ اس باب میں بریدہؓ بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۳۵۵۔ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْحَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا

باب ۱۳۵۵۔ باپ کی موجودگی میں دادی کی میراث۔

۱۹۲۷۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُرْفَةَ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ

۱۹۲۷۔ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے دادی کے بیٹے کی موجودگی میں دادی کی میراث کے متعلق فرمایا: یہ پہلی جدہ (دادی) تھی جسے رسول اللہ

عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ فِي الْحَدِيثِ مَعَ ابْنَيْهَا أَنَّهَا أَوْلُ حَدِيثِ أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُدُسًا مَعَ ابْنَيْهَا وَأَبْنَيْهَا حَتَّى

نے اس کے بیٹے کے ہوتے ہوئے چٹا حصہ دیا جب کہ اس کا بیٹا زندہ تھا۔

اس حدیث کو ہم صرف اسی سند سے مرفوع جانتے ہیں۔ بعض صحابہ باپ کی موجودگی میں اسے (دادی کو) وارث کرتے ہیں اور بعض نہیں۔

باب ۱۳۵۶۔ ماموں کی میراث۔

باب ۱۳۵۶۔ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْخَالِ

۱۹۲۸۔ حضرت ابوامامہ بن اہل بن حنیف فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے میرے ہاتھ ابو عبیدہ کو لکھوا کر بھیجا کہ اللہ اور اس کا رسول (ﷺ) اس کے دوست ہیں جس کا کوئی دوست نہیں اور اگر کسی کا کوئی وارث نہ ہو تو ماموں اس کا وارث ہے۔

۱۹۲۸۔ حَدَّثَنَا بَنْدَارٌ نَا أَبُو أَحْمَدَ الزَّبِيرِيُّ ثَنَا سَفِيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ كَتَبَ مَعِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَمْ يَمُوتْ لَهُ وَالْخَالُ وَارِثٌ مَنْ لَمْ يَمُوتْ لَهُ

اس باب میں عائشہ اور مقدم بن محمد کرب سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۹۲۹۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس کا کوئی وارث نہ ہو اس کا ماموں اس کا وارث ہے۔

۱۹۲۹۔ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ نَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جَرِيحٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مَسْلَمٍ عَنْ طَاوُسِ بْنِ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَالُ وَارِثٌ مَنْ لَمْ يَمُوتْ لَهُ

یہ حدیث حسن غریب ہے اسے بعض راوی مرسل نقل کرتے ہیں اور اس میں حضرت عائشہ کا ذکر نہیں کرتے۔ اس مسئلے میں صحابہ کا اختلاف ہے۔ بعض صحابہ خال، ماموں اور چھوٹے کو میراث دیتے ہیں جب کہ علماء ذوی الارحام کی وراثت میں اسی حدیث پر عمل پیرا ہیں لیکن زید بن ثابت اس مسئلے میں میراث کو بیت المال میں جمع کرانے کا حکم دیتے تھے۔

باب ۱۳۵۷۔ جو شخص اس حالت میں فوت ہو کہ اس کا کوئی وارث نہ ہو۔

۱۹۳۰۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ کا ایک آزاد کردہ غلام کھجور کے درخت سے گر کر مر گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: دیکھو اس کا کوئی وارث ہے؟ صحابہ نے عرض کیا۔ کوئی نہیں فرمایا: تو پھر اس کا مال اس کی ہستی والوں کو دے دو۔

باب ۱۳۵۷۔ مَا جَاءَ فِي الَّذِي يَمُوتُ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ

۱۹۳۰۔ حَدَّثَنَا بَنْدَارٌ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ نَا سَفِيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ مَجَاهِدِ بْنِ وَرْدَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَعَ مِنْ عِدْقِ نَخْلَةٍ فَمَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظَرُوا أَهْلَ لَهْ مِنْ وَارِثٍ قَالُوا لَا قَالَ فَاذْفَعُوهُ إِلَى بَعْضِ أَهْلِ الْقُرْبَى

یہ حدیث حسن ہے اور اس باب میں بریدہ سے بھی حدیث منقول ہے۔

باب۔ ۱۳۵۸ باب فی میراث المولی الأسفل

باب۔ ۱۳۵۸

۱۹۳۱۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ عہد نبوی ﷺ میں ایک شخص فوت ہو گیا اس کا کوئی وارث نہیں تھا۔ ہاں ایک غلام تھا جسے اس نے آزاد کر دیا تھا آپ ﷺ نے اس کا ترکہ اسی آزاد کردہ غلام کو دے دیا۔

۱۹۳۱۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ثَنَا سَفِيَانُ عَنْ عُمَرَ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَوْسَجَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلَيَّ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلَّا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ

یہ حدیث حسن ہے اہل علم کے نزدیک اگر کسی شخص کا عصبہ میں سے بھی کوئی وارث نہ ہو تو اس کی میراث مسلمانوں کے بیت المال جمع کرادی جائے گی۔

توضیح: اس حدیث میں آپ ﷺ کا اسی غلام کو مال وراثت دینا بھی اسی قبیل سے تھا کیوں کہ اس کا وارث نہیں تھا۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۱۳۵۹۔ مَا جَاءَ فِي إِبْطَالِ الْمِيرَاثِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ

باب ۱۳۵۹۔ مسلمان اور کافر کے درمیان کوئی میراث نہیں۔

۱۹۳۲۔ حضرت اسامہ بن زیدؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا۔

۱۹۳۲۔ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُخْزُومِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا نَا سَفِيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرَةَ هَشِيمٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

ابن ابی عمر، سفیان سے اور وہ زہری سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ اس باب میں جاہل اور عبد اللہ بن عمرو سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے عمرو وغیرہ بھی زہری سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ مالک بھی زہری سے وہ علی بن حسین سے وہ عمرو بن عثمان سے وہ اسامہ بن زید سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ لیکن اس میں مالک کو وہ ہم ہوا ہے بعض راوی عمرو بن عثمان اور بعض عمر بن عثمان کہتے ہیں۔ جب کہ عمرو بن عثمان بن عفان ہی مشہور ہے۔ عمر بن عثمان کو ہم نہیں جانتے۔ اہل علم اسی حدیث پر عمل کرے ہیں۔ بعض علماء عمرہ کی میراث میں اختلاف کرتے ہیں بعض کے نزدیک اس کے مسلمان وارثوں کو دے دیا جائے جب کہ بعض کہتے ہیں کہ اس کے مال کا کوئی مسلمان وارث نہیں ہو سکتا۔ ان کی دلیل یہی حدیث ہے۔ امام شافعی کا بھی یہی قول ہے۔

۱۹۳۳۔ حضرت جاہل آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ دو دین والے آپس میں وارث نہیں ہو سکتے۔

۱۹۳۳۔ حَدَّثَنَا حَمْدُ بْنُ مَسْعُودَةَ نَا حُسَيْنُ بْنُ نَمِيرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي أُمَيَّةٍ عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ

یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرف جاہل کی روایت سے جانتے ہیں۔ ان سے اسے ابن ابی سلیمان نے نقل کیا ہے۔

باب ۱۳۶۰۔ مَا جَاءَ فِي إِبْطَالِ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ

۱۹۳۴۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ

باب ۱۳۶۰۔ قاتل کو میراث سے محروم کرنے کے متعلق۔

۱۹۳۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قاتل وارث نہیں ہوتا۔

یہ حدیث صحیح ہے۔ ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ اسحاق بن عبد اللہ بن ابی فروہ سے بعض اہل علم احادیث نقل کرتے ہیں۔ جن میں احمد بن حنبل بھی شامل ہیں۔ علماء اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ قتل عمد اور قتل خطا میں قاتل مقتول کا وارث نہیں ہوتا لیکن بعض کے نزدیک قتل خطا میں وارث ہوتا ہے۔ مالک کا یہی قول ہے۔

باب ۱۳۶۱۔ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

۱۹۳۵۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَاحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا نَا سَفِيَانُ بْنُ عَيِّنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ عُمَرُ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَلَا يَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا فَأَخْبِرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سَفِيَانَ الْكَلَابِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ وَرِثَ امْرَأَةٌ أَشِيمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

باب ۱۳۶۱۔ شوہر کی دیت سے بیوی کو حصہ دینا۔

۱۹۳۵۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا: دیت عاقلہ پر واجب الاداء ہوتی ہے اور بیوی شوہر کی دیت کی وارث نہیں ہوتی۔ اس پر ضحاک بن سفیان کلابی نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے انہیں لکھا کہ اشیم ضبابی کی بیوی کو ان کے شوہر کی دیت میں سے ان کا حصہ دو۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۳۶۲۔ مَا جَاءَ أَنَّ الْمِيرَاثَ لِلْوَرَثَةِ وَالْعَقْلَ عَلَى الْعَصْبَةِ

۱۹۳۶۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي حَيِّينَ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيْتًا بَغْرَةَ عَبْدِ أَوْامَةَ ثُمَّ أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بَغْرَةَ تُوَفِّقَتْ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا وَأَنَّ عَقْلَهَا عَلَى عَصَبَتِهَا

باب ۱۳۶۲۔ میراث وراثت کی اور دیت عصبہ پر واجب الاداء ہے۔

۱۹۳۶۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے بنی لحيان کی ایک عورت کے جنین (بچے) کے مرکر ساقط ہو جانے (ضائع ہو جانے) پر ایک غرہ بطور دیت ادا کرنے کا حکم دیا یعنی ایک باندی یا ایک غلام۔ پھر وہ عورت جس کو غرہ ادا کرنے کا حکم دیا تھا وہ بھی فوت ہو گئی۔ آپ ﷺ نے فیصلہ دیا کہ اس کی میراث اس کے بیٹوں اور شوہر کے لیے ہے اور دیت اس کے عصبہ پر۔

یونس نے یہ حدیث زہری سے انہوں نے سعید بن مسیب سے اور ابوسلمہ سے انہوں نے ابو ہریرہؓ سے اور انہوں نے رسول ﷺ سے اسی طرح کی حدیث نقل کی ہے۔ پھر مالک زہری سے وہ سعید بن مسیب سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے یہی حدیث بیان کرتے ہیں۔

باب ۱۳۶۳۔ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُسَلِّمُ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ
 ۱۹۳۷۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ نَا أَبُو اسَامَةَ وَ ابْنُ نَمِيرٍ
 وَ وَكَيْعٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ
 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
 وَهَبٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ الدَّارِيِّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ
 الشِّرْكِ يُسَلِّمُ عَلَيَّ يَدِ الرَّجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ أَوْلَى النَّاسِ
 بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ

باب ۱۳۶۲۔ اس شخص کے متعلق جو کسی کے ہاتھ پر مسلمان ہو۔
 ۱۹۳۷۔ حضرت تمیم داریؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا
 کہ وہ مشرک جو کسی مسلمان کے ہاتھ پر مسلمان ہوگا اس کا کیا حکم
 ہے: فرمایا: وہ اس کی زندگی اور موت کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔

اس حدیث کو ہم صرف عبد اللہ بن وہب سے نقل کرتے ہیں۔ بعض انہیں ابن موبہب کہتے ہیں۔ وہ تمیم داری سے نقل کرتے ہیں۔
 جب کہ بعض ان کے درمیان قبیصہ بن ذویب کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ یحییٰ بن حمزہ اسے عبد العزیز بن عمر سے نقل کرتے ہوئے قبیصہ بن
 ذویب کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ لیکن میرے نزدیک یہ سند متصل نہیں۔ بعض اہل علم اس حدیث پر عمل کرتے ہیں جب کہ بعض کا کہنا ہے
 کہ اس کی میراث بیت المال میں جمع کرا دی جائے۔ امام شافعیؒ کا بھی یہی قول ہے ان کا استدلال اس حدیث سے ہے کہ ”ان الولاء
 لمن اعتق“ ولاء اسی کے لیے ہے جس نے آزاد کیا۔ (۱)

۱۹۳۸۔ حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ نَا ابْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ
 شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بَحْرَةَ أَوْ أَمَةَ فَالْوَلَدُ
 وَلَدُ الزَّانَا لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ
 ۱۹۳۸۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے
 نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کسی شخص نے کسی آزاد
 عورت یا باندی سے زنا کیا۔ تو بچہ زنا کا ہوگا۔ نہ وہ وارث ہوگا اور نہ اس
 کا کوئی وارث ہوگا۔

یہ حدیث ابن لہیعہ کے سوا اور راوی بھی عمرو بن شعیب سے نقل کرتے ہیں علماء اسی پر عمل کرتے ہیں کہ ولد الزنا اپنے باپ کا وارث
 نہیں ہوتا۔

توضیح: لیکن وہ اپنی ماں کا وارث ہوتا ہے اور ماں بھی اس کی وارث ہوتی ہے۔ واللہ اعلم۔ (مترجم)

باب ۱۳۶۴۔ مَنْ يَرِثُ الْوَلَاءِ

۱۹۳۹۔ حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ نَا ابْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ
 شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَرِثُ الْوَلَاءُ مَنْ يَرِثُ الْمَالِ
 ۱۹۳۹۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے
 نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ولاء کا وہی وارث ہوتا ہے
 جو مال کا وارث ہوتا ہے۔

اس حدیث کی سند قوی نہیں۔

(۱) ولاء سے مراد وہ حقوق ہیں جو آزاد کرنے والے کو ملتے ہیں مثلاً اس کا وارث ہونا۔ وغیرہ وغیرہ (مترجم)

۱۹۴۰۔ حضرت واثلہ بن اسقع کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ عورت تین ترکوں کی مالک ہوتی ہے۔ اپنے آزاد کئے ہوئے غلام کے ترکے کی جس بچے کو اس نے اٹھا کر پالا ہو۔ اس کی اور اس بچے کی جسے لے کر اس نے اپنے شوہر سے لعان کیا اور اس سے الگ ہو گئی۔

۱۹۴۰۔ حدثنا هارون ابو موسی المستملی البغدادی نا محمد بن حرب نا عمرو بن روبة التغلبی عن عبدالواحد ابن عبداللہ بن بسر النَّصْرِي عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْأَةُ تَحْوُزُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ غَيْبِهَا وَفَقِيظِهَا وَوَلَدِهَا الَّذِي لَا عَنَتُ عَنْهُ

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے محمد بن حرب کی روایت سے اسی سند سے جانتے ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وصیتوں کے متعلق رسول اللہ ﷺ سے

أَبْوَابُ الْوَصَايَا عَنْ

منقول احادیث کے ابواب

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب ۱۳۶۵۔ ثلث ۱۱۳ مال کی وصیت

باب ۱۳۶۵۔ مَا جَاءَ فِي الْوَصِيَّةِ بِالثَّلَاثِ

۱۹۴۱۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں فتح مکہ کے سال بیمار ہو گیا اور ایسا بیمار ہوا کہ موت قریب نظر آنے لگی۔ آنحضرت ﷺ میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میرے پاس بہت دولت ہے اور صرف ایک ہی بیٹی ہے۔ میں اپنے پورے مال کی وصیت کر جاؤں؟ (یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی) آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں۔ میں نے عرض کیا۔ آدھے مال کی؟ فرمایا: نہیں میں نے عرض کیا: تہائی مال؟ فرمایا: تہائی مال کی وصیت مناسب ہے۔ اور یہ بھی زیادہ ہے۔ تم اپنے ورثاء کو اغنیاء چھوڑ کر جاؤ۔ یہ اس سے بہتر ہے۔ کہ وہ تنگ دست ہوں اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ تم اگر ان میں سے کسی پر خرچ کرو گے تو تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ تمہارا اپنی بیوی کو ایک لقمہ کھلانا بھی ثواب کا موجب ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا میں اپنی ہجرت سے پیچھے ہٹ گیا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: میرے بعد تم رضائے الہی کے لیے جو بھی نیک عمل کرو گے تمہارا مرتبہ بڑھے گا اور درجات بلند کئے جائیں گے۔ شاید تم میرے بعد زندہ رہو اور تم سے کچھ تو میں نفع حاصل کریں اور کچھ تو میں نقصان اٹھائیں۔ پھر آپ

۱۹۴۱۔ حدثنا ابن ابی عمر نا سفيان عن الزهري عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرَضْتُ عَامَ الْفَتْحِ مَرَضًا أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَيَّ الْمَوْتَ فَاتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ بِيْرْتِي إِلَّا ابْنَتِي فَأَوْصِي بِمَالِي كُنْهَ قَالَ لَا قُلْتُ فَتَلَّتْنِي مَالِي قَالَ لَا قُلْتُ فَالْشَطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ فَالْثُلُثُ قَالَ الْثُلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ إِنْ تَذَرْتَهُمْ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ إِنَّكَ لَنْ تَنْفِقَ نَفَقَةً إِلَّا أُجِرْتَ فِيهَا حَتَّى اللَّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَيَّ فِي امْرَأَتِكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُخْلَفَ عَنْ هَجْرَتِي قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُخْلَفَ بَعْدِي فَتَعْمَلْ عَمَلًا تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أزدَدْتَ بِهِ رُفْعَةً وَدَرَجَةً وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخْلَفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيَضْرِبَكَ آخِرُونَ اللَّهُمَّ امْضُ لِأَصْحَابِي هَجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَيَّ أَعْقَابَهُمْ لَكِنَّ الْبَائِسَ سَعْدِ بْنِ حَوْلةَ بِيْرْتِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ

دعا کرنے لگے کہ اے اللہ میرے سچائی کی ہجرت کو رواں کر دے۔
انہیں ان کے پیروں پر واپس نہ لوٹا۔ لیکن بیچارے سعد بن خولہ رسول اللہ ﷺ
ان کے مکہ ہی میں فوت ہو جانے پر افسوس کیا کرتے تھے۔

اس باب میں ابن عباسؓ بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور کئی سندوں سے سعد بن ابی وقاص سے منقول ہے۔ اہل علم اسی پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کرنا جائز نہیں اور بعض علماء کہتے ہیں کہ تہائی سے کم کی وصیت کرنا مستحب ہے اس لیے آپ ﷺ نے تہائی کو بھی بہت فرمایا۔

۱۹۴۲۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ کسی لوگ (ایسے بھی ہیں جو) ساٹھ سال تک اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی گزارتے ہیں پھر جب موت کا وقت آتا ہے تو وصیت میں وارثوں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ جس کی وجہ سے ان پر جہنم واجب ہو جاتی ہے پھر حضرت ابو ہریرہؓ نے یہ آیت پڑھی ”من بعد وصية يوصي بها او دين غير مضار وصية من الله“ سے ”وذلك الفوز العظيم“ تک۔ (۱)

۱۹۴۲۔ حدثنا نصر بن علي نا عبد الصمد بن عبد الوارث نا نصر بن علي ثنا الاشعث بن جابر عن شهر بن حوشب عن ابي هريرة انه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهم الموت فيضاران في الوصية فيحب لهما النار ثم قرأ على ابو هريرة من بعد وصية يوصي بها او دين غير مضار وصية من الله الى قوله ذلك الفوز العظيم

ترجمہ :- وصیت کے بعد جو ہو چکی ہے یا قرض کے جب اوروں کا نقصان نہ کیا ہو۔ یہ حکم ہے اللہ کا اور اللہ ہی سب کچھ جاننے والے اور تحمل کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود ہیں۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ہمیشہ وہیں رہیں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔
یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ نصر بن علی جواشعث بن جابر سے نقل کرتے ہیں۔ نصر ہضمی کے دادا ہیں۔

باب ۱۳۶۶۔ وصیت کی ترغیب۔

باب ۱۳۶۶۔ مَا جَاءَ فِي الْحَثِّ عَلَى الْوَصِيَّةِ

۱۹۴۳۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کسی مسلمان کو زریب نہیں دیتا کہ اسے کسی چیز میں وصیت کرنی ہو اور وہ دو راتیں اسی طرح گزار دے کہ وصیت نہ کرے بلکہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہونی چاہئے۔

۱۹۴۳۔ حدثنا ابن ابي عمر نا سفيان عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرأ مسلمة بيت ليلتين وله ما يوصي فيه الا ووصيته مكتوبة عنده

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسے زہری، سالم سے وہ ابن عمر سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۳۶۷۔ آنحضرت ﷺ نے وصیت نہیں کی۔

باب ۱۳۶۷۔ مَا جَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَمْ يُوصِرْ

۱۹۴۴۔ طلحہ بن مصرف کہتے ہیں کہ میں نے ابن ابی اوفیٰ سے پوچھا کہ

۱۹۴۴۔ حدثنا احمد بن منيع نا ابو قطن نا مالك

(۱) سورة نساء آیت ۱۳، ۱۴ (مترجم)

کیا رسول اللہ ﷺ نے وصیت کی تھی۔ فرمایا: نہیں۔ میں نے پوچھا پھر وصیت کیسے لکھی گئی اور آپ ﷺ نے لوگوں کو کیا حکم دیا؟ فرمایا: آنحضرت ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی فرمانبرداری کی وصیت کی تھی۔

بِنِ مِعْوَلٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي أَبِي أَوْفَى أَوْضَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا أَقُلْتُ وَكَيْفَ كُتِبَتْ الْوَصِيَّةُ وَكَيْفَ أَمَرَ النَّاسَ قَالَ أَوْضَى بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۳۶۸۔ وارث کے لئے کوئی وصیت نہیں۔

باب ۱۳۶۸۔ مَا جَاءَ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

۱۹۴۵۔ حضرت ابو امامہ باہلیؓ کہتے ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ ﷺ کا خطبہ سنا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر وارث کا حصہ مقرر کر دیا ہے۔ لہذا اب کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں۔ لڑکا صاحب فراش کی طرف منسوب ہوگا اور زانی کو پتھر مارے جائیں گے۔ ان کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے اور جس نے خود کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کیا یا کسی نے خود کو اپنے موالی کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کیا ان پر قیامت تک خدا کی لعنت ہے۔ کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے خرچ نہ کرے۔ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ ﷺ: کھانا بھی نہیں۔ فرمایا: کھانا ہمارے سب مالوں سے افضل ہے (یعنی اس کی حفاظت اور بھی ضروری ہے) پھر فرمایا: مانگی ہوئی چیز اور مخہ (دودھ پینے کے لیے دیا جانے والا جانور واپس کیا جائے، اور قرض ادا کیا جائے۔ نیز ضامن اس چیز کا ذمہ دار ہے جس کی اس نے ضمانت دی ہے۔

۱۹۴۵۔ حَدَّثَنَا هِنَادٌ وَعَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ قَالَا نَا سَمِعْنَا مِنْ عِيَاشِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ خَارِجَةَ وَأُورِثِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ الْوَلَدُ لِلْفَرَسِ وَاللِّعَاطِرُ الْحَجَرُ وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوْلَاهُ فَعَلَيْهِ لُعْنَةُ اللَّهِ التَّابِعَةَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ مِنْ بَيْتٍ زَوْجَهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الطَّعَامَ قَالَ ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا وَقَالَ الْعَارِيَةُ مُوَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مُرْدُوذَةٌ وَالذَّيْنُ مَقْضِيٌّ وَالزَّرْعِيُّمُ عَارِمٌ

اس باب میں عمرو بن خارجہ اور انس بن مالک سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو امامہ سے اور سندوں سے بھی نقل کی گئی ہے اسماعیل بن عیاش کی اہل عراق اور اہل حجاز سے وہ روایات قوی نہیں۔ جو نقل کرنے میں منقرد ہیں۔ کیونکہ انہوں نے مناکیر روایتیں نقل کی ہیں۔ جب کہ ان کی اہل شام سے نقل کردہ احادیث زیادہ صحیح ہیں۔ محمد بن اسماعیل بخاری بھی یہی کہتے ہیں۔ احمد بن حسن، احمد بن حنبل سے نقل کرتے ہیں کہ اسماعیل بن عیاش، بقیہ سے زیادہ صحیح ہیں کیونکہ ان کی بہت سی احادیث جو ثقات سے نقل کرتے ہیں۔ منکر ہیں۔ عبد اللہ بن عبد الرحمن، زکریا بن عدی سے اور وہ ابواسحاق فزاری سے نقل کرتے ہیں کہ بقیہ کی وہ حدیثیں نقل کرو جو وہ ثقات سے نقل کرتے ہیں۔ اور جو احادیث وہ اسماعیل بن عیاش سے نقل کریں انہیں چھوڑ دو خواہ وہ ثقات کی ہوں یا نہ ہوں۔

۱۹۴۶۔ حضرت عمرو بن خارجہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک مرتبہ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر خطاب کیا میں اس کی گردن کے نیچے کھڑا تھا وہ جگالی کر رہی تھی اور اس کا تھوک میرے شانوں کے درمیان گر رہا

۱۹۴۶۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا ابُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ خَارِجَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ عَلَيَّ

نَاقِبَتِهَا وَأَنَا تَحْتَ جِرَانِهَا وَهِيَ تَقْصَعُ بِحَرْنِهَا وَإِنْ
لُعَابَهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيْ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ
عَزَّوَجَلَّ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِثٍ
وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۳۶۹۔ مَا جَاءَ بِيَدًا بِالَّذِينَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ

۱۹۴۷۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ نَاسِيفِيَانُ بْنُ عِيْنَةَ عَنْ
أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيَّ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالَّذِينَ قَبْلَ
الْوَصِيَّةِ وَأَنْتُمْ تَقْرَأُونَ الْوَصِيَّةَ قَبْلَ الَّذِينَ

باب ۱۳۶۹۔ قرض وصیت پر مقدم ہوگا۔

۱۹۴۷۔ حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ رسول اللہﷺ نے قرض وصیت سے
پہلے ادا کرنے کا حکم دیا جبکہ تم لوگ قرآن میں وصیت کو پہلے اور قرض کو
بعد میں پڑھتے ہو۔ (یعنی اس حکم میں تقدیم و تاخیر ہے جیسا کہ پیچھے
گزر چکا ہے۔)

تمام اہل علم اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرض کی ادائیگی وصیت پر مقدم ہوگی۔

باب ۱۳۷۰۔ جَوْشَخْصٍ مَوْتِ كَيْ وَتِ صَدَقَةٍ كَرَى يَ غَلَامِ آزَادِ
كِرَى۔

باب ۱۳۷۰۔ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ أَوْ يُعْتَقُ
عِنْدَ الْمَوْتِ

۱۹۴۸۔ حضرت ابو حنیفہؒ کہتے ہیں۔ کہ مجھے میرے بھائی نے اپنے
مال کے ایک حصے کی وصیت کی۔ میری ابو درداءؓ سے ملاقات ہوئی تو
میں نے ان سے پوچھا کہ اسے کس مصرف پر خرچ کیا جائے؟ فقراء اور
مساکین کو دے دیا جائے یا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں پر خرچ کیا
جائے۔ انہوں نے فرمایا: اگر تمہاری جگہ میں ہوتا تو میں اسے مجاہدین پر
خرچ کرتا۔ پھر یہ حدیث بیان کی کہ آنحضرتﷺ نے فرمایا: جو شخص
مرنے وقت غلام آزاد کرتا ہے اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اس
وقت ہدیہ دیتا ہے جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے۔

۱۹۴۸۔ حَدَّثَنَا بَنْدَارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ نَا
سِيفِيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ الطَّائِيَّ قَالَ
أَوْصَى إِلَيَّ أَحْيَى بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِهِ فَلَقِيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ
فَقُلْتُ إِنَّ أَحْيَى أَوْصَى إِلَيَّ بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِهِ فَأَيْنَ تَرَى
لِي وَضَعَهُ فِي الْفُقَرَاءِ أَوْ الْمَسَاكِينِ أَوْ الْمُجَاهِدِينَ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ أَمَا أَنَا فَلَوْ كُنْتُ لَمْ أَعْدِلْ
بِالْمُجَاهِدِينَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ مَثَلُ الَّذِي يُعْتَقُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَمَثَلِ
الَّذِي يُهْدِي إِذَا شَبِعَ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

توضیح: یعنی ثواب تو اس کو بھی ملتا ہے لیکن کم۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۱۳۷۱۔ بِلَاعْمَوَانِ

باب ۱۳۷۱۔

۱۹۴۹۔ حضرت عروہؓ، ام المؤمنین حضرت عائشہؓ سے نقل کرتے ہیں کہ
بریہؓ اپنی بدل کتابت میں حضرت عائشہؓ سے مدد لینے کیلئے آئیں۔

۱۹۴۹۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ بَرِيْرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُ

جبکہ انہوں نے اس میں سے بالکل ادا نہیں کیا تھا۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا: واپس جاؤ اور ان سے پوچھو اگر وہ لوگ میرے ادا کرنے پر راضی ہوں اور حق ولاء مجھے دیں تو میں ادا کرنے کے لئے تیار ہوں۔ بریرہؓ نے ان لوگوں سے اس کا تذکرہ کیا تو ان لوگوں نے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ اگر وہ تمہاری زر کتابت ادا کر کے ثواب چاہتی ہیں اور ولاء ہمارے لیے چھوڑتی ہیں تو ہمیں منظور ہے حضرت عائشہؓ نے آنحضرت ﷺ سے اس کا ذکر کیا تو فرمایا: تم ان سے خرید لو اور آزاد کر دو۔ ولاء کا حق اسی کیلئے ہوتا ہے جو آزاد کرتا ہے پھر آنحضرت ﷺ کھڑے ہوئے اور فرمایا: کیا بات ہے لوگ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں جو شخص ایسی شرط لگائے وہ شرط پوری نہیں کی جائے گی۔ اگر چہ وہ سومرتی ہی کیوں نہ شرط لگائے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور حضرت عائشہؓ سے کئی سندوں سے منقول ہے۔ علماء اسی پر عمل کرتے ہیں کہ ولاء اسی کی ہے جو آزاد کر دے۔

ولاء اور ہبہ کے متعلق رسول اللہ ﷺ سے

منقول احادیث کے ابواب (۱)

باب ۱۳۷۲۔ ولاء، آزاد کرنے والے کا حق ہے۔

۱۹۵۰۔ حضرت عائشہؓ نے بریرہ کو خریدنے کا ارادہ کیا تو اس کے مالکوں نے ولاء کی شرط رکھ دی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ولاء اسی کا حق جو آزاد کرے یا فرمایا جو نعمت کا دلی ہو۔

اس باب میں ابن عمرؓ اور ابو ہریرہؓ سے بھی حدیثیں نقل کی گئی ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اہل علم اسی پر عمل کرتے ہیں۔

باب ۱۳۷۳۔ ولاء بیچنے یا ہبہ کرنے کی ممانعت

۱۹۵۱۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ولاء

بیچنے اور ہبہ کرنے سے منع فرمایا۔

عائشہؓ فی کتابتہا ولم تکن قصت من کتابتہا شینا فقالت لها عائشہؓ ارجعی الی اهلك فان احبوا ان اقصی عنک کتابتک ویکون ولاءک لی فعلت فذکرت ذلک بریرہؓ لاهلہا فابوا وقالوا ان شاءت ان تحتسب علیک ویکون لنا ولاءک فلتفعل فذکرت ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتباعی فاعتقی فانما الولاء لمن اعتق ثم قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما بال اقوام یشترطون شروطا لیست فی کتاب اللہ من اشتراط شروطا لیس فی کتاب اللہ فلیس له وان اشتراط مائة مرة

أَبْوَابُ الْوَلَاءِ وَالْهَبَةِ عَنْ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب ۱۳۷۲۔ مَا جَاءَ أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ

۱۹۵۰۔ حدثنا بندار نا عبدالرحمن بن مهدی نا سفیان عن منصور عن ابراهيم عن الأسود عن عائشہؓ انہا ارادت ان تشتري بریرہ فاشتراطوا الولاء فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الولاء لمن اعطى الثمن او لمن ولي النعمة

باب ۱۳۷۳۔ انہی عن بیع الولاء وھبته

۱۹۵۱۔ حدثنا ابن ابی عمر نا سفیان بن عیینہ نا عبداللہ بن دینار سمع عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن بیع الولاء وھبته

یہ حدیث حسن صحیح ہے ہم اسے صرف عبداللہ بن دینار کی روایت سے جانتے ہیں۔ وہ ابن عمرؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ شعبہ، سفیان ثوری اور مالک بن انس بھی عبداللہ بن دینار سے اسے نقل کرتے ہیں۔ شعبہ سے منقول ہے کہ اگر عبداللہ بن دینار مجھے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے اجازت دیں تو میں ان کی پیشانی چوم لوں۔ یحییٰ بن سلیم نے یہ حدیث عبید اللہ بن عمر سے انہوں نے نافع سے انہوں نے ابن عمرؓ سے اور انہوں نے آنحضرت ﷺ سے نقل کی ہے۔ لیکن اس میں وہم ہے اور صحیح سند یہ ہے کہ عبید اللہ بن عمر عبداللہ بن دینار سے وہ ابن عمرؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ اس سند سے کئی راویوں نے یہ حدیث عبید اللہ بن عمر سے نقل کی ہے اور عبداللہ بن دینار سے نقل کرنے میں منفرد ہیں۔

باب ۱۳۷۴۔ باب ماجاء فی من تولی غیر موالیہ او ادعی الی غیر ابیہ

باب ۱۳۷۴۔ باب اور آزاد کرنے والے کے علاوہ کسی کو باپ یا آزاد کرنے والا کہنا۔

۱۹۵۲۔ ابراہیم تمیمی اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے خطبہ دیا اور فرمایا: جس نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب اور اس صحیفے کے علاوہ بھی کچھ ہے جس میں انہوں اور زہموں کی دیات کے متعلق تحریر ہے وہ جھوٹا ہے۔ پھر بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میر اور ثور کے درمیان مدینہ حرم ہے۔ جس نے اس میں بدعت شروع کی یا کسی بدعتی کو پناہ دی اللہ تعالیٰ تمام لوگوں اور فرشتوں کی اسپر لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے کوئی فرضی یا نقلی عبادت قبول نہیں کریں گے۔ اور جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کی یا اپنے آزاد کرنے والے کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کی اس پر بھی اللہ، اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی کوئی فرضی یا نقلی عبادت قبول نہیں کریں گے۔ اور مسلمانوں کا کسی کو پناہ دینا ایک ہی ہے۔ ان کا ادنیٰ آدمی بھی اگر کسی کو پناہ دے دے تو سب کو اس کی پابندی کرنا ضروری ہے۔

۱۹۵۲۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ ثَنَا أَبُو معاوية عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ حَطَبْنَا عَلِيًّا فَقَالَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ صَحِيفَةٌ فِيهَا أَسْنَانُ الْإِبِلِ وَأَشْيَاءٌ مِنَ الْجَرَاحَاتِ فَقَدْ كَذَبَ وَقَالَ فِيهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرِ الْيَثُورِ فَمَنْ أَحَدَّثَ فِيهَا حَدَّثَنَا أَوْ أَوَى مُحَدِّثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا وَمَنْ ادَّعَى إِلَيَّ غَيْرَ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْغِي بِهَا أَدْنَاهُمْ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض اسے اعمش سے وہ ابراہیم تمیمی سے وہ حارث سے اور وہ علیؓ سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت علیؓ سے یہ حدیث کئی سندوں سے منقول ہے۔

باب ۱۳۷۵۔ جو شخص اپنے بیٹے کی نسبت کا انکار کر دے۔

۱۹۵۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنو فزارہ کا ایک شخص آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری بیوی نے ایک سیاہ فام بچے کو جنم دیا ہے۔ آپ ﷺ نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ اس نے عرض کیا: جی ہاں۔ فرمایا: ان کا

باب ۱۳۷۵۔ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهِ

۱۹۵۳۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ الْعَطَّارُ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَا نَا سَفِيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ فِزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ

رنگ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا: سرخ۔ آپ ﷺ نے پوچھا: کیا ان میں کوئی کالا بھی ہے؟ عرض کیا: جی ہاں۔ آپ ﷺ نے پوچھا: وہ کہاں سے آگیا؟ اس نے عرض کیا: شاید اس میں کوئی رگ آگئی ہو۔ (یعنی اس کی نسل میں کوئی کالا ہوگا) آپ ﷺ نے فرمایا: تو پھر شاید تمہارے بیٹے میں بھی ایسی کوئی رگ تمہارے باپ دادا کی آگئی ہو۔

امْرَأَتِي وَوَلَدَتِ عَلَامًا أَسْوَدَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا أَلْوَانُهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ فَهَلْ فِيهَا أَوْزُقٌ قَالَ إِنْ فِيهَا لَوْزُقًا قَالَ أَنَّى آتَاهَا ذَلِكَ قَالَ لَعَلَّ عِرْقًا نَزَعَهَا قَالَ فَهَذَا لَعَلَّ عِرْقًا نَزَعَهُ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۳۷۶۔ قیافہ شناسی کے متعلق

۱۹۵۴۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے تو آپ ﷺ کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک رہا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تم نے دیکھا کہ مجز نے ابھی زید بن حارثہ اور اسامہ بن زید کو دیکھ کر کہا کہ یہ پاؤں ایک دوسرے سے ہیں۔ (۱)

باب ۱۳۷۶۔ مَا جَاءَ فِي الْقَافَةِ

۱۹۵۴۔ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ فَقَالَ أَلَمْ تَرَى أَنَّ مُحْجِرًا نَظَرَ نِفَا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ هَذِهِ الْأَقْدَامُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سفیان بن عیینہ سے زہری سے وہ عمروہ سے اور وہ عائشہؓ سے اس طرح نقل کرتے ہیں۔ کہ آپ ﷺ نے فرمایا: تم نے دیکھا کہ مجز زید بن حارثہ اور اسامہ بن زید کے پاس سے گزرا جب کہ ان کے سر ڈھکے ہوئے اور پاؤں ننگے تھے۔ مجز نے کہا کہ یہ پیر ایک دوسرے میں سے ہیں۔ "سعید بن عبد الرحمن اور کئی حضرات نے بھی اسے اسی طرح سفیان سے نقل کیا ہے۔ بعض علماء اس حدیث سے قیافہ کے معتبر ہونے پر استدلال کرتے ہیں۔

باب ۱۳۷۷۔ آنحضرت ﷺ کا ہدیے کی ترغیب دلانا۔

۱۹۵۵۔ حضرت ابو ہریرہؓ، رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: آپس میں ہدیے دیا کرو۔ ہدیہ دینے سے دل کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ نیز کوئی بڑی عورت اپنے بڑے میں رہنے والی عورت کو بکری کا کھردیتے ہوئے بھی نہ شرمائے (یعنی حقیر چیز کا بھی ہدیہ دیا جاسکتا ہے)

باب ۱۳۷۷۔ مَا جَاءَ فِي حَيْثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْهَدِيَّةِ

۱۹۵۵۔ حَدَّثَنَا ازهر بن مروان البصرى ثنا محمد بن سواء نا ابو معشر عن سَعِيدِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَهَادُّوا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُدْهِبُ وَحَرَّ الصَّدْرِ وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةَ لِجَارَتِهَا وَلَوْ شِئَتْ فَرَسِينَ شَاةٍ

یہ حدیث اس سند سے غریب ہے اور ابو معشر کا نام صحیح ہے اور یہ بنو ہاشم کے مولیٰ ہیں بعض اہل علم ان کے حافظے پر اعتراض کرتے ہیں۔

باب ۱۳۷۸۔ ہدیہ یا ہبہ دینے کے بعد واپس لینے کی کراہت۔

باب ۱۳۷۸۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الرَّجُوعِ فِي الْهَبَةِ

(۱) اسامہ بن زید کا رنگ کالا اور ان کے والد زید کا رنگ سفید تھا لہذا لوگ ان کے نسب میں طعن کرتے تھے لیکن مجز جو اس وقت قیافہ شناس تھے انہوں نے دونوں کے پیر دیکھ کر فیصلہ دیا کہ ان میں باپ بیٹے کا رشتہ ہے اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ واللہ اعلم (مترجم)

۱۹۵۶۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کسی چیز کو بطور ہدیہ دے کر واپس لینے والے کی مثال اس کتے کی سی ہے کہ جو خوب کھا کر پیٹ بھر لے اور قے کر دے۔ پھر دوبارہ اپنی قے کھانے لگے۔

۱۹۵۶۔ حدثنا احمد بن منيع نا اسحق بن يوسف الازرق نا حسين المكتب عن عمرو بن شعيب عن طاؤس عن ابن عمر أنّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الَّذِي يُعْطَى الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَالْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَهُ ثُمَّ عَادَ فَرَجَعَ فِي قَيْئِهِ

اس باب میں ابن عباسؓ اور عبد اللہ بن عمروؓ سے بھی حدیثیں منقول ہیں۔

۱۹۵۷۔ حضرت ابن عمرؓ اور ابن عباسؓ مرفوعاً نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کسی شخص کے لیے ہدیہ دینے کے بعد واپس لینا حلال نہیں۔ ہاں البتہ باپ بیٹے کو چیز دینے کے بعد واپس لے سکتا ہے۔ اور جو شخص کوئی چیز دے کر واپس لیتا ہے۔ اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے جو کھا کر پیٹ بھرنے کے بعد قے کرے اور پھر دوبارہ اسے کھانے لگے۔

۱۹۵۷۔ حدثنا محمد بن بشار نا ابن ابی عدی عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب قال نبي طاؤس عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث قال لا يحل لرجل ان يعطى عطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطى ولده ومثل الذي يعطى العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب اكل حتى اذا شبع قاء ثم عاد في قئيه

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ امام شافعی اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ باپ کے علاوہ کسی شخص کو ہدیہ دینے کے بعد واپس لینا حلال نہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تقدیر کے متعلق رسول اللہ ﷺ سے

منقول احادیث کے ابواب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

أَبْوَابُ الْقَدْرِ عَنْ

رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

توضیح: تقدیر پر ایمان لانا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ چنانچہ بندوں کے افعال خواہ نیک ہوں یا بد۔ تمام کے تمام تخلیق کائنات سے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ دیئے گئے۔ لہذا بندے سے سرزد ہونے والا ہر فعل خدا کے علم و اندازے کے مطابق ہے۔ لیکن اس سے قطعاً یہ مراد نہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اچھائی یا برائی کا راستہ اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا۔ بلکہ حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و دانش سے نوازا کر اس کے سامنے نیکی اور برائی دونوں راستے واضح کر دیئے ہیں اور ان پر چلنے کا اختیار دے دیا ہے۔ نیز یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اگر نیکی کا راستہ اختیار کرو گے تو اللہ رب العزت راضی ہو جائیں گے اور تمہیں انعامات اور بہتر جزاء سے سرفراز فرمائیں گے۔ لیکن اس کے برعکس اگر بری راہ اختیار کرو گے تو یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا باعث ہوگا۔ جس کی وجہ سے سزا اور عذاب کے مستحق قرار دیئے جاؤ گے۔

یہ بات ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ مسئلہ تقدیر عقل و فکر سے بالاتر ہے اور یہ ایسا راز ہے کہ جس کا مجید کسی پر آشکار نہیں کیا گیا۔ لہذا اس کے بارے میں غور و فکر اور بحث و مباحثہ کرنا جائز نہیں صرف مذکورہ بالا اعتقاد رکھنا ہی فلاح دارین کا ضامن ہے۔ چنانچہ حضرت علیؓ

کے کسی شخص نے قضاء و قدر کے متعلق سوال کیا تو فرمایا: یہ ایک بڑا راستہ ہے اس پر نہ چلو۔ اس نے دوبارہ یہی سوال کیا تو فرمایا: یہ ایک گہرا دریا ہے۔ اس میں نہ اترو لیکن اس شخص نے تیسری مرتبہ بھی یہی سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ: یہ خدا کا ایک راز ہے جو تم سے پوشیدہ ہے اس لیے اس کی تفتیش و تحقیق میں مت پڑو۔

حاصل یہ کہ فلاح و سعادت اسی میں مضمر ہے کہ اس مسئلے کے متعلق اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات پر بلا چون و چرا عمل کیا جائے نیز اسے عقلیات پر منطبق کرنے اور عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش نہ کی جائے کیونکہ یہ گمراہی و بربادی کا راستہ ہے۔ واللہ اعلم۔ (مترجم)

باب ۱۳۷۹۔ مَا جَاءَ مِنَ التَّشْدِيدِ فِي الْخَوْضِ فِي الْقَدْرِ

۱۹۵۸۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعَاوِيَةَ الْجَمْحَرِيُّ نَا

صَالِحُ الْمَرِي عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

سَيْرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَتَنَازَعُ فِي الْقَدْرِ

فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْهَهُ حَتَّى كَانَتْمَا فُقِي فِي

وَجَنَّتِيهِ الرِّمَانُ فَقَالَ أَبْهَذَا أَمْرُكُمْ أَمْ بِهَذَا أُرْسِلْتُ

إِلَيْكُمْ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِينَ تَنَازَعُوا فِي

هَذَا الْأَمْرِ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ أَلَّا تَنَازَعُوا فِيهِ

اس باب میں عمرؓ، عائشہؓ اور انسؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرف صالح مری کی روایت سے

جاتے ہیں۔ اور ان کی غریب احادیث بہت ہیں جنہیں نقل کرنے میں وہ منفرد ہیں۔

۱۹۵۹۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ بْنُ عَرَبِيِّ نَا

الْمَعْتَمِرُ بْنُ سَلِيمَانَ نَا أَبِي عَنْ سَلِيمَانَ الْأَعْمَشِ

عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى فَقَالَ مُوسَى يَا

آدَمُ أَنْتَ الَّذِي خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ

رُوحِهِ أَعْوَيْتَ النَّاسَ وَانْحَرَجْتَهُمْ مِنَ الْحَنَةِ فَقَالَ

آدَمُ أَنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِكَلَامِهِ

أَتَلَوْنِي عَلَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ

يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَالَ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى

اس باب میں عمرؓ اور جنابؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے (یعنی سلیمان تمیمی کی اعمش سے)

اعمش کے بعض ساتھی اسے اعمش سے وہ ابوصالح سے وہ ابوہریرہ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں جب کہ بعض راوی ابوہریرہ

کی جگہ ابوسعیدؓ سے نقل کرتے ہیں۔ پھر یہ حدیث آنحضرت ﷺ سے ابوہریرہ کے واسطے سے کئی سندوں سے منقول ہے۔

باب ۱۳۷۹۔ تقدیر میں بحث کرنے کی ممانعت۔

۱۹۵۸۔ حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک مرتبہ تشریف

لائے تو ہم لوگ تقدیر پر بحث کر رہے تھے۔ آپ ﷺ غصے میں آگئے

یہاں تک کہ آپ ﷺ کا چہرہ سرخ ہو گیا گویا کہ آپ ﷺ نے چہرے پر

انار کے دانوں کا عرق نچوڑ دیا گیا ہو۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تم

لوگوں کو اس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ کیا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں؟ تم

لوگوں سے پہلے کی قومیں اس مسئلے پر بحث مباحث کرنے کی وجہ سے

ہلاک ہو گئیں۔ میں تم لوگوں کو قسم دیتا ہوں کہ اس مسئلے میں آئندہ بحث

دہرا نہ کرنا۔

۱۹۵۹۔ حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آدمؑ اور

موسیٰؑ کے درمیان مکالمہ ہوا۔ موسیٰ نے فرمایا: اے آدمؑ اللہ تبارک و

تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا پھر اپنی روح آپ میں پھونکی اور

آپ نے لوگوں کو گمراہ کیا اور جنت سے نکال دیا۔ آدمؑ نے فرمایا: تم وہ

موسیٰ ہو جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے سے ہم کلام ہونے کے لیے چنا۔ تم

مجھے ایسے کام پر ملامت کر رہے ہو جو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا

کرنے سے بھی پہلے میری تقدیر میں لکھ دیا تھا چنانچہ آدمؑ موسیٰ سے

جیت گئے۔

توضیح: یہاں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح تو ہر فاسق کہہ سکتا ہے کہ مجھے ملامت نہ کرو۔ جو کچھ میری تقدیر میں لکھا تھا وہی ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کہنے والا دارالتکلیف میں ہے۔ یعنی دنیا میں جب کہ آدم سے مذکورہ بالا گفتگو کا صدور دارالتکلیف سے نکل جانے کے بعد ہوا۔ اور دنیا میں ان کی غلطی کا کفارہ ہو چکا تھا۔ یعنی دنیا میں تو حضرت آدم نے بھی بجز واکساری کے ساتھ یہی دعا کی ”ربنا ظلمنا انفسنا.....“ الآیۃ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۱۳۸۰۔ مَا جَاءَ فِي الشَّقَاءِ وَالسَّعَادَةِ

باب ۱۳۸۰ بد بختی اور نیک بختی کے متعلق۔

۱۹۶۰۔ حضرت عمرؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم جو یہ اعمال کرتے ہیں کیا یہ نیا امر ہے یا عرض کیا: کہ نیا شروع ہوا ہے؟ یا یہ پہلے سے تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ یا اس سے فراغت حاصل کی جا چکی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ پہلے سے مکتوب ہے اور اس سے فراغت ہو چکی ہے۔ اے ابن خطاب ہر شخص پر وہ چیز آسان کر دی گئی ہے۔ جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ لہذا جو نیک بخت لوگ ہیں وہ نیک بختی کے لیے عمل کرتے ہیں (یعنی اعمال صالحہ کرتے ہیں) اور جو بد بخت ہیں وہ اسی کے لیے عمل کرتے ہیں (یعنی اعمال سینہ کے مرتکب ہوتے ہیں)

۱۹۶۰۔ حَدَّثَنَا نُبْدَارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ نَا شُعْبَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَحْدُثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مَا نَعْمَلُ فِيهِ أَمْرٌ مُّبْتَدِعٌ أَوْ مُبْتَدَأٌ أَوْ فِيمَا قَدْ فُرِعَ مِنْهُ قَالَ فِيمَا قَدْ فُرِعَ مِنْهُ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ وَكُلُّ مُسَرَّرٍ أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلسَّعَادَةِ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلشَّقَاءِ

اس باب میں علیؓ، حدیقہ بن اسید، انس اور عمران بن حصینؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۹۶۱۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ آنحضرت ﷺ کے ساتھ تھے۔ آپ ﷺ زمین کرید رہے تھے (جیسے کوئی نظر کی حالت میں ایسے کرتا ہے) اچانک آپ ﷺ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور فرمایا: تم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جس کے متعلق متعین نہ ہو چکا ہو کہ وہ جنتی سے یا دوزخی۔ وکیع کہتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا

۱۹۶۱۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَوَانِيُّ نَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ نَمِيرٍ وَوَكَيْعَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَنْكُثُ فِي الْأَرْضِ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا قَدْ عَلِمَ قَالَ وَكَيْعُ إِلَّا قَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ قَالُوا أَفَلَا تَتَكَلَّمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اعْمَلُوا فَكُلُّ مُسَرَّرٍ نَمَا خُلِقَ لَهُ

نہیں جس کے لیے جنت یا دوزخ میں اس کی جگہ لکھی نہ جا چکی ہو۔ صحابہ نے عرض کیا: کیا ہم بھروسہ کر لیں؟ یعنی اپنی تقدیر کے لکھے ہوئے پر؟ فرمایا عمل کرو ہر ایک جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس پر وہ آسان کر دیا گیا ہے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۳۸۱۔ مَا جَاءَ أَنَّ الْأَعْمَالَ بِالْخَوَاتِيمِ

باب ۱۳۸۱۔ اعمال کی مقبولیت کا دارومدار خاتمے پر ہے۔

۱۹۶۲۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ صادق و مصدق رسول اللہ ﷺ نے ہمیں بتایا کہ تم میں سے ہر ایک ماں کے پیٹ میں چالیس دن تک نطفے کی حالت میں رہتا ہے پھر اتنے ہی دن وہ علقہ (لوہڑا)

۱۹۶۲۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ أَبِي مَعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ

رہتا ہے۔ پھر مضغہ (گوشت کا ٹکڑا) ہو جاتا ہے اور چالیس دن تک اسی حالت میں رہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتے ہیں جو اس میں روح پھونکتا ہے اور چار چیزیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ (رزق، موت، عمل اور یہ کہ وہ نیک بخت ہے یا بد بخت) قسم ہے۔ اس اللہ کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں کہ تم میں سے کوئی (ایسا بھی ہے) کہ وہ اہل جنت والے اعمال کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے اور اس کی تقدیر آگے بڑھتی ہے پھر اس کا خاتمہ دوزخیوں کے اعمال پر کر دیا جاتا ہے اور وہ دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور پھر تم میں سے ایسا بھی ہے جو دوزخیوں والے کام کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے لیکن اس کی تقدیر آگے بڑھتی ہے اور اس کا خاتمہ اہل جنت کے اعمال پر ہو جاتا ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔

الْمَصْدُوقِ اِنَّ اَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ اُمِّهِ فِي اَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسِلُ اللّٰهُ اِلَيْهِ الْمَلَكَ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوْحَ وَيَوْمَئِذٍ يَكْتُبُ رِزْقَهُ وَاَجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَشَقِيٌّ اَوْ سَعِيْدٌ فَاَوَّلِذِي لَا اِلَهَ غَيْرُهُ اِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ لِيَعْمَلَ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ حَتّٰى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا اِلَّا ذِرَاعٌ ثُمَّ يَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَاِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ حَتّٰى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا اِلَّا ذِرَاعٌ ثُمَّ يَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ محمد بن بشار سے یحییٰ بن سعید سے وہ اعمش سے وہ زید بن وہب سے وہ عبد اللہ بن مسعود سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے مثل حدیث نقل کرتے ہیں۔ اس باب میں ابو ہریرہؓ اور انسؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ احمد بن حسن، احمد بن حنبل سے نقل کرتے ہیں کہ میری آنکھوں نے یحییٰ بن سعید قطان جیسا آدمی نہیں دیکھا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ شعبہ اور ثوری بھی اعمش سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ محمد بن علاء بھی وکیع سے وہ اعمش سے اور وہ زید سے اسی کی طرح نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۳۸۲۔ مَا جَاءَ كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلٰى الْفِطْرَةِ
۱۹۶۳۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى الْقَطَعِيّ نَا عَبْدِ الْعَزِيْزِ
بْنِ رِبِيْعَةَ الْبَنَانِيّ نَا الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيّ صَالِحٍ عَنْ اَبِيّ
هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ
مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلٰى الْاِمْلَةِ فَاَبَاؤُهُ يَهُودًا وَّيَنْصُرَانِهِ
وَيُشْرِكَانِهِ قَبِيْلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَنْ هَلَكَ قَبْلَ ذَلِكَ قَالَ
اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ بِهٖ

باب ۱۳۸۲۔ ہر مولود فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔
۱۹۶۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر مولود ملت اسلامیہ پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی، یا مشرک بنا دیتے ہیں۔ عرض کیا گیا جو بچے اس سے پہلے ہی فوت ہو گئے (کہ ان کے والدین انھیں یہودی وغیرہ بنا لیں یعنی بلوغت سے پہلے) آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ اگر بڑے ہوتے تو کیا کرتے۔

ابو کریب اور حسن بن حریش بھی وکیع سے وہ اعمش سے وہ ابوصالح سے وہ ابو ہریرہؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کی ہم معنی حدیث نقل کرتے ہیں۔ اس میں ملت کی جگہ فطرت کا لفظ نقل کیا گیا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ شعبہ وغیرہ اسے اعمش سے وہ ابوصالح سے وہ ابو ہریرہؓ سے اور وہ اسی کے مثل حدیث نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: "یولد علی الفطرة"
توضیح: یہاں فطرت سے مراد وہ خلقت اور طینت انسانی ہے جس پر اسے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ اسی طینت سے حق کو پہچاننے، احکام کو قبول کرنے اور دین اسلام کو اختیار کرنے پر قادر ہوتا ہے۔ نیز حق و باطل کے درمیان تمیز بھی کر سکتا ہے۔ رہ گیا مسئلہ کفار کے نابالغ بچوں

کا تو اس میں صحیح قول یہی ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بے گناہ کو عذاب نہیں دیتے۔ جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے تو یہ حکم آپ پر وحی نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔ اس کے بعد آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ مشرکین و کفار کے بچے بھی جنت میں جائیں گے۔ واللہ اعلم (مترجم)۔

باب ۱۳۸۳۔ مَا جَاءَ لَا يَرُدُّ الْقَدْرَ إِلَّا الدُّعَاءُ

باب ۱۳۸۳۔ تقدیر کو صرف دعا ہی لوٹا سکتی ہے

۱۹۶۴۔ حضرت سلمانؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قضاء (قدر) کو صرف دعا ہی رد کر سکتی ہے اور عمر کو نیکی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بڑھا سکتی۔

۱۹۶۴۔ حدثنا محمد بن حميد الرازي وسعيد بن يعقوب قالنا نا يحيى بن الضريس عن ابى مودود عن سليمان التيمي عن ابى عثمان النهدي عن سلمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر

اس باب میں ابواسید بھی حدیث نقل کرتے ہیں، حضرت سلمانؓ کی حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ ہم اسے صرف یحییٰ بن ضریس کی روایت سے جانتے ہیں۔ اور ابومودود ہیں۔ ایک کو فضہ اور دوسرے کو عبدالعزیز سلیمان کہتے ہیں۔ ان میں سے ایک بصری اور دوسرے مدینی ہیں، جنھوں نے یہ حدیث نقل کی ہے وہ فضہ بصری ہیں۔

توضیح: اس سے مراد یہ ہے کہ جس قضاء کے متعلق لکھا جا چکا ہے کہ یہ دعا سے لوٹا کی جاسکتی ہے وہ رد ہو جائے گی اس سے ان لوگوں پر رد ہوتا ہے جو حضرات کہتے ہیں کہ تقدیر میں جو لکھا جا چکا ہے وہ تو مٹ نہیں سکتا لہذا عمل اور دعا کا کیا فائدہ چنانچہ جن چیزوں کے متعلق یہ لکھا جا چکا ہے کہ یہ دعا سے ٹل جائیں گی وہ تو ٹلیں گی۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۱۳۸۴۔ مَا جَاءَ أَنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ اصْبَعِي الرَّحْمَنِ

باب ۱۳۸۴۔ لوگوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں۔

۱۹۶۵۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پڑھا کرتے تھے، ”یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك“ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ﷺ، ہم ایمان لائے آپ پر بھی اور جو چیز آپ ﷺ لائے اس پر بھی۔ کیا آپ ﷺ ہمارے بارے میں ڈرتے ہیں؟ فرمایا: ہاں کیونکہ دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں وہ جس طرح چاہتے ہیں انھیں پھیر دیتے ہیں۔

۱۹۶۵۔ حدثنا هناد نا ابو معاوية عن الاعمش عن ابى سفيان عن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقلت يا نبي الله امانا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا قال نعم إن القلوب بين اصبعين من اصابع الله يقلبها كيف شاء

اس باب میں نواس بن سمان، ام سلمہ، عائشہ اور ابو زررہ سے بھی حدیثیں منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسے اسی طرح کئی راوی اعمش سے وہ ابوسفیان سے اور وہ انسؓ سے نقل کرتے ہیں۔ بعض راوی انسؓ کی جگہ جابرؓ سے بھی اسے نقل کرتے ہیں لیکن ابوسفیان کی اعمش سے منقول حدیث زیادہ صحیح ہے۔

باب ۱۳۸۵۔ اللہ تعالیٰ نے دو زنجیوں اور جنتیوں کے متعلق کتاب لکھی ہوئی ہے۔

باب ۱۳۸۵۔ مَا جَاءَ أَنَّ اللَّهَ كَتَبَ كِتَابًا لِأَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ

۱۹۶۶۔ حضرت عبد اللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ ﷺ کے پاس دو کتابیں تھیں فرمایا: کیا تم لوگ جانتے ہو کہ یہ کتابیں کیا ہیں؟ ہم نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ ﷺ) لہذا یہ کہ آپ ہمیں بتائیں آپ ﷺ نے دائیں ہاتھ والی کتاب کے متعلق فرمایا: یہ رب العالمین کی طرف سے ہے اور اس میں اہل جنت کے نام ہیں۔ پھر ان کے آباؤ اجداد اور ان کے قبیلوں کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں میزان ہے (یعنی ٹول) پھر ان میں نہ کی ہوگی اور نہ بڑھائے جائیں گے۔ پھر آپ ﷺ نے بائیں ہاتھ والی کتاب کے متعلق فرمایا کہ یہ بھی رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اس میں اہل دوزخ، ان کے آباؤ اجداد اور قبائل کے نام مذکور ہیں اور پھر آخر میں میزان کر دیا گیا ہے۔ اسکے بعد ان میں نہ کی ہوگی اور نہ زیادتی۔ صحابہ نے عرض کیا: تو پھر عمل کا کیا فائدہ ہوا؟ اگر دوزخیوں اور جنتیوں کے متعلق فیصلہ ہو ہی چکا ہے تو عمل سے کیا حاصل ہوگا؟ فرمایا: متوسط چال چلو اور قریب ہوتے جاؤ کیونکہ اہل جنت کا خاتمہ جنت والوں ہی کے عمل پر ہوگا اگرچہ اس سے پہلے کیسے بھی عمل ہوں اور اہل دوزخ کا خاتمہ دوزخ والوں کے اعمال پر ہی ہوگا خواہ اس سے پہلے اس نے کسی طرح کے بھی عمل کئے ہوں۔ پھر آنحضرت ﷺ نے ہاتھوں سے اشارہ کیا اور دونوں کتابوں کو پھینک دیا پھر فرمایا: تمہارا رب بندوں سے فارغ ہو چکا ہے ایک فریق جنت میں اور دوسرا دوزخ میں ہے۔

۱۹۶۶۔ حدثنا قتيبة بن سعيد نا الليث عن ابى قبيل عن شفى ابن مانع عن عبد الله بن عمرو قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان فقال اتذرون ما هذان الكتابان فقلنا لا يا رسول الله الا ان تخبرنا فقال للذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه اسماء اهل الجنة و اسماء ابائهم وقبايلهم ثم اجمل على اجرهم فلا يزداد فيهم ولا ينقص منهم ابدا ثم قال للذي في شماله هذا كتاب من رب العالمين فيه اسماء اهل النار و اسماء ابائهم وقبايلهم ثم اجمل على اجرهم فلا يزداد فيهم ولا ينقص منهم ابدا فقال اصحابه فقيم العمل يا رسول الله ان كان امر قد فرغ منه فقال سيددوا و قاربوا فان صاحب الجنة يخطم له بعمل اهل الجنة وان عمل اى عمل و ان صاحب النار يخطم له بعمل اهل النار و ان عمل اى عمل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه فبدهما ثم قال فرغ ربكم من العباد فریق فی الجنة و فریق فی السعير

قتیبہ بھی بکر بن مضر سے اور وہ ابو قبیل سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں ابن عمر سے بھی حدیث منقول ہے۔ ابو قبیل کا نام حسی بن ہانی ہے۔

۱۹۶۷۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی چاہتے ہیں تو اسے عمل میں لگا دیتے ہیں۔ پوچھا گیا: کیسے عمل میں لگاتے ہیں؟ یا رسول اللہ ﷺ) آپ نے فرمایا: اسے موت سے پہلے نیک اعمال کی توفیق دے دیتے ہیں۔

۱۹۶۷۔ حدثنا على بن حجر نا اسمعيل بن جعفر عن حميد عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اذا اراد بعبد خيرا استعمله فقيل كيف يستعمله يا رسول الله قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۳۸۶۔ عدوی (۱) صفر (۲) اور ہامہ (۳) کی نفی۔

باب ۱۳۸۶۔ ما جاء لا عدوى ولا صفر ولا هامة

۱۹۶۸۔ حضرت ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا: کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگتی۔ ایک اعرابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! ایک اونٹ جسے کھلی ہوتی ہے جب دوسرے اونٹوں کے درمیان آتا ہے تو سب کو کھلی والا کر دیتا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تو پھر پہلے اونٹ کو کسی کی کھلی لگی؟ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی۔ اور نہ ہی صفر کا اعتقاد صحیح ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نفس کو پیدا کیا اور اس کی زندگی، رزق اور مصیبتیں بھی لکھ دیں۔

۱۹۶۸۔ حدثنا بندار نا عبدالرحمن مہدی نا سفیان عن عمارة بن القعقاع نا ابو زرعة بن عمرو بن جرير قال نا صاحب لنا عن ابن مسعود قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يعدي شيئا شيئا فقال اعرابي يا رسول الله البعير اجرِب الحشفة نذنيه فيحرب الابل كلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن اجرِب الاول لاعدوى ولا صفر خلق الله كل نفس فكتب حياتها ورزقها ومصائبها

اس باب میں حضرت ابو ہریرہؓ، ابن عباسؓ اور انسؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ اور میں نے محمد بن عمرو بن صفوان انہی البصری کو کہتے سنا کہ علی بن مدینی فرماتے ہیں۔ اگر مجھے رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان قسم اٹھائی جائے تو میں قسم اٹھاؤں گا کہ میں نے عبدالرحمن بن مہدی سے زیادہ علم والا نہیں دیکھا۔

باب ۱۳۸۷۔ تقدیر خیر و شر پر ایمان لانا۔

۱۹۶۹۔ حضرت جابر بن عبد اللہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوئی بندہ اس وقت مؤمن نہیں ہو سکتا۔ جب تک اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہ لائے یہاں تک کہ وہ جان لے کہ جو چیز اسے ملنے والی تھی وہ اسے ہی ملی کسی اور کے پاس نہیں جاسکتی تھی اور جو چیز اسے نہیں ملنی وہ کسی صورت اسے نہیں مل سکتی۔

باب ۱۳۸۷۔ ما جاء في الإيمان بالقدر خيره وشره ۱۹۶۹۔ حدثنا ابو الخطاب زياد بن يحيى البصرى نا عبدالله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وحتى يعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه وان ما اخطاه لم يكن ليصيبه

اس باب میں عبادہؓ، جابرؓ اور عبد اللہ بن عمرؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث اس سند سے غریب ہے ہم اسے صرف عبد اللہ بن میمون کی سند سے جانتے ہیں۔ اور یہ منکر الحدیث ہیں۔

۱۹۷۰۔ حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ کوئی بندہ اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک چار چیزوں پر ایمان نہ لائے۔ ۱۔ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ ۲۔ موت پر ایمان لائے (یعنی اس کیلئے اعمال صالحہ سے تیاری کرے)۔ ۳۔ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لائے اور ۴۔ تقدیر پر ایمان لائے۔

۱۹۷۰۔ حدثنا محمود بن غيلان نا ابو داود انبانا شعبة عن منصور عن ربعي بن خراش عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بربيع يشهد ان لا اله الا الله واتى رسول الله بعثنى بالحق ويؤمن بالمولوت ويؤمن بالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر

(۱) عدوی: اس کی تفصیل حدیث میں آ رہی ہے۔ (مترجم)۔ (۲) صفر: اس میں علماء کے دو اقوال میں ایک یہ کہ صفر کو محرم پر مقدم کیا جائے جیسے کفار عرب کیا کرتے تھے دوسرے یہ کہ عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ جانور کے پیٹ میں ایک کیزا ہے جو جوہوک کے وقت بیجان کرتا ہے اور اکثر جانور کو مار ڈالتا ہے۔ (۳) ہاندہ: الو کو کہتے ہیں عرب اس سے بدنامی لیتے تھے بعض کا خیال تھا کہ میت کی ہڈیاں سڑ کر آلو بن جاتی ہیں۔ (مترجم)

محمود بن غیلان، نصر بن شمیل سے اور وہ شعبہ سے اسی کے مانند نقل کرتے ہیں۔ لیکن ربیع ایک شخص سے اور وہ علیؑ سے نقل کرتے ہیں۔ ابوداؤد کی شعبہ سے منقول حدیث میرے نزدیک نصر کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے کئی راویوں نے بھی منصور سے انھوں نے ربیع سے اور انھوں نے علیؑ سے یہی حدیث نقل کی ہے۔ جارود بیان کرتے ہیں کہ وکیع کہتے ہیں: مجھے خبر پہنچی ہے کہ ربیع بن خراش نے اسلام میں ایک مرتبہ بھی جھوٹ نہیں بولا۔

باب ۱۳۸۸۔ مَا جَاءَ أَنَّ النَّفْسَ تَمُوتُ حَيْثُ مَا كُتِبَ لَهَا

باب ۱۳۸۸۔ ہر شخص وہیں مرتا ہے جہاں اس کی موت لکھی ہوتی ہے۔

۱۹۷۱۔ حَدَّثَنَا بِنْدَارٌ نَا مُؤَمَّلٌ نَا سَفِيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مَطْرِبْنِ عِكَامِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَضَى اللَّهُ لِعَبْدٍ أَنْ يَمُوتَ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةً

۱۹۷۱۔ حضرت مطرب بن عکامس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کی کسی جگہ موت لکھی ہوتی ہے تو اس کے لئے وہاں کوئی کام نکل آتا ہے۔

اس باب میں ابو عزرہ سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ مطرب بن عکامس کی اس حدیث کے علاوہ کسی حدیث کا ہمیں علم نہیں۔ محمود بن غیلان، مؤمل، اور ابوداؤد حنفی سے اور وہ سفیان سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ احمد بن منیع اور علی بن حجر بھی یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:..... الخ اس حدیث میں ”الہا حاجتہ“ کے الفاظ بیان کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابو عزرہ صحابی ہیں ان کا نام یسار بن عبد ہے اور ابویح: عامر بن اسامہ بن عمری ہندی ہیں۔

باب ۱۳۸۹۔ مَا جَاءَ لَا تَرُدُّ الرَّقِيَّ وَالِدَ وَآءٍ مِنْ قَدْرِ اللَّهِ شَيْئًا

باب ۱۳۸۹۔ رقیہ اور دو تقدیر کو نہیں لوٹا سکتے۔

۱۹۷۲۔ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ نَا سَفِيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي حَزَامَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَرَأَيْتَ رُقِيَّ نَسْتَرَفِيهَا وَدَوَّاءَ نَتَدَاوِي بِهِ وَتَقَاةَ نَتَقِيهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدْرِ اللَّهِ شَيْئًا قَالَ هِيَ مِنْ قَدْرِ اللَّهِ

۱۹۷۲۔ حضرت ابو خزامہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: یہ رقیہ جن سے ہم دم کرتے ہیں اور یہ دوائیں جن سے ہم علاج کرتے ہیں اور یہ بچاؤ کی چیزیں جن سے ہم ضرب سے بچتے ہیں (یعنی ڈھال وغیرہ) کیا یہ اللہ کی تقدیر میں سے کچھ لوٹا سکتی ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ تو خود ہی اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہیں۔

یہ حدیث ہم صرف زہری کی روایت سے جانتے ہیں۔ کئی راوی اسے سفیان سے وہ زہری سے وہ ابو خزامہ سے اور وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں۔ یہ زیادہ صحیح ہے۔ اسی طرح کئی راوی زہری سے وہ ابو خزامہ سے اور وہ اپنے والد سے یہی حدیث نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۳۹۰۔ مَا جَاءَ فِي الْقَدْرِ تَعَلَّقَ

باب ۱۳۹۰۔ تقدیر کے متعلق

۱۹۷۳۔ حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى نَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَبِيبٍ وَعَلِيِّ بْنِ نَزَارٍ عَنْ

۱۹۷۳۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری امت میں سے دو گروہ ایسے ہیں جن کا اسلام میں کوئی حصہ

عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَيْسَ لِهَمَا فِي الْإِسْلَامِ نَصِيبُ الْمُرْجَةِ وَالْقَدْرِيَّةِ

نہیں۔ قدریہ (۱) اور مرجہ (۲)

اس باب میں عمرؓ، ابن عمرؓ اور رافع بن خدیجؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ محمد بن رافع، محمد بن بشر سے وہ سلام بن ابو عمرہ سے، وہ عکرمہ سے وہ ابن عباسؓ سے اور وہ نبی اکرم ﷺ سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ پھر محمد بن بشر بھی علی سے وہ زرار سے وہ عکرمہ سے وہ ابن عباسؓ سے وہ نبی کریم ﷺ سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔

۱۹۷۴۔ حدثنا ابو هريرة محمد بن فراس البصرى نا ابو قتبية سلم بن قتيبة نا ابو العوام عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِثْلُ ابْنِ آدَمَ وَالْإِلَى حَبِيْبِهِ تَسْعَةٌ وَتَسْعُونَ مِئَةً إِنْ أَخْطَأَتْهُ الْمَنَاءُ وَقَعَ فِي الْهَرَامِ حَتَّى يَمُوتَ

۱۹۷۴۔ حضرت عبداللہ بن شخیرؓ، آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: بنو آدم کی تصویر اس نقشے پر تیار کی گئی ہے کہ اس کے دونوں جانب نانوائے موتیں ہیں اگر وہ ان سے بچ جائے تو بڑھاپے میں گرفتار ہو جاتا ہے پھر اسی میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں ابوالعوام وہ عمران قطان ہیں۔

باب ۱۳۹۱۔ مَا جَاءَ فِي الرِّضَاءِ بِالْقَضَاءِ

۱۹۷۵۔ حدثنا محمد بن بشار نا ابو عامر عن محمد بن ابى حميد عن اسمعيل بن محمد بن سعد بن ابى وقاص عن ابيه عن سعد قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ رِضَاهُ بِمَا قَضَى اللَّهُ لَهُ وَمِنْ شِقَاوَةِ ابْنِ آدَمَ تَرْكُهُ اسْتِحَارَةَ اللَّهِ وَمِنْ شِقَاوَةِ ابْنِ آدَمَ سَخَطُهُ بِمَا قَضَى اللَّهُ لَهُ

۱۹۷۵۔ حضرت سعدؓ کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بنو آدم کی سعادت اسی میں ہے کہ اللہ کی قضاء و قدر پر راضی رہے اور اس کی بدبختی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب نہ کرے اور اس کی قضاء پر ناراضگی کا اظہار کرے۔

یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرف محمد بن ابی حمید کی روایت سے جانتے ہیں انھیں حماد بن ابی حمید بھی کہتے ہیں۔ یہ ابوالبرہیم مدینی ہیں اور محدثین کے نزدیک قوی نہیں۔

باب ۱۳۹۲۔ بلا عنوان

۱۹۷۶۔ حدثنا محمد بن بشار نا ابو عاصم نا حيوة بن شريح اخبرني ابو صخر ثني نافع ان ابن عمر عرض كيف افعال الله تعالى فقال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَفَعَهُ اللَّهُ فِي حَقِّهِ نَزَلَهُ فِي حَقِّهِ

۱۹۷۶۔ حضرت نافعؓ فرماتے ہیں کہ ابن عمرؓ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا فلاں آپ کو سلام کہتا ہے۔ انھوں نے فرمایا: مجھے خبر ملی ہے کہ

(۱) قدریہ: ایک فرقہ ہے جو تقدیر کے منکر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مخلوق کے افعال ان ہی کی طرف منسوب ہیں اور یہی اس کے خالق ہیں اس میں ارادہ الہی کا کوئی دخل نہیں (مترجم)

(۲) مرجہ: یہ بھی ایک فرقہ ہے جو قدریہ کے برعکس ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انسان مجبور ہے اور اس کے تمام افعال تقدیر سے ہیں انسان کو اس میں کسی قسم کا اختیار نہیں۔ نیز یہ کہ ایمان کے ساتھ کوئی گناہ ضرور نہیں پہنچاتا۔ (مترجم)

اس نے نیا عقیدہ نکالا ہے اگر یہ صحیح ہے تو اسے میرا سلام نہ کہنا اس لئے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اس امت میں یا فرمایا میری امت میں سے اہل قدر میں دھنا صورتیں بدلنا، اور پتھر برسا ہوتا رہے گا۔ (۱)

جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ فَلَانًا يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ فَقَالَ إِنَّهُ بَلَّغَنِي أَنَّهُ قَدْ أَحَدَثَ فَإِنْ كَانَ قَدْ أَحَدَثَ فَلَا تَقْرُؤُهُ مِنِّي السَّلَامَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوْفِي أُمَّتِي الشُّكُّ مِنْهُ حَسْفٌ أَوْ مَسْخٌ أَوْ قَذْفٌ فِي أَهْلِ الْقَدْرِ

یہ حدیث غریب ہے اور ابو صخر کا نام حمید بن زیاد ہے۔

۱۹۷۷ء۔ عبد الواحد بن سلیم کہتے ہیں کہ میں مکہ آیا تو عطاء بن ابی رباح سے ملاقات کی اور ان سے کہا: ابو محمد! اہل بصرہ تقدیر کے متعلق کچھ چیزوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا: بیٹے تم قرآن پڑھتے ہو؟ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا: تو پھر سورہ زخرف پڑھو۔ کہتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کیا اور ”حم“ سے ”حکیم“ تک پڑھا۔ فرمایا: جانتے ہو کہ ام الکتاب کیا ہے؟ میں نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ فرمایا: یہ وہ کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کرنے سے پہلے لکھا۔ اس میں تحریر ہے کہ فرعون دوزخی ہے اور ابولہب کے دونوں ہاتھ اور وہ خود ڈوٹ گیا۔ عطاء کہتے ہیں کہ پھر میں نے صحابی رسول ﷺ ولید بن عبادہ بن صامت سے ملاقات کی اور ان سے پوچھا: آپ کے والد نے موت کے وقت کیا وصیت کی تھی؟ فرمایا: انہوں نے مجھے بلایا اور فرمایا: بیٹے اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے تب ہی اس پر ایمان لاؤ گے۔ اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ گے اور اگر تم اسکے علاوہ کسی اور عقیدے پر مرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور حکم دیا کہ لکھو اس نے عرض کیا: کیا لکھوں؟ فرمایا: تقدیر، جو گزر چکی اور جو ہمیشہ ہمیشہ ہونے والی ہے یعنی قیامت تک۔

۱۹۷۷۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَوْسَى نَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ قَدِمْتُ مَكَّةَ فَلَقَيْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رِيَّاحٍ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ أَهْلَ الْبَصْرَةِ يَقُولُونَ فِي الْقَدْرِ قَالَ يَا بَنِيَّ أَنْتُمْ أَلْتُمْ الْقُرْآنَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاقْرَأْ الزُّخْرُفَ قَالَ فَقَرَأْتُ حَمَّ وَالْكِتَابَ الْمُبِينُ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ قَالَ أَنْدَرِي مَا أُمُّ الْكِتَابِ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهُ كِتَابٌ كَتَبَهُ اللَّهُ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاءَ وَقَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْأَرْضَ فِيهِ إِنَّ فِرْعَوْنَ مِنَ النَّارِ وَفِيهِ نَبَتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ قَالَ عَطَاءُ فَلَقَيْتُ الْوَلِيدَ بْنَ عَبَادَةَ ابْنَ صَامِتٍ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ مَا كَانَتْ وَصِيَّةُ أَبِيكَ عِنْدَ الْمَوْتِ قَالَ دَعَانِي فَقَالَ يَا بَنِيَّ اتَّقِ اللَّهَ وَأَعْلَمُ أَنَّكَ إِنْ تَتَّقَى اللَّهَ وَتُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ كُلِّهِ خَيْرٌ وَشَرٌّ فَإِنْ مِتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا دَخَلْتَ النَّارَ

إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ أَكْتُبُ قَالَ مَا كَتَبَ قَالَ أَكْتُبُ الْقَدْرَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَاتِبٌ إِلَى الْآبِدِ

آیات کا ترجمہ: قسم ہے اس واضح کتاب کی، ہم نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا۔ تاکہ تم لوگ سمجھ سکو اور یہ قرآن ہمارے پاس لوح محفوظ میں ہے۔ اس سے برتر اور مستحکم ہے۔ یہ حدیث غریب ہے۔

(۱) یعنی عذاب کی یہ کیفیات آتی رہیں گی۔

۱۹۷۸۔ حضرت عبداللہ بن عمروؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تقدیریں آسمان و زمین پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے لکھ دی تھیں۔

۱۹۷۸۔ حدثنا ابراهيم بن عبدالله بن المنذر الصنعاني نا عبدالله بن يزيد المقرئ نا حيوة بن شريح ثنى ابو هانى الخولاني انه سمع ابا عبد الرحمن الحبلى يقول سمعت عبدالله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قدر الله المقادير قبل ان يخلق السموات والارضين بخمسين الف سنة
یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

۱۹۷۹۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ مشرکین قریش آنحضرت ﷺ کے پاس تقدیر کے متعلق جھگڑتے ہوئے حاضر ہوئے اس پر یہ آیت نازل ہوئی ”یوم یسحبون.....“ الایۃ۔ یعنی جس دن اپنے چہروں کے تل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اور پھر کہا جائے گا کہ پکھو دو بزخ کا حزرہ ہم نے ہر چیز تقدیر کے اندازے کے مطابق پیدا کی۔

۱۹۷۹۔ حدثنا محمد بن العلاء ومحمد بن بشار قالنا وكيع عن سفيان الثوري عن زياد بن اسمعيل عن محمد بن عباد بن جعفر المنخرومي عن أبي هريرة قال جاء مشركوا قريش الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاصمون في القدر فنزلت هذه الآية يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقرانا كل شيء خلقناه بقدر
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فتنوں کے متعلق رسول اللہ ﷺ سے

منقول احادیث کے ابواب

باب ۱۳۳۔ تین جرموں کے علاوہ کسی مسلمان کا خون بہانا حرام ہے۔

۱۹۸۰۔ حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیفؓ کہتے ہیں کہ عثمان بن عفانؓ اپنے دور خلافت میں اہل قندہ کے ڈر سے گھر میں مجبوس تھے کہ ایک دن چھت پر چڑھے اور فرمایا: میں تم لوگوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کسی مسلمان کا خون تین جرموں کے علاوہ بہانا حرام ہے۔ اول یہ کہ شادی شدہ زنا کرے۔ دوم یہ کہ اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے۔ سوم یہ کہ کوئی شخص کسی کو ناحق قتل کرے۔ (ان جرموں کی پاداش میں کسی مسلمان کو قتل کرنا جائز ہو جاتا ہے۔) اللہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

أَبْوَابُ الْفِتَنِ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب ۱۳۹۳۔ مَا جَاءَ لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُّسْلِمٍ إِلَّا بِأَحْدَى ثَلَاثٍ

۱۹۸۰۔ حدثنا احمد بن عبدة الضبي نا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن ابي امامة بن سهل بن حنيف ان عثمان بن عفان اشرف يوم الدار فقال انشدكم بالله اتعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجلى دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث زنا بعد احصان او ارتداد بعد اسلام او قتل نفس بغير حق فقتل به فوالله ما زنت في جاهلية

وَلَا فِي إِسْلَامٍ وَلَا ارْتَدُّدٌ مُنْذُ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا قَتَلْتُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ فِيمَ تَقْتُلُونِي

کی قسم میں نے نہ کبھی جاہلیت میں زنا کیا اور نہ ہی اسلام لانے کے بعد پھر جس دن سے میں نے رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اس کے بعد مرتد نہیں ہوا۔ اور نہ ہی میں نے کسی ایسے شخص کو قتل کیا ہے جس کا قتل اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ لہذا تم لوگ مجھے کس جرم میں قتل کرتے ہو۔

اس باب میں ابن مسعود، عائشہ، اور ابن عباسؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسے حماد بن سلمہ یحییٰ بن سعید سے مرفوع نقل کرتے ہیں۔ پھر یحییٰ بن سعید قطان اور کئی راوی یحییٰ بن سعید سے یہی حدیث موقوفاً نقل کرتے ہیں۔ حضرت عثمانؓ سے یہ حدیث کئی سندوں سے مرفوعاً منقول ہے۔

باب ۱۳۹۳۔ جان و مال کی حرمت

باب ۱۳۹۴۔ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ الدِّمَاءِ وَالْأَمْوَالِ

۱۹۸۱۔ حضرت عمرو بن احوصؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں سے خطاب فرماتے ہوئے پوچھا: یہ کونسا دن ہے؟ عرض کیا گیا: حج اکبر کا دن۔ آپ ﷺ نے فرمایا: بیشک تم لوگوں کی جان، مال اور عزت آپس میں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں۔ جس طرح آج کے دن کی تمہارے اس شہر میں حرمت ہے۔ جان لو کہ ہر مجرم اپنے اوپر ہی جنایت کرتا ہے۔ یعنی اس کا خمیازہ اسے ہی بھگتنا ہوگا۔ اور جان لو کہ کوئی جنایت کرنے والا اپنے بیٹے پر یا بیٹا اپنے باپ پر جنایت نہیں کرتا یہ بھی ذہن نشین کر لو کہ شیطان اس سے مایوس ہو چکا ہے کہ تمہارے اس شہر میں کبھی اس کی عبادت کی جائے۔ لیکن اس کی ان اعمال سے تھوڑی بہت اطاعت ضرور ہوگی جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو اور وہ اسی پر راضی ہو جائے گا۔

۱۹۸۱۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ ثَنَا ابُو الْأَحْوَصِ عَنْ شَيْبِ بْنِ غِرْقَدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِلنَّاسِ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالُوا يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلَا لَا يَحْنِي جَانٌ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ أَلَا لَا يَحْنِي جَانٌ عَلَى وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ أَلَا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ آتَيْسَ أَنْ يَعْبُدَ فِي بِلَادِكُمْ هَذِهِ أَبَدًا وَلَكِنْ سَتَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِيمَا تَحْقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَسِيرْ ضِي بِهِ

اس باب میں ابو بکرؓ، ابن عباسؓ، جابرؓ اور حدیثم بن عمروؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسے زائدہ شیب بن غرقہ کی سند سے نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۳۹۵۔ کسی مسلمان کو گھبراہٹ میں بتانا کرنے کی ممانعت۔

باب ۱۳۹۵۔ مَا جَاءَ لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرْوَعَ مُسْلِمًا

۱۹۸۲۔ حضرت عبداللہ بن سائبؓ بن یزید اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوئی شخص بطور مذاق اپنے بھائی کو پریشان کرنے کے لئے اس کی لاشی نہ لے اور اگر کسی نے لی ہو تو واپس کر دے۔

۱۹۸۲۔ حَدَّثَنَا بِنْدَارٌ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ نَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ لِأَعْيَابًا جَادًّا فَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدِّهَا إِلَيْهِ

اس باب میں ابن عمرؓ، سلیمان بن صردؓ، جعدہ اور ابو ہریرہؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف ابن ابی ذئب کی روایت سے جانتے ہیں۔ سائب بن یزید صحابی ہیں انھوں نے آنحضرت رسول اللہ ﷺ سے احادیث سنی ہیں۔ جب آپ کی وفات ہوئی اس وقت ان کی عمر سات سال تھی جبکہ ابو یزید بن سائب بھی صحابی ہیں اور انھوں نے کئی احادیث رسول اللہ ﷺ سے نقل کی ہیں۔

باب ۱۳۹۶۔ مَا جَاءَ فِي إِشَارَةِ الرَّجُلِ عَلَىٰ أَحِيَهٗ بِالْمَوَالِحِ
باب ۱۳۹۶۔ کسی مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ کرنے کی ممانعت۔

۱۹۸۳۔ حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي نا محبوب بن الحسن نا خالد الحذاء عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشار على أخيه بحديدة لعنته الملائكة
۱۹۸۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کسی شخص نے اپنے کسی بھائی کی طرف کسی ہتھیار سے اشارہ کیا تو فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔

اس باب میں ابو بکرؓ، عائشہؓ اور جابرؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے یعنی خالد بن حزاء کی روایت ہے۔ محمد بن سیرین سے بھی ابو ہریرہؓ کے واسطے سے اسی طرح کی حدیث نقل کی گئی ہے لیکن یہ مرفوع نہیں اور اس میں یہ الفاظ زیادہ ہیں ”اگر چہ وہ اس کا حقیقی بھائی ہی کیوں نہ ہو“ (۱) قتیبہ بھی حماد بن زید سے اور وہ ابو ایوب سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۳۹۷۔ النَّهْيُ عَنْ تَعَاطِي السَّيْفِ مَسْلُوًا
باب ۱۳۹۷۔ ننگی تلوار لینے کی ممانعت۔
۱۹۸۴۔ حدثنا عبد الله بن معاوية الحمصي البصري نا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلواً
۱۹۸۴۔ حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ننگی تلوار لینے اور دینے سے منع فرمایا۔ (۲)

اس باب میں ابو بکرؓ سے بھی حدیث نقل کی گئی ہے۔ مذکورہ حدیث حماد بن سلمہ کی روایت سے حسن غریب ہے۔ ابن لہیعہ سے ابو زبیر سے وہ جابرؓ سے وہ نہ جہنی سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ میرے نزدیک حماد کی حدیث زیادہ صحیح ہے

باب ۱۳۹۸۔ مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ
باب ۱۳۹۸۔ جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی پناہ میں ہے۔
۱۹۸۵۔ حدثنا بندار نا معدی بن سليمان نا ابو عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ فَلَا يَتَّبِعُكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنْ ذِمَّتِهِ
۱۹۸۵۔ حضرت ابو ہریرہؓ رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی پناہ میں ہے لہذا ایسا نہ ہو کہ اللہ کی پناہ توڑنے کے جرم میں وہ تمہارا مواخذہ کرے۔

(۱) حقیقی بھائی کی قید لگانے کی وجہ یہی ہے کہ ان میں عداوت کا احتمال بعید ہے۔ چنانچہ مراد یہی ہے کہ مذاتاً بھی ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)
(۲) اس ممانعت کی وجہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہو کہ اندیشہ ہے کہ ہاتھ سے پھسل کر کسی کو زخمی نہ کر دے یا یہ بھی ممکن ہے کہ لینے والا دشمن ہو اور موقع پاتے ہی مار ڈالنے کی کوشش کرے۔ واللہ اعلم۔

اس باب میں جناب اور ابن عمرؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔

باب ۱۳۹۹۔ جماعت کی پابندی کرنا۔

باب ۱۳۹۹۔ فِی لُزُومِ الْجَمَاعَةِ

۱۹۸۶۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا النَّضْرَيْنِ اسْمَعِيلُ أَبُو الْمَغِيرَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَوْقَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي عُمَرَ قَالَ خَطَبْنَا عُمَرَ بِالْحَاجِيَةِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قُمْتُ فِيكُمْ كَمَقَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا فَقَالَ أَوْصِيكُمْ بِأَصْحَابِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَفْشُوا الْكُذِبَ حَتَّى يَخْلِفَ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَحْلَفُ وَيَشْهَدَ الشَّاهِدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ إِلَّا لَا يَخْلُوْنَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفِرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ ابْعَدَ مَنْ أَرَادَ بِحُبُوحَةِ الْجَنَّةِ فَلْيَلِزِمِ الْجَمَاعَةَ مَنْ سَرَّتَهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَلْيَلِزِمِ الْمُؤْمِنِ

۱۹۸۶۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے جابیہ کے مقام پر ہم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: اے لوگو میں تم لوگوں کے درمیان رسول اللہ ﷺ کا قائم مقام ہوں۔ اور آپ ﷺ نے فرمایا: میں تم لوگوں کو اپنے صحابہؓ کی اطاعت کی وصیت کرتا ہوں پھر ان کے بعد آنے والوں کی اور پھر ان سے متصل آنے والوں کی (یعنی تابعین اور تبع تابعین کی) اس کے بعد جھوٹ رواج پکڑ جائے گا۔ یہاں تک کہ آدمی بغیر قسم کھلانے قسم کھانے لگے گا۔ اور بغیر گواہی طلب کئے گواہی دینے کے لئے موجود ہوگا۔ خبردار کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ غلطی (۱) نہ کرے اس لئے کہ ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تم لوگوں کا جماعت کے ساتھ التزام ضروری ہے جسے اس کی نیکی خوش اور برائی بری لگے وہی مؤمن ہے۔

یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے لیکن اسے محمد بن سوقة سے بھی بواسطہ ابن مبارک نقل کیا گیا ہے اور یہ کئی سندوں سے

آنحضرت ﷺ سے منقول ہے۔

۱۹۸۷۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ میری امت کو یا فرمایا: امت محمدیہ کو گراہی پر جمع نہیں کریں گے اور جماعت پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے جبکہ جو شخص جماعت سے جدا ہوا وہ آگ میں ڈال دیا گیا۔

۱۹۸۷۔ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْبَصْرِيُّ ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا سُلَيْمَانُ الْمَدِينِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي أَوْ قَالَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَى الضَّلَالَةِ وَيَذِلُّ اللَّهُ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَدَّ شَدًّا إِلَى النَّارِ

یہ حدیث اس سند سے غریب ہے میرے نزدیک سلیمان مدنی، سلیمان بن سفیان ہیں۔ اس باب میں ابن عباسؓ سے بھی حدیث

منقول ہیں۔

۱۹۸۸۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہوتا ہے۔

۱۹۸۸۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى ثَنَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ نَا إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ

(۱) یعنی تنہائی میں نہ ہے۔ (مترجم)

عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُ
اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے ابن عباسؓ کی روایت سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

باب ۱۴۰۰۔ مَا جَاءَ فِي نَزْوِلِ الْعَذَابِ إِذَا لَمْ يُغَيَّرِ
بَاب ۱۴۰۰۔ منکرات کو نہ روکنے پر عذاب کا نازل ہونا۔
الْمُنْكَرِ

۱۹۸۹۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے فرمایا: اے لوگو! تم یہ آیت پڑھتے ہو
”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ“ یعنی اے ایمان والو! تم اپنی
جانوں کی فکر کو ضروری سمجھو۔ کوئی گمراہ تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکتا بشرطیکہ تم
ہدایت یافتہ ہو جب کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ: اگر لوگ ظالم
کو ظلم کرتے ہوئے دیکھ کر اسے روکیں نہیں تو قریب ہے کہ اللہ تبارک
تعالیٰ ان سب پر عذاب بھیج دے۔ (۱)

۱۹۸۹۔ حدثنا احمد بن منيع نا يزيد بن هارون نا
اسماعيل بن ابى خالد عن قيس بن ابي حازم عن
ابى بكر بن الصديق انه قال يا ايها الناس انكم
تقرءون هذه الآية يا ايها الذين امنوا عليكم
انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم واني
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان
الناس اذا راوا الظالم فلم يأخذوا على يديه اوشك
ان يعصمهم الله بعقاب منه

اسی طرح کی محمد بن بشر، یزید بن ہارون سے اور وہ اسماعیل بن خالد سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ اس باب میں عائشہؓ
ام سلمہؓ، نعمان بن بشیرؓ، عبد اللہ بن عمرؓ اور حذیفہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ کئی راوی اسماعیل سے یزید کی روایت کی طرح مرفوعاً نقل
کرتے ہیں۔ جب کہ بعض راوی اسے موقوفاً بھی نقل کرتے ہیں۔

توضیح: اس آیت کے عموم پر عمل کرنا اس لیے صحیح نہیں کہ یہ آیت یا تو بحسب اشخاص یا بحسب زمان مخصوص ہے چنانچہ بحسب اشخاص
مخصوص و مقید ہونے کی صورت یہ ہے کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جن کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کوئی اثر نہیں ہوتا بلکہ ان میں سے
ہر ایک خود پسند و متکبر ہے لہذا اس قسم کے لوگوں کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ تاکہ قند اور زیادہ نہ بڑھے۔ جب کہ بحسب زمان مخصوص
ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی خاص زمانے کے متعلق فرمایا: کہ تم لوگ اپنی فکر کرو۔ لیکن وہ زمانہ ابھی تک نہیں آیا اور
قیامت کے نزدیک آئے گا۔ چنانچہ ابن مسعودؓ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا: ”اس سے مراد ہمارا اور تمہارا زمانہ نہیں۔“ کیونکہ لوگ اس
میں سنتے بھی ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح ابو ثعلبہ حُشنیؓ نے حضور اکرم ﷺ سے۔ اس آیت کی تفسیر کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا:
اس زمانے تک امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہو جب تک تم یہ نہ دیکھو کہ صفت بخل کی اطاعت، خواہشات نفسانی کی اتباع، دنیا کو
آخرت پر ترجیح اور ہر ذی رائے اپنی رائے و عقل کو پسند کرنے لگے۔ اور لوگوں نے علماء سے رجوع کرنا چھوڑ دیا ہو تو اس صورت میں اس
سے اعراض کر سکتے ہو۔ یا یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم ان لوگوں میں رہتے ہوئے بے اختیار اس منکر میں پڑنے کا خطرہ محسوس کر
رہے ہو تو ان سے کنارہ کشی اختیار کر لو۔ تاکہ خود برائی میں نہ پڑو اور اپنی فکر کرو۔ واللہ اعلم (مترجم)

(۱) یہاں مراد یہ ہے کہ تم لوگ اس آیت کو پڑھ کر اس کے عموم پر عمل کرتے ہوئے امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے اعراض کرتے ہو یہ صحیح نہیں کیونکہ میں نے
رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا..... الحدیث۔ (مترجم)

باب ۱۴۰۱۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے متعلق۔

باب ۱۴۰۱۔ مَا جَاءَ فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ
عَنِ الْمُنْكَرِ

۱۹۹۰۔ حضرت حذیفہ بن یمانؓ کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:
اس پروردگار کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے امر
بالمعروف اور نہی عن المنکر (اچھی باتوں کا حکم اور برائی سے روکنا)
کرتے رہو ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں پر عذاب بھیج دیں اور تم
لوگ اس سے دعائیں مانگو اور وہ قبول نہ کرے۔

۱۹۹۰۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ
حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا
مِنْهُ فَتَدْعُونَهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ

علی بن حجر بھی اسماعیل بن جعفر سے اور وہ عمرو بن ابی عمرو سے اسی سند سے اسی کے مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے۔

۱۹۹۱۔ حضرت حذیفہ بن یمانؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ قیامت اس وقت
تک نہ آئے گی جب تک تم لوگ اپنے امام کو قتل نہ کرو گے، آپس میں
ایک دوسرے کو تلواروں سے نہ مار ڈالو گے اور تمہارے بدترین لوگ
حکومت و اقتدار پر قابض نہ ہو جائیں گے۔

۱۹۹۱۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
الْأَنْصَارِيِّ الْأَشْهَلِيِّ عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي
بِيَدِهِ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتُلُوا مَامَكُمْ وَتَحْتَلِدُوا
بِأَسْيَافِكُمْ وَيَرِثَ دُنْيَاكُمْ شِرَارُكُمْ

یہ حدیث حسن ہے۔

۱۹۹۲۔ حضرت ام سلمہؓ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتی ہیں کہ آپ ﷺ
نے اس لشکر کا ذکر کیا جو دھنسا دیا جائے گا۔ (یعنی اس پر عذاب نازل
ہوگا) ام سلمہؓ نے عرض کیا: ممکن ہے کہ اس میں بعض لوگ مجبور بھی
ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ لوگ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں
گے۔ (۱)

۱۹۹۲۔ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ نَا سَفِيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ سُوْقَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ الْحَيْشَ الَّذِي
يُخَسَفُ بِهِمْ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لَعَلَّ فِيهِمْ الْمُكْرَهَةَ قَالَ
إِنَّهُمْ يُبْعَثُونَ عَلَيَّ نِيَاتِهِمْ

یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے اور نافع سے بھی عائشہ کے واسطے سے مرفوعاً نقل کی گئی ہے۔

باب ۱۴۰۲۔ برائی ختم کرنے کے درجے۔

باب ۱۴۰۲۔ مَا جَاءَ فِي تَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ بِالْيَدِ
أَوْ بِاللِّسَانِ أَوْ بِالْقَلْبِ

۱۹۹۳۔ حضرت طارق بن شہابؓ کہتے ہیں کہ جس نے سب سے پہلے
نماز سے پہلے خطبہ دینا شروع کیا وہ مروان تھا چنانچہ ایک شخص کھڑا ہوا

۱۹۹۳۔ حَدَّثَنَا بَنْدَارٌ نَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ نَا
سَفِيَانَ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ

(۱) اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چند نیک لوگ جو اپنی قوم کے اعمال کی سزا میں ان کے ساتھ عذاب کا شکار ہو جائیں گے۔ ان کے ساتھ قیامت کے دن ان کی
نیٹوں جیسا ہی معاملہ کیا جائے گا۔ واللہ اعلم (مترجم)

اور مروان سے کہا کہ تم نے سنت کی مخالفت کی ہے۔ اس نے جواب دیا: اے فلاں سنت جسے تم ڈھونڈ رہے ہو چھوڑ دی گئی ہے۔ ابوسعیدؓ نے فرمایا: اس نے اپنا حق ادا کر دیا۔ (یعنی امر بالمعروف کا) اس لیے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ جو شخص کسی برائی کو دیکھے اسے ہاتھ سے روک دے۔ اگر ایسا نہ کر سکتا ہو تو زبان سے روکے اور اگر ایسا بھی نہ کر سکے تو دل میں اسے برا جانے اور یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۴۰۳۔ ۱۴۰۳۔ منہ

باب ۱۴۰۳۔ اسی سے متعلق۔

۱۹۹۴۔ حضرت نعمان بن بشیرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حد و اللہ پر قائم رہنے والے اور اس پر عمل نہ کرنے والے کی مثال اس قوم جیسی ہے جو قرعہ اندازی کر کے سمندر میں ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ بعض اوپر کی منزل پر بیٹھے اور بعض نیچے کی منزل پر تو جو لوگ نیچے تھے وہ لوگ پانی لینے کے لیے اوپر چڑھتے اور اوپر بیٹھنے والوں پر پانی گرا دیتے۔ چنانچہ اوپر والوں نے کہا کہ ہم تمہیں پانی لینے کی اجازت نہیں دیتے کیونکہ تم لوگ اوپر آ کر ہمیں تکلیف دیتے ہو۔ اس پر نیچے والے کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ہم نیچے سے کشتی میں ایک سو راخ کر لیتے ہیں اس میں سے پانی لے لیں گے پھر اگر وہ لوگ ان کے ہاتھ پکڑ کر انہیں سو راخ کرنے سے روک دیں گے تو سب محفوظ رہیں گے ورنہ سب کے سب غرق ہو جائیں گے۔ (۱)

قَالَ أَوَّلُ مَنْ قَدَّمَ الْخُطْبَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرُوانٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ لِمَرُوانٍ خَالَفْتَ السُّنَّةَ فَقَالَ يَا فُلَانُ تَرَكَ مَا هُنَاكَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أضعفُ الْإِيمَانِ

۱۹۹۴۔ حدثنا احمد بن منيع نا معاوية عن الاعمش عن الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْمُدَّهِنِ فِيهَا كَمِثْلِ قَوْمٍ نَاسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينِهِ فِي الْبَحْرِ فَاصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَاصَابَ بَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا يَصْعَدُونَ فَيَسْتَقُونَ الْمَاءَ فَيَصُبُّونَ عَلَى الَّذِينَ فِي أَعْلَاهَا فَقَالَ الَّذِينَ فِي أَعْلَاهَا لَا نَدْعُكُمْ تَصْعَدُونَ فَتُؤَدُّونَنَا فَقَالَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِنَّا نَنْقُبُهَا فِي أَسْفَلِهَا فَتَسْتَقِي فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ فَمَنْعُواهُمْ نَجَوْا جَمِيعًا وَإِنْ تَرَكَوهُمْ غَرِقُوا جَمِيعًا

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۴۰۴۔ ظالم سلطان کے سامنے حق بات کہنا افضل ترین جہاد ہے۔

۱۹۹۵۔ حضرت ابوسعید خدریؓ، رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: عظیم ترین جہاد ظالم سلطان کے سامنے حق بات کہنا ہے۔

باب ۱۴۰۴۔ أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلِ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

۱۹۹۵۔ حدثنا القاسم بن دينار الكوفي نا عبد الرحمن ابن مصعب ابو يزيد نا اسرائيل عن محمد بن حجاج عن عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نِ الْحُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ كَلِمَةَ عَدْلِ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

(۱) یہ حدیث امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے وجوب پر دلالت کرتی ہے چنانچہ علماء اسے فرض کفایہ قرار دیتے ہیں۔ واللہ اعلم (مترجم)

اس باب میں ابوامامہؓ بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ ابوسعیدؓ کی حدیث حسن غریب ہے۔

باب ۱۴۰۵۔ سُؤَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا فِي أُمَّتِهِ

۱۹۹۶۔ حدثننا محمد بن بشار نا وهب بن جرير ثنا ابى قال سمعت النعمان بن راشد عن الزهرى عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن حبيب بن الأرت عن أبيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فاطماتها فقالوا يا رسول الله صليت صلاة لم تكن تصليتها قال أجل إنها صلاة رغبة و رهبة إني سألت الله فيها ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة سألته أن لا يهلك أمتي بسنة فأعطانيها وسألته أن لا يسلب عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها وسألته أن لا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها

۱۹۹۷۔ حدثننا قتيبة نا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابه عن ابي اسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لى الأرض فرأيت مشارقتها و مغاربتها و إن أمتى سيبغ ملكها ما زوى لى منها و أعطيت الكنزىن الأحمرة و الأبيص و إني سألت ربي لأمتى أن لا يهلكها بسنة عامة و أن لا يسلب عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم و إن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد و إني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكتهم بسنة عامة و لا أسلب عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم و لو اجتمع عليهم من أقطارها أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا و يسبى

یہ حدیث حسن ہے اور اس باب میں سعد اور ابن عمرؓ سے بھی حدیثیں کی گئی ہیں۔

۱۹۹۷۔ حضرت ثوبانؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین میرے سامنے کر دی اور میں نے اس کے مشرق و مغرب دیکھے۔ میری امت کی سلطنت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک یہ میرے سامنے سمیٹی گئی ہے اور مجھے دو خزانے عطا کیے گئے سرخ اور سفید (یعنی سونا، چاندی) پھر میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ میری امت کو ایک ہی مرتبہ قحط میں ہلاک نہ کرنا، ان کے علاوہ کسی اور دشمن کو ان پر مسلط نہ کرنا جو ساری امت کو ہلاک کر دے۔ اس پر رب ذوالجلال نے فرمایا: اے محمد (ﷺ) جب میں کسی چیز کا حکم دیتا ہوں تو وہ واپس نہیں لیا جاتا۔ میں نے تمہاری امت کو یہ عطا کر دیا ہے کہ میں انہیں قحط عام سے ہلاک نہیں کروں گا اور ان کے علاوہ کسی ایسے دشمن کو ان پر مسلط نہیں کروں گا جو ان کی پوری جماعت کو ہلاک کر دے۔ خواہ تمام اہل زمین ہی اس پر متفق کیوں نہ ہو جائیں۔ لیکن انہی میں سے بعض لوگ دوسروں کو ہلاک کریں گے اور انہیں قید کریں گے۔

۱۹۹۷۔ حدثننا قتيبة نا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابه عن ابي اسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لى الأرض فرأيت مشارقتها و مغاربتها و إن أمتى سيبغ ملكها ما زوى لى منها و أعطيت الكنزىن الأحمرة و الأبيص و إني سألت ربي لأمتى أن لا يهلكها بسنة عامة و أن لا يسلب عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم و إن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد و إني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكتهم بسنة عامة و لا أسلب عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم و لو اجتمع عليهم من أقطارها أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا و يسبى

بَعْضُهُمْ بَعْضًا

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۴۰۶۔ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الْفِتْنَةِ

۱۹۹۸۔ حدثنا عمران بن موسى القزاز البصرى نا

عبدالوارث بن سعيد نا محمد بن حجاج عن

رجل عن طاؤس عن أم مالك البهريّة قالت ذكر

رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة ففرت بها قالت

قلت يا رسول الله من خير الناس فيها قال رجل في

ما شئته يودى حقها ويعد ربه ورجل أخذ برأس

فرسه يخيف العدو ويخيمونه

باب ۱۳۰۶۔ جو شخص فتنے کی وقت ہو اس کے متعلق۔

۱۹۹۸۔ حضرت ام مالک بہریہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فتنے کا

ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ بہت قریب ہے۔ میں نے عرض کیا: اس دور میں

کون بہترین شخص ہوگا؟ فرمایا: وہ شخص جو اپنے جانوروں میں ہوگا اور

ان کا حق ادا کرتے ہوئے اپنے رب کی عبادت کرے گا۔ دوسرا وہ شخص

جو اپنے گھوڑے کو پکڑ کر دشمن کو ڈرانا ہوگا اور وہ اسے ڈرانا ہے ہوں

گے۔

اس باب میں ام مہشر، ابوسعید خدری اور ابن عباس سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث اس سند سے غریب ہے۔ لیث بن ابی

سلم بھی اسے طاؤس سے اور وہ نبی اکرم ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔

۱۹۹۹۔ حضرت عبد اللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ایک فتنہ ایسا ہوگا جو عرب کو گھیر لے گا، اور اس میں قتل ہونے والے

دو زخمی ہوں گے۔ اس میں تلوار سے زیادہ زبان شدید ہوگی۔ (یعنی اس

زمانے میں کلمہ حق کہنا کسی پر تلوار نکالنے سے زیادہ شدید ہوگا)۔ واللہ

اعلم (مترجم)

۱۹۹۹۔ حدثنا عبد الله بن معاوية الحمصي نا

حماد بن سلمة عن ليث عن طاؤس عن زياد بن

سيمين كوش عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم تكون الفتنه تستنطف

العرب قتلاها في النار اللسان فيها اشد من السيف

یہ حدیث غریب ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ زیاد بن سیمین کی اس حدیث کے علاوہ کسی حدیث کو ہم نہیں پہچانتے کہ وہ لیث سے

نقل کرتے ہوں۔ حماد بن سلمہ اسے لیث سے مرفوعاً اور حماد بن زیاد نبی سے موقوفاً نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۳۰۷۔ امانت داری کا اٹھ جانا۔

۲۰۰۰۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے دو حدیثیں

بیان کیں ان میں سے ایک میں نے دیکھی اور دوسری کا انتظار کر رہا

ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: مردوں کے دلوں میں پہلے امانت (ایمان

اور پھر قرآن نازل ہوا ہے چنانچہ انہوں نے امانت کا حق قرآن سے

بھی پہچانا اور سنت سے بھی۔ پھر آنحضرت ﷺ نے ہمیں رفع امانت

کے متعلق بتاتے ہوئے فرمایا: کوئی شخص ایک مرتبہ سوائے گا تو اس کے

دل سے امانت کا اثر چھین لیا جائے گا اور صرف ایک دھبہ باقی رہ

جائے گا۔ پھر ایک مرتبہ اور سوائے گا تو امانت اور چھین لی جائے گی۔

باب ۱۴۰۷۔ مَا جَاءَ فِي رَفْعِ الْأَمَانَةِ

۲۰۰۰۔ حدثنا هناد نا ابو معاوية عن الاعمش عن

زيد بن وهب عن حذيفة قال حدثنا رسول الله

صلى الله عليه وسلم حديثين قد رايت احدهما و

انا انتظر الآخر حدثنا ان الامانة نزلت في حذر

قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن

وعلموا من السنة ثم حدثنا عن رفع الامانة فقال

ينام الرجل النومة فتقبض الامانة من قلبه فيظل

اثرها مثل الوكت ثم ينام نومة فتقبض الامانة

اور اس کا اثر گھنے کے برابر رہ جائے گا جیسے کہ تم انگارے کو اپنے پاؤں پر لڑھکا دو اور وہ چھالابن جائے لیکن اس میں کچھ نہ ہو۔ (۱) پھر آپ ﷺ نے ایک کنکری اٹھائی اور اسے اپنے پاؤں پر لڑھکا کر دکھایا پھر فرمایا: جب صبح ہوگی تو لوگ خرید و فروخت کر رہے ہوں گے اور کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ امانت کو ادا کرے یہاں تک کہ کہا جائے گا: فلاں قبیلے میں ایک شخص امین ہے اور یہاں تک کہ کسی کی تعریف میں اس طرح کہا جائے گا: کتنا چست و چالاک آدمی ہے (یعنی کاروبار وغیرہ میں) جب کہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ راوی کہتے ہیں بے شک مجھ پر ایسا زمانہ آیا کہ میں بلا خوف و خطر خرید و فروخت کیا کرتا تھا۔ اگر کسی مسلمان کے پاس میرا حق رہ جاتا تو وہ خود مجھے واپس کر دیتا اور اگر یہودی اور نصرانی ہوتا تو ان کے سردار ہمیں ہمارا حق دلواتے۔ (یعنی آنحضرت ﷺ کا زمانہ) لیکن آج کل میں کسی سے معاملات نہیں کرتا۔ ہاں البتہ فلاں اور فلاں شخص سے کر لیتا ہوں۔

فَيَطَّلُ أَثَرَهَا مِثْلَ أَثَرِ الْمَجْلِيِّ كَجَحْمٍ دَخَرَجْتَهُ عَلَى رَجُلِكَ فَفَقَطَّتْ فِتْرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ أَخَذَ حَصَاةً فَدَخَرَجَهَا عَلَى رَجُلِهِ فَقَالَ فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَّبِعُونَ لَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ حَتَّى يُقَالَ إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا وَحَتَّى يُقَالَ لِلرَّجُلِ مَا جَلَدَهُ وَأَطْرَفَهُ وَاعْقَلَهُ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ حَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ قَالَ وَلَقَدْ آتَى عَلِيٌّ زَمَانَ وَمَا أُبَالِي أَيْكُمْ بَايَعْتُ فِيهِ لِأَنَّ كَانَ مُسْلِمًا لِيُرِدَّنَهُ عَلِيٌّ دِينَهُ وَلَئِنْ كَانَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا لِيُرِدَّنَهُ عَلِيٌّ سَاعِيهِ فَمَا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ أَبَايَعُ مِنْكُمْ إِلَّا فُلَانًا وَقُلَانًا

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۴۰۸۔ لَتَرَكِبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ

۲۰۰۱۔ حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي نا سفيان عن الزهري عن سنان بن أبي سنان عن أبي واقيد الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين مرَّ بِشَجَرَةٍ لِلْمُشْرِكِينَ يُقَالُ لَهَا ذَاتُ أَنْوَاطٍ يُعَلِّقُونَ عَلَيْهَا أَسْلِحَتَهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَانَ اللَّهِ هَذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمُ الْهَيَّةُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَرَكِبُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ

باب ۱۴۰۸۔ امم سابقہ کی عادات اس امت میں بھی ہوں گی۔ ۲۰۰۱۔ حضرت ابو واقد لیثی فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم ﷺ غزوہ حنین کے لیے نکلے تو مشرکوں کے ایک درخت پر سے گزر ہوا اسے ذات انواط کہتے تھے۔ مشرکین اس پر اپنا اسلحہ لٹکایا کرتے تھے صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہمارے لیے بھی ذات انواط بنا دیجئے جیسے ان کے لیے ہے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: سبحان اللہ یہ تو اسی طرح ہے جیسے قوم موسیٰ نے ان سے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم لوگ امم سابقہ کے افعال کے مرتکب ہو گے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابو واقد لیثی کا نام حارث بن عوف ہے۔ اس باب میں ابوسعید اور ابو ہریرہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔

باب ۱۴۰۹۔ مَا جَاءَ فِي كَلَامِ السَّبَاعِ

باب ۱۴۰۹۔ مَا جَاءَ فِي كَلَامِ السَّبَاعِ

(۱) یہ مثال آپ ﷺ نے اس شخص کے متعلق بیان کی جس کے دل سے امانت نکل چکی ہوگی کہ وہ اس پھالے کی طرح بلند مرتبے والا معلوم ہوگا لیکن حقیقت میں اس میں امانت کا نام بھی نہیں ہوگا۔ (مترجم)

۲۰۰۲- حضرت ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی۔ جب تک درندے انسانوں سے بات نہیں کریں گے اور جب تک کسی شخص سے اسکے کوڑے کو پھندنا اور اس کا تمسہ وغیرہ بات نہیں کریں گے مزید یہ کہ اس کی ران اسے یہ بھی بتائے گی کہ اسکی عدم موجودگی میں اس کی بیوی نے کیا کیا

۲۰۰۲- حدثنا سفيان بن وكيع نا ابي عن القاسم بن الفضل نا ابو نصره العبدى عن ابي سعيد بن الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذى نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الانس وحتى يكلم الرجل عدته سوطه وشراك نعله وتخبيره فخذته بما حدثت اهله بعده

اس باب میں ابو ہریرہؓ سے بھی منقول ہے۔ مذکورہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ ہم اسے قاسم بن فضل کی روایت سے جانتے ہیں اور یہ ثقہ اور مامون ہیں۔ انہیں یحییٰ بن سعید اور عبد الرحمن بن مہدی ثقہ کہتے ہیں۔

باب ۱۲۱۰- چاند کے پھٹنے کے متعلق

۲۰۰۳- حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں چاند پھٹا اور آپ ﷺ نے فرمایا: گواہ ہو جاؤ۔ (۱)

باب ۱۴۱۰- مَا جَاءَ فِي انْشِقَاقِ الْقَمَرِ

۲۰۰۳- حدثنا محمود بن غيلان نا ابو داود عن شعبة عن الاعمش عن مُجاهد عن ابن عمر قال انفلق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشهدوا

اس باب میں ابن مسعودؓ، انسؓ اور جبر بن مطعمؓ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۲۱۱- زمین کے دھسنے کے متعلق۔

۲۰۰۳- حضرت حذیفہ بن اسیدؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اپنے حجرے سے ہم لوگوں کو قیامت کے متعلق بات چیت کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا: قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی۔ جب تک تم دس نشانیاں نہ دیکھ لو۔ ۱- سورج کا مغرب سے طلوع ہوتا۔ ۲- یا جوج، ماجوج ۳- جانور کا نکلنا۔ ۴- تین جگہ سے زمین کا دھسنا مشرق۔ ۵- مغرب اور ۶- جزیرہ عرب میں ۷- عدن کی جڑ سے آگ کا نکلنا جو آدمیوں کو ہانکے گی یا فرمایا: اکٹھا کرے گی اور ان کے ساتھ جہاں وہ رات گزاریں رات گزارے گی اور جہاں وہ قیلولہ کریں گے یعنی دو پہر گزاریں گے وہیں وہ بھی ٹھہرے گی۔ (۲)

باب ۱۴۱۱- مَا جَاءَ فِي الْخَسْفِ

۲۰۰۴- حدثنا بندار نا عبد الرحمن بن مهدى نا سفيان عن فرات الفزاز عن ابي الطفيل عن حذيفة بن اسيد قال اشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرقفة ونحن ننادى كرا الساعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات طلوع الشمس من مغربها ويا جوج ويا جوج والذابة وثلاث خسوف بالمشرق وخسوف بالمغرب وخسوف بجزيرة العرب وتخرج من قعر عدن نسوة الناس او تخشى الناس

(۱) چاند کا پھٹنا قیامت کی نشانی بھی ہے اور آنحضرت ﷺ کا حجرہ بھی چنانچہ جب کفار مکہ نے حجرہ طلب کیا تو آپ ﷺ نے انہیں چاند کا پھٹنا بطور حجروہ دکھایا اور فرمایا: گواہ رہنا لیکن کفار نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے ہم پر جادو کر دیا ہو لہذا مسافروں سے پوچھا تو انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی۔ واللہ اعلم (مترجم)

(۱) باقی نشانوں کے لیے اس حدیث کی توضیح ملاحظہ کیجئے اور ان کی تفسیر اس باب کے آخر میں مذکور ہے۔ (مترجم)

فَتَبَيَّنَتْ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا وَتَقَبَّلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا

محمود بن غیلان، وکیج سے اور وہ سفیان سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں اور اس میں آٹھویں چیز دھواں زیادہ نقل کرتے ہیں۔ ہناد بھی۔ ابواحوص سے اور وہ فرات قزاز سے وکیج کی سفیان سے منقول حدیث کے مثل نقل کرتے ہیں۔ محمود بن غیلان، ابوداؤد طیالسی سے وہ شعبہ سے اور مسعودی سے اور وہ فرات قزاز سے عبدالرحمن کی سفیان سے منقول حدیث کی مانند نقل کرتے ہوئے نویس، نشانی دجال کا ظہور اور دھویں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ اور ابوموسیٰ، ابوالنعمان سے وہ شعبہ سے اور وہ فرات سے شعبہ کی حدیث کے مثل نقل کرتے ہوئے دسویں نشانی بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک ہوا ہے جو انہیں اڑا کر دریا میں پھینک دے گی یا زول یسعی بن مریم ہے۔ اس باب میں علیؑ، ابو ہریرہؓ، ام سلمہؓ اور صفیہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۰۰۵۔ حدثنا محمود بن غیلان نا ابونعیم نا سفیان عن سئمة بن کھیل عن ابی ادريس المرهبي عن مسلم بن صفوان عن صفیة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتهي الناس عن غزو هذا البيت حتى يعزوا وخيش حتى اذا كانوا بالبيداء او بببداة من الارض خسف باولهم واجرهم ولم ينج او سبطهم قلت يا رسول الله فمن كره منهم قال يعنهم الله على ما في انفسهم

۲۰۰۵۔ حضرت صفیہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لوگ اس گھر پر چڑھائی کرنے سے اس وقت تک باز نہیں آئیں گے جب تک ایک لشکر اس طرف آکر بیدار یا فرمایا بیدار کی زمین پر پہنچ کر پورے کا پورا دھنس نہیں جائے گا۔ ان میں سے کوئی بھی نجات نہیں پاسکے گا۔ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! جو لوگ ان لوگوں میں سے اس فعل کو برا سمجھیں گے؟ فرمایا: اللہ تعالیٰ انہیں ان کے دلوں کے حال کے مطابق اٹھائیں گے۔ (یعنی ان کی نیتوں پر دار و مدار ہوگا ورنہ یہاں تو سب ہلاک ہو جائیں گے)۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۰۰۶۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس امت کے آخر میں (یہ عذاب نازل ہوں گے) دھنسا، چہرے مسخ ہونا اور آسمان سے پتھروں کی بارش ہونا۔ پھر کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! کیا ہم لوگ نیک لوگوں کی موجودگی کے باوجود ہلاک ہو جائیں گے۔ فرمایا: ہاں اگر برائی غالب آجائے گی تو۔

۲۰۰۶۔ حدثنا ابو کرب نا صیفی بن ربیع عن عبد الله بن عمر عن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في اخر هذه الامة خسف ومسح وقذف قالت قلت يا رسول الله انهلك وفتنا الصالحون قال نعم اذا ظهر الخبث

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے حضرت عائشہؓ کی روایت سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ عبد اللہ بن عمر کے حافظہ پر یحییٰ بن سعید اعتراض کرتے ہیں۔

توضیح: قیامت کی نشانیاں دو قسم کی ہیں ایک وہ جو قیامت کے قریب آنے کی علامت ہیں۔ جن میں سے رسول اللہ ﷺ کی بعثت سب سے پہلی نشانی ہے اور اس کے بعد باقی نشانوں میں سے دھواں، دجال کا نکلنا وغیرہ ہیں جب کہ دوسری قسم ان نشانوں کی ہے جو قیامت کے قائم ہونے پر دلالت کریں گی جیسے سورج کا مغرب سے نکلنا، زلزلے اور اس آگ کا نمودار ہونا ہے جو لوگوں کو گھیر کر حشر کی طرف لے جائے گی۔

حدیث میں جن دس نشانیوں کا ذکر ہے ان میں سے چند تفسیر طلب ہیں چنانچہ

(۱) دلہۃ الارض: سے مراد ایک عجیب المخلقت اور نادر شکل کا جانور ہے جو مسجد الحرام میں صفا و مروہ کے درمیان سے نکلے گا۔ اس کی شکل چوپائے کی سی ہوگی اور لمبائی ساٹھ گز ہوگی۔ جب کہ بعض علماء اس کے متعلق یہ تفسیر کرتے ہیں کہ اس کا چہرہ انسانوں کی طرح، پاؤں اونٹ کی طرح، گردن گھوڑے کی طرح، دم چیل کی طرح، سرین ہرن کی طرح، سینک بارہ سنے کی طرح اور ہاتھ بندر کی طرح ہوں گے۔ جب یہ نکلے گا تو صفایا یکا یک زلزلے سے پھٹ جائے گا اور اس میں سے یہ جانور نکلے گا۔

(۲) یاجوج ماجوج: یہ دو قبیلوں کے نام ہیں جنہیں ان کے فساد اور لوٹ مار کی وجہ سے ذوالقرنین نے ایک دیوار سے بند کر دیا تھا تاکہ لوگ ان کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ قیامت کے قریب یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ باہر نکل آئیں گے۔

(۳) آگ جو عدن سے نکلے گی: بعض حضرات کہتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ اس کی ابتداء شام سے ہوگی۔ یا یہ بھی ممکن ہے کہ ملک شام کو اس قدر وسیع و عریض کر دیا جائے کہ پورے عالم کے لوگ اس میں جمع ہو جائیں گے۔

(۴) دھوئیں کی نشانی کے متعلق علماء کا کہنا ہے کہ یہ بہت بڑا دھواں ہے جو مشرق سے مغرب تک تمام زمین پر چھا جائے گا۔ اور چالیس روز تک چھایا رہے گا۔ جس کے اثر سے منافقین و کفار بیہوش ہو جائیں گے، جب کہ مسلمان صرف دماغ و حواس کی کدورت اور زکام میں مبتلا ہوں گے۔

(۵) ایک ایسی ہوا چلے گی جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ لوگ کفار ہوں گے اور ان کو ہانکنے والی آگ اس ہوا کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی تاکہ ان کفار کو سمندر میں دھکیلنے کا عمل تیزی سے پورا ہو۔

(۶) دھننے کے عذاب: ابن مالک کہتے ہیں کہ عذاب کے طور پر زمین کا دھنس جانا مختلف زمانوں اور مختلف علاقوں میں واقع ہو چکا ہے لیکن احتمال ہے کہ یہ تین خسوف ظاہر ہوں گے اور پہلوں سے زیادہ شدید ہوں گے۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۱۳۱۲۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔

۲۰۰۷۔ حضرت ابوذرؓ فرماتے ہیں کہ میں غروب آفتاب کے بعد مسجد میں داخل ہوا تو آنحضرت ﷺ تشریف فرما تھے۔ فرمانے لگے: ابوذر جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا: یہ سجدے کی اجازت لینے کے لیے جاتا ہے اور اسے اجازت دے دی جاتی ہے گویا کہ پھر حکم دیا جائے گا کہ وہیں سے طلوع کرو جہاں سے آئے ہو۔ اس طرح وہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ پھر آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھی۔ ”ذٰلِكَ مُسْتَقَرُّهَا“ یعنی یہی اس کا مستقر ہے راوی کہتے ہیں کہ یہ ابن مسعودؓ کی قراءت ہے۔

باب ۱۴۱۲۔ مَا جَاءَ فِي طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا
۲۰۰۷۔ حَدَّثَنَا هناد نا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم التيمي عن ابيه عن ابي ذر قال دخلت المسجد حين غابت الشمس والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فقال يا ابا ذر اتدرى اين تذهب هذه قال قلت الله ورسوله اعلم قال فانها تذهب لتستأذن في السجود فيؤذن لها وكانها قد قيل لها اطلعي من حيث جئت فتطلع من مغربها قال ثم قرء ذلك مستقرا لها وقال ذلك قراءه عبد الله ابن مسعود

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں صفوان بن صفوان بن عسال، حذیفہ بن اسید، انس اور ابو موسیٰ سے بھی احادیث منقول ہیں۔

باب ۱۳۱۳۔ یاجوج ماجوج کا نکلنا

۲۰۰۸۔ حضرت زینب بنت جحش فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ

باب ۱۴۱۳۔ مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ يَاجُوجَ وَمَا جُوجَ
۲۰۰۸۔ حَدَّثَنَا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي

نیند سے بیدار ہوئے تو آپ ﷺ کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا پھر آپ ﷺ نے تین مرتبہ ”لا الہ الا اللہ“ پڑھا اور فرمایا: عرب کے لیے اس شر سے ہلاکت ہے جو قریب ہو گیا ہے۔ آج کے دن یا جوج ماجوج کو روکنے والی دیوار میں اس کے برابر سوراخ ہو گیا ہے اور پھر آپ ﷺ نے انگلی سے گول دائرے کا نشان بنا کر دکھایا۔ زینب فرماتی ہیں: میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! ہم صالحین کے ہونے کے باوجود ہلاک کر دیئے جائیں گے۔ فرمایا: ہاں! اگر برائی غالب ہو جائے گی تو۔

وغير واحد قالوا اخبرنا سفیان عن الزهر عن عروة عن زينب بنت ابی سلمة عن حبيبة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوم محمرا وجهه وهو يقول لا اله الا الله يرددها تلك مرات ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه وعقد عشرًا قالت زينب قلت يا رسول الله افنهلك وينا الصالحون قال نعم اذا كثر الخبث

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سفیان نے اسے جید قرار دیا ہے۔ حمیدی، سفیان کا قول نقل کرتے ہیں کہ میں نے زہری کی اس سند سے چار عورتوں کو یاد کیا ہے۔ زینب بنت ابوسلمہ کو جو حبیبہ سے نقل کرتی ہیں اور یہ دونوں نبی کریم ﷺ کی بیویاں ہیں۔ معمر، زہری سے یہی حدیث نقل کرتے ہوئے حبیبہ کا ذکر نہیں کرتے۔

باب ۱۴۱۴۔ ما جاء في فرقة المارقة

۲۰۰۹۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آخری زمانے میں ایک قوم پیدا ہوگی جس میں جوان جوان کم عقل لوگوں کی کثرت ہوگی۔ وہ لوگ قرآن تو پڑھیں گے لیکن یہ ان کے خلق سے نیچے نہیں اترے گا یہ لوگ (رسول کریم ﷺ) والی بات کہیں گے لیکن دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے۔

۲۰۰۹۔ حدثنا ابو كريب نا ابو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في اخر الزمان قوم احدث الاسنان سفهاء الاحلام يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم يقولون من قول خير البرية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية

اس باب میں علیؑ، ابوسعیدؓ اور ابو ذرؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس حدیث کے علاوہ بھی کئی حدیثوں میں ان کے اوصاف مذکور ہیں کہ یہ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن یہ ان کی ہنسی سے تجاوز نہیں کرے گا اور دین سے اس طرح نکل جائیں گے۔ جیسے تیر شکار سے۔ یہ درحقیقت خوارج کا فرقہ حرور یہ اور دوسرے خوارج ہیں۔

باب ۱۴۱۵۔ ما جاء في الآخرة

۲۰۱۰۔ حضرت اسید بن حضیرؓ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری نے عرض کیا:

۲۰۱۰۔ حدثنا محمود بن غيلان نا ابو داود نا

(۱) خوارج ایک فرقہ ہے جس کا ظہور حضرت علیؑ کے زمانے میں مسئلہ تحکیم سے ہوا۔ یہ لوگ حضرت علیؑ، حضرت معاویہؓ، ابوموسیٰؓ، عمرو بن عاصؓ اور صحابہ کی ایک بڑی جماعت کو کافر سمجھتے ہیں۔ نعوذ باللہ انہیں مارتا اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی صفت میں حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: ”يمرقون من الدين“ جب کہ خوارج کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے حضرت علیؑ کے خلاف خروج کیا اور علم بغاوت بلند کیا۔ حرورہ ایک جگہ کا نام ہے جس میں یہ لوگ جا کر آباد ہوئے۔ صاحب اشاعہ کہتے ہیں کہ ان کی باقیات میں سے ترامط، باطنیہ اور اسماعیلیہ ہیں۔ بعض علماء ان کے پندرہ فرق اور بعض اس سے بھی زیادہ بیان کرتے ہیں ان کی اکثریت عمان، موصل، حضرموت اور نواحی عرب میں آباد ہے۔ (مترجم)

(۲) اثرہ سے مراد لوگ ہیں جو صحابہ کرامؓ پر دوسرے لوگوں کو مقدم کریں گے۔ واللہ اعلم (مترجم)

یا رسول اللہ ﷺ آپ نے فلاں شخص کو استعمال کیا جب کہ مجھ سے یہ کام نہیں لیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: بے شک تم لوگ میرے بعد اثرہ کو دیکھو گے لہذا مجھ سے حوض پر ملاقات کرنے تک صبر کرنا۔

شعبة عن قتادة نا انس بن مالك عن أسيد بن حضير أن رجلاً من الأنصار قال يا رسول الله استعملت فلاناً ولم تستعملني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۰۱۱۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم لوگ میرے بعد اثرہ بھی دیکھو گے اور ایسے بہت سے کام دیکھو گے جنہیں تم اچھا نہیں سمجھو گے۔ صحابہؓ نے پوچھا: آپ ﷺ میں اس وقت کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا: تم ان حاکموں کا حق ادا کرنا (یعنی ان کی اطاعت کرنا اور ان کے خلاف بغاوت نہ کرنا اور اپنا حق خدا سے مانگنا)

۲۰۱۱۔ حدثنا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد عن الاعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون بعدي أثره وأموراً تنكرونها قالوا فما تأمرنا قال أدوا إليهم حقهم وأسألوا الله الذي لكم

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۴۱۶۔ آپ ﷺ کا صحابہؓ کو قیامت تک کی خبریں دینے کے متعلق

باب ۱۴۱۶۔ ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيمة

۲۰۱۲۔ حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ نے عصر کی نماز پڑھائی اور پھر خطاب فرمایا جس میں آپ ﷺ نے قیامت تک واقع ہونے والی کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ چنانچہ جس نے یاد کر لیا، یاد کر لیا اور جو بھول گیا بھول گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: دنیا بڑی سرسبز و شاداب اور میٹھی ہے اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو آسندہ آنے والے لوگوں کا خلیفہ بنانے والے ہیں پھر وہ دیکھیں گے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو، خبردار: دنیا اور عورتوں سے پرہیز کرو۔ خبردار: کسی شخص کو کسی چیز کا علم ہونے کے بعد لوگوں کی بیعت حق بات کہنے سے باز نہ رکھے۔ راوی کہتے ہیں کہ ابوسعید یہ حدیث بیان کرتے ہوئے رونے لگے اور فرمایا کہ اللہ کی قسم ہم بہت چیزوں سے ڈر گئے آپ نے فرمایا: جان لو کہ قیامت کے دن ہر عہد شکن کے لیے اس کی عہد شکنی کے مطابق جہنم نصیب کیا جائے گا اور امام عام سے بد عہدی کرنے والا سب سے بڑا عہد شکن ہے اس کا جہنم اس کی پشت پر لگایا جائے گا۔ ابوسعید فرماتے ہیں کہ اس دن جو چیزیں ہم نے یاد کیں ان میں آپ ﷺ کا یہ فرمان بھی

۲۰۱۲۔ حدثنا عمران بن موسى القزاز البصرى نا حماد بن زيد نا على بن زيد أبى عن نصره عن أبي سعيد بن الخدري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً صلوة العصر بنهار ثم قام خطيباً فلم يدع شيئاً يكون إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه فكان فيما قال إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء وكان فيما قال ألا لا تمنعن رجلاً هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه قال فبكى أبو سعيد فقال قد والله رأينا أشياء فهبنا وكان فيما قال ألا إنه ينصب لكل غدير لواء يوم القيمة بقدر غدرته ولا غدره أعظم من غدره إمام عامة يركز لواءه عند إسنه وكان فيما حفظنا يومئذ ألا إن

بَنِي آدَمَ خَلِقُوا عَلَى طَبَقَاتٍ شَتَّى فَمِنْهُمْ مَنْ يُؤَلِّدُ
 مُؤَمِّناً وَيُحْيِي مُؤَمِّناً وَيَمُوتُ مُؤَمِّناً وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤَلِّدُ
 كَافِراً وَيُحْيِي كَافِراً وَيَمُوتُ كَافِراً وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤَلِّدُ
 مُؤَمِّناً وَيُحْيِي مُؤَمِّناً وَيَمُوتُ كَافِراً وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤَلِّدُ
 كَافِراً وَيُحْيِي كَافِراً وَيَمُوتُ مُؤَمِّناً أَلَا وَإِنَّ مِنْهُمْ
 بَطِيئَةَ الْغَضَبِ سَرِيعَ الْفَيْءِ وَمِنْهُمْ سَرِيعَ الْغَضَبِ
 سَرِيعَ الْفَيْءِ فَتِلْكَ بِتِلْكَ أَلَا وَإِنَّ مِنْهُمْ سَرِيعَ
 الْغَضَبِ بَطِيئَةَ الْفَيْءِ أَلَا وَخَيْرُهُمْ بَطِيئَةُ الْغَضَبِ
 سَرِيعَ الْفَيْءِ وَشَرُّهُمْ سَرِيعَ الْغَضَبِ بَطِيئَةَ الْفَيْءِ أَلَا
 وَإِنَّ مِنْهُمْ حَسَنَ الْقَضَاءِ حَسَنَ الطَّلَبِ وَمِنْهُمْ سَيِّئُ
 الْقَضَاءِ حَسَنَ الطَّلَبِ وَمِنْهُمْ حَسَنَ الْقَضَاءِ سَيِّئُ
 الطَّلَبِ فَتِلْكَ بِتِلْكَ أَلَا وَإِنَّ مِنْهُمْ سَيِّئُ الْقَضَاءِ
 السَّيِّئُ الطَّلَبِ أَلَا وَخَيْرُهُمْ حَسَنَ الْقَضَاءِ حَسَنُ
 الطَّلَبِ أَلَا وَشَرُّهُمْ سَيِّئُ الْقَضَاءِ سَيِّئُ الطَّلَبِ أَلَا
 وَإِنَّ الْغَضَبَ جَمْرَةٌ فِي قَلْبِ ابْنِ آدَمَ أَمَا رَأَيْتُمْ إِلَى
 حُمْرَةِ عَيْنَيْهِ وَإِتْفَاحِ أَوْدَاجِهِ فَمَنْ أَحْسَسَ بِشَيْءٍ مِنْ
 ذَلِكَ فَلْيُلْصِقْ بِالْأَرْضِ قَالٌ وَجَعَلْنَا نَلْتَفِتُ إِلَى
 الشَّمْسِ هَلْ بَقِيَ مِنْهَا شَيْءٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا فِيمَا مَضَى
 مِنْهَا إِلَّا كَمَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا فِيمَا مِنْهُ

یہ حدیث حسن ہے۔

تھا کہ آگاہ ہو جاؤ! انسان کئی طبقات پر پیدا ہوئے ہیں ان میں سے
 بعض مؤمن پیدا ہوتے ہیں مؤمن ہی کی حیثیت سے زندہ رہتے ہیں اور
 مؤمن ہی مرتے ہیں جب کہ بعض کافر پیدا ہوتے ہیں اسی حیثیت سے
 جیتے ہیں اور اس پر ہی مرتے ہیں، بعض ایسے بھی ہیں جو مؤمن ہی پیدا
 ہوتے ہیں اور اسی حیثیت سے جیتے ہیں لیکن مرتے کافر ہو کر ہیں۔ پھر
 ان کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کافر پیدا ہوتا ہے کافر بن کر زندگی گزارتا
 ہے لیکن خاتمہ ایمان پر ہو جاتا ہے۔ انہی میں سے کچھ ایسے ہیں جنہیں
 دیر سے غصہ آتا ہے اور جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ جب کہ بعض غصے کے
 بھی تیز ہوتے ہیں اور ٹھنڈے بھی جلدی ہو جاتے ہیں اور یہ دونوں
 برابر برابر ہیں۔ انہی میں ایسا طبقہ بھی ہے جو جلدی غصے میں آجاتا ہے
 لیکن دیر سے اس کا اثر ناکل ہوتا ہے۔ ان میں سب سے بہتر دیر سے
 غصے میں آنے والے اور جلدی ٹھنڈے ہونے والے ہیں جب کہ سب
 سے بدتر جلدی غصہ میں آنے والے اور دیر سے ٹھنڈے ہوتے ہیں۔
 یہ بھی جان لو کہ ان میں بعض لوگ جلدی قرض ادا کرنے والے اور
 سہولت کے ساتھ ہی تقاضا کرنے والے ہیں (یعنی جب وہ کسی کو قرض
 دیتے ہیں) بعض قرض کی ادائیگی میں برے ہیں لیکن تقاضا حسن و خوبی
 ہی کے ساتھ کرتے ہیں۔ تیسرا طبقہ ایسا بھی ہے جو ادائیگی میں تو ٹھیک
 ہے لیکن تقاضے میں برا ہے جب کہ کچھ ایسے بھی جو مانگنے میں بھی برے
 ہیں اور ادا کرنے میں بھی صحیح نہیں۔ جان لو کہ ان میں سے سب سے
 بہتر بحسن و خوبی تقاضا کرنے والے اور ادا کرنے والے اور ان میں
 سے بدترین وہ ہیں جو دونوں چیزوں میں برے ہیں۔ خیر دار! غضب
 ابن آدم کے دل میں ایک چنگاری ہے کیا تم اس کی آنکھوں کی سرخی اور
 اس کی گردن کی رگوں کے پھولنے کو نہیں دیکھتے۔ لہذا اگر کسی کو غصہ
 آنے لگے تو زمین سے لپٹ جائے تاکہ اسے اپنی حیثیت کا یقین
 ہو جائے۔ راوی کہتے ہیں ہم نے سورج کو دیکھنا شروع کر دیا کہ کچھ
 باقی ہے یا غروب ہو گیا۔ چنانچہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جان لو! دنیا
 کی باقیات گزرے ہوئے زمانے کی بہ نسبت اتنی ہی رہ گئی ہیں جتنا
 تمہارا آج کا دن گزرے ہوئے پورے دن کی بہ نسبت۔

اس باب میں مغیرہ بن شعبہ، ابو یزید بن اخطب، حدیفہ اور ابو مریم بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ تمام راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے قیامت تک ہونے والے واقعات کی خبر دی۔

باب ۱۴۱۷۔ مَا جَاءَ فِي أَهْلِ الشَّامِ

باب ۱۴۱۷۔ اہل شام کی فضیلت

۲۰۱۳۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ ابْنُ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَسَدَ أَهْلُ الشَّامِ فَلَا خَيْرَ فِيكُمْ لِأَنْزَالِ طَائِفَةٍ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ هُمْ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ

۲۰۱۳۔ حضرت قرۃ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر اہل شام خراب ہو جائیں تو پھر لوگوں میں بھی خیر و بھلائی نہیں نیز میری امت میں سے ایک فرقہ ایسا ہے جس کی ہمیشہ مدد و نصرت ہوتی رہے گی اور کسی کا ان کی مدد نہ کرنا انہیں نقصان نہیں۔ پہنچائے گا۔ یہاں تک کہ قیامت قائم ہو۔ امام بخاری علی بن مدینی سے نقل کرتے ہیں کہ یہ فرقہ محدثین کا ہے۔

اس باب میں عبد اللہ بن حوالہ، زید بن ثابت، ابن عمر اور عبد اللہ بن عمرو سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۰۱۴۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ نَا بَهْزُبْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آيْنَ تَأْمُرُنِي قَالَ لَهْنَا وَنَحَا بِيَدِهِ نَحْوَ الشَّامِ

۲۰۱۴۔ حضرت بہز بن حکیم اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ آپ ﷺ مجھے کہاں قیام کا حکم دیتے ہیں؟ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے اپنے دست مبارک سے شام کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا: اس طرف۔ (۱)

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۴۱۸۔ لَا تَرَجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

باب ۱۴۱۸۔ میرے بعد کافر ہو کر ایک دوسرے کو قتل نہ کرنے لگ جانا۔

۲۰۱۵۔ حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ نَا فَضِيلُ بْنُ غَزْوَانَ ثَنَا عِكْرِمَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَرَجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

۲۰۱۵۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میرے بعد دوبارہ کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو۔

اس باب میں عبد اللہ بن مسعود، جریر، ابن عمر، کرز بن علقمہ، وائلہ بن اسقع اور صابغی بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۴۱۹۔ مَا جَاءَ أَنَّهُ تَكُونُ فِتْنَةُ الْقَائِدِ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ

باب ۱۴۱۹۔ ایسا قز جس میں بیٹھارہنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا۔

۲۰۱۶۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عِيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ

۲۰۱۶۔ حضرت بسر بن سعید، سعد بن ابی وقاص سے نقل کرتے ہیں کہ

(۱) شام کی فضیلت میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ حضرت ابراہیم نے بھی ہجرت کے لیے اسی کو اختیار کیا۔ پھر اکثر انبیاء وہیں سے مبعوث ہوئے اور اس زمین میں اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

عثمان بن عفانؓ نے آنحضرت ﷺ کا یہ قول نقل کیا کہ فرمایا: ایک ایسا فتنہ آنے والا ہے جس میں بیٹھا رہنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر، کھڑا رہنے والا چلنے والے سے بہتر اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ انہوں نے عرض کیا: اگر کوئی میرے گھر میں داخل ہو اور مجھے قتل کرنے لگے تو میں کیا کروں؟ فرمایا: حضرت آدمؑ کے بیٹے ہابیل کی طرح ہو جاؤ جو اپنے بھائی کے ہاتھوں قتل ہوا۔

عن بکیر بن عبداللہ بن الأشج عن بسر بن سعید أنّ سعد بن ابی وقاص قال عند فتنۃ عثمان بن عفان أشهد أنّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال إنّها ستکون فتنۃ القاعد فیہا خیر من القائم والقائم خیر من الماشی والماشی خیر من الساعی قال آفرء یت إن دخل علی بیتی وبسط یدہ الی لیقتلنی قال کن کابن آدم

اس باب میں ابو ہریرہؓ، جناب بن ارتؓ، ابوبکرؓ، ابن مسعودؓ، ابو واقدؓ، ابو موسیٰؓ اور خرشہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے اور بعض راوی اسے لیث بن سعدؓ سے نقل کرتے ہوئے ایک راوی کا اضافہ کرتے ہیں۔ پھر یہ آنحضرت ﷺ کے واسطے سے سندوں سے منقول ہے۔

باب ۱۴۲۰۔ ایک فتنہ ایسا ہوگا جو اندھیری رات کی طرح ہوگا۔

باب ۱۴۲۰۔ مَا جَاءَ سَتَكُونُ فِتْنَةٌ كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ

۲۰۱۷۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اعمال صالحہ میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ اندھیری رات کی طرح فتنے تم لوگوں کو گھیر لیں۔ جن میں انسان صبح مؤمن اور شام کو کافر ہو جائے گا۔ پھر شام کو مؤمن ہوگا لیکن صبح تک کافر ہو جائے گا اور اپنے دین کو دنیا و فانی کے تھوڑے سے مال کے عوض بیچ دے گا۔

۲۰۱۷۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتْنًا كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ أَحَدُهُمْ دِينَهُ بَعْرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۰۱۸۔ حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ رات کو نیند سے بیدار ہو گئے اور فرمایا: سبحان اللہ: آج کی رات کتنے کتنے نازل ہوئے اور کتنے خزانے اترے۔ کون ہے جو ازواجِ مطہرات کو جگائے کہ بہت سی بدن کو اوڑھنے والیاں (۱) آخرت میں تنگی ہوں گی۔

۲۰۱۸۔ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ نَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ نَا مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ هِنْدِ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَيْقَظَ لَيْلَةً فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا أَنْزَلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتْنَةِ مَاذَا أَنْزَلَ مِنَ الْخِزَائِنِ وَمَنْ يُؤْفَظُ صَوَابَ الْحُجُرَاتِ يَأْرَبُ كَأَسِيَّةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةً فِي الْآخِرَةِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(۱) ان عورتوں سے مراد ایسے کپڑے پہننے والی، مال حرام سے لباس بنانے والی اور اس طرح کپڑے پہننے والی عورتیں مراد ہیں جن کے اعضاء نہیں چھتے۔ (مترجم)

۲۰۱۹- حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے قریب ایسے فتنے واقع ہوں گے جو اندھیری رات کی طرح ہوں گے۔ ان میں انسان صبح مؤمن ہوگا تو شام کا کافر اور شام کو مؤمن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا۔ اور بہت سے لوگ تھوڑے سے مال کے عوض اپنا دین تک بیچ ڈالیں گے۔

۲۰۱۹- حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدِ بْنِ اَبِي حَبِيْبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ اَنْسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَكُوْنُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ فِتْنٌ كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيْهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِيْ كَافِرًا وَيُمْسِيْ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيْعُ اَقْوَامًا دِيْنَهُمْ بِعَرْضِ الدُّنْيَا

اس باب میں ابو ہریرہؓ، جناب نعمان بن بشیرؓ اور ابو موسیٰؓ بھی احادیث منقول کرتے ہیں یہ حدیث اس سند سے غریب ہے۔

۲۰۲۰- حضرت حسنؓ، آنحضرت ﷺ کے اس قول کے متعلق فرماتے تھے (صبح مؤمن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا..... الحدیث) کہ صبح کو اپنے بھائی کی جان، مال اور عزت کو اپنے اوپر حرام سمجھے گا لیکن شام کو حلال سمجھنے لگے گا۔ اور اسی طرح شام کو حرام سمجھتا ہوگا تو صبح حلال سمجھنے لگے گا۔ (۱)

۲۰۲۰- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ نَا جَعْفَرِ بْنِ سَلِيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ هَذَا الْحَدِيْثِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِيْ كَافِرًا وَيُمْسِيْ مُؤْمِنًا وَ يُصْبِحُ كَافِرًا قَالَ يُصْبِحُ مُحْرَمًا لِدَمِ اَخِيْهِ وَعَرْضِهِ وَمَالِهِ وَيُمْسِيْ مُسْتَحِلًّا لَهٗ وَيُمْسِيْ مُحْرَمًا لِدَمِ اَخِيْهِ وَعَرْضِهِ وَمَالِهِ وَيُصْبِحُ مُسْتَحِلًّا لَهٗ

۲۰۲۱- حضرت وائل بن حجرؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے ایک شخص کو یہ سوال کرتے ہوئے سنا کہ اگر ہم پر ایسے حاکم حکمرانی کرنے لگیں جو ہمیں ہمارا حق نہ دیں اور اپنا حق طلب کریں تو ہم کیا کریں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: سنو اور اطاعت کرو اس لیے کہ ان کا عمل ان کے ساتھ اور تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہوگا۔

۲۰۲۱- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَالُ نَا يَزِيْدِ بْنِ هَارُوْنَ نَا شُعْبَةَ عَنْ سَمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَاثِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلٌ يَسْأَلُهٗ فَقَالَ اَرَأَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَيْنَا اَمْرًا يَمْنَعُوْنَا حَقَّنَا وَيَسْئَلُوْنَا حَقَّهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْمَعُوْا وَاطِيعُوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حَمَلُوْا وَعَلَيْكُمْ مَا حَمَلْتُمْ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۳۳۱- قتل کے متعلق

باب ۱۴۲۱- مَا جَاءَ فِي الْهَرْجِ

۲۰۲۲- حضرت ابو موسیٰؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تمہارے بعد ایسا زمانہ آئے گا کہ اس میں علم اٹھالیا جائے گا اور ہرج کی کثرت ہوگی۔ عرض کیا: ہرج کیا ہے؟ فرمایا: قتل

۲۰۲۲- حَدَّثَنَا هِنَادُنَا أَبُو مَعَاوِيَةَ عَنْ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْبِ بْنِ اَبِيْ مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ مِنْ وَّرَائِكُمْ اَيَّامًا يَرْفَعُ فِيْهَا الْعِلْمُ وَيَكْتَثُرُ فِيْهَا الْهَرْجُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْهَرْجُ قَالَ الْقَتْلُ

اس باب میں ابو ہریرہؓ، خالد بن ولیدؓ اور معقل بن یسارؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۰۲۳۔ حضرت معقل بن یسارؓ رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ قتل کے ایام میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کی طرح ہے۔

۲۰۲۳۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْمَعْلِيِّ بْنِ زِيَادٍ رَدَّهُ إِلَى مَعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ فَرَدَّهُ إِلَى مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَدَّهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعِبَادَةُ فِي الْهَرَجِ كَهَجْرَةِ إِلَى

یہ حدیث صحیح غریب ہے ہم اسے صرف معقل بن یسارؓ کی روایت سے جانتے ہیں۔

۲۰۲۴۔ حضرت ثوبانؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب میری امت میں تلوار رکھ دی جائے گی تو پھر قیامت تک نہیں اٹھائی جائے گی۔

۲۰۲۴۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ أَيُّوبَ عَنِ أَبِي قَلَابَةَ عَنِ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثُوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَمْ يُرْفَعْ عَنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۳۲۲۔ لکڑی کی تلوار بنانے کا حکم

۲۰۲۵۔ عدیرہ بنت ابہان بن صیفی غفاری کہتی ہیں کہ حضرت علیؓ میرے والد کے پاس آئے اور انہیں لڑائی میں اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ میرے والد نے کہا: میرے دوست اور تمہارے چچا زاد بھائی رسول اکرم ﷺ نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ اگر لوگوں میں اختلافات ہو جائیں تو میں لکڑی کی تلوار بنا لوں۔ لہذا میں نے دو بنوائی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ چلوں تو میں تیار ہوں۔ عدیرہ فرماتی ہیں کہ حضرت علیؓ نے ان کو چھوڑ دیا۔

باب ۱۴۲۲۔ مَا جَاءَ فِي اتِّخَاذِ السَّيْفِ مِنْ حَشَبٍ

۲۰۲۵۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ نَا إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَدِيْسَةَ بِنْتِ أَهْبَانَ بْنِ صَيْفِيٍّ الْغِفَارِيِّ قَالَتْ جَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ إِلَى أَبِي قَدْعَاهُ إِلَى الْخُرُوجِ مَعَهُ فَقَالَ لَهُ أَبِي إِنَّ خَلِيلِي وَأَبْنَ عَمِّكَ عَهْدَ إِلَيَّ إِذَا اخْتَلَفَ النَّاسُ أَنْ اتَّخِذَ سَيْفًا مِنْ حَشَبٍ فَقَدْ اتَّخَذْتَهُ فَإِنْ شِئْتَ خَرَجْتُ بِه مَعَكَ قَالَتْ فَتَرَكْتَهُ

اس باب میں محمد بن سلمہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف عبداللہ بن عبید کی روایت سے جانتے ہیں۔

۲۰۲۶۔ حضرت ابو موسیٰؓ، آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ کہ آپ ﷺ نے فرمایا: فتنے کے زمانے میں اپنی کمائیں توڑ دینا، زین کو کاٹ دینا اور اپنے گھروں ہی میں رہنا۔ جس طرح ہاتیل بن آدم نے قتل ہونے پر صبر کیا تھا۔

۲۰۲۶۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَا سَهْلُ بْنُ حَمَادٍ نَا حَمَامُ نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَجَّادَةَ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثُرَوَانَ عَنِ هُرَيْبِ بْنِ شُرْحُبَيْلٍ عَنِ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْفِتْنَةِ كَسَبُوا فِيمَا قَسَبْتُمْ وَقَطَعُوا فِيهَا أَوْتَارَكُمْ وَالزَّمُوا فِيهَا أَجْوَانَ بِيوتِكُمْ وَكُونُوا كَأَبْنِ آدَمَ

(۱) ان کا مقصد یہی ہے کہ محرمات کو حلال سمجھنے لگے گا اور یہ کفر ہے۔ (مترجم)

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ عبد الرحمن بن ثروان، البوقیس اودی کا نام ہے۔

باب ۱۴۲۳۔ مَا جَاءَ فِي أَشْرَاطِ السَّاعَةِ

باب ۱۳۲۳۔ قیامت کی علامات

۲۰۲۷۔ حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا اور یہ حدیث میرے بعد کوئی ایسا شخص بیان نہیں کرے گا جس نے رسول اللہ ﷺ سے سنی ہو آپ ﷺ نے فرمایا: قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ علم اٹھ جائے گا۔ جہالت ظاہر وغالب ہو جائے گی۔ زنا رواج پکڑ جائے گا۔ شراب بکثرت استعمال ہوگی۔ عورتوں کی کثرت ہوگی اور مرد کم ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہ پچاس عورتوں کا نگران ایک ہی مرد ہوگا۔

۲۰۲۷۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَا النَّضْرُ بْنُ شَمِيلٍ نَا شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ أَحَدُنَا كُنْمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحَدِّثُنَا أَحَدٌ بَعْدِي أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيُظْهَرَ الْجَهْلُ وَيَفْشُوا الزَّانَا وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ وَيَقُلُّ الرِّجَالُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً قِيمَةٌ وَاحِدَةٌ

اس باب میں ابوموسیٰ اور ابو ہریرہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۰۲۸۔ حضرت زبیر بن عدی فرماتے ہیں کہ ہم انس بن مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حجاج سے ہونے والی شکایات بیان کیں فرمانے لگے۔ ہر سال سے اس کے بعد آنے والا سال بدتر ہوتا جائے گا۔ یہاں تک کہ قیامت آجائے گی۔ میں نے یہ آنحضرت ﷺ سے سنا۔

۲۰۲۸۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَفِيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ فَشَكَّوْنَا إِلَيْهِ مَا نَلْفَى مِنْ الْحَجَّاجِ فَقَالَ مَا مِنْ عَامٍ إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرُّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقُوا رَبَّكُمْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۰۲۹۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اس روئے زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے۔

۲۰۲۹۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ نَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ اللَّهُ اللَّهُ

یہ حدیث حسن ہے۔ محمد بن ثنیٰ اسے خالد بن حارث سے وہ حمید سے اور وہ انسؓ سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں لیکن یہ روایت مرفوع نہیں۔ اور پہلے والی زیادہ صحیح ہے۔

۲۰۳۰۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک آبائی احمق لوگ دنیا کے سعادت مند لوگ شمار نہ ہونے لگیں گے۔

۲۰۳۰۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو وَثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ نَا اسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ الْأَشْهَلِيِّ

عَنْ حَدِيثِ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقَوْمُ السَّاعَةَ حَتَّى يَكُونُوا أَسْعَدَ النَّاسِ بِالدُّنْيَا لُكْعُ بِنِ لُكْعِ

یہ حدیث حسن ہے۔ ہم اسے صرف عمرو بن عمرو کی روایت سے جانتے ہیں۔

۲۰۳۱۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: زمین اپنے جگر گوشوں کو تے کر دے گی یعنی اپنے خزانے اگل دے گی مثلاً سونے چاندی کے ستون وغیرہ پھر چور آئے گا، اور کہے گا کہ اسی کی وجہ سے میرا ہاتھ کاٹا گیا۔ پھر قاتل آئے گا اور کہے گا کہ اسی کے لیے میں نے قتل کیا اور پھر قاطع رحم آئے گا اور کہے گا کہ اسی کی وجہ سے میں نے قطع رحم کیا لہذا وہ لوگ اسے چھوڑ دیں گے اور اس میں سے کچھ نہیں لیں گے۔

۲۰۳۱۔ حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى نَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَارِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقِيءُ الْأَرْضُ أَفْلاذَ كَبِدِهَا أَمْثَالَ الْأَسْطُوانِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ قَالَ فَيَجِيءُ السَّارِقُ فَيَقُولُ فِي هَذَا قُطِعَتْ يَدِي وَيَجِيءُ الْقَاتِلُ فَيَقُولُ فِي هَذَا قُتِلْتُ وَيَجِيءُ الْقَاطِعُ فَيَقُولُ فِي هَذَا قُطِعَتْ رَحْمِي ثُمَّ يَدْعُوهُ فَلَا يَأْخُذُونَ مِنْهُ شَيْئًا

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ باب بلا عنوان۔

۲۰۳۲۔ حضرت علی بن ابی طالبؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر میری امت میں پندرہ خصالتیں آجائیں گی تو ان پر مصیبتیں نازل ہوں گی۔ پوچھا گیا: یا رسول اللہ ﷺ (ﷺ) اوہ کیا ہیں؟ فرمایا: جب مال غنیمت دولت ہو جائے گا۔ امانت کو لوگ غنیمت سمجھنے لگیں گے، زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا۔ شوہر بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرے گا۔ نیز اپنے دوست کے ساتھ وفا اور باپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے گا، مسجد میں لوگ زور زور سے باتیں کریں گے قوم کا زعمیم ان کا گھٹیا ترین آدمی ہوگا، کسی شخص کا اکرام اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے کیا جائے گا شراب پی جائے گی۔ ریشمی کپڑا پہنا جائے گا گانے والیاں اور باجے وغیرہ لے جائے جائیں گے اور امت کے آخری لوگ پہلوں پر لعنت بھیجیں گے۔ چنانچہ اس وقت لوگ عذابوں کے منتظر ہیں یا تو سرخ آندھی یا حسف (دھسنے کا عذاب) یا پھر چہرے مسخ ہو جانے والا عذاب۔

باب۔ ۲۰۲۴۔ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نَا الْفَرَحُ بْنُ فَضَالَةَ ابْنُ فَضَالَةَ الشَّامِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَعَلْتُ أُمَّتِي خَمْسَ عَشْرَةَ حَصَلَةً حَلَّ بِهَا الْبَلَاءُ قِيلَ وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا كَانَ الْمَغْنَمُ دُولًا وَالْأَمَانَةُ مَعْنَمًا وَالزُّكُوةُ مَعْرَمًا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْدَلَهُمْ وَأَكْرَمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ وَشَرِبَتِ الْخُمُورُ وَلَبَسَ الْحَرِيرُ وَأَتَّخَذَتِ التِّيَّانُ وَالْمَعَارِيفُ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوْلَهَا فَلْيُرْتَقَبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ أَوْ خَسْفًا أَوْ مَسْحًا

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے حضرت علیؓ کی روایت سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں نیز ہمیں علم نہیں کہ اسے فرخ بن فضالہ کے علاوہ کسی اور نے بھی بن سعید سے نقل کیا ہو۔ بعض محدثین فرخ کو ان کے حافظے کی وجہ سے ضعیف قرار دیتے ہیں۔ کجج اور کئی ائمہ ان سے احادیث نقل کرتے ہیں۔

۲۰۳۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب مال غنیمت کو دولت ٹھہرایا جائے، امانت کو غنیمت سمجھ لیا جائے، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جائے، غیر دینی علوم سکھائے جائیں، آدمی بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے اسی طرح دوست کے ساتھ وفا اور باپ کے ساتھ بے وفائی کرنے لگے۔ لوگ مسجد میں زور زور سے باتیں کریں، قبیلے کا سردار فاسق ہو۔ قوم کا زعم گھنیا آدمی ہو، کسی شخص کی عزت اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے کی جائے، گانے والیاں اور باجے رواج پکڑ جائیں، شرابیں پی جائیں، اور امت کے آخری لوگ گزرے ہوؤں کو برا بھلا اور ان پر لعنت ملامت کرنے لگیں تو پھر وہ لوگ سرخ آندھی، زلزلے، خسف، مسخ اور آسمان سے پتھر برسنے کے عذابوں کا انتظار کریں۔ اس وقت نشانیاں اس طرح ظاہر ہوں گی جیسے کسی پرانی (موتیوں کی) لڑی کا دھاگہ ٹوٹ جائے اور وہ پے در پے گرنے لگیں۔ (یعنی قیامت کی نشانیاں)

۲۰۳۳۔ حدثنا علی بن حجر نا محمد بن یزید عن المستلم ابن سعید عن رمیح الحزامی عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إذا اتخذ الفیء ذولاً والأمانة مغنماً والزکوۃ مغرمًا وتعلم لغير الدین و اطاع الرجل امرأته وعق امه و ادنی صدیقہ واقضى اباه وظہرت الاصوات فی المساجد وساد القبیلۃ فاسقہم وكان زعيم القوم ارذلہم واکرم الرجل مخافۃ شرہ وظہرت القینات والمعازف وشربت الخمر ولعن اجر هذه الامۃ اولہا فلیر تقبوا عند ذلک ریحاً حمراء وزلزلة وخسفاً ومسحاً وقذفاً وایات تتابع کنظام بال قطع سلکہ فتتابع

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

۲۰۳۴۔ حضرت عمران بن حصینؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس امت میں (تین عذاب آئیں گے۔ خسف، مسخ اور قذف۔ ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! کب؟ فرمایا: جب گانے والیوں اور باجوں کا رواج ہو جائے گا اور لوگ شرابیں پینے لگیں گے۔

۲۰۳۴۔ حدثنا عباد بن یعقوب الکوفی نا عبد اللہ بن عبد القدوس عن الاعمش عن ہلال بن یساف عن عمران بن حصین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی هذه الامۃ خسفٌ ومسحٌ وقذفٌ فقال رجلٌ من المسلمین یا رسول اللہ ومتی ذلک قال إذا ظہرت القینات والمعازف وشربت الخمر

یہ حدیث غریب ہے اور اعمش سے بھی عبدالرحمن بن سابط کے حوالے سے منقول ہے لیکن یہ مرسل ہے۔

باب ۱۴۲۵۔ آنحضرت ﷺ کی بعثت قیامت کے قرب کی نشانی ہے۔

باب ۱۴۲۵۔ ماجاء فی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت انا والساعة کھا تین

۲۰۳۵۔ مستورد بن شداد فہری، آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: میں اور قیامت ایک ساتھ مبعوث کیے گئے۔ لیکن میں اس پر درمیانی انگلی کی شہادت انگلی پر سبقت کی طرح سبقت لے گیا۔ (۱)

۲۰۳۵۔ حدثنا محمد بن عمر بن ہیاج الاسدی الکوفی نا یحیی بن عبدالرحمن الارحبی نا عبیدہ بن الاسود عن محالد عن قیس بن ابی حازم

(۱) اس مثال کی توضیح یہ ہے کہ دونوں انگلیوں کی جڑ ایک ہی جگہ سے شروع ہوتی ہے جب کہ آخر میں درمیانی انگلی شہادت کی انگلی پر لمبائی میں سبقت لے جاتی ہے۔ اور شہادت کی انگلی کچھ پیچھے رہ جاتی ہے چنانچہ قیامت بھی اتنی ہی پیچھے رہ گئی ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

الْمُسْتَوْرِدِينَ شَدَادِ الْفِهْرِيِّ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ أَنَا فِي نَفْسِ السَّاعَةِ فَسَبَقْتُهَا كَمَا سَبَقَتْ هَذِهِ هَذِهِ لِأَصْبَعِيهِ السَّبَابِيَةِ وَالْوُسْطَى

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے مستور بن شداد کی روایت سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

۲۰۳۶۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے پھر ابوداؤد نے اپنی شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی سے اشارہ کر کے بتایا اور فرمایا: ان دونوں میں کتنا کم فرق ہے۔

۲۰۳۶۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَا أَبُو دَاوُدَ أَنبَانَا شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَأَشَارَ أَبُو دَاوُدَ بِالسَّبَابِيَةِ وَالْوُسْطَى فَمَا فَضَّلَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْأُخْرَى

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۴۲۶۔ تریوں سے جنگ کے متعلق

باب ۱۴۲۶۔ مَا جَاءَ فِي قِتَالِ التُّرُكِ

۲۰۳۷۔ حضرت ابو ہریرہؓ، رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم لوگ ایک ایسی قوم سے جنگ نہیں کرو گے جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے پھر مزید فرمایا: کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ایسے لوگوں سے تمہاری جنگ نہ ہوگی جن کے چہرے ڈھالوں کی طرح چھپے ہوں گے۔

۲۰۳۷۔ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَبْدُ الْجَبَّارُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَا نَا سَفِيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نَعَالُهُمُ الشَّعْرُ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا كَأَنَّ وَجُوهُهُمْ الْمَجَالُ الْمُطْرَقَةُ

اس باب میں ابو بکر صدیقؓ، بریدہؓ، ابوسعیدؓ، عمرو بن تغلب اور معاویہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۴۲۷۔ کسری کی ہلاکت کے بعد کوئی کسری نہیں ہوگا۔

باب ۱۴۲۷۔ مَا جَاءَ إِذَا ذَهَبَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ

۲۰۳۸۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب قیصر و کسری ہلاک ہو جائیں گے تو ان کے بعد نہ کوئی قیصر آئے گا اور نہ کسری۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم لوگ قیصر و کسری کے خزانے جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرو گے۔ (۱)

۲۰۳۸۔ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَا سَفِيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرٌ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَنْفُقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(۱) قیصر، سلطان روم کا اور کسری شاہ فارس کا لقب تھا۔ ان کے اکثر علاقے حضرت عمرؓ اور عثمانؓ کے ادوار میں فتح ہوئے۔ (مترجم)

باب ۱۴۲۸۔ حجاز سے آگ نکلنے سے پہلے قیامت قائم نہیں ہوگی۔

قَبْلِ الْحِجَازِ

۲۰۳۹۔ حضرت سالم بن عبد اللہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حضرت موت یا فرمایا: حضرت موت کے سمندر کی طرف سے قیامت سے پہلے ایک آگ نمودار ہوگی جو لوگوں کو اکٹھا کرے گی۔ عرض کیا گیا: ہم لوگ اس وقت کیا کریں؟ فرمایا: شام میں سکونت اختیار کرنا۔

۲۰۳۹۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا حُسَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيَّ ثَنَا شَيْبَانٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَخْرُجُ نَارٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ أَوْ مِنْ نَحْوِ بَحْرِ حَضْرَمَوْتَ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ تَحْشُرُ النَّاسَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَأْمُرُنَا فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالشَّامِ

اس باب میں حذیفہ بن اسید، انس، ابو ہریرہ اور ابو ذر سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۱۴۲۹۔ تیس کذاب ظاہر ہونے سے پہلے قیامت نہیں آئے گی۔
۲۰۴۰۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تمہیں کے قریب جھوٹے دجال نبوت کے دعویدار بن کر ظاہر نہیں ہوں گے۔

باب ۱۴۲۹۔ مَا جَاءَ لِاتَّقَوْمِ السَّاعَةِ حَتَّى يَخْرُجَ كَذَّابُونَ
۲۰۴۰۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ نَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْبَعَثَ كَذَّابُونَ دَجَالُونَ قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثِينَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ

اس باب میں جابر بن سمرہ اور ابن عمر سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۰۴۱۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی۔ جب تک میری امت کے کئی قبائل مشرکین کے ساتھ الحاق نہیں کر لیں گے اور بتوں کی پوجا نہیں کریں گے۔ پھر فرمایا: میری امت میں میں جھوٹے پیدا ہوں گے ہر ایک کا یہی دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔

۲۰۴۱۔ حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ نَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ وَحَتَّى يَعْبُدُوا الْأَوْثَانَ وَأَنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي

یہ حدیث صحیح ہے۔

باب ۱۴۳۰۔ بنی ثقیف کے کذاب اور میر کے متعلق

۲۰۴۱۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بنو ثقیف میں سے ایک جھوٹا اور ایک ہلاک کرنے والا پیدا ہوں گے۔

باب ۱۴۳۰۔ مَا جَاءَ فِي تَقِيفٍ كَذَّابٌ وَمُبِيرٌ

۲۰۴۱۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ نَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ شَرِيكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُصْمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَقِيفٍ

كَذَابٌ وَمُبِيرٌ

اس باب میں اسماء بنت ابی بکر سے بھی حدیث منقول ہے۔ عبدالرحمن بن واقد بھی شریک سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث ابن عمر کی روایت سے حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف شریک کی سند سے جانتے ہیں اور وہ راوی کا نام عبدالرحمن بن عصم بیان کرتے تھے جب کہ اسرائیل عبداللہ بن عصمہ کہتے ہیں کذاب سے مراد کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد مختار بن ابوعبید ثقفی اور ہلاک کرنے والے سے مراد حجاج بن یوسف ثقفی ہیں۔ ابوداؤد سلیمان بن مسلم لُحی، نصر بن شمیل سے اور وہ ہشام بن حسان سے نقل کرتے ہیں کہ حجاج کے قتل کیے ہوئے افراد کی تعداد ایک لاکھ بیس ہزار تک پہنچتی ہے۔

باب ۱۳۳۱۔ تیسری صدی کے متعلق۔

باب ۱۴۳۹۔ مَا جَاءَ فِي الْقُرْنِ الثَّالِثِ

۲۰۴۲۔ حضرت عمران بن حصین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سب لوگوں سے بہتر میرے زمانے کے لوگ ہیں پھر ان کے بعد والے، پھر ان کے بعد والے پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو موٹا ہونا چاہیں گے، موٹاپے کو پسند کریں گے۔ وہ لوگ گواہی طلب کیے بغیر گواہی دیں گے۔

۲۰۴۲۔ حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضِيلِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَدْرِكَ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ يَتَسَمَّنُونَ وَيُجْبُونَ السَّمْنَ يُعْطُونَ الشَّهَادَةَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَلَوْهَا

یہ حدیث محمد بن فضیل بھی اعمش سے وہ علی بن مدرک سے اور وہ ہلال بن یساف سے اسی طرح نقل کرتے ہیں جب کہ کئی راوی اسے اعمش سے وہ ہلال بن یساف سے وہ عمران بن حصین سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ محمد بن فضیل کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے پھر یہی حدیث کئی سندوں سے عمران بن حصین ہی سے مرفوعاً کئی سندوں سے منقول ہے۔

۲۰۴۳۔ حضرت عمران بن حصین کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بہترین لوگ میری بعثت کے زمانے کے لوگ ہیں۔ پھر جوان کے بعد ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ نہیں تیسرے زمانے کے لوگوں کا ذکر کیا یا نہیں۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: اس کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو بغیر طلب کیے گواہی دیں گے، خیانت کریں گے۔ امین نہیں ہوں گے اور ان میں موٹا پاز زیادہ ہوگا۔ (۱)

۲۰۴۳۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا ابُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْثَمٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ أُمَّتِي الْقُرْنُ الَّذِي بُعِثْتُ فِيهِمْ ثُمَّ الَّذِي يَلُونَهُمْ قَالَ وَلَا أَعْلَمُ ذَكَرَ الثَّلَاثِ أَمْ لَا ثُمَّ يَنْشُرُ أَقْوَامٌ يَشْهَتُونَ وَلَا يُشْتَشْهَتُونَ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ وَيَغْتَشُونَ فِيهِمُ السَّمْنَ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۳۳۶۔ خلفاء کے متعلق

باب ۱۴۳۲۔ مَا جَاءَ فِي الْخُلَفَاءِ

(۱) یعنی بزرگ اور اہل علم کہلوانا پسند کریں گے جس سے وہ درحقیقت متصف نہیں ہوں گے۔ جب کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد جمع امول ہے بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ لوگ زیادہ ہوتے جائیں گے اور زیادہ کھانے پینے کو پسند کریں گے۔ واللہ اعلم (مترجم)

۲۰۴۴۔ حدثنا ابو كريب نا عمر بن عبيد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون من بعدى اثنا عشر اميرا قال ثم تكلم بشيء لم افهمه فسالت الذي يلينى فقال قال كلهم من قریش

۲۰۴۳۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میرے بعد بارہ (۱۲) امیر آئیں گے راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ ﷺ نے کوئی بات فرمائی لیکن میں سمجھ نہیں سکا۔ چنانچہ میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ سب کے سب قریش میں سے ہوں گے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور کئی سندوں سے جابر بن سمرہ سے منقول ہے۔ ابو کریب بھی اسے عمر بن عبید سے وہ اپنے والد سے وہ ابو بکر بن ابوموسیٰ سے اور وہ جابر بن سمرہ سے اسی طرح مروی نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث اس سند سے غریب ہے یعنی بواسطہ ابو بکر بن ابوموسیٰ۔ اس باب میں ابن مسعود اور عبد اللہ بن عمرو سے بھی احادیث منقول ہیں۔

۲۰۴۵۔ حدثنا بندار نا ابو داود نا حميد بن مهران عن سعد بن اوس عن زياد بن كسب العدوي قال كنت مع ابي بكره تحت منبر ابي عامر وهو يخطب وعليه ثياب رفاق فقال ابو بلال انظروا الى اميرنا يلبس ثياب الفساق فقال ابو بكره اسكت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اهان سلطان الله في الارض اهان الله

۲۰۴۵۔ حضرت زیاد بن کسب عدوی کہتے ہیں کہ میں ابو بکرہ کے ساتھ ابن عامر کے منبر کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ خطبہ دے رہا تھا۔ اور اس کے جسم پر باریک کپڑے تھے۔ ابو بلال کہنے لگے: دیکھو ہمارا امیر فساق کے کپڑے پہنتا ہے۔ ابو بکرہ نے فرمایا: خاموش ہو جاؤ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اللہ کی زمین میں حاکم کی اہانت کرے گا۔ اللہ اسے ذلیل کریں گے۔

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

باب ۱۴۳۳۔ ماجاء في الخلافة

باب ۱۴۳۳۔ خلافت کے متعلق۔

۲۰۴۶۔ حدثنا احمد بن منيع نا سريح بن النعمان نا حشر بن بنانة عن سعيد بن جمهان قال بنى سفينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة في امتي ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك ثم قال لي سفينة امسك خلافة ابي بكر ثم قال وخلافة عمر وخلافة عثمان ثم قال امسك خلافة علي فوجدناها ثلاثين سنة قال سعيد فقلت له ان بنى امية يزعمون ان الخلافة فيهم قال كذبوا بنو الزرقاء بل هم ملوك من شر الملوك

۲۰۴۶۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری امت میں تیس سال تک خلافت رہے گی پھر بادشاہت آجائے گی۔ سفینہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کی خلافت گن لو یہ پورے تیس سال ہیں۔ سعید نے عرض کیا: بنو امیہ سمجھتے ہیں کہ خلافت انہی میں ہے۔ فرمایا: بنو زرقاء جھوٹ بولتے ہیں۔ بلکہ یہ لوگ تو بدترین بادشاہوں میں سے ہیں۔

اس باب میں عمرؓ اور علیؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ دونوں حضرات بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے کسی شخص کو خلیفہ مقرر نہیں کیا۔ یہ حدیث حسن ہے اسے کئی راوی سعید بن جبہ ان سے نقل کرتے ہیں۔ ہم بھی اسے صرف انہی کی روایت سے جانتے ہیں۔

۲۰۴۷۔ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ عمر بن خطابؓ سے کہا گیا کہ آپ کسی کو خلیفہ بنا دیتے۔ فرمایا: اگر میں خلیفہ بنا تا ہوں تو ابو بکرؓ نے بھی کسی کو خلیفہ مقرر کیا تھا اور اگر نہ مقرر کروں تو اس میں رسول اللہ ﷺ کی اقتداء ہے کیونکہ آپ ﷺ نے کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کیا۔ اس حدیث میں طویل قصہ ہے۔

۲۰۴۷۔ حدثنا يحيى بن موسى نا عبد الرزاق نا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قيل لعمر بن الخطاب لو استخلفت قال إن استخلفت فقد استخلف أبو بكر وإن لم استخلف لم يستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث قصة طويلة

یہ حدیث صحیح ہے اور ابن عمرؓ سے کئی سندوں سے نقل کی گئی ہے۔

باب ۱۴۳۴۔ خلفاء قیامت تک قریشہ میں سے ہوں گے۔

باب ۱۴۳۴۔ مَا جَاءَ أَنَّ الْخُلَفَاءَ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ

۲۰۴۸۔ حضرت عبد اللہ بن ابی ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ربیعہ کے کچھ لوگ عمرو بن عاصؓ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ بکر بن وائل (قبیلے) کے ایک شخص نے کہا کہ: قریش کو بازار ہنا چاہیے ورنہ اللہ تعالیٰ خلافت کو جمہور عرب میں کر دیں گے۔ عمرو بن عاصؓ نے فرمایا: تم غلط کہتے ہو ایسا نہیں ہوگا کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قریش خیر و شر میں لوگوں کے حاکم ہوں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہوگی۔

۲۰۴۸۔ حدثنا حسين بن محمد البصري نا خالد بن الحارث نا شعبة عن حبيب بن الزبير قال سمعتُ عبد الله بن أبي الهذيل يقول كان ناس من ربيعة عند عمرو بن العاص فقال رجل من بكرين وأهل لنتهين قريش أولئك جعلن الله في هذا الأمر في جمهورهم العرب غيرهم فقال عمرو بن العاص كذبت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة

اس باب میں ابن عمرؓ، ابن مسعودؓ اور جابرؓ سے بھی احادیث منقول ہیں یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

۲۰۴۹۔ حضرت عمرو بن حکم کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہؓ کو آنحضرت ﷺ کا یہ قول نقل کرتے ہوئے سنا کہ دن و رات کا عرصہ بھی نہ گزرنے پائے گا کہ ایک قبیلہ جحہہ کا اک مولیٰ حکومت پر قابض ہو جائے گا۔ (۱)

۲۰۴۹۔ حدثنا محمد بن بشازنا ابو بكر الحنفی عن الحميد بن جعفر عن عمرو بن الحكم قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالى يقال له جهجاه

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

باب ۱۴۳۵۔ گمراہ حکمرانوں کے متعلق

باب ۱۴۳۵۔ مَا جَاءَ فِي الْأَيَّامِ الْمُضِلِّينَ

(۱) احادیث کے تتبع سے معلوم ہوتا ہے کہ جحہہ قبیلہ بنی قحطان سے ہوگا اور اس کی حکومت امام مہدی کے بعد ہوگی نیز یہ سلاطین صالحین میں سے ہوگا۔ واللہ اعلم (مترجم)

۲۰۴۹۔ حدثنا قتيبة نا حماد بن زيد عن ايوب عن ابى قلابه عن ابى اسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما اخاف على امتي ائمة مضلين قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى ياتي امر الله
 یہ حدیث صحیح ہے۔

باب ۱۴۳۶۔ ماجاء في المهدي

۲۰۵۰۔ حدثنا عبيد بن اسباط بن محمد القرشي نا ابى ناسفیان الثوري عن عاصم بن بهدلة عن زر عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي يواطى اسمه اسمي

اس باب میں علیؑ، ابوسعیدؓ، ام سلمہؓ اور ابو ہریرہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۰۵۱۔ حضرت عبد اللہؓ، رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: اہل بیت میں سے میرے نام کا ایک شخص دینا کا دالی ہوگا۔

۲۰۵۱۔ حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار نا سفیان بن عيينة عن عاصم عن زر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلي رجل من اهل بيتي يواطى اسمه اسمي

۲۰۵۲۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر دنیا کی بقاء کا ایک دن باقی رہ جائے تب بھی اللہ تعالیٰ اس دنیا کو اتنا طویل کر دیں گے کہ وہ شخص حکومت کرے۔ (۲)

۲۰۵۲۔ قال عاصم وانا ابو صالح عن ابى هريرة قال لو لم يبق من الدنيا الا يوما لطول الله ذلك اليوم حتى يلي
 یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۰۵۳۔ حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ﷺ کے بعد کوئی بدعت شروع ہو جائے۔ چنانچہ ہم نے آنحضرت ﷺ سے دریافت کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میری امت میں ایک مہدی آئے گا۔ جو پانچ، سات یا نو سال (راوی کو شک ہے)

۲۰۵۳۔ حدثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر نا شعبة قال سمعت زيد العمي قال سمعت ابا الصديق الناجي يحدث عن ابى سعيد النخدي قال قال حشينا ان يكون بعد نبينا حدث

حکمران ہے جو قرآن و سنت کے مطابق حکومت نہ کرے۔ واللہ اعلم (مترجم)

(۱) گمراہ حکمرانوں سے مراد ہر وہ

(۲) ان تینوں احادیث میں اس شخص سے مراد امام مہدی ہیں۔ (مترجم)

تک حکومت کرے گا۔ پھر اس کے پاس ایک شخص آئے گا۔ اور کہے گا اے مہدی مجھے دیجئے، مجھے دیجئے۔ چنانچہ وہ اسے اتنے دینا دیں گے جتنے اس میں اٹھانے کی استطاعت ہوگی۔

فَسَأَلْنَا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي أُمَّتِي الْمَهْدِيَّ يَخْرُجُ يَعِيشُ خَمْسًا أَوْ سَعًا أَوْ تِسْعًا زَيْدُ الشَّامِ قَالَ قُلْنَا وَمَا ذَاكَ قَالَ سِنِينَ قَالَ فَيَجِيءُ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ يَا مَهْدِيَّ أَعْطِنِي أَعْطِنِي قَالَ فَيُحْتَجُّ لَهُ فِي نَوْبِهِ مَا اسْتَطَاعَ أَنْ يَحْمِلَهُ

یہ حدیث حسن ہے اور کئی سندوں سے ابوسعیدؓ سے مرفوعاً منقول ہے۔ اور ابوصدیق کا نام بکر بن عمر ہے انہیں بکر بن قیس بھی کہتے ہیں۔

باب ۱۳۳۷۔ عیسیٰ بن مریمؑ کے نزول کے متعلق۔ (۱)

۲۰۵۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے عنقریب تم لوگوں میں عیسیٰ بن مریمؑ نازل ہوں گے جو عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ کو موقوف کر دیں گے اور اتنا مال تقسیم کریں گے کہ لوگ قبول کرنا چھوڑ دیں گے۔

باب ۱۴۳۷۔ مَا جَاءَ فِي نَزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ

۲۰۵۴۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا الْلَيْثِ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكُنَّ أَنْ يَنْزَلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا فَيُكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْحِزْيَةَ وَيُفِيضُ الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۳۳۸۔ دجال کے متعلق

۲۰۵۳۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: نوحؑ کے بعد کوئی نبی ایسا نہیں جس نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا نہ ہو اور میں بھی تمہیں ڈراتا ہوں پھر آپ ﷺ نے اس کے اوصاف بیان کیے اور فرمایا: شاید مجھے دیکھنے اور سننے والوں میں سے بھی کوئی اسے دیکھے صحابہ نے عرض کیا: اس دن ہمارے دلوں کی کیا کیفیت ہوگی؟ فرمایا: آج کی طرح یا اس سے بھی بہتر۔

باب ۱۴۳۸۔ مَا جَاءَ فِي الدَّجَالِ

۲۰۵۴۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعَاوِيَةَ الْجَمْحَرِيُّ نَا حَمَادِ بْنِ سَلْمَةَ عَنْ خَالِدِ الْحَذَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَّاقَةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْحَرَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ بَعْدَ نُوحٍ إِلَّا قَدْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ الدَّجَالَ وَإِنِّي أَنْذِرُكُمْ لَهُ فَوَصِّفْهُ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَعَلَّهُ سَيُذْرِكُكُمْ بَعْضُ مَنْ رَأَى أَوْ سَمِعَ كَلَامِي قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ قُلُوبُنَا يَوْمَئِذٍ فَقَالَ مِثْلَهَا يَعْنِي الْيَوْمَ أَوْ خَيْرٌ

(۱) حضرت عیسیٰ کے نازل ہونے سے مراد ان کا آسمان سے زمین پر اترنا ہے احادیث صحیحہ حضرت عیسیٰ کے قیامت کے نزدیک آسمان سے زمین پر تشریف لانے پر دلالت کرتی ہیں نیز یہ کہ وہ دین محمدی کی اتباع اور اسی کے مطابق اپنے تمام احکام و فرامین جاری کریں گے۔ اکثر روایات ان کی حکومت کی مدت چالیس سال تک بیان کرتی ہیں جب کہ بعض احادیث میں ۳۵ سال کا بھی تذکرہ ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ کی وفات ہوگی اور انہیں روضہ اقدس میں آنحضرت ﷺ کے پہلو میں دفن کیا جائے گا۔ واللہ اعلم (مترجم)

اس باب میں عبداللہ بن بسرؓ، عبداللہ بن مغفلؓ اور ابو ہریرہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اس حدیث کا صرف خالد حذاء کی روایت سے جانتے ہیں اور ابو عبیدہ کا نام عامر بن عبداللہ بن جراح ہے۔

۲۰۵۵۔ حدثنا عبد بن حميد نا عبد الرزاق نا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال قام رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَأَتْنِي عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَالَ فَقَالَ إِنِّي لَأَنْذِرُكُمْ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ وَلَقَدْ أَنْذَرَ نُوحٌ قَوْمَهُ وَلَكِنْ سَأَقُولُ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرٌ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَأَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَئِذٍ لِلنَّاسِ وَهُوَ يُحَذِّرُهُمْ فَتَنَّتَهُ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَنْ نَرَى أَحَدًا مِنْكُمْ رَبَّهُ حَتَّى يَمُوتَ وَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ يَقْرَأُ مِنْ كَرِهِ عَمَلَهُ

۲۰۵۵۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ کھڑے ہوئے اور خطاب کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ستائش بیان کرنے کے بعد دجال کا ذکر کیا اور فرمایا: میں تم لوگوں کو اس سے ڈراتا ہوں جیسے کہ مجھ سے پہلے تمام انبیاءؑ ڈرایا کرتے تھے نوحؑ نے بھی اپنی قوم کو اس فتنے سے ڈرایا لیکن میں اس کے متعلق ایسی بات بتاؤں گا جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی وہ یہ کہ تم لوگ جانتے ہو کہ وہ کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں۔ زہری کہتے ہیں کہ عمر بن ثابت انصاری نے مجھے بعض صحابہؓ سے نقل کرتے ہوئے بتایا کہ آپ ﷺ نے اس روز لوگوں کو دجال کے فتنے سے ڈراتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ: تم لوگ جانتے ہو کہ تم میں سے کوئی اپنے خالق حقیقی اللہ رب العزت کو اپنی زندگی میں نہیں دیکھ سکتا۔ نیز اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا۔ جو لوگ اس سے بیزار ہوں گے وہی یہ لفظ پڑھ سکیں گے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۰۵۶۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہودی تم لوگوں سے جنگ کریں گے اور تمہیں ان پر مسلط کر دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ پتھر کے گائے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے اسے قتل کرو۔

۲۰۵۶۔ حدثنا عبد بن حميد نا عبد الرزاق نا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَقَاتِلُكُمْ الْيَهُودُ فَتَسْلُطُونَ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُولَ الْحَجْرُ يَا مُسْلِمُ هَذَا الْيَهُودِيُّ وَرَأَيْتِي فَاقْتُلَهُ

باب ۱۴۳۹۔ دجال کہاں سے نکلے گا۔

۲۰۵۷۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دجال مشرق کی ایک زمین سے نکلے گا جسے خراسان کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے ڈھالوں کی طرح چھپے ہوں گے۔

باب ۱۴۳۹۔ مَا جَاءَ مِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ الدَّجَالُ

۲۰۵۷۔ حدثنا بندار واحمد بن منيع قال نا روح بن عباد نا سعيد بن ابى عروبة عن ابى التياح عن المغيرة بن سبيع عن عمرو بن حريم عن ابى بكر بن الصديق قال حدثنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدَّجَالُ يَخْرُجُ مِنْ أَرْضِ الْمَشْرِقِ يُقَالُ لَهَا خُرَّاسَانُ يَتَّبِعُهُ أَقْوَامٌ كَانُوا وَجُوهَهُمُ الْمَجَانُ الْمَطْرَقَةُ

اس باب میں ابو ہریرہؓ اور عائشہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسنِ غریب ہے۔ عبد اللہ بن شوذب بھی اسے ابوتیاح سے نقل کرتے ہیں اور یہ حدیث انہی کی روایت سے معروف ہے۔

باب ۱۴۴۔ مَا جَاءَ فِي عِلَامَاتِ خُرُوجِ الدَّجَالِ

۲۰۵۸۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَا الْحَلَمُ بْنُ

المبارك نَا الوليد بن مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي

مريم عن الوليد بن سفيان عن يزيد بن قطيب

التكوني عن أبي بحريّة صاحب مُعَاذٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ

حَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَلْحَمَةُ

الْعُظْمَى وَفَتَحَ الْقُسْطَنْطِينَةَ وَخُرُوجِ الدَّجَالِ فِي

سَبْعَةِ أَشْهُرٍ

باب ۱۳۴۰۔ دجال کے نکلنے کی نشانیاں

۲۰۵۸۔ حضرت معاذ بن جبلؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

زبردست خوزیری، قسطنطنیہ کی فتح اور دجال کا خروج یہ سب سات ماہ کے

اندرا اندر ہوگا۔ (۱)

اس باب میں صعّب بن جثامہ، عبد اللہ بن بسر، عبد اللہ بن مسعود اور ابوسعید خدریؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے

ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

۲۰۵۹۔ حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ قسطنطنیہ قیامت کے

قریب فتح ہوگا۔

۲۰۵۹۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ

شعبة عن يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ

فَتَحَ الْقُسْطَنْطِينَةَ مَعَ قِيَامِ السَّاعَةِ

محمود کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے۔

باب ۱۳۴۱۔ دجال کا فتنہ

۲۰۶۰۔ حضرت نواس بن سمران کلابی فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول

اکرم ﷺ نے دجال کا ذکر کیا تو اس طرح اس کی ذلت و حقارت اور اس

کے فتنے کی بڑائی بیان کی کہ ہم سمجھنے لگے کہ وہ کھجوروں کی آڑ میں ہے۔

پھر ہم لوگ آپ ﷺ کے پاس سے چلے گئے اور دوبارہ خدمت اقدس

میں حاضر ہوئے تو آپ ہمارے دلوں کے خوف کو بھانپ گئے پوچھا:

کیا حال ہے؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اکل آپ نے دجال کا

فتنہ بیان کیا تو ہمیں یقین ہو گیا کہ وہ کھجوروں کی آڑ میں ہے۔ یعنی یقیناً

وہ آنے والا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: دجال کے علاوہ ایسی بھی چیزیں

ہیں جن کا مجھے دجال کے فتنے سے زیادہ خوف ہے کیونکہ اگر دجال

باب ۱۴۴۱۔ مَا جَاءَ فِي فِتْنَةِ الدَّجَالِ

۲۰۶۰۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرَانَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ

وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرِ دَخَلَ

حَدِيثَ أَحَدِ هِمَافِي حَدِيثِ الْآخَرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرِ عَنِ يَحْيَى بْنِ جَابِرِ الطَّائِي عَنِ

عبد الرحمن ابن جبیر عن أبيه جبیر بن نفیر عن

النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْكِلَابِيِّ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّجَالَ ذَاتَ غَدَاةٍ فَحَفِضَ

فِيهِ وَرَفَعَ حَتَّى طَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّحْلِ قَالَ فَانصَرَفْنَا

مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رُحْنَا

(۱) قسطنطنیہ روم کا ایک شہر ہے جو صحابہؓ کے دور میں ایک مرتبہ فتح ہو چکا ہے لیکن یہ دوبارہ کفار کے قبضے میں جانے کے بعد دوبارہ دجال کے خروج کے قریب

فتح ہوگا اور احادیث میں یہی فتح مراد ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

میری موجودگی میں نکلا تو میں اس سے تم لوگوں کی طرف سے مقابلہ کرنے والا ہوں اور اگر میری غیر موجودگی میں نکلا تو ہر شخص خود اپنے نفس کی طرف سے مقابلہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان پر میرے خلیفہ ہیں۔ (۱) اس کی صفت یہ ہے کہ وہ جوان ہوگا، گھٹنگھریا لے بالوں والا ہوگا، اس کی ایک آنکھ ہوگی (۲) اور عبدالعزیٰ بن قطن (۳) کا ہم شکل ہوگا۔ اگر تم میں سے کوئی اسے دیکھے تو سورہ کہف کی پہلی آیات پڑھے۔ وہ شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور دائیں بائیں (۴) کے لوگوں کو خراب کرے گا۔ اے اللہ کے بندو: ثابت قدم رہنا۔ پھر ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! وہ کتنی مدت زمین پر پھرے گا؟ فرمایا چالیس دن تک۔ پہلا دن ایک سال کے برابر، دوسرا ایک ماہ کے برابر اور تیسرا ایک ہفتے کے برابر پھر باقی ایام تمہارے ان ایام ہی کی طرح ہوں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا: کیا اس سال بھر کے برابر دن (۵) میں ہمیں ایک دن کی نمازیں کافی ہوں گی؟ فرمایا: نہیں اندازہ کر کے نمازیں پڑھ لیا کرنا۔ عرض کیا: اس کی زمین پر رفتار کیا ہوگی؟ فرمایا: اس کی رفتار بارش کی طرح ہوگی وہ ہوا کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا۔ وہ ایک قوم کے پاس آ کر انہیں اپنی خرافات کی دعوت دے گا وہ لوگ اسے بھٹلا دیں گے اور واپس کر دیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں کا مال و دولت اسی کے ساتھ چلا جائے گا وہ لوگ صبح انہیں گے تو دیکھیں گے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ پھر وہ دوسری قوم کے پاس جائے گا اور انہیں دعوت دے گا وہ لوگ اس کی دعوت قبول کریں گے اور اس کی تصدیق کریں گے۔ چنانچہ وہ آسمان کو حکم دے گا کہ بارش برساؤ، بارش برسنے لگے گی۔ پھر زمین اس کے حکم سے غلہ وغیرہ اگائے گی۔ ان کی

إِلَيْهِ فَعَرَفَ ذَلِكَ فِينَا فَقَالَ مَا شَأْنُكُمْ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَكَرْتَ الدَّجَالَ الْعِدَاةَ فَحَفِضْتَ وَرَفَعْتَ حَتَّى طَنَّاهُ فَبِي طَائِفَةِ النَّخْلِ قَالَ غَيْرُ الدَّجَالَ أَحْوَفُ لِي عَلَيْكُمْ أَنْ يَخْرُجَ وَآنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَاجِبُهُ دُونَكُمْ وَإِنْ يَخْرُجُ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَأَمْرٌ حَاجِبٌ نَفْسِهِ وَاللَّهُ خَلِيقَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِنَّهُ شَابٌ قَطَطٌ عَيْنُهُ قَائِمَةٌ شَبِيهَةٌ بِعَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قَطَنِ فَمَنْ رَأَى مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ قَوَاتِحَ سُورَةِ أَصْحَابِ الْكَهْفِ قَالَ يَخْرُجُ مَا بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ فَعَاتَ يَمِينًا وَشِمَالًا يَا عِبَادَ اللَّهِ أُتْبِتُوا قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا لَبَنُهُ فِي الْأَرْضِ قَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا يَوْمٌ كَسَنَةِ وَيَوْمٌ كَشَهْرِ وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الْيَوْمَ الَّذِي كَالسَّنَةِ أَنْكَفِينَا فِيهِ صَلَوَةَ يَوْمٍ قَالَ لَا وَلَكِنْ أَقْدَرُوا لَهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا سُرْعَتُهُ فِي الْأَرْضِ قَالَ كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرْتَهُ الرِّيحُ فَيَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدْعُوهُمْ فَيَكْذِبُونَهُ وَيَرْتَدُونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَيَنْصَرِفَ عَنْهُمْ فَتَتَّبِعُهُ أَمْوَالُهُمْ فَيُصْبِحُونَ لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدْعُوهُمْ فَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ وَيُصَلِّقُونَهُ فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ أَنْ تُمْطِرَ فُتَمُطِرُ وَيَأْمُرُ الْأَرْضَ أَنْ تُنْبِتَ فُتَنْبِتُ فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ كَأَطْوَلِ مَا كَانَتْ دُرَى وَأَمْدِهِ خَوَاصِرَ وَأَدْرِهِ ضُرُوعًا ثُمَّ يَأْتِي الْخَبْرَةَ فَيَقُولُ لَهَا أَخْرِجِي كَنُوزَكَ

(۱) یعنی وہ اس کے شر سے محفوظ رہے گا۔ (مترجم)

(۲) اس کی دوسری آنکھ بھی ہوگی لیکن بے نور ہوگی۔ (مترجم)

(۳) عبدالعزیٰ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ زمانہ تجاہلیت میں ایک بادشاہ تھا۔ (مترجم)

(۴) اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے راستے میں آنے والے ہی متاثر نہیں ہوں گے بلکہ دوسرے لوگ بھی متاثر ہوں گے۔ (مترجم)

(۵) اس ایک سال کے برابر دن کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ سورج کو فروب ہونے سے روک دے گا۔ اور یہ قدرت اللہ رب العزت اسے لوگوں کی آزمائش کے لیے

عطا کریں گے۔ (مترجم)

چراگاہ میں بہت لمبی کوہان والے جانور کو کیس پھلائے ہوئے ہتھنوں میں دودھ بھرا ہوا پھر نی لگیں گے۔ پھر وہ ویران زمین کو حکم دے گا تو وہ اپنے خزانے اگل دے گی اور وہ اس طرح اس کے ساتھ رہیں گے جیسے شہد کی کھیاں اپنے سردار کے ساتھ ہی رہتی ہیں۔ پھر وہ ایک نوجوان کو دعوت دے گا اور اسے تلوار سے دو ٹکڑے کر دے گا پھر وہ اسے بلائے گا تو وہ اس طرح زندہ ہو کر آئے گا کہ اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا اور نرس رہا ہوگا۔ اسی اثناء میں شام کی مشرقی جانب سے سفید مینار پر سے عیسیٰ بن مریمؑ دوزرد کپڑوں میں ملبوس بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے اگر وہ سر جھکائیں گے تو ان کے بالوں سے نورانی قطرات ٹپکیں گے اور جب اسے اٹھائیں گے تو وہ قطرات چمکدار موتیوں کی طرح نیچے اتر آئیں گے (یہ ان کی بے انتہا نورانیت سے کنایہ ہے) اور کوئی ان کے سانس کی ہوا لگتے ہی مرجائے گا۔ (یعنی کفار) نیز ان کے سانس کی ہوا ان کی حد نظر تک ہوگی پھر وہ دجال کو تلاش کریں گے تو وہ انہیں باب لد پر مل جائے گا۔ (۱) وہ اسے قتل کر دیں گے اور پھر اللہ کی چاہت کے مطابق مدت تک زمین پر قیام کریں گے پھر اللہ کی چاہت کے مطابق مدت تک زمین پر قیام کریں گے پھر اللہ تعالیٰ وحی بھیجیں گے کہ میرے بندوں کو طور کی طرف لے جائیے اس لیے کہ وہاں میں نے اپنے ایسے بندے نازل کیے ہیں کہ ان سے لڑنے کی کسی میں تاب نہیں۔ فرمایا: پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یاجوج ماجوج کو بھیجیں گے وہ اسی طرح آئیں گے جس طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ہر بلندی سے پھیل پڑیں گے پھر ان کا پہلا گروہ بحرہ طبریہ پر سے گزرے گا اور اس کا پورا پانی پی جائے گا۔ پھر جب ان کا دوسرا گروہ وہاں سے گزرے گا تو وہ لوگ کہیں گے کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ پھر وہ لوگ آگے چل دیں گے یہاں تک کہ بیت المقدس کے ایک پہاڑ پر پہنچیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو قتل کر دیا اب آسمان والوں کو بھی قتل کر دیں۔ لہذا وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے واپس کر دیں گے۔ اس

فَيَنْصَرِفُ مِنْهَا فَتَبَعَهُ كَيْعَاسِيبِ النَّحْلِ ثُمَّ يَدْعُو رَجُلًا شَابًا مُمْتَلِيًا شَبَابًا فَيَضْرِبُهُ بِالسِّيفِ فَيَقْطَعُهُ حَزَلَتَيْنِ ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيَقْبَلُ يَتَهَلَّلُ وَجْهَهُ يَضْحَكُ فَيَبِينَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ هَبَطَ عَيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ بِشَرْقِيٍّ دِمَشْقَ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ وَأَضْعَا يَدَهُ عَلَىٰ أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ إِذَا طَاطَأَ رَأْسَهُ فَطَرَ وَ إِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جَمَانٌ كَاللُّوْلُوءِ قَالَ وَلَا يَجِدُ رِيحَ نَفْسِهِ يَعْنِي أَحَدًا إِلَّا مَاتَ وَرِيحُ نَفْسِهِ مُنْتَهَىٰ بَصَرِهِ قَالَ فَيَطْلُبُهُ حَتَّىٰ يُدْرِكَهُ بِيَابَ لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ قَالَ فَيَلْبِثُ كَذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ ثُمَّ يُوحَىٰ اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ حَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ فَإِنِّي قَدْ أَنْزَلْتُ عِبَادًا لِي لَا يَدَانِ لِأَحَدٍ يَفْتَالِهِمْ قَالَ وَيَبْعَثُ اللَّهُ يَاجُوجَ وَ مَاجُوجَ وَهُمْ كَمَا قَالَ اللَّهُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ قَالَ وَيَمُرُّ أَوْلَاهُمْ بِبَحِيرَةِ الطُّبْرِيَّةِ فَيَشْرَبُ مَا فِيهَا ثُمَّ يَمُرُّ بِهَا آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ لَقَدْ كَانَ بِهِذِهِ مَرَّةٌ مَاءٌ ثُمَّ يَسِيرُونَ حَتَّىٰ يَنْتَهَوْا إِلَىٰ جَبَلٍ بَيْتِ الْمَقْدَسِ فَيَقُولُونَ لَقَدْ قَتَلْنَا مَنْ فِي الْأَرْضِ فَهَلُمَّ فَلَنَقْتُلَنَّ مَنْ فِي السَّمَاءِ فَيَرْمُونَ بِنُشَابِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ فَيَرُدُّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نُشَابَهُمْ مُحْمَرًا دَمًا وَيُحَاصِرُ عَيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَأَصْحَابَهُ حَتَّىٰ يَكُونَ رَأْسُ الثَّوْرِ يَوْمِيذٍ خَيْرَ أَلَهُمْ مِنْ مِائَةِ دِينَارٍ لِأَحَدِكُمْ الْيَوْمَ قَالَ فَيَرْعَبُ عَيْسَى بَنُ مَرْيَمَ إِلَى اللَّهِ وَأَصْحَابَهُ قَالَ فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّعْفَ فِي رِقَابِهِمْ فَيَضْبَحُونَ فَرَسِي مَوْتِي كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ قَالَ وَيُهْبِطُ عَيْسَى وَأَصْحَابُهُ فَلَا يَجِدُ مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلَّا وَقَدْ مَلَأَتْهُ زَهْمَتُهُمْ وَنَتْنُهُمْ وَدِمَائُهُمْ قَالَ فَيَرْعَبُ عَيْسَى إِلَى اللَّهِ وَأَصْحَابَهُ قَالَ فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ طَيْرًا كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ فَتَحْمِلُهُمْ

(۱) باب لد: یعنی لد کا دروازہ، لد بیت المقدس میں ایک جگہ کا نام ہے۔ جبکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ فلسطین کی ایک بستی ہے۔ (مترجم)

دوران حضرت عیسیٰ اور ان ساتھی ان کا محاصرہ کر لیں گے اور اس دن نیل کا ایک سران لوگوں کے نزدیک تمہارے آج کے سودیناروں سے بہتر ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی اللہ کی طرف رجوع کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑا پیدا کر دیں گے جس سے وہ لوگ صبح تک سب کے سب اس طرح ہلاک ہو جائیں گے جیسے ایک شخص ہلاک ہوتا ہے۔ پھر عیسیٰ اور ان کے ساتھی آئیں گے تو باشت بھرزین بھی ایسی نہ ہوگی جو ان کی چریوں، بدبو اور خون سے بھری ہوئی نہ ہو۔ چنانچہ عیسیٰ اور ساتھی دوبارہ اللہ کی طرف رجوع کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف ایسے پرندے بھیجیں گے جن کی گردنیں اونٹ کی طرح ہوں گی وہ انہیں اٹھا کر مہبل کے مقام پر پھینک دیں گے۔ اس کے بعد مسلمان ان کے تیروں، کمانون اور ترکشوں سے سات سال تک ایندھن جلائیں گے پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائیں گے کہ اسے مٹی کا کوئی گھریا کوئی خیمہ نہیں روک سکے گا اس سے زمین دھل کر آئینے کی طرح صاف شفاف ہو جائے گی پھر زمین سے کہا جائے گا کہ اپنے پھل وثمار اگل دو اور برکت واپس لاؤ۔ چنانچہ ایک پورا گروہ ایک انار (کے درخت) نے کھائے گا اور اس کے لوگ اس کے چھلکے سے سایہ کریں گے نیز دودھ میں اتنی برکت پیدا کر دی جائے گی کہ ایک اونٹنی کے دودھ سے ایک جماعت سیر ہو جائے گی، ایک گائے کے دودھ سے ایک قبیلہ اور ایک بکری کے دودھ سے ایک کنبہ سیر ہو جائے گا۔ وہ ایک اسی طرح زندگی گزار رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہوا بھیجیں گے جو ہر مٹھمن کی روح قبض کر لے گی اور باقی صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح راستے میں جماع کرتے پھریں گے اور انہی پر قیامت قائم ہوگی۔

باب ۱۴۴۲۔ دجال کی صفات کے متعلق

۲۰۶۱۔ حضرت ابن عمر، رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ سے دجال کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا: جان لو کہ تمہارا رب کا نام نہیں جب کہ دجال کی دائیں آنکھ کافی ہوگی گویا کہ وہ ایک پھولا ہوا انگور

فَقَطَّرَ حُهُمُ بِالْمُهَيْلِ وَيَسْتَوْقِدُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ قِسْبِهِمْ
وَنُشَابِهِمْ وَجَعَابِهِمْ سَبْعَ سِنِينَ وَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
مَطْرًا لَا يُكْنُ مِنْهُ بَيْتٌ وَبِرٌّ وَلَا مَدْرٌ قَالَ فَيَغْسِلُ
الْأَرْضَ فَيَتْرُكُهَا كَالزَّلْفَةِ قَالَ ثُمَّ يُقَالُ لِلْأَرْضِ
أَخْرَجِي ثَمْرَتِكَ وَرُودِي بَرَكَتِكَ فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ
الْعَصَابَةُ الرُّمَانَةَ وَيَسْتَظِلُّونَ بِقِحْفِهَا وَيُبَارِكُ فِي
الرِّسْلِ حَتَّىٰ إِنَّ الْفِئَامَ مِنَ النَّاسِ لَيَكْتَفُونَ بِاللِّفْحَةِ
مِنَ الْإِبِلِ وَإِنَّ الْقَبِيلَةَ لَيَكْتَفُونَ بِاللِّفْحَةِ مِنَ الْبَقْرِ وَإِنَّ
الْفَحْدَ لَيَكْتَفُونَ بِاللِّفْحَةِ مِنَ الْغَنَمِ فَيَيْنَمَا هُمْ
كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ رِيحًا فَقَبَضَتْ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ
وَيَبْقَى سَائِرُ النَّاسِ يَتَهَارِجُونَ كَمَا يَتَهَارِجُ رَجُ الْحُمْرِ
فَعَلَيْهِمْ تَقْوَمُ السَّاعَةُ

یہ حدیث حسن غریب صحیح ہے۔

باب ۱۴۴۲۔ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الدَّجَالِ

۲۰۶۱۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْأَعْلَى الصُّعَائِبِيُّ نَا
الْمَعْتَمِرَ بْنَ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ نَافِعِ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ

سُئِلَ عَنِ الدَّجَالِ فَقَالَ أَلَا إِنَّ رَبِّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ أَلَا
وَإِنَّهُ أَعْوَرٌ عَيْنُهُ الْيُمْنَى كَانَتْهَا عَيْنَهُ طَافِيَةً

اس باب میں سعد، حذیفہ، ابو ہریرہ، جابر بن عبد اللہ، ابو بکرہ، عائشہ، انس، اسماء، ابن عباس اور فلطان بن عاصم سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث عبد اللہ بن عمر کی روایت سے حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۱۴۴۳۔ مَا جَاءَ فِي أَنَّ الدَّجَالَ لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ
۲۰۶۲۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْخَزَاعِمِيُّ نَا يَزِيدُ
بْنُ هَارُونَ نَا شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي الدَّجَالُ
الْمَدِينَةَ فَيَجِدُ الْمَلَائِكَةَ يَحْرُسُونَهَا فَلَا يَدْخُلُهَا
الطَّاعُونَ وَلَا الدَّجَالُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

اس باب میں ابو ہریرہ، فاطمہ بنت قیس، یحییٰ، اسامہ بن زید اور سمرہ بن جندب سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

۲۰۶۳۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ
الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِيمَانُ يَمَانُ
وَالْكَفْرُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ وَالسَّكِينَةُ لِأَهْلِ الْغَنَمِ
وَالْفَخْرُ وَالرِّيَاءُ فِي الْفِدَائِدِينَ أَهْلِي الْخَيْلِ وَ أَهْلِي
الْوَبْرِ يَأْتِي الْمَسِيحُ إِذَا جَاءَ دُبُرُ أَحَدٍ صَرَفَتِ الْمَلَائِكَةُ
وَجْهَهُ قِبَلَ الشَّامِ وَهُنَالِكَ يَهْلِكُ
یہ حدیث صحیح ہے۔

۲۰۶۳۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایمان
یمن کی طرف سے نکلا ہے جب کہ کفر مشرق کی طرف سے۔ بکری
والوں میں تسکین اور عاجزی جب کہ اونٹ اور گھوڑے والوں میں تکبر
غرور اور درشتگی پائی جاتی ہے۔ اور دجال جب احد (پہاڑ) کے پیچھے
پہنچے گا تو فرشتے اس کا رخ شام کی طرف موڑ دیں گے جہاں وہ ہلاک
ہوگا۔

باب ۱۴۴۴۔ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ عَيْسَى بْنِ مَرْيَمَ
الدَّجَالِ

۲۰۶۴۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ اللَّيْثِ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ أَنَّهُ سَمِعَ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْإِنصَارِيَّ يَحْدُثُ عَنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدِ الْإِنصَارِيَّ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ
عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمِّي مَجْمَعُ بْنَ حَارِيَةَ
الْإِنصَارِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

۲۰۶۴۔ حضرت مجاہد بن جابر انصاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے
فرمایا: حضرت عیسیٰ بن مریم دجال کو قتل کریں گے۔

(۱) اس روایت میں دائیں آنکھ کا اور بعض روایات میں بائیں آنکھ کے متعلق آیا ہے کہ وہ کافی ہوگی۔ اس میں تطبیق یہ ہے کہ یہ کیفیات اس پر بدقی رہیں گی اور یہ اس لیے
ہوگا کہ اہل بصیرت جان سکیں کہ یہ اپنے عیب کو ختم نہیں کر سکتا تو الوہیت کا دعویٰ انہیں اس طرح ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

وَسَلَّمَ يَقُولُ يَقْتُلُ ابْنُ مَرْيَمَ الدَّجَالَ بِنَابٍ لُدٍّ

اس باب میں عمران بن حصین، نافع بن عتبہ، ابو ہریرہ، حذیفہ بن اسید، ابو ہریرہ، کیسان، عثمان بن ابی العاص، جابر، ابوامامہ، ابن مسعود، عبداللہ بن عمر، سمرہ بن جندب، نواس بن سمان، عمرو بن عوف اور حذیفہ بن یمان سے بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔
یہ حدیث صحیح ہے۔

باب۔ بااعنوان

باب۔ ۱۴۴۵

۲۰۶۵۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو کانے دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ جان لو کہ وہ کاننا ہے اور تمہارا رب کاننا نہیں۔ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا۔

۲۰۶۵۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ نَا شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الْأَعْوَرَ الْكَذَّابَ إِلَّا أَنَّهُ أَعْوَرُوْا إِنْ رَبِّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ
یہ حدیث صحیح ہے۔

باب ۱۳۳۹۔ ابن صیاد کے متعلق۔

باب ۱۴۴۶۔ ماجاء فی ذکر ابن صیاد

۲۰۶۶۔ حضرت ابوسعید فرماتے ہیں کہ ابن صیاد نے میرے ساتھ حج یا عمرے کا سفر کیا تو لوگ آگے بڑھ گئے اور میں اور وہ پیچھے رہ گئے۔ جب میں اس کے ساتھ تھا رہ گیا تو میرا دل خوف کی وجہ سے کھڑا ہو گیا اور مجھے اس سے وحشت ہونے لگی کیونکہ لوگ اسکے متعلق کہا کرتے تھے کہ دجال وہی ہے۔ جب میں ایک جگہ ٹھہرا تو اس سے بھی کہا کہ اپنا سامان اس درخت کے نیچے رکھ دو۔ اتنے میں اس نے کچھ بکریاں دیکھیں تو پیالہ لے کر گیا اور ان کا دودھ نکال کر لایا اور مجھ سے کہا کہ اسے پیو۔ لیکن مجھے اس کے ہاتھ سے کوئی چیز پینے میں کراہت محسوس ہوئی کیونکہ لوگ اسے دجال کہتے تھے۔ لہذا میں نے اس سے یہ کہہ دیا کہ آج گرمی ہے اور میں گرمی میں دودھ پینا پسند نہیں کرتا۔ اس نے کہا: ابوسعید میں نے لوگوں کی ان باتوں سے جو وہ میرے متعلق کہتے ہیں تک آ کر فیصلہ کیا کہ رہی نے کر درخت سے باندھوں اور گاگھونٹ کرم جاؤں۔ دیکھو اگر میری حیثیت کمی اور پر پوشیدہ رہے تو رہے تم لوگوں پر تو پوشیدہ نہیں رہتی چاہئے اس لیے تم لوگ احادیث رسول اللہ ﷺ کو تمام لوگوں سے زیادہ جانتے ہو۔ ان انصاریوں کی جماعت کیا رسول اللہ ﷺ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ کافر سے جب کہ میں مسلمان ہوں؟ کیا آپ ﷺ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ ناقابل تولد

۲۰۶۶۔ حَدَّثَنَا سَفِيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ نَا عَبْدِ الْأَعْلَى عَنِ الْجَرِيرِيِّ عَنْ أَبِي نُضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ صَحِبَنِي ابْنُ صَبَّادٍ إِمَّا حُجَّاجًا وَ إِمَّا مُعْتَمِرِينَ فَاَنْطَلَقَ النَّاسُ وَتَرَكْتُ أَنَا وَهُوَ فَلَمَّا خَلَصْتُ بِهِ أَقْشَعِرْتُ مِنْهُ وَاسْتَوْحَشْتُ مِنْهُ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ فِيهِ فَلَمَّا نَزَلْتُ قُلْتُ لَهُ ضِعْ مَتَاعَكَ حَيْثُ تِلْكَ الشَّجْرَةَ قَالَ فَأَبْصَرَ غَنَمًا فَآخَذَ الْقَدْحَ فَاَنْطَلَقَ فَاسْتَحَلَبَ ثُمَّ أَتَانِي بِلَبْنٍ فَقَالَ لِي يَا أَبَا سَعِيدٍ اشْرَبْ فَكَرِهْتُ أَنْ أَشْرَبَ عَنْ يَدِهِ شَيْئًا لِمَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهِ فَقُلْتُ لَهُ هَذَا الْيَوْمُ يَوْمٌ صَائِفٌ وَإِنِّي أَكْرَهُ فِيهِ

اللَّبْنِ فَقَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آخُذَ حَبْلًا فَأُوْتِقَهُ إِلَى الشَّجْرَةِ ثُمَّ أَحْتَبِقُ لِمَا يَقُولُ النَّاسُ لِي وَفِي أَرَأَيْتَ مَنْ خَفِيَ عَلَيْهِ حَدِيثِي فَلَنْ يَخْفَى عَلَيْكُمْ أَنْتُمْ أَعْلَمُ النَّاسَ بِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ كَافِرٌ وَأَنَا مُسْلِمٌ

ہوگا اور اس کی اولاد نہ ہوگی جب کہ میں نے اپنا چھوڑا ہے پھر کیا رسول کریم ﷺ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا جب کہ میں اہل مدینہ میں سے ہوں اور اس وقت تمہارے ساتھ مکہ ہی جا رہا ہوں۔ ابوسعید کہتے ہیں کہ اس نے اس قسم کی اتنی دلیلیں پیش کیں کہ میں سوچنے لگا کہ شاید لوگ اسکے متعلق جھوٹی باتیں کہتے ہوں گے۔ پھر اس نے کہا: ابوسعید میں تمہیں ایک سچی خبر بتاتا ہوں کہ اللہ کی قسم میں دجال اور اس کے باپ کو جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ اس وقت کہاں ہے جب اس نے یہ بات کہی تو میں نے کہا خرابی، ہوتیری اے دن۔ یعنی مجھے پھر اس سے بدگمانی ہوگئی کیونکہ آخر میں اس نے ایسی بات کہہ دی تھی۔

یہ حدیث حسن ہے۔

۲۰۶۷۔ حضرت ابن عمرؓ سے منقول ہے۔ کہ آنحضرت ﷺ اپنے چند صحابہ (جن میں عمرؓ بھی شامل تھے) کے ساتھ ابن صیاد کے پاس سے گزرے وہ بنو مغالہ کے قلعے کے پاس لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ آپ ﷺ کی آمد کا اسے اس وقت تک اندازہ نہ ہوا جب تک آنحضرت ﷺ نے اپنا دست مبارک اس کی پیٹھ پر نہیں مار دیا اور فرمایا: کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن صیاد نے آپ ﷺ کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے رسول ہیں پھر ابن صیاد نے رسول اللہ ﷺ سے کہا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر آپ ﷺ نے پوچھا کہ تمہارے پاس کس نوعیت کی خبریں آتی ہیں؟ اس نے کہا جھوٹی بھی اور سچی بھی آپ ﷺ نے فرمایا: تو پھر تیرا کام خلت ہو گیا۔ پھر فرمایا: میں نے دل میں تمہارے متعلق کوئی بات سوچی ہے۔ (لہذا بتاؤ کہ وہ کیا ہے)۔ (۱) اور آپ ﷺ نے یہ آیت سوچ لی ”یوم تاتی..... الایۃ ابن صیاد نے کہا وہ (۲) دن ہے (یعنی دخان کا جزء ہے) آپ ﷺ نے فرمایا: دھکار ہو (۳) تم پر، تم اپنی اوقات سے آگے نہیں بڑھ

الْم يَقُلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ عَقِيمٌ لَا يُؤَلَّدُ لَهُ وَقَدْ خَلَقْتُ وَلَدِي بِالْمَدِينَةِ أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحِلُّ لَهُ مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ أَلَسْتُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ ذَا أَنْطَلِقَ مَعَكَ إِلَى مَكَّةَ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا زَالَ يُجِئِي بِهَذَا حَتَّى قُلْتُ فَلَعَلَّهُ مَكْذُوبٌ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ وَاللَّهِ لَا خَيْرَ لَكَ خَيْرًا حَقًّا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْرِفُهُ وَأَعْرِفُ وَالِدَهُ وَآيِنَ هُوَ السَّاعَةَ مِنَ الْأَرْضِ فَقُلْتُ تَبَا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ

۲۰۶۷۔ حدثنا عبد بن حميد نا عبد الرزاق نا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ بابن صياد في نفر من أصحابه منهم عمر بن الخطاب وهو يلعب مع العُلمان عند اطم بن مغالة وهو غلام فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال اتشهد أنّي رسول الله فنظر إليه ابن صياد قال أشهد أنّك رسول الأمين قال ثم قال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم اتشهد أنّي رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمنت بالله ورسله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتيتك قال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشهد أنّي قد خبأت لك خبيثًا وخبأته يومًا تاتي السماء بدخان مبين

(۱) آپ ﷺ نے اس سے یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ جن اسے امور نبی کی جھوٹی سچی خبریں دیا کرتے تھے۔ (مترجم) (۲) اس نے کہا کہ وہ پوشیدہ بات دن ہے اس کے معنی دھوئیں کے آتے ہیں۔ چنانچہ وہ پوری آیت بتانے میں تو کامیاب نہیں ہوا۔ جو آپ ﷺ نے سوچ رکھی تھی۔ البتہ ایک لفظ ضرور بتا دیا۔ یہ اس کے کاہن ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ (مترجم) (۳) اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی حقیقت واضح ہوگئی ہے وہ ایک کاہن ہے اور کاہن ہی رہے گا لہذا آپ ﷺ نے اسے دھکار دیا کہ تیری اصلیت واضح ہوگئی۔ (مترجم)

سکتے۔ حضرت عمرؓ نے عرض کیا رسول اللہ ﷺ مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن اتار دوں؟ فرمایا: اگر یہ دجال ہی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسے قتل کرنے کی قدرت نہیں دیں گے اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو اسے مارنے میں تمہارے لیے بھلائی نہیں ہے۔ عبدالرزاق کہتے ہیں کہ اس سے مراد دجال ہی ہے۔

فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ هُوَ الدُّخُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَبُ فَلَنْ تَعُدَّ وَقَدْرَكَ قَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي فَأَضْرِبُ عُنُقَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بِكَ حَقًّا فَلَنْ تُسَلِّطَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَأَيْتُكَ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ يَعْنِي الدَّجَالَ

۲۰۶۸۔ حضرت ابوسعیدؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مدینہ کی بعض راہوں میں ابن صیاد کو دیکھا تو اسے روکا وہ ایک یہودی لڑکا تھا اس کے سر پر چوٹی تھی۔ آپ ﷺ کے ساتھ ابوبکرؓ و عمرؓ بھی تھے۔ آپ ﷺ نے اس سے پوچھا: کیا تم میرے متعلق گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: میں اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر آپ ﷺ نے اس سے پوچھا: تم مغیبات میں سے کیا دیکھتے ہو؟ اس نے کہا: عرش کو پانی پر۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ ابلیس کے عرش کو سمندر پر دیکھ رہا ہے۔ آپ ﷺ نے پوچھا: اور کیا دیکھتے ہو؟ اس نے کہا: ایک سچا اور دو جھوٹے یا کہا کہ دو سچے اور ایک جھوٹا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ اس پر مشتبہ ہو گیا ہے اور پھر آپ ﷺ نے اسے چھوڑ دیا۔

۲۰۶۸۔ حدثنا سفيان بن وكيع نا عبد الاعلى عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن صياد في بعض طرق المدينة فاحتبسته وهو غلام يهودي وله ثوبان ومعه أبو بكر وعمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله فقال أتشهد أني رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أرى قال ما ترى عرشا فوق الماء قال النبي صلى الله عليه وسلم يري عرش إبليس فوق البحر قال ما ترى قال أرى صادقا وكاذبين أو صادقين وكاذبا قال النبي صلى الله عليه وسلم لبس عليه فودعه

اس باب میں عمرؓ، حسین بن علیؓ، ابن عمرؓ، ابو زرؓ، ابن مسعودؓ، جابرؓ اور حفصہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے۔

۲۰۶۹۔ حضرت ابوبکرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دجال کے ماں باپ کے ہاں تیس سال تک اولاد نہ ہوگی اس کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوگا جو کانا ہوگا اور اس کا ضرر اس کے نفع سے زیادہ ہوگا۔ اس کی آنکھیں سوئیں گی، دل نہیں سوائے گا۔ پھر آنحضرت ﷺ نے اس کے والدین کا حلیہ وغیرہ بیان کیا اور فرمایا: اس کا باپ کافی لبا اور بالکل دبلا پتلا ہوگا اور اس کی ناک مرخ کی چونچ کی طرح ہوگی۔ جب کہ اس کی ماں کے پستان لے لے ہوں گے اور وہ عورت ہوگی۔ ابوبکرؓ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے یہودیوں کے ہاں ایک بچے کی ولادت کا سنا تو میں اور زبیر بن عوامؓ اسے دیکھنے کے لیے گئے ہم نے اس کے ماں باپ کو

۲۰۶۹۔ حدثنا عبد الله بن معاوية الحمصي نا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكث أبو الدجال وأمه ثلاثين عاما لا يولد لهما ولد ثم يولد لهما غلام أعور أضر شيء وأقله منفعة تنام عيناه ولا ينام قلبه ثم نعت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال أبوه طوال ضرب اللحم كان أنفه منقار وأمه امرأة فراضية طويلة الثديين قال أبو بكر فسمعت بمولود في اليهود

بِالْمَدِينَةِ فَذَهَبْتُ أَنَا وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى
أَبِيهِ فَإِذَا نَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِيهِمَا قُلْنَا هَلْ لَكُمْمَا وَلَدٌ فَقَالَا مَكْنُنَا ثَلَاثِينَ عَامًا لَا
يُولَدُ لَنَا وَلَدٌ نَمُّ وَلَدُنَا غُلَامٌ أَعْوَزَ أَضْرُ شَيْءٍ أَقْلُهُ
مَنْعَةً تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ قَالَ فَخَرَجْنَا مِنْ
عِنْدِهِمَا فَإِذَا هُوَ مُنْجَدِلٌ فِي الشَّمْسِ فِي قِطِيفَةٍ وَهُوَ
هَمَّهْمَةٌ فَكَشَفَ عَنْ رَأْسِهِ فَقَالَ مَا قُلْتُمَا قُلْنَا وَهَلْ
سَمِعْتُمَا قُلْنَا قَالَ نَعَمْ تَنَامُ عَيْنَايَ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي

آنحضرت ﷺ کے بیان کردہ اوصاف کے مطابق پایا۔ میں نے ان
سے پوچھا: کیا تمہاری اولاد ہے؟ انہوں نے کہا ہم تیس سال تک بے
اولاد رہے پھر ہمارے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جو کانا ہے اور اس میں نفع
سے زیادہ ضرر ہے۔ اس کی آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا۔ پھر ہم ان
کے پاس سے نکلے تو اچانک اس لڑکے پر نظر پڑ گئی وہ ایک موٹی روئیں
دار چادر میں دھوپ میں پڑا ہوا تھا اور کچھ گنگنا رہا تھا پھر اس نے ہم
سے پوچھا کہ تم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کیا تم نے سن لیا؟ کہنے لگا ہاں
میری آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا۔

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف حماد بن سلمہ کی روایت سے جانتے ہیں۔

توضیح: ابن صیاد کا اصل نام "صاف" تھا۔ جبکہ بعض حضرات عبد اللہ کہتے ہیں۔ وہ ایک یہودی تھا اور جادو کھانت میں زبردست
مہارت رکھتا تھا۔ اس کی شخصیت پر اسرار بن کر رہ گئی تھی کیونکہ آنحضرت ﷺ کو بھی وحی کے ذریعے اس کے متعلق متعین طور پر نہیں بتایا
گیا۔ چنانچہ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ وہی دجال ہے جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگا اور حضرت عیسیٰؑ اسے قتل کریں گے۔ ان کی دلیل حدیث
باب ہے۔ جب کہ بعض صحابہ کہتے تھے کہ وہ کانا دجال تو نہیں لیکن چھوٹے دجالوں میں سے ضرور ہے کیونکہ پہلے یہ کانا دجال تھا لیکن بعد
میں مسلمان ہو گیا اور حج و جہاد میں بھی مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوا۔ جب کہ دجال کافر ہوگا کفر ہی کی حالت میں مرے گا نیز مدینے اور
مکہ میں اس کا داخلہ ممنوع ہوگا۔ اس کی اولاد نہیں ہوگی پھر حضرت تمیم داری کی حدیث بھی یہ لوگ اپنی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں جس
میں ایک کشتی کے سمندر میں طوفان گھر جانے اور ایک جزیرے میں اتر کر دجال کو دیکھنے کا ذکر ہے۔ اس سے یہی واضح ہوتا ہے اس کی
حیثیت و حقیقت مبہم ہی رہی۔ شاید اس سے مقصود مسلمانوں کی آزمائش ہو۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۱۴۴۷۔ بلا عنوان

باب ۱۴۴۷۔

۲۰۷۰۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آج کے دن
کوئی شخص ایسا نہیں کہ اس پر سو برس گزر جائیں یعنی سو برس تک سب
مر جائیں گے۔ (۱)

۲۰۷۰۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ أَبِي مَعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ
أَبِي سُوَيْبَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَلَى الْأَرْضِ نَفْسٌ مَنُفُوسَةٌ يَعْنِي
الْيَوْمَ يَأْتِي عَلَيْهَا مِائَةٌ سَنَةً

اس باب میں ابن عمر، ابو سعید اور بریرہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے۔

۲۰۷۱۔ حضرت عبد اللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے اپنی
حیات طیبہ کے آخری ایام میں ایک مرتبہ ہمارے ساتھ نماز عشاء
پڑھی۔ پھر سلام پھیر کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا: دیکھو جو لوگ آج کی
رات زندہ ہیں ان میں سے کوئی سو سال کے بعد زندہ نہیں رہے گا

۲۰۷۱۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنِ حَمِيدٌ نَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ نَا مَعْمَرٌ
عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَابْنِ بَكْرِ بْنِ
سَلِيمَانَ وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَكْمَةَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمَرَ قَالَ
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ

(۱) اس سے یہ مراد نہیں کہ قیامت آجائے گی بلکہ یہ ہے کہ اس طبقے کے لوگ ختم ہو جائیں گے جیسا کہ بعد والی حدیث میں آ رہا ہے (مترجم)

ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے آنحضرت ﷺ سے یہ حدیث نقل کرنے میں غلطی کی اور اسے سو برس تک باقی نہ رہنے کے معنی میں نقل کیا حالانکہ درحقیقت آنحضرت ﷺ کی مراد یہ تھی کہ سو سال بعد اس قرن (صدی یا زمانے) کے لوگ ختم ہو جائیں گے۔

صَلَاةَ الْعِشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ
اُرَيْتَكُمْ لَيْتَكُمْ هَذِهِ عَلِيٌّ رَأْسَ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا اُرَيْتُمْ
مِمَّنْ هُوَ عَلِيٌّ ظَهَرَ الْاَرْضِ اَحَدًا قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَوَهَلِ
النَّاسُ فِي مَقَالَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تِلْكَ فِيمَا يَتَحَدَّثُونَ بِهَذَا الْاِحَادِيثِ نَحْوِ مِائَةِ سَنَةٍ
وَاِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُبْقَى
مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلِيٌّ ظَهَرَ الْاَرْضِ اَحَدٌ يُرِيدُ بِذَلِكَ
اَنْ يَنْحَرِمَ ذَلِكَ الْقَرْنُ
یہ حدیث صحیح ہے۔

باب ۱۳۳۸۔ ہوا کو برا بھلا کہنے کی ممانعت

۲۰۷۲۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم
کبھی برامت کہو اور اگر یہ اتنی چلے کہ تمہارے لیے تکلیف کا باعث ہو۔
یہ دعا پڑھو۔ اللہم سے آخر تک اے اللہ ہم تجھ سے اس ہوا اور اس میں جو
کچھ ہے ان میں سے بہتری کے طلبگار ہیں۔ نیز اس چیز کی بہتری کے
بھی طلبگار ہیں جس کی وہ مامور ہے پھر ہم اس میں موجود شر اور جس شر
کے لیے وہ مامور ہے اس سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔

باب ۱۴۴۸۔ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ سَبِّ الرِّيَّاحِ
۲۰۷۲۔ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ
الشَّهِيدِ نَا مُحَمَّدِ بْنِ فَضِيلِ نَا الِاعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ
بْنِ اَبِي ثَابِتٍ عَنْ ذَرِّعِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
اِبْدِيٍّ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا الرِّيَّاحَ فَاِذَا رَأَيْتُمْ مَا
تَكْرَهُوْنَ فَقُولُوا اَللَّهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ
الرِّيَّاحِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَخَيْرِ مَا اَمْرَتْ بِهٖ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ
شَرِّ هَذِهِ الرِّيَّاحِ وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا اَمْرَتْ بِهٖ

اس باب میں عائشہؓ، ابو ہریرہؓ، عثمان بن ابوعاصؓ، انسؓ، ابن عباسؓ اور جابرؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۰۷۳۔ حضرت فاطمہ بنت قیسؓ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ
ممبر پر چڑھے اور ہنستے ہوئے فرمایا کہ تمہیں داری نے مجھ سے دیکھ لیا
بیان کیا ہے جس سے میں بہت خوش ہوا چنانچہ میں نے چاہا کہ تمہیں
بھی سادوں کو اہل فلسطین میں سے چند لوگ ایک کشتی میں سوار کروں۔
یہاں تک کہ وہ کشتی موجوں میں گھر گئی جس نے انہیں ایک جزیرے پر
پہنچا دیا۔ وہاں انہوں نے ایک لمبے بالوں والی عورت دیکھی۔ انہوں
نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا: میں جسامہ ہوں۔ انہوں
نے کہا: پھر ہمیں کچھ بتاؤ۔ اس نے کہا: نہ میں تمہیں کچھ بتاتی ہوں اور نہ
ہی پوچھتی ہوں۔ ہاں تم لوگ بستی کے کنارے پر چلو وہاں کوئی تم سے

۲۰۷۳۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا مَعَاذُ بْنُ هِشَامٍ
اَنَا اَبِي عَنْ فَتَاوَهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ
اَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِدَ الْمُنْبَرِ
فَضَحِكَ فَقَالَ اِنَّ نَمِيمًا الدَّارِيَّ حَدَّثَنِي بِحَدِيثٍ
فَقَرَحْتُ فَاَحْبَبْتُ اَنْ اَحْبَبْتُمْ اَنْ نَاسًا مِنْ اَهْلِ
فِلَسْطِيْنَ رَكِبُوا سَفِيْنَةً فِي الْبَحْرِ فَحَالَتْ بِهَمَّ حَتَّى
قَدَفْتَهُمْ فِي جَزِيْرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ فَاِذَا هُمْ بِدَايَةِ
لِمَاسَةِ نَاشِرَةٍ شَعْرَهَا فَقَالُوا مَا اَنْتِ قَالَتْ اَنَا
الْحِجَاسَةُ قَالُوا فَاخْبِرِيْنَا قَالَتْ لَا اُخْبِرُكُمْ وَلَا

أَسْتَحْبِرُّكُمْ وَلَكِنْ اتُّوا أَقْصَى الْقَرْيَةِ فَإِنَّ نَمَّ مَنْ يُخْبِرُكُمْ وَيَسْتَحْبِرُّكُمْ فَاتَيْنَا أَقْصَى الْقَرْيَةِ فَإِذَا رَجُلٌ مُوْتَقٌّ بِسِلْسِلَةٍ فَقَالَ أَخْبِرُونِي عَنْ عَيْنِ زُعَرَ قُلْنَا مَلَأَى تَدْفِقُ قَالَ أَخْبِرُونِي عَنْ نَخْلِ بَيْسَانَ الَّذِي بَيْنَ الْأَرْدُنِّ وَفِلَسْطِينَ هَلْ أَطْعَمَ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ أَخْبِرُونِي عَنْ النَّبِيِّ هَلْ بُعِثَ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ أَخْبِرُونِي كَيْفَ النَّاسُ إِلَيْهِ قُلْنَا سِرَاعٌ فَزَيَّ نَزْوَةٌ حَتَّى كَادَ قُلْنَا فَمَا أَنْتَ قَالَ أَنَا الدَّجَالُ وَ إِنَّهُ يَدْخُلُ الْأَمْصَارَ كُلَّهَا إِلَّا طَيْبَةَ وَطَيْبَةَ الْمَدِينَةِ

کچھ پوچھے گا بھی اور بتائے گا بھی۔ چنانچہ ہم لوگ وہاں گئے تو دیکھا کہ ایک شخص زنجیروں میں بندھا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا: مجھے چشمہ زغر کے متعلق بتاؤ؟ ہم نے کہا وہ بھرا ہوا ہے اور اس سے پانی چھلک رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے بحیرہ (طبریہ) کے متعلق بتاؤ؟ ہم نے کہا اس سے بھی پانی چھلک رہا ہے۔ پھر اس نے اردن اور فلسطین کے درمیان موجود بیسان کی کھجوروں کے متعلق پوچھا۔ ہم نے کہا ہاں وہ پھل دیتی ہیں۔ پھر اس نے پوچھا: کیا کوئی نبی مبعوث ہوا ہے؟ ہم نے کہا: ہاں۔ اس نے پوچھا کہ لوگ ان کی دعوت کس طرح قبول کرتے ہیں؟ ہم نے کہا: تیزی کے ساتھ اس مرتبہ اس نے اپنے جسم کو اس زور سے حرکت دی کہ ہم نے سمجھا شاید یہ ابھی کھل جائے۔ پھر ہم نے اس سے پوچھا: تم کون ہو؟ اس نے کہا: میں دجال ہوں۔ اور وہ تمام شہروں میں جائے گا سوائے طیبہ کے اور طیبہ مدینہ منورہ ہے۔

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ یعنی قتادہ کی شععی سے نقل کردہ حدیث کئی اور راوی بھی حضرت فاطمہ بنت قیسؓ سے بواسطہ شععی اسے نقل کرتے ہیں۔

۲۰۷۴۔ حضرت حذیفہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مؤمن کو زیب نہیں دیتا کہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ عرض کیا گیا وہ کیسے؟ فرمایا: وہ اس طرح کہ خود کو ایسی مصیبت میں ڈال دے کہ اس سے نمٹنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو۔

۲۰۷۴۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ نَا حَمَادُ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جُنْدُبٍ عَنْ حَذِيفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ قَالُوا وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ قَالَ يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَا يُطِيقُ

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

۲۰۷۵۔ حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اپنے مظلوم اور ظالم بھائی کی مدد کرو۔ عرض کیا گیا: مظلوم کی مدد تو میں نے کی۔ لیکن اس کے ظالم ہونے کی صورت میں کس طرح اس کی مدد کروں؟ فرمایا: اسے ظلم کرنے سے روکو یہی اس کی مدد ہے۔

۲۰۷۵۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْمُؤَدَّبُ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ نَا حَمِيدُ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَصْرَتُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ أَنْصُرُ ظَالِمًا قَالَ تَكْفُمُهُ عَنِ الظُّلْمِ فَذَاكَ نَصْرُكَ إِيَّاهُ

اس باب میں عائشہؓ سے بھی حدیث نقل کی گئی ہے۔ حضرت انسؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۰۷۶۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے جنگل میں سکونت اختیار کی وہ سخت خوار بدخلق ہو گیا۔ (کیونکہ اسے لوگوں سے ملنے کا اتفاق کم ہوتا ہے۔ اور جس نے شکار کا پیچھا کیا وہ غافل ہو گیا نیز جو حاکموں کے دروازے پر گیا وہ فتنوں میں مبتلا ہو گیا۔

۲۰۷۶۔ حدثنا محمد بن بشار نا عبدالرحمن بن مهدى نا سفيان عن ابى موسى عن وهب بن منبىة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد عفل ومن اتى ابواب السلطان افتن

اس باب میں ابو ہریرہؓ سے بھی حدیث منقول ہے۔ یہ حدیث ابن عباسؓ کی روایت سے حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف ثوری کی سند سے جانتے ہیں۔

۲۰۷۷۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم لوگ مدد کیے جانے والے ہو اور تم لوگوں کو مال و دولت عطا کیا جائے گا۔ نیز تمہارے ذریعے بڑے بڑے قلعے اور بہت سے شہر فتح کیے جائیں گے۔ لہذا جس کو یہ انعامات عطا کیے جائیں اسے چاہئے کہ وہ اللہ رب العزت سے ڈرے اور بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ پھر جو شخص میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرے گا وہ اپنے لیے جہنم میں ٹھکانہ بنا لے۔

۲۰۷۷۔ حدثنا محمود بن غيلان نا ابو داود انبانا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انكم منصورون ومصيبون ومفتوح لكم فمَنْ ادرك ذاك منكم فليتيق الله وليامر بالمعروف ولينه عن المنكر ومن يكذب على فليتبوا مقعده من النار

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۰۷۸۔ حضرت حذیفہؓ کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے لوگوں سے دریافت کیا کہ فتنے کے متعلق آنحضرت کے ارشاد کو کون بخوبی بیان کر سکتا ہے؟ میں نے عرض کیا: میں۔ پھر میں نے بیان کیا کہ کسی شخص کے لیے اس کے اہل و عیال، مال اور اس کا پڑوسی فتنہ ہیں (یعنی ان کے حقوق کی ادائیگی میں نقص رہ جاتا ہے) اور ان فتنوں کا کفارہ نماز، روزہ، صدقہ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا: میں اس فتنے کے متعلق نہیں پوچھ رہا میں تو اس فتنے کی بات کر رہا ہوں جو سمندر کی موج کی طرح اٹھے گا۔ میں نے عرض کیا: امیر المؤمنین آپ کے اور اس عظیم فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ حائل ہے۔ فرمایا: کیا وہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ عرض کیا: توڑا جائے گا۔ فرمایا: تو پھر وہ قیامت تک دوبارہ بند نہیں ہوگا۔ ابو داؤد اپنی حدیث میں حماد کا یہ قول بھی نقل کرتے ہیں کہ میں نے مسروق سے کہا کہ حذیفہؓ سے پوچھئے کہ

۲۰۷۸۔ حدثنا محمود بن غيلان نا ابو داود نا شعبة عن الاعمش وعاصم بن بهدلة وحماد سمعوا ابا وائل عن حذيفة قال قال عمر اتيكم يحفظ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنه فقال حذيفة انا قال حذيفة فتنه الرجل في اهله وماله وولده وجاهه تكفرها الصلوة والصوم والصدقة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر قال عمر لست عن هذا اسئلك ولكن عن الفتنه التي تموج كموج البحر قال يا امير المؤمنين ان بينك وبينها بابا مغلقا قال عمر ايفتح ام يكسر قال بل يكسر قال اذن لا يعلق الى يوم القيامة قال ابو وائل في حديث حماد فقلت لمسروق سل حذيفة عن

الْبَابِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ عُمَرُ

وہ دروازہ کیا ہے؟ فرمایا: وہ حضرت عمرؓ کی ذات ہے۔

یہ حدیث صحیح ہے۔

توضیح: اس فتنے سے مراد مسلمانوں کے مابین اٹھنے والے فتنے، جنگیں اور لڑائی جھگڑا وغیرہ ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ جب تک حضرت عمرؓ کی ذات اقدس مسلمانوں میں موجود رہے گی یہ فتنے سر نہیں اٹھائیں گے اور ان کی وفات کے بعد امن و امان ختم ہو جائے گا اور فتنے سر اٹھائیں گے پھر وہ کبھی ختم نہیں ہو گے۔ واللہ اعلم (مترجم)

۲۰۷۹۔ حضرت کعب بن عجرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ ہماری طرف تشریف لائے ہم کل نو آدمی تھے جن میں سے پانچ عربی اور چار عجمی یا اس کے برعکس۔ آپ نے فرمایا: سنو کیا تم لوگوں نے سنا کہ میرے بعد ایسے حاکم اور امراء آئیں گے کہ اگر کوئی شخص ان کے دربار میں جائے گا، ان کی جھوٹے ہونے کے باوجود تصدیق کرے گا۔ اور ان کی ظلم پر اعانت کرنے کا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی وہ میرے حوض پر آئے گا ہاں جو ان حکام کے پاس نہیں جائے گا۔ ان کی ظلم پر اعانت نہیں کرے گا اور ان کے جھوٹ بولنے کے باوجود ان کی تصدیق نہیں کرے گا وہ مجھ سے اور میں اس سے وابستہ ہوں اور وہ شخص میرے حوض پر آسکے گا۔

۲۰۷۹۔ حَدَّثَنَا هَارُونَ بْنُ اسْحَقَ الهمداني نا محمد بن عبد الوهاب عن مسعر عن ابي حصين عن الشعبي عن العَدَوِيِّ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ قَالَ خَرَجَ الْبِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ تِسْعَةٌ، خَمْسَةٌ وَارْبَعَةٌ أَحَدُ الْعَدَدِيِّينَ مِنَ الْعَرَبِ وَالْآخَرُ مِنَ الْعَجَمِ فَقَالَ اسْمَعُوا هَلْ سَمِعْتُمْ أَنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي أُمَّرَاءُ فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكُذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَى الْحَوْضِ وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُعْنَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَلَمْ يُصَدِّقَهُمْ بِكُذِبِهِمْ فَهُوَ مِنِّي وَ أَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَارِدٌ عَلَى الْحَوْضِ

یہ حدیث صحیح غریب ہے۔ ہم اسے مسعر کی روایت سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ ہارون یہ حدیث محمد بن عبد الوهاب سے وہ سفیان سے وہ ابو حسین سے وہ شعبی سے وہ عاصم عدوی سے وہ کعب بن عجرہ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ پھر ہارون محمد سے وہ سفیان سے وہ زبید سے وہ ابراہیم سے (یہ ابراہیم نخعی نہیں) وہ کعب بن عجرہ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے مسعر ہی کی حدیث کی طرح بیان کرتے ہیں۔ اس باب میں حدیث اور ابن عمرؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔

۲۰۸۰۔ حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ ﷺ نے فرمایا: لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اپنے دین پر قائم رہنے والا ہاتھ میں انگارا پکڑنے والے کی طرح تکلیف میں مبتلا ہوگا۔

۲۰۸۰۔ حَدَّثَنَا محمود بن غيلان نا ابو داود حدثنا اسمعيل بن موسى الفزارى ابن ابنة السدى الكوفى نا عمر بن شاكِرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيهِمْ عَلَى دِينِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْحَمْرِ

یہ حدیث اس سند سے غریب ہے۔ عمر بن شاکر: بصری ہیں ان سے کئی اہل علم احادیث نقل کرتے ہیں۔

۲۰۸۱- حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ ایک مرتبہ چند بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس کھڑے ہوئے اور فرمایا: کیا میں تمہیں اچھوں اور بروں کے متعلق بتاؤں؟ وہ لوگ خاموش رہے تو آپ ﷺ نے یہی جملہ تین مرتبہ دہرایا۔ اس پر ایک شخص نے عرض کیا۔ کیوں نہیں یا رسول اللہ ﷺ ہمیں بتائیے کہ ہم میں کون اچھا اور کون برا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے نیک اور اچھا وہ شخص ہے۔ جس سے لوگ نیکی ہی کی امید رکھیں اور اس کے شر سے بے خوف ہوں جب کہ بدترین شخص وہ ہے جس سے نیکی کی کوئی امید نہ ہو بلکہ اس کے شر سے بھی لوگ محفوظ نہ ہوں۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

۲۰۸۲- حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب میری امت کے لوگ اڑا اڑا کر چلیں گے اور بادشاہوں کی اولاد (یعنی مفتوحہ علاقوں کے بادشاہوں کی اولاد جو مسلمانوں کی غلام ہوگی) ان کی خدمت کرے گی یعنی فارس و روم کی اولاد تو ان کے نیک لوگوں پر ان کے بدترین لوگ مسلط کر دیئے جائیں گے۔

یہ حدیث غریب ہے اسے ابو معاویہ بھی یحییٰ بن سعید انصاری سے نقل کرتے ہیں۔ ہم سے اسے محمد بن اسماعیل نے ابو معاویہ کے حوالے سے انہوں نے یحییٰ بن سعید انصاری کے حوالے سے انہوں نے عبد اللہ بن دینار کے انہوں نے ابن عمرؓ کے اور انہوں نے آنحضرت ﷺ کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ جب کہ ابو معاویہ کی یحییٰ بن سعید سے بواسطہ عبد اللہ بن دینار حضرت ابن عمرؓ سے منقول حدیث کی کوئی اصل نہیں۔ مشہور حدیث موسیٰ بن عبیدہ ہی کی ہے۔ پھر مالک بن انس بھی یہی حدیث یحییٰ بن سعید سے مرسل نقل کرتے ہوئے عبد اللہ بن دینار کو سند میں بیان نہیں کرتے۔

۲۰۸۳- حضرت ابو بکرؓ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی برکت سے ایک فتنے سے بچایا جو میں نے آنحضرت ﷺ سے سنا تھا کہ جب کسری ہلاک ہوا تو آپ ﷺ نے پوچھا: اس کا خلیفہ کسے بنایا گیا؟ عرض کیا گیا: اس کی بیٹی کو۔ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جن پر کوئی عورت حکمرانی کرتی ہو ابو بکرؓ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عائشہؓ بصرہ آئیں تو مجھے آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد یاد آ گیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی معیت سے بچالیا۔ (۱)

۲۰۸۱- حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَقَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِكُمْ مِنْ شَرِّكُمْ قَالَ فَسَكَتُوا فَقَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ رَجُلٌ بَنِي يَارَسُولَ اللَّهِ أُخْبِرْنَا بِخَيْرِنَا مِنْ شَرِّنَا قَالَ خَيْرِكُمْ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ وَشَرُّكُمْ مَنْ لَا يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ

۲۰۸۲- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكِنْدِيُّ نَا زَيْدِ بْنِ حَبَابٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ثَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَشَتْ أُمَّتِي الْمُطَيَّبَاتُ وَخَدَمَهَا أَبْنَاءُ الْمُلُوكِ أَبْنَاءُ فَارِسَ وَالرُّومِ سَلِطَ شَرُّهَا عَلَى خِيَارِهَا

۲۰۸۳- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ نَا حَمِيدُ الطَّوِيلِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ عَصَمَنِي اللَّهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى قَالَ مَنْ اسْتَخْلَفُوا قَالُوا ابْنَتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْتُ عَائِشَةَ يَعْنِي الْبَصْرَةَ ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَصَمَنِي اللَّهُ بِهِ

(۱) اس حدیث میں جنگ کی طرف اشارہ ہے جو حضرت علیؓ اور حضرت عائشہؓ کے مابین ہوئی۔ (مترجم)

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۰۸۴۔ حضرت عمر بن خطابؓ، رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا میں تمہیں تم لوگوں کے بہترین اور بدترین حکام کا نہ بتاؤں؟ بہترین حکام وہ ہیں جنہیں تم بھی چاہتے ہو اور وہ بھی تمہیں چاہتے ہیں نیز تم ان کے لیے دعائیں کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ جب کہ بدترین حکام وہ ہیں جن سے تم لوگ بھی بغض رکھتے ہو اور وہ بھی تم سے بغض رکھتے ہیں پھر تم ان لوگوں پر اور وہ تم لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف محمد بن حمید کی روایت سے جانتے ہیں اور یہ ضعیف ہیں۔

۲۰۸۵۔ حضرت ام سلمہؓ، رسول اللہ ﷺ کا یہ قول نقل کرتی ہیں کہ فرمایا: میری امت میں عنقریب ایسے حاکم آئیں گے جنہیں تم (ابھی اعمال کی وجہ سے پسند بھی کرو گے اور بعض برے اعمال کی وجہ سے) ناپسند بھی کرو گے۔ چنانچہ جوان کے منکرات کو ناپسند کرے گا وہ بری الذمہ ہے اور جوان کے منکرات کو برا جانے گا وہ ان کا گناہ میں شریک ہونے سے بچ جائے گا۔ لیکن جو شخص ان سے رضا مندی ظاہر کرے گا اور ان کا ساتھ دے گا وہ ہلاک ہو گیا۔ پھر کسی نے پوچھا: کیا ہم ان سے جنگ نہ کریں؟ فرمایا: نہیں جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں۔

۲۰۸۶۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تم لوگوں کے حکام تمہارے بہترین لوگ ہوں۔ تمہارے اغنیاء تمہارے سخی ترین لوگ ہوں اور تم لوگ اپنے کام آپس میں مشورے سے کرتے ہو تو تم لوگوں کے لیے زمین کی پیٹھ اس کے پیٹھ سے بہتر ہے۔ یعنی زندہ رہ کر چلنا پھرنا مرکز زمین میں دفن ہو جانے سے بہتر ہے۔ لیکن جب تمہارے حاکم بدترین لوگ ہوں، تمہارے اغنیاء بخیل ہوں اور تم لوگوں کے کام عورتوں کے سپرد کر دیئے گئے ہوں زمین کا پیٹھ اس کی پیٹھ سے بہتر ہے یعنی موت زندگی سے بہتر ہے۔

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف صالح مری کی روایت سے جانتے ہیں اور ان کی روایتیں ایسی ہیں کہ انہیں کسی اور نے نقل نہیں کیا۔ نیز وہ نیک شخص ہیں۔

۲۰۸۴۔ حدثنا محمد بن بشار نا ابو عامر نا محمد بن ابی حمید عن زید بن اسلم عن ابيه عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الا اخيركم بخيار امراءكم وشرارهم خيارهم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم وشرار امراءكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم

۲۰۸۵۔ حدثنا الحسن بن علي الخلال نا يزيد بن هارون نا هشام بن حسان عن الحسن عن ضبة بن محصن عن ام سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انه سيكون عليكم ائمة تعرفون وتتكفرون فمن انكر فقد بري ومن كره فقد سلم ولكن من رضى وتابع فليل يا رسول الله افلا نقاتلهم قال لا ما صلوا

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۰۸۶۔ حدثنا احمد بن سعيد الاشقر نا يونس بن محمد و هاشم بن القاسم قال نا صالح المري عن سعيد الجري عن ابى عثمان النهدي عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت امراءكم خياركم واغنياءكم سمحاءكم واموركم شورى بينكم فظهور الارض خير لكم من بطنها واذا كانت امراءكم شراركم واغنياءكم فبخلانكم واموركم الى نساءكم فبطن الارض خير لكم من ظهرها

۲۰۸۷۔ حضرت ابو ہریرہؓ، آنحضرت ﷺ نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: تم لوگ ایسے زمانے میں ہو کہ اگر تم میں سے کوئی اس چیز کا دسواں حصہ بھی چھوڑ دے جس کا اسے حکم دیا گیا ہے تو ہلاک ہو گیا۔ لیکن بعد میں ایسا وقت آنے والا ہے کہ اگر اس میں کوئی دس فیصد بھی اپنے مامور بہ کو انجام دیتا رہا وہ نجات پا گیا۔

۲۰۸۷۔ حدثنا ابراهيم بن يعقوب الحوز جاني نا نعيم بن حماد عن سفيان بن عيينة عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم في زمان من ترك منكم عشر ما امر به هلك ثم ياتي زمان من عمل منهم بعشر ما امر به نجا

یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرف نعیم بن حماد کی روایت سے جانتے ہیں اور وہ سفیان بن عیینہ سے نقل کرتے ہیں۔ اس باب میں ابو ذرؓ اور ابو سعیدؓ سے بھی احادیث نقل کی گئی ہیں۔

۲۰۸۸۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک مرتبہ پر کھڑے ہوئے اور فرمایا: فتنوں کی زمین اس طرف ہے اور مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جہاں سے شیطان کا سینگ یا فرمایا: سورج کا سینگ نکلتا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۰۸۸۔ حدثنا عبد بن حميد نا عبد الرزاق نا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ههنا أرض الفتن وأشار إلى المشرق حيث يطلع قرن الشيطان أو قال قرن الشمس

۲۰۸۹۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے انہیں کوئی نہیں روک سکے گا یہاں تک کہ وہ بیت المقدس میں نصب ہوں گے۔ (۱)

۲۰۸۹۔ حدثنا قتيبة نا رشدين بن سعد عن يونس عن ابن شهاب الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن ابي هريرة عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من خراسان آيات سود فلا يردّها شيء حتى تنصب بالبياء

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

خواب کے متعلق رسول کریم ﷺ سے

منقول احادیث کے ابواب

باب ۱۳۴۹۔ مؤمن کا خواب نبوت کے چھالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔

۲۰۹۰۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب زمانہ قریب ہو جائے گا۔ (۲) تو مؤمن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا۔ اور سچا

أَبْوَابُ الرُّؤْيَا عَنِ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب ۱۴۴۹۔ أَنَّ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِّنْ سُنَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِّنَ النَّبُوءَةِ

۲۰۹۰۔ حدثنا نصر بن علي نا عبد الوهاب الثقفي نا ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة قال

(۱) یہ جھنڈے امام مہدی کے زمانے میں نکلیں گے جو ان کے مددگار و معاون ہوں گے۔ واللہ اعلم (حجرت)

(۲) زمانے کی قربت کے متعلق علماء کے تین اقوال ہیں۔ (۱) جب قیامت قریب ہوگی۔ (۲) اس سے مراد ان رات کا اور ہونا ہے۔ (۳) اس سے مراد زمانے کا

چھوٹا ہونا ہے یعنی قیامت کے قریب (بے برکتی کی وجہ سے) سال مہینوں کے برابر ہوں گے اور اسی طرح ماہ یعنی کا اور ہفت دن کے برابر ہوگا ویرہ (مترجم)

خواب اس کا ہوتا ہے جو خود سچا ہو۔ نیز مسلمان کا خواب نبوت کے چھالیس حصوں میں سے ایک ہے۔ (۱) پھر خوب تین قسم کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک تو اچھے خواب جو اللہ کی طرف سے بشارت ہوتے ہیں دوسرے وہ جو شیطان کی طرف سے غم میں مبتلا کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اور تیسرے وہ خواب جو انسان اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے وہی نیند میں متصور ہو جاتے ہیں۔ لہذا اگر تم میں سے کوئی خواب میں ایسی چیز دیکھے جسے وہ پسند نہ کرتا ہو تو کھڑا ہو کر تھوک دے اور لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے۔ (۲) پھر آپ ﷺ نے فرمایا: کہ میں خواب میں زنجیر دیکھنا پسند کرتا ہوں کیونکہ (اس کی تعبیر دین پر ثابث قدم رہنا ہے جب کہ گلے میں ڈالے جانے والے طوق کو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكْذُرُوا الْمُؤْمِنِينَ تَكْذِبًا وَأَصْدَقُهُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُهُمْ حَدِيثًا وَرُؤْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوءَةِ وَالرُّؤْيَا ثَلَاثٌ فَالرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ بُشْرَى مِنَ اللَّهِ وَالرُّؤْيَا مِنْ تَحْزِينِ الشَّيْطَانِ وَالرُّؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ بِهَا الرَّجُلُ نَفْسَهُ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُمْ وَلْيَتْفَلْ وَلَا يُحَدِّثْ بِهِ النَّاسَ قَالَ وَأَحَبُّ الْقَيْدِ فِي النَّوْمِ وَأَكْرَهُهُ الْغُلُّ الْقَيْدُ نَبَاتٌ فِي الدِّيْنِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۰۹۱۔ حضرت عبادہ بن صامتؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مؤمن کا خواب نبوت کے چھالیس اجزاء میں سے ایک جزء ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

۲۰۹۱۔ حدثنا محمود بن غيلان نا ابو داود عن شعبة عن قتادة سمع انسا يُحَدِّثُ عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوءَةِ

اس باب میں ابو ہریرہؓ، ابو زرین عقیلیؓ، انسؓ، ابوسعیدؓ، عبداللہ بن عمروؓ، عوف بن مالکؓ اور ابن عمرؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔

باب ۱۴۵۰۔ نبوت ختم ہوگئی۔ اور مبشرات باقی ہیں۔

باب ۱۴۵۰۔ ذَهَبَتِ النَّبُوءَةُ وَبَقِيَتِ الْمُبَشِّرَاتُ

۲۰۹۲۔ حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: رسالت اور نبوت منقطع ہوگئی ہیں اور اب میرے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ لوگوں پر یہ بات شاق گزری تو آپ ﷺ نے فرمایا: لیکن مبشرات باقی رہیں گی۔ عرض کیا گیا کہ مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا: مسلمان

۲۰۹۲۔ حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني نا عفان بن مسلم نا عبد الواحد نا المختار بن قلفل نا انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرسل انما لي من قبله والرسالة والنبوته

(۱) مؤمن کا خواب نبوت کے چھالیس حصوں میں سے ایک ہے۔ اس موضوع سے متعلق کئی احادیث کتب احادیث میں مذکور ہیں بعض میں ستر حصوں کا تذکرہ ہے بعض میں چالیس اور بعض میں اتالیس، و مالی ذک۔ اس کے متعلق قاضی عیاض، طبری کا قول نقل کرتے ہیں کہ یہ اختلاف خواب دیکھنے والے کے حساب سے ہوتا ہے۔ چنانچہ مؤمن صالح کا خواب چھالیسواں حصہ ہے اور فاسق کاستراں حصہ۔ ایک اور قول یہ بھی ہے۔ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ خواب نبوت کی موافقت کی وجہ سے آتے ہیں۔ اس لیے کہ صرف یہی ایک ایسا جزء ہے جو نبوت کے اجزاء میں سے قیامت تک باقی ہے اور یہی زیادہ مختار ہے اگرچہ

اس مسئلہ میں علماء کے کئی اقوال ہیں۔ واللہ اعلم (مترجم)

(۱) اس کی تفصیل آئندہ احادیث میں آئے گی۔ انشاء اللہ (مترجم)

کا خواب اور یہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک ہے۔

فَدَانِقَطَعَتْ فَلَا رَسُولَ بَعْدِي وَلَا نَبِيٍّ قَالَ
فَتَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ لَكِنَّ الْمُبَشِّرَاتِ
فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْمُبَشِّرَاتِ قَالَ رُؤْيَا
الْمُسْلِمِ وَهِيَ حُرُزٌ مِنْ أَجْزَاءِ النُّبُوَّةِ

اس باب میں ابو ہریرہؓ، حذیفہ بن اسیدؓ، ابن عباسؓ اور ام کرزہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں یہ حدیث اس سند سے صحیح غریب ہے۔

۲۰۹۳۔ حدثنا ابن ابی عمر نا سفیان عن ابن
الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ
قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ لَهُمْ
الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَقَالَ مَا سَأَلَنِي عَنْهَا أَحَدٌ
غَيْرُكَ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ مُنْذُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا سَأَلَنِي عَنْهَا أَحَدٌ غَيْرُكَ مُنْذُ أَنْزَلْتُ
هِيَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةَ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تَرَى لَهُ
کہ اسے دکھایا جاتا ہے۔ (۲)

۲۰۹۳۔ حدثنا ابن ابی عمر نا سفیان عن ابن
الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ
قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ لَهُمْ
الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَقَالَ مَا سَأَلَنِي عَنْهَا أَحَدٌ
غَيْرُكَ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ مُنْذُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا سَأَلَنِي عَنْهَا أَحَدٌ غَيْرُكَ مُنْذُ أَنْزَلْتُ
هِيَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةَ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تَرَى لَهُ

اس باب میں عبادہ بن صامتؓ سے حدیث منقول ہے اور مذکورہ حدیث حسن ہے۔

۲۰۹۴۔ حضرت ابوسعیدؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سچے ترین
خواب وہ ہوتے ہیں جو سحری کے وقت دیکھے جائیں۔

۲۰۹۴۔ حدثنا قتيبة نا ابن لهيعة عن دراج عن أبي
الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ أَصْدَقُ الرُّؤْيَا بِالْأَسْحَارِ

توضیح: چونکہ یہ وقت صلحاء کی عبادت میں مشغولیت کا ہوتا ہے۔ لہذا ان کا سونے والوں پر بھی اثر پڑتا ہے جو خوابوں کی صداقت پر
شک ہوتا ہے۔ پھر اس وقت میں برکات کا نزول بھی ہوتا ہے۔ لوگوں کی دعائیں بھی قبول کی جاتی ہیں اور اللہ رب العزت آسمان اول پر
آجاتے ہیں۔ واللہ اعلم (مترجم)

۲۰۹۵۔ حضرت عبادہ بن صامتؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم
ﷺ سے ”لهم البشرا في الحياة الدنيا“..... الآیة کے متعلق
پوچھا تو فرمایا یہ اچھے اور نیک خواب ہیں جو مومن دیکھتا ہے یا فرمایا کہ
اسے دکھائے جاتے ہیں۔

۲۰۹۵۔ حدثنا محمد بن بشار نا ابو داود نا
حرب بن شداد و عمران القطان عن يحيى بن
ابى كثير عن ابي سلمة قال نبيئت عن عبادة بن
الصامت قال سألت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ

(۱) سورہ یونس آیت ۶۴۔

(۲) اس آیت کے متعلق مفسرین اور بھی اقوال نقل کرتے ہیں جو کہ کتب تفسیر میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ (مترجم)

الدُّنْيَا قَالَ هِيَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُؤْمِنُ
أَوْ تُرَى لَهُ

حرب اپنی روایت میں عن یحییٰ کی جگہ حدیث یحییٰ کا لفظ بیان کرتے ہیں۔

باب ۱۴۵۱۔ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى

باب ۱۳۵۱۔ آنحضرت ﷺ کا قول کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا
بے شک اس نے مجھے ہی دیکھا۔

باب ۲۰۹۶۔ حَدَّثَنَا بِنْدَارٌ نَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ نَا
سَفِيَانَ عَنِ ابْنِ اسْحَقَ عَنِ أَبِي اسْحَقَ عَنِ ابْنِ
الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى فَإِنَّ
الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي

۲۰۹۶۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے
خواب میں مجھے دیکھا اس نے بلاشک و شبہ میری ہی زیارت کی اس
لیے کہ شیطان میری صورت بنا کر نہیں آسکتا۔

اس باب میں ابو ہریرہ، ابو قتادہ، ابن عباس، ابوبکر، ابو جحیفہ، ابوسعید، جابر، انس اور ابومالک اشجعی سے بھی احادیث نقل کی گئی ہیں
ابومالک اپنے والد سے نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

توضیح: اس حدیث کی تفسیر میں علماء کا اختلاف ہے ان چند اقوال میں سے یہاں صرف راجح اور صحیح قول نقل کرنے پر ہی اکتفاء کیا
جائے گا۔ چنانچہ صحیح قول یہی ہے کہ آنحضرت ﷺ کا خواب میں تشریف لانا اور ان کی زیارت ہونا حقیقی ہے۔ قاضی کہتے ہیں کہ بعض علماء کا
قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کو اس فضیلت کے ساتھ مختص کیا ہے کہ آپ ﷺ کی زیارت صحیح اور سچی ہے۔ نیز شیطان کو
آپ ﷺ کی صورت میں متصور ہونے سے روک دیا، تا کہ حق باطل کے ساتھ مخلط نہ ہو سکے اور وہ خواب میں بھی آنحضرت ﷺ پر جھوٹ نہ
باندھ سکے۔ واللہ اعلم۔ (مترجم)

باب ۱۴۵۲۔ مَا جَاءَ إِذَا رَأَى فِي الْمَنَامِ مَا يَكْرَهُ مَا يَصْنَعُ
باب ۱۳۵۲۔ اگر خواب میں کوئی مکروہ چیز دیکھے تو کیا کرے۔

باب ۲۰۹۷۔ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ نَا اللَّيْثُ عَنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
عَنِ ابْنِ سَلْمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الرُّؤْيَا مِنَ
اللَّهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْئًا
يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُتْ عَنْ يَسَارِهِ تِلْكَ مَرَاتٍ وَلْيَسْتَعِذْ
بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لَا يَبْصُرُهُ

۲۰۹۷۔ حضرت ابوقتادہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اچھے
خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں جب کہ برے خواب شیطان
کی طرف سے ہوتے ہیں۔ لہذا اگر تم میں سے کوئی ایسی چیز دیکھے جسے
وہ ناپسند کرتا ہو یعنی برا خواب دیکھے تو اپنے بائیں طرف تین مرتبہ
تھوکے اور اللہ تعالیٰ سے اس خواب کے شر سے پناہ مانگے۔ تو اسے
نقصان نہیں پہنچے گا۔

اس باب میں عبداللہ بن عمرو، ابوسعید، جابر اور انس سے بھی حدیثیں منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔
توضیح: اس باب میں متعدد روایات آئی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی برا خواب دیکھے تو بائیں طرف تین مرتبہ تھوکے اور 'عود
باللہ من الشیطان الرجیم ومن شرہا' پڑھتا جائے۔ نیز آپ ﷺ نے تھوکنے کے لئے بائیں جانب کو اس لیے مخصوص کیا کہ یہ
شیطان کے آنے اور نجاسات کی جگہ ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۱۴۵۳۔ مَا جَاءَ فِي تَعْبِيرِ الرُّؤْيَا

باب ۱۴۵۳۔ خواب کی تعبیر کے متعلق

۲۰۹۸۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَا أَبُو دَاوُدَ اَنْبَانَا شُعْبَةَ اَخْبَرَنِي يَعْلىٰ بِنَ عَطَاءَ قَالَ سَمِعْتُ وَكَيْعَ بْنَ عُدُسٍ عَنْ أَبِي رَزِينِ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِينَ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ وَهِيَ عَلَى رَجُلٍ طَائِرٍ مَا لَمْ يُحَدِّثْ بِهَا فَإِذَا تَحَدَّثَ بِهَا سَقَطَتْ قَالَ وَ أَحْسِبُهُ قَالَ وَلَا تُحَدِّثْ بِهَا إِلَّا لِنَبِيٍّ أَوْ حَبِيبٍ

۲۰۹۸۔ حضرت ابو رزین عقیلیؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا مؤمن کا خواب نبوت کے چالیس اجزاء میں سے ایک جزء ہے۔ اور یہ کسی شخص کیلئے اس وقت تک پرندے کی مانند ہے جب تک وہ اسے کسی کے سامنے بیان نہ کرے۔ اگر اس نے بیان کر دیا تو گویا کہ وہ اڑ گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا: کہ اپنا خواب کسی عقلمند یا دوست کے سامنے ہی بیان کرو

۲۰۹۹۔ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ نَا شُعْبَةَ عَنْ يَعْلىٰ بِنَ عَطَاءَ عَنْ وَكَيْعَ بْنِ عُدُسٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينِ الْعُقَيْلِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرُّؤْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ وَهِيَ عَلَى رَجُلٍ طَائِرٍ مَا لَمْ يُحَدِّثْ بِهَا وَإِذَا حَدَّثَ بِهَا وَقَعَتْ

۲۰۹۹۔ ابو رزین عقیلیؓ، رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: مسلمان کا خواب نبوت کے چھیالیس اجزاء میں سے ایک ہے اور یہ کسی شخص کے لیے اس وقت تک پرندے کی مانند ہوتا ہے جب تک اسے وہ کسی سے بیان نہیں کرتا۔ اگر بیان کر دیتا ہے تو اس کی بیان کردہ تعبیر واقع ہو جاتی ہے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابو رزین عقیلیؓ کا نام تقیظ بن عامر ہے۔ حماد بن سلمہ، یعلیٰ بن عطاء سے یہ حدیث نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وکیع بن عدس سے روایت ہے جب کہ شعبہ، ابو عوانہ اور ہشیم، یعلیٰ بن عطاء سے اور وہ وکیع بن عدس سے نقل کرتے ہیں۔ توضیح: مذکورہ بالا حدیث میں جس خواب کے کسی کے سامنے بیان کرنے کی ممانعت آئی ہے وہ ایسا خواب ہے کہ جس کے وقوع سے وہ آدمی ڈرتا ہو لیکن نیک اور اچھے خواب بھی کسی عقلمند، دوست اور خیر خواہ آدمی ہی سے بیان کرنے چاہئیں تاکہ وہ اس کی الٹی تعبیر نہ کرے۔ واللہ اعلم (مترجم)

۳۰۰۰۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدِ اللَّهِ السَّلْمِيُّ الْبَصْرِيُّ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ نَا سَعِيدُ بْنُ قَتَادَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّؤْيَا ثَلَاثُ فَرُؤْيَا حَقٌّ وَرُؤْيَا يُحَدِّثُ الرَّجُلَ بِهَا نَفْسَهُ وَرُؤْيَا تُحْزِنُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَمَنْ رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ وَكَانَ يَقُولُ يُعْجِبُنِي الْقَيْدُ وَأَكْرَهُ الْعُلَّ الْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ وَكَانَ يَقُولُ مَنْ رَأَى قَائِيًّا أَنَا هُوَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَتَمَثَّلَ بِي وَكَانَ يَقُولُ لَا تَقْصُ الرُّؤْيَا

۳۰۰۰۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: خواب تین قسم کے ہیں۔ ایک سچا خواب، دوسرا وہ خواب کہ اس قسم کے انسان کے ذہن میں خیالات آتے ہیں اور تیسرا شیطان کی طرف سے عملگن کرنے والا خواب ہے۔ چنانچہ جو برا خواب دیکھے وہ اٹھے اور نماز پڑھے۔ نیز آپ ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے خواب میں زنجیر کا دیکھنا پسند ہے جب کہ طوق کو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے کہ زنجیر دین پر ثابت قدمی کی دلیل ہے۔ آپ ﷺ نے مزید فرمایا کہ اگر کسی نے خواب میں مجھے دیکھا تو وہ میں ہی ہوں کیونکہ شیطان میری صورت میں متصور نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا: کہ خواب صرف کسی عالم یا ناصح کے سامنے ہی بیان کیا

کرو۔

إِلَّا عَلَىٰ عَالِمٍ أَوْ نَاصِحٍ

اس باب میں انسؓ، ابوبکرؓ ام علاءؓ، ابن عمرؓ، عائشہؓ، ابوسعیدؓ، جابرؓ، ابوموسیٰؓ، ابن عباسؓ اور عبداللہ بن عمروؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۳۵۴۔ جو شخص اپنا خواب بیان کرنے میں جھوٹ سے کام لے۔
۳۰۰۱۔ حضرت علیؓ سے منقول ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ وہ رسول کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: جو شخص جھوٹا خواب بیان کرے یعنی درحقیقت اس نے خواب نہ دیکھا ہو لیکن لوگوں سے کہے کہ اس نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے تو قیامت کے دن اسے دو جو کے دانوں کو گرہ لگانے کا حکم دیا جائے گا۔

باب ۱۴۵۷۔ مَا جَاءَ فِي الذِّیْ يَكْذِبُ فِي حُلْمِهِ
۳۰۰۱۔ حدثنا محمود بن غيلان نا ابو احمد
الزبيری نا سفيان عن عبدالاعلی عن ابی
عبد الرحمن عن علي قال اراه عن النبي صلى الله
عليه وسلم قال من كذب في حلمه كلف يوم
القيامة عقدا شعيرة

قتیبہ، ابو حازم سے وہ عبدالاعلیٰ سے وہ ابو عبدالرحمن سلمیٰ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔ اس باب میں ابن عباسؓ، ابو ہریرہؓ ابوشریحؓ، اور واثلہ بن اسقعؓ سے بھی احادیث منقول ہیں یہ حدیث پہلی سے زیادہ صحیح ہے۔

۳۰۰۲۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص جھوٹا خواب بیان کرے گا اسے قیامت کے دن دو جو کے دانوں میں گرہ لگانے کا مکلف کیا جائے گا۔ جو وہ کبھی نہیں کر سکے گا۔

۳۰۰۲۔ حدثنا محمد بن بشار نا عبدالوهاب نا
ايوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى
الله عليه وسلم قال من تحلم كاذبا كلف يوم
القيامة ان يعقد بين شعيرتين ولن يعقد بينهما
یہ حدیث صحیح ہے۔

باب ۱۳۵۵۔ بلا عنوان

باب ۱۴۵۵۔

۳۰۰۳۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں سوراہا تھا کہ ایک دودھ کا پیالہ لایا گیا میں نے اس میں سے پیا اور جو باقی بچا وہ عمر بن خطابؓ کو دے دیا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ اس کی کیا تعبیر ہوئی؟ فرمایا: علم۔

۳۰۰۳۔ حدثنا قتيبة نا الليث عن عقيل عن الزهري
عن حمزة بن عبدالله بن عمر قال سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول بينا انا نائم اذ اتيت
بقدر لبن فشربت منه ثم اعطيت فضلي عمر بن
الخطاب قالوا فما اولته يا رسول الله قال العلم

اس باب میں ابو ہریرہؓ، ابوبکرؓ، ابن عباسؓ، عبداللہ بن سلامؓ، خزیمہؓ، طفیل بن سجرہؓ، ابوامامہؓ اور جابرؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

باب ۱۳۵۱۔ بلا عنوان

باب ۱۴۵۰۔

۳۰۰۴۔ حضرت ابوامامہ بن سہل بن حنیفؓ، بعض صحابہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ

۳۰۰۴۔ حدثنا الحسين بن محمد الحريري البلخي نا
عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن ابی امامة بن سهل

میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان میں سے بعض کی قمیصیں چھاتی تک اور بعض کی اس سے نیچے تک ہیں یعنی ناف یا گھٹنے تک ہیں پھر عمرؓ کو پیش کیا گیا تو ان کی قمیص زمین پر لٹک رہی تھی وہ اسے کھینچ رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا: اس کی کیا تعبیر ہوئی؟ فرمایا: اس کی تعبیر دین ہے۔

بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا أَنَا وَأَيْتُمُ الرَّأْيُ النَّاسِ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ فَمَضَى مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثَّدْيَ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَعَرَضَ عَلَيَّ عُمَرُ وَعَلَيْهِ فَمِيضٌ يَجْرُهُ قَالُوا فَمَا أَوْلَتْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الدِّينُ

عبد بن حمید، یعقوب بن ابراہیم بن سعد سے وہ اپنے والد سے وہ صالح بن کیسان سے وہ زہری سے وہ ابوامامہ سے وہ ابوسعید خدری سے اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی کے ہم معنی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث پہلی سے زیادہ صحیح ہے۔
توضیح: اس حدیث سے حضرت عمرؓ کی ابوبکرؓ پر فضیلت ثابت نہیں ہوتی اس لیے کہ ان کی فضیلت پر اور بہت سی احادیث دلالت کرتی ہیں اس لیے یہاں اس سے سکوت اختیار کیا گیا۔ قمیص کی دین کے ساتھ مناسبت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ ساتر عورت ہے جیسا کہ دین ساتر عیوب وذنوب ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۱۴۵۶۔ مَا جَاءَ فِي رُؤْيَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدِّينِ وَالذَّلْوِ

۳۰۰۵۔ حضرت ابوبکرؓ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے پوچھا: تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا: جی ہاں میں نے دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک ترازو اتارا گیا پھر آپ ﷺ اور ابوبکرؓ کا وزن کیا گیا۔ آپ ﷺ زیادہ وزنی تھے پھر ابوبکرؓ و عمرؓ کا وزن کیا گیا تو ابوبکرؓ بھاری تھے پھر عمرؓ اور عثمانؓ کا وزن کیا گیا تو عمرؓ بھاری تھے۔ پھر ترازو اٹھالیا گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ خواب سننے کے بعد ہم نے آپ ﷺ کے چہرے پر کراہت کے آثار دیکھے۔ (۱) یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۰۰۵۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا الْأَنْصَارِيُّ نَا إِسْحَبُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ رُؤْيَا فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا رَأَيْتُ كَأَنَّ مِيزَانًا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ فَوُزِنَتْ أَنْتَ وَأَبُوبَكْرٍ فَرَجَحْتَ أَنْتَ بِأَبِي بَكْرٍ وَوَزَنَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَرَجَحَ أَبُو بَكْرٍ وَوَزَنَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَحَ عُمَرُ ثُمَّ رَفَعَ الْمِيزَانَ فَرَأَيْنَا الْكِرَاهِيَةَ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۳۰۰۶۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ سے درقہ بن نوفل کے متعلق پوچھا گیا تو خدیجہؓ نے عرض کیا کہ انہوں نے آپ کی رسالت کی تصدیق کی تھی پھر آپ ﷺ کے اعلان سے پہلے وہ انتقال کر گئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: مجھے وہ خواب میں دکھائے گئے تو ان کے بڑے پسر سفید رنگ کے کپڑے تھے اگر وہ دوزخی ہوتے تو کسی اور رنگ کے کپڑے

۳۰۰۶۔ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ نَا يُونُسُ بْنُ بَكْرِ نَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَرَقَةَ فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ إِنَّهُ كَانَ صَلَفَكَ وَ إِنَّهُ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَطْهَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۱) شاید کراہت کی وجہ یہ ہو کہ آپ ﷺ نے سمجھا ہو کہ خلافت عثمانؓ ہی تک ہوگی۔ یہ سوچ بھی وقائع سے مطابقت رکھتی تھی کیونکہ حضرت عثمانؓ کے زمانے تک کی خلافت ہی باحقاق اصحاب ہوئی جب کہ حضرت علیؓ کے زمانے میں اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ نیز یہ خواب اصحاب نبی ﷺ کے مراتب پر بھی دلالت کرتا ہے۔ کہ افضل ترین ابوبکرؓ پھر عمرؓ اور پھر عثمانؓ اور اہل سنت کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ (مترجم)

وَسَلَّمَ أُرَيْتَهُ فِي الْمَنَامِ وَعَلَيْهِ نِيَابٌ بِيَاضٍ وَلَوْ كَانِ هَوْتِ
مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَكَانَ عَلَيْهِ لِبَاسٌ غَيْرُ ذَلِكَ

یہ حدیث غریب ہے اور عثمان بن عبدالرحمن محدثین کے نزدیک قوی نہیں۔

توضیح: ورقہ بن نوفل، ام المومنین حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے جنہوں نے آنحضرت ﷺ کے اعلان نبوت سے پہلے آپ ﷺ کا حال سن کر رسالت کی تصدیق کر دی تھی۔ نیز اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی میت کو سفید کپڑوں میں دیکھنا اس کی عاقبت اچھی ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

۳۰۰۷۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے آنحضرت ﷺ کے ابو بکرؓ و عمرؓ کو خواب میں دیکھنے کے متعلق فرمایا: چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا: میں نے بہت سے لوگوں کو ایک کنوئیں پر جمع ہوتے ہوئے دیکھا پھر ابو بکرؓ نے ایک یادو ڈول پانی کھینچا۔ اور ان کے کھینچنے میں ضعف تھا۔ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کریں گے۔ پھر عمرؓ کھڑے ہوئے اور ڈول نکالا تو وہ بہت بڑا ہو گیا پھر میں نے کسی پہلوان کو ان کی طرح کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا یہاں تک کہ لوگ سیراب ہو کر اپنی آرام گاہوں میں چلے گئے۔

۳۰۰۷۔ حدثنا محمد بن بشار نا ابو عاصم نا ابن جریج ثنی موسی بن عقبہ ثنی سالم بن عبد اللہ عن عبد اللہ بن عمر عن رؤیا النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر فقال رأیت الناس اجتمعوا فنزع أبو بکر ذنوباً أو ذنوبین وفيه ضعف واللہ یغفر لہ ثم قام عمر فنزع فاستحالت عرباً فلم أر عبقریاً یفری فریة حتی صرَب الناس بالعطن

اس باب میں ابو ہریرہؓ سے بھی حدیث منقول ہے یہ حدیث ابن عمرؓ کی روایت سے صحیح غریب ہے۔

توضیح: اس حدیث میں خلافت کی طرف اشارہ ہے کہ ابو بکرؓ کی خلافت دو سال ہے اور یہی ہوا چنانچہ ان کی خلافت دو سال تین ماہ تھی۔ ان کے کھینچنے میں ضعف سے مراد ان کے ایام خلافت میں اضطراب ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کریں گے۔ سے مراد یہ ہے کہ ان کے دور میں اٹھنے والے فتنے انہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ ان کے بعد کسی پہلوان کو..... ان سے مراد یہ ہے کہ حضرت عمرؓ کے دور خلافت میں دین کی تعظیم، اعلاء کلمۃ اللہ، کثرت فتوحات اور بہت سے خزانے وغیرہ فتح ہوں گے اور اس کے بعد لوگ اس طرح سیر ہو گئے کہ اپنے اونٹوں وغیرہ کو بھی پانی پلا دیا۔ اور انہیں آرام سے ان کی جگہوں پر بٹھا دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر خواب میں کسی کو پانی پلاتے دیکھا جائے تو اس کی تعبیر فیضانِ علوم ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

۳۰۰۸۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ، رسول اللہ ﷺ کا ایک خواب نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: میں نے خواب میں ایک سیاہ قام عورت کو دیکھا جس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ مدینہ سے نکلی اور مہیجہ یعنی حنفہ کے مقام پر جا کر ٹھہر گئی۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایک وباء مدینہ میں آئے گی جو حنفہ منتقل ہو جائے گی۔

۳۰۰۸۔ حدثنا محمد بن بشار نا ابو عاصم نا ابن جریج اخبرنی موسی بن عقبہ قال اخبرنی سالم بن عبد اللہ عن عبد اللہ بن عمر عن رؤیا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رأیت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرحت من المدینة حتی قامت بمہیجة وهی الحنفة فأولتها وباء المدینة یُنقل إلى الحنفة

یہ حدیث صحیح غریب ہے۔

توضیح۔ ورقہ بن نوفل، ام المومنین حضرت خدیجہ کے چچا ادبھائی تھے، جنہوں نے آنحضرت ﷺ کے اعلان نبوت سے پہلے آپ ﷺ کا حال سن کر رسالت کی تصدیق کر دی تھی۔ نیز اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی میت کو سفید کپڑوں میں دیکھنا اس کی عاقبت اچھی ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

۳۰۰۹۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: آخری زمانے میں مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا۔ اور سب سے سچا خواب اس کا ہوتا ہے جو خود سچا ہوتا ہے۔ نیز خواب تین قسم کے ہوتے ہیں۔ اچھا خواب جو اللہ کی طرف سے بشارت ہوتا ہے۔ دوسرا وہ جس چیز کے متعلق انسان سوچتا رہتا ہے اور تیسرا شیطان کی طرف سے غم میں ڈالنے کے لیے۔ اور اگر کوئی بُرا خواب دیکھے تو وہ اسے کسی سے بیان نہ کرے اور چاہے کہ اٹھے اور نماز پڑھے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں زنجیر دیکھنا پسند ہے اور طوق کا دیکھنا ناپسند کرتا ہوں اس لیے کہ زنجیر دیکھنے کی تعبیر دین پر ثابت قدم رہنا ہے اور آنحضرت ﷺ نے فرمایا: مومن کا خواب نبوت کے چھاپیس اجزاء میں سے ایک جزء ہے۔

۳۰۰۹۔ حدثنا الحسن بن علی الخلال نا عبد الرزاق نا معمر عن ايوب عن ابن سيرين عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب واصدقهم رؤيا اصدقهم حديثنا والرؤيا ثلث الحسنه بشرى من الله والرؤيا يحدث الرجل بها نفسه والرؤيا تحزين من الشيطان فاذا راى احدكم رؤيا يكرهها فلا يحدث بها احدا وليقم فليصل قال ابو هريرة يعجبني القيد واكره الغل القيد ثبات في الدين قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن جزء من ستة واربعين جزءا من النبوة

عبدالوہاب ثقفی یہ حدیث ایوب سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں۔ جب کہ حماد بن زید سے ایوب ہی سے موقوفاً نقل کرتے ہیں۔

۳۰۱۰۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں نے خواب میں اپنے دونوں ہاتھوں میں سونے کے دو ٹکٹے دیکھے۔ مجھے انہوں نے فکر میں ڈال دیا۔ پھر مجھ پر وحی کی گئی۔ کہ ان دونوں کو پھونک ماروں۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا تو یہ دونوں اڑ گئے۔ پھر میں نے ان کی تعبیر کی کہ میرے بعد دو کذاب نکلیں گے ایک کا نام میلہ ہوگا جو پیام سے نکلے گا اور دوسرا عنسی جو صنعاء سے نکلے گا۔ یہ حدیث صحیح غریب ہے۔

۳۰۱۰۔ حدثنا ابراهيم ابن سعيد الجوهري البغدادي نا ابو اليمان عن شعيب وهو ابن ابي حمزة عن ابن ابي حسين عن نافع بن جبير عن ابن عباس عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت في المنام كادا في يدي سوارين من ذهب فهمني شأنهما فاوحى الي ان انفخهما فنفختهما فطارا فاوثلتهما كاذبين يخرجان من بعدي يقال لاحدهما مسلمة صاحب البمامة والعنسي صاحب صنعاء

توضیح: یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مرد کا اپنے جسم پر ممنوع چیزوں کا زیور دیکھنے کی تعبیر کسی کا جھوٹا باندھنا اور تہمت لگانا جب کہ اس تہمت وغیرہ سے بچنا ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

۳۰۱۱۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک شخص آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے

۳۰۱۱۔ حدثنا الحسين بن محمد نا عبد الرزاق نا عمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن

عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ طُلَّةً يُنْطَفُ مِنْهَا السَّمْنُ وَالْعَسَلُ وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَسْتَقُونَ بِأَيْدِيهِمْ فَالْمُسْتَقِلُّ وَالْمُسْتَقِيلُ وَرَأَيْتُ سَبِيًّا وَاصِلًا مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فَارَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَتْ بِهِ فَعَلَوَتْ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ بَعْدَكَ فَعَلَا ثُمَّ أَخَذَهُ رَجُلٌ بَعْدَهُ فَعَلَا ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ فَقَطَّعَ بِهِ ثُمَّ وَصَلَ لَهُ فَعَلَا بِهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَيُّ رَسُولَ اللَّهِ يَا بِي أَنْتَ وَ أُمِّي وَاللَّهِ لَتَدْعُنِي أَعْبُرَهَا فَقَالَ أَعْبُرَهَا فَقَالَ أَمَا الطُّلَّةُ فَطُلَّةُ الْإِسْلَامِ وَأَمَا مَا يُنْطَفُ مِنَ السَّمْنِ وَالْعَسَلِ فَهَذَا الْقُرْآنُ لِيُنْتَهَ وَحَلَاوَتُهُ وَأَمَا الْمُسْتَقِيلُ وَالْمُسْتَقِلُّ فَهُوَ الْمُسْتَقِيرُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْمُسْتَقِيلُ مِنْهُ وَأَمَا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فَهُوَ الْحَقُّ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ فَأَخَذَتْ بِهِ فَعَلَيْكَ اللَّهُ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ بَعْدَكَ رَجُلٌ آخَرُ فَيَعْلُوَا بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ بَعْدَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَيَعْلُوَا بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ آخَرُ فَيَنْقَطِعُ بِهِ ثُمَّ يُوَصَّلُ فَيَعْلُوَا بِهِ أَيُّ رَسُولَ اللَّهِ لَتَحْدِثَنِي أَصَبْتُ أَمْ أَخْطَأْتُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَبْتُ بَعْضًا وَأَخْطَأْتُ بَعْضًا قَالَ أَقْسَمْتُ يَا بِي أَنْتَ وَ أُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ لَتَحْبِرُنِي مَا الَّذِي أَخْطَأْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْسِمُ

یہ حدیث صحیح ہے۔

آج کی رات خواب میں ایک بدلی دیکھی جس سے گھی اور شہد نیک رہا ہے۔ اور لوگ اس سے ہاتھوں میں لے کر پنی رہے ہیں۔ ان میں زیادہ پینے والے بھی ہیں اور کم پینے والے بھی پھر میں نے آسمان سے زمین تک ننگتی ہوئی ایک رسی دیکھی۔ یا رسول اللہ! آپ نے اسے پکڑا اور اوپر چڑھ گئے پھر آپ ﷺ کے بعد ایک اور آدمی نے رسی پکڑی اور وہ بھی چڑھ گیا۔ پھر ایک اور شخص بھی اسی طرح اوپر چڑھا۔ لیکن جب اس کے بعد والا شخص چڑھنے لگا تو وہ ٹوٹ گئی لیکن اسے دوبارہ جوڑ دیا گیا اور اس طرح وہ شخص بھی چڑھ گیا۔ حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان ہوں میں آپ ﷺ کو قسم دیتا ہوں کہ اس کی تعبیر مجھے بیان کر لیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اچھا کرو کہنے لگے۔ وہ بدلی اسلام کی بدلی ہے۔ اور اس میں سے گھی اور شہد کے ٹپکنے کی تعبیر قرآن کریم ہے جس کی نرمی اور مٹھاس گھی اور شہد سے مناسبت رکھتی ہے۔ زیادہ پینے والے اور تھوڑے پینے والے بھی قرآن کے زیادہ اور کم سیکھنے والے ہیں۔ اور وہ رسی حق ہے جس پر آپ ﷺ ہیں چنانچہ آپ ﷺ نے حق کو پکڑا اور چڑھ گئے یعنی اس پر ثابت قدم رہتے ہوئے مقبوض ہوں گے پھر آپ کے بعد آنے والا خلیفہ بھی اسی طرح حق کو مضبوطی سے تھامے رہے گا اور وہ بھی اعلیٰ علیین کی طرف چڑھ جائے گا۔ پھر دوسرا خلیفہ بھی اسی طرح ہوگا لیکن تیسرے شخص کے دور خلافت میں کچھ رخ نہ آئے گا۔ لیکن وہ ختم ہو جائے گا۔ اور وہ بھی اوپر چڑھ جائے گا۔ یعنی اپنے ساتھیوں کی اتباع میں اعلیٰ علیین کی طرف چلا جائے گا۔ یا رسول اللہ! اب بتائیے کہ میں نے صحیح تعبیر کی یا غلط؟ آپ ﷺ نے فرمایا: کچھ صحیح ہے اور کچھ غلط بھی۔ ابو بکرؓ نے عرض کیا: میرے ماں باپ آپ پر خدا ہوں میں آپ ﷺ کو قسم دیتا ہوں کہ میری غلطی کی اصلاح کیجئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: قسم مت دو۔

توضیح: اس خواب کی تعبیر بیان کرنے میں حضرت ابو بکر صدیقؓ سے کیا غلطی ہوئی اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ چنانچہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ انہوں نے تعبیر پوری نہیں کی وہ اس طرح کہ اس بدلی میں سے شہد اور گھی کا نپکنا قرآن وحدیث دونوں پر دلالت کرتا ہے جب کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کا رسول اللہ ﷺ کو قسم دینا اس میں غلطی تھی۔ نیز بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ تعبیر خود بیان کرنا غلطی تھی اس لیے کہ آنحضرت ﷺ اسے بیان کرتے تو اس سے علم یقین حاصل ہوتا واللہ اعلم (مترجم)

۳۰۱۲۔ حدثنا محمد بن بشار نا وهب بن يزيد عن ابيه عن ابي رجاء عن سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى بنا الصبح اقبل على الناس بوجهه وقال هل راي احد منكم رؤيا الليلة

۳۰۱۳۔ حضرت سمرة بن جندب کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب فجر کی نماز پڑھ چکے تو ہم لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر پوچھتے کہ کیا کسی نے آج رات کوئی خواب دیکھا ہے۔ (۱)

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور عوف اور جریر بن حازم سے بھی بواسطہ ابورجاء منقول ہے وہ سمرة سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں اس حدیث میں طویل قصہ ہے۔ بندار بھی وہب بن جریر سے یہی حدیث مختصر نقل کرتے ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 أَبْوَابُ الشَّهَادَاتِ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ
 صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 گواہوں کے متعلق آنحضرت ﷺ سے
 منقول احادیث کے ابواب

توضیح: شہادت کے ابواب کے شروع میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے متعلق چند ضروری احکام اور بعض ہدایات بیان کی جائیں ضابطہ شہادت (گواہی) کے متعلق قرآن حکیم، سنت نبوی ﷺ اور قواعد میں ہمہ جہت میں مستقل تفصیل موجود ہے جسے یہاں اختصار کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔

اسلام میں گواہ کا عادل ہونا اہم ترین چیز ہے کیونکہ شہادت ایک ایسا وسیلہ ہے جو عدالت کو انصاف و عدل تک پہنچنے میں فیصلہ کن مدد دیتا ہے چنانچہ ضروری ہے کہ گواہ مذہب، اخلاق اور قانون کے معیار پر صحیح اترتا ہو۔ اس کی گواہی سچی اور انصاف پر مبنی ہو۔ بیزاگر وہ واقعہ کو سورج کی طرف صاف طور پر دیکھ لے تو گواہی دے وگرنہ نہیں۔

قرآن حکیم کا حکم ہے کہ شہادت صرف اللہ ہی کے لیے دی جاوے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ”کونوا قوامین بالقسط شهداء لله“ یعنی انصاف پر قائم رہ کر صرف اللہ ہی کے لیے گواہی دو“ اس کے علاوہ قرآن کریم نے شہادت کی صداقت پر ایسا زور دیا ہے کہ جس کی نظیر دنیا کے کسی قانون میں نہیں ملتی۔ چنانچہ حکم ربانی ہے کہ شہادت دو تو انصاف کے ساتھ دو خواہ یہ تمہاری ذات، والدین اور عزیز واقارب کے خلاف ہی جائے۔ نیز انصاف کے معاملے میں خواہشات نفسانی کی اتباع نہ کرو خواہ دوسرا فریق سرمایہ دار ہو یا غریب و محتاج، پھر یہ بھی ضروری ہے کہ گواہ تعداد میں قانون کے مطابق ہوں اور ہر گواہ عادل ہونے کے ساتھ ساتھ عقل و یادداشت کی صفات سے بھی متصف ہو۔

چنانچہ زنا کی تہمت ثابت کرنے کے لیے چار مرد گواہوں کی گواہی ضروری ہے۔ اسی طرح قصاص، قتل اور عقوبات (فوجداری مقدمات) میں دو مرد گواہ اور عام شہری تو انین کے مقدمات میں دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی لازمی ہے۔

(۱) آپ ﷺ یہ سوال اس لیے کیا کرتے تھے تاکہ اگر کوئی خواب بیان کرے تو آپ اس کی تعبیر بیان کریں۔ واللہ اعلم (مترجم)

یہاں یہ ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ گواہ پیش کرنا مدعی کا حق ہے ورنہ مدعی علیہ قسم کے ذریعے خود کو بری کرنے کا حق رکھتا ہے لیکن اگر بعد میں قسم جھوٹی ثابت ہوگی تو یہ کا عدم ہو جائے گی۔ نیز حلف (قسم) کا منہی کے حکم سے دی جائے گی۔ گواہی کے متعلق جن چیزوں کی رعایت رکھنے کا حکم دیا گیا ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں۔

جھوٹی شہادت نہ دی جائے۔ کیونکہ یہ ناقابل قبول اور قابل سزا ہے۔ گناہ کبیرہ کے مرتکب اور فاسق کی گواہی ناقابل اعتبار ہے۔ سزا یافتہ دروغ گوئی میں مشہور، قانون کی خلاف ورزی کرنے والے مجرم، احکام اسلام کے مجرم، قاتل، خائن، تہمت یا کسی اور وجہ سے مجروح شدہ شخص کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ البتہ فاسق کی فاسق کے مقدمے میں یا ایسے فاسق کی گواہی جو ذاتی وقار کی وجہ سے سچی گواہی دے سکے بعض حالات میں قابل قبول ہوتی ہے لیکن باپ، بیٹے، میاں بیوی، غلام اور آقا کی ایک دوسرے کے حق میں گواہی غیر معتبر ہے۔ پھر بنیادی طور پر یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہئے کہ آدمی گواہی دینے کا اہل اسی وقت ہوگا جب کہ اس میں تین شرطیں پائی جاتی ہوں۔ (۱) کہ مسلمان ہو (۲) کہ وہ عاقل ہو (۳) کہ وہ بالغ ہو واللہ اعلم (مترجم)

۳۰۱۳۔ حدثنا الانصاری نا معن نا مالک عن عبد اللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابیہ عن عبد اللہ بن عمرو بن عثمان عن ابی عمرۃ الانصاری عن زید بن خالد الجھنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال آلا اخیبرکم بخیر الشہداء الذی یتئی بشہادتیہ قبل ان یتسألھا

۳۰۱۳۔ حضرت زید بن خالد جھنی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کیا میں تمہیں بہترین گواہوں کے متعلق نہ بتاؤں! وہ ایسے گواہ ہیں جو سوال سے پہلے گواہی دیتے ہیں۔ (۱)

احمد بن حسن، عبد اللہ بن مسلمہ سے اور وہ مالک سے یہی حدیث نقل کرتے ہیں۔ ابن ابی عمرہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ اکثر راوی انہیں عبد الرحمن بن ابی عمرہ کہتے ہیں اور مالک کے یہ حدیث نقل کرنے میں اختلاف کرتے ہیں چنانچہ بعض ابی عمرہ سے اور بعض ابن ابی عمرہ سے روایت کرتے ہیں ان کا نام عبد الرحمن بن ابی عمرہ انصاری ہے۔ اور یہی ہمارے نزدیک صحیح ہے۔ اس لیے کہ مالک کے علاوہ بھی کئی راوی عبد الرحمن بن ابی عمرہ انصاری ہی کہتے ہیں۔ وہ زید بن خالد سے اس کے علاوہ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ وہ بھی صحیح ہیں۔ نیز ابی عمرہ، زید بن خالد جھنی کے سولی ہیں ان کی ایک حدیث یہ بھی ہے جس میں غلول کا ذکر ہے یہ ابی عمرہ سے منقول ہے۔

۳۰۱۴۔ حدثنا بشر بن آدم بن بنت اذھر السمان نا زید الحباب ثنی ابی بن عباس بن سهل بن سعد قال ثنی ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم ابی عمرۃ ثنی زید بن خالد الجھنی انه سمع رسول

۳۰۱۴۔ حضرت زید بن خالد جھنی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بہترین گواہ وہ ہیں جو گواہی طلب کرنے سے پہلے گواہی دیتے ہیں۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔

(۱) اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے متعلق صاحب حق کو بھی علم نہ ہو کہ یہ اس کے حق کے اثبات کا گواہ ہے۔ چنانچہ وہ اسے طلب نہیں کر سکے گا۔ لہذا اسے طلب کیے بغیر اس کا گواہ دینا موجب ثواب ہے۔ اس طرح اس حدیث اور ایک اور حدیث جو پیچھے گزر چکی ہے کہ "ان سے گواہی طلب کیے بغیر گواہی دینے کے لیے آجائیں گے" میں تعارض نہیں رہتا۔ نیز بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حدیث جھوٹے گواہوں پر محمول ہے جب کہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ حدیث باب سے مراد امانت اور ودیعت کی گواہی ہے کیونکہ اسے کوئی نہیں جانتا پھر بعض حضرات کہتے ہیں کہ حدیث باب خاص اور دوسری حدیث عام ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَيْرُ الشُّهَدَاءِ مَنْ
أَدَّى شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا

۳۰۱۵- حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: خانن مرد
وغورت کی۔ ایہی، یا کسی ایسے مرد وغورت کی گواہی جن پر حد جاری
ہو چکی ہو، یا کسی دشمن کی گواہی یا ایسے شخص کی گواہی جو ایک مرتبہ جھوٹا
ثابت ہو چکا ہے یا کسی کے ملازم کی اس کے حق میں گواہی اور ولاء یا
قرابت میں تہمت زدہ کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ (۱) یعنی ان
تمام مذکورہ اشخاص کی گواہی قابل قبول نہیں۔

۳۰۱۵- حدثنا قتيبة بن مروان بن معاوية الفزاري
عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة
عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائفة ولا مجلود
حدًا ولا مجلودة ولا ذي عيرٍ لاجبيه ولا مجرب
شهادة ولا القانيع أهل البيت لهم ولا ظنين في ولاء
ولا قرابة قال الفزاري القانيع التابع

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف یزید بن زیاد دمشقی کی روایت سے جانتے ہیں اور یہ ضعیف ہیں۔ پھر یہ حدیث ان کے علاوہ
کوئی راوی بھی زہری سے نقل نہیں کرتے۔ اس باب میں عبداللہ بن عمروؓ سے بھی حدیث منقول ہے ہمیں اس حدیث سے مراد کا علم نہیں اور
پھر میرے نزدیک اس کی سند بھی صحیح نہیں۔ علماء کا عمل اس طرح ہے کہ قریب کی قریب کے لیے شہادت جائز ہے۔ ہاں باپ کی بیٹی کے
لیے شہادت میں اختلاف ہے اسی طرح بیٹی کی باپ کے لیے۔ چنانچہ اکثر علماء ان دونوں کی ایک دوسرے کے لیے شہادت کو ناجائز قرار
دیتے ہیں۔ لیکن بعض اہل علم اس کی اجازت دیتے ہیں بشرطیکہ وہ دونوں عدل ہوں۔ پھر بھائی کی بھائی کے لیے شہادت اور قرابت
داروں کی آپس میں شہادت کے متعلق علماء میں کوئی اختلاف نہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ کسی دشمن کی کسی پر شہادت کسی صورت بھی جائز
نہیں اگرچہ گواہ عدل ہی کیوں نہ ہو۔ ان کی دلیل عبدالرحمن سے منقول حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا: صاحب عداوت کی گواہی جائز نہیں۔
حدیث باب سے بھی یہی مراد ہے کہ دشمن کی گواہی ناقابل قبول ہے۔

۳۰۱۶- حضرت ابو بکرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کیا میں
تمہیں سب سے بڑے گناہ کے متعلق نہ بتاؤں؟ عرض کیا گیا: کیوں
نہیں یا رسول اللہ ﷺ؟ آپ نے فرمایا: اللہ کے ساتھ شرک کرنا،
والدین کو ناراض کرنا اور جھوٹی گواہی یا فرمایا جھوٹی بات کہنا راوی کہتے
ہیں کہ آنحضرت ﷺ بار بار ”شہادۃ زور“ کو دہرانے لگے یہاں تک کہ
ہم کہنے لگے کاش آپ ﷺ چپ ہو جائیں۔

۳۰۱۶- حدثنا حميد بن مسعدة نا بشر بن
المفضل عن الحريري عن عبد الرحمن بن أبي
بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا
أخبركم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال
الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور
أو قول الزور فما زال رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقولها حتى قلنا لئنه سكت

یہ حدیث صحیح ہے۔

۳۰۱۷- حضرت اسبن بن خرم کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک مرتبہ

۳۰۱۷- حدثنا احمد بن منيع نا مروان بن معاوية

(۱) یعنی جس کا قریبی نہیں تھا لیکن اس سے قرابت ظاہر کی یا کوئی غلام اس کا آزاد کیا ہوا نہیں تھا۔ اسے اپنا آزاد کردہ کہے اور اس جھوٹ کے ساتھ مشہور ہو چکا ہو
اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ (مترجم)

خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا: اے لوگو! جھوٹی گواہی، اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر کر دی گئی ہے۔ پھر آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھی۔ "فَاتَّبِعُوا....." آیت یعنی بتوں کی ناپاکی سے بچو اور جھوٹی بات سے پرہیز اور اجتناب کرو۔ (یعنی اس کے قریب بھی مت جاؤ)۔

عَنْ سَفِيَانَ بْنِ زِيَادٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ فَاتِكِ بْنِ فَصَالَةَ عَنْ أَيْمَانَ بْنِ حُرَيْمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ حَظِيظًا فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ عُدَلْتُ شَهَادَةَ الزُّورِ إِشْرَاكَ بِاللَّهِ ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْتَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

اس حدیث کو ہم صرف سفیان بن زیاد کی روایت سے جانتے ہیں۔ اور ان سے نقل کرنے میں اختلاف ہے۔ پھر ایمن بن حریم کا مجھے علم نہیں کہ ان کا آنحضرت ﷺ سے سماع ثابت ہے یا نہیں۔

۳۰۱۸۔ حضرت عمران بن حصینؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ: میرے زمانے کے لوگ سب سے بہتر ہیں پھر ان کے بعد کے زمانے والے پھر ان کے بعد والے اور پھر ان کے بعد والے۔ یعنی تین زمانوں کے متعلق فرمایا: پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو بزرگی کو پسند کریں گے اور اسی کو دوست رکھیں گے۔ (یعنی)

۳۰۱۸۔ حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى نَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَدْرِكٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثَلَاثًا ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ مِنْ بَعْدِهِمْ يَتَسَمَّنُونَ وَيُحِبُّونَ السَّمْنَ يُعْطُونَ الشَّهَادَةَ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلُوهَا

بڑے کھلوانا پسند کریں گے) اور طلب کیے بغیر گواہی دینے کے لیے موجود ہوں گے۔

یہ حدیث اعمش کی علی بن مدرک کی روایت سے غریب ہے۔ اعمش اس سند سے روایت کرتے ہیں کہ اعمش، ہلال بن یساف سے اور وہ عمران بن حصینؓ سے نقل کرتے ہیں۔ چنانچہ ابوعمار سے وکیع سے وہ اعمش سے وہ ہلال بن یساف سے وہ عمران بن حصینؓ سے اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی کی طرح نقل کرتے ہیں۔ یہ محمد بن فضیل کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔ بعض علماء کے نزدیک اس حدیث سے وہ گواہ مراد ہیں جو بغیر سوال کے جھوٹی گواہی دینے کیلئے تیار ہوں گے۔ محدثین کہتے ہیں اس کا بیان عمر بن خطابؓ کی حدیث میں ہے۔ کہ سب زمانوں میں سے بہتر میرے زمانے کے لوگ ہیں..... پھر جھوٹ ظاہر ہوگا یہاں تک کہ لوگ گواہی طلب کیے بغیر گواہی دیں گے۔ قسم کھلانے سے پہلے قسم کھائیں گے۔ جبکہ حدیث باب میں وہ گواہ مراد ہیں جو صاحب حق کے طلب کرنے پر فوراً گواہی دینے کیلئے تیار ہوں۔ یہ نہیں کہ بغیر بلائے شہادت دینے کے لیے آجائیں۔ یہ تطبیق بعض اہل علم بیان کرتے ہیں۔ (۱)

الحمد للہ جامع ترمذی شریف کی اوّل جلد مکمل ہوئی

(۱) اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے یعنی حدیث ۲۱۱۶ میں (مترجم)

سیرۃ اوسوآخ ردو الاشاعت کراچی کی مطبوعہ مستند کتب

سیرۃ علیہ آردو اعلیٰ ۶ جلد (کپیورٹ)	سیرۃ النبی پر نہایت منقش و مستند تصنیف	نام برحمان الدین حسینی
سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ۲ جلد	پانے کو ضرورت پر ایک شاندار علمی تصنیف مستشرقین کے جوہرات کے ہر لہو	عبدالمجید شہنشاہی، زبیر سیدمان ندوی
سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ۲ جلد (کپیورٹ)	عشق میں سرشار ہو کر لکھی جانے والی مستند کتاب	قاسمی محمد سیدمان ندوی
مخبرین النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انسانی حقوق	خطبہ حجۃ الوداع سے استشاد اور مستشرقین کے احوال و مذاہب کے ساتھ	ڈاکٹر حافظ محمد عثمانی
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی	دعوت و تبلیغ سے سرشار و حضور کی سیاست اور ملی تعلیم	ڈاکٹر محمد عیسیٰ عیسیٰ
سب سائل ترمذی	حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عبادت مبارک کی تفصیل پر مستند کتاب	شیخ ابراہیم حضرت مولانا محمد زکریا
عبد نبوت کی برگزیدہ خواتین	اس جہد کی برگزیدہ خواتین کے حالات و کارناموں پر مشتمل	احمد خلیس احمد
دور تابغین کی نامور خواتین	تاہمین کے دور کی خواتین
جنت کی خوشخبری پاتے والی خواتین	ان خواتین کا ذکر جنہوں نے حضور کی زبان مبارک سے خوشخبری پائی
ازواج مطہرات	حضور کی کرامت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا مستند مجموعہ	ڈاکٹر حافظ صفائی میاں قادری
ازواج الانبیاء	انبیاء و مطہرات اسلام کی ازواج کے حالات پر پہلی کتاب	احمد خلیل حمید
ازواج صحابہ کرام	صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے حالات و کارنامے	عبدالعزیز الشاہودی
انسو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم	ہر شعبہ زندگی میں آنحضرت کا اسوہ حسنہ آسان زبان میں	ڈاکٹر عبدالحق مدنی
انسو صحابہ ۲ جلد اول و دوم	حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم یافتہ حضرات صحابہ کرام کا اسوہ	شاہ مسین الدین ندوی
انسو صحابیات مع سیر الصحابیات	صحابیات کے حالات اور اسوہ پر ایک شاندار علمی کتاب
حیاۃ الصحابہ ۲ جلد اول	صحابہ کرام کی زندگی کے مستند حالات و مطالعہ کے لئے راہ نمائے کتاب	مولانا محمد یوسف کلاہوڑی
طبیب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم	حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات طب پر پہلی کتاب	امام ابن تیمیہ
نور الطبیب فی ذکر النبی الطیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور علمی تفصیلات پر جامع و مفید کتاب	مولانا محمد شرف علی تعالوی
سیرۃ قائم الانبیاء	پہلے سے لے کر آسان زبان میں مستند سیرت، ملازمین و داخل بعباد	مولانا محمد شفیع
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم	مشہور کتاب سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے سے لے کر آسان کتاب	سید سلیمان ندوی
سیرۃ معلقائے راشدین	مختصر انداز میں ایک جامع کتاب	مولانا عبدالحق کھٹوٹی
الفساروق	حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حالات اور کارناموں پر مفقود کتاب	علاشہ شہنشاہی
حضرت عثمان ذوالنورین	حضرت عثمان رضی اللہ عنہ	مولانا محمد عثمانی
سفر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم	مختصر و آسان زبان میں حضرت شاہ ولی اللہ چیلے کی پیاری صحابہ اذیباں	ڈاکٹر حفصانی زبیر
تاریخ اسلام ۲ جلد اول	آغاز اسلام سے آخری عہد کے زوال تک کی مستند تاریخ	شاہد حسین الدین ندوی
اختر الاحیاء	ہندو پاک کے مشاہیر صوفیہ کا مستند تذکرہ	شیخ عبدالحق محدث دہلوی
حالات مہضیفین ورس نظامی	پورا درس نظامی تصنیف کرنے والے ائمہ و علمائے مستند حالات	مولانا محمد صیف گنگوہی
نقش حیات	مولانا حسین احمد مدنی کی خود نوشت سوانح	مولانا حسین احمد مدنی
جہنم کے پروانہ یافتہ	حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آرتیں پہنچانے والے ملعون کفار کے مکتا	احمد خلیل حمید

ناشر: دار الاشاعت، اردو بازار ایم اے جناح روڈ، لاہور، پاکستان (۰۱۱) ۳۶۱۱۸۶۱ (۰۲۱) ۳۶۱۱۸۶۱
 دیگر اداروں کی کتب دستیاب نہیں ہیں مگر ہمیں کا انتظام ہے / فرسٹ کلاس قیمت ڈالیں اور ہمیں کتب ارسال کریں

تفاسیر و علوم قرآنی اور حدیث نبوی سنہ ۱۴۲۸ھ
دارالاشاعت کی مطبوعہ مستند کتب

تفاسیر و علوم قرآنی

تفسیر عثمانی جہانگیر خاں مولانا عبدالحق صاحب دہلی	تفسیر عثمانی جہانگیر خاں مولانا عبدالحق صاحب دہلی
تفسیر مظہری اردو	۱۱ جلدیں
قصص القرآن	۳ حصے ۲ جلدیں
تاریخ ارض القرآن	مولانا حفص الرحمن سیوہاوی
قرآن اور ماہیت	علاء الدین عثمان بیگ
قرآن سائنس اور تربیاتی تمدن	انجینئر شعیب میر دانش
لغات القرآن	ڈاکٹر محبت انیس قادری
قاموس القرآن	مولانا عبدالرشید نعمانی
قاموس الفاظ القرآن مکرمہ	ڈاکٹر عبدالرشید نعمانی
قاموس الفاظ القرآن مکرمہ (دوسری جلد)	ڈاکٹر عبدالرشید نعمانی
ملک الیسان فی مناقب القرآن	حسان بیگم
علم قرآنی	مولانا شرف علی نقوی
قرآن کی آیتیں	مولانا امجد علی صاحب

حدیث

تفسیر عثمانی جہانگیر خاں مولانا عبدالحق صاحب دہلی	تفسیر عثمانی جہانگیر خاں مولانا عبدالحق صاحب دہلی
جامع ترمذی	۱۲ جلدیں
سنن ابوداؤد شریف	۱۲ جلدیں
سنن نسائی	۱۲ جلدیں
معارف حدیث ترجمہ و شرح	۳ جلدیں
مشکوٰۃ شریف مترجم مع عنوانات	۳ جلدیں
ریاض الصالحین مترجم	۲ جلدیں
الادب المفرد کامل مع ترجمہ و شرح	۲ جلدیں
مناہج حق جدیدہ شرح مشکوٰۃ شریف	۲ جلدیں
تقریر بخاری شریف	۲ جلدیں
تجربہ بخاری شریف	۱ جلد
تفہیم الایمان	۲ جلدیں
شرح الزہد نووی	۲ جلدیں
قصص احمدیہ	۲ جلدیں

ناشر:- دارالاشاعت اردو بازار کراچی فون ۲۶۶۳۱۸۶۱-۲۶۶۳۲۶۸-۲۶۶۳۲۶۹